

مقبول عام

کتاب ہر شے
کتاب ہر شے زیور

مرتب

علامہ عالم فقیری

ارشاد پیشہ

اردو بازار لاہور

مقبول عام

سنی کتب خانہ مقبول عام
کامل

حصہ اول تا گیارہ

ترتیب و تالیف

علامہ عالم فقری

ناشر:-

کتب خانہ مقبول عام راجپوت مارکیٹ اردو بازار لاہور

شاکسٹ:- ارشد پبلشرز اردو بازار لاہور

marfat.com

Marfat.com

کمپوزنگ اور عربی کتابت کے جملہ حقوق محفوظ

نام کتاب..... **مسائل**..... مقبول عام سنی بہشتی زیور

موضوع..... مسائل کا مجموعہ

مؤلف..... علامہ عالم فقیری

باہتمام..... محمد عمران خان

طابع..... **قاضی آرٹ پریس راجپوت مارکیٹ اردو بازار لاہور**

ناشر:-..... کتب خانہ مقبول عام راجپوت مارکیٹ اردو بازار لاہور

ساکسٹ:-..... ارشاد پبلشرز اردو بازار لاہور

قیمت..... 210 روپے

سنی بہشتی زیور

نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان	صفحہ
				حصہ اول عقائد	
56	میزان	22			
57	حساب	23			
59	پل صراط	24	1	ذات الہی	
60	حوض کوثر	25	5	نبوت	
61	دیدار الہی	26	11	آسمانی کتب	
63	جنت	27	14	فرشتے	
66	دوزخ	28	17	جنات	
69	اعراف	29	20	تقدیر	
70	ذبح موت	30	23	موت	
71	ایمان و کفر	31	25	قبر یعنی عالم برزخ	
74	صحابہ کرام رضی اللہ عنہم	32	29	قیامت	
77	ولدیت	33	34	حضرت امام مہدی	
			37	ظہور و حال	
	حصہ دوم نماز		39	نزول حضرت عیسیٰ	
80	شرعی اصطلاحات	1	42	یا جوج ماجوج	
80	۱۔ فرض		43	آسمان سے دھویں کا آنا	
80	۲۔ واجب		44	نصف یعنی زمین کا دھنس جانا	
80	۳۔ سنت		44	مغرب سے طلوع آفتاب	
81	(الف) سنت موکدہ		45	دابۃ الارض کا خروج	
81	(ب) سنت غیر موکدہ		46	قیام قیامت	
81	۴۔ مستحب		48	روزہ محشر	
81			53	شفاعت	
81	۶۔ مباح		55	اعمال النامہ	

نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان	صفحہ
	۷-۶ام	81		۲- احادیث	102
	۸- مکروہ تحریمی	82		۳- ارکان تیمم	103
	۹- اساءت	82		۴- تیمم کی سنتیں	103
	۱۰- مکروہ تحریمی	82		۵- شرائط تیمم	103
	۱۱- خلاف اولیٰ	82		۶- تیمم کرنے کا طریقہ	104
2	وضو	82		۷- تیمم کرنے کی نیت	104
	۱- احادیث	82		۸- تیمم کن اشیاء سے جائز ہے	104
	۲- وضو کا مسنون طریقہ	84		۹- کن حضرات کو تیمم کرنا جائز ہے	104
	۳- وضو کے فرائض	85		۱۰- تیمم توڑنے والی چیزیں	105
	۴- وضو کی سنتیں	87		۱۱- تیمم سے جو عبادت کی جا	105
	۵- وضو کے مستحبات	87		۱۲- شرعی مسائل	106
	۶- مکروہ وہیات وضو	89	5	احکام نفاس	110
	۷- وضو کرنے کی صورتیں	90		حیض و نفاس کے شرعی مسائل	112
	۸- وضو توڑنے والی چیزیں	90	6	احکام حیض	115
	۹- وضو نہ ٹوٹنے والی صورتیں	91		۱- فرمان الہی	115
3	غسل	92		۲- احادیث	116
	۱- احادیث	92		۳- شرعی مسائل	118
	۲- اقسام غسل	94	7	استحاضہ کے احکام	121
	۳- غسل کا مسنون طریقہ	95		مسائل استحاضہ	121
	۴- فرائض غسل	96	8	احکام معذور	122
	۵- غسل کی سنتیں	97	9	مسائل جنابت	122
	۶- شرعی مسائل	98	10	احکام نجاست	123
	۷- غسل کے پانی کے مسائل	100		۱- احادیث	124
4	تیمم	102		۲- شرعی مسائل	124
	۱- حکم خداوندی	102		۳- ناپاک چیزوں کو پاک کرنے	126

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
154	۲۔ طریقہ نیت نماز ظہر		128	اذان	11
154	۳۔ طریقہ نیت نماز عصر		129	۱۔ فضیلت اذان	
154	۴۔ طریقہ نیت نماز مغرب		130	۲۔ کلمات اذان	
155	۵۔ طریقہ نیت نماز عشاء		131	۳۔ اذان کا طریقہ	
155	۶۔ طریقہ نیت نماز جمعہ		131	۴۔ شرعی مسائل	
155	۷۔ طریقہ نیت نماز عید الفطر		133	۵۔ جواب اذان	
156	۸۔ طریقہ نیت نماز عید الفصحی		134	۶۔ دعا بعد اذان	
156	فرائض نماز	14	134	۷۔ اقامت	
156	۱۔ تکبیر تحریمہ		135	نماز کے اوقات	12
157	۲۔ قیام		136	۱۔ نماز فجر کا وقت	
158	۳۔ قرأت		138	۲۔ نماز ظہر کا وقت	
159	۴۔ رکوع		139	۳۔ نماز عصر کا وقت	
159	۵۔ سجدہ		140	۴۔ نماز مغرب کا وقت	
161	۶۔ آخری قعدہ		140	۵۔ نماز عشاء کا وقت	
161	۷۔ خروج جہنم		141	۶۔ وتروں کا وقت	
162	مسنون طریقہ نماز	15	141	۷۔ ممنوع اور مکروہ اوقات	
167	متعلقات نماز	16	144	شرائط نماز	13
167	۱۔ واجبات نماز		144	۱۔ طہارت جسم	
168	۲۔ نماز کی سنتیں		145	۲۔ لباس کا پاک ہونا	
169	۳۔ مستحبات نماز		146	۳۔ نماز کی جگہ کا پاک ہونا	
176	۴۔ مفسدات نماز		147	۴۔ ستر	
179	۵۔ مکروہات نماز		150	۵۔ استقبال قبلہ	
180	۶۔ نماز توڑنے کی جائز صورتیں		152	۶۔ نیت	
182	سجدہ سہو	17	153	طریقہ نیت	
182	۱۔ سجدہ سہو کا طریقہ		153	۱۔ طریقہ نیت نماز فجر	

نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان	صفحہ
	۲۔ شرعی مسائل	183		۱۔ احادیث	202
18	سنتیں اور نوافل	185		۲۔ شرعی مسائل	207
	۱۔ سنتوں کی عام فضیلت	187		۳۔ مسائل فقہیہ	208
	۲۔ فضیلت سنت فجر	187		جماعت کی نمازوں میں طے کا نقشہ	210
	۳۔ فضیلت سنت ظہر	188		فجر کی دوسری رکعت	210
	۴۔ فضیلت سنت عصر	188		ظہر عصر اور عشاء دوسری رکعت	210
	۵۔ فضیلت سنت مغرب	189		ظہر عصر اور عشاء تیسری رکعت	211
	۶۔ فضیلت سنت و نفل عشاء	189		ظہر عصر اور عشاء چوتھی رکعت	211
19	نفل نمازیں	189		مغرب کی دوسری رکعت	212
	۱۔ تحسینۃ الوضو	189		مغرب کی تیسری رکعت	212
	۲۔ تحسینۃ المسجد	190		عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی دوسری	213
	۳۔ نماز اشراق	190	22	احکام مسجد	214
	۴۔ نماز چاشت	191		۱۔ فضائل مسجد	214
	۵۔ نماز اوامین	191		۲۔ مسائل مسجد	218
	۶۔ نماز تہجد	192	23	جمعہ	220
	۷۔ سفر پر روانگی کی نماز	193		۱۔ فضائل نماز جمعہ	221
	۸۔ سفر سے واپسی کی نماز	193		۲۔ مسائل نماز جمعہ	223
	۹۔ صلوٰۃ تسبیح	193	24	قضا نمازوں کا بیان	225
	۱۰۔ نماز استغاثہ	195	25	نماز وتر	228
	۱۱۔ نماز حاجت	196	26	نماز سفر	230
	۱۲۔ نماز تہبہ	198	27	نماز بیمار	234
20	امامت	199	28	نماز عید	236
	۱۔ احادیث	199		۱۔ شرائط عیدین	237
	۲۔ شرعی مسائل	200		۲۔ عید کے دن کے مسنون کام	237
21	جماعت	202		۳۔ عید کی نماز پڑھنے کے طریقے	238

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
271	۱۰۔ قبر پر نشان لگانا		239	۳۔ مسائل عید	
271	۱۱۔ قبر پر ہری شاخ لگانا		240	۵۔ عیدین کے خطبے	
271	۱۲۔ دفن کے بعد قبر پر بیٹھنا		241	عید الفطر کا پہلا خطبہ	
272	۱۳۔ قبر پر سونے اور بیٹھنے کی ممانعت		242	عید الفطر کا دوسرا خطبہ	
272	۱۳۔ قبر پر تلاوت کرنا		243	عید الاضحیٰ کا پہلا خطبہ	
272	۱۵۔ کوئی بابرکت تحریر قبر میں رکھنا		244	عید الاضحیٰ کا دوسرا خطبہ	
273	۱۶۔ تلقین میت		245	نماز خوف	29
273	۱۷۔ زیارت قبور کا سنت طریقہ		248	نماز استسقاء	30
	حصہ سوم روزہ		250	نماز کسوف و خسوف	31
			252	موت	32
275	روزہ	1	255	غسل میت	33
277	فضیلت رمضان المبارک	2	258	طریقہ کفن	34
281	مقاصد روزہ	3	260	جنائز کے ساتھ چلنے کا طریقہ	35
283	چاند دیکھنے کا احکام	4	261	نماز جنازہ	36
286	نیت	5	264	جنائز سے متعلق شرعی مسائل	
287	سحری	6	268	قبر و دفن کا سنت طریقہ	37
288	۱۔ مسائل		268	۱۔ قبر بنانا	
289	افطاری	7	268	۲۔ کچی قبر بنانا سنت ہے	
289	۱۔ احادیث		269	۳۔ قبر میں اتارنے کے وقت	
291	۲۔ مسائل		269	۴۔ تابوت میں دفن کرنا	
291	روزہ نہ ٹوٹنے کی صورتیں	8	269	۵۔ میت کو قبر میں اتارنا	
292	۱۔ مسائل		270	۶۔ عورت کیلئے پردہ کرنا	
293	روزہ ٹوٹنے کی صورتیں	9	270	۷۔ قبر پر مٹی ڈالنا	
293	مسائل		270	۸۔ دفن سے بعد پانی چھڑکنا	
294	قضا اور کفارہ	10	271	۹۔ مردے کی ہڈی توڑنے کی	

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
324	شرائط زکوٰۃ	4	297	روزہ توڑنے کی جائز صورتیں	11
329	مسائل نصاب زکوٰۃ	5	297	احکام فدیہ	12
329	۱۔ سونے چاندی کی زکوٰۃ		298	مکروہات روزہ	13
332	۲۔ اونٹوں کی زکوٰۃ		299	۱۔ مسائل	
333	۳۔ گائے بھینس کی زکوٰۃ		300	روزہ نہ رکھنے کا شرعی عذر	14
334	۴۔ بکریوں کی زکوٰۃ		302	اعتکاف	15
335	۵۔ گھوڑے اور سیٹھ جانوروں پر زکوٰۃ		308	شب قدر	16
335	۶۔ معدن پر زکوٰۃ		308	۱۔ احادیث شب قدر	
336	۷۔ مدفون خزانے پر زکوٰۃ		310	۲۔ شب قدر کون سی رات ہے؟	
337	عشر یعنی زراعت اور پھلوں کی	6	310	۳۔ ستائیسویں رات بحیثیت شب	
339	زکوٰۃ کے مصارف	7	310	۴۔ شب قدر کی علامات	
340	۱۔ فقیر		311	۵۔ شب قدر کی عبادت	
340	۲۔ مسکین		312	۶۔ لیلۃ القدر کا خاص وظیفہ	
341	۳۔ عامل		313	نقلی روزوں کی فضیلت	17
341	۴۔ مولفۃ القلوب		313	۱۔ عاشورہ محرم کے روزے	
342	۵۔ رقاب		314	۲۔ شوال کے چھ روزے	
342	۶۔ غازم		315	۳۔ شعبان کے روزے	
342	۷۔ فی سبیل اللہ		315	۴۔ عرفہ اور عشرہ ذی الحجہ کے	
343	۸۔ ابن السبیل		316	۵۔ ہر مہینے کے تین روزے	
343	ادائیگی زکوٰۃ کے احکام	8	316	۶۔ پیر اور جمعرات کا روزہ	
346	لذقہ فطر	9			
349	فضائل صدقہ و خیرات	10			
			318	زکوٰۃ	1
353	حصہ پنجم حج		318	زکوٰۃ کے متعلق حکم الہی	2
354	فضائل حج و عمرہ	1	321	فضیلت زکوٰۃ	3

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
384	۸۔ آب زمزم پینا		356	احکام حج	2
384	۹۔ محرمات طواف		357	۱۔ حج فرض ہونے کی شرائط	
384	۱۰۔ مکروہات طواف		357	۲۔ ادا نگی حج کی شکایت	
384	سعی	8	358	۳۔ صحت ادا کی شرائط	
385	۱۔ سعی کرنے کا سنت طریقہ		359	۳۔ فرائض حج	
386	۲۔ تکبیرہ تحلیل		359	۵۔ واجبات حج	
388	۳۔ مسائل سعی		361	۶۔ حج کی سنتیں	
389	۴۔ مکروہات سعی		362	اقسام حج	3
389	طریقہ حج		362	۱۔ حج افراد	
389	۱۔ روانگی منی		362	۲۔ حج قرآن	
390	۲۔ قیام منی		363	۳۔ حج تمتع	
390	۳۔ عرفات کو روانگی		364	سفر حج	4
391	۴۔ میدان عرفات		366	احرام	5
391	۵۔ فضیلت و قوف عرفہ		367	۱۔ عورتوں کا احرام	
393	۶۔ قوف کا سنت طریقہ		368	۲۔ ممنوعات احرام	
395	وقف کی مسنون دعا		368	۳۔ مکروہات احرام	
396	۷۔ قیام مزدلفہ		368	آداب حرم شریف	6
397	۸۔ قوف مزدلفہ		370	طواف	7
398	۹۔ منی کو روانگی		371	۱۔ حجرہ اسود	
399	۱۰۔ عبادات ۱۰۔ روا الحج		372	۲۔ اضطباع	
408	احکام جنایت	10	373	۳۔ رمل	
409	۱۔ جنایات احرام		373	۴۔ طواف کا سنت طریقہ	
413	۲۔ حدود حرم کی جنایات		381	۵۔ مقام ملتزم پر پڑھنے کی دعا	
414	۳۔ طواف کی جنایات		381	۶۔ نوافل مقام ابراہیم	
414	۴۔ سعی کی جنایات		383	مسائل طواف	

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
448	ایجاب و قبول	4	414	۵۔ وقوف عرفہ اور مزدلفہ کی	
450	اجازت نکاح	5	415	۶۔ رمی کی جنایات	
454	نکاح کا ولی	6	415	۷۔ قربانی کی جنایات	
455	گواہان نکاح	7	415	زیارت مدینہ منورہ	11
457	وکالت نکاح	8	417	روضہ اقدس کی حاضری	12
459	کفو یعنی معاشرتی حیثیت	9	420	۱۔ مسجد نبوی میں داخلہ	
459	۱۔ نسب میں برابری		420	۲۔ حاضری و زیارت روضہ مبارک	
459	۲۔ اسلام میں برابری		426	زیارت حضرت ابو بکر صدیقؓ	
460	۳۔ پیشہ میں برابری		426	زیارت حضرت عمر فاروقؓ	
460	۴۔ آزادی میں برابری		427	مسجد نبوی ﷺ	13
460	۵۔ دیانت میں برابری		428	۱۔ مسجد نبوی کی تاریخ	
460	۶۔ مالداری میں برابری		430	۲۔ تحویل کعبہ	
461	مہر	10	430	۳۔ ریاض الجنہ	
462	۱۔ شرعی مسائل		430	۴۔ مبارک ستون	
464	۲۔ مہر کی قسمیں		432	۵۔ روضہ اقدس کی تفصیل	
466	محرمات	11	434	۶۔ چہوترہ اصحاب صفہ	
468	۱۔ شرعی مسائل		435	زیارت جنت البقیع	14
468	۲۔ مصاہرات		437	مدینہ منورہ کے کنوئیں	15
470	۳۔ جمع بین المحارم		439	زیارت مساجد	16
470	۴۔ غیر مسلمہ سے نکاح				
470	۵۔ عورت کا کسی اور نکاح یا عدت				
471	۶۔ رضاعت		443	نکاح	
473	طلاق	12	444	فضائل نکاح	1
475	طلاق بائن و رجعی		446	۱۔ اچھی عورتوں کے خصائل	2
			447	رشتہ دیکھنا	3

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
526	اچھا خاوند	2	475	طلاق کی صورتیں	1
526	۱۔ حسن سلوک		475	۱۔ طلاق احسن	
527	۲۔ ایک سے زائد بیویوں میں عدل		476	۲۔ طلاق حسن	
528	۳۔ بیوی کے اخراجات مہیا کرنا		477	۳۔ طلاق بدی	
529	۴۔ بیوی کے جذبات کا خیال رکھنا		477	اقسام طلاق	2
530	۵۔ اختلاف سے اجتناب کرنا		479	تفویض طلاق	3
531	۶۔ اعتنا اور بھروسہ		481	طلاق صریح	4
532	خدمت والدین	3	482	اضافت	5
534	۱۔ والدین سے اچھا سلوک		483	غیر مہ خولہ کو طلاق	6
535	۲۔ والدین کو گالی دینے کی ممانعت		484	طلاق کنایہ	7
536	۳۔ والدین کی نافرمانی کی مذمت		486	رجعت	8
536	۴۔ مرحوم والدین کی بہتری		488	طلاق غیر موثرہ	9
537	۵۔ بوڑھے والدین کی خدمت کا اجر		490	خلع	10
538	حقوق اولاد	4	493	ظہار	11
538	۱۔ پیدائش کی اسلامی رسم		495	ایلاء	12
538	۲۔ تحنیک		497	لعان	13
539	۳۔ عقیقہ		499	عدت	14
539	۴۔ اچھا نام رکھنا		504	عورت کا نفقہ	15
540	۵۔ رضاعت		510	ثبوت نسب	16
540	۶۔ تعلیم و تربیت		511	پرورش اولاد	17
542	۷۔ بچوں سے شفقت کرنا		514	ترک زینت یعنی سوگ	18
543	۸۔ اولاد میں عدل و انصاف			حصہ ہفتم حقوق العباد	
543	۹۔ اولاد کی شادی کرنا				
544	۱۰۔ اخلاقی تربیت		517	بہترین بیوی	
546	رشتہ داروں کے حقوق	5	520	اچھی عورت کی خوبیاں	1

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
587	میانہ روی	13	550	ہمسائیہ سے سلوک	6
589	صبر	14	557	قیموں پر شفقت	7
592	توکل	15	560	۱۔ حسن سلوک	
594	تدبر	16	560	۲۔ بہتر کفالت	
595	خدمت خلق	17	560	۳۔ مال کی حفاظت	
596	خاموشی	18	561	جانوروں کے حقوق	8
598	نرمی	19	562	۱۔ جانوروں پر رحم کرنا	
599	پردہ پوشی	20	563	۲۔ پرندوں پر رحم کرنا	
600	جھوٹ	21	564	۳۔ جانوروں پر تشدد کی ممانعت	
602	وعدہ خلافی	22	565	۴۔ اچھی طرح ذبح کرنے کا حکم	
603	حسد	23	566	ملازموں کے حقوق	9
605	ریاکاری	24		حصہ ہشتم اخلاق	
608	ظلم	25			
610	نمیت	26	568	حسن اخلاق	1
611	بخل	27	569	صدق	2
613	تکبر	28	571	امانت	3
614	لاچ	29	573	حیاء	4
616	دھوکہ بازی	30	574	تواضع	5
617	خدمت لعنت	31	576	غفور و رگزر	6
619	بغض و کینہ	32	577	احسان	7
620	عیب جوئی	33	579	سخاوت	8
621	خیانت	34	580	ایثار	9
622	بدگمانی	35	582	قناعت	10
622	خدمت جاوہ	36	584	رحم و شفقت	11
624	دورخی	37	586	اخوت	12

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
	حصہ دہم آداب		624	ذمت بخش گوئی	38
			626	غصہ	39
682	کھانے کے آداب	1	627	ذمت خوشامد	40
686	پینے کے آداب	2		حصہ نهم کسب معاش	
688	سونے کے آداب	3			
691	چلنے پھرنے کے آداب	4	629		تجارت
693	آداب مجلس	5	631	خیار یعنی اختیار	2
696	آداب لباس	6	634	بے دیکھی چیز خریدنے کے	3
699	آداب طہارت	7	635	سوے میں عیب نکل آنے کے	4
702	آداب ملاقات	8	639	بیع باطل و بیع فاسد	5
704	آداب گفتگو	9	640	مکروہ بیع	6
707	آداب سفر	10	643	قرض	7
710	آداب مسرت	11	646	بیع سلم	8
	حصہ گیارہ متفرقات		649	عاریت	9
			652	ہبہ	10
713	ذکر الہی	1	656	شرکت	11
715	دُرود شریف	2	659	مضاربت	12
720	قرآن مجید کا تقدس	3	661	کفالت	13
722	قسم اور کفارہ	4	662	حوالہ	14
726	تصویر کشی کی ذمت	5	665	رہن	15
728	لہو ولہب	6	668	لقطہ کے احکام	16
731	خندہ	7	671	وکالت	17
732	ذبح	8	674	شفعہ	18
738	حلال و حرام جانور	9	677	اجرت	19
740	قربانی	10			

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
747	۱۔ قبل از موت جائیداد میں تقسیم	12	741	مسائل قربانی	11
747	۲۔ لاپتہ بی وراثت	13	742	۱۔ قربانی کے دن	12
747	۳۔ حمل شدہ بچے کی وراثت	14	742	۲۔ قربانی کا مسنون طریقہ	13
747	۴۔ قضا نماز روزہ کا فدیہ	15	742	۳۔ اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا	14
747	۵۔ محنت یا بجز سے کی وراثت	16	743	۴۔ قربانی کی دعا	15
748	۶۔ تقسیم وراثت میں وارثوں ---	17	743	۵۔ قربانی کے گوشت کے استعمال	16
748	۷۔ موت کی پیشین یا وظیفہ	18	743	۶۔ قربانی کے چرم کا مصرف	17
748	۸۔ قاتل مقتول کا وارث نہیں ہو سکتا	19	744	۷۔ کسی کی طرف سے قربانی	18
748	۹۔ کافر مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا	20	744	قربانی کے جانوروں کے	19
748	۱۰۔ حرامی بچہ محروم وراثت ہے	21	744	۱۔ بکرے اور دنبے کی قربانی	21
749	۱۱۔ قرابت وراثت کا موجب ہے	22	744	۲۔ گائے اور اونٹ کی قربانی	22
749	احادیث وراثت	23	745	۳۔ جانوروں کی عمریں	23
752	وراثت کے شرعی حصے	24	745	۴۔ سینگوں کا مسئلہ	24
752	اصحاب فروض کے حصے	25	745	۵۔ جانوروں کا جسمانی نقص	25
759	عصبات کے حصے	26	745	۶۔ کان اور دم کا کٹنا ہونا	26
762	ذوی الارحام کے حصے	27	745	۷۔ خصی بکرے یا دنبے کی قربانی	27
763	روحانی عملیات	28	745	وراثت	28
776	التجائے اخلاص	29	746	اصول وراثت	29

عقائد

اذات الہی

ذات الہی ایک ہے جو ازلی اور ابدی ہے یعنی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی اس کی ذات میں بی شمار صفات ہیں۔ یہ صفات اسی ذات میں ہمیشہ سے موجود ہیں یعنی اس کی صفات بھی اس کی ذات کی طرح ازلی اور قدیم ہیں۔ اس ذات جیسا کوئی اور نہیں۔ کیونکہ وہ واحد ہے یعنی اس کی ذات صفات افعال اور احکام ہیں اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ذات الہی برحق ہے اسے مان کر اس پر ایمان رکھنا اسلامی ایمان کی بنیاد ہے پروردگار عالم کی ذات صفات کے متعلق عقائد برحق حسب ذیل ہیں:

۱۔ **عقیدہ**: اللہ تعالیٰ معبود برحق ہے۔ عبادت اور پرستش کے لائق صرف اللہ تعالیٰ ہے اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں کیونکہ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پروردگار عالم نے خود بھی فرمایا ہے کہ ”میری عبادت کرو کیونکہ میں عبادت کے لائق ہوں۔“ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا غلط ہے۔ بر نبی اور پیغمبر کی زبان نے بھی یہی حکم دیا ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کرو۔ سورہ بقرہ میں ہے کہ ”اے لوگو! رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور ان کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم پر بیزار بن جاؤ“ (البقرہ: ۲۱) ایک اور مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ”ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ (الذاریات: ۵۶)“
ہر طرح کی عبادت اللہ کے لیے ہے۔

۲۔ **عقیدہ**: اللہ تعالیٰ موجود ہے یعنی اس نے خود ہی اپنے ہونے کے دلائل دینے ہیں اس کا ہونا میں برحق ہے اللہ وہ ہے جس نے ہمارے لیے سب کچھ پیدا کیا جس نے زمین و آسمان کو بنایا نہیں زمین و آسمان اس کے ہونے کی گواہی اور دلیل ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ”ہم نے

زمین پھیلائی ہے اور اس میں پہاڑوں کو مزین کیا اور اس میں ہر ایک چیز کو مناسب طریقے سے اگایا ہے۔ (سورۃ الحج: ۱۹) مزید ارشاد ہے کہ ”اللہ وہ ہے جو بارش آنے سے پہلے آگے آئے خوشخبری دینے والی ہوائیں بھیجتا ہے۔ اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا ہے تاکہ ہم اس سے ایک مردہ بستی کو زندہ کریں اور جو چوپائے ہم نے پیدا کئے ہیں تاکہ وہ اس سے سیراب ہوں۔ (الفرقان: ۴۷-۴۹) معلوم ہوا کہ زمین آسمان چاند سورج ستارے ہوائیں، سمندر پہاڑ دریا گویا کہ کائنات کی ہر چیز اس بات کہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہے۔

۳۔ عقیدہ: ذات الہی سلسلہ توحید سے پاک اور منزہ ہے، اسے کسی نے پیدا نہیں کیا۔ اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے بلکہ وہ خود ہی سے ہے۔ پھر وہ خود ہی جانتا ہے کہ وہ کیا ہے۔ مگر اس نے خود ہی فرمایا ہے کہ ”اے محبوب ﷺ! فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ اللہ بے نیاز ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے اس کے برابر کوئی نہیں ہے۔“ (اخلاص، ۴۳۱)

۴۔ عقیدہ: اللہ ہی ہے وہ خود زندہ ہے اور زندگی دینے والا بھی وہی ہے اس پر کبھی فنا نہیں۔ اللہ کے حکم ہی سے ہر چیز زندہ اور باقی ہے۔ وہ جب چاہے اور جس کو چاہے زندہ کر دے۔ اور جب چاہے اور جس کو چاہے موت دیدے۔ کیونکہ وہی زندہ کرنے والا ہے اور وہی موت دینے والا ہے۔ وہ ہمیشہ سے قائم ہے اور ہمیشہ قائم رہے گا۔ اس کائنات کی قومیت اس وقت تک ہے جب تک کہ وہ اسے قائم رکھنا چاہے گا۔ قیامت اس کے حکم سے آئے گی۔ اور وہی سب کو موت کے بعد زندہ کرے گا۔ یعنی ہر لحاظ سے وہ حی القیوم ہے۔

۵۔ عقیدہ: اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ ہر چیز اس کے قبضہ و قدرت میں ہے وہ جو چاہے کرے اور جیسا چاہے ویسا ہی کرے۔ کوئی اس کو روکنے والا نہیں۔ کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے اس نے خود ہی بارہا قرآن میں فرمایا ہے کہ میں ہر چیز پر قادر ہوں۔ نیز فرمایا کہ ”اللہ وہ ہے جس نے سات آسمان پیدا کئے اور انہیں کی مانند زمین کو پیدا کیا۔ پھر اسی کا حکم اترتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے“ (طلاق: ۱۳) اللہ نشانی اتارنے پر قادر ہے۔ اللہ لوگوں کی مثل پیدا کرنے پر قادر ہے۔ اللہ تمام جانداروں کو ایک جگہ پر جمع کرنے پر قادر ہے۔ اللہ مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے۔ اللہ مظلوموں کی مدد کرنے پر قادر ہے۔ اللہ سب کو مار کر ایک نئی مخلوق پیدا کرنے پر قادر ہے۔ اللہ اپنے وعدہ عذاب کو پورا کرنے پر قادر ہے، یعنی اللہ جو چاہتا ہے، کر سکتے ہیں ہر لحاظ سے قادر ہے۔

۶۔ عقیدہ : اللہ رزاق ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی مخلوق کو روزی دیتا ہے۔ وہی ہر چیز کی پرورش کے اسباب پیدا کرتا ہے لہذا وہی حقیقی رزق رسان ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ”غربت کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو ہم ہی تمہیں اور انہیں رزق دیتے ہیں۔ (بنی اسرائیل: ۳۱) نیز ارشاد ہے کہ ”مخلوق کو پہلی بار کون پیدا کرتا ہے پھر اسے دوبارہ بھی وہی زندہ کرے گا۔ اور زمین و آسمان سے تمہیں روزی کون دیتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ اے پیارے محبوب ﷺ! فرمادے کہ اگر تم سچے ہو تو اس کے لئے سند لاؤ۔ (نمل: ۶۳) روزی عطا کرنا اللہ کے اختیار میں ہے اسے تلاش کرنا انسان کے اختیار میں دے رکھا ہے۔ رزق کے جتنے بھی ذرائع ہیں وہ تمام وسیلے اور واسطے ہیں۔

۷۔ عقیدہ : اللہ علیم ہے اسے ہر چیز کی خبر ہے۔ جو کچھ ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے یا آئندہ ہونے والا ہے سب اس کے علم میں ہے۔ ہماری ہر بات خواہ وہ ظاہر ہو یا پوشیدہ اسے سب کچھ علم ہے۔ ایک ذرہ بھی اس سے پوشیدہ نہیں۔ اس کا علم بہت وسعت والا ہے۔ وہ دلوں کے وسوسوں اور خطروں کو بھی جانتا ہے۔ غرض اس کے علم کی کوئی انتہا نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ کیا انہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ ان کی چھپی باتوں کو اور سرگوشیوں کو جانتا ہے اور یہ کہ اللہ چھپی باتوں کو جاننے والا ہے۔ (توبہ: ۷۸)

۸۔ عقیدہ : وہی ہر چیز کا خالق ہے۔ زمین و آسمان چاند سورج ستارے، انسان جانور، پہاڑ دریا، سمندر غرض تمام حیوانات، نباتات اور جمادات گویا کہ ساری کائنات کا خالق وہی ہے۔ پھر زمین پر پانی پیدا کر کے زندگی کے اسباب پیدا کئے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ”بے شک تمہارا پروردگار اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ دن میں پیدا کیا پھر عرش پر قرار پایا اور رات کو ان کا پردہ بنایا۔ رات اس کو تیزی سے تلاش کرتی ہے“۔ (اعراف: ۵۴) زمین و آسمان کی عیدائش کے علاوہ اسی نے انسان کو تخلیق کیا ہے۔ اس کے متعلق ارشاد ہے کہ ”اس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا اور تمہاری صورتیں بنائیں بلکہ احسن صورتیں بنائیں اور آخر اسی کی طرف لوٹنا ہے“ (التفابین: ۳)

۹۔ عقیدہ : ہر چیز کا مالک حقیقی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اس نے جو اختیار انسانوں کو ملکیت کے لئے رکھے ہیں وہ عارضی اور مجازی ہیں کیونکہ اس کرہ ارض کا اصل خالق اللہ ہے اس لئے وہی مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ملکیت کے علاوہ اسی کی بادشاہت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ

”برکت والا ہے وہ جس کے لئے آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کی بادشاہت ہے۔“ (زخرف: ۸۵)

۱۰۔ **عقیدہ:** اللہ ہر لحاظ سے غنی ہے اور اسی کا غنی قابل تعریف ہے۔ اللہ تمام جہانوں سے بے پروا ہے۔ جو شخص محنت کرتا ہے وہ اپنے نفع ہی کے لئے محنت کرتا ہے بیشک اللہ تعالیٰ اہل دنیا سے بے پروا ہے۔ اللہ کے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں۔ اللہ بصیر ہے یعنی ہر چیز اس کے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بندوں کے سب اعمال کی خبر ہے۔ ہر انسان جو کچھ بھی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے گویا کہ انسانوں کی ذرہ برابر حرکت کو بھی وہ خوب جانتا ہے یعنی بندوں کے پہلے کے اور بعد میں آنے والے حالات سے بھی باخبر ہے۔ اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔

۱۱۔ **عقیدہ:** اللہ تعالیٰ حاکم حقیقی ہے۔ اگر کسی کو حکومت کے اختیار دیتا ہے تو وہی دیتا ہے پس حکم اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو بڑا عالی مرتبے والا ہے۔ ہر کام اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے اللہ سب حاکموں سے بہتر حاکم ہے۔ روز قیامت اللہ ہی فیصلہ کریگا۔ ارشاد ہے کہ ”پس اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان میں ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے“۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ”اے ہمارے پروردگار! ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق حق فیصلہ کر دے اور تو سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔“

۱۲۔ **عقیدہ:** تمام چیزیں اسی کے ارادہ و اختیار میں ہیں اسی کی مشیت ہر لحاظ سے برتر ہے۔ وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اسی کی مشیت سے ہو رہا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ”جسے اللہ گمراہ کرنا چاہے تو اس کے لئے اللہ کی طرف سے کچھ نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بارگاہ رب العزت سے دور ہو گئے ہیں اور اللہ ان کے دلوں کو پاک کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ (مائدہ: ۴۱) جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں اللہ تعالیٰ مومنوں کو سیدھی راہ پر لگاتا ہے اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا کیونکہ ظلم کی بنا پر وہ ہدایت نہیں چاہتے انہیں ہدایت کیسے ملے گی۔“

۱۳۔ **عقیدہ:** اللہ پاک اور منزہ ہے۔ بہشت میں داخل ہونے والوں کا یہ قول ہوگا کہ ”اے اللہ! تو پاک ہے۔ ارشاد ہے کہ پس تم اللہ کی پاکی بیان کرو جب تم صبح اور شام کرو“۔ (روم: ۱۷) نیز ارشاد ہے کہ ”پس پاک ہے وہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے اور تم اسی کی طرف

لوٹائے جاؤ گے“ (یسین: ۸۳) وہ اونگھ اور نیند سے بھی پاک ہے کیونکہ اسے نہ اونگھ آتی ہے اور نہ نیند ایسے ہی اللہ تھکان سے بھی پاک ہے۔ ارشاد ہے کہ آسمانوں اور زمین کی حفاظت اسے تھکاتی نہیں اور وہ بلند مرتبے والا ہے۔ (بقرہ: ۲۵۵) ایسے ہی اللہ بھولنے والا نہیں اور ہر قسم کے ظلم سے بری ہے۔ اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا بلکہ اپنے ہر وعدے کو پورا کرتا ہے۔

۱۴۔ عقیدہ: اللہ سب سے سچا ہے۔ اللہ سے بڑھ کر کوئی سچا نہیں ہو سکتا کیونکہ اسی کا کلام برحق ہے۔ اللہ حد سے بڑھنے والوں کو نہیں چاہتا۔ اللہ کا کلام نہیں بدلتا۔ کیونکہ اللہ کی باتوں کا کوئی بدلنے والا نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ”اے پیارے محبوب ﷺ! تیرے پروردگار کی بات سچائی اور انصاف کے ساتھ پوری ہوئی۔ کیونکہ اس کی بات کو کوئی بدلنے والا نہیں۔ (انعام: ۱۱۶)

۱۵۔ عقیدہ: اللہ تعالیٰ کے ہر فعل میں حکمت ہوتی ہے۔ خواہ ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے اس کے کلام اور حکام انسانی عقل سے بالا ہوتے ہیں۔ کیونکہ انسانی عقل کی رسائی محدود حد تک ہے اور ذات الہی لا محدود ہے۔ اس کے تمام افعال علت اور سبب سے بالا ہیں کیونکہ وہ اپنے کاموں میں کسی کا محتاج نہیں بلکہ تمام مخلوق اسی کی محتاج ہے۔

۲۔ نبوت

اجزائے ایمان میں سے ایک عقیدہ نبوت ہے اس پر یقین ہمارے ایمان کا حصہ ہے کیونکہ ہر نبی اور رسول پر ایمان لانا مسلمان ہونے کی شرط ہے البتہ جس نبی یا رسول کا زمانہ پائے اس کا امتی ہوگا۔ حضور ﷺ کے دور سے لے کر قیامت تک کا زمانہ حضور ﷺ کی نبوت کا زمانہ ہے۔ نبی یا رسول کی نبوت کے انکار سے خارج از ایمان ہو جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ”فرمائیے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر جو ہم پر اتارا گیا اور جو حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کو دیا گیا اور جو دوسرے نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا ہم کسی ایک میں ان میں سے فرق نہیں کرتے اور اسے ماننے والے ہیں۔“ (البقرہ: ۱۳۶) معلوم ہوا کہ مجموعی طور پر تمام انبیاء کی نبوت کو تسلیم کرنا لازم ہے۔ نبوت کے متعلقہ عقائد مندرجہ ذیل ہیں:

عقیدہ ۱: اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور ان کو سیدھی راہ پر قائم رکھنے کے لئے اپنے مخصوص بندوں کو اپنا پیغام رساں بنا کر وقتاً فوقتاً یکے بعد دیگرے اپنی مخلوق کے پاس بھیجا۔ جن خاص بندوں کو اللہ تعالیٰ نے راہ حق کے لئے مبعوث فرمایا انہیں نبی یا رسول کہا

جاتا ہے۔ اللہ کی خبر دینے والے کو نبی اور اللہ کی کتاب لانے والوں کو رسول کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سب نبی انسان مرد تھے۔ نہ کوئی جن نبی ہوا اور نہ کوئی عورت۔ کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ”آپ سے پہلے جو رسول ہم نے بھیجے وہ بستیوں کے رہنے والے رجال یعنی مرد ہی تھے جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے“۔ (یوسف: ۱۰۹)

۲۔ عقیدہ : رسالت اور نبوت ایک واسطہ ہے جس کی ذریعے اللہ تعالیٰ کے احکام بندوں تک پہنچتے ہیں اور اسی مقدس واسطہ سے بندوں کو اپنے مالک حقیقی کی پہچان اور معرفت حاصل ہوتی ہے لہذا نبی اور رسول وہ مقدس انسان ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کے لئے چنا یہ بڑی عزت ووجاہت والے ہوتے ہیں۔ نبی اور رسول ہمیشہ اللہ کی پناہ میں ہوتے ہیں اس لئے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے مبرا ہوتے ہیں یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے معصوم بندے ہیں۔ نبی حسب و نسب اور اخلاق و کردار اور جمال و کمال، متقی پرہیزگار اور اخلاق حسنہ سے ہر لحاظ سے آراستہ ہوتے ہیں۔ فہم و فراست کے لحاظ سے بھی ہر انسان سے بڑھ کر ہوتے ہیں تمام عیبوں اور نقائص سے وہ پاک ہوتے ہیں۔

۳۔ عقیدہ : اللہ کے نبی تمام مخلوق سے افضل، اعلیٰ اور برتر ہوتے ہیں نبی و رسول کو اللہ تعالیٰ نے اتنا اونچا مرتبہ دیا کہ تمام مخلوق میں سے کسی کو نہیں مل سکتا۔ کسی انسان کا نبوت کے لئے معبود ہونا اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے۔ اللہ جس کو چاہے اپنے اس فضل سے سرفراز کرے۔ کوئی شخص اپنی عبادت اور ریاضت کی بنا پر نبی نہیں بن سکتا کیونکہ نبوت خدا کا عطیہ ہے اللہ جسے چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔

۴۔ عقیدہ : ہر نبی اور رسول کا ادب کرنا سب پر فرض اور ضروری ہے۔ کسی نبی کی بے ادبی اور ذرہ برابر توہین کرنا کفر ہے اس لئے ہر نبی کو دل سے سچا ماننا مسلمان ہونے کے لئے ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص چند نبیوں کی نبوت کو تو ماننا ہو مگر کسی کا انکار کرتا ہو تو ایسا کرنے سے ایمان نہیں رہے گا یعنی کسی نبی کی نبوت کا بھی انکار ایمان سے خارج کر دیتا ہے۔

۵۔ عقیدہ : اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کی طرف انبیاء علیہم السلام معبود فرمائے تاکہ لوگوں تک سچا دین اور خدا کا پیغام پہنچائیں۔ کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ تحقیق ہم نے ہر امت میں اپنے رسول کو بھیجا تاکہ اللہ کی عبادت کرو اور شیطان سے بچو۔ (النمل: ۳۶) پروردگار نے ہر قوم کی اصلاح اور ہدایت کے لئے اپنے انبیاء کو معبود فرمایا۔

۶۔ عقیدہ: رسول بے خوف ہوتے ہیں وہ دنیا کے حاکموں اور امیروں سے بالکل نہیں ڈرتے بلکہ ان میں حد درجے کا خوف الٰہی ہوتا ہے کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ”نبی پر اس بات میں کوئی مضائقہ نہیں جو اللہ نے ان کے لئے مقرر کر رکھی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ راستہ ہے جو پہلے لوگوں میں بھی تھا۔ اللہ کا امر اندازے کے مطابق مقرر شدہ ہے ان لوگوں میں جو اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں اور اسی سے ڈرتے ہیں اور سوائے اللہ کے کسی سے نہیں ڈرتے اور اللہ کافی ہے حساب لینے والا۔“ (احزاب: ۲۸، ۳۹)

۷۔ عقیدہ: وحی کا رابطہ صرف انبیاء اور رسولوں کے ساتھ ہے کسی عام انسان کے ساتھ نہیں۔ اگر کوئی عام انسان وحی کا دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا ہوگا۔ وحی لانے والے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ”ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام پر وحی بھیجی تھی اور نبیوں پر بھی جو بعد میں آئے اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد اور حضرت عیسیٰ اور یونس اور ہارون اور سلیمان (علیہم السلام) پر وحی بھیجی اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو بھی زبور دی۔“ (نساء: ۱۶۳)

۸۔ عقیدہ: ہر نبی اور رسول کا اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک خاص مقام اور مرتبہ ہے مگر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے بعض انبیاء کو رتبے کے لحاظ سے اعلیٰ اور رفع کیا ہے۔ اور فضیلت دی ہے حضور ﷺ کے بعد بڑا درجہ ابراہیم علیہ السلام کا ہے ان کے بعد درجہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے، ان کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اور ان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا درجہ ہے باقی انبیاء فضیلت کے لحاظ سے ان پانچوں انبیاء کے درجات کے بعد درجات کے حامل ہیں ان پانچوں حضرت کو مرسلین اولوالعزم کہا جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ یہ مرسلین ہیں کہ ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے اور ان میں سے بعض کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کلام کیا اور بعض کے درجات بلند کیے۔ (البقرہ: ۲۵۳)

۹۔ عقیدہ: اللہ کا ہر نبی زندہ ہے۔ دنیا کی موت سے ان کی حیات کو ایک پردہ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ انہیں حقیقی زندگی عطا فرمادیتا ہے۔ کیونکہ شہداء کو اگر ایسی زندگی ملتی ہے جس میں کھاتے پیتے ہیں تو انبیاء کا درجہ تو ان سے بہت بلند و ارفع ہے۔ اس لئے انبیاء عالم بزرخ میں زندہ تابندہ ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ (تہمتی) ایک اور روایت میں حضرت انسؓ سے مروی ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا کہ شب معراج کو میں

سرخ ٹیلے کے نزدیک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ وہ قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ (صحیح مسلم)

۱۰۔ عقیدہ : عقل کو عاجز کر دینے والے کام کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ نبوت کے دعویٰ میں نبی کے سچا ہونے کی ایک دلیل معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ذریعے ایسا کام سرانجام دلاتا ہے۔ جو بظاہر ناممکن نظر آتا ہے اس کا نام معجزہ ہے۔ یعنی نبی اپنی صداقت اور اپنے برحق اور سچا ہونے پر منکروں کے سامنے ان کے مطالبہ پر معجزے کا اظہار کرتا ہے۔ اور پھر وہ ان منکروں کو اس جیسا کام کرنے کا حکم دیتا ہے۔ لیکن وہ عاجز رہتے ہیں اور نبی کے مقابلے میں کچھ نہیں کر سکتے۔ معجزہ کے ذریعے دراصل اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی تصدیق کرتا ہے کہ صرف میرا نبی ہی ایسا کام کر سکتا ہے جسے عقل کرنے سے عاجز ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو بہت سے معجزوں سے نوازا۔ ان کا ذکر قرآن مجید میں صراحتاً موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا سانپ بن جانا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کر دینا، مادرزاد اندھوں اور کوڑھ کے مریضوں کو اچھا کر دینا۔ اور ہمارے حضور اکرم ﷺ کا چاند کو دو ٹکڑے کر دینا۔ آپ کے حکم سے کنکریوں کا کلمہ پڑھنا آپ کی انگلیوں سے پانی کا جاری ہونا۔ حضور ﷺ کا واقعہ معراج، معجزہ کے زمرے میں شمار ہوتے ہیں۔ لہذا معلوم ہوا کہ انبیاء کے معجزات برحق ہیں۔ ان کا انکار کرنا، اور نہ ماننا کفر ہے۔

۱۱۔ عقیدہ : ہمارے حضور ﷺ خاتم النبیین ہیں یعنی آپ سب نبیوں کے آخر میں آئے۔ آپ کی آمد سے سلسلہ نبوت بند ہو گیا۔ آپ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والا جھوٹا اور کافر ہے کیونکہ قیامت تک اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس لئے حضور کے بعد کسی نئے نبی کے آنے کو ممکن خیال کرنا بھی کفر ہے۔ کیونکہ تا قیامت کوئی نئی نبوت اور رسالت نہیں ہوگی بلکہ یہ تمام دور حضور ﷺ کی رسالت کا دور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود حضور ﷺ کو خاتم النبیین قرار دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ”حضرت محمد ﷺ تم میں سے کوئی مرد کے باپ نہیں وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر بات کو جانتا ہے“۔ (احزاب: ۴۰) مزید اس کی تصدیق حدیث پاک سے بھی ہوتی ہے۔ حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا کہ میں رسولوں کا قائد ہوں اور میں فخر نہیں کرتا اور میں خاتم النبیین ہوں۔ اور فخر نہیں کرتا اور میں پہلا شفاعت کرنے والا ہوں اور میری شفاعت قبول ہوگی اور

میں فخر نہیں کرتا۔ (مشکوٰۃ شریف)

حضرت انس بن مالکؓ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ مجھ پر رسالت اور نبوت کا سلسلہ منہتی ہوا۔ اب میرے بعد کوئی رسول اور نبی نہیں آئے گا۔ (جامع ترمذی)

۱۲۔ عقیدہ : اللہ تعالیٰ نے حضور ﷺ کو ہر پوشیدہ بات اور اسرار کا غائبانہ علم عطا فرمایا یہاں تک کہ زمین آسمان کا ذرہ ذرہ آپ کے مشاہدہ سے گزار دیا۔ جنت دوزخ ثواب عذاب، حشر نشر، حساب و کتاب یعنی جو آخرت کی زندگی میں ہونا ہے اس کا جامع اور کامل علم دیا۔ اللہ تعالیٰ کا علم ذاتی ہے اور حضور ﷺ کا تمام علم اللہ تعالیٰ سے ملا ہوا یعنی عطائی ہے۔ لہذا حضور ﷺ کا علم غیب اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اس کی نفی قرآن اور حدیث کی نفی ہوگی اس لئے حضور ﷺ کے علم کو تسلیم کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے لہذا جو شخص حضور ﷺ کے علم کا منکر ہو گا وہ اہل ایمان میں سے نہ رہے گا۔

۱۳۔ عقیدہ : حضور ﷺ سے محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ چونکہ حضور ﷺ کا ارشاد ہے کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے ماں باپ اور اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ مجھے محبوب نہ رکھے۔ نیز فرمایا کہ جن میں تین خوبیاں ہوں گی وہ ایمان کی حلاوت کو پالیں گے۔ اول یہ کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ ہو۔ دوم یہ کہ اللہ تعالیٰ کے لئے اس دوست سے دوستی اور اس کے دشمن سے دشمنی سے رکھتا ہو۔ سوم یہ کہ کفر و شرک کو اتنا برا جانتا ہو جس طرح کہ آگ میں ڈالے جانے کو برا جانا جاتا ہے۔ (بخاری شریف)

۱۴۔ عقیدہ : ہمارے رسول ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے جاگتے میں جسم کے ساتھ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک اور وہاں سے ساتوں آسمانوں کے اوپر اور وہاں سے جہاں تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہو ارات کے ایک مختصر حصہ میں پہنچایا اور آپ نے عرش و کرسی اور لوح و قلم اور خدا کی بڑی نشانیوں کو دیکھا۔ اور خدا کے دربار میں آپ کو وہ قرب خاص حاصل ہوا کہ کسی نبی اور فرشتہ کو نہ کبھی حاصل ہوا اور نہ کبھی حاصل ہوگا حضور کے اس آسمانی سفر کو ”معراج“ کہتے ہیں۔ معراج میں آپ نے اپنی آنکھوں سے جمال الہی کا دیدار کیا اور بغیر کسی واسطہ کے اللہ تعالیٰ کا کلام سنا اور تمام ملکوت السموات والارض کے ذرہ ذرہ کو تفصیل کے ساتھ ملاحظہ فرمایا۔

۱۵۔ عقیدہ : ہمارے حضور ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن شفاعت کبریٰ اور مقام محمود کا شرف عطا فرمایا ہے۔ جب تک ہمارے حضور ﷺ شفاعت کا دروازہ نہیں کھولیں گے، کسی کو بھی مجال شفاعت نہ ہوگی بلکہ تمام انبیاء و مرسلین حضور ﷺ ہی کے دربار میں اپنی اپنی شفاعت پیش کریں گے۔ اللہ کے دربار میں درحقیقت حضور ہی شیفع اول و سابع اعظم ہیں۔ آپ کی شفاعت کے بعد تمام انبیاء و اولیاء و صلحاء و شہداء وغیرہ سب شفاعت کریں گے۔

۱۶۔ عقیدہ: المختصر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی حضرت محمد ﷺ کو وہ سب کمالات و معجزات اور درجے عطا کئے ہیں جو دوسرے نبیوں کو جدا جدا اور علیحدہ علیحدہ عطا کیے تھے۔ اس لئے ہمارے نبی جامع صفات انبیاء و رسل ہیں۔ ان کے علاوہ کچھ کمالات و معجزات ایسے ہیں جو ہمارے نبی اکرم ﷺ کے سوا اور کسی نبی اور رسول کو نہیں دیے گئے۔ ان کمالات کو آپ کے خصائص مثلاً شفاعت کبریٰ، معراج، آپ کا سایہ نہ ہونا، آپ کا نبی الامی ہونا۔ خاتم النبیین، رحمۃ للعالمین، رسالہ عامہ، معلم کتاب و حکمت، رفعت ذکر، شرح صدر، حلت غنائم زمین کا نماز و طہارت کے لئے پاک قرار دیا جانا۔ کہا جاتا ہے۔

۱۷۔ عقیدہ : سب سے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور سب سے آخری پیغمبر حضرت محمد رسول ﷺ ہیں اور باقی تمام نبی ان دونوں کے درمیان ہوئے ان پیغمبروں میں سب جو بہت مشہور ہیں اور قرآن مجید اور حدیثوں میں جن کا بار بار ذکر آیا ہے وہ یہ ہیں:

حضرت نوح علیہ السلام	حضرت ابراہیم علیہ السلام
حضرت اسمعیل علیہ السلام	حضرت اسحاق علیہ السلام
حضرت یعقوب علیہ السلام	حضرت یوسف علیہ السلام
حضرت داؤد علیہ السلام	حضرت سلیمان علیہ السلام
حضرت ایوب علیہ السلام	حضرت موسیٰ علیہ السلام
حضرت ہارون علیہ السلام	حضرت زکریا علیہ السلام
حضرت یحییٰ علیہ السلام	حضرت عیسیٰ علیہ السلام
حضرت الیاس علیہ السلام	حضرت ایسح علیہ السلام

حضرت یونس علیہ السلام
حضرت ادریس علیہ السلام
حضرت ہود علیہ السلام
حضرت لوط علیہ السلام
حضرت صالح علیہ السلام
حضرت شعیب علیہ السلام
اور حضرت محمد رسول اللہ ﷺ

۳۔ آسمانی کتب

اللہ تعالیٰ نے انسانی ہدایت کے لیے وقتاً فوقتاً اپنے کلام کو کتب اور صحائف کی صورت میں اپنے رسولوں پر نازل فرمایا انہیں برحق اور سچ ماننا ہمارے ایمان کا لازمی حصہ ہے ان کے متعلق عقائد برحق مندرجہ ذیل ہیں:

۱۔ **عقیدہ:** اللہ تعالیٰ نے جتنے صحیفے اور کتابیں آسمان سے نازل فرمائی ہیں سب حق ہیں اور سب اللہ تعالیٰ کا کلام ہیں۔ ان کتابوں میں جو کچھ ارشاد خداوندی ہو سب پر ایمان لانا اور ان کو سچ ماننا ضروری ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ ”ایمان والے وہ ہیں جو مانتے ہیں اس کتاب قرآن کو جو اے نبی! آپ کی طرف اتاری گئی اور ان سب کتابوں کو بھی مانتے ہیں جو آپ سے پہلے اتاری گئیں“۔

۲۔ **عقیدہ:** اللہ تعالیٰ کی کتابوں میں سے جنہیں الہامی کہا جاتا ہے پہلی کتاب تورات ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئی۔ دوسری زبور شریف ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام پر اتاری گئی تیسری انجیل شریف ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئی اور چوتھی اور آخری کتاب قرآن مجید ہے جو سب آسمانی کتابوں اور صحیفوں سے افضل اور اعلیٰ ہے اور افضل الرسل نبی آخر الزماں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر اتاری گئی۔ یہ چار بڑی عظیم اور مشہور کتابیں ہیں۔ ان چاروں کتابوں کے علاوہ کئی صحیفے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں پر اتارے جن پر سب پر ایمان لانا اور ان کو کلام الہی ماننا ضروری اور فرض ہے۔

۳۔ **عقیدہ:** تمام الہامی کتب اور صحائف برحق اور کلام الہی ہیں لہذا ان میں کسی ایک کتاب کی حقیقت کو جھٹلانا کفر ہے۔ البتہ یہ ایک حقیقت ہے کہ قرآن مجید سے پہلے کی تمام کتب اور صحائف کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے امتوں کے سپرد فرمائے تھی مگر امتوں سے ان کتابوں کی حفاظت نہ ہو سکی بلکہ قرآن کے سوا باقی تمام کتابوں اور صحیفوں میں ان کے

نبیوں کے بعد ان کی امت کے خود غرض لوگوں نے تحریف اور تبدیلی کر دی ہے۔ یعنی اپنی طرف سے کچھ آیتیں نکال دی ہیں اور کچھ باتیں اپنی طرف سے بڑھادی ہیں۔ خاص طور پر وہ آیتیں جن میں ہمارے نبی حضرت محمد ﷺ کی تعریف تھی اور جو آیتیں قرآن پاک اور دین اسلام کی شان اور ان کی سچائی بیان کرنے والی تھیں وہ سب نکال دی ہیں اور ان کی جگہ نئی باتیں اپنی طرف سے شامل کر دی ہیں لہذا ایسی باتوں کو ماننا درست نہیں۔

۴۔ عقیدہ : ان کتابوں کی جو باتیں ہماری قرآن مجید کے مطابق ہیں ان کی تصدیق کی جائے اور جو باتیں اس کے خلاف ہوں ان کو نہ مانا جائے اور جو باتیں قرآن مجید کے نہ مطابق ہوں اور نہ مخالف، ان کو نہ تو سچا مانا جائے اور نہ جھوٹا کہا جائے بلکہ کہا جائے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں میں اتارا ہے ہمارا اس پر ایمان ہے۔

۵۔ عقیدہ : قرآن مجید الہامی کتب کے سلسلے کی آخری کتاب ہے جو ہر لحاظ سے جامع اور مکمل ہے اور سابقہ تمام کتب کی تعلیمات کا نچوڑ ہے اور اس کا اطلاق تا قیامت ہے اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ بھی خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے اس میں کمی یا زیادتی نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ بیشک یہ قرآن ہم نے اتارا ہے اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں۔

۶۔ عقیدہ : قرآن مجید دستور حیات کی کتاب ہے پوری زندگی کے تمام اصول قرآن میں ہیں اور سنت رسول قرآنی اصولوں کی شرح ہے قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا وہ کلام ہے جو اس نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعہ حضور علیہ السلام پر نازل فرمایا۔ تیس برس کی مدت میں تھوڑا تھوڑا حسب حاجت نازل ہوا جس حکم کی حاجت ہو، اس کے مطابق سورت یا کوئی آیت نازل ہو جاتی نزول وحی کے وقت یہ ترتیب نہ تھی جو آج ہے جب کوئی آیت یا سورت نازل ہوتی تو جبرائیل علیہ السلام اس کا مقام بھی بنا دیتے اور اس طرح قرآن عظیم کی سورتیں اپنی اپنی آیتوں کے ساتھ جمع ہو جاتیں اور خود حضور اکرم ﷺ اس ترتیب سے اسے نماز میں پڑھتے اور تلاوت فرماتے۔ پھر حضور سے سکر صحابہ کرام یاد کر لیتے۔ غرض قرآن عظیم کی ترتیب اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبریل علیہ السلام کے بیان کے مطابق اور لوح محفوظ کی ترتیب کی موافق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس ہی میں واقع ہوئی تھی۔ یہی ترتیب آج بھی باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گی۔

۷۔ عقیدہ : حضور اکرم ﷺ سے قبل جتنے نبی و رسل تشریف لائے ان کی رسالت کی خاص قوم اور ایک مقررہ وقت تک کے لیے تھی اس لیے وہ کتب یا صحائف جو پیغمبروں کے

ذریعے ان کی امتوں پر نازل کیے گئے وہ ایک معین زمانے اور ایک خاص قوم کے لیے تھے اس سب پر ایمان لانے کا مطلب ہرگز نہیں کہ ہم پر ان کتابوں کے احکام پر عمل کرنا بھی ضروری ہے بلکہ عمل ہم اپنی کتاب قرآن مجید کے احکام پر کریں گئے کیونکہ پہلی کتابوں کی شریعت اور ان پر عمل اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب قرآن مجید کے ذریعے منسوخ کر دیا ہے یعنی ان کتابوں پر عمل ایک وقت مقرر تک ضروری تھا لہذا اب ان پر عمل ضروری نہیں۔ ہاں ان سب کو حق اور سچا ماننا ضروری ہے۔

۸۔ عقیدہ : قرآن پاک کی بعض آیتیں محکم ہیں۔ یعنی ان کا معنی اور مطلب بالکل واضح اور صاف ظاہر اور معلوم ہے۔ ان پر عمل فرض ہے اور کچھ آیتیں متشابہ ہیں یعنی ان کا صحیح معنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول حضرت محمد ﷺ ہی جانتے ہیں ان کے معنی کے تلاش اور کرید منع ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ”متشابہ آیات کے معنی کی تلاش کے درپے وہی لوگ ہوتے ہیں جن کے دل میں ٹیڑھا پن ہے۔“

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا ”قرآن مجید پانچ وجہ پر اترا ہے۔ حلال حرام محکم، متشابہ اور واقعات و مثالیں۔ پس تم حلال کو حلال سمجھو اور اس کے مطابق عمل کرو اور حرام کو حرام سمجھو اور اس سے بچو۔ اور محکم پر عمل کرو اور متشابہ پر صرف ایمان لاؤ۔ (ان کے معنی کی تلاش میں نہ پڑو)۔ اور قرآن مجید کی بیان کردہ مثالوں اور واقعات سے عبرت و نصیحت حاصل کرو۔“

۹۔ عقیدہ : قرآن مجید نہایت ہی مقدس و مطہر کتاب ہے تمام برکات و حسانت اور علوم خزانہ ہے قرآن مجید کی بکثرت تلاوت کرنا مستحب ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایک حرف پڑھا اس کے لیے نیکی ہے دس نیکیوں کے برابر (ترمذی) میری امت کی بہترین عبادت تلاوت قرآن ہے (بیہقی) اپنے مکانوں کو قرآن کی تلاوت اور نماز سے روشن و منور کرو قرآن مجید روز قیامت سفارش کرے گا (مسلم) جس کے سینہ میں قرآن نہیں وہ ویران مکان کی طرح ہے۔ تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا۔ حافظ قرآن کے والد کو روز قیامت ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا۔ جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی۔

۱۰۔ عقیدہ : قرآن مجید کا دیکھ کر پڑھنا زبانی پڑھنے سے افضل ہے کیونکہ قرآن مجید کو دیکھنا اور ہاتھوں سے چھونا بھی عبادت ہے۔ مستحب ہے کہ قرآن مجید با وضو قبلہ رخ اچھے

کپڑے پہن کر تلاوت کرے۔ شروع تلاوت میں اعوذ پڑھنا واجب اور ابتدائے سورۃ بسم اللہ پڑھنا سنت و مستحب ہے عین دن سے کم میں قرآن کا ختم کرنا مناسب نہیں مجمع میں سب کا قرآن مجید کو بلند آواز پڑھنا ممنوع ہے۔ سب آہستہ پڑھیں۔ بلند آواز سے قرآن پڑھنا جائے تو تمام حاضرین پر خاموشی سے سنا فرض ہے۔ قرآن مجید پڑھ کر بھلا دینا گناہ ہے۔ حضور نے فرمایا جو قرآن پڑھ کی بھلا دے قیامت کے دن کوڑھی ہو کر اٹھے گا۔ (ابوداؤد)

۱۱۔ عقیدہ: حضور ﷺ نے فرمایا وہ شخص رشک کے قابل ہے جو صبح و شام قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے۔ بوقت تلاوت قرآن ہنسنا بے فائدہ بات کرنا، بے جا حرکت کرنا، ناجائز چیز کی طرف دیکھنا، کسی سے بات کرنے کے لیے تلاوت قطع کرنا بہت ہی نامناسب ہے، جس روز قرآن ختم ہوا اس دن روزہ رکھنا مستحب ہے۔ جب آدمی سارا قرآن ختم کر لیتا ہے تو یہ وقت نزول رحمت کا ہے۔ اس وقت ایک دعا قبول ہوتی ہے۔ اس لیے اپنے اور سب مسلمانوں کے لیے خیر و برکت اور گناہوں کی مغفرت کی دعا کرنی چاہیے۔

۱۲۔ عقیدہ: قرآن مجید کی تلاوت بے وضو بھی جائز ہے مگر بے وضو ہاتھ لگانا منع ہے اور جنبی جسے نہانے کی ضرورت ہو، وہ مستورات جو حیض و نفاس والی ہوں انہیں قرآن کو چھونا زبانی یاد کچھ کر پڑھنا یا کسی آیت کا لکھنا ناجائز ہے۔ قرآن مجید کے اوراق بوسیدہ ہو جائیں تو کسی پاک کپڑے میں لپیٹ کر بغلی قبری بنا کر ادب و احترام سے دفن کر دینا چاہیے۔ اگر بلا اختیار قرآن مجید ہاتھ سے گر جائے یا پاؤں تلے آجائے تو اٹھا کر چوم لیجئے۔ استغفار کیجئے۔ قرآن کے ہم وزن آناخیرات کر دینا اچھا ہے۔ قرآن مجید یا دینی کتابوں کی طرف پیٹھ یا پاؤں کرنا بے ادبی ہے۔ قرآن مجید کا ادب و احترام لازم و واجب ہے۔ جان بوجھ کر قرآن مجید کی بے ادبی کرنا کفر ہے۔ قسم کے طور پر قرآن پر ہاتھ رکھنا، یا سر پر رکھنا یا قرآن کی قسم کھانا مناسب نہیں۔ اگر چہ قسم ہو جائے گا، اور قسم توڑنے پر کفارہ لازم ہوگا۔

۴۔ فرشتے

ملائکہ پر ایمان لانا بھی ہمارے ایمان کا ایک لازمی جزو ہے۔ کیونکہ توحید و رسالت پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ فرشتوں کے وجود کو ماننا اور ان پر یقین رکھنا بھی ایمان ہی کا ایک

marfat.com

Marfat.com

حصہ ہے بلکہ ان کے وجود کا انکار کفر ہے۔ اسلام کی رو سے اس ان کے متعلق مندرجہ ذیل عقائد رکھنا ضروری ہے۔

۱۔ **عقیدہ:** انسانوں اور جنوں کی طرح فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہیں اور وہ نور سے بنائے گئے ہیں ان کے جسم نورانی اور لطیف ہیں۔ وہ ہمیں ان مادی آنکھوں سے نظر نہیں آتے البتہ باطن کی آنکھ سے نظر آ سکتے ہیں۔ وہ جنس سے منزہ ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے معصوم اور مکرم بندے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہر لحاظ سے مطیع اور فرمانبردار ہیں اور وہ گناہ اور معصیت سے بھی بالکل پاک ہیں نہ وہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں۔ وہ ہر وقت اللہ کی بندگی اور اطاعت میں مصروف رہتے ہیں وہ قصداً یا سہواً خطا نہیں کرتے۔

۲۔ **عقیدہ:** فرشتے ایسی مخلوق ہے جو ہر وقت بارگاہ رب العزت میں حاضر باش ہے انہیں اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت دی ہے کہ جو شکل چاہیں اختیار کر لیں۔ ان کی اصلی شکل بھی ہے۔ پیغمبروں کے پاس آنے والے فرشتے اپنی اصل شکل میں بھی آتے رہے ہیں اور انسانی شکل میں بھی آتے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو اتنی قوت عطا کر رکھی ہے کہ بڑے بڑے شدید کام سرانجام دے سکتے ہیں جسے انسان نہیں کر سکتا۔

۳۔ **عقیدہ:** فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے انہیں بھی ایک مخلوق تسلیم کیا جائے۔ لہذا ان کی شان میں گستاخانہ الفاظ استعمال کرنا سخت گناہ ہے اور انہیں بیٹیاں قرار دینا اسلامی عقیدے کی سراسر خلاف ہے۔

۴۔ **عقیدہ:** تمام فرشتوں میں چار فرشتے اللہ تعالیٰ کے مقرب ہیں۔ یہ فرشتے بڑی عظمت والے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں سب فرشتوں پر فضیلت دے رکھی ہے۔ حضرت جبرائیل سب سے مکرم فرشتے ہیں۔ ان کا کام پیغمبروں کے پاس وحی لے جانا ہے۔ دوسرے مکرم فرشتے حضرت میکائیل ہیں۔ ان کے ذمے رزق کی تقسیم اور پانی برسانا ہے۔ تیسرے فرشتے حضرت اسرافیل علیہ السلام ہیں۔ جو قیامت کو صور پھونکیں گے۔ وہ پہلی بار تمام کائنات کی ہلاکت کا صور پھونکیں گے ان کے صور سے ہر چیز فنا ہو جائیگی۔ دوسری بار پھر جب وہ صور پھونکیں گے تو تمام زندہ ہو جائیں گے۔ اور میدان حشر میں حاضر ہو جائیں گے۔ چوتھے مکرم فرشتے حضرت عزرائیل ہیں۔ جو تمام ارواح کو قبض کرنے کے مجاز و مختار ہیں۔ ان فرشتوں کی ماتحتی میں بے شمار اور فرشتے کام کرتے ہیں۔ ان فرشتوں کے علاوہ

حالیں عرش فرشتے بھی بڑے با عظمت ہیں جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے۔

۵۔ عقیدہ : فرشتے جب سے پیدا ہوئے ہیں ان پر موت نہیں۔ قیامت تک وہ رہیں گے۔ انکی حیات جاودانی ہے ان کی تعداد لامحدود ہے اس لیے اللہ تعالیٰ ہی ان کی تعداد کو جانتا ہے یا جسے وہ بتائے اسے علم ہو سکتا ہے یا اس کے بتانے سے اسکے رسول جانے ان کا مسکن ساتوں آسمان ہیں۔ البتہ جن فرشتوں کی ڈیوٹی زمین پر لگی ہوئی ہے وہ زمین پر رہتے ہیں۔ جن فرشتوں کی جس کام پر ڈیوٹی لگ جائے وہ تا حکم ثانی اس پر مامور رہتے ہیں۔

۶۔ عقیدہ : تمام فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مختلف کاموں میں مصروف ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ”وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ جو انہیں اللہ تعالیٰ کا حکم دیا جاتا ہے وہی کرتے ہیں۔“ (التحریم: ۶) ایک اور مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ”جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں جانداروں سے ہے اور فرشتے سب اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے۔“ (نمل: ۳۹) ایک اور مقام پر ارشاد ہوا ہے کہ ”سب فرستے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور ان کے لیے جو زمین میں ہیں، مغفرت مانتے ہیں۔“ (الشوریٰ: ۵)

۷۔ عقیدہ : ہر آدمی پر نگران فرشتے مقرر ہیں تاکہ دوسری مخلوق انہیں نقصان نہ پہنچائے ارشاد الہی ہے کہ ”ایسی کوئی بھی جان نہیں کہ جس پر محافظ مقرر نہ ہو“ (طارق: ۳) اس کے علاوہ ہر آدمی پر دو ایسے فرشتے مقرر ہیں کہ جو انسان کی نیکیاں اور برائیاں لکھتے ہیں۔ اس طرح ہر آدمی کی نیکی اور بدی کا ریکارڈ تیار ہو رہا ہے اس کے متعلق ارشاد ہے کہ ”بے شک تم پر محافظ ہیں۔ عزت والے، اعمال لکھنے والے وہ جانتے ہیں جو تم کیا کرتے ہو“ (انفطار: ۱۰) مزید ارشاد ہے کہ وہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کا بھید اور مشورہ نہیں سنتے کیونکہ ہمارے بھیجے ہوئے ان کے پاس لکھ رہے ہیں۔ (زخرف: ۸۰)

۸۔ عقیدہ : فرشتوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا بھی لازم ہے کہ فرشتے اللہ کے حکم سے مسلمانوں کی مدد کے لیے بھی نازل ہوتے ہیں۔ چنانچہ غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے اتارے۔ ارشاد ہے کہ ”جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے جواب میں فرمایا میں تمہاری مدد کے لیے پے درپے ایک ہزار فرشتے بھیج رہا ہوں“ (الانفال: ۹۰) غزوہ احد میں بھی مسلمانوں کی مدد کے لیے

فرشتے اتارے گئے ارشاد ہے کہ ”اگر تم صبر کرو اور پرہیزگاری کرو۔ اور وہ تم پر یکدم حملہ کر دیں تو تمہارا رب پانچ ہزار فرشتے نشان دار گھوڑوں پر مدد کے لیے بھیجے گا۔“ (آل عمران: ۱۲۵) اس طرح غزوہ حنین میں بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے نازل فرمائے۔

۹۔ عقیدہ : موت کے وقت فرشتوں کا انسانوں کے پاس آنا، نیک لوگوں سے اچھا سلوک کرنا اور برے لوگوں سے برا سلوک کرنا برحق ہے کیونکہ جب کوئی نیک آدمی فوت ہوتا ہے تو فرشتوں کی جماعت خوبصورت لباس اور خوبصورت شکل میں آتی ہے اور اسے اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے اور جنت کی خوشخبری دیتی ہے تاکہ مسلمان محبت کے ساتھ بارگاہ رب العزت میں پیش ہو سکے اور روح بڑے آرام سے نکل کر عالم برزخ میں منتقل ہو جاتی ہے مگر جب کافر کی جان نکالتے ہیں تو ان کے چہرے پر مارتے ہیں اور سختی سے ان کی جان قبض کرتے ہیں۔

۱۰۔ عقیدہ : جنت کے دروازوں پر اور جنت کے اندر بے شمار فرشتے خوبصورت شکل میں ہوں گے اور اہل جنت کی خدمت کریں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ”جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ جنت کی طرف گروہ درگروہ جائیں گے۔ یہاں تک کہ وہ اس کے پاس پہنچ جائیں گے اور اس کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے تو جنت کے داروغہ فرشتے کہیں گے کہ تم پر سلام ہو تم اچھے لوگ ہو پس اس میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔“ (الزمر: ۷۳)

ایسے ہی دوزخ میں کفار کو طرح طرح کے عذاب میں مبتلا کرنے کے لیے فرشتے مقرر ہونگے ارشاد ہے کہ ”آپکو کیا خبر دوزخ کیا ہے؟ نہ باقی چھوڑے آدمی کو جھلس دے اس پر انیس فرشتے مقرر ہیں۔“ (المدثر: ۳۰ تا ۳۷)

۵۔ جنات

جنات ایک طرح کی مخلوق ہے جو انسانوں سے پہلے اس کرہ ارض میں آباد کی گئی۔ یہ مخلوق آگ سے پیدا کی گئی ہے اور اس مخلوق کے جسم لطیف ہیں اس لیے یہ ظاہری آنکھوں سے نظر نہیں آتی۔ جنات بالکل انسانوں ہی کی طرح ہیں ان کی پیدائش کا سلسلہ بھی نسل در نسل ہے

marfat.com

جنات انسانوں کی طرح کھاتے پیتے ہیں۔ اور انہیں موت بھی آتی ہے۔ جنات کے وجود کا انکار کرنا جہالت ہے اس مخلوق کے متعلق اسلامی عقائد حسب ذیل ہیں:

۱- **عقیدہ:** جن بھی انسان کی طرح اللہ کی مخلوق ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کے اس لیے پیدا کیا کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ یہ مخلوق ناری ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جنوں کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا ہے۔ جنات کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی طرح کافی قوت عطا فرما رکھی ہے کہ وہ جو شکل چاہیں اختیار کر سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ لطیف مخلوق ہونے کے باعث انسانوں کے جسم میں بھی داخل ہو جاتے ہیں۔

۲- **عقیدہ:** جنات بھی انسانوں کی طرح اپنے اپنے دور میں رسولوں کی امت میں داخل ہوئے اور حضور ﷺ کی بعثت کے بعد ہر جن کے لیے حکم الہی یہی ہے کہ وہ اسلام قبول کر کے صاحب ایمان ہو کر زندہ رہے مگر جنات میں بھی بعض جنات غیر مسلم ہیں۔ جنات کیلئے شرع محمدی کی پابندی لازم ہے کیونکہ قیامت کے روز ان کا بھی حساب ہوگا اور انہیں بھی جزا یا سزا ملے گی۔

۳- **عقیدہ:** مسلمان جن قرآن پڑھتے ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں کیونکہ ارشاد الہی ہے کہ ”جب ہم نے چند جنوں کو آپ کی طرف یعنی حضور ﷺ کی طرف متوجہ کر دیا کہ وہ قرآن سنیں تو وہ آپ کی خدمت میں آئے اور آپس میں کہنے لگے کہ خاموش رہو۔ پھر جب آپ سے قرآن سن کر واپس اپنی قوم میں گئے تو ان میں اللہ کا خوف پیدا ہو گیا اور واپس جا کر کہنے لگے، اے ہمارے ساتھیو! ہم نے ایک ایسی کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی ہے اور پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ اور دین حق اور ہدایت کی طرف راہنمائی کرتی ہے اے ہماری قوم! اللہ کی طرف بلائے والے کی بات مانو اور اس پر ایمان لاؤ تک اللہ تمہارے گناہ بخشے اور تمہیں عذاب سے بچائے۔“

۴- **عقیدہ:** جنات میں سے تخلیق آدم پر حکم الہی کی جس نے نافرمانی کی اسے ابلیس کہا جاتا ہے یہ جنات کا سردار ہے اس نے عبادت اور اطاعت کی بنا پر قربت الہی حاصل کی۔ مگر حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا جس سے خداوندی کا نافرمان ہو گیا اور ہمیشہ کے لیے بارگاہ رب العزت میں لعین اور مردود ہو گیا۔ اس نے قیامت تک کیلئے اللہ تعالیٰ سے مہلت حاصل کر لی اور انسانوں کو رہ راست سے گمراہ کرنے کی برائی اپنے ذمے لے چونکہ وہ انسان دشمنی میں پیش پیش ہے اس لیے اسے شیطان کہا جاتا ہے۔ جنوں

کے گروہ کو شیاطین کہا جاتا ہے۔ شیاطین نے انبیاء اور نیک لوگوں کی مخالفت کی اور تا قیامت کرتے رہیں گے مگر جو اللہ کے بندے ہوں گے انھیں گمراہ نہ کرے سکیں گے۔

۵۔ عقیدہ : شیاطین انسانوں کو بہکانے کے لیے ایک حربہ یہ استعمال کرے ہیں کہ وہ بعض غیب کی خبر لانے کے لیے آسمان کی طرف جاتے ہیں تاکہ وہاں کے فرشتوں سے آنے والے وقت کی باتیں سن لیں اور پھر انسانوں میں لا کر پھیلا کر اپنا سکہ جمائیں کہ وہ پوشیدہ باتوں کو بھی جانتے ہیں اس طرح وہ انسانوں کو جھوٹے فریب میں مبتلا کر کے بہکانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور انسانوں کے دلوں میں وسوسے ڈال کر رہ ہدایت سے گمراہ کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایسے شیاطین سے پناہ مانگنے کی بے حد تاکید فرمائی ہے تاکہ شیاطین کے حربے اور فریب ناکام ہو جائیں اور اللہ کے بندے ہمیشہ اللہ کی پناہ میں رہیں۔

۶۔ عقیدہ : شیاطین کفر کے ساتھی ہیں اس لیے اس کا ساتھ دیتے ہیں اور اسے پھیلاتے ہیں اور جادو کو فروغ دینے میں شیطان کا حصہ ہے، ہاروت اور ماروت سے انھوں نے جادو سیکھ کر انسانوں میں جدائی ڈالنے کے برائی بھی اپنے ذمے لے رکھی ہے اور خاص کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں شیاطین نے جادو کو خوب پھیلا یا اس لیے جادو کرنے والا شیاطین کا ساتھی ہے۔

۷۔ عقیدہ : راہ حق سے گمراہ کرنے والے جنات بھی برے انسانوں کے ساتھ دوزخ میں جائیں گے کیونکہ قرآن میں ہے کہ ”جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو جمع کرے گا اور ان سے کہے گا کہ تم نے بہت سے آدمیوں کو اپنا ساتھی بنا لیا ہے اور وہ آدمی جو شیاطین کے دوست ہوں گے وہ کہیں گے کہ تمہارے رب! ہم تو صرف ایک دوسرے کا ذریعہ بنے تھے۔ آج ہم اپنے مقبرہ وقت کو پہنچے جو تو نے ہمارے لیے مقرر کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جاؤ آج سے تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو“ اس سے معلوم ہوا کہ شیطانوں کا انجام برا ہوگا لہذا ان سے محفوظ رہنے کے لیے اللہ سے مدد مانگنی چاہیے۔

۸۔ عقیدہ : جن یا شیطان کے وجود کا انکار کرنا اسلام اور ایمان کے منافی ہے کیونکہ بعض لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جنات کچھ نہیں بلکہ انسانی ذہن کا گمان ہے ایسے ہی بعض لوگ انسان کے اندر چھپی ہوئی برائی کی قوت کو جن قرار دے دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جنات کا کوئی خارجی وجود نہیں۔ اس طرح کی تمام باتیں اللہ تعالیٰ کے کلام یعنی قرآن مجید

کے عقائد کے برعکس ہیں اور یہ سب کفر کی باتیں ہیں کیونکہ جنات کا ہونا قرآن سے ثابت ہے۔ اس لیے جنات کو تسلیم نہ کرنا قرآن کی نفی ہے جس سے کفر کا اظہار ہوتا ہے۔ لہذا جنات اور شیاطین کے وجود کو تسلیم کرنا عین تقاضائے ایمان ہے۔

۶۔ تقدیر

اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات کی پیدائش سے پہلے ہر نیکی اور بدی اپنے ازلی علم کے مطابق لکھ دی ہے۔ جیسا ہونے والا تھا اور ہر انسان اپنی مرضی اور خوشی سے جو کچھ کرنے والا تھا اس نے اپنے علم سے جانا اور وہی لوح محفوظ میں لکھ لیا۔ اس کا نام تقدیر یا قضاء ہے۔ ایسا ہرگز نہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے ویسا ہی ہمیں کرنا پڑتا ہے اور ہم ویسا کرنے پر مجبور ہیں بلکہ جیسا کام ہم اپنے ارادہ سے کرنے والے تھے ویسا اس نے لکھ دیا۔ یہی تقدیر ہے۔ تقدیر متعلقہ عقائد مندرجہ ذیل ہیں:

۱۔ عقیدہ : عقیدہ تقدیر یہ ہے کہ دنیا میں جو کچھ اب تک ہوا ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے اور آئندہ جو کچھ ہوگا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلہ ازلی کے مطابق ہوا ہے ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا۔ یعنی جیسا جیسا ہونے والا تھا اور جیسا ہم کرنے والے تھے اس نے اپنے ازلی علم کے مطابق جانا اور لکھ دیا کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ”ہم نے ہر چیز کو اندازے سے پیدا کیا۔“ ایک اور مقام پر فرمایا کہ ”اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کیلئے تقدیر بنائی ہے۔“ یعنی اندازہ لگا کر رکھا ہوا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تقدیر پر ایمان رکھنا بھی ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے۔ کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ چار چیزوں پر سچے دل سے ایمان نہ لائے۔ اول یہ گواہی دینا کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے اور پیشک میں اللہ کا رسول ہوں۔ اس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے۔

(۱) اور موت کو سچا جانے۔

(۳) اور ایمان لائے موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر۔

(۴) اور ایمان لائے تقدیر پر یعنی اس کو سچا جانے۔ (ترمذی شریف)

۲۔ عقیدہ : تقدیر کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا بھی ضروری ہے کہ تقدیر تین قسموں کی ہے:-

(۱) **مبرم حقیقی**: یہ وہ تقدیر اور قضا ہے جو کسی صورت نہیں ٹل سکتی۔ اگر اللہ تعالیٰ کے محبوب اور مقبول بندے اس تقدیر کے بارے میں خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ عرض کرتے ہیں تو انہیں فوراً اس خیال سے روک دیا جاتا ہے۔ جیسے فرشتے جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب لے کر آئے تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام قوم لوط سے عذاب اٹھانے کے بارے اپنے رب سے جھگڑنے لگے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ ”وہ قوم لوط کے بارے میں ہم سے جھگڑنے لگا“ چونکہ یہ تقدیر نہ ٹلنے والی تھی اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم! اس خیال پر توجہ نہ دو کہ ان پر وہ عذاب آنے والا ہے اور ٹلنے والا نہیں۔

(۲) تقدیر کی دوسری قسم **معلق محض** ہے اور یہ وہ ہے جس کا ٹلنا کسی چیز پر موقوف اور معلق ہے اور فرشتوں کو اس تقدیر کے ٹلنے کا علم دے دیا گیا ہے۔ یہ تقدیر اکثر اولیاء اللہ کی دعا اور توجہ سے ٹل جاتی ہے اور وہ من جانب اللہ اس تک رسائی رکھتے ہیں۔ حدیث پاک میں اسی تقدیر کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ تقدیر کو صرف دعا ہی ٹال سکتی ہے۔

(۳) تیسری معلق شبیہ بہ مبرم۔ یہ وہ تقدیر ہے جس کا ٹلنا اللہ تالیف کے علم میں کسی چیز پر موقوف ہے۔ فرشتوں کو اس کی اطلاع نہیں دی گئی۔ اس لیے یہ تقدیر بظاہر تقدیر مبرم کی طرح نظر آتی ہے۔ اس تقدیر تک اللہ تعالیٰ کے خاص الخاص اور مقبول بندوں کی رسائی ہوتی ہے اور ان کی دعا سے ٹل جاتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے۔ بے شک دعا قضاے مبرم کو ٹال دیتی ہے۔

۳۔ **عقیدہ**: تقدیر کے متعلق محض نظر یہ جبر یعنی انسان ہر اچھائی اور برائی کرنے پر محض مجبور ہے۔ یہ نظریہ رکھنا تقاضائے ایمان کے بالکل برعکس ہے۔ ایسے ہی نظریہ قدر یعنی انسان کو کھلی چھٹی ہے جو چاہے کرے۔ یہ بھی نظریہ تقدیر کے خلاف ہے۔ اس لیے انسان کو پتھر کی طرح بالکل مجبور یا بالکل خود مختار سمجھنا دونوں جہالت اور گمراہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک کام کرنے اور نہ کرنے کا اختیار دیا ہے۔ اس کے ساتھ عقل اور تمیز بھی عطا کی ہے تاکہ اچھے اور برے اور نفع و نقصان کو پہچان سکے اور دونوں طرح کے کام کرنے کے اسباب مہیا کر دیئے ہیں۔ اب انسان چاہے تو اپنی مرضی سے اچھا کام کرے اور چاہے اپنی مرضی سے برا کام کرے۔ اچھے کام پر ثواب پائے گا اور برے کام پر اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہوگا اور اس کی سزا پائے گا۔

۴۔ عقیدہ : برے کاموں کو کرنے کے بعد تقدیر کی طرف منسوب کرنا یا یہ کہنا کہ برائی میرے مقدر میں لکھی تھی لہذا برا کام میں نے کرنا ہی تھا بالکل تقاضائے ایمان کے خلاف ہے اور ناجائز ہے کیونکہ برائی عموماً انسان اپنے نفس کی خواہشات پر کرتا ہے اس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا چاہئے کہ نہ معلوم کہ اطاعت الہی میں کون سی کمی ہو گئی ہے جس کی بنا پر اس کا نفس برائی میں ملوث ہو گیا ہے۔ علماء کا کہنا ہے کہ جو کامیابی ہمیں حاصل ہوتی ہے اس کے متعلق یہ نہیں سمجھنا چاہئے کہ یہ سب کچھ ہماری کوشش کا نتیجہ ہے بلکہ یہ سمجھنا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کا نتیجہ تاکہ کامیابی پر فخر و غرور پیدا نہ ہو۔ ایسے ہی اگر کوشش کے باوجود کوئی کام نہ ہو تو اسے بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت سمجھنا چاہئے۔

۵۔ عقیدہ : تقدیر کا انکار بندہ کو ایمان سے خارج کر دیتا ہے اس لیے مسئلہ تقدیر بڑا نازک ہے کسی صورت میں اللہ تعالیٰ پر گلہ نہیں کرنا چاہئے بلکہ تقدیر کے منکر کے ساتھ تعلقات رکھنا بھی درست نہیں۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تقدیر کے منکر اس امت کے مجوسی (آگ پوجنے والے) ہیں۔ اگر وہ بیمار ہو جائیں تو ان کی عبادت نہ کرو اور اگر وہ مر جائیں تو ان کا جنازہ نہ پڑھو۔ (ابوداؤد شریف)

۶۔ عقیدہ : قضاء و قدر کے مسائل عام عقل سے بالاتر ہے۔ البتہ مشاہدہ یا روحانی کشف کے ذریعے تقدیر کے مسائل بالکل عیان ہو جاتے ہیں اس لیے عام طور پر تقدیر کے مسائل میں الجھنے کو اچھا قرار نہیں دیا گیا یا تقدیر کے امور کو ہر وقت زیر بحث بنائے رکھنا ہلاکت اور نامرادی کی دلیل ہے اس لیے صوفیاء اور علماء نے اس پر بیجا بحث کرنے سے منع فرمایا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ہم (صحابہ) اس وقت تقدیر پر بحث و تکرار کر رہے تھے تو حضور کا چہرہ مبارک غضب و ناراضگی کی وجہ سے انار کے دانے کی طرح سرخ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کیا تمہیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے؟ کیا میں یہی بات تمہارے پاس دے کر بھیجا گیا ہوں؟ تم سے پہلے لوگوں نے جب تقدیر میں بحث کی تو وہ ہلاک ہو گئے۔ میں تمہیں قسم دے کر منع کرتا ہوں کہ تقدیر میں بحث و تکرار نہ کرنا۔ (ترمذی)

حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے

تقدیر کے مسئلہ میں تھوڑی سی بھی بحث و تکرار کی۔ قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا اور جس نے تقدیر میں بحث نہ کی اس سے اس کے بارے سوال نہیں کیا جائے گا۔

۱۔ موت

اس عالم رنگ و بو میں ہر ذی روح کو مقررہ وقت کے بعد موت ہے اس کے بعد قیامت تک کا عرصہ ہے پھر قیامت پر یک دم ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ ان تمام مراحل کو یوم آخرت میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس یوم آخرت کو حق اور سچ ماننا ایمان اور دین اسلام کا ایک اہم بنیادی عقیدہ ہے اس کا انکار کفر ہے۔ کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اہل ایمان وہ ہیں جو یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔

۱۔ عقیدہ: ہر شخص کو موت ہے کیونکہ ہر انسان کی ایک حد تک زندگی مقرر ہے۔ جب وہ اسے پورا کر لیتا ہے تو اسے یہ جہان چھوڑنا پڑتا ہے اس کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہر نفس موت کا ذائقہ چکھے گا۔ اس لیے ہم تمہیں شر خیر اور فتنہ سے آزماتے ہیں اور ہر ایک نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ نیز ارشاد ہے کہ بے شک اس کے بعد تم مرنے والے ہو۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہے کہ ہر چیز جو زمین پر ہے۔ فنا ہونے والی ہے اس سے معلوم ہوا کہ موت پر یقین رکھنا برحق ہے۔

۲۔ عقیدہ: دنیا میں کسی چیز کو بھی ہمیشگی نہیں بلکہ ہر ایک کی موت کا وقت مقرر ہے جب وہ وقت آ جاتا ہے تو وہ اسی مقام پر کسی نہ کسی بہانے پہنچ جاتا ہے کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ”اے نبی! آپ سے پہلے ہم نے کسی آدمی کو ہمیشہ دنیا میں زندہ نہیں رکھا اگر آپ پردہ کر گئے تو کیا وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔“ (انبیاء: ۲۲)

حضرت مطربن عکاس سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ”جب اللہ تعالیٰ کسی کیلئے کسی مقام پر موت لکھ دیتا ہے تو اس کیلئے وہاں کوئی ضرورت پیدا کر دیتا ہے۔“ (ترمذی)

۳۔ عقیدہ: مسلمان کو موت کیلئے تیار رہنا چاہیے۔ کسی بہانے اس سے بچا نہیں جاسکتا ہے۔ کیونکہ موت سے بھلا گناہ نفع بخش نہیں ہے کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ”اے نبی! ان

سے فرمادیتے تھے کہ اگر تم موت سے فرار حاصل کرنا چاہو تو وہ ہرگز نفع نہیں دے گا اور اس وقت تمہیں تھوڑا ہی فائدہ پہنچایا جائے گا۔“ (احزاب: ۳۳) سورت جمعہ میں ہے کہ ”اے نبی ان سے فرمادیتے تھے کہ وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو تم سے ضرور ملاقات کرنے والی ہے اور پھر تم ظاہر اور پوشیدہ کا علم رکھنے والے کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ پس وہ تمہیں تمہارے عملوں سے آگاہ کر دے گا۔“ (جمعہ: ۸)

۳۔ عقیدہ : موت کا وقت اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معلوم نہیں کیونکہ وہی جانتا ہے کہ کس کا وقت آ گیا ہے کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ”اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں مرے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہی جاننے والا ہے۔“ (لقمان: ۳۳)

۵۔ عقیدہ : موت ملک الموت کے ذریعے ہے کیونکہ جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو وہ جان نکال کر لے جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ”اے نبی! کہہ دیجئے کہ تمہیں موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر ہے۔ مارے گا پھر تم اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔“ (سجدہ: ۱۱)

۶۔ عقیدہ : موت کے وقت کافروں کا ایمان لانا مقبول نہیں کیونکہ ایمان لانے کا وقت تو موت سے پہلے کا ہے اس لیے جب عالم نزع طاری ہو جائے تو اس وقت کا ایمان لانا قبول نہیں ہوتا۔ کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ”اے نبی! کاش کہ تم انہیں اس وقت دیکھو جبکہ وہ گھبرارے ہوں گے پس وہ بھاگ نہ سکیں گے اور قریب ہی کی جگہ سے پکڑے جائیں گے اور کہیں گے کہ ہم اس پر ایمان لے آئے اور ان کیلئے ان کا دور جگہ سے ان کا پکڑنا کہاں جبکہ وہ پہلے اس کا انکار کر چکے ہیں اور بن دیکھے دور ہی سے اپنے اندازے اور اپنے خیال کو وار کرتے ہیں۔“

(سبا: ۵۱، ۵۳)

۷۔ عقیدہ : موت کا مطلب روح کا جسم سے جدا ہو جانا ہے یہ نہیں کہ روح مر جاتی ہے۔ روح کو فانی ماننا غیر اسلامی عقیدہ ہے۔ اس کے علاوہ یہ خیال کرنا کہ موت کے بعد ایک انسان کی روح کسی دوسری صورت میں حلول کر جاتی ہے جسے تناسخ اور اوگون کہتے ہیں محض باطل اور ہنود کا عقیدہ ہے اور اس کا ماننا کفر ہے۔

۸۔ قبر یعنی عالم برزخ

دنیا اور آخرت کے درمیان جو عالم ہے اسے برزخ کہتے ہیں۔ موت کے بعد اور قیامت قائم ہونے سے پہلے تک یعنی ایک مقررہ مدت تک تمام انسانوں اور جنوں کو حسب مراتب اس میں رہنا ہے۔ برزخ کے معنی پردہ کے ہیں اس کے بارے میں ارشاد ہے کہ ”ان کے آگے قیامت تک پردہ ہے۔“ (المومنون: ۱۰) یعنی عالم برزخ سے مراد پردے کا عالم ہے۔ یہ عالم بہت بڑا ہے۔ دنیا کے ساتھ عالم برزخ کو وہی نسبت ہے جو ماں کے پیٹ کے ساتھ دنیا کو ہے۔ اس عالم میں جزا اور سزا کا سلسلہ موجود ہے جو شخص نیک ہو اسے برزخ میں آرام ملے گا اور کفار اور برے لوگوں کو سزا ملے گی۔ اس کے متعلق عقائد حسب ذیل ہیں:

۱۔ عقیدہ: قبر میں تمام کافروں اور مشرکوں اور بعض اہل ایمان کا عذاب میں مبتلا ہونا اور ایسے ہی قبر میں فرمانبردار لوگوں کو انعام اور ثواب ملنا برحق اور قرآن و سنت سے ثابت ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قبر یا تو جنت کا ایک باغیچہ ہے یا دوزخ کا ایک گڑھا ہے۔

ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے عذاب قبر کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا ہاں عذاب قبر برحق ہے۔ آپؐ فرماتی ہیں۔ میں نے اس کے بعد ہر نماز کے بعد آپؐ کو عذاب قبر سے پناہ مانگتے دیکھا۔ (بخاری)

حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب کسی قبر پر جاتے تو اس قدر روتے کہ داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جایا کرتی تھی۔ کسی نے آپؐ سے پوچھا جنت و دوزخ کا ذکر کرتے ہو مگر روتے نہیں لیکن قبر کو دیکھ کر رو پڑتے ہیں۔ آپؐ نے جواب دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ پس اگر بندہ عذاب قبر سے نجات پا گیا تو اس کے بعد جو کچھ ہے وہ اس سے بہت آسان ہے اور اگر عذاب قبر سے نجات نہ پائی تو کے بعد جو کچھ ہے وہ عذاب قبر سے بھی زیادہ سخت ہے۔ (ترمذی)

۲۔ عقیدہ: منکر اور نکیر دو فرشتوں کا قبر میں آکر مردے سے اللہ تعالیٰ دین اسلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کرنا بھی برحق اور قرآن و حدیث سے ثابت

ہے جس کا انکار کفر الہی ہے۔

موت کے بعد عالم برزخ میں مردے کے پاس دو فرشتے آتے ہیں ان کی شکلیں خوفناک ہوتی ہیں۔ وہ آ کر مردے کو اٹھا کر بٹھاتے ہیں اور سوال و جواب کرتے ہیں۔ اس کے متعلق حدیث پاک میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر میں مردے کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور اسے بٹھا کر پوچھتے ہیں۔ ”من ربک؟“ تیرا رب کون ہے؟ تو مسلمان کہتا ہے۔ ”ربی اللہ“ میرا رب اللہ ہے۔ وہ اس سے پوچھتے ہیں۔ ”ہا دینک“ تیرا دین کیا ہے؟ تو وہ جواب دیتا ہے۔ ”دینی الاسلام“ میرا دین اسلام ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں ”ما هذا الرجل الذی بعث فیکم“ یہ کون بزرگ ہیں جو تمہارے پاس بھیجے گئے تھے؟ تو وہ مسلمان جواب دیتا ہے ہو رسول اللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔

پھر فرشتے پوچھتے ہیں کہ تجھے کس طرح معلوم ہوا تو وہ جواب دیتا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید میں پڑھا تو اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد یثبت اللہ الذین امنوا بانقول الثابت۔ کا یہی معنی ہے کہ ”اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو مضبوط بات کے ساتھ ثابت قدم رکھے گا۔“

آپ نے فرمایا پھر آسمان سے آواز آتی ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا اس کے لیے جنتی بستر بچھاؤ اور اس کو جنتی لباس پہناؤ اور اس کی قبر میں جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو۔ چنانچہ جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دیا جائے گا جس سے اس کو جنتی ہوا اور خوشبو آتی رہے گی اور اس کی قبر کو حد نظر تک کشادہ کر دیا جائے گا۔

اگر مردہ کافر ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی موت کی سختی کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا (قبر میں) اس کی روح دوبارہ بدن میں لوٹائی جائے گی اور دو فرشتے آئیں گے اور اسے بٹھا کر پوچھیں گے۔ ”من ربک“ تیرا رب کون ہے؟ وہ کہے گا ”ہاھالا ادری“۔ افسوس مجھے تو کوئی معلوم نہیں۔ وہ پوچھیں گے۔ ”ہا دینک“ تیرا دین کیا ہے۔ وہ جواب دے گا۔ ”ہاھالا ادری“ ہائے افسوس! مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں۔ پھر وہ پوچھیں گے۔ ”یثبت اللہ الذین امنوا بانقول الثابت“ یہ کون بزرگ ہیں جو تمہاری طرف بھیجے گئے تھے۔ وہ کہے گا ہائے افسوس مجھے تو کوئی معلوم نہیں تو پھر آسمان سے آواز آتی ہے اس

نے جھوٹ بولا ہے اس کیلئے دوزخی بستر بچھا دو اور اس کو دوزخی لباس پہنا دو اور اس کی قبر میں دوزخ کی طرف ایک دروازہ کھول دو تو اس دروازے سے اس کو دوزخ کی گرم ہوا اور تپش پہنچتی رہے گی اور کافر کی قبر اس قدر تنگ کر دی جاتی ہے کہ اس کی ادھر کی پسلیاں ادھر نکل جاتی ہیں۔ پھر اس پر ایک اندھا بہرہ فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے جس کے پاس لوہے کی ایک بھاری گرز ہوتی ہے۔ وہ گرز اگر پہاڑی پر مارا جائے تو وہ سرمہ بن جائے۔ وہ فرشتہ اس گرز کے ساتھ اس کو مارتا ہے جس کی آواز سوائے جنوں اور انسانوں کے مشرق و مغرب تک ہر چیز سنتی ہے۔ وہ اس گرز کی مار سے مٹی ہو جائے گا۔ پھر اس کے جسم میں روح ڈال کر دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ (اور اسی طرح قیامت تک مارتا رہے گا)۔ (احمد ابن ماجہ)

۳۔ عقیدہ : جب مردے کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو قبر اس کو دباتی ہے۔ اگر وہ مسلمان ہو تو اس کا دبانا ایسا ہوتا ہے جیسے ماں پیار میں اپنے بچے کو زور سے چپٹا لیتی ہے اور اگر کافر ہو تو اس کو اس زور سے دباتی ہے کہ ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی ادھر ہو جاتی ہیں۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مردے کو قبر میں رکھ کر مٹی ڈال کر دفن کر دیا جاتا ہے تو اس وقت اس کو قبر دباتی ہے اور چپٹتی ہے اگر وہ مردہ مسلمان ہے تو قبر کا یہ دبانا ایسا ہے جیسے ماں اپنے بچے کو پیار کے ساتھ چھانی سے لگا کر دباتی ہے اور اگر وہ کافر ہے تو قبر اس قدر زور سے دباتی ہے کہ پسلیاں ادھر سے ادھر نکل جاتی ہیں۔ (مشکوٰۃ)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میت کو قبر میں رکھ کر دفن کر دیا جاتا ہے اور فرشتے اسے آ کر سوال و جواب کیلئے اٹھاتے ہیں تو اس کو سورج عصر کے وقت ڈوبتا ہوا نظر آتا ہے اور وہ آنکھیں ملتا ہوا بیٹھتا ہے اور کہتا ہے چھوڑو مجھے پہلے نماز پڑھ لینے دو۔ (ابن ماجہ)

۴۔ عقیدہ : مردہ کلام بھی کرتا ہے مگر اس کے کلام کو انسان اور جن کے سوا تمام مخلوقات وغیرہ سنتی ہے۔ اگر کوئی آدمی سن لے تو وہ بے ہوش ہو جائے گا۔

۵۔ عقیدہ : مردہ اگر قبر میں دفن نہ کیا گیا تو جہاں پڑا رہ گیا یا پھینک دیا گیا۔ غرض کہیں بھی ہو تو اس سے وہیں سوالات ہوں گے اور وہیں ثواب یا عذاب اسے پہنچے گا یہاں تک کہ جسے کوئی جانور رکھا جائے یا پانی میں ڈوب جائے تو اس سے وہیں سوال و جواب ہوں گے اور ہر طرح کا ثواب یا عذاب پائے گا۔ جسم اگر چہ گل سڑ جائے خاک ہو جائے گوشت اور ہڈیاں راکھ ہو جائیں ابدان کے قدرے کہیں بھی منتشر ہو جائیں مگر اس کے اجزائے اصلیہ

قیامت تک باقی رہیں گے۔ عذاب و ثواب انہیں پر وارد ہوگا اور انہیں قیامت دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا۔

۶۔ عقیدہ : بعض گنہگار مسلمانوں پر بھی قبر میں عذاب ہوگا کیونکہ انہوں نے دنیوی زندگی میں گناہ اور نافرمانیاں کیں تھیں پھر مسلمانوں کے صدقات خیرات دعائے مغفرت سے ان کے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے۔ مردوں کو صدقہ خیرات اور دعا کا ثواب پہنچتا ہے کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ”اور جو ان کے بعد آئے وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب! ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان کے ساتھ فوت ہوئے ہیں۔“

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت پر اللہ تعالیٰ کا بڑا رحم و کرم ہے کہ وہ قبروں میں گنہگار داخل ہوں گے لیکن مسلمانوں کی دعا اور استغفار کے وسیلہ سے (قیامت کے دن) بے گناہ اٹھیں گے۔ (طبرانی)

حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی۔ یا رسول اللہ! میری والدہ فوت ہو گئی ہے۔ اب اگر میں اس کی طرف سے صدقہ دوں تو اسے نفع پہنچے گا۔ آپ نے فرمایا ہاں اس کو نفع ضرور پہنچے گا۔ تو حضرت سعد نے عرض کیا۔ میں (آپ کو) گواہ بناتا ہوں کہ میرا فلاں باغ میری ماں کی طرف سے صدقہ ہے۔

ابوداؤد کی روایت میں ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضور! میری ماں فوت ہو گئی ہے اس کیلئے کون سا صدقہ افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا پانی کا صدقہ افضل صدقہ ہے۔ چنانچہ حضرت سعد نے اپنی فوت شدہ ماں کے نام سے کنواں کھدوایا اور کنواں تیار ہونے کے بعد (اس پر لکھوایا اور) کہا ”ہذہ لام سعد“ کہ یہ کنواں ام سعد (سعد کی والدہ) کا ہے۔ یعنی یہ کنواں ام سعد کے ایصال ثواب کیلئے ہے۔ (ابوداؤد)

زندوں کے نیک اعمال سے مردہ مسلمانوں کے حق میں ایصال ثواب برحق اور سچ ہے۔ اس لیے قرآن مجید کی تلاوت، درود شریف، کلمہ طیبہ اور ذکر کی مجلس کے بعد مردوں کے حق میں دعائے مغفرت کرنا درست ہے۔

۷۔ عقیدہ : قبر پر کسی سبز درخت کی شاخ لگانا جائز و درست ہے کیونکہ سبز پتے اللہ کی حمد

وثناء میں مصروف رہتے ہیں اور جب تک شاخ اوپر رہے عذاب میں تخفیف رہے گی۔ اس کا ثبوت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی یہ روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے قریب سے گزرے۔ آپ نے فرمایا ان دونوں قبروں میں عذاب ہو رہا ہے اور ان کو کسی بڑے کبیرہ گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا ہے بلکہ ایک معمولی گناہ پر عذاب ہو رہا ہے۔ ایک شخص تو اپنے بدن اور لباس کو پیشاب کی چھینٹوں سے محفوظ نہیں رکھتا تھا اور دوسرا لوگوں کی غیبت اور چغلی کیا کرتا تھا۔ پھر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ایک سرسبز ٹہنی لے کر اس کے دو حصے کیے اور ان کو دونوں قبروں پر گاڑ دیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ نے ایسا کیوں کیا تو آپ نے فرمایا کہ جب تک یہ شاخیں سبز رہیں گی ان پر عذاب میں تخفیف رہے گی۔ (بخاری شریف)

۹۔ قیامت

دنیا کے فنا ہونے کا ایک دن مقرر ہے اس روز ساری کائنات زمین و آسمان دریا، پہاڑ، جمادات و حیوانات سب کے سب فنا ہو جائیں گے اسی کا نام قیامت ہے۔ اس پر یقین رکھنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ قیامت یعنی مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر بھی ایمان و یقین رکھنا دین اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے اور قیامت کے دن کا اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرنا کفر ہے۔

۱۔ عقیدہ : قرآن پاک میں یوم الدین یوم القیامتہ یوم الآخرہ، یوم الحسرة، یوم التغابن اور یوم الحساب ایسے متعدد الفاظ میں جگہ جگہ مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کے دن قیامت کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ قیامت کے دن کو یوم الدین (بدلے کا دن) اس لیے فرمایا ہے کہ وہ دن بدلے کا دن ہے۔ آج کے دن دینا کی زندگی میں جو عمل کیا ہے کل قیامت کے دن وہی پاتا ہے اس عقیدہ کی وجہ سے ایک بندہ مومن (قیامت پر ایمان رکھنے والے کی) کی زندگی ایک کافر (قیامت پر ایمان نہ رکھنے والے) کی زندگی سے بالکل مختلف اور جدا ہے۔

۲۔ عقیدہ : مومن کا ایمان اور یقین ہے کہ اس نے کل روز قیامت اپنے رب کے سامنے پیش ہو کر اپنے کیے کا جواب دہ ہونا ہے۔ جبکہ ایک کافر مشرک اور بے دین آدمی کا قطعاً یہ عقیدہ اور نظریہ ہوتا ہے کہ زندگی بس اسی دنیا کی زندگی ہے اور وہ کسی کے سامنے اپنے

اعمال کا جوابدہ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کافر مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر یقین ہی نہیں رکھتا اور کہتا ہے ”من یحی العظام وھی رمیم“ (کون دوبارہ زندہ کریگا ان ہڈیوں کو جبکہ وہ گل سڑ جائیں گی) اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”اے نبی مکرم!“ قل یحییٰ الذی الشاہ اول مرة“ (جواب میں کہہ دو۔ وہی ان کو دوبارہ زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا تھا۔)

۳۔ عقیدہ : قیامت کب آئے گی؟ اس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قیامت کا مقررہ وقت لوگوں سے چھپا رکھا ہے۔ البتہ قرآن حکیم اور احادیث کی روشنی میں یہ ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کا علم عطا کیا ہے لیکن انہیں اس کے ظاہر کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی ساری چھوٹی بڑی نشانیاں اور علامات بتا دی ہیں بلکہ یہاں تک بتا دیا کہ ماہ محرم کی دسویں تاریخ جمعہ کے دن قیامت ہوگی۔

۴۔ عقیدہ : علامات قیامت میں سے ہے کہ قیامت کے قریب اسلام کی روح محدود ہو جائے گی۔ اسلام بہت کم لوگوں میں رہ جائے گا اور ایسا محسوس ہوگا کہ یہ اجنبی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اسلام اجنبیت میں ظاہر ہوا اور دوبارہ اجنبی ہو جائے گا۔ جیسا کہ اجنبیت میں ظاہر ہوا۔ پس غرباء کو خوشخبری ہے۔ (مسلم شریف)

۵۔ عقیدہ : قرآن اور دین کا علم کم ہو جائے گا۔ بلکہ علم کی اصل حقیقت اٹھالی جائے گی۔ لوگ بڑے پڑھے لکھے کہلائیں گے لیکن ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کردہ علم نہیں ہوگا۔ یعنی علم معرفت بالکل ناپید ہو جائے گا۔ جو لوگ علم دین حاصل کریں گے۔ وہ صرف دنیا کی خاطر کریں گے۔

حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ اللہ تعالیٰ علم کو ایک دم نہیں اٹھائے گا کہ بندوں سے علم چھین لے بلکہ علماء کی وفات کے ذریعہ علم اٹھالے گا۔ آخر کار کوئی (صحیح) عالم نہیں رہے گا۔ پھر لوگ جاہلوں کو سردار بنالیں گے۔ ان سے مسائل پوچھیں گے۔ وہ علم کے بغیر فتویٰ دیں گے پس وہ خود گمراہ ہوں گے اور (دوسروں کو) گمراہ کر دیں گے۔ (بخاری)

۶۔ عقیدہ : قرب قیامت میں برائیاں بہت زیادہ ہو جائیں گی۔ خیانت بدکاری، شراب خوری بے حیائی عام ہو جائے گی۔ گانے بجانے کا رواج ہو جائے گا۔ عورتیں مردوں کو وضع قطع اختیار کریں گی اور مرد زنا نہ لباس کو پسند کریں گے۔ گالی گلوچ کا عام رواج ہو جائے گا۔ لوگ گندی گفتگو کو مہذب ہونا خیال کریں گے گویا کہ ہر لحاظ سے گناہوں کا پھیلنا عام ہوگا۔ لوگ برائی کرتے ہوئے اسے برائی خیال نہیں کریں گے۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے۔ فرمایا جس قوم میں خیانت ظاہر ہوئی ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ رعب ڈال دے گا۔ جس میں زنا عام ہو ان میں اموات کی کثرت ہوگی۔ جس میں ناپ تول کی کمی کی جائے گی اس میں روزی کم کر دی جائے گی۔ (یعنی حلال روزی ہی کم ہوگی یا اس کی برکت جاتی رہے گی) جس میں حق (اسلام) کے علاوہ (کسی دوسرے کے ساتھ) حکم دیا گیا (یعنی اسلام کے علاوہ کسی دوسرے جمہوری یا اشتراکی وغیرہ کافرانہ قوانین نافذ کیے گئے) ان میں خون (قتل) پھیل جائے گا۔ جس میں وعدہ خلافی ہوگی اس پر دشمن مسلط کر دیا جائے گا۔ (موطا امام مالک)

۷۔ عقیدہ : قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ قیامت کے قریبی دور میں حکمران بہت برے ہوں گے۔ بعض حالات میں عورت بھی حکمرانی کرے گی۔ لوگ پہلے لوگوں پر اہانت اور ملامت کریں گے۔ اپنی برائیوں کو اچھائیاں سے تعبیر کریں گے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جب تمہارے حکمران تم میں سے بہترین ہوں تمہارے مالدار تم میں زیادہ سخی ہوں اور تمہارے معاملات باہم مشوروں سے طے ہوں تو زمین کی پشت تمہارے لیے اس کے پیٹ سے بہتے ہے اور جب تمہارے حکمران تم میں بدترین ہوں تمہارے مالدار بخیل ترین ہوں اور تمہارے معاملات تمہاری عورتوں کے سپرد ہوں تو پھر زمین کا پیٹ تمہارے لیے اس کی پشت سے بہتے ہے۔ (جامع ترمذی)

۸۔ عقیدہ : قیامت کی نشانیوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ قیامت کے قریبی دور میں مال میں برکت ختم ہو جائے گی۔ مال کھینے والوں کے پاس آجائے گا زمین اپنے دینے اور خزانے اگل دے گی۔

حضرت حذیفہ بن یمان سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

فرمایا۔ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ دنیا کے لحاظ سے سب لوگوں سے خوش بخت (مالدار) وہ نہ ہو جو لکع بن لکع (کمینہ ولد کمینہ) ہو۔ (جامع ترمذی)

۹۔ عقیدہ : علامات قیامت کے متعلق یقین رکھنا درست اور لازم ہے۔ قربت قیامت کی ایک نشانی یہ ہے کہ بظاہر تو لوگ مسلمان ہوں گے مگر ان میں اصل ایمان کی کمی ہو جائے گی ان میں اہل ایمان والے اصل اوصاف نہ ہوں گے اور نہ ہی اہل ایمان والے کام ہوں گے یعنی ایمان کم ہو جائے گا۔

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان سکڑ کر مدینہ کی طرف چلا جائے گا۔ جیسے کہ سانپ سکڑ کر اپنے بل میں چلا جاتا ہے۔ (مسلم شریف)

۱۰۔ عقیدہ : قربت قیامت کی ایک علامت یہ ہے کہ قیامت کے قریب ایک ایسا وقت آئے گا جبکہ دین پر چلنے والوں کو بے پناہ صبر کرنا پڑے گا۔ لوگ ان کی بے پناہ مخالفت کریں گے اور اسلام کی پابندی کرنے والوں کو قطعاً پسند نہیں کیا جائے گا بلکہ انہیں طرح طرح کے بُرے خطابات دے کر ان کا مذاق اڑایا جائے گا۔

حضرت انس بن مالکؓ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ دین پر صبر (واستقلال) دکھانے والا ایسے ہوگا جیسے کہ انگارہ پکڑنے والا ہو۔ (جامع ترمذی)

۱۱۔ عقیدہ : لوگ مال و دولت کے لالچ میں اس قدر بڑھ جائیں گے کہ ان کے نزدیک مال کی خاطر اپنا ایمان تبدیل کر لینا کوئی وقعت نہ رکھے گا۔ کبھی وہ کفر والی باتیں کریں گے اور اگر مسلمانی میں دولت دیکھیں گے تو اس طرف جھک جائیں گے۔

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جلدی عمل کر لو فتنے آتے ہیں جیسے اندھیری رات کا حصہ ہو۔ آدمی صبح ایماندار ہونے کی حالت میں کرے گا اور شام کو کافر ہو جائے گا۔ یا شام کو ایماندار ہوگا اور صبح کو کافر بن جائے گا۔ دنیا کے مال کے عوض اپنا دین فروخت کرے گا۔ (صحیح مسلم)

۱۲۔ عقیدہ : مسلمان فرقہ بندیوں کا شکار ہو جائیں گے اور ان میں صرف ایک فرقہ نجات پانے والا ہوگا۔ وہی فرقہ حق پر ہوگا اور وہ گروہ وہ ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول اور

صحابہ کرامؓ اور اولیاء کرامؓ کے نقش قدم پر چلے گا۔

حضرت عبداللہ بن عمروؓ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت پر ضرور وہ حالت آئے گی جو بنی اسرائیل پر آئی قدم بہ قدم، حتیٰ کہ اگر ان میں سے کسی نے بر ملا اپنی ماں سے بدکاری کی تو میری امت میں بھی ایسا ہوگا جو یہ کرے گا اور بنی اسرائیل بہتر (۷۲) فرقوں میں تقسیم ہوئے میری امت بہتر فرقوں میں تقسیم ہوگی۔ سب جہنم میں ہوں گے سوائے ایک فرقہ کے۔ صحابہؓ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! وہ (جہنم سے نجات پانے والا اور جنت میں جانے والا) فرقہ کون سا ہوگا۔ آپؐ نے فرمایا جو میرے اور میرے صحابہؓ کے طریقہ پر ہوگا۔ (ترمذی شریف)

حضرت ثوبانؓ کی ایک روایت کے آخری الفاظ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے میری امت میں سے ایک گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا۔ ان کے مخالفین انہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ حتیٰ کہ اللہ کا فیصلہ آن پہنچے۔ (سنن ابی داؤد)

۱۳۔ عقیدہ : قتل و غارت اور جنگ و جدال عام ہوگی۔ بڑی جماعتوں میں آپس میں خونریزی ہوگی۔

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ دو بڑی جماعتیں آپس میں مقابلہ کریں۔ ان کے درمیان شدید جنگ ہوگی۔ دونوں کا دعویٰ ایک ہوگا اور یہاں تک کہ تقریباً تیس (بڑے بڑے) دجال کذاب ظاہر ہوں۔ سب یہ گمان کریں گے کہ وہ اللہ کا رسول ہے (یعنی نبوت کا دعویٰ کریں گے جیسے کہ آج کل قادیانی و جال کذاب ہے) اور یہاں تک کہ علم اٹھالیا جائے زلزلے کثرت سے آئیں گے۔ زمانہ قریب ہو جائے (یعنی وقت جلدی گزرتا معلوم ہوگا) فتنے ظاہر ہوں گے۔ ہرج بہت ہوگا۔ (ہرج سے مراد) قتل ہے قتل۔ (بخاری شریف)

۱۴۔ عقیدہ : فتنوں کے دور میں اپنی عزت کو بچانا مشکل ہوگا۔ اگر کوئی اسے ایسے دور میں اپنے آپ کو برائیوں اور فتنوں سے محفوظ کرنے کیلئے کسی اچھی جگہ کی طرف ہجرت کر جائے گا۔ تو اس کا یہ فعل اچھا ہوگا۔

حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ (وہ وقت) قریب ہے کہ مسلمان کا بہترین مالی بکریاں ہوں جن کے پیچھے وہ پہاڑوں کی

چوٹیوں اور بارشوں کے مقامات پر چلا جائے۔ فتنوں سے اپنا دین بچا کر بھاگ جائے۔
(بخاری شریف)

۱۵۔ عقیدہ : مجموعی طور پر عابدوں کا جاہل ہونا۔ قاریوں کا بے عمل ہونا، بارش زیادہ مگر پیداوار کم ہونا۔ قاریوں کی کثرت اور فقہاء یعنی علم دین جاننے والوں کی قلت، امیروں کی کثرت اور امانت داروں کی قلت، فاسقوں کا سردار قبیلہ اور فاجروں کا حاکم بازار بننا، مومن کا اپنے قبیلہ میں انتہائی ذلیل ہونا۔ کاتبوں کی کثرت اور علماء کی قلت، جھوٹی گواہی عام ہونا۔ قطع رحم کرنا یعنی اپنے رشتہ داروں سے تعلق نہ رکھنا، امانت کو غنیمت اور زکوٰۃ کو تاوان اور چنی خیال کرنا۔ علم دین دنیا کی خاطر پڑھنا، والدین کی نافرمانی زیادہ ہونا۔ نہ بڑوں کی عزت اور نہ چھوٹوں پر رحم کرنا۔ زنا کی اولاد کا زیادہ ہونا، اونچی کوٹھیوں اور محلوں پر فخر کرنا، مسجدوں میں دنیاوی باتیں کرنا، مسجدوں کی آرائش کرنا یعنی مسجدوں کو نقش و نگار سے سجانا، اسلام کا غریب ہونا۔ جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا جاننا۔ مال و دولت حاصل کرنے کیلئے لوگوں کی منافقانہ تعریف کرنا، خطیبوں کا جھوٹ بولنا، حاکموں کا ظلم کرنا، مرد کا عورت سے یا مرد سے لواطت کرنا، امیروں کی تعظیم کرنا، کبیرہ گناہوں کو حلال سمجھنا، سود اور رشوت کھانا، قرآن کو گا کر پڑھنا، ریشم پہننا، جہالت زنا اور شراب نوشی کا عام ہونا، گانے بجانے والی عورتوں کا رکھنا، گانے بجانے والے آلات کو حلال سمجھنا، حدود شرعیہ کا جاری نہ ہونا، عورتوں کا مردوں سے اور مردوں کا عورتوں سے مشابہت پیدا کرنا، بچھلوں کا پہلوں کو برا کہنا، مردوں کا سروں پر پگڑیاں باندھنا، چھوڑ دینا، جو اکیلنا، باجے بجانا، جاہلوں کو حاکم بنانا، مردوں کی قلت اور عورتوں کی کثرت ہونا وغیرہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں۔

۱۰۔ حضرت امام مہدی

قرب قیامت میں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں سے ایک برگزیدہ شخصیت حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کی ہوگی۔ وہ خلیفہ برحق ہوں گے اور امت مسلمہ میں پھر نئے سرے سے اسلامی روح بیدار کریں گے۔

حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخر زمانہ میں ایک خلیفہ برحق پیدا ہوگا جو ضرورت مندوں کی مالی ضروریات پوری کرنے میں تعاون کرے

گا اور اس کو شمار نہیں کرے گا۔ (مسلم شریف)

۱۔ عقیدہ: حضرت امام مہدیؑ کا اسم گرامی محمدؑ والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام آمنہ ہوگا اور سبباً حضرت فاطمہؑ لڑہرا کی اولاد سے ہوں گے۔

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا اس وقت تک ختم نہ ہوگی جب تک کہ عرب پر ایک شخص قبضہ نہ کر لے گا جو میرے خاندان میں سے ہوگا اور اس کا نام میرے نام پر ہوگا۔ (ترمذی ابو داؤد)

۲۔ عقیدہ: حضرت امام مہدیؑ کی خلافت کا اظہار اس وقت ہوگا جبکہ ان کی عمر چالیس برس کی ہوگی۔ آپ کی خلاف کے بارے میں یوں بیان کیا جاتا ہے کہ جب قیامت کی علامات صغریٰ واقع ہو چکیں گی نصاریٰ کا غلبہ ہوگا اور دنیا میں سب جگہ حریم شریفین (مکہ معظمہ و مدینہ منورہ) کے علاوہ کفر کا تسلط ہوگا۔ اس وقت تمام ابدال بلکہ تمام اولیاء کرام سب جگہ سے سمیٹ کر حریم شریفین کو ہجرت کر جائیں گے کہ صرف وہیں اسلام رہے گا اور ساری دنیا کفرستان ہو جائے گی۔ رمضان شریف کا مہینہ ہوگا ابدال طواف کعبہ میں مصروف ہوں گے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ بھی وہاں موجود ہوں گے۔ اولیاء انہیں پہچان کر درخواست بیعت کریں گے۔ وہ انکار فرمائیں گے۔ دفعۃً غیب سے ایک آواز آئے گی کہ یہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے اس کی بات سنو اور اس کا حکم مانو۔ اس آواز پر تمام لوگ آپ کے دست مبارک پر بیعت لیں گے۔ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان آپ کی خلاف کا اعلان ہو جائے گا۔

حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا۔ خلیفہ کی وفات پر مسلمانوں میں اختلاف ہو جائے گا۔ پھر اہل مدینہ سے ایک آدمی بھاگ کر مکہ چلا جائے گا۔ مکہ والے اس کے پاس آئیں گے۔ اسے حکومت کی باگ ڈور ہاتھ میں لینے کیلئے باہر نکالیں گے وہ اسے ناپسند کرے گا۔ آخر کار حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان اس کی بیعت کریں گے۔ اس کی طرف شام سے فوج بھیجی جائے گی مگر وہ مکہ اور مدینہ کے درمیان بیداء کے مقام پر زمین میں دھنس جائے گی۔ جب لوگ یہ بات دیکھیں گے تو شام کے ابدال اور عراق کی جماعتیں آئیں گی اور ان سے بیعت کریں گے۔

(ابو داؤد شریف)

marfat.com

Marfat.com

۳۔ عقیدہ: عرب کے تمام مسلمان حضرت امام مہدی کی قیادت میں اکٹھے ہو جائیں گے اور ایک عظیم لشکر عیسائیوں کے مقابلہ میں سام میں جمع ہوں گے۔ لشکر کفار کے ۸۰ جہنڈے ہونگے۔ ہر جہنڈے کے نیچے بارہ ہزار سپاہ ہوں گے۔ حضرت امام مہدی مدینہ منورہ میں روضہ اطہر کی زیارت کرنے کے بعد لشکر اسلام کو لے کر ملک شام میں پہنچ جائیں گے جہاں دونوں کا مقابلہ ہوگا۔ سخت خونریز جنگ ہوگی۔ لشکر اسلام کا ایک تہائی حصہ بھاگ جائے گا۔ ان کی موت کفر ہوگی، ایک تہائی لشکر شہید ہو جائے گا اور باقی بچ جائے گا۔ لے ایک تہائی لشکر کو چوتھے روز جا کر کفار پر فتح حاصل ہوگی لیکن اس فتح کی کسی کو خوشی نہ ہوگی کیونکہ مسلمانوں کا اس جنگ میں کافی نقصان ہوگا اور سو میں سے ایک مسلمان بچا ہوگا۔

۴۔ عقیدہ: فتح یابی کے بعد آپ کو جتنا عرصہ بھی حکومت کرنے کا موقع ملے گا آپ اس میں عدل و انصاف قائم کریں گے اور ہر لحاظ سے اسلام کو بول بالا ہوگا لوگ اس کی اصلی روح کو محسوس کریں گے۔

حضرت عبداللہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دنیا سے ایک دن ہی باقی رہ جائے تو بھی اللہ تعالیٰ اس دن کو اس قدر طویل کر دے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا۔ میری اہل بیعت سے ایک آدمی بھیجے گا۔ اس کا نام میرے نام کے مطابق اور اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام کے مطابق ہوگا۔ وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جبکہ وہ ظلم و ستم سے بھری ہوگی۔ (ابوداؤد شریف)

حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی مجھ سے ہے۔ کھلی پیشانی اور (مناسب) بلند ناک والا ہے۔ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ جبکہ وہ (اس سے پہلے) ظلم و ستم سے بھری ہوگی، سات برس حکومت کرے گا۔

۵۔ عقیدہ: پھر ایک سخت لڑائی کے بعد قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا۔ مسلمان مال غنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے کہ شیطان یہ افواہ پھیلا دے گا کہ مسلمانوں! دجال تمہارے اہل و عیال میں آ گیا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی وہ سب کچھ چھوڑ کر دس شہسواروں کو اس خبر کی تصدیق کیلئے بھیجیں گے ان سواروں کی نسبت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ ”میں ان سواروں کے نام ان کے باپوں کے نام ان کے گھوڑوں کے رنگ روپ کو پہچانتا ہوں اور وہ

اس وقت روئے زمین پر بہترین سواروں میں سے ہوں گے۔“ یہ شہسوار اس خبر کی تحقیق کریں گے اور تحقیق کے بعد یہ خبر غلط ثابت ہوگی۔

۱۱۔ ظہور دجال

دجال قوم یہود کا ایک مرد ہے جو اس وقت بحکم الہی قید ہے۔ جب آزاد ہوگا تو ایک عظیم لشکر کے ساتھ ملک خدا میں فتور کرنے کو شام و عراق کے درمیان سے نکلے گا اس کی ایک آنکھ اور ایک ابرو بالکل نہ ہوگی اسی وجہ سے اسے مسیح (چوہٹ) کہتے ہیں اس کے ساتھ یہودی فوجیں ہوں گی۔ اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا ک ف (یعنی کافر) جس کو ہر مسلمان پڑھے گا اور کافر کو نظر نہ آئے گا۔ اس کا فتنہ بہت شدید ہوگا۔ چالیس دن میں حرمین طہیین کے سوا تمام روئے زمین کا گشت کرے گا اور بہت تیزی کے ساتھ ایک شہر سے دوسرے شہر میں پہنچے گا۔ جیسے بادلوں کو ہوا اڑاتی ہے۔ ایک باغ اور ایک آگ اس کے ہمراہ ہوگی جن کا نام جنت و دوزخ رکھے گا۔ مگر وہ جو دیکھنے میں جنت معلوم ہوگی حقیقتہً آگ ہوگی اور جو جہنم دکھائی دے گا وہ آرام کی جگہ ہوگی۔

حضرت حذیفہؓ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البتہ میں خوب جانتا ہوں جو دجال کے پاس ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ دو نہریں بہتی ہوں گی۔ ایک کو آنکھ دیکھے گی کہ (گویا) سفید پانی ہے۔ دوسری کو آنکھ دیکھے گی کہ (گویا) آگ بھڑک رہی ہے۔ پس تم میں سے کوئی اسے پائے تو اس نہر کی طرف آئے جس کو وہ آگ دیکھ رہا ہے اور آنکھیں بند کرے پھر سر نیچا کرے پس اس میں سے پیئے تو وہ ٹھنڈا پانی ہوگا۔ اور دجال کی (ایک) آنکھ پڑ جھلی ہوگی اس پر موٹا ناخن ہوگا اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان ”کافر“ لکھا ہوگا جس کو ہر پڑھا لکھا اور ان پڑھا ایماندار پڑھا لے گا۔ (صحیح مسلم)

خدا کی دعویٰ کرے گا جو بھی اس پر ایمان لائے گا اسے اپنی جنت میں ڈالے گا اور جو انکار کرے گا اسے اپنی جہنم میں جمونک دے گا۔ بادلوں کو حکم دے گا وہ برسنے لگیں گے۔ زمین کو جب حکم دے گا تو کھیتی جم اٹھے گی۔ ویرانے میں جائے گا تو وہاں کے دفینے شہد کی مکھیوں کی طرح اس کے پیچھے بولیں گے غرض اس قسم کے بہت سے شعبہ دے دکھانے گا اور حقیقت میں یہ سب جاو کے کہتے ہوں گے۔

حضرت نواس بن سمان کی ایک طویل حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ جو اس (دجال) کو پائے وہ اس پر سورۃ الکہف کی ابتدائی آیات پڑھے (اس کی برکت سے دجال کی شرارت سے بچا رہے گا) یہ شام اور عراق کے درمیان راہ سے نکلے گا۔ پھر تیزی سے آئے گا۔ انہیں بائیں فساد کرے گا۔ اے اللہ کے بندو! ثابت قدم رہو۔

ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! زمین میں اس کا قیام کتنی دیر رہے گا۔ آپ نے فرمایا چالیس دن۔ ایک دن سال کی طرح ہوگا اور ایک دن مہینے کی طرح ہوگا اور ایک دن بیٹے کی طرح ہوگا اور باقی تمہارے دنوں کی طرح ہوں گے۔

ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! جو دن سال کی طرح ہوگا کیا اس میں ایک دن کی (پانچ) نمازیں کافی رہیں گی؟

آپ نے فرمایا نہیں بلکہ اس کا اندازہ کرو (یعنی ہر ۲۴ گھنٹے میں پانچ نمازیں اندازہ کر کے پڑھو۔) آج کل یہ کام گھڑیوں اور کمپیوٹر کی ایجادات کے باعث آسان ہو چکا ہے اور اس میں کچھ مشکل نہیں بشرطیکہ نیت کام کرنے کی ہو۔

ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! زمین میں وہ کس قدر تیزی سے پھرے گا؟ آپ نے فرمایا بادل کی طرح جس کے پیچھے تیز ہوا چل رہی ہو۔ ایک قوم کے پاس آئے گا انہیں دعوت دے گا وہ اس پر ایمان لائیں گے تو آسمان کو حکم کرے گا آسمان سے بارش ہوگی۔ زمین کو حکم کرے گا وہ (غلہ) اگائے گی۔ ان کے مویشی جائیں گے تو ان کی کوہان اونچی ہوگی۔ تھن کھل (بھرے) ہوں گے۔ کوٹھے اٹھے ہوں گے (یعنی چراگاہ سے خوب پیٹ بھر کر واپس آئیں گے) پھر ایک قوم کے پاس جائے گا ان کو دعوت دے گا۔ وہ اس کی بات کا انکار کر دیں گے تو ان کے پاس سے واپس ہوگا وہ قحط زدہ رہ جائیں گے ان کے پاس مال نہیں ہوں گے۔ وہ ویرانے سے گزرے گا اور کہے گا اپنے خزانے نکال دے تو اس کے خزانے شہد کی مکھی کی طرح اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے۔ (صحیح مسلم شریف)

یہ سب باتیں بطور آزمائش اس سے ظاہر ہوں گی اس طرح وہ دنیا پر چکر لگاتا ہوا شام سے اصفہان پہنچے گا۔ وہاں متر ہزار یہودی اس کے ساتھ مل جائیں گے۔ پھر وہاں سے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ جانے کا ارادہ کرے گا وہاں داخل نہ ہو سکے گا۔ چونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے مدینہ

منورہ اور مکہ مکرمہ کی حفاظت پر فرشتوں کو مقرر فرمایا ہوا ہوگا۔

حضرت انس بن مالکؓ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کوئی شہر ایسا نہیں جہاں کہ دجال نہ جائے مگر مکہ اور مدینہ (میں داخل نہیں ہو سکے گا) اور ان کی ہر راہ پر فرشتے قطار باندھے ان کا پہرہ دیتے ہوں گے۔ پھر وہ (باہر کھلی) زمین پر اترے گا تو مدینہ میں تین بار زلزلہ آئے گا اور اس سے کافر اور منافق باہر نکل جائیں گے اور وہ دجال کے ساتھ جا ملیں گیں۔ (مسلم شریف)

حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پس وہ (دجال) مدینہ کے قریب بعض پہاڑی راہ میں اترے گا۔ ایک آدمی جو سب سے بہتر آدمی ہوگا اس کی طرف نکلے گا اور کہے گا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو وہ دجال ہے جس کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ دجال لوگوں سے کہے گا۔ تم دیکھو تو اگر میں اسے قتل کر دوں پھر اسے زندہ کر دوں تو تمہیں میرے معاملے میں کوئی شک رہے گا؟ وہ کہیں گے نہیں۔ پس وہ اسے قتل کرے گا۔ پھر زندہ کرے گا تو وہ (نیک آدمی) کہے گا اللہ کی قسم! آج سے زیادہ میں تیرے (دجال ہونے کے) بارے میں زیادہ بصیرت (ویقین) نہیں رکھتا (یعنی تو پکا دجال ہے) پھر دجال دوبارہ اسے قتل کرنا چاہے گا مگر اس پر قادر نہیں ہو سکے گا۔ (بخاری)

اس کے بعد بعد دجال اپنے لشکر سمیت فلسطین کی طرف چلا جائے گا جہاں آخر کار لد کے مقام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں جہنم رسید ہوگا۔

۱۲۔ نزول حضرت عیسیٰ علیہ السلام

ملک شام میں دجال جب اپنے فتنہ و فساد میں پوری طرح عروج پر ہوگا اور مسلمانوں کی جانوں کے درپے ہوگا۔ بڑی پریشانی کا عالم ہوگا حضرت امام مہدی بھی دمشق پہنچ کر دجال سے مقابلہ کرنے کی تیاری میں لگے ہوں گے۔ نماز کا وقت آجائے گا۔ لوگ دمشق کی جامع مسجد میں نماز پڑھنے کیلئے جمع ہو چکے ہوں گے۔ تو عین اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان کی جانب سے دو فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی منارے پر نازل ہوں گے۔ حضرت امام مہدی بھی مسجد میں پہلے سے موجود ہوں گے۔ پھر منارے سے

marfat.com

سیڑھی کے ذریعے مسجد میں آئیں گے۔ پھر جماعت ہوگی اور بعد ازاں دجال کے مقابلے کیلئے تیاری کی جائے گی۔

حضرت نواس بن سمعان کی روایت کردہ حدیث کے آخری حصہ میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچانک اللہ تعالیٰ مسیح مریم علیہ السلام کو بھیجے گا۔ وہ دمشق کے مشرقی سفید مینارے کے پاس نازل ہوں گے ان پر دوزر و چادریں ہوں گی۔ دونوں ہاتھ فرشتوں کے پروں پر رکھے ہوں گے۔ جب سر نیچا کریں گے تو (پانی کے) قطرے گریں گے جب اونچی کریں گے تو موتیوں کی طرح دانے گریں گے۔ جس کافر کو ان کا سانس پہنچے گا وہ مر جائے گا اور ان کا سانس ان کے حد نظر تک جائے گا۔ پھر وہ دجال کا پیچھا کریں گے آخر کار اسے لد کے دروازے میں پکڑ لیں گے اور اسے قتل کر دیں گے۔ (مسلم شریف)

جامع مسجد دمشق میں سے حضرت عیسیٰ السلام کی قیادت میں مسلمانوں کا لشکر دجال کے مقابلے کیلئے نکلے گا اور اس علاقے کا محاصرہ کرے گا جہاں دجال ہوگا۔ دجال کی فوج میں ستر ہزار یہودی ہتھیاروں سے لیس ہوں گے۔ آخر دونوں فوجوں میں لڑائی ہوگی گھمسان کا معرکہ ہو رہا ہوگا کہ اچانک جب دجال کی نظر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر پڑے گی تو وہ لعین آپ کی سانس سے پگھلنا شروع ہو جائے گا۔ جیسے پانی نمک میں گھلتا ہے۔ وہ بھاگے گا۔ یہ تعاقب فرمائیں گے اور بیت المقدس کے قریب موضع لد کے دروازے پر جائیں گے اور اس کی پشت میں نیزہ ماریں گے وہ واصل جہنم ہوگا آپ مسلمانوں کو اس کا خون اپنے نیزے پر دکھائیں گے۔

یہی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمائی ہے کہ قیامت قائم نہیں ہوگی۔ حتیٰ کہ مسلمان یہودیوں سے جنگ کریں۔ مسلمان انہیں قتل کریں گے حتیٰ کہ یہودی پتھر یا درخت کے پیچھے چھپے گا تو پتھر یا درخت کہے گا اے مسلم! اے اللہ کے بندے! یہ یہودی میرے پیچھے (چھپا) ہے۔ آؤ اسے قتل کرو سوائے غرقہ کے کہ وہ یہودی کا درخت ہے۔ (مسلم شریف)

دجال کا فتنہ فرد ہونے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اصلاحات میں مشغول ہوں گے کافروں سے جہاد کریں گے اور جزیہ کو موقوف کر دیں گے یعنی کافر سے سوائے اسلام کے کچھ قبول نہ فرمائیں گے۔ صلیب توڑیں گے خنزیر کو نیست و نابود کریں گے۔ تمام اہل کتاب جو قتل سے بچیں گے سب ان پر ایمان لے آئیں گے۔ اس بات کا جواز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ

حدیث ہے:

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے۔ قریب ہے کہ تم میں عیسیٰ بن مریم نازل ہو۔ عدل و انصاف کرنے والا حاکم بن کر۔ پس وہ صلیب کو توڑے گا اور خنزیر کو قتل کرے اور جزیہ ختم کر دے گا اور مال بہائے گا کہ اسے کوئی قبول نہیں کرے گا۔ (مسلم)

قتلہ و جال کے بعد تمام دنیا میں واحد دین یعنی اسلام رہ جائے گا اور آپ کے دور میں مال و دولت کی کثرت ہوگی۔ ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے عدل و انصاف قائم ہو جائے گا آخر مقررہ مدت تک آپ ملت اسلامیہ میں خلیفہ کے فرائض سرانجام دیں گے۔ شادی کریں گے اور آپ کی اولاد بھی ہوگی اور یہ عرصہ مسلمانوں کیلئے ہر لحاظ سے امن والا ہوگا۔

حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "عیسیٰ علیہ السلام زمین پر نازل ہوں گے پس نکاح کریں ان کی اولاد ہوگی۔ ۴۵ سال زندہ رہیں گے لیکن ایک روایت کے مطابق ۴۰ سال تک زندہ رہیں گے۔ پھر میرے پاس میری قبر انور میں دفن ہوں گے اور آخر میں میں اور عیسیٰ بن مریم ایک قبر سے ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کے درمیان انھیں گے۔" (مشکوٰۃ شریف)

آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس پر حاضر ہوں گے اور سلام عرض کریں گے۔ قبر انور سے جواب آئے گا۔ ان سب وقائع کے بعد جن کا ذکر گزرا آپ وفات پائیں گے۔ مسلمان ان کی تجہیز و تکفین کریں گے۔ نماز پڑھیں گے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں روضہ انور میں دفن کیے جائیں گے۔

۱۳۔ یاجوج و ماجوج

یاجوج و ماجوج بڑی طاقتور قوم ہے۔ کسی پہاڑی علاقے کے عقب میں آباد ہے۔ ان کی طرف جانے کا راستہ پہاڑوں کے درمیان ہے جس کو قدیم زمانہ کے ایک نیک بادشاہ ذوالقرنین نے تانبہ پگھلا کر لوہے کے تختے جوڑ کر پہاڑوں کے درمیان کا راستہ بند کر دیا تھا تاکہ یہ قوم اپنے علاقے سے باہر آ کر عام انسانی آبادی میں فساد برپا نہ کرے۔ آخری زمانہ میں

Marfat.com

دیوار ٹوٹ جائے گی اور یہ قوم باہر نکل آئے گی۔ اس قوم کا ذکر سورۃ الکہف میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ
مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ
يَفْقَهُونَ تَوَلَّا ۗ قَالُوا يَاذَا الْقَرْنَيْنِ
إِن يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي
الْأَرْضِ نَهَلْ نَجْعَلْ لَكَ خَرْجًا
عَلَىٰ أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ
سَدًّا ۗ قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ
رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ
أَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا
الَّذِي زُبُرُ الْحَدِيدِ ۖ حَتَّىٰ إِذَا
سَاوَىٰ بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ
انفُخُوا حَتَّىٰ إِذَا جَعَلَهُ نَارًا
قَالَ اتُّوبِي أَفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا ۗ
فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا
اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا ۗ قَالَ هَذَا
رَحْمَةٌ مِنِّي ۖ فَإِذَا جَاءَ
وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ ۖ وَكَانَ
وَعْدُ رَبِّي حَقًّا ۗ

یہاں تک کہ جب دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا ان دونوں سے اس طرف ایک ایسی قوم کو پایا جو بات نہیں سمجھتی تھی۔ انہوں نے کہا اے ذوالقرنین! بیشک یا جوج و ماجوج اس ملک میں فساد کرنے والے ہیں۔ پھر کیا ہم آپ کے لیے کچھ محصول مقرر کر دیں اس شرط پر کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں کہا جو میرے رب نے مجھے قدرت دی ہے کافی ہے سوطاقت سے میری مدد کرو کہ میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں۔ مجھے لوہے کے تختے لا دو یہاں تک کہ جب دونوں سروں کے بیچ کو برابر کر دیا تو کہا کہ دھونکو یہاں تک کہ جب اسے آگ کر دیا تو کہا کہ تم میرے پاس تانبالاؤ کہ اس پر ڈال دوں پھر وہ نہ اس پر چڑھ سکتے تھے اور نہ اس میں نقب لگا سکتے تھے۔ کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ پھر جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اسے ریزہ ریزہ کر دے گا اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ (الکہف: ۹۳-۹۸)

آخری زمانہ میں یہ کھول دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:-

حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ
وَهُم مِّنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ
یہاں تک کہ جب یا جوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے۔ وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ (الانبیاء: ۹۶)

فتنہ دجال کے خاتمے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی فرمائے گا کہ میں ایک ایسی مخلوق بھیجے والا ہوں جس کے مقابلہ کی کسی میں طاقت نہیں۔ لہذا تم اپنے مخلصین کو

لے کر کوہ طور پر پناہ لو۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وہاں پہنچتے ہی یا جوج ماجوج نکل آئیں گے جو پوری دنیا میں تباہی مچادیں گے، قتل و غارت کریں گے، صرف وہی مسلمان بچیں گے جو اس وقت طور پہاڑ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے، پھر یا جوج ماجوج کہیں گے کہ اب ساری دنیا کے انسان ہم نے ختم کر دیئے ہیں اور اب آؤ آسمان والے خدا کو بھی مار دیں (نعوذ باللہ) پھر وہ آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے۔ قدرت الہی سے جب تیر واپس کریں گے تو وہ خون سے بھرے ہوئے ہوں گے جس پر وہ کہیں گے کہ ہم نے خدا کو بھی ختم کر ڈالا ہے۔

یہ اپنی انہی حرکتوں میں مشغول ہوں گے اور وہاں پہاڑ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مع اپنے ساتھیوں کے محصور اور قلعہ طور پر قلعہ بند ہوں گے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام مع اپنے ہمراہیوں کے دعا فرمائیں گے۔ دعا قبول ہوگی اور اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں ایک قسم کا کیڑا پیدا کر دے گا کہ ایک رات میں سب ہلاک ہو جائیں گے ان کی ہلاکت کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے اصحاب پہاڑ سے اتریں گے اور دیکھیں گے کہ تمام زمین ان کی لاشوں اور بدبو سے بھری پڑی ہے۔ آپ مع اپنے ہمراہیوں کے پھر دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ایک سخت آندھی اور ایک قسم کا پرندہ بھیجے گا کہ وہ ان کی لاشوں کو جہاں اللہ تعالیٰ چاہے گا پھینک آئیں گے اور ان کے تیر و کمان و ترکش مسلمان سات برس تک جلائیں گے۔

پھر اس کے بعد بارش ہوگی جس سے زمین ہموار ہو جائے گی۔ اب زمین کو حکم ہو گا کہ اپنے پھلوں کو اگا اور آسمان کو حکم ہو گا کہ اپنی برکتیں انڈیل دے۔ پھر تو یہ عالم ہو گا کہ ایک انار سے ایک جماعت کا پیٹ بھرے گا اور وہ اتنے بڑے بڑے ہوں گے کہ اس کے چھلکے کے سائے میں ایک جماعت آ جائے گی اور دودھ میں یہ برکت ہوگی کہ ایک اونٹنی کا دودھ آدمیوں کے گرو ہوں کو کافی ہو گا، ایک گائے کا دودھ قبیلے بھر کو اور ایک بکری کا دودھ خاندان بھر کو کفایت کرے گا۔ (صحیح مسلم شریف)

۱۲۔ آسمان سے دھوئیں کا آنا

علامات قیامت میں سے ایک علامت دھوئیں کا ظاہر ہونا بھی ہے۔ ارشاد تعالیٰ ہے کہ ان دنوں کے منتظر ہو جب آسمان سے ایک دھواں ظاہر ہوگا۔ جو لوگوں پر ہر طرف سے چھا جائے گا۔ یہ دردناک عذاب ہے۔ اس دن لوگ کہیں گے اے پروردگار! ہم سے یہ عذاب کھول دے۔ ہم ایمان لاتے ہیں۔ اس وقت ان کے لیے نصیحت کہاں ہے۔ حالانکہ ان کے پاس کھول

کریا کرنے والا رسول تشریف لا چکا ہے۔ (دخان: ۱۲ تا ۱۰)

حضرت عیسیٰ السلام کی وفات تشریف کے بعد آہستہ آہستہ جہالت پھر پھیل جائے گی۔ اس اثنا میں ایک مکان مغرب میں اور ایک مشرق میں جہاں منکر تقدیر رہتے ہوں گے، زمین میں دھنس جائے گا اس کے بعد آسمان سے دھواں نمودار ہوگا۔ جس سے آسمان سے زمین تک اندھیرا اچھا جائے گا اور متواتر چالیس روز تک رہے گا۔ اس سے مسلمان زکام میں مبتلا ہو جائیں گے۔ کافروں اور منافقوں پر بیہوشی طاری رہے گی۔ بعضے ایک دن دو دن اور بعضے تین دن کے بعد ہوش میں آئیں گے۔

۱۵۔ خسف یعنی زمین کا دھنس جانا

خسف بھی علامات قیامت سے ہے۔ خسف کا مطلب زمین کا دھنس جانا ہے کیونکہ حضور ﷺ کی پیشین گوئی ہے کہ قیامت سے پہلے تین مقامات یعنی مشرق مغرب اور غرب کے علاقے میں زمین دھنس جائے گی۔

حضرت خدیفہؓ سے روایت ہے کہ ہم باتیں کر رہے تھے کہ حضور نبی اکرم ﷺ تشریف لائے اور فرمایا تم کیا باتیں کر رہے ہو۔؟ ہم نے عرض کیا ہم قیامت کا تذکرہ کر رہے ہیں آپ نے فرمایا یہ تب تک قائم نہیں ہوگی۔ جب تک کہ تم دس باتیں اس سے پہلے نہ دیکھ لو۔ پھر آپ نے ذکر کیا۔ دھوئیں کا دجال، دابہ مغرب سے طلوع آفتاب، نزول عیسیٰ بن مریم علیہ السلام یا جوج ماجوج، تین مقامات پر (زمین) دھنس جائے گی، مشرق میں زمین دھنس جائے گا، مغرب میں زمین دھنس جائے گی اور عرب کے جزیرہ میں دھنس جائے گی اور آخر میں یمن سے آگ نکلے گی جو لوگوں کو بھگا کر جائے حشر تک لے جائے گی۔ (مسلم شریف)

۱۶۔ مغرب سے طلوع آفتاب

مغرب سے آفتاب کا طلوع ہونا بھی علامات قیامت سے ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ روزانہ آفتاب بارگاہ الہی میں جدہ کر کے طلوع کی اجازت چاہتا ہے۔ تب طلوع ہوتا ہے قرب قیامت جب آفتاب حسب معمول طلوع کی اجازت چاہے گا تو اجازت ملے گی بلکہ حکم ہوگا کہ واپس جا۔ وہ واپس جائے گا اور رات اس قدر طول ہو جائے گی کہ بچے چلا انھیں کے۔

مسافر تک دل اور مویشی چرگاہ کیلئے بیقرار ہوں گے۔ یہاں تک کہ لوگ بے چینی کی وجہ سے نالہ و زاری کریں گے اور توبہ توبہ پکاریں گے۔ آخر تین چار رات کی مقدار دراز ہونے کے بعد اضطراب کی حالت میں مغرب سے چاند گرہن کی مانند تھوڑی روشنی کے ساتھ نکلے گا اور نصف آسمان تک آکر لوٹ جائے گا۔ اور جانب مغرب غروب ہوگا۔ اس کے بعد بدستور سابق مشرق سے طلوع ہوا کرے گا۔ اس نشانی کے ظاہر ہوتے ہی توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ کافر اپنے کفر سے 'گناہگار اپنے گناہوں سے توبہ کرے گا تو توبہ قبول نہ وہ گی اس وقت کسی کافر کا اسلام انا معتبر نہ ہوگا۔

حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت میں جناب رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے کہ قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ مغرب سے سورج طلوع ہو۔ جب وہ مغرب سے طلوع ہوگا اور سب لوگ اسے دیکھ لیں گے تو یہ وہ وقت ہے کہ کسی کو ایمان نفع نہیں دے گا۔ جو اس سے پہلے ایمان نہیں لائے گا یا اس نے ایمان میں بھلائی حاصل نہ کی ہو۔ (بخاری شریف)

۷۔ دَابَّتْهُ الْاَرْضِ كَا خُرُوجِ

مغرب سے سورج نکلنے کے بعد قیامت کی ایک اور علامت ظاہر ہوگی جو دابہ کا نکلنا ہے کہ مکہ مکرمہ میں کوہ صفا سے اللہ تعالیٰ کی حکمت سے ایک عجیب و غریب جانور ظاہر ہوگا۔ جسے دابۃ الارض کہا جائے گا۔ اس جانور کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لانٹھی (عصا) اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگونھی ہوگی۔ جس کے چہرے پر لانٹھی لگائے گا اس کا چہرہ روشن ہو جائے گا۔ اور جس کی ناک پر انگونھی لگائے گا اس کا چہرہ سیاہ ہو جائے گا۔ ایک ہی مجلس میں لوگ پہچان لیں گے کہ یہ مسلمان ہے اور وہ کافر ہے۔ یہ کام کر کے غائب ہو جائے گا۔ اور کوئی اس سے بھاگ نہیں سکے گا۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا
لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ۔

جب ان پر وعدہ پورا ہوگا تو ہم ان کے لیے
زمین سے ایک دابہ (جانور) نکالیں گے جو ان
سے باتیں کرے گا۔ (النمل: ۸۲)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ دابہ (جانور)

نکلے گا اس کے پاس حضرت سلیمان بن داؤد علیہما السلام کی انگٹھی ہوگی اور حضرت موسیٰ ابن عمران کا عصا (لاٹھی) ہوگی۔ ایماندار کا چہرہ عصا لگنے سے روشن ہو جائے گا۔ اور کافر کی ناک پر انگٹھی سے مہر لگا دے گا۔ حتیٰ کہ لوگ جمع ہوں گے تو وہ کہے گا۔ یہ ایماندار ہے اور یہ کافر ہے۔

(سنن ابن ماجہ)

مفسرین کا قول ہے کہ یہ جانور کوہ صفا سے برآمد ہو کر تمام شہروں میں بہت جلد پھریگا اور ایسی تیزی سے دورہ کرے گا کہ کوئی بھاگنے والا اس سے بچ نہ سکے گا۔ دابتہ الارض پہلے یمن میں، پھر نجد میں ظاہر ہو کر غائب ہو جائے گا اور تیسری بار مکہ معظمہ میں ظاہر ہوگا۔

۱۸۔ قیام قیامت

قیامت آنے کے بالکل قریبی آثار میں سے ہے کہ جب قیام قیامت کو صرف چالیس سال رہ جائیں گے تو ایک خوشبودار ہوا چلے گی جو لوگوں کی بغلوں کے نیچے سے گزر جائے گی جس کا اثر یہ ہوگا کہ مسلمانوں کی وفات ہو جائے گی۔ اور دنیا میں کافر ہی کافر رہ جائیں گے اس کے بعد پھر چالیس برس کا زمانہ ایسا گزرے گا کہ اس میں کسی سے ادا نہ ہوگی یعنی چالیس برس سے کم عمر کا کوئی نہ رہے گا۔ دنیا میں کافر ہی کافر ہوں گے۔ اللہ کہنے والا کوئی نہ ہوگا۔ لوگ دوبارہ بتوں کی پوجا شروع کر دیں گے شیطان سامنے آ کر لوگوں سے ملے گا۔ اور بت پرستی پر اسے کسائے گا خانہ کعبہ کو گرا دیں دے۔

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ دو چھوٹی نانگوں والا حبشہ کا آدمی بیت اللہ عزوجل کو گرا دے گا۔ (صحیح مسلم)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی۔ یہاں تک کہ دوس کی عورتیں ذی الخلقہ پر حرکت کریں گی اور صوا الخلقہ دراصل دوس کا بت تھا جس کو وہ جاہلیت میں پوجتے تھے۔ (بخاری شریف)

آخر کار اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبکہ لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے کہ دفعۃً حضرت اسرافیل علیہ السلام کو صور پھونکنے کا حکم ہوگا۔ شروع شروع میں اس کی آواز بہت باریک ہوگی لیکن رفتہ رفتہ بلند ہوتی جائے گی۔ لوگ کان لگا کر اس کی آواز سنیں گے اور بیہوش ہو

کر گر پڑیں گے اور مرجائیں گے۔ کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ:

وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ قَفِيزٌ مِّنْ
فِي السَّمَوَاتِ وَمِنَ فِي الْأَرْضِ مِمَّنْ
مَنْ شَاءَ اللَّهُ ۗ (النمل: ۸۷)

اور جس دن صور پھونکا جائے گا تو جو کوئی آسمان
میں ہے اور جو کوئی زمین میں ہے سب ہی
گھبرائیں گے مگر جسے اللہ چاہے (النمل: ۸۷)

نیز بتایا کہ قیامت اچانک آئے گی اور کسی کو گھر میں پہنچنے بلکہ وصیت کرنے کا بھی
موقع نہیں مل سکے گا فرمایا:

بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا
يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ۝
(الانبیاء: ۴۰)

بلکہ وہ ان پر اچانک آئے گی پھر وہ ان کے ہوش
کھودے گی پھر وہ اسے ٹال نہیں سکیں گے اور نہ
انہیں مہلت دی جائے گی۔ (الانبیاء: ۴۰)

ایک اور جگہ بتا کہ قیامت ایک شدید آواز کی صورت میں ہوگی۔ فرمایا:

مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً
تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ ۝ فَلَا
يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ
يُرْجِعُونَ ۝ (یس: ۴۹-۵۰)

وہ صرف ایک چیخ کا انتظار کر رہے ہیں جو انہیں
آ لے گی اور وہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے۔
پس نہ تو وہ وصیت کر سکیں گے اور نہ ہی اپنے
گھروں کی طرف واپس جاسکیں گے۔

(یسین: ۴۹-۵۰)

پھر تو زمین و آسمان میں ہلچل پڑ جائے گی زمین اپنے بوجھ اور خزانے باہر نکال دے گی
پہاڑ ہل بل کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ اور دھنی ہوئی روئی یا اون کے گالوں کی طرح اُرنے لگیں
گے آسمان کے تمام ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گر پڑیں گے اور ایک دوسرے سے ٹکرائیں اور ریزہ ریزہ
ہو کر فنا ہو جائیں گے۔ غرض آسمان و زمین اور پہاڑ جیسی عظیم الشان چیزیں فنا ہو جائیں گی۔

اس کے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے:

فَإِذَا نَفَخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةً وَاحِدَةً ۖ
وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا
دَكَّةً وَاحِدَةً ۖ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ
الْوَاقِعَةُ ۝ (الحاقة: ۱۳-۱۵)

جب صور میں پھونکا جائے گا ایک بار پھونکا جانا
اور زمین اور پہاڑ اٹھائے جائیں گے پس وہ
دونوں ریزہ ریزہ کر دے جائیں گے۔ پس اس
دن قیامت ہوگی۔ (الحاقہ: ۱۳-۱۵)

آسمان کے بارے میں فرمایا:

پھر جب آسمان پھٹ جائے گا اور پھٹ کر گلابی تیل کی طرح سرخ ہو جائے گا۔ (الرحمن: ۳۷)

فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ
وَرْدًا كَالدِّهَانِ ۝ (الرحمن: ۳۷)

پہاڑوں کے بارے میں فرمایا:

اور پہاڑ دھنی ہوئی رنگ دار اُون کی طرح ہوں گے۔

وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ ۝
(المعارج: ۹)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

جس دن زمیں اور پہاڑ لڑریں گے اور پہاڑ ریگ رواں کے تو دے ہو جائیں گے۔

يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَ
كَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيًّا مَّهِيلاً
(مزمل: ۱۳)

(مزمل: ۱۳)

یہ بھی واضح کر دیا کہ سورج چاند اور ستارے سب بے نور ہو جائیں گے:

یو چھتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہوگا؟ پس جب آنکھیں چندھیا جائیں گی۔ اور چاند بے نور ہو جائے گا۔ اور سورج اور چاند اکٹھے کر دے جائیں گے۔ (القیامہ: ۹۳۶)

يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۝
فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ ۝ وَخَسَفَ
الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ۝
(القیامہ: ۹۳۶)

الغرض جب ساری کائنات ختم ہو جائے گی تو اس وقت اس واحد حقیقی کے علاوہ کوئی نہ ہوگا وہ فرمائے گا۔ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ؟ آج کسی کی بادشاہت ہے، کہاں ہیں جبارین کہاں ہیں متکبرین؟ مگر کون ہے جو جواب دے گا پھر خود ہی فرمائے گا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ۔ صرف اللہ واحد قہار کی سلطنت ہے۔

۱۹۔ روز محشر

موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر یقین رکھنا بھی ایمان کا لازمی جزو ہے لہذا ساری کائنات کے فنا ہونے کے بعد پھر جب اللہ تعالیٰ چاہے گا تو حضرت اسرافیل علیہ السلام کو زندہ فرمائے گا اور صور کو پیدا کر کے دوبارہ پھونکنے کا حکم دے گا پھر از سر نو زمین و آسمان چاند و سورج

marfat.com

Marfat.com

موجود ہوں گے۔ پھر ایک مینہ برسے گا جس سے سبزہ کے مثل زمین کا ہر ذی روح اپنے جسم کے ساتھ زندہ ہوگا۔ سب سے پہلے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم قبر انور سے برآمد ہونگے کہ دائیں ہاتھ میں حضرت صدیق اکبرؓ کا ہاتھ ہو اور بائیں حضرت فاروق اعظمؓ کا ہاتھ پھر مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے مقابر میں جتنے بھی مسلمان دفن ہیں۔ سب کو اپنے ہمراہ لے کر میدان حشر میں تشریف لے جائیں گے۔

ثُمَّ نَفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ
قِيَامٌ يَنْظُرُونَ۔ (الزمر: ۶۸)

پھر وہ دوسری دفعہ پھونکا جائے گا تو یکا یک وہ
کھڑے دیکھ رہے ہوں گے۔ (الزمر: ۶۸)

حشر صرف روح کا نہیں بلکہ روح و جسم کا ہے جو کہے صرف رو میں ہی اٹھیں گی۔ جسم زندہ نہ
ہوں گے۔ وہ بھی کافر ہے اور جو روح جس جسم کے ساتھ متعلق ہوگی اس روح کا حشر اسی جسم میں ہوگا۔
یہ نہیں کہ کوئی نیا جسم پیدا کر کے اس کے ساتھ روح متعلق کر دی جائے

وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا
(مریم: ۹۵)

اور ہر ایک ان میں سے اس کے ہاں اکیلا آئے
گا۔ (مریم: ۹۵)

جسم کے اجزاء اگرچہ مرنے کے بعد متفرق ہو گئے۔ اور مختلف جانوروں کی غذا بن
گئے یا ریزہ ریزہ ہو کر ہوا کے ساتھ آڑ گئے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان سب اجزاء کو جمع فرما کر پہلی ہیئت
پر لا کر انہیں اجزائے اصلیہ پر کہ محفوظ ہیں، دوبارہ ترتیب دے گا اور قیامت کے دن اٹھائے گا۔
قیامت کے پہلے زمانے کے اور بعد والے سب جمع کر دیے جائیں گے:

هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ ۖ جَمَعْتَكُمْ و
الْأَوَّلِينَ ۝ (مرسلات: ۳۸)

یہ فیصلہ کا دن ہے ہم تمہیں اور پہلوں کو جمع کر
دیں گے۔ (مرسلات: ۳۸)

سب لوگ قبروں سے دوڑتے ہوئے نکلیں گے اور میدان قیامت میں جمع ہوں گے فرمایا:

يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَامِ
سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَىٰ نُصُيبٍ
يُوفِضُونَ ۝ (المعارج: ۴۳)

جس دن وہ قبروں سے دوڑے ہوئے نکل
پڑیں گے گویا وہ ایک نشان کی طرف دوڑتے
جارہے ہوں۔ (المعارج: ۴۳)

قیامت کے دن سب لوگ برہنہ حالت میں اور خوب خستہ اٹھیں گے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نَعِيدُهُ
وَعُدًّا عَلَيْنَا ۚ اِنَّا كُنَّا
فَاعِلِينَ - (الانبیاء: ۱۰۳)

جس طرح ہم نے پہلی بار پیدا کیا تھا دوبارہ بھی
پیدا کریں گے۔ یہ ہمارے ذمہ وعدہ ہے بیشک
ہم پورا کرنے والے ہیں۔ (الانبیاء: ۱۰۳)

محشر کے روز دوبارہ زندہ ہونے کے بعد ہر کوئی حیرت زدہ ہوگا اور ہر کوئی ادب نہ
نگائیں اٹھا کر دیکھے گا۔ کسی کو اپنے پرانے کا ہوش نہ ہوگا۔ مومنین کی قبروں پر اللہ کی رحمت سے
سواریاں حاضر کی جائیں گی۔ ان میں سے بعض تنہا سوار ہوں گے اور کسی سواری پر دو کسی سوار پر
تین کسی پر چار کسی پر دس ہوں گے۔ مراتب اور درجات ایمان و اعمال کا لحاظ رکھا جائے گا۔
جبکہ کافر منہ کے بل چلتا ہوا میدان محشر کو جائے گا۔ کسی کا ملائکہ گھسیٹ کر لے جائیں گے اور کسی
کو آگ جمع کرے گی۔

سب کو زندہ کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ فرمایا:

وَعُرْضُوا عَلٰی رَبِّكَ صَفًّا ۙ (کہف: ۴۸)
اور سامنے آئیں گے تیرے رب کے صف
باندھ کر۔ (کہف: ۴۸)

یہ بھی بتا دیا کہ قیامت کا دن پچاس ہزار سال کے برابر طویل ہوگا۔ اگر یہ دن آرام کا ہوا تو
بہت خوشی نصیبی ہے۔ اور اگر یہ دن تکلیف کا ہوا تو پچاس ہزار سال تکلیف اٹھانا پڑے گی۔ اللہ
تعالیٰ سب مسلمانوں کو عذاب سے محفوظ رکھے۔ فرمایا۔

تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي
يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُ الْأَحْمِيَّتِ أَلْفَ
سَنَةٍ ۗ (معارج: ۴)

فرشتے اور اہل ایمان کی روہیں اس کے پاس
چڑھ کر جاتی ہیں۔ (اور وہ عذاب) اس دن ہو
گا جس کی مقدار پچاس ہزار سال کی ہے۔

قیامت کے دن کافروں کے چہرے سیاہ ہوں گے اور ان پر لعنت برسی ہوگی۔ اور مسلمانوں
کے چہرے تروتازہ اور روشن ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ ۚ
فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ
فَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا
الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ۝

جس دن بعض منہ سفید اور بعض منہ سیاہ ہوں گے
سو وہ جن کے منہ سیاہ ہوں گے ان سے
کہا جائے گا کیا تم ایمان لا کر کافر ہو گئے تھے؟
اب اس کفر کے بدلے میں عذاب چکھو اور وہ

وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ
فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ۔ (آل عمران: ۱۰۶، ۱۰۷)

لوگ جن کے منہ سفید ہوں گے تو وہ اللہ کی
رحمت میں ہوں گے۔ اور وہ اس میں ہمیشہ
رہیں گے۔ (آل عمران: ۱۰۶ تا ۱۰۷)

مزید فرمایا کہ قیامت کے دن اس قدر خوف و ہراس طاری ہوگا۔ ماں بچے کو بھلا دے گی۔
اور ڈر کے مارے لوگوں کی آواز سنائی نہیں دے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

يَوْمَ تَرَوْهَا تَذْهَبُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ
عَمَّا رَضَعَتْ وَ تَضَعُ كُلُّ ذَاتِ
حَمْلٍ حَمْلَهَا وَ تَرَى النَّاسَ سُكَرَى
وَمَا هُمْ بِسُكَرَى وَلَكِنَّ عَذَابَ
اللَّهِ شَدِيدٌ۔ (حج: ۷)

جس دن اسے دیکھو گے۔ ہر دودھ پلانے والی
اپنے دودھ پیتے (بچے) کی بھول جائے گی۔
اور ہر حمل والی اپنا حمل ڈال دے گی۔ اور تجھے
لوگ مدہوش نظر آئیں گے اور وہ مدہوش نہ
ہونگے۔ لیکن اللہ کا عذاب شدید ہوگا۔ (حج: ۷)

قیامت کا میدان سپاٹ ہوگا چھپنے کا مقام نہیں ہوگا۔ فرمایا:

يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفْرَقُ
كَلَّا لَا وَزَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ
الْمُسْتَقَرُّ (قیامتہ: ۱۰ تا ۱۲)

اس دن انسان کہے گا کہ بھاگنے کی جگہ کہاں
ہے ہرگز نہیں، کہیں پناہ نہیں۔ اس دن آپ کے
رب ہی کی طرف ٹھکانہ ہے۔ (قیامتہ: ۱۰ تا ۱۲)

ان تمام آیات سے معلوم ہوا کہ حشر بڑا سخت ہوگا۔ حشر کا میدان بہت وسیع و عریض ہوگا۔
زمین بالکل ہموار ہوگی۔ انسان مارے مارے پھر رہے ہوں گے۔ سورج قریب ہوگا۔ اس کی
گرمی سے زمین تانبے کی طرح ہوگی۔ تپش اور گرمی سے بھیجے کھولتے ہوں گے۔ اور اس کثرت
سے پسینہ نکلے گا کہ ستر گز زمین میں جذب ہو جائے گا۔ پھر اوپر چڑھے گا۔ کسی کے ٹخنوں تک ہو
گا۔ کسی کے گھٹنوں تک کسی کی کمر کمر، کسی کے سینے اور کسی کے گلے تک، اور کافر کے منہ تک چڑھ
کر مثل لگام کے جکڑ جائے گا۔ جس میں وہ ڈبکیاں کھائے گا۔ زبانیں سوکھ کر کاٹا ہو جائیں گی
اور دل ابل کر گلے تک آجائیں گے۔ دہشت سے طاقت طاق ہوگی۔ بھائی بھائی سے بھاگتا ہو
گا۔ ماں باپ اولاد سے، خاوند بیوی سے بھاگتا ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ سب کو اپنی
بچی جان کی فکر پڑھی ہوگی۔ نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ ہزار مصائب ہوں گے۔

جب پچاس ہزار سال والا دن تقریباً آدھا گزر جائے گا تو مسلمان یہ خیال کریں گے کہ
نیانے کرام دنیا میں حاجت برآری کا وسیلہ تھے تو یہاں بھی حاجت برآری انھیں کے ذریعہ ہو

گی۔ آخر سب مشورہ کریں گے کہ آؤ کوئی سفارشی تلاش کریں جو ہمیں اس قیامت اور حشر کے عذاب سے نجات دلوائے۔ چنانچہ سب ابوالبشر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور عرض کریں گے آپ ہم سب کے باپ ہیں، اللہ کے خلیفہ ہیں، مسجود ملائکہ ہیں۔ اللہ نے خود اپنے دست قدرت سے آپ کو بنایا ہے۔ آج اللہ تعالیٰ کے ہاں ہماری شفاعت فرمائیں۔ تاکہ حساب و کتاب شروع ہوا اور ہمیں اس قیامت کے عذاب سے نجات ملے۔ آنفسی نفسی کہتے ہوئے فرمائیں گے۔ اذہبوا الی غیری۔ کسی اور کے پاس جاؤ۔ میرا یہ رتبہ نہیں۔ مجھے تو آرزو اپنی جان کی فکر ہے، کیونکہ آج اللہ نے ایسا غضب فرمایا ہے۔ کہ نہ پہلے اتنا کبھی غضب فرمایا اور نہ آئندہ فرمائے گا۔ لہذا نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ لوگ گرتے پڑتے آپ کے پاس آئیں گے آپ بھی نفسی نفسی کہتے ہوئے فرمائیں گے اذہبوا الی غیری۔ کسی اور کے پاس جاؤ مجھے تو آج اپنی فکر لگی ہوئی ہے۔ آج اللہ نے سخت غضب فرمایا ہے۔ شفاعت کرنا میرا رتبہ نہیں کسی اور کے پاس جاؤ۔ مجھے تو آج اپنی جان کی فکر ہے۔ الغرض سارے مومن و کافر ہر ایک نبی کے پاس جا کر شفاعت کی درخواست کرے گے لیکن سب نفسی نفسی کہتے ہوئے فرمائیں گے۔ اذہبوا الی غیری کسی اور کے پاس جاؤ آخر میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوں گے تو آپ بھی شفاعت سے انکار فرمانے کے بعد فرمائیں گے تم حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کی خدمت میں جاؤ وہ خاتم النبیین ہیں وہی آج تمہاری شفاعت فرمائیں گے۔

چنانچہ سارے لوگ مومن و کافر گرتے اٹھتے، ٹھوکریں کھاتے روتے چلاتے دہائی دینے حضور اکرم ﷺ کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے۔ یا رسول اللہ! ہماری حالت زار کو ملاحظہ فرمائیں ہم کس مصیبت میں ہیں۔ کس طرح درد کی ٹھوکریں کھا کر ہم آپ کے دروازہ پر آئے ہیں۔ ہماری فریاد سنیں۔ ہماری دستگیری فرمائیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہماری شفاعت فرمائیں تاکہ ہمیں اس قیامت کے عذاب سے نجات ملے۔ حضور نبی اکرم ﷺ فرمائیں گے۔ انا لہا میں اس کام کے لے تیار ہوں۔ انا صاحبکمر میں تمہاری شفاعت کرنے والا ہوں جسے تم جگہ جگہ ڈھونڈتے رہے ہو۔

اس کے بعد حضور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ اور سجدہ فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے۔ پیارے محمد! سراٹھاؤ کہو تمہاری مانی جائے گی۔ اور مانگو جو مانگو گے ملے گا۔ شفاعت کرو، تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی۔

۲۰۔ شفاعت

اللہ تعالیٰ کے حکم سے قیامت کے دن انبیاء کرام، علماء اولیاء، صلحاء اور شہداء، گنہگار اہل ایمان کی شفاعت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت قبول فرما کر بیشتر گنہگار مسلمانوں کو بخشے گا۔ سب سے پہلے شفاعت کا دروازہ ہمارے نبی ﷺ کھولیں گے۔ پھر دوسرے نبیوں اور رسولوں اور مقبولانِ خدا کو شفاعت کی اجازت ہوگی۔

شفاعت برحق ہے اور قرآن پاک اور حدیثوں سے ثابت ہے جس کا انکار قرآن مجید کی واضح آیتوں اور رسول خدا ﷺ کی بیشتر صحیح حدیثوں کا انکار ہے اس لئے شفاعت کا منکر بد عقیدہ اور گمراہ ہے۔

حضور ارشاد فرماتے ہیں۔ کہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقبول دعا عنایت فرمائی ہے۔ سب نے وہ دعا اس دنیا میں مانگ لی۔ لیکن میں نے وہ دعا قیامت کے دن امت کی شفاعت کے لیے محفوظ رکھی ہوئی ہے۔ میری دعا شفاعت انشاء اللہ ہر صاحب ایمان امتی کو نصیب ہوگی۔ (بخاری و مسلم) میری شفاعت امت کے کبیرہ گناہ والوں کے لیے ہے (ترمذی ابوداؤد)

حضرت انس بن مالکؓ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا، ”جس نے میری شفاعت کا انکار کیا اس کو شفاعت نصیب نہ ہوگی۔ اور جس نے حوض کوثر کی تکذیب کی اس کی بھی آب کوثر نصیب نہ ہوگا۔“ (غنیۃ الطالبین)

شفاعت کے عقیدہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق و مالک و شہنشاہ و حقیقی ہے اس کو نہ کسی قسم کا لالچ ہے نہ ڈر۔ نہ وہ کسی کے دباؤ میں ہے نہ اس پر کسی کی دھونس یا زور چلتا ہے۔ اس نے اپنی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ سے اپنے بندوں میں سے اپنے محبوبوں کو چن لیا۔ اور اپنے تمام محبوبوں کا سردار، مدنی تاجدار، احمد مختار ﷺ کو کہا۔ وہ کہاں بے نیازی اپنے کرم سے اپنے محبوبان کرام کی ناز برادری فرماتا ہے۔ اس نے اپنے محبوبوں کی عظمت و جلالت اور شان محبوبیت دکھانے کے لیے اور ان کی شوکت و جاہت ظاہر فرمانے کے لیے ان کو اپنے گناہ گار بندوں کو شفیع بنایا اور انھیں منصب شفاعت عطا فرمایا اور وہی اپنے کرم سے انبیاء اولیاء و شہداء اور اہل شفاعت کی شفاعت قبول فرمائے گا۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ شفاعت کے معنی ہیں۔ کسی شخص کے

اپنے بڑے کے حضور میں اپنے چھوٹے کے لیے سفارش کرنا۔ شفاعت دھمکی اور دباؤ سے کسی بات کے منوانے کو نہیں کہتے اور نہ ہی شفاعت ڈر کر یاد ب کر مانی جاتی ہے۔

ارشاد فرمایا۔ قیامت کے دن تین قسم کے لوگ شفاعت کریں گے۔ انبیاء، علماء اور شہید (ابن ماجہ) میری امت سے کوئی ایک گروہ کی، کوئی ایک قبیلہ کی، کوئی ایک خاندان کی اور کوئی صرف ایک آدمی کی شفاعت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت قبول فرما کر سب کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ (ترمذی) میرا ایک امتی ایسا بھی ہے جس کی شفاعت سے نبی تمیم کے افراد کی تعداد سے زیادہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ (ترمذی، ابن ماجہ) وہ عثمان غنی یا اولیس قرنی ہیں۔ (مرقاۃ)

تمام انبیائے کرام علیہم السلام اپنی اپنی امت کی شفاعت فرمائیں گے۔ اولیا کرام، حفاظ حجاج اور ہر وہ شخص جسے کوئی منصب دینی ملا ہے۔ کل بروز قیامت اپنے اپنے متعلقین کی شفاعت کریں گے بلکہ نابالغ بچے جو مر گئے۔ اپنے ماں باپ کی شفاعت کریں گے۔ بلکہ آتش دوزخ سے نجات پانے والے مسلمان اپنے ان بھائیوں کی رہائی کے لیے جو آتش دوزخ میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور شفاعت و سوال میں مبالغہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے اذن پا کر مسلمان کی کثیر تعداد کو پہچان پہچان کر دوزخ سے نکالیں گے۔

حضور اکرم ﷺ کی شفاعت کئی قسم پر ہے:

(۱) شفاعت کبریٰ: یعنی حضور ﷺ کی وہ شفاعت جو تمام مخلوق مومن و کافر، فرمانبردار و نافرمان، موافق و مخالف اور دوست و دشمن سب کے لیے ہوگی اور وہ انتظار حساب جو سخت جاں گزار ہوگا۔ جس کے لیے لوگ تمنائیں کریں گے۔ کہ کاش جہنم میں پھینک دیے جاتے ہیں اور اس انتظار سے نجات پاتے ہیں۔ اس بلا سے چھٹکارا کافروں کو بھی حضور کی بدولت ملے گا۔ جس پر اولین و آخرین مومنین و کافرین، موافقین سب حضور کی حمد کریں گے۔ اس کا نام مقام محمود ہے اور یہ مرتبہ شفاعت کبریٰ حضور کے خصائص سے ہے۔

(۲)۔ بہتوں کا بلا حساب جنت میں داخل فرمائیں گے۔

(۳)۔ بہترے وہ ہوں گے جو مستحق جہنم ہو چکے ان کے جہنم میں جانے سے روکیں گے۔

(۴)۔ بعضوں کی شفاعت فرما کر جہنم سے نکالیں گے۔

marfat.com

(۵)۔ بعضوں کے درجات بلند فرمائیں گے۔

(۶)۔ بعضوں سے تخفیف عذاب فرمائیں گے۔

(۷)۔ جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی۔ انہیں بہشت میں داخل فرمائیں گے۔

(۸)۔ یہاں تک کہ جس کے دل میں رائی کے دانہ سے بھی کم ایمان ہوگا اس کے لیے شفاعت فرما کر جہنم سے نکالیں گے۔

(۹)۔ یہاں تک کہ جو سچے دل سے مسلمان ہوا اگرچہ اس کے پاس کوئی نیکی عمل نہیں اسے بھی دوزخ سے نکالیں گے۔

۲۱۔ اعمال نامہ

اعمال نامہ انسان کے اچھے اور برے اعمال کا آئینہ ہے جو روزانہ انسان کرتا ہے اور اللہ کے فرشتے اسے لکھ کر محفوظ کر لیتے ہیں۔ یہ اعمال نامہ ہر شخص کو قیامت کے روز دیا جائے گا۔ تاکہ وہ خود دیکھ لے کہ اس نے کیا اچھا کیا ہے اور کیا برا کیا ہے کیونکہ اعمال نامے میں ہر انسان کے دنیا میں کئے گئے تمام اعمال درج ہوں گے اس کے بارے میں خود ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ:

وَوَضَعَ الْكِتَابَ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ
مُشْفِقِينَ مِمَّا قَامُوا وَيَقُولُونَ
يُوَيْلَتُنَا مَا لِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ
صَوِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَا مَا
وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَ
لَا يُظْلَمُ رَبُّكَ أَحَدًا ۝
(الکہف: ۴۹)

اور اعمال نامہ رکھ دیا جائے گا۔ پھر تو مجرموں کو دیکھے گا کہ اس چیز سے ڈرنے والے ہونگے جو اس میں ہے اور کہیں گے افسوس ہم پر یہ کیسا اعمال نامہ ہے کہ اس نے کوئی چھوٹی یا بڑی بات نہیں چھوڑی مگر سب کو محفوظ کیا ہوا ہے اور جو کچھ انہوں نے کیا تھا سب کو موجود پائیں گے اور تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ (الکہف: ۴۹)

مسلمانوں کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا اور وہ خوش ہونگے اور کفار کو بائیں ہاتھ میں پیچھے کی طرف سے اعمال نامہ دیا جائے گا جو ان کے مجرم اور جہنمی ہونے کی نشانی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

marfat.com

Marfat.com

فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ
فَسَوْفَ يُعْطَىٰ حِسَابًا بَاطِلًا ۖ وَ
يُنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا ۝ وَأَمَّا
مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَأَىٰ ظُهُورَهُ
فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُورًا ۖ وَيَصْطَلِي
بِسُورَةٍ ۖ (الانشقاق: ۱۲۳-۱۲۴)

پس جس کا اعمالنامہ اس کے دائیں ہاتھ میں
دیا گیا تو اس سے آسانی کے ساتھ حساب لیا
جائے گا اور وہ اپنے اہل و عیال میں خوش
واپس آئے گا اور لیکن جس کو اعمالنامہ پیٹھ
پیچھے سے دیا گیا تو وہ موت کو پکارے گا اور وہ
روزخ میں داخل ہوگا۔ (الانشقاق: ۱۲۳-۱۲۴)

ہر آدمی اس وقت یقین کر لے گا کہ ذرہ ذرہ بلا کم و کاست اس میں موجود ہے اپنے
گناہوں کی فہرست پڑھ کر مجرم خوف کھائیں گے کہ دیکھیے۔ آج کیسی سزا ملتی ہے۔ اور کافروں کا
خوف کے مارے برا حال ہوگا۔

قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر آدمی سے اس کے عمل کے بارے میں پوچھے گا اور سوال کریگا اور
یہ سوال برحق ہے۔ چنانچہ نبی اکرم ﷺ فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندہ مومن کے
اپنے قریب کر کے اس کو نورانی پردے میں چھپا کر پوچھے گا۔ اے میرے بندے! تجھے فلاں گناہ
یاد ہے فلاں گناہ یاد ہے۔؟ عرض کرے گا ہاں میرے رب! مجھے یاد ہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس کے
اس کے تمام گناہوں کا اقرار کروائے گا اور بندہ اس وقت دل میں کہے گا کہ اب مارا گیا۔ تو اللہ
تعالیٰ فرمائے گا میں نے تیرے گناہوں کو دنیا میں لوگوں سے چھپائے رکھا جا آج میں تیرے
گناہوں کو معاف کرتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی اس بندے کو اس کی نیکیوں کی کتاب دے گا۔ لیکن
کافروں اور منافقوں کو سب کے سامنے سر محشر علانیہ ندادے گا اور فرمائے گا۔ یہ میں وہ لوگ
جنہوں نے اپنے رب کے متعلق جھوٹ بولا۔ سنو ان ظالموں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت اور پھٹکار
ہے۔ (بخاری شریف)

۲۲۔ میزان

قیامت کے دن ہر انسان و جن کے تمام اچھے اور برے اعمال کا وزن ہوگا۔ یہ وہ ترازو ہے
جس کے ذریعہ نیکیاں اور برائیاں تولی جائیں گی جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی۔ وہ جنت میں
جائے گا اور جس کی برائیاں زیادہ ہوں گی اگر اللہ تعالیٰ نے اسے معاف نہ کیا تو اسے سزا ملے گی۔
تو جن کی نیکیوں کا پلہ بھاری ہو گا وہی نجات

فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ

كُهُ الْمُفْلِحُونَ ۝ وَمَنْ خَفَّتْ
مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا
أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ .

(مومنون: ۱۰۳)

وَتَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ
فَلَا تظلم نفس شيئا. (الانبیاء: ۴۷)

پانے والے ہیں اور جن کا پلہ ہلکا ہو ایہ وہی ہیں
جنہوں نے خود کو گھائے میں رکھا اور وہ دوزخ
میں رہنے والے ہیں۔ (مومنون: ۱۰۳)

اور ہم قیامت کے دن عدل کے ترازو رکھیں
گے تو کسی جان پر کچھ ظلم نہ ہوگا۔ (الانبیاء: ۴۷)

میزان ترازو کو کہتے ہیں۔ اور اعمال کے تولنے کے لیے قیامت میں جو میزان نصیب کی
جائے گی اس کی کیفیت کے بارے میں اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ ہمیں تو اس پر عقیدہ
رکھنا ہے کہ میزان حق ہے اور اس پر لوگوں کے تمام نیک و بد اعمال تولے جائیں گے۔ جن کے
اعمال کا پلہ وزنی ہوگا وہ کامیاب ہیں اور جن کا وزن ہلکا ہوگا وہ خسارے میں رہیں گے۔ نیکی
کا پلہ بھاری ہونے کے یہ معنی ہیں کہ اوپر اٹھے، دنیا کا سامنا نہیں کہ جو بھاری ہوتا ہے
نیچے کو جھکتا ہے۔

۲۳۔ حساب

قیامت کے روز اعمال کا حساب ہوگا اس لیے اس دن کو روز حساب کہا جاتا ہے۔ اس لیے
عقیدہ حساب برحق ہے اور اس کا انکار کفر ہے۔ حساب کے متعلق عقائد حسب ذیل ہیں:-

۱۔ عقیدہ: حساب کا مطلب ہے باز پرس۔ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ حساب لینے کا مجاز
ہے جس سے چاہے حساب لے اور جسے چاہے بغیر حساب کے بخش دے۔ یہ اس کی مرضی
ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جو تمہارے دل میں ہے خواہ اسے ظاہر کرو یا چھپاؤ اللہ تم سے
ضرور اس کا حساب لے گا۔ (البقرہ: ۲۸۳) ایک اور مقام پر ارشاد ہے کہ حساب لینا ہمارے
اختیار میں ہے۔

۲۔ عقیدہ: برے لوگوں سے سختی سے حساب لیا جائے گا۔ خاص کر کافروں کا حساب سختی
سے ہوگا۔ کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جنہوں نے اسے قبول نہ کیا وہ اگر زمین کی ساری
دولت کے بھی مالک ہوں اور اتنی ہی اور حاصل کر لیں تو وہ اللہ کی گرفت سے بچنے کے لئے
اس کو بھی دینے کے لئے تیار ہو جائیں گے لیکن یہ وہ لوگ ہیں جن کا بری طرح حساب لیا
جائے گا اور ان کا ٹھکانا جہنم ہے جو بہت ہی برا ٹھکانا ہے۔ (الرعد: ۱۸)

marfat.com

۳۔ عقیدہ: اہل ایمان سے حساب لینے میں نرمی استعمال کی جائے گی اور ان کی بلکا حساب لیا جائے گا اور ان کی نیکیوں کی بنا پر ان کی برائیوں سے درگزر کیا جائے گا۔ ان کی مجموعی طور پر نیکیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں معاف کر دیا جائے گا۔ یہ اللہ کے ہاتھ میں ہو گا۔ بعض حالات میں یوں بھی ہو گا کہ جسکے گناہوں کے دفتر کے دفتر بھرے ہوں گے وہ ان میں سے کسی امر کا انکار نہ کر سکے گا۔ اور نہ کوئی عذر اس کے پاس ہو گا۔ اس وقت ایک پرچہ جس میں کلمہ شہادت لکھا ہو گا۔ اسے دیا جائے گا کہ جاتلوا۔ پھر ایک پلے میں وہ سب دفتر رکھے جائیں گے اور ایک میں وہ پرچہ۔ قدرت الہی سے وہ پرچہ ان دفتروں سے بھاری ہو جائے گا۔ اور وہ ہشاش بشاش داخل جنت ہو گا۔ حق ہے کہ اس غفور و رحیم کی رحمت کی کوئی انتہا نہیں جس پر رحم فرمائے۔ تھوڑی چیز بھی بہت کثیر ہے۔ اس کی رحمت چاہے تو کروڑوں برس کے گناہ ایک نیکی سے معاف فرما دے بلکہ ان گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے۔

۴۔ عقیدہ: حساب لیتے وقت ہر ایک کو اس کے اعمال سے آگاہ کیا جائے گا۔ کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ”عنقریب اللہ ان کو بتلا دے گا کہ وہ دنیا میں کیا کرتے رہے ہیں۔“ (المائدہ: ۵)

مزید ارشاد ہے کہ ”اور ابھی اللہ اور اس کا رسول تمہارے کردار کو دیکھے گا۔ پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وہ حاضر اور غیب کو خوب جانتا ہے۔ پھر جو کچھ تم کرتے رہے ہو اس سے وہ تمہیں آگاہ کر دے گا۔“ (توبہ: ۹۴)

مزید ارشاد ہے کہ ”ان کو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں وہ ہم سب کچھ بتلا دیں گے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ سینوں کی پوشیدہ باتیں بھی جانے والا ہے“ (لقمان: ۲۳)

۵۔ عقیدہ: حساب کے وقت ذرہ ذرہ نیکی اور بدی دکھلا دی جائے گی ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ”پس جس نے ذرہ بھر نیکی کی ہے وہ اسے دیکھ لے گا اور جس نے ذرہ بھر بدی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔“ (زلزال: ۷) مزید ارشاد ہے کہ ”جیسے جیسے عمل وہ کرتے ہیں، ان کی خرابیاں ان پر ظاہر ہو جائیں گی اور جس عذاب کو وہ مذاق خیال کرتے ہیں وہ نازل ہو کے رہے گا۔“ (سجدہ: ۲۸)

۶۔ عقیدہ: بعض کافر ایسے ہوں گے کہ جب انہیں نعمتیں یاد دلا دلا کر پوچھا جائے گا کہ تو

نے کیا کیا؟ اس وقت بحکم الہی اس کے بدن کے تمام اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے کہ یہ تو ایسا ایسا تھا اور وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ”آج ہم ان کی قوت گویائی پر مہر لگا دیں گے۔ ان کے ہاتھ ہم سے بولیں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے جو جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ (یسین: ۶۵)

۲۴۔ پل صراط

پل کی طرح کا ایک راستہ ہے جسے صراط کہا جاتا ہے۔ یہ پل جہنم پر ہوگا اور جنت میں جانے کے لئے اس پل سے گزر کر جانا پڑے گا۔ یہ صراط بال سے زیادہ باریک اور تلواری سے زیادہ تیز ہو گا۔ اس کی حقیقت کو ماننا ہمارے ایمان کا ایک لازمی جزو ہے۔ اس کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ:

وَأَنْ تَنْتَهُمُ الْآرَادُ دَهَاءَ كَانِ عَلِي
رَبِّلْفَحْتُمَا مَقْضِيًّا ۝ ثُمَّ نُنْجِي
الَّذِينَ اتَّقَوْا وَ نَذَرُ الظَّالِمِينَ
فَوْتَا حَيْثَا ۝ (مریم: ۷۱-۷۲)

اور تم میں سے کوئی شخص نہیں مگر اسے اس پر گزرنا ہوگا۔ یہ تمہارے پروردگار پر لازم اور مقرر ہے پھر ہم پرہیزگاروں کو نجات دیں گے اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل پڑا ہوا چھوڑ دیں گے۔ (مریم: ۷۱ تا ۷۲)

حضرت ابو سعید کی روایت میں ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ بعض مسلمان جہنم سے نجات پائیں گے تو انہیں جنت اور دوزخ کے درمیان ایک پل کے اوپر روک لیا جائے گا کہ ایک دوسرے سے ان مظالم کا بدلہ لیں جو دنیا میں کیے تھے یہاں تک کہ جن حقوق کا معاوضہ پاک ہو جائے گا تو انہیں جنت میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے گی۔ قسم ہے اس ذمہ کی جس کے قبضے میں محمد مصطفیٰ ﷺ کی جان ہے۔ تم میں سے ہر ایک جنت میں اپنی رہائش گاہ کو اس سے زیادہ جانے گا جتنا دنیا کے اندر وہ اپنے مکان کو جانتا تھا (بخاری)

اس پل سے گزرنے کی کیفیات اپنے اپنے اعمال کے مطابق ہوں گی۔ نیک لوگوں کے اس صراط کو عبور کرنا بالکل آسان ہوگا جبکہ برے لوگوں کے لئے اسے عبور کرنا بہت مشکل اور گراں ہوگا۔ انبیاء اور اولیاء تو اس پل صراط کو چشم زدن میں عبور کر جائیں گے۔ سب سے پہلے حضور ﷺ اس پل کو پار کریں گے۔ اس کے بعد دوسرے انبیاء اور مرسلین اس پل سے گزریں

گے۔ ان کے بعد حضور ﷺ کی امت اور پھر دوسری امتیں گزریں گی۔ نیکو کاروں میں بعض تو ایسی تیزی سے گزر جائیں گے جیسے بجلی کا کوندا کہ ابھی چمکا ابھی غائب ہو گیا۔ ابھی ادھر تھے ابھی ادھر پہنچے۔ بعض تیز ہوا کی طرح، کوئی ایسے جیسے پرند اڑتا ہے بعض تیز گھوڑے کی طرح اور بعض ایسے جیسے آدمی دوڑتا ہے۔ بعض آہستہ آہستہ یہاں تک کہ بعض سرین پر گھسٹتے ہوئے اور بعض گرتے پڑتے، لعلکڑاتے ہوئے اس بل سے سے گزر جائیں گے۔ اور بعض چیونٹی کی چال چل کر پار ہو جائیں گے۔ غرض نیک سلامت رہیں گے اور اپنے اپنے درجے کے موافق وہاں سے صحیح سلامت گزر جائیں گے اور کافروں کے لئے حسرت کا عالم ہوگا جبکہ وہ بل سے نہ گزر سکیں گے اور جہنم میں گر پڑیں گے۔

جب امت مسلمہ کے لوگ بل سے گزر رہے ہوں گے تو حضور ﷺ امت کی سلامتی کی دعا فرما رہے ہوں گے اور ان کی دعا ہی سے بہت سے مسلمان اس بل کو باسانی عبور کر لیں گے یعنی حضور ﷺ سے محبت رکھنے والوں کو دعا بہت فائدہ پہنچائے گی۔

بل صراط کے دونوں جانب بڑے بڑے آنکڑے لٹکتے ہوں گے۔ جس شخص کے بارے حکم ہوگا اس پکڑ لیں گے۔ مگر بعض تو زخمی ہو کر نجات پا جائیں گے اور بعض کو جہنم میں گرا دیں گے اور یہ ہلاک ہوں گے۔

۲۵۔ حوض کوثر

پانی کے بہت بڑے حوض یعنی تالاب کو حوض کوثر کہا جاتا ہے۔ یہ حوض اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے جو حضور ﷺ کو مرحمت ہوا ہے کیونکہ باری تعالیٰ ہے:

إِنَّا أَنْعَمْنَا عَلَى الْكَوْثِرِ ۝

بے شک ہم نے تجھے کوثر عطا فرمائی۔

یہ حوض کوثر اللہ کی حکمت سے پہلی مرتبہ تو میدان حشر میں ملے گا جبکہ محشر کی گرمی سے بے حد پیاس لگے گی۔ اور ہر کسی کو اس وقت پانی کی ضرورت ہے پناہ تنگ کرے گی اس عالم میں ٹھنڈے پانی کے حوض کا مل جانا اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے ہے۔ دوسری مرتبہ یہی حوض کوثر حضور ﷺ کی منتقل طور پر جنت میں عطا کر دی گئی ہے۔

حوض کوثر بہت وسیع و عریض ہوگا۔ اس کا پانی دودھ کی طرح سفید، شہد کی طرح میٹھا اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوگا۔ جس نے ایک بار پی لیا اسے جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہ

لگے گی اس کے متعلق حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا کہ میرا حوض ایک مہینے کی مسافت تک ہے اس کے زاویے برابر ہیں اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور اس کی خوشبو مشک سے زیادہ ہے اور اس کے آنجورے آسمان کے تاروں جیسے ہیں جو اس سے ایک دفعہ پی لے گا اسے کبھی پیاس نہ لگے گی۔ (بخاری شریف)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حوض کوثر حق ہے۔ اس حوض کی مسافت ایک مہینے کی راہ ہے اس کے کناروں پر موتی کے قبے ہیں۔ اس کی مٹی نہایت خوشبودار مشک کی ہے۔ اس کا پانی پینے کے برتن گنتی میں ستاروں سے بھی زیادہ ہیں جو ایک بار پیئے گا، کبھی پیاسا نہ ہوگا۔

شب معراج جب حضور ﷺ نے جنت کی سیر کی تو وہاں حوض کوثر بھی دیکھا اس متعلق حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا کہ جب میں جنت کی سیر کر رہا تھا تو میں ایک بہت بڑے حوض پر پہنچا جس کے کنارے موتیوں کی طرح تھے۔ میں نے کہا اے جبرائیل! یہ کیا ہے؟ تو کہا یہ حوض کوثر ہے جو آپ کے رب نے آپ کو عطا فرمایا ہے اس کی مٹی خالص مشک ہے۔ (بخاری شریف)

حضور ﷺ حوض کوثر کے ساتی ہوں گے اور اپنے ہاتھ سے حوض سے آنجورے بھر کر اپنی امت کو پلائیں گے۔ یہ امت کے لئے کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔

۲۶۔ دیدار الہی

آخرت کی دائمی زندگی میں دیدار الہی ہوگا۔ قیامت میں دیدار الہی کا عقیدہ رکھنا بالکل برحق ہے۔ اس لئے قیامت کے روز جو سب سے اعلیٰ اور افضل نعمت حاصل ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے۔ یہ نعمت بہت عظیم نعمتوں میں سے ہے بلکہ اس نعمت کے برابر کوئی نعمت نہیں جسے ایک بار دیدار میسر ہوگا ہمیشہ ہمیشہ اس کے ذوق میں ڈوبا رہے گا۔ کبھی نہ بھولے گا۔ سب سے پہلے دیدار الہی حضور اقدس ﷺ کو ہوگا۔ آپ کے بعد درجہ بدرجہ انبیاء مرسلین کو اور پھر تمام اولین و آخرین یعنی عامۃ المسلمین کو۔ مولائے کریم ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ آمین۔

اس روز بہت سے منہ رونق دار ہوں گے۔

(اور) اپنے پروردگار کے محو دیدار ہوں گے اور

بہت سے منہ اس دن اداس ہوں گے۔ خیال

وَجُودًا يَوْمَئِذٍ نَّاصِرَةٌ ۝

إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ۝

وَوَجُودًا يَوْمَئِذٍ نَّاصِرَةٌ ۝

تَنْظُرُ أَنْ تَفْعَلَ بِهَا فَاقْرَأْ ۝

(قیامتہ: ۲۲ تا ۲۵)

کریں گے کہ ان پر مصیبت واقع ہونے کو ہے۔ (قیامتہ: ۲۲ تا ۲۵)

حضرت جریر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا کہ وہ وقت آنے والا ہے جب قیامت میں تم اپنی آنکھوں سے اپنے پروردگار کو دیکھو گے۔ (بخاری شریف)

حضرت ابو زرینؓ کا کہنا ہے کہ ایک مرتبہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ! کیا قیامت کے روز ہم میں سے ہر ایک اپنے پروردگار کو دیکھ سکے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں! ابو زریں کہتے ہیں کہ میں نے پھر سوال کیا کہ اس کی کوئی دنیا میں مثال ہے؟ تو حضور ﷺ نے فرمایا کہ ابو زریں! کیا تم میں سے ہر کوئی چودھویں کے چاند کو نہیں دیکھتا؟ میں نے عرض کیا کہ بے شک دیکھتا ہے فرمایا کہ چاند تو اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے ایک اچھی چیز ہے مگر اللہ تعالیٰ بہت بزرگ و برتر ہے۔ جب وہ اپنا دیدار کرانا چاہیں گے تو اسے ہر کوئی بلا روک دیکھ سکے گا۔ (ابوداؤد)

اللہ عزوجل کا دیدار بلا کیف ہے یعنی مسلمان اسے دیکھیں گے مگر یہ نہیں کہہ سکتے، کہ کیسے دیکھیں گے۔ عالم آخرت چونکہ اس عالم سے بالکل علیحدہ ایک عالم ہے اس لئے اس عالم پر اسے قیاس نہیں کیا جاسکتا۔ اس دنیا میں کسی چیز کو دیکھنے کے لئے ضروری ہے کہ وہ چیز آنکھوں کے سامنے ہو، کسی ایک خاص جگہ ہو۔ اس کے لئے کوئی مکان ہو۔ اور وہ واجب الوجودان تمام امور سے پاک و منزہ ہے کہ یہ سب چیزیں جسمیت کے لئے لازم ہے۔

جنت میں بھی اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا اور ہر جنتی اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ حضرت صہیبؓ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ جب تمام جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اور کیا چاہیے تو جنتی عرض کریں گے کہ اے اللہ! تو نے ہمارے چہروں کو روشن کیا ہمیں جنت میں داخل کیا۔ ہمیں دوزخ سے نجات دی۔ ہمیں اور کیا چاہیے۔ حضور ﷺ نے فرمایا کہ تب حجاب اٹھا دیا جائے گا۔ اور جنتی اللہ کی طرف دیکھیں گے اور اس وقت معلوم ہوگا کہ اہل جنت کہہ سکیں کوئی اور نعمت نہیں ملی جو اللہ تعالیٰ کے دیدار سے بڑھ کر ہو۔ پھر حضور ﷺ نے قرآن کی یہ آیت پڑھی جس کا مطلب یہ ہے کہ جن نے اچھے کام کیے ہیں ان کی جزا بھی اچھی ہے یعنی دیدار الہی کا نصیب ہونا۔ (مسلم شریف)

۲۷۔ جنت

سرسبز و شاداب مقام کو جنت کہا جاتا ہے۔ جنت ایک ایسا مقام ہے جہاں ہر لحاظ سے راحت اور سکون ہے۔ وہاں کی زندگی غیر فانی ہو گی۔ جہاں خوشی ہوگی، کوئی دکھ یا تکلیف نہ وہ گی یوم حساب کے بعد نیک لوگ اس جنت میں داخل ہوں گے اور ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ جنت کی حقیقت کو تسلیم کرنا اور اس پر یقین رکھنا ہمارے ایمان کا لازمی حصہ ہے۔ جنت کے متعلق یہ تصور رکھنا کہ وہ ایک تصوراتی جگہ ہے، گمراہ کن عقیدہ ہے اور ایسا عقیدہ رکھنا اسلام کے منافی ہے یعنی جنت کی حقیقت سے کسی لحاظ سے بھی انکار کرنا کفر میں داخل ہے۔

۱۔ عقیدہ: جنت نعمتوں کا باغ ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لئے ہر قسم کی نعمتوں کو جمع کر رکھا ہے۔ جنت کی نعمتیں اپنی مثال آپ ہیں اور تمام نعمتیں غیر فانی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں۔ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ میں نے اپنے نیک بندوں کے لئے (جنت میں) وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ ان کے متعلق کسی کان نے سنا ہے بلکہ ان کا خیال تک بھی کسی انسان کے دل پر نہیں گزرا۔ اگر چاہو تو اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد پڑھ لو۔ "فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ"۔ کوئی بھی نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لئے کیا کچھ پوشیدہ کر رکھا ہے (بخاری، مسلم)

۲۔ عقیدہ: جنت کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ تم اپنے پروردگار کی بخشش اور اس جنت کو حاصل کرنے میں سرعت سے کام لو جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کی چوڑائی کے برابر ہے۔ جنت کے طول و عرض کے بارے میں حضور ﷺ کے اس ارشاد سے بھی پتہ چلتا ہے۔ کہ جنت میں ادنیٰ درجہ کے جنتی کو جو رقبہ دیا جائے گا وہ زمین سے دس گنا ہوگا۔ (مسلم شریف) نیز حضور ﷺ کا ایک اور ارشاد ہے کہ جنت میں ایک درخت اتنا پھیلا ہوا ہے کہ اگر کوئی سوار اس کے سائے میں سو سال تک چلے تو اس کا سایہ ختم نہ ہوگا اور تمہاری آمان رکھنے کی جگہ مشرف و مغرب سے بہتر ہوگی۔

۳۔ عقیدہ: جنت آرام کی جگہ ہے۔ جنت میں کسی قسم کی تکلیف نہ ہوگی۔ جنت میں گرمی سردی نہیں بلکہ موسم اعتدال پر ہوگا۔ اور جنت میں نہ ہی موت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ "اصحاب جنت اس دن اچھی قیام گاہ اور بہتر خواب گاہ میں ہوں گے۔" (فرقان: ۲۳) مزید فرمایا

کہ ”جنتی ہمیشہ اسی میں رہیں گے وہ کمال قسم کی قیام گاہ ہے۔“ (فرقان: ۷۶) مزید فرمایا کہ ”جنتی کہیں گے سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لئے ہے جس نے ہم سے غم کو دور کیا بے شک ہمارا پروردگار بخشنے والا قدر دان ہے۔“ (فاطر: ۲۳) جنت کے موسم کے بارے میں ارشاد ہے کہ ”اس میں نہ سورج کی تپش دیکھیں گے اور نہ شدید سردی۔“ (دھر: ۱۳)

۴۔ عقیدہ: جنت کے محلات کے بارے میں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ وہاں قسم قسم کے جواہر کے محل ہیں۔ ایسے صاف و شفاف کہ اندر کا حصہ باری سے اور باہر کا اندر سے دکھائی دے۔ جنت کی دیواریں سونے چاندی کی اینٹوں اور مشک کے گارے سے بنی ہوئی ہیں۔ زمین زعفران کی اور کنکریوں کی جگہ موتی اور یاقوت ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ”یہی وہ ہیں جنہیں ان کے صبر کے صلے میں بالا خانے دیے جائیں گے۔ جہاں سلامتی اور عافیت ہوگی۔“ (فرقان: ۷۵)

۵۔ عقیدہ: جنت میں نہریں ہیں۔ یہ نہریں پانی دودھ، شہد اور شراب طہور کی ہیں اس کے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ”وہ جنت جس کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اس میں صاف اور شفاف پانی کی نہریں ہیں۔ دودھ کی نہریں ہیں کاذا لقمہ بہت اچھا ہوگا۔ اور شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کو لذت دینے والی ہیں اور مصفیٰ شہد کی نہریں ہیں۔“ (محمد: ۱۵) نہروں کے علاوہ جنت میں چشمے بھی ہوں گے۔ جنت کے پانی کا فور ملا ہوگا اور بعض اوقات زنجبیل۔

۶۔ عقیدہ: جنت میں کھانے کے لئے ہر طرح کا رزق ملے گا۔ خاص کر جنت کا رزق پھلوں اور میووں کا ہوگا۔ جنتی کو جن کسی چیز کے کھانے کی خواہش ہوگی۔ تو وہ چیز خود بخود اس کے پاس پہنچ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کے رزق کو رزق کریم کہا ہے۔ جنت میں کیلے، کھجوریں، انار اور انگوروں کے باغ ہوں گے بلکہ ہر قسم کے میوہ جات ہوں گے۔ جنت کے درخت نہایت ہی سرسبز و شاداب ہوں گے۔

۷۔ عقیدہ: کھانا کھانے کے بعد جنتی کے جسم میں کسی قسم کی نجاست نہ ہوگی بلکہ جنتی جو خوراک کھائے گا وہ تمام کی تمام حکمت الہی سے جسم ہی میں جذب ہو جائے گی بلکہ کھانے کے بعد جنتی کو ایک فرحت بخش ذکر آئے گی اور وہ سب کھانا ہضم ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ارشاد باری ہے کہ ”جو وہ چاہیں گے انکے پروردگار کے ہاں موجود ہوگا۔“ (زمر: ۳۳)

۸۔ عقیدہ: جنت میں ہر کوئی جوانی کی عمر میں رہے گا اور کبھی بوڑھا نہ ہوگا بلکہ سب کے سب نہایت ہی حسین و جمیل اور نازک ہوں گے۔ رنگ اتنے پاکیزہ کے دیکھنے والا ان کی نزاکت اور

آب دیکھ کر گمان کرے گا کہ موتی کے دانے بکھرے ہوئے ہیں اور جب تم اس مقام کو دیکھو تو خیال کرو کہ وہاں پر قسم قسم کے بے انتہا نعمتیں ہیں اور لازوال سلطنت ہے۔ ان کے اوپر کے کپڑے باریک اور نہایت ہی چمکدار ریشم کے بنے ہوئے اور دبیز ریشم کے کپڑے بھی ہوں گے جن کا رنگ سبز ہوگا اور شاہی مقرب اور درباریوں کی نشانی ظاہر کرنے کے لئے ان کے ہاتھوں میں چاندی کے کنگن ہوں گے۔

۹۔ عقیدہ: حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا پہلی جماعت جو جنت میں داخل ہوگی ان کی صورتیں جو دھویں رات کے چاند کی طرح چمکدار ہوں گی اور یہ صورت انبیاء علیہم السلام کی ہوگی اور دوسری جماعت کی شکلیں چمکدار ستاروں کی طرح ہوں گی۔ ہر ایک آدمی کے واسطے دو دو بیویاں ہوگی جن کی آنکھوں کی سفیدی انتہائی سفید اور ان کی پتلی انتہائی سیاہ ہوگی اور ان کی پتلی انتہائی سیاہ ہوں گی اور ان کی آنکھیں انتہائی فراخ ہوں گی۔ ہر بیوی کے اوپر ستر حلے ہوں گے۔ ان کی پنڈلیوں کے اندر کا گودا نزاکت اور لطافت کی وجہ سے ہڈی اور گوشت کے باہر نظر آئے گا۔ ہمیشہ صبح و شام یہ بہشتی لوگ اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے نہ وہ بیمار ہوں گے نہ پیشاب پاخانہ کریں گے۔ نہ تھوکیں گے نہ ناک صاف کرنے کی ضرورت پیش آئے گی۔ ان کے برتن سونے اور چاندی کے ہوں گے۔ ان کی انگلیٹھیوں کا کوئلہ عود (اگر) ہوگا۔ اور ان کے پسینہ کی خوشبو مشک کی مانند ہوگی۔ سب کے سب آپ میں بااخلاق ہوں گے اور ان کی صورت میں اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی سی ہوگی۔ اور ان کے قد آسمان میں ساٹھ ہاتھ کے ہوں گے۔ (بخاری و مسلم)

۱۰۔ عقیدہ: جنتیوں کے لئے سب سے بڑا عزاز یہ ہوگا کہ وہ جنت میں اپنے پروردگار عزوجل کی زیارت کریں۔ مرثی الہی ظاہر ہوگا اور رب تعالیٰ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں تجلی فرمائے گا اور خدا تعالیٰ کا دیدار ایسا صاف ہوگا جیسے آفتاب اور چودھویں رات کے چاند کو ہر ایک اپنی اپنی جگہ سے دیکھتا ہے کہ ایک کا دیکھنا دوسرے کے لئے مانع نہیں۔ ان میں اللہ عزوجل کے نزدیک سب میں معزز وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے وجہ کریم کے دیدار سے ہر صبح و شام مشرف ہوگا۔

۲۸۔ دوزخ

دوزخ ایک ایسا مقام ہے جسے اللہ تعالیٰ نے سزا یافتہ لوگوں کے لئے بنایا ہے۔ یہ جگہ گنہگاروں، نافرمانوں اور سرکشوں کو سزا دینے کے لئے ہے اس مقام پر اللہ تعالیٰ کا جبر اور قہر ہے گویا کہ دوزخ اللہ تعالیٰ کی صفات قہاری اور جباری کا مظہر ہے۔ اس کے متعلق عقائد مندرجہ ذیل ہیں:

۱۔ **عقیدہ:** عذاب دوزخ ایک حقیقت ہے اس کی اصلیت سے انکار کرنا اسلام کے منافی ہے بلکہ کفر میں شامل ہے۔ دوزخ کافروں اور مشرکوں کے لئے ہے کیونکہ وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ دوزخ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ”کافر جس میں داخل ہونگے وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔“ (ع: ۵۶) ایک اور مقام پر فرمایا کہ ”بے شک وہ بری قرار گاہ اور قیام گاہ ہے۔“ (فرقان: ۶۶)

۲۔ **عقیدہ:** دوزخ کے ارد گرد چادریواری ہے ہر دیوار کا عرض چالیس سال کی مسافت کے برابر ہے۔ پھر دوزخ کی گہرائی بہت زیادہ ہے۔ صوفیاء کا قول ہے کہ دوزخ کی لمبائی اور چوڑائی کو خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہؓ کا بیان ہے کہ ہم رسول خدا ﷺ کی خدمت بابرکت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم نے کسی چیز کے گرنے کی آواز سنی۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ یہ (آواز) کیا ہے؟ ہم نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی خوب جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ ایک پتھر ہے جس کو خدا نے جہنم کے منہ پر (تہ میں گرنے کے لئے) چھوڑا تھا۔ اور وہ ستر سال تک گرتے گرتے اب دوزخ کے تہ میں پہنچا ہے۔ یہ اس کے گرنے کی آواز ہے۔ (مسلم شریف)

۳۔ **عقیدہ:** دوزخ میں آگ ہے یہ آگ دنیا کی آگ سے بہت شدید ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ”اے نبی! فرما دیجئے کہ دوزخ کی آگ شدید گرم ہے۔“ (توبہ: ۸) احادیث میں دوزخ کی آگ کی وضاحت کی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا کہ دوزخ کی آگ ہزار سال تک جلائی گئی یہاں تک کہ وہ سرخ ہوگئی اور پھر ہزار سال تک مزید جلائی گئی یہاں تک کہ وہ سفید ہوگئی پھر ہزار سال اور بھڑکائی گئی حتیٰ کی سیاہ ہوگئی۔ اب وہ بالکل سیاہ ہے جس میں روشنی کا نام نہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے

حضور نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں قسم کھا کر بیان کیا کہ اگر دوزخ سے سوئی کے ناکے کے برابر سوراخ اس دنیا کی طرف کھول دیا جائے تو تمام زمین والے اس کی گرمی سے جل بھن کر مر جائیں۔ (ترندی شریف)

دوزخ کی آگ کی چنگا ریاں بہت تیز ہوں گی اور بڑے بڑے مکانوں کی بلندی کی مانند اٹھیں گی اور موٹائی میں اونٹوں کے برابر ہوں گی۔ بعض مقامات پر آگ کے لمبے لمبے ستون بھی ہوں گے دوزخ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ چنگھاڑے گی اور جوش مارے گی۔

۴۔ عقیدہ: دوزخ کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ”اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔“ (البقرہ: ۲۴) مزید فرمایا کہ ”پیشک جنھوں نے کفر کیا ان کا مال انہیں غنی نہیں کر سکے گا اور نہ ہی اولاد۔ حقیقت تو غنی تو اللہ کرتا ہے یہ وہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانا جہنم ہے۔“ (آل عمران: ۹۰) ایک مقام پر مزید ارشاد باری ہے کہ ”مسلمانو! اپنی جانوں اور اہل خانہ کو اس آگ سے بچاؤ۔ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں اور اس پر سخت قسم کے فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔“ (تحریم: ۶)

گویا کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی پوجا کرتا ہے اسے دوزخ میں ڈالا جائے گا جو اس میں ایندھن کے طور پر کام آئے گا۔

۵۔ عقیدہ: جہنم میں جس کو سب سے کم درجہ کا عذاب ہوگا اسے آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی جس سے اس کا دماغ ایسا کھولے گا جیسے تانبے کی پتیلی کھولتی ہے۔ وہ سمجھے گا کہ سب سے زیادہ عذاب اس پر ہو رہا ہے حالانکہ اس پر سب سے ہلکا عذاب ہوگا۔ سب سے ہلکے درجے کا جس پر عذاب ہوگا اس سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ ”اگر ساری زمین تیری ہو جائے تو کیا اس عذاب سے بچنے کے لئے تو سب فدیے میں دے دیگا؟“ عرض کرے گا ہاں۔ فرمائے گا ”جب تو پشت آدم میں تھا تو ہم نے اس سے بہت ہلکی چیز کا حکم دیا تھا کہ کفر نہ کرنا۔ مگر تو نہ مانا۔“

۶۔ عقیدہ: دوزخ میں سات طبقے ہیں۔ جن میں ایک ایک بڑا پھانک ہے۔ اول طبقہ گناہگار مسلمانوں اور ان کفار کے لئے ہے جو باوجود شرک کے پیغمبروں کی حمایت کرتے

تھے۔ دیگر طبقات مشرکین، آتش پرست، دہریے، یہودی، نصاریٰ اور منافقین کے لئے مقرر ہیں۔ یہ طبقات جہیم، جہنم، سعیر، سقر، نطی، ہاویہ اور حطمہ ہیں۔ ان طبقات میں سے ہر ایک میں نہایت وسعت قسم قسم کے عذاب اور رنگ اور رنگ قسم کے مکانات ہیں۔ مثلاً ایک مکان ہے جس کا نام غنی ہے جس کی تختی سے باقی دوزخ بھی ہر روز چار سو مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ ایک اور مکان ہے جس میں بے انتہا سردی ہے جس کو زمہریر کہتے ہیں اور ایک مکان ہے جس کو جب النخرن یعنی غم کا کنواں کہتے ہیں۔ اور ایک کنواں ہے جس کو طیبتہ الجبال یعنی زہر و پیپ کی کچھڑ کہتے ہیں۔ ایک پہاڑ ہے جس کو صعود کہتے ہیں اس کی مسافت ستر سال کی مسافت کے برابر ہے جس پر کفار کو چڑھا کر نار دوزخ کہتے ہیں پھینکا جائے گا۔ ایک تالاب ہے جس کا نام آب حمیم ہے۔ پانی اس کا اتنا گرم ہے کہ لبوں تک پہنچنے سے اوپر کا ہونٹ اس قدر سوج جاتا ہے کہ ناک اور آنکھیں تک ڈھک جاتی ہیں اور نیچے کالب سوج کر سینے و ناف تک پہنچتا ہے۔ زبان جل جاتی ہے اور منہ تنگ ہو جاتا ہے۔ حلق سے نیچے اترنے ہی پھینکا دے، معدے اور انتڑیوں کو پھاڑ دیتا ہے۔ ایک اور تالاب ہے جس کو غساق کہتے ہیں اس میں کفار کا پسینہ پیپ اور لہو بہ کر جمع ہوتا ہے۔ ایک چشمہ ہے جس کا نام غسلین ہے اس میں کفار کا میل چیل جمع ہوتا ہے۔

۷۔ عقیدہ: کفار کی سرزنش کے لئے طرح طرح کے عذاب ہوں گے۔ لوہے کے بھاری بھاری گرزوں سے ان پر مار پڑے گی۔ بڑے بڑے اونٹوں کی گردن کے برابر بچھو اور اللہ جانے کس قدر بڑے بڑے سانپ ان پر مسلط کیے جائیں گے۔

خود جہنمیوں کی شکلیں ایسی کر یہہ ہوں گی کہ اگر دنیا میں کوئی جہنمی اسی صورت پر لایا جائے تو تمام لوگ اس کی بد صورتی اور بد بو سے مر جائیں۔ ان کا جسم اتنا بڑا کر دیا جائے گا کہ ایک شانے سے دوسرے تک تیز سوار کے لئے تین دن کی راہ ہے۔

پھر آخر میں ان کافروں کے لئے یہ ہوگا کہ ان کے قد کے برابر آگ کے صندوق میں اسے بند کریں گے۔ پھر اس میں آگ بھڑکائیں گے اور آگ کا قفل لگایا جائے گا۔ پھر یہ صندوق آگ کے دوسرے صندوق میں رکھا جائے گا اور دونوں کے درمیان آگ لگائی جائے گی۔ اسی طرح یہ صندوق ایک اور صندوق میں رکھ دیا جائے گا اور آگ جلا کر لوہے کا قفل اس میں لگا دیا جائے گا۔ تو اب ہر کافر یہ سمجھے گا کہ اس کے سوا اب کوئی عذاب میں نہ رہا

اور یہ عذاب ہے اور اب ہمیشہ کے لئے۔ مولا کریم اپنی پناہ میں رکھے۔

۲۹۔ اعراف

اعراف ایک مقام ہے جو جنت اور دوزخ کے درمیان ہے ایک مفسر کا قول ہے کہ اعراف سے مراد جنت اور دوزخ کے بیچ میں ایک پردہ کی دیوار ہے۔ یہ دیوار جنت کی نعمتوں کو دوزخ تک اور دوزخ کے عذاب کو جنت تک پہنچنے سے مانع ہوگی۔ اسی درمیانی دیوار کی بلندی پر جو مقام ہے اس کو اعراف کہتے ہیں۔

اصحاب اعراف وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور بدیاں برابر ہوں گی کیونکہ ان کی نیکیاں اتنی زیادہ نہ تھیں کہ انہیں مکمل طور پر جنت میں داخل کر دیا جاتا اور نہ ان کی برائیاں اتنی زیادہ تھیں کہ انہیں مکمل طور پر دوزخ میں جھونک دیا جاتا اس لئے وہ جنت اور دوزخ کے درمیان جو سرحد ہوگی اس میں رہیں گے اس کے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ:-

ان دونوں (یعنی جنت اور دوزخ) کے درمیان اعراف نام) ایک دیوار ہوگی اور اعراف پر کچھ آدمی ہوں گے۔ جو سب کو ان کی صورتوں سے پہچان لیں گے تو وہ اہل بہشت کو پکار کر کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو۔ یہ لوگ (ابھی) بہشت میں داخل تو نہیں ہوئے مگر امید رکھتے ہوں گے۔ اور جب ان کی نگاہیں پلٹ کر اہل دوزخ کی طرف جائیں گی تو عرض کریں گے کہ اے ہمارے پروردگار! ہم کو ظالم لوگوں کے ساتھ (شامل) نہ کیجیو۔ (اعراف: ۴۶ تا ۴۷)

وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ ۖ وَعَلَى الْأَعْرَافِ
رِجَالٌ يَتَعَرَّفُونَ كَلَّا بِسْمِ اللَّهِ
وَنَادُوا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ
سَلِّمُوا عَلَيْنَا فَمَا يَدُخُلُوهَا
وَهُمْ يَطْمَعُونَ ۚ وَإِذَا مَرَّتْ
أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ
النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا
مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝

(اعراف: ۴۶ تا ۴۷)

ان آیات سے معلوم ہوا کہ اعراف والے اہل جنت کو دیکھیں گے تو انہیں سلام کریں گے جو بطور مبارکباد ہوگا۔ اور جب جنہیوں کی طرف دیکھیں گے تو کہیں گے اے رب! ہمیں ظالم قوم کے ساتھ نہ کر اور چونکہ اعراف والے ابھی تک جنت میں نہ گئے ہوں گے اور اس لئے جنت کی طرف جمع اور آرزو کریں گے۔ اعراف والے دوزخ والوں سے بھی باتیں کریں گے ان کی گفتگو

Marfat.com

کے متعلق قرآن نے یوں بیان کیا ہے۔

وَنَادَىٰ أَصْحَابَ الْأَعْرَافِ بِجَلَالِهِ
يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَىٰ
عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ
تَسْتَكْبِرُونَ ۝ أَهْلُوا لِعَذَابِ الدِّينِ
أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالِكُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ
أَدْخَلُوا الْجَنَّةَ لَا يَخُوفٌ عَلَيْكُمْ
وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ ۝ وَنَادَىٰ
أَصْحَابَ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ
أَنْ أَقْبِضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ
أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ
قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مَا
عَلَى الْكَافِرِينَ ۝ (اعراف: ۴۸ تا ۵۰)

اور اہل اعراف (کافر) لوگوں کو جنہیں ان کی صورتوں سے شناخت کرتے ہوں گے پکاریں گے اور کہیں گے (کہ آج) نہ تو تمہاری جماعت ہی تمہارے کچھ کام آئی اور نہ ہمارا تکبر۔ (پھر مومنوں کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے) کیا یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھایا کرتے تھے کہ خدا اپنی رحمت سے ان کی دستگیری نہ کریگا (تو مومنو) تم بہشت میں داخل ہو جاؤ۔ تمہیں کچھ خوف نہیں اور نہ تم کو کچھ رنج و اندوہ ہو گا۔ اور دوزخی بہشتیوں سے (گزرگزا کر) کہیں گے کہ کسی قدر ہم پر پانی بہاؤ یا جو رزق خدا نے تمہیں عنایت فرمایا ہے ان میں سے (کچھ ہمیں بھی دو) وہ جواب دیں گے کہ خدا نے بہشت کا پانی اور رزق کافروں پر حرام کر دیا ہے۔ (اعراف: ۴۸ تا ۵۰)

۳۰۔ ذبح موت

موت کا تعلق چونکہ دنیا کے ساتھ تھا جو فانی تھی۔ جب فنا کے بعد دوبارہ ہمیشہ کی زندگی میسر آجائے گی تو پھر موت کی ضرورت نہیں رہے گی بلکہ موت کا تصور کو ختم کر دیا جائے گا۔ اس بات کو حدیث پاک میں یوں سمجھایا گیا ہے:

حضور ﷺ نے فرمایا کہ جب سب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے اور جہنم میں صرف وہی لوگ رہ جائیں گے جن کو ہمیشہ کے لئے اس میں رہنا ہے۔ اس وقت جنت اور دوزخ کے درمیان موت کو ایک مینڈھے کی شکل میں لا کر کھڑا کریں گے پھر ایک منادی ولا جنت والوں کو پکارے گا۔ وہ ڈرتے ہوئے جھانگیں گے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جنت سے نکلنے کا حکم ہو پھر جہنمیوں کو پکارے گا۔ وہ خوش ہوتے ہوئے جھانگیں گے کہ شاید ان مصیبتوں سے رہائی

ہو جائے پھر وہ منادی والا ان سب کو دکھا کر پوچھے گا کہ ”اسے پہچانتے ہو؟“ سب کہیں گے کہ ہاں یہ موت ہے۔ پھر ان سب کو دکھا کر ذبح کر دی جائے گی اور اسے جنت و دوزخ کے درمیان کھینچی علیہ السلام اپنے ہاتھ سے ذبح فرمائیں گے اور یہ فرمایا جائے گا کہ ”اے اہل جنت! ہیچنگی ہے اب مرنا نہیں۔ اور اے نار! ہیچنگی ہے اب مرنا نہیں۔“ اس وقت اہل جنت کے لئے فرحت و سرور کی انتہا نہ ہوگی، ان کے لئے خوشی پر خوشی ہے۔ اسی طرح دوزخیوں کے رنج و غم میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ (بخاری شریف)

۳۱۔ ایمان و کفر

دین اسلام کی وہ بنیادی حقیقتیں جو ہر حال میں سچی اور برحق ہیں ان کو سچے دل سے مان لینا اور ان کی تصدیق کرنا ایمان کہلاتا ہے یعنی حضور ﷺ کے لائے ہوئے حق کو سچے دل سے ماننا اور اس پر یقین رکھنا کہ جو اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا ہے وہ سچ اور برحق ہے۔ ان میں سے ایک بات کا انکار میں کفر ہے۔

وہ مسلمان کہ دو دروازہ دیہاتوں اور جنگلوں اور پہاڑوں کے رہنے والے ہوں جو کلمہ بھی صحیح نہیں پڑھ سکتے ان کے مسلمان ہونے کے لئے یہ بات ضروری ہے کہ وہ ضروریات دین میں سے کسی دینی ضرورت کے منکر نہ ہوں اور یہ اعتقاد رکھتے ہوں کہ اسلام میں جو کچھ ہے حق ہے یا بالفاظ دیگر اس بات پر اجمالاً ایمان لائے ہوں کہ اسلام سچا دین ہے اور اس کا ہر حکم سچا، اس کی ہر بات ہر خبر سچی اور اس کے تمام فرمان سچے۔

۱۔ عقیدہ: اصل ایمان صرف تصدیق کا نام ہے اعمال بدن تو اصلاً جزو ایمان نہیں۔ رہا اقرار اس میں یہ تفصیل ہے کہ اگر تصدیق کے بعد اس کو اظہار کا موقع نہ ملا تو عند اللہ مومن ہے اور اگر موقع ملا اور اس سے مطالبہ کیا گیا اور اقرار نہ کیا تو کافر ہے اور اگر مطالبہ نہ کیا گیا تو احکام دنیا میں کافر سمجھا جائے گا۔ اس کی جنازہ کی نماز پڑھیں گے نہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کریں گے مگر عند اللہ مومن ہے اگر کوئی امر خلاف اسلام ظاہر نہ کیا ہو۔ (بہار شریعت)

۲۔ عقیدہ: مسلمان ہونے کے لئے یہ بھی شرط ہے کہ زبان سے کسی ایسی چیز کا انکار نہ کرے جو ضروریات دین سے ہیں اگرچہ باقی باتوں کا اقرار کرتا ہو۔ اگرچہ وہ یہ کہے کہ صرف زبان سے انکار ہے۔ دل میں انکار نہیں۔ ہاں شرعاً ایسی مجبوری آئے ہے آجائے جس میں جان جانے کا

غالب گمان ہے یعنی اسے مار ڈالنے یا اس کا عضو کاٹ ڈالنے کی صحیح دھمکی دی گئی ہے تو اسے معاذ اللہ کلمہ کفر زبان سے جاری کرنے کی اجازت ہے مگر شرط اب بھی یہی ہے کہ دل میں وہی اطمینان ایمانی اور یقین قلبی اور جزم قطعی ہو جو پیشتر تھا مگر افضل اب بھی یہ کہ جان و دے مگر کلمہ کفر زبان سے نکال کر اسلام سے نہ ہٹے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بلا اگر شرعی مسلمان کلمہ کفر صادر نہیں کر سکتا ایسی بات وہی شخص زبان پر لائے گا جس کے دل میں اسلام کی اتنی ہی وقعت ہے کہ جب چاہا اس کا انکار کر دیا اور کلمہ کفر زبان سے نکال دیا۔ جبکہ ایمان تو ایسی تصدیق قلبی اور یقین محکم کا نام ہے جس کے خلاف کی اصلاً گنجائش نہیں۔ (بہار شریعت)

۳۔ عقیدہ: جب تک دل میں تمام ضروریات دین کی تصدیق جائزین اور اسلام کی حقانیت پر یقین کامل باقی ہے۔ کبیرہ گناہوں میں گرفتار مسلمان، مسلمان ہی ہے اور جنت میں جائے گا۔ خواہ اللہ عزوجل اپنے محض فضل سے اس کی مغفرت فرمادے۔ یا حضور اقدس ﷺ کی شفاعت کے بعد یا اپنے کیے کی کچھ نزا پا کر بخشا جائے۔ اس کے بعد کبھی جنت سے نہ نکلے گا۔ یا یوں کہہ لو کہ گناہ کبیرہ کرنے سے اگرچہ قصداً کیا ہو، آدمی کافر اور ایمان و اسلام سے خارج نہیں ہوتا اور مسلمان برادری سے نہیں نکلتا۔ (بہار شریعت)

۴۔ عقیدہ: ایمان و کفر میں واسطہ نہیں۔ یعنی آدمی یا مسلمان ہو گا یا کافر۔ تیسری صورت کوئی نہیں کہ نہ مسلمان ہو نہ کافر۔ ہاں یہ ممکن ہے کہ ہم بوجہ شبہ کے کسی کو نہ مسلمان کہیں نہ کافر۔ (بہار شریعت)

۵۔ عقیدہ: مسلمان کو مسلمان، کافر کو کافر جاننا ضروریات دین سے ہے اگرچہ کسی خاص شخص کی نسبت یہ یقین نہیں کیا جاسکتا کہ اس کا خاتمہ ایمان یا معاذ اللہ کفر پر ہوا۔ تا وقتیکہ اس کے خاتمہ کا حال دلیل شرعی سے ثابت نہ ہو مگر اس سے یہ نہ ہوگا کہ جس شخص نے قطعاً کفر کیا ہوا، اس کے کفر میں شک کیا جائے کہ قطعی کافر کے کفر میں شک بھی آدمی کو کافر بنا دیتا ہے۔ خاتمہ پر بنا، روز قیامت اور ظاہر پر حکم شرع کا مدار ہے تو جس نے کفر کیا، فرض ہے کہ ہم اسے کافر ہی جانیں۔ اور خاتمہ کا حال علم الہی پر چھوڑ دیں۔ جس طرح ظاہر اجماع مسلمان ہو اور اس سے کوئی قول و فعل خلاف ایمان صدر نہ ہوا ہو۔ فرض ہے کہ ہم اسے مسلمان ہی مانیں اگرچہ ہمیں اس کے خاتمہ کا بھی حال معلوم نہیں۔ اس زمانہ میں لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہاں جتنی دیر اسے کافر کہو گے اتنی دیر اللہ اللہ کرو کہ یہ ثواب کی بات ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ

ہم کب کہتے ہیں کہ کافر کافر کا وظیفہ کر لو۔ مقصد یہ ہے کہ اسے کافر جانو اور پوچھا جائے تو قطعاً کافر کہو۔ نہ یہ کہ اپنی ”صلح کل“ پالیسی سے اس کے کفر پر پردہ ڈالو۔

جب اصلاً کسی کفر کی مغفرت نہ ہوگی۔ جیسا کہ قرآن کریم کی گواہی ہے تو جو کسی کافر کے لئے اس کے مرنے کے بعد مغفرت کی دعا کرے یا کسی مردہ مرتد یعنی ایسے شخص کو جو کلمہ گو ہو کر کفر کرے جنتی، مرحوم یا مغفور یا رحمۃ اللہ علیہ یا نور اللہ مرقدہ یا اس کے ہم معنی دوسرے الفاظ کہے۔ یا کسی مردہ ہندو کو کہ علانیہ اسلام سے دور اور کفر پر اڑا رہا، بیکنٹھ پاشی کہے وہ خود کافر ہے۔ کہ درحقیقت انکار کرتا ہے حکم قرآنی اور فرمان ربانی کا۔

قرآن کریم کا واضح ارشاد ہے کہ مغفرت اور بخشش کی دولت صرف ان خوش نصیبوں کے لئے ہے جو مرتے دم تک ایمان و اسلام پر قائم رہے۔ تو جو بد نصیب عمر بھر کفر و شرک میں گرفتار رہے اور اسی حالت میں موت نے انہیں آلیا ان کے لئے بخشش و نجات کی تمام راہیں اور مغفرت کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔

اور ان سے بدتر ہیں وہ بد بخت جو کلمہ اسلام پڑھ کر کفر پر مریں۔ اسلام کا نام لیں اور کفر کی بستی آباد کریں۔ یہ کب اس قابل ہیں کہ رحمت الہی ان کی طرف متوجہ ہو۔ اسی لئے قرآن و حدیث کے احکام کے بموجب ایسوں کی نماز جنازہ پڑھنا بھی حرام اور شدید گناہ ہے کہ آخر نماز جنازہ کا مقصود بھی مرنے والے کے لئے دعائے مغفرت اور عام مسلمانوں کی جانب سے اس کی شفاعت ہے۔ جبکہ وہ بد نصیب اس دولت کا اہل ہی نہیں۔ بلکہ اس کے مرنے کے بعد اس کی قبر پر بغرض زیارت، بطور اکرام جانا بھی شرعاً ایک بہت بڑا گناہ اور حرام دنا جائز ہے۔ یونہی ان کے کفن و دفن میں شرکت بھی شرعاً درست نہیں اور ان احکام شرعیہ کی علت وہی ہے کہ جب وہ ایمان سے کالی ہیں تو اس کی اہلیت ہی نہیں کہ ان پر نماز جنازہ پڑھی جائے اور جب مبغوض و مردود اور لعنت الہی میں گرفتار ہیں تو ان پر یہ نعمتیں کیسی اور ان کے لئے عزت و تکریم کا اہتمام کیسا؟

مسلمان مردوں اور عورتوں پر لازم ہے کہ وہ ایسے منافقوں کو اپنی جماعت میں کسی طرح نہ پھینکے دیں اور ہرگز کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے ایسے بد نصیبوں کی ہمت افزائی ہو اور ایسے بد نصیب مسلمانوں میں شمار کیے جائیں اور یوں غیروں کی نگاہوں میں ان کی کجروی و گمراہی بد دینی و لاندہبی اسلام قرار پائے۔ مولانا نے کریم حبیب مسلمانوں کو ایسے فتنہ پر

دازوں کے فتنوں سے بچائے۔ (بہار شریعت)

۶۔ عقیدہ: شرک کے معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو واجب الوجود یا مستحق عبادت جاننا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں دوسرے کو شریک کرنا اور یہ کفر کی سب سے بدتر قسم ہے۔ اس کے سوا کوئی بات اگرچہ کیسی ہی شدید کفر ہو، حقیقتہً شرک نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت مطہرہ نے اہل کتاب کفار یعنی یہودیوں اور نصرانیوں کے احکام مشرکین کے احکام سے

جدایان فرمائے۔ مثلاً کتابی کا ذبیحہ حلال ہے اور مشرک کا مردار۔ کتابیہ سے نکاح ہو سکتا ہے مشرک سے نہیں۔ ہاں کبھی شرک بول کر مطلق کفر مراد لیا جاتا ہے۔ یہ جو قرآن شریف میں فرمایا کہ شرک نہ بخشا جائے گا وہ اسی معنی پر ہے یعنی اصلاً کسی کفر کی مغفرت نہ ہوگی۔ باقی سب گناہ اللہ عزوجل کی مشیت پر ہیں۔ جسے چاہے بخش دے۔

بعض اعمال جو قطعاً ایمان و اسلام کے منافی ہوں ان کے مرتکب کو کافر کہا جائے گا۔ جیسے بت یا چاند سورج کو سجدہ کرنا۔ قرآن کریم، کعبہ معظمہ یا کسی نبی اللہ کی توہین کرنا اس کی شان و وقعت کو گھٹانا۔ یہ باتیں یقیناً کفر ہیں۔ یونہی بعض اعمال کفر کی علامت ہیں جیسے زنا، باندھنا، تشقہ لگانا سر پر ہندوؤں کی طرح چھپا رکھنا۔ معاذ اللہ جو ایسی باتوں کا مرتکب ہو اسے از سر نو اسلام لانے، کلمہ پڑھنے اور اس کے بعد اپنی عورت سے تجدید نکاح کا حکم دیا جائے گا۔ یعنی اس پر لازم ہے کہ اس فعل سے توبہ کرے کلمہ اسلام پڑھے اور اپنی بیوی سے دوبارہ نکاح پڑھائے (بہار شریعت)

۳۲۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم

جن صاحب ایمان لوگوں نے دنیا کی زندگی میں حضور ﷺ کی زیارت کی اور حالت ایمان پر ہی اس دنیا سے انتقال کر گئے صحابی کہلاتے ہیں۔ ایسے مسلمان بڑے خوش نصیب تھے کہ انہوں نے حضور ﷺ کو حالت ایمان میں دیکھا۔ صحابہ کرام کی تعریف کے بارے میں ارشاد باری ہے کہ ”اے مسلمانو! تم سب امتوں سے بہتر و افضل ہو۔ تمہیں لوگوں کو افضل پیدا کیا گیا ہے۔ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ پر کامل ایمان رکھتے ہو۔“ معلوم ہوا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی حضرت محمد ﷺ کو تمام انبیاء میں افضل بنایا ہے۔ اسی طرح آپ

کی امت کو سب امتوں سے افضل بنایا ہے۔

۱۔ عقیدہ: صحابی کا لغوی مطلب ساتھ اور دوست ہے۔ صحابہ کرامؓ براہ راست حضور ﷺ کے تربیت یافتہ تھے انہوں نے حضور ﷺ سے اسلام کی تعلیم حاصل کر کے ساری دنیا میں اسلام کو پھیلایا۔ قرآن و حدیث کی حفاظت کی اس لئے صحابہ کرام کی عظمت اور مقام اس قدر بلند ہے کہ ان کے بعد آنے والے کسی شخص کو بھی صحابی کا درجہ نہیں مل سکتا۔

۲۔ عقیدہ: صحابہ کرامؓ ہدایت یافتہ ہیں کیونکہ انہیں حضور ﷺ سے جو راستہ ملا وہ مکمل طور پر ہدایت ہے جو قرآن و حدیث کی صورت میں ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ "اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دی ہے اور اس کو تمہارے دلوں میں زینت دے دی ہے اور تمہارے لئے گناہ، کفر اور نافرمانی سے نفرت پیدا کر دی ہے۔ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں اللہ کے فضل اور احسان سے اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔" (حجرات: ۸۳)

۳۔ عقیدہ: اللہ تعالیٰ صحابہ کرامؓ سے راضی ہے۔ صحابہ کرامؓ دو قسم کے ہیں یعنی مہاجرین اور انصر۔ وہ صحابہ کرامؓ جو مکہ معظمہ سے اپنا وطن، اپنا گھریار، اپنا مال و متاع سب کچھ چھوڑ کر حضورؐ کی نصرت و رفاقت میں مدینہ طیبہ ہجرت کر گئے۔ اور انصر وہ صحابہ کرامؓ ہیں جنہوں نے حضورؐ کی محبت و حمایت میں تمام مہاجرین کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور ہر آزمائش میں حضور اکرمؐ کا ساتھ دیا ان سے راضی ہونے کے بارے ارشاد الہی ہے کہ "مہاجر اور انصر صحابہ کرامؓ سے پہلے اور بعد والے اور ان کی پیروی کرنے والوں سے اللہ راضی ہوا اور وہ ان سے راضی ہوئے ان کے لئے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں وہ ان میں ہمیشہ ہیں گے یہ بڑی کامیابی ہے۔" (التوبہ: ۱۰۰)

۴۔ عقیدہ: صحابہ کرامؓ سے اللہ تعالیٰ نے بھلائی کا وعدہ کیا ہے۔ حضورؐ صحابہ کرامؓ کو دیکھ کر خوش ہوتے تھے البتہ کافر لوگ صحابہ کرامؓ کو دیکھ کر غصہ سے جل اٹھتے تھے اس لئے صحابہ کرامؓ کے خلاف کوئی بات نہ کرنا جس سے ان کی دشمنی ظاہر ہوتی ہو عقائد اسلام کے منافی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ "محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو آپ کے ساتھی ہیں کفار پر سخت ہیں۔ آپس میں رحم دل ہیں۔ روع و بھود کرتے ہیں۔ اللہ کا فضل اور خوشنودی تلاش کرتے ہیں ان کے ہاتھوں پر سجدوں کے نشان ہیں۔ یہی خوبیاں کی تورات اور انجیل میں بیان ہوئی ہیں ان کی مثال ایک کھیتی کی مانند ہے جس نے اپنا خوشیہ نکالا پھر اسے قوت ملی اور موٹی ہو گئی۔ انسانوں کو خوش کرنے لگی تاکہ اللہ ان کی وجہ سے کفار کو غلبہ دلائے۔ اللہ نے ان میں سے

ایمانداروں اور نیک کام کرنے والوں کے لئے بخشش اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔“ (الح: ۲۹)

۵۔ عقیدہ: نبی کریم کے بعد خلیفہ برحق حضرت سیدنا ابو بکر صدیقؓ۔ پھر حضرت سیدنا عمر فاروق اعظمؓ، پھر حضرت سیدنا عثمان غنیؓ پھر حضرت سیدنا علیؓ ہیں۔ پھر چھ مہینے کے لئے حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ خلیفہ برحق ہوئے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ ان حضرات کو خلفائے راشدین اور ان کی خلافت کو خلافت راشدہ کہتے ہیں کہ انہوں نے حضورؐ کی سچی جانشینی اور نیابت کو پورا حق ادا کر دیا۔ خلفائے اور یہ راشدین کے بعد عشرہ مبشرہ کے بقیہ افراد یعنی حضرت طلحہؓ، حضرت زبیرؓ، حضرت عبدالرحمنؓ بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاصؓ، حضرت سعید بن زیدؓ اور حضرت ابو عبدیہ بن الجراحؓ۔ یہ سب قطعی جنتی ہیں۔ چاروں خلفائے راشدین اور حضرت طلحہؓ وغیرہ چھ صحابہ سب مل کر عشرہ مبشرہ کہلاتے ہیں۔ یعنی وہ دس صحابہ کرامؓ جن کو جیتے جی جنت کی بشارت ملی اور بہشتی کہلائے۔

۶۔ عقیدہ: جنگ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کرامؓ کو بھی جنت کی بشارت دی ہے اس لئے یہ بھی قطعی جنتی ہیں۔ عشرہ مبشرہ بھی اہل بدر ہیں۔ فضیلت کے اعتبار سے عشرہ مبشرہ کے بعد بدری صحابہ سب سے افضل ہیں۔ بدری صحابہ کی تعداد تین سو تیرہ ہے اور ان کے بعد جنگ احد میں شریک ہونے والے افضل ہیں۔ پھر بیعت رضوان میں شامل ہونے والے صحابہ کرامؓ افضل ہیں۔ حضرت عشرہ مبشرہ ان سب میں شامل ہیں۔ بیعت رضوان والوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ ”بلاشبہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا ان مومنوں سے جنہوں نے اے نبی! آپ کے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیعت کی۔“

۷۔ عقیدہ: لہذا نبی اکرم ﷺ کے صحابہ کی شان میں گستاخی کا لفظ بولنے سے اپنی زبان کو روکنا واجب ہے۔ آپ کے کسی بھی صحابی کو بڑا کہنا یا اس پر طعن و تشنیع کرنا کفر و گمراہی ہے۔ نبی اکرم ﷺ نے اپنے ان مقدس اور پاکباز ساتھیوں صحابہ کرام کے متعلق ان کے بعد میں آنے والی اپنی امت کو بڑے زور دار الفاظ میں ارشاد فرمایا۔ میرے صحابہ کے حق میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا۔ میرے صحابہ کے حق میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا۔ میرے بعد ان کو اپنے اعتراضات کا نشانہ نہ بنانا یعنی ان کو برائہ کہنا۔ ان سے جو شخص محبت رکھتا ہے تو وہ میری وجہ سے ان سے محبت رکھتا ہے اور جس نے ان سے دشمنی رکھی اس نے میرے ساتھ دشمنی کی وجہ سے ان کے ساتھ دشمنی رکھی۔ اور جس نے میرے صحابہ کو رنجیدہ کیا اس نے مجھے رنجیدہ کیا اور جس نے

مجھے رنج پہنچایا اس نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا وہ عنقریب اس کو (اپنے عذاب میں) پکڑے گا۔
(ترمذی)

حضرت ابوسعید خدریب سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ میرے صحابہ کو بُرا نہ کہنا۔ اگر تم میں سے کوئی ایک احد پہاڑ جتنا بھی سونا راہ خدا میں خرچ کرے تب بھی وہ میرے صحابہ کے ایک سیر جو بلکہ آدھ سیر جو راہ خدا میں خرچ کرنے کے اجر کو نہیں پاسکتا۔ (مشکوٰۃ شریف)

۸۔ عقیدہ اہل بیت سے مراد نبی اکرم ﷺ کے گھر والے ہیں۔ جن میں آپ کی ازواج مطہرات یعنی بیویاں اور اولاد پاک چاروں صاحبزادیاں حضرت زینب حضرت ام کلثوم حضرت رقیہ حضرت فاطمہ اور آپ کے نواسے حضرت امام حسن حضرت امام حسین اور داماد نبی حضرت علی شیر خدا شامل ہیں۔ ان کی پاکیزگی اور طہارت کی گواہی قرآن حکیم نے دی ہے نبی اکرم ﷺ کی اولاد کا سلسلہ سیدہ فاطمہ عنہا سے جاری ہوا۔ ان سب سے محبت رکھنا ایمان کی نشانی ہے۔

۳۳۔ ولایت

ولایت بارگاہِ خداوندی میں ایک خاص قرب اور رتبہ مقبولیت و کتبہ ہے اور اس واقعہ کو حق نے اس قرب اور رتبہ مقبولیت سے نوازا ہوا اس کو ولی اللہ کہتے ہیں جس کا معنی ہے "اللہ کا خاص دوست"

ولایت ایک عظیم حق اور ہستی چیز ہے۔ یہ نصرت و مجاہدہ کے ذریعہ بندہ خود کو اس عمل میں لگاتا ہے۔ جو نہ تو حق بخش ہے نہ نفس پرست جس سے جس سے کھانے پچھتا ہے۔ ہاں اس پر نصرت نیکوں کے ذریعے بھی کی جاتی ہے مگر یہ نصرت و یہ نصرت (خاصہ) اللہ اور اس کی برکت و مشقتوں سے جاتی ہے۔

ولایت سب عملوں میں ملتی ہے۔ چاہے تو مرنے والی عمر یا سیمچھوڑنے والے کوئی ہے اسے ولایت حاصل کرنے سے پہلے یا بعد میں بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن جو اللہ کی رضا سے اس کی نصرت و مشقتوں سے جاتی ہے۔

الْآنَ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ
وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝ الَّذِينَ آمَنُوا
وَكَانُوا يَتَّقُونَ ۝ لَكُمْ الْبُشْرَىٰ فِي
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ (یونس: ۶۳-۶۴)

بے شک اللہ کے دوستوں پر کوئی ڈر نہیں نہ وہ
غمگین ہوں گے (اللہ کے دوست) وہ ہیں جو
ایمان لائے اور متقی ہیں ان کے لئے دنیا اور
آخرت کی زندگی میں خوشخبری ہے۔

(یونس: ۶۳-۶۴)

کوئی ولی کبھی بھی نبی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا اور نہ کوئی ولی جو صحابی نہیں کسی صحابی کے
درجے کو پاسکتا ہے چاہے وہ کتنا ہی بڑا ولی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح ولی احکام شریعت کی پابندی
سے بھی آزاد نہیں ہو سکتا۔

طریقت کہ انہیں حضرت اولیائے کرام کے طریق خاص کو کہتے ہیں منافی شریعت نہیں، نہ
اس راہ کی کوئی منزل، کوئی مرحلہ، کوئی حصہ احکام شریعت کے مقابل و مزاحم، طریقت شریعت ہی
کا باطنی حصہ ہے۔ شریعت نام ہے ان تمام علوم و احکام کے مجموعہ کا جو جسم و جان، روح و قالب،
جسد و قلب سے تعلق رکھتے ہیں۔ انہیں میں سے ایک حصے کا نام طریقت ہے۔ صرف فرض و واجب
اور حلال و حرام وغیرہ کے مجموعہ کا نام شریعت رکھ لینا محض اندھا پن ہے۔ بلکہ طریقت کے احوال و
حقائق اگر شریعت کے مطابق ہوں تو حق و مقبول ہیں ورنہ مردود۔ تو جو یہ بعض صوفی نما جاہل کہہ دیا
کرتے ہیں کہ میاں طریقت اور ہے شریعت اور یہ ملاں مولوی طریقت کو کیا جانیں۔ یہ محض ایک
شیطانی فریب ہے اور خیال باطل۔ اور اس زعم باطل کے باعث اپنے آپ کو شریعت سے آزاد سمجھنا
صریح کفر و الحاد ہے جبکہ احکام شرعیہ کی پابندی سے کوئی ولی کیسا ہی عظیم ہو سبکدوش نہیں ہو سکتا۔ البتہ
اگر مجذوبیت سے عقل تکلمی زائل ہو گئی ہو جیسے غشی والا تو اس سے قلم شریعت اٹھ جائے گا مگر یہ بھی
سمجھ لو کہ جو اس قسم کا ہوگا اس سے ایسی باتیں کہی نہ ہوں گی اور وہ شریعت کا مقابلہ کبھی نہ کرے گا اور نہ
ہی شریعت کی پابندی کے خلاف حکم دے گا۔

بلا دعویٰ نبوت، ولی اللہ کے ہاتھوں خلاف عادت کسی امر کے ظاہر ہونے کا نام کرامت
ہے۔ اولیاء اللہ کی کرامات حق اور قرآن و سنت سے ثابت ہیں جن کا انکار جہالت اور گمراہی کا
نشان ہے۔ ولی کی کرامت حقیقت میں اس کے نبی کا معجزہ ہوتا ہے جو اس کے نبی اور اس کے
لائے ہوئے دین کے سچا ہونے کی دلیل ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کی امت کے
اولیائے کرام کی جتنی کرامتیں ہیں وہ سب آپ کے معجزات میں شامل ہیں۔

دیکھو قرآن پاک میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے صحابی آصف کی کرامت کہ انہوں نے آنکھ چھکنے سے پہلے بلقیس کا تخت دربار میں حاضر کر دیا اور حضرت مریم کی کرامت کہ جب ان کے عبادت خانے میں حضرت زکریا علیہ السلام نے بے موسم کے پھل وغیرہ پائے تو آپ کے پوچھنے پر حضرت مریم نے بتایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں۔

اسی طرح ولی کی کرامت سے بوقت حاجت کھانے پینے کی چیزوں اور پہننے کے لباس کا ظاہر ہونا پانی کے اوپر چلنا ہوا میں اڑنا بے جان چیزوں اور جانوروں کا باتیں کرنا مریض اور مصیبت زدہ کی بیماری اور مصیبت کا اولیاء اللہ کی توجہ اور دعا سے دور ہو جانا۔ اپنے متعلقین کو دشمنوں کے شر سے بچانا۔ سینکڑوں میل دور کے واقعات و مناظر کا دیکھ لینا۔ ان کی توجہ اور دعا سے خشک چشموں کا جاری ہونا اور دریائے نیل کا فاروق اعظم عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے حکم سے جاری ہونا۔ الغرض اس قسم کی بیشمار کرامات کی تفصیل معتبر کتابوں میں موجود ہے جن کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔

شرعی اصطلاحات

عبادت اور معاملات دین کے متعلق شریعت اسلامیہ کی اصطلاحات مندرجہ ذیل ہیں۔ اور ہر قسم کی عبادت سے پہلے ان کا جاننا ضروری ہے تاکہ عبادت شرعی اصولوں کے مطابق ہو۔

۱۔ فرض

اس عمل کو کہا جاتا ہے جو نص قطعی یعنی قرآن پاک اور سنت کی رو سے ثابت ہو ایسے عمل کو شریعت کی رو سے کرنا ضروری ہے اسے بلا شرعی عذر ترک کرنے والا فاسق و فاجر ہوگا اور اس کا انکار کرنے والا کافر ہوگا جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ فرائض میں سے ہیں۔ اگر کوئی ان کا انکار کرے گا تو وہ دائرہ اسلام سے نکل جائے گا۔

فرض کی دو قسمیں ہیں:

۲۔ فرض کفایہ

۱۔ فرض عین

فرض عین: فرض عین وہ فرض ہے جس کا ادا کرنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ اور فرض کفایہ وہ فرض ہے کہ جس کا کرنا ہر ایک کے لیے ضروری نہیں۔ بلکہ بعض لوگوں کے ادا کرنے سے سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے اور اگر کوئی بھی ادا نہ کرے تو سب گنہگار ہوں۔ جیسے نماز جنازہ اگر کوئی بھی ادا نہ کرے تو سب مسلمان گنہگار ہوں گے۔

۲۔ **واجب**: واجب وہ ہے جو شریعت کی ظنی دلیل سے ثابت ہو اس کا کرنا ضروری ہے اور اس کا بلا کسی تاویل اور بغیر کسی عذر کے چھوڑ دینے والا فاسق اور عذاب کا مستحق ہے لیکن اس کا انکار کرنے والا کافر نہیں بلکہ گمراہ ہے۔

۳۔ **سنت**: سنت اس عمل کو کہا جاتا ہے جو حضور ﷺ نے کیا ہے۔ یا کسی عمل کو کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کی بھی دو قسمیں ہیں:-

۲۔ سنت غیر مؤکدہ

۱۔ سنت مؤکدہ

(الف)۔ **سنت مؤکدہ** : سنت مؤکدہ وہ عمل ہے جو حضور نبی کریم ﷺ نے ہمیشہ کیا اور شرعی عذر کے بغیر کبھی نہیں چھوڑا، مگر بیان جواز کے لیے کبھی چھوڑ بھی دیا، اسے ادا کرنے میں اجر و ثواب ہے البتہ اسے چھوڑ دینے کی عادت بنا لینے میں گنہگاری ہے اس لیے سنت مؤکدہ کو ہمیشہ کرنا چاہیے۔ نماز فجر کی دو رکعت سنت اور نماز ظہر کی چار رکعت فرض سے پہلے اور دو رکعت فرض کے بعد سنتیں۔ اور نماز مغرب کی دو رکعت سنت اور نماز عشاء کی دو رکعت سنت۔ یہ نماز پنجگانہ کی بارہ رکعت سنتیں سب سنت مؤکدہ ہیں۔

(ب)۔ **سنت غیر مؤکدہ** : سنت غیر مؤکدہ وہ فعل ہے جسے حضور ﷺ نے مسلسل نہیں۔ بلکہ کبھی کیا اور کبھی چھوڑ دیا۔ اسے ادا کرنے والا ثواب پائے گا اور اس کو چھوڑ دینے والا عذاب کا مستحق نہیں۔ جیسے عصر کے پہلے کی چار رکعت سنت اور عشاء سے پہلے کی چار رکعت سنت کہ یہ سب سنت غیر مؤکدہ ہیں۔ سنت غیر مؤکدہ کو سنت زائدہ بھی کہتے ہیں۔

۴۔ **مستحب** : ہر وہ کام مستحب ہے جو شریعت کی نظر میں پسندیدہ ہو اور اس کو چھوڑ دینا شریعت کی نظر میں بُرا بھی نہ ہو۔ خواہ اس کام کو رسول اللہ ﷺ نے کیا ہو یا اس کی ترغیب دی ہو۔ یا علماء صالحین نے اس کو پسند فرمایا اگرچہ حدیثوں میں اس کا ذکر نہ آیا ہو۔ یہ سب مستحب ہیں۔ مستحب کو کرنا ثواب اور اس کو چھوڑ دینے پر نہ کوئی عذاب ہے نہ کوئی عتاب۔ جیسے وضو کرنے میں قبلہ رو ہو کر بیٹھنا، نماز میں بحالت قیام سجدہ گاہ پر نظر رکھنا خطبہ میں خلفاء راشدین کا ذکر کرنا مستحب ہے۔

۵۔ **نفل** : یہ ایک طرح کا مستحب عمل ہی ہے جسے ادا کرنے کے متعلق حضور نے فضیلت بیان کی ہے اسے کرنے میں بہت ثواب ہے اور نہ کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔

۶۔ **مباح** : مباح وہ ہے جس کا کرنا اور چھوڑ دینا دونوں برابر ہوں۔ جس کے کرنے میں نہ کوئی ثواب ہو اور چھوڑنے میں نہ کوئی عذاب ہو۔ جیسے لذیذ غذاؤں کا کھانا اور نفیس کپڑوں کا پہننا وغیرہ۔

۷۔ **حرام** : حرام وہ ہے جس کی ممانعت قطعی شرعی دلیل سے ثابت ہو اس کا چھوڑنا ضروری اور باعث ثواب ہے۔ اور اس کا ایک مرتبہ بھی قصداً کرنے والا فاسق و جہنمی ہے اور گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے اور اس کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ حرام فرض کے مقابل ہے یعنی فرض کا کرنا ضروری ہے اور حرام کا چھوڑنا ضروری ہے۔

۸۔ **مکروہ تحریمی**: مکروہ تحریمی وہ ہے جو شریعت کی ظنی دلیل سے ثابت ہو۔ اس کا چھوڑنا لازم اور باعثِ ثواب ہے اور اس کا کرنے والا گنہگار ہے اگرچہ اس کے کرنے کا گناہ حرام کے کرنے سے کم ہے۔ مگر چند بار اس کو کر لینا گناہ کبیرہ ہے یعنی یاد رکھو کہ یہ واجب کو مقابل ہے یعنی واجب کو کرنا لازم ہے اور مکروہ تحریمی کو چھوڑنا لازم ہے۔

۹۔ **اساءت**: اساءت وہ ہے جس کا کرنا بُرا ہے اور کبھی اتفاقیہ کر لینے والا لائقِ عتاب اور اس کے کرنے کی عادت بنالینے والا مستحقِ عذاب ہے۔ یاد رہے کہ یہ سنت مؤکدہ کا مقابل ہے۔ یعنی سنت مؤکدہ کو کرنا ثواب اور چھوڑنا بُرا ہے اور اساءت کو چھوڑنا ثواب اور کرنا بُرا ہے۔

۱۰۔ **مکر وہ تحریمی**: مکروہ تحریمی وہ ہے جس کا کرنا شریعت کو پسند نہیں۔ مگر اس کے کرنے والے پر عذاب نہیں ہوگا۔ یہ سنت غیر مؤکدہ کا مقابل ہے۔

۱۱۔ **خلافِ اولیٰ**: خلافِ اولیٰ وہ ہے جس کو چھوڑ دینا بہتر تھا لیکن اگر کر لیا تو کچھ مضائقہ نہیں۔ یہ مستحب کا مقابل ہے۔

۲۔ وضو

جسم کے چند اعضاء کو نبی اکرم ﷺ کے فرمان اور سنت کے مطابق دھونے کو وضو کہا جاتا ہے۔ وضو نماز کے لیے ضروری ہے کیونکہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے کہ:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ
إِلَى الصَّلَاةِ فَغَسِّلُوا وُجُوهَكُمْ
وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا
بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ
یعنی اے ایمان والو! جب تم نماز پڑھنے کا
ارادہ کر لو تو اپنے منہ اور کہنیوں تک ہاتھوں کو
دھوؤ اور سروں کا مسح کرو اور ٹخنوں تک پاؤں
دھوؤ۔ (پ ۶ المائدہ - ۶)

وضو کے بارے میں رسول اکرم ﷺ کے چند ارشادات گرامی حسب ذیل ہیں:-

۱۔ **حدیث**: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے صحابہ کرامؓ سے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں جس کے سبب اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیتا ہے اور درجات بلند کرتا ہے۔ صحابہؓ نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ! فرمایا ”جس وقت وضو کرنا مشکل

ہو اس وقت کامل وضو کرنے اور مسجدوں کی طرف کثرت سے جانے اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنے کا ثواب ایسا ہے جیسا کفار کی سرحد پر اسلام کے لیے گھوڑا باندھنے کا ہے۔ (مسلم شریف)

۲۔ حدیث: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن میری امت اس حالت میں بلائی جائے گی کہ ان کے چہرے ہاتھ اور پاؤں وضو کے باعث چمکتے ہوں گے تو جس سے ہو سکے چمک زیادہ کرے یعنی وضو اچھی طرح کرے۔ (بخاری شریف)

۳۔ حدیث: حضرت عثمان غنیؓ نے اپنے غلام عمران سے وضو کے لیے پانی مانگا اور سردی کی رات میں باہر جانا چاہتے تھے۔ عمران کہتے ہیں کہ میں پانی لایا انہوں نے منہ ہاتھ دھوئے تو میں نے کہا اللہ آپ کو کفایت کرے رات تو بہت ٹھنڈی ہے۔ اس پر فرمایا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے کہ جو بندہ وضوئے کامل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیتا ہے۔ (مشکوٰۃ شریف)

۴۔ حدیث: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا ہے ”وضو کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی یہاں تک کہ وضو کر لے۔“ (بخاری شریف)

۵۔ حدیث: حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا ہے ”جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی وضو ہے۔“ (احمد)

۶۔ حدیث: حضرت عبداللہ صناہجیؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں ”مسلمان بندہ جب وضو کرتا ہے تو کھلی کریمت سے منہ کے گناہ گر جاتے ہیں اور جب ناک میں پانی ڈال کر صاف کیا تو ناک کا گناہ نکل گئے اور جب منہ دھویا تو اس کے چہرے کے گناہ نکلے یہاں تک کہ پلکوں کے نکلے اور جب ہاتھ دھوئے تو ہاتھوں کے گناہ نکلے یہاں تک کہ ہاتھوں کے ناخنوں سے نکلے اور جب سر کا مسح کیا تو سر کے گناہ نکلے یہاں تک کہ کانوں سے نکلے اور جب پاؤں دھوئے تو پاؤں کی خطائیں نکلیں یہاں تک کہ ناخنوں سے پھر اس کا مسجد کو جانا اور اس کا نماز پڑھنا اس کے لیے زیادہ ثواب کا باعث ہوگا۔“ (زائی شریف)

۷۔ حدیث: حضرت علیؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”جو سخت سردی میں

کامل وضو کرے اس کے لیے دو گنا ثواب ہے“ (طبرانی)

۹۔ حدیث: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا ”مؤمن کا زیور اس حد تک پہنچے گا جہاں تک وضو کا پانی پہنچتا ہے۔“ (مسلم شریف)

۲۔ وضو کا مسنون طریقہ: رسول اکرم ﷺ کی سنت کے مطابق وضو کا مسنون طریقہ حسب ذیل ہے:-

وضو کرنے والے کو چاہئے کہ اپنے دل میں وضو کا ارادہ کر کے قبلہ کی طرف منہ کر کے کسی اونچی جگہ بیٹھے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پہلے دونوں ہاتھ تین مرتبہ گٹوں تک دھوئے پھر مسواک کرے اگر مسواک نہ ہو تو انگلی سے اپنے دانتوں اور مسوڑھوں کو مل کر صاف کرے اور اگر دانتوں یا تالو میں کوئی چیز انکی یا چسکی ہو تو اس کو انگلی سے نکالے اور پھرائے۔ پھر تین مرتبہ کلی کرے اور اگر روزہ دار نہ ہو تو غرار بھی کرے لیکن اگر روزہ دار ہو تو غرار نہ کرے کہ حلق کے اندر پانی چلے جانے کا خطرہ ہے پھر داہنے ہاتھ سے تین دفعہ ناک میں پانی چڑھائے اور بائیں ہاتھ سے ناک صاف کرے۔ پھر دونوں ہاتھوں میں پانی لے کر تین مرتبہ اس طرح چہرہ دھوئے کہ ماتھے پر بال نکلنے کی جگہ سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک اور داہنے کان کی لو سے بائیں کان کی لو تک سب جگہ پانی بہ جائے اور کہیں ذرا بھی پانی بہنے سے نہ رہ جائے۔ اگر داڑھی ہو تو اسے بھی دھوئے اور داڑھی میں انگلیوں سے خلال بھی کرے لیکن اگر احرام باندھا ہو تو خلال نہ کرے۔ پھر تین مرتبہ کہنی سمیت یعنی کہنی سے کچھ اوپر داہنا ہاتھ دھوئے پھر اسی طرح تین مرتبہ بائیں ہاتھ دھوئے۔ اگر انگلی میں تنگ انگوٹھی یا جھلمہ ہو یا کلائیوں میں تنگ چوڑیاں ہوں تو ان سمھوں کو ہلا پھرا کر دھوئے تاکہ سب جگہ پانی بہ جائے۔ پھر ایک بار پورے سر کا مسح کرے اس کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو پانی سے تر کر کے انگوٹھے اور کلمہ کی انگلی چھوڑ کر دونوں ہاتھوں کی تین تین انگلیوں کی نوک کو ایک دوسرے سے ملائے۔ اور ان چھٹوں انگلیوں کو اپنے ماتھے پر رکھ کر پیچھے کی طرف سر کے آخری حصہ تک لے جائے۔ اس طرح کہ کلمہ کی دونوں انگلیاں اور دونوں انگوٹھے اور دونوں ہتھیلیاں سر سے نہ لگنے پائیں۔ پھر سر کے پچھلے حصہ سے ہاتھ ماتھے کی طرف اس طرح لائے کہ دونوں ہتھیلیاں سر کے دائیں بائیں حصہ پر ہوتی ہوئی ماتھے تک واپس آجائیں۔ پھر کلمہ کی انگلی کے پیٹ سے کانوں کے اندر کے حصوں کا اور انگوٹھے کے پیٹ سے کان کے اوپر کا مسح کرے اور انگلیوں کی پیٹھ سے

گردن کا مسح کرے۔ پھر تین بار داہنا پاؤں ٹخنے سمیت یعنی ٹخنے سے کچھ اوپر تک دھوئے پھر بائیں پاؤں اسی طرح تین دفعہ دھوئے۔ پھر بائیں ہاتھ کی چھنگلیا سے دونوں پیروں کی انگلیوں کا اس طرح خلال کرے کہ پیر کی داہنی چھنگلیا سے شروع کرے اور بائیں چھنگلیا پر ختم کرے۔ وضو ختم کر لینے کے بعد ایک مرتبہ یہ دعا پڑھے:

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ ۝

اور کھڑے ہو کر وضو کا بچا ہوا پانی تھوڑا سا پی لے۔ کہ یہ بیماریوں سے شفاء ہے۔ اور بہتر یہ ہے کہ وضو میں ہر عضو کو دھوئے ہوئے بسم اللہ پڑھ لیا کرے اور درود شریف و کلمہ شہادت بھی پڑھتا رہے اور یہ بھی بہتر ہے کہ وضو پورا کر لینے کے بعد آسمان کی طرف منہ کر کے

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَالْتَوَيْبُ إِلَيْكَ

اور سورہ اِنَّا أَنْزَلْنَاكَ پڑھے۔ مگر ان دعاؤں کا پڑھنا ضروری نہیں پڑھ لے تو اچھا اور ثواب ہے۔ نہ پڑھے تو کوئی حرج نہیں ہے۔

اوپر جو کچھ بیان ہوا یہ وضو کرنے کا طریقہ ہے لیکن یاد رکھیں کہ وضو میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو فرض ہیں کہ جن کے چھوٹنے یا ان میں کچھ کمی ہو جانے سے وضو نہ ہوگا اور کچھ باتیں سنت ہیں کہ جن کو اگر چھوڑ دیا جائے تو گناہ ہوگا اور کچھ چیزیں مستحب ہیں کہ ان کے چھوڑ دینے سے وضو کا ثواب کم ہو جاتا ہے۔

۳۔ وضو کے فرائض: وضو میں چار چیزیں فرض ہیں:

(۱) پورے چہرے کا ایک بار دھونا۔

(۲) ایک ایک بار دونوں ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھونا۔

(۳) ایک ایک بار چوتھائی سر کا مسح کرنا یعنی گیلا ہاتھ سر پر پھیر لینا۔

(۴) ایک بار نخنوں سمیت دونوں پیروں کو دھونا۔

(الف)۔ منہ دھونا: شروع پیشانی سے یعنی جہاں تک عموماً سر کے بال ہوتے ہیں۔

ٹھوڑی کے نیچے تک لمبائی میں ایک کان سے دوسرے کان کی لوتک چوڑائی میں اس حد کے اندر جلد کے ہر حصے پر پانی بہانا فرض ہے۔

مسئلہ: لبوں کا وہ حصہ جو عموماً عادتاً لب بند کرنے کے بعد ظاہر رہتا ہے اس کا دھونا فرض ہے۔ یونہی رخسار اور کان کے بیچ میں جو جگہ ہے جسے کینٹی کہتے ہیں۔ اس کا دھونا بھی فرض ہے۔

مسئلہ: نتھ کا سوراخ اگر بند نہ ہو تو اس میں پانی بہانا فرض ہے اگر تنگ ہو تو پانی ڈالنے میں نتھ کو حرکت دے ورنہ حرکت دینا ضروری نہیں۔ (درمختار)

(ب)۔ **گھیناں دھونا:** اس حکم میں کہنیاں بھی داخل ہیں۔ اگر کہنیوں سے ناخنوں تک کوئی جگہ ذرہ برابر ڈھلنے سے رہ جائے گی۔ وضو نہ ہوگا۔

مسئلہ: ہر قسم کے جائز و ناجائز گہنے، چھلے، انگوٹھیاں، پہنچیاں، کنگن، کانچ لاکھ وغیرہ کی چوڑیاں، ریشم کے لچھے وغیرہ اگر اتنے تنگ ہوں کہ نیچے پانی نہ بہے تو اتار کر دھونا فرض ہے اور اگر صرف ہلا کر دھونے سے پانی بہہ جاتا ہو تو حرکت دینا ضروری ہے۔ اور اگر ڈھیلے ہوں کہ بے ہلائے بھی نیچے پانی بہ جائے گا تو کچھ ضروری نہیں (رومختار)

مسئلہ: ہاتھوں کی آٹھوں گھائیاں، انگلیوں کی کروٹیں، ناخنوں کے اندر جو جگہ خالی ہے، کلائی کے بال جڑ سے نوک تک، ان سب پر پانی بہہ جانا ضروری ہے۔ اگر کچھ بھی رہ گیا یا بالوں کی جڑوں پر پانی نہ گیا مگر کسی ایک بال کی نوک پر نہ بہا تو وضو نہ ہوا مگر ناخنوں کے اندر کا میل معاف ہے۔ (درمختار)

مسئلہ: عورتوں کو فینسی چوڑیوں کا شوق ہوتا ہے۔ انہیں ہٹا ہٹا کر پانی بہائیں۔ (فتاویٰ رضویہ)

(پ)۔ **سر کا مسح:** سر پر بال نہ ہوں تو جلد کی چوتھائی اور جو بال ہوں تو خاص سر کے بالوں کی چوتھائی کا مسح فرض ہے سر سے نیچے جو بال لٹکتے ہیں ان کا مسح کافی نہیں۔

مسئلہ: مسح کرنے کے لیے ہاتھ تر ہونا چاہیے۔ خواہ کسی عضو کو دھونے کے بعد ہاتھ میں تری رہ گئی ہو یا نئے پانی سے تر کر لیا ہو۔ ہاں کسی عضو کے مسح کے بعد ہاتھ میں جو تری رہ جائے گی وہ دوسرے عضو کے مسح کے لیے کافی نہ ہوگی۔ (درمختار)

مسئلہ: دوپٹہ پر مسح ہرگز کافی نہیں مگر جبکہ دوپٹہ اتنا باریک اور تری اتنی زیادہ ہو کہ کپڑے سے پھوٹ کر چوتھائی سر یا بالوں کو تر کر دے تو مسح ہو جائیگا (بحر وغیرہ)

(ج)۔ **پلوں دھونا:** اس حکم میں گئے بھی داخل ہیں۔ گھائیاں، انگلیوں کی کروٹیں،

تکوے ایڑیاں اور کوچیں سب کا دھونا فرض ہے۔ (عامہ کتب)

مسئلہ: چھلے اور سب گھنے کہ گٹوں پر یا ان سے نیچے ہوں ان کا حکم وہی ہے جو اوپر بیان کیا گیا ہے۔

۴۔ وضو کی سنتیں:

- ۱۔ نیت کرنا۔
- ۲۔ بسم اللہ سے شروع کرنا۔
- ۳۔ پہلے ہاتھوں کو گٹوں تک تین تین بار دھونا۔
- ۴۔ مسواک کرنا۔
- ۵۔ تین چلو پانی سے تین کلیاں کرنا۔
- ۶۔ تین چلو سے تین بار ناک میں پانی چڑھانا۔
- ۷۔ بائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنا۔
- ۸۔ ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا۔
- ۹۔ ہر عضو کو تین تین بار دھونا۔
- ۱۰۔ پورے سر کا ایک بار مسح کرنا۔
- ۱۱۔ کانوں کا مسح کرنا اور گردن کا مسح کرنا۔
- ۱۲۔ ترتیب سے وضو کرنا۔
- ۱۳۔ ڈاڑھی میں خلال کرنا۔
- ۱۴۔ اعضاء کو لگاتار دھونا۔

۵۔ وضو کے مستحبات:

- ۱۔ جو اعضاء جوڑے ہیں مثلاً دونوں ہاتھ دونوں پاؤں تو ان میں سے داہنے سے دھونے کی ابتدا کریں مگر دونوں رخسار کہ ان دونوں کو ایک ہی ساتھ دھونا چاہیے۔ یوں ہی دونوں کانوں کا مسح ایک ہی ساتھ ہونا چاہیے۔
- ۲۔ انگلیوں کی پیٹھ سے گردن کا مسح کرنا۔

- ۳۔ اونچی جگہ بیٹھ کر وضو کرنا۔
- ۴۔ وضو کا پانی پاک جگہ گراننا۔
- ۵۔ اپنے ہاتھ سے وضو کا پانی بھرنا۔
- ۶۔ دوسرے وقت کے لیے پانی بھر کر رکھ لینا۔
- ۷۔ بلا ضرورت وضو کرنے میں دوسرے سے مدد نہ لینا۔
- ۸۔ ڈھیلی انگلی کو بھی پھر لینا۔
- ۹۔ صاحب عذرت نہ ہو تو وقت سے پہلے وضو کر لینا۔
- ۱۰۔ اطمینان سے وضو کرنا۔
- ۱۱۔ کانوں کے مسح کے وقت چھنگلیاں کان کے سوراخوں میں داخل کرنا۔
- ۱۲۔ کپڑوں کو ٹپکتے ہوئے قطرات سے بچانا۔
- ۱۳۔ وضو کا برتن مٹی کا ہو۔
- ۱۴۔ اگر تانبے وغیرہ کا ہو تو قلعی کیا ہوا ہو۔
- ۱۵۔ اگر وضو کا برتن لوٹا ہو تو بائیں طرف رکھیں۔
- ۱۶۔ اگر وضو کا برن طشت یا لگن ہو تو داہنی طرف رکھیں۔
- ۱۷۔ اگر لوٹے میں دستہ لگا ہوا ہو تو دستہ کو تین بار دھولیں۔
- ۱۸۔ اور ہاتھ دستہ پر رکھیں، لوٹے کے منہ پر ہاتھ نہ رکھیں۔
- ۱۹۔ ہر عضو کو دھو کر اس پر ہاتھ پھیر دینا تاکہ قطرے بدن یا کپڑے پر نہ ٹپکیں۔
- ۲۰۔ ہر عضو کو دھوتے وقت دل میں وضو کی نیت کا حاضر رہنا۔
- ۲۱۔ ہر عضو کو دھوتے وقت بسم اللہ اور درود شریف و کلمہ شہادت پڑھنا۔
- ۲۲۔ ہر عضو کو دھوتے وقت الگ الگ عضو کے دھونے کی دعاؤں کو پڑھتے رہنا۔
- ۲۳۔ اعضاء وضو کو بلا ضرورت پونچھ کر خشک نہ کرے اور اگر پونچھے تو کچھ نمی باقی رہنے دے۔
- ۲۴۔ وضو کر کے ہاتھ نہ جھٹکے کہ یہ شیطان کا پتکھا ہے۔

۲۵۔ وضو کے بعد اگر مکروہ وقت نہ ہو تو دو رکعت نماز پڑھ لے۔ اس کو تحیۃ الوضوء کہتے ہیں (عالمگیری ج ۱ ص ۹ بہار شریعت وغیرہ)

۶. مکروہات وضو :

۱۔ عورت کے غسل یا وضو کے نیچے ہوئے پانی سے وضو کرنا۔

۲۔ وضو کے لیے نجس جگہ بیٹھنا۔

۳۔ نجس جگہ وضو کا پانی گرانے۔

۴۔ مسجد کے اندر وضو کرنا۔

۵۔ اعضائے وضو سے لوٹے وغیرہ میں قطرہ ٹپکانا۔

۶۔ پانی میں ریشہ یا کھنکار ڈالنا۔

۷۔ قبلہ کی طرف تھوک یا کھنکار ڈالنا یا کلی کرنا۔

۸۔ بے ضرورت دنیا کی بات کرنا۔

۹۔ زیادہ پانی خرچ کرنا۔

۱۰۔ اتنا کم خرچ کرنا کہ سنت ادا نہ ہو۔

۱۱۔ منہ پر پانی مارنا۔

۱۲۔ یا منہ پر پانی ڈالتے وقت پھونکنا۔

۱۳۔ ایک ہاتھ سے منہ دھونا کہ رفاض و ہنود کا شعار ہے۔

۱۴۔ گلے کا مسح کرنا۔

۱۵۔ بائیں ہاتھ سے کلی کرنا یا ناک میں پانی ڈالنا۔

۱۶۔ داہنے ہاتھ سے ناک صاف کرنا۔

۱۷۔ اپنے لیے کوئی لوٹا وغیرہ خاص کر لینا۔

۱۸۔ تین جدید پانیوں سے تین بار سر کا مسح کرنا۔

۱۹۔ جس کپڑے سے استنجے کا پانی خشک کیا ہو اس سے اعضائے وضو پونچھنا۔

۲۰۔ دھوپ کے گرم پانی سے وضو کرنا۔

۲۱۔ ہونٹ یا آنکھیں زور سے بند کرنا اور اگر کچھ سوکھا رہ جائے تو وضو ہی نہ ہوگا۔ ہر سنت کا ترک مکروہ ہے۔ یونہی ہر مکروہ کا ترک سنت۔

۷۔ وضو کرنے کی صورتیں:

مسئلہ: اگر وضو نہ ہو تو نماز اور سجدہ تلاوت، نماز جنازہ، قرآن عظیم چھونے کے لیے وضو کرنا فرض ہے۔

مسئلہ: طواف کے لیے وضو واجب ہے۔ غسل جنابت سے پہلے اور جنبی کو کھانے پینے سونے، اذان و اقامت، خطبہ جمعہ و عیدین، روضہ مبارک رسول ﷺ کی زیارت و توفع عرفہ صفا و مروہ کے درمیان سعی کے لیے وضو کر لینا سنت ہے۔

مسئلہ: سونے کے لیے اور سونے کے بعد اور میت کے نہلانے یا اٹھانے کے بعد اور جماع سے پہلے اور جب غصہ آجائے اس وقت اور زبانی قرآن عظیم پڑھنے کے لیے حدیث اور علم دین پڑھنے، علاوہ جمعہ و عیدین باقی خطبوں کے لیے۔ اور کتب دینیہ چھونے کے لیے اور بعد ستر غلیظ چھونے اور جھوٹ بولنے، گالی دینے، فحش لفظ نکالنے، کافر سے بدن چھو جانے، صلیب یا بت چھونے، کوزھی یا سپید داغ والے سے مس کرنے، بغل کھجانے سے جبکہ اس میں بدبو ہو، غیبت کرنے، قہقہہ لگانے، لغو اشیاء پڑھنے اور اونٹ کا گوشت کھانے، کسی عورت کے بدن سے اپنا بدن بے حائل مس ہو جانے سے اور با وضو شخص کے نماز پڑھنے کے لیے ان سب صورتوں میں وضو مستحب ہے۔

مسئلہ: جب وضو جاتا رہے وضو کر لینا مستحب ہے۔ نابالغ پر وضو فرض نہیں مگر ان سے وضو کرانا چاہیے تاکہ عادت ہو اور وضو کرنا آجائے اور مسائل وضو سے آگاہ ہو جائے۔

۸۔ **وضو توڑنے والی چیزیں:** کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ انہیں شریعت مطہرہ نے نواقض وضو قرار دیا ہے یعنی ان میں سے اگر ایک بھی پانی جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ان میں بعض یہ ہیں:

۱۔ آگے یا پیچھے کے مقام سے پیشاب یا خانہ وغیرہ کسی نجاست یا کپڑے یا پتھری کا نکلنا یا پیچھے سے ہوا کا خارج ہونا۔

۲۔ خون پیپ یا زرد پانی جبکہ کہیں سے نکل کر ایسی جگہ بہہ کر چلا جائے کہ جس کا وضو یا غسل میں دھونا فرض ہے۔

۳۔ آنکھ کان ناف پستان وغیرہ میں دانہ یا ناسور یا کوئی بیماری ہو اور اس وجہ سے جو آنسو یا پانی بہے گا وضو توڑ دے گا۔ دکھتی ہوئی آنکھ سے جو اپنی بہتا ہے اس کا یہی حکم ہے بلکہ یہ پانی خود بھی نجس ہے۔

۴۔ کھانے یا پانی یا صفرا کی منہ بھرتے 'یونہی جے ہوئے خون کی منہ بھرتے اور پتے ہوئے خون کی تے جبکہ تھوک اس پر غالب نہ ہو وضو توڑ دیتی ہے۔

۵۔ بے ہوشی، غشی، پاگل پن اور اتنا نشہ کہ چلنے میں پاؤں لڑکھڑائیں وضو توڑ دیتا ہے

۶۔ بالغ کا قبضہ یعنی اتنی آواز سے ہنسی کہ آس پاس کے سینس جبکہ جاگتے ہیں اور رکوع و سجود والی نماز میں ہو وضو توڑ دیتا ہے۔

۷۔ سو جانے سے بھی وضو جاتا رہتا ہے۔ مثلاً لیٹے لیٹے آنکھ لگ گئی یا کسی چیز کے سہارے بیٹھے بیٹھے نیند آگئی کہ اگر وہ چیز نہ ہوتی تو گر پڑتی تو وضو جاتا رہا اور اگر نماز میں بیٹھے بیٹھے یا سجدے میں قصد آسو گئی تو بھی وضو گیا اور نماز بھی گئی۔

۸۔ منہ سے خون کا نکلنا بھی جبکہ تھوک پر غالب ہونا قرض وضو ہے۔

۹۔ **وضو نہ ٹوٹنے والی صورتیں:** جن صورتوں میں وضو نہیں ٹوٹتا وہ مندرجہ ذیل ہیں:

۱۔ خون یا پیپ یا زرد پانی ابھرا اور بہا نہیں۔ جیسے سوئی کی نوک یا چاقو کا کنارہ لگ جاتا ہے اور خون ابھرتا ہے۔

۲۔ اپنی یا پرانی شرمگاہ (پیشاب یا پاخانہ کی جگہ) پر ہاتھ لگایا۔

۳۔ خیال ایسا یا مسواک کی یا انگلی سے دانت مانجھے یا دانت سے کوئی چیز کاٹی اس پر خون کا اثر پایا یا ناک میں انگلی ڈالی اس پر خون کی سرخی آگئی مگر وہ خون بہنے کے قابل نہیں۔

۴۔ ناک صاف کی اس میں سے جما ہوا خون نکلا۔

۵۔ کان میں تیل ڈالا تھا اور ایک دن بعد کان یا ناک سے نکلا۔

۶۔ جوں، کھٹل، مچھریا پسونے خون چوسا۔

۷۔ بلغم کی قے جتنی بھی ہو۔

۸۔ بیٹھے بیٹھے جھونکا آگیا یا اونگھ آگئی مگر نیند نہ آئی تو وضو نہ ٹوٹے گا۔

۳۔ غُسل

سر سے لے کر پاؤں تک یعنی جسم کے تمام اعضاء کے دھونے کو غسل کہا جاتا ہے۔ مگر اسلام میں غسل اسے کہا جاتا ہے جو حضور ﷺ نے نہانے کا طریقہ بتایا ہے جسم پر صرف پانی بہا لینا غسل نہیں۔ غسل سے انسانی جسم پاکیزہ ہوتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی بہت تاکید کی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ:

اور نہ ناپاکی کی حالت مگر راستہ عبور کرتے نماز نہ پڑھو یہاں تک کہ تم غسل کر لو۔ اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم نے عورتوں کو چھوا ہو اور پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کر لو اور اپنے چہروں اور ہاتھوں کا مسح کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ (النساء: ۴۳)

اور اگر تم حالت جنابت میں ہو تو غسل کر لو۔

(مائتہ: ۶)

وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا
وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ
مِّنْكُمْ مِنَ الْمَاءِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ
فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا
طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا غَفُورًا ۝

(پ۔ النساء: ۴۳)

وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَأَطَهِّرُوا

(مائتہ: ۶)

۱. احادیث: رسول اکرم ﷺ نے بھی غسل کی بہت تاکید کی ہے۔ آپ کے ارشادات حسب ذیل ہیں:

۱۔ حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنی عورت سے خلوت میں بیٹھے اور نفسانی لطف اٹھائے تو اس پر غسل واجب ہو جائے گا۔ اگرچہ مرد کا جوہر حیات خارج نہ ہو۔ (بخاری شریف)

۲۔ حضرت عائشہ صدیقہؓ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ جب غسل جنابت کا ارادہ فرماتے تو سب سے پہلے دونوں ہاتھ دھوتے پھر نماز کا سا وضو کرتے پھر پانی میں اپنی انگلیاں داخل

کرتے پھر ان سے بالوں کی جڑوں کو تر کرتے پھر اپنے سر مبارک پر پانی بہاتے پھر تمام جسم پر پانی بہاتے۔ (مسلم شریف)

۳:- حضرت ابن عباسؓ سے ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ نبی اکرم ﷺ کے نہانے کے لیے میں نے پانی رکھا اور کپڑے سے پردہ کیا۔ حضور نے ہاتھوں پر پانی ڈالا اور ان کو دھویا، پھر پانی ڈال کر ہاتھوں کو دھویا پھر داہنے ہاتھ سے بائیں پر پانی ڈالا پھر استنجاء فرمایا، پھر ہاتھ زمین پر مار کر ملا اور دھویا پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا اور منہ اور ہاتھ دھوئے پھر سر پر پانی ڈالا اور تمام بدن پر بہایا، پھر اس کی جگہ سے الگ پائے مبارک دھوئے اسکے بعد میں نے بدن پونچھنے کے لیے ایک کپڑا دیا تو حضور ﷺ نے نہ لیا اور ہاتھوں کو جھاڑتے ہوئے تشریف لے گئے۔ (بخاری شریف)

۴:- حضرت ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ ﷺ میں اپنے سر کی چوٹی مضبوط گوندھی ہوں تو کیا غسل جنابت کے لئے اسے کھول ڈالوں؟ فرمایا نہیں تجھ کو صرف یہی کفایت کرتا ہے کہ سر پر تین لپ پانی ڈالے، پھر اپنے اوپر پانی بہالے پاک ہو جائے گئی یعنی بالوں کی جڑیں تر ہو جائیں اور اگر اتنی سخت گندھی ہو کہ جڑوں تک پانی نہ پہنچے تو کھولنا فرض ہے (مسلم شریف)

۵:- حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ انصار کی ایک عورت نے رسول اللہ ﷺ سے حیض کے بعد غسل کے متعلق سوال کیا۔ حضور ﷺ نے اس کو کیفیت غسل کی تعلیم فرمائی۔ پھر فرمایا کہ مشک آلودہ ایک کپڑے کا ٹکڑا لے کر اس سے طہارت کر۔ عرض کی کیسے اس سے طہارت کروں؟ فرمایا اس سے طہارت کر۔ عرض کی کیسے اس سے طہارت کروں؟ فرمایا سخن اللہ اس سے طہارت کر۔ ام المؤمنین فرماتی ہیں میں نے اسے اپنی طرف کھینچ کر کہا اس سے خون کے اثر کو صاف کر لے اس کے بعد غسل کر لے۔ (مسلم شریف)

۶:- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں کہ ہر بال کے نیچے جنابت ہے تو بال دھوؤ اور جلد کو صاف کرو۔ (ترمذی شریف)

ان احادیث سے غسل کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے اس لیے جب غسل کی ضرورت ہو

جائے تو اولین فرصت میں غسل کر لینا چاہیے۔

۲۔ **اقسام غسل:** غسل کی چار قسمیں ہیں:

- | | |
|--------|----------|
| ۱۔ فرض | ۲۔ واجب |
| ۳۔ سنت | ۴۔ مستحب |

۱۔ فرض غسل: فرض تین ہیں:

۱۔ غسل جنابت

۲۔ غسل بعد انقطاع حیض

۳۔ غسل بعد انقطاع انقاس

۲۔ واجب غسل: واجب غسل صرف دو ہیں:

۱۔ زندوں پر مردہ کو غسل دینا واجب ہے۔

۲۔ اگر کل بدن نجاست آلودہ ہو جائے یا بدن کے کسی حصہ پر نجاست لگ جائے لیکن

مقام نجاست معلوم نہ ہو تو سارے بدن کا غسل واجب ہے۔

۲۔ سنت غسل: سنت غسل حنفیہ کے نزدیک پانچ ہیں:

۱۔ جمعہ کی نماز کی لیے

۲۔ عیدین کے لیے۔

۳۔ احرام حج یا عمرہ کے لئے۔

۴۔ عرفات میں ٹھہرنے کے لیے۔

۵۔ اسلام میں داخل ہونے کے وقت۔

۳۔ مستحب غسل: مستحب غسل بیس ہیں:

(۱) دیوانگی، غشی اور نشہ کی سرمستی دور ہونے کے بعد۔

(۲) چھپنے لگوانے کے بعد

(۳) شعبان کی پندرہ تاریخ کو

(۴) نویں ذی الحجہ کی رات کو

- (۵) مقام مزدلفہ میں ٹھہرنے کے وقت
 (۶) ذی الحجہ میں قربانی کرنے کے وقت
 (۷) پتھریاں پھینکنے کے لیے منیٰ میں داخل ہونے کے وقت
 (۸) طواف زیارت کے لیے مکہ معظمہ میں داخل ہونے کے وقت
 (۹) شب قدر میں
 (۱۰) سورج اور چاند کے گرہن ہونے کے وقت
 (۱۱) طلب بارش کی نماز کے لیے
 (۱۲) کسی خوف کے وقت
 (۱۳) اگر سخت آندھی آجائے
 (۱۴) ارضی و سماوی آفت ہو تو اس کو دفع کرنے کے لیے
 (۱۵) مدینہ منورہ میں داخل ہونے کے وقت
 (۱۶) نئے کپڑے یا سفید لباس پہننے کے وقت
 (۱۷) مردہ نہلانے کے بعد
 (۱۸) مقتول کو غسل دینا خواہ قتل کیسا ہی ہو حرام یا حلال
 (۱۹) سفر سے مراجعت کے وقت
 (۲۰) مستحاضہ عورت پر ہر نماز کے لیے۔

۳۔ غسل کا مسنون طریقہ: غسل کرنے کا سنت طریقہ یوں ہے کہ دل سے نیت کرنے کے ساتھ زبان سے بھی کہے تو افضل ہے۔ پھر پانی لیتے وقت بسم اللہ پڑھے۔ پھر دونوں ہاتھوں کو گنوں تک تین مرتبہ دھوئے پھر استنجے کی جگہ دھوئے خواہ نجاست ہو یا نہ ہو۔ پھر بدن پر جہاں کہیں نجاست ہو اس کو دور کرے۔ پھر نماز کا سا وضو کرے مگر پاؤں نہ دھوئے۔ ہاں اگر چوکی یا پتھر وغیرہ پر نہائے تو پاؤں بھی دھوئے پھر بدن پر تیل کی طرح پانی چھڑے خصوصاً جاڑے میں۔ پھر تین مرتبہ داہنے کندھے پر پھر تین بائیں کندھے پر پھر سر

پر اور تمام بدن پر تین بار پانی بہائے پھر غسل کی جگہ سے علیحدہ ہو جائے اور اگر وضو کرنے میں پاؤں نہیں دھوئے تھے تو اب دھولے اور نہانے میں قبلہ رخ نہ ہو اور ایسی جگہ کہ کوئی نہ دیکھے اور اگر یہ نہ ہو سکے تو ناف سے گھٹنے تک کا ستر تو ضروری ہے اور کسی قسم کا کلام نہ کرے نہ دعا پڑھے عورتوں کو بیٹھ کر نہانا بہتر ہے۔

اکثر ہمارے مسلمان بھائی علم دین سے بے خبری کے باعث سنت طریقے سے غسل کرنا نہیں جانتے بہت غیر اسلامی طریقے سے یوں کرتے ہیں کہ غسل خانے میں داخل ہوتے ہی سر پر پانی ڈالا اور پھر صابن لگا کر نہانا شروع کر دیا۔ پھر دو تین مرتبہ پانی بہائے اور غسل کو مکمل کرتے ہوئے غسل خانے سے باہر اگرچہ اس طرح جسم سے میل کچیل تو اتر جاتی ہے لیکن انسان کا جسم پاکیزہ نہیں ہوتا کیونکہ جب تک اسلامی طریقے سے غسل نہیں کیا جائے گا۔ جسم طہارت اور پاکیزگی کے زمرے میں نہیں آئے گا۔ جب اسلامی طریقے سے جسم پاکیزہ نہیں ہوگا تو غیر اسلامی طریقے سے کئے ہوئے غسل کے بعد نماز پڑھنے سے نماز نہ ہوگی۔

۴۔ فرائض غسل: غسل کے لیے تین باتیں فرض ہیں ان میں سے کوئی بھی رہ جائے تو غسل نہ ہوگا اور نہ ہی نہانے والا سنت مصطفیٰ ﷺ کے مطابق پاکیزہ ہوگا۔

(الف) کلی کرنا: کلی اس طرح کی جائے کہ منہ لے اندر ہر گوشے۔ ہونٹ سے حلق کی جڑ تک ہر جگہ پانی بہ جائے۔ آج کل بہت سے بے علم سمجھتے ہیں کہ تھوڑا سا پانی منہ میں لے کر اگل دینے کو کلی کہتے ہیں اگرچہ زبان کی جڑ اور حلق کے کنارے تک پانی نہ پہنچے یوں غسل نہیں ہوتا نہ اس غسل سے نماز ہوگی بلکہ فرض ہے کہ ڈاڑھوں کے نیچے گالوں کی تہہ میں دانتوں کی جڑوں یا کھڑکیوں میں اور زبان کی ہر کروٹ میں حلق کے کنارے تک ہر پوزے پر پانی بہے دانتوں کی جڑوں یا کھڑکیوں میں کوئی ایسی چیز جمی ہو جو پانی بہنے سے روکے تو اس کا پھڑانا ضروری ہے جبکہ چھڑانے میں ضرر اور حرج نہ ہو جیسے چھالیہ کے دانے گوشت کے ریزے اگر چھڑانے میں ضرر اور حرج ہو جیسے بہت پان کھانے سے دانتوں کی جڑوں میں چونا جم جاتا ہے کہ چھڑانے کے قابل نہیں ہوتا۔ یا عورتوں کے دانتوں میں مسی کی ریخیں جم جاتی ہیں اور ان کے پھیلنے میں ضرر کا اندیشہ ہے تو اس کی معافی ہے۔ (روالمختار۔

درمختار)

(ب)۔ **ناک میں پانی ڈالنا:** دونوں نکتوں کا جہاں تک نرم حصہ ہے یعنی سخت ہڈی کے شروع تک اس کا دھونا کہ پانی سونگھ کر اوپر چڑھائے۔ بال برابر جگہ بھی ڈھلنے سے نہ رہ جائے ورنہ غسل نہ ہوگا۔ ناک کے اندر کثافت (رینٹھ) جم گئی ہے تو اسے صاف کرنا چاہیے نیز ناک کے بالوں کا بھی دھونا فرض ہے۔ بلاق کا سوراخ اگر بند نہ ہو تو اس میں پانی پہنچانا ضروری ہے پھر اگر تنگ ہے تو حرکت دینا ضروری ہے ورنہ نہیں۔

(ج)۔ **تمام ظاہری بدن:** یعنی سر کے بالوں سے پاؤں کے تلووں تک جسم کے ہر حصے پر پانی بہانا ضروری ہے جب تک ایک ایک ذرے پر پانی بہتا ہوا نہ گزرے گا۔ غسل ہر گز نہ ہوگا یعنی جسم پر پانی ڈالنا ضروری ہے۔

بدن کے بہت سے ایسے حصے ہیں کہ اگر احتیاط کے ساتھ غسل میں ان کا دھیان نہ رکھا جائے تو وہاں پانی نہیں پہنچتا اور وہ سوکھا ہی رہ جاتا ہے یاد رکھو کہ اس طرح نہانے سے غسل نہیں ہوگا اور آدمی نماز پڑھنے کے قابل نہیں ہوگا۔ لہذا ضروری ہے کہ غسل کرتے وقت خاص طور پر ان چند جگہوں پر پانی پہنچانے کا دھیان رکھیں سر اور داڑھی مونچھ بھنوں کے ایک ایک بال اور بدن کے ہر ہر روکنگے کے جڑ سے نوک ڈھل جانے کا خیال رکھیں اسی طرح کان کا جو حصہ نظر آتا ہے اس کی گھراویوں اور سوراخ اسی طرح ٹھوڑی اور گلے کا جوڑ پیٹ کی بلٹیں، بغلیں، ناف کے غار، ران اور پیڑ کا جوڑ، جنکا سا، دونوں سرینوں کے ملنے کی جگہ، خسیوں کے نیچے کی جگہ، عورت کے ڈھلکے ہوئے پستان کے نیچے کا حصہ ان سب کو خیال سے پانی بہا کر دھوئیں تاکہ ہر جگہ پانی پہنچ کر بہ جائے۔

۵۔ غسل کی سنتیں: غسل کی سنتیں مندرجہ ذیل ہیں۔ (در مختار)

- ۱۔ نسل کی نیت کر کے پہلے دونوں ہاتھ گٹوں تک تیس مرتبہ دھوئیں۔
- ۲۔ پھر استنجے کی جگہ دھوئیں خواہ ناپاکی ہو یا نہ ہو۔
- ۳۔ پھر بدن پر جہاں کہیں نجاست ہو اسے دور کریں۔
- ۴۔ پھر نماز کا سا وضو کریں مگر پاؤں نہ دھوئیں۔ ہاں اگر چوکی یا تختے پر پتھر یا پکے فرش پر نہائیں تو پھر پاؤں بھی دھولیں۔
- ۵۔ پھر بدن پر تیل کی طرح پانی چھریں خصوصاً منہ، ہاتھ، پاؤں اور

- ۶۔ پھر تین مرتبہ داہنے کندھے پر پانی بہائیں۔
- ۷۔ پھر تین مرتبہ بائیں کندھے پر۔
- ۸۔ پھر تین بار سر پر اور تمام بدن پانی بہائیں اور یہاں سے ہٹ جائیں اور وضو کریں۔
- پاؤں نہیں دھوئے تھے اب دھولیں۔
- ۹۔ نہاتے وقت قبلہ رخ منہ نہ کریں۔
- ۱۰۔ تمام بدن پر ہاتھ پھیریں اور ملیں۔
- ۱۱۔ ایسی جگہ نہائیں کہ کوئی نہ دیکھے۔ عورتوں کو اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے
- ۱۲۔ کسی قسم کی بات چیت نہ کریں نہ کوئی دعا پڑھیں۔
- ۱۳۔ بیٹھ کر نہائیں اور نہانے کے بعد فوراً کپڑے پہن لیں۔
- ۱۴۔ وضو کی سنتوں اور مستجاب کا غسل میں بھی خیال رکھیں۔

۶۔ شرعی مسائل:

- ۱۔ مسئلہ: پانچ چیزیں ہیں کہ ان میں سے ایک بھی پانی جائے تو غسل فرض ہو جاتا ہے۔
 - (۱) منی کا اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ الگ ہو کر شرمگاہ سے نکلنا۔ لہذا اگر منی شہوت کے ساتھ اپنی جگہ سے جدا نہ ہوئی بلکہ بوجھ اٹھانے یا بلندی سے گرنے کے سبب نکلی یا پیشاب کے وقت یا ویسے ہی کچھ قطرے بلا شہوت نکل آئے تو ان دونوں صورتوں سے غسل فرض نہیں البتہ وضو ٹوٹ جائے گا۔
 - (۲) احتلام یعنی سوتے سے اٹھے اور بدن یا کپڑے پر تری پائے تو غسل واجب ہے اگرچہ خواب یا دن ہو ہاں اگر یقین ہے کہ منی یا ندی نہیں بلکہ پیشاب یا پسینہ ہے یا کچھ اور ہے۔ تو اگرچہ احتلام یا دن ہو اور خیال میں انزال (منی نکلنے) کی لذت ہو تو غسل واجب ہے۔ اگر منی نہ ہونے کا یقین ہے اور ندی کا شک ہے تو اگر خواب میں احتلام ہونا یا دن نہیں تو غسل نہیں اور یاد ہے تو غسل فرض ہے (رد المحتار)
 - (۳) مرد اور عورت ایک چار پائی پر سوئے اور جاگے تو بستر پر منی پائی گئی اور ان میں سے ہر ایک احتلام کا انکار ہے تو دونوں غسل کریں۔

(۳) جماع یعنی مرد کی شرمگاہ کا سر عورت کی شرمگاہ میں داخل ہونا شہوت و خواہش ہو یا نہ ہو انزال ہو یا نہ دونوں پر غسل فرض ہے اور اگر ایک بالغ ہو اور دوسرا نابالغ تو بالغ پر غسل فرض ہے اور نابالغ پر اگرچہ غسل فرض نہیں مگر غسل کا حکم دیا جائے گا۔ (بہار شریعت)

(۵) حیض سے فارغ ہونے کے بعد غسل کرنا ضروری ہے۔

(۶) نفاس کے ختم ہونے پر بھی غسل کرنا فرض ہے۔

۲۔ مسئلہ : جس پر چند غسل ہوں سب کی نیت سے ایک غسل کر لیا جائے۔ سب ادا ہو گئے اور چونکہ غسل کی نیت کی ہے تو سب کا ثواب ملے گا۔ (بہار شریعت)

۳۔ مسئلہ : عورت پر غسل فرض تھا اور ابھی غسل نہیں کیا تھا کہ حیض شروع ہو گیا تو چاہے اب نہالے یا حیض ختم ہونے کے بعد نہالے (فتاویٰ عالمگیری)

۴۔ مسئلہ : جس پر غسل فرض تھا اسے چاہیے کہ نہانے میں دیر نہ کرے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جس گھر میں جب (جس پر غسل فرض ہوتا ہے) ہو اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے اور اگر اتنی دیر کر چکا کہ نماز کا آخر وقت آ گیا تو اب فوراً نہانا فرض ہے اب دیر لگائے تو گہنکار ہوگا۔

۵۔ مسئلہ : جب اگر کھانا کھانا چاہتا ہے تو وضو کر لے یا ہاتھ منہ دھو کر کلی کرے۔ اور اگر ویسے ہی کھاپی لیا تو گناہ نہیں مگر مکروہ ہے اور محتاجی لاتا ہے اور بے نہائے یا بے وضو کے جماع کر لیا تو بھی گناہ نہیں۔ (رد المحتار)

۶۔ مسئلہ : رمضان میں اگر رات کو غسل کی حاجت ہوگئی تو بہتر یہی ہے کہ صبح صادق سے پہلے نہالے تاکہ روزے کا ہر حصہ ناپاکی سے خالی ہو اور غسل نہ کیا تو بھی روزے میں کچھ نقصان نہیں مگر مناسب یہ ہے یہ غرغره اور ناک میں پانی چڑھانا یہ دونوں کام فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے کر لے کہ پھر روزے میں نہ ہو سکیں گے اور اگر نہانے میں اتنی دیر لگا دی کہ دن نکل آیا اور نماز قضا کر دی تو یہ عام دنوں میں بھی گناہ ہے اور رمضان میں بہت زیادہ گناہ ہے۔ (فتاویٰ عالمگیری)

۷۔ مسئلہ : جس کو نہانے کی ضرورت ہو اس کو مسجد میں جانا قرآن مجید کو چھونا یا بے چھونے دیکھ کر یا زبانی پڑھنا یا ایسا تعویذ چھونا جس پر آیت لکھی ہوئی ہے حرام ہے۔ (بہار شریعت)

(شریعت)

۸۔ **مسئلہ** قرآن جزدان میں ہو تو جزدان پر ہاتھ لگانے میں حرج نہیں۔ یوں ہی رومال وغیرہ یا اسے کپڑے سے پکڑنا جو نہ اپنے جسم پر ہے نہ قرآن پر چڑھا ہو تو جائز ہے کرتے کی آستین دوپٹے کے آنچل یا جو چادر چڑھی ہوئی ہے اس کے کونے سے چھونا حرام ہے۔ (درمختار)

۹۔ **مسئلہ** درود شریف اور دعاؤں کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں مگر بہتر ہے کہ وضو یا کلی کر کے پڑھیں اور نہا کر پڑھنا زیادہ افضل ہے۔

۱۰۔ **مسئلہ** اذان کا جواب دینا جائز ہے۔

۱۱۔ **مسئلہ** قرآن کی کوئی آیت دعا کی نیت سے پڑھی جیسے شکر کے موقع پر الحمد للہ رب العالمین یا بڑی خبر سن کر ان اللہ ولنا الیہ راجعون کہا تو کچھ حرج نہیں۔ (دوالمختار)

۱۲۔ **مسئلہ** جس کا وضو نہ ہو اسے بھی قرآن کریم یا اس کی کسی آیت کو چھونا حرام ہے ہاں بے چھوے دیکھ کر یا زبانی پڑھے تو کوئی حرج نہیں۔ (درمختار)

۷۔ **غسل کے پانی کے مسائل** : غسل میں استعمال کرنے والے پانی کے متعلق مندرجہ ذیل مسائل ہیں :-

۱۔ **مسئلہ** : مینہ ندی تالے، چشمے، سمندر، دریا، کنویں اور برف، اولے کے پانی سے وضو غسل جائز ہے۔

۲۔ **مسئلہ** : جس پانی میں کوئی چیز مل گئی ہو کہ بول چال میں اسے پانی نہ کہیں بلکہ اس کا کوئی اور نام ہو گیا جیسے شربت یا پانی میں کوئی ایسی چیز ڈال کر پکائیں جس سے مقصود میل کاٹنا نہ ہو جیسے شوربا، چائے، گلاب اور عرق تو اس سے وضو اور غسل جائز نہیں۔ (نور الایضاع)

۳۔ **مسئلہ** : اگر ایسی چیز ملائیں یا ملا کر پکائیں جس سے مقصود میل کاٹنا ہو جیسے صابن یا پیری کے پتے، تو وضو جائز ہے ہاں اگر پانی گاڑھا ہو جائے تو وضو غسل جائز نہیں (درمختار وغیرہ) اور اگر کوئی پاک چیز مل جائے جس سے پانی کارنگ یا مزہ یا بو بدل گئی مگر اس کا پتلا پن نہ گیا جیسے ریتا چونا یا تھوڑی سی زعفران کارنگ اتنا آجائے کہ کپڑا رنگنے کے قابل ہو جائے تو وضو غسل جائز نہیں۔ (بہار شریعت)

۴۔ **مسئلہ** : بہت پانی کہ اس میں تنکا ڈال دیں تو بہا لے جائے پاک ہے اور پاک کرنے

والا ہے۔ نجاست پڑنے سے ناپاک نہ ہوگا ہاں اگر نجس چیز سے پانی کارنگ یا یو یا مزہ بدل گیا تو ناپاک ہو گیا۔ اب یہ پانی اس وقت پاک ہوگا کہ نجاست نیچے بیٹھ جائے اور اس کا رنگ یو مزہ ٹھیک ہو جائیں۔ (روح مختار)

۵۔ مسئلہ: مینہ برستے میں چھت کے پرنا لے سے جو مینہ کا پانی گرے وہ پاک ہے اگر چھت پر جا بجا نجاست پڑی ہو جب تک کہ نجاست سے پانی کا کوئی وصف رنگ مزہ یو نہ بدلے۔ اور اگر مینہ رک گیا اور پانی کا بہنا موقوف ہو گیا تو اب چھت پر ٹھہرا ہوا پانی اگر چھت سے نیچے ناپاک ہے۔ (عالمگیری)

۶۔ مسئلہ: وہ بڑے حوض جو عموماً مسجدوں میں بنائے جاتے ہیں یا جنگل کے وہ گڑے اور تالاب جو وہ درودہ ہوں (یعنی جس کی لبائی چوڑائی سو ہاتھ ہو) ان کا پانی بہتے پانی کے حکم میں ہے نجاست پڑنے سے ناپاک نہ ہوگا جب تک کہ نجاست سے رنگ یا یو یا مزہ نہ بدلے۔ (بہار شریعت)

۷۔ مسئلہ: کسی درخت یا پھل کے نچوڑے ہوئے پانی سے وضو و غسل جائز نہیں جیسے کیلے کا پانی یا انگور و انار اور تربوز کا پانی اور گنے کا رس۔ (فتاویٰ عالمگیری)

۸۔ مسئلہ: جو پانی گرم ملک میں گرم موسم میں سونے چاندی کے علاوہ کسی اور دھات کے برتن میں دھوپ میں گرم ہو گیا تو جب تک گرم ہے اسے کسی طرح استعمال نہ کرنا چاہئے۔ یہاں تک کہ اگر اس سے کپڑا بھیک گیا تو جب تک ٹھنڈا نہ ہو جائے اس کے پہننے سے بچیں کہ اس پانی کے استعمال میں برص (سفید داغ) کا اندیشہ ہے۔ مگر پھر بھی اگر وضو یا غسل کر لیا تو ہو جائے گا۔ (بہار شریعت)

۹۔ مسئلہ: جو پانی وضو یا غسل کرنے میں بدن سے گرا وہ پاک ہے مگر اس سے وضو و غسل جائز نہیں۔ وضو یا غسل کرتے وقت پانی کے قطرے لوٹے یا گھڑے میں ٹپکیں تو اگر اچھا پانی زیادہ ہے تو یہ وضو اور غسل کے کام کا ہے ورنہ سب بے کار ہوگا۔ (بہار شریعت)

۱۰۔ مسئلہ: نابالغ کا بھرا ہوا پانی کہ شرعاً اس کی ملک ہو جائے اسے پینا یا اس سے وضو و غسل کرنا یا کسی اور کام میں لانا۔ اس کے ماں باپ یا جس کا وہ نوکر ہے اس کے سوا کسی اور کو جائز نہیں۔ اگرچہ وہ اچھا بہت بھی ہے اور اگر وضو و غسل کر لیا جائے گا۔ مگر

گنہگار ہوگا۔ یہاں سے استادوں اور استانیوں کو سبق لینا چاہیے وہ اکثر نابالغوں سے مل یا کنویں سے پانی بھرا کر اپنے کام میں لایا کرتے ہیں اس طرح بالغ کا بھرا ہوا پانی بغیر اجازت استعمال کرنا بھی حرام ہے۔

۱۱۔ **مسئلہ:** بچے نے پانی میں ہاتھ ڈال دیا تو اگر معلوم ہے کہ اس کے ہاتھ پر نجاست تھی تو ظاہر ہے کہ پانی نجس ہو گیا۔ ورنہ نجس نہ ہو مگر دوسرے پانی سے وضو کرنا بہتر ہے۔ (بہار شریعت)

۲۔ تیمم

تیمم شرعی طور پر اس قصد کو کہتے ہیں جو پاک کرنے والی مٹی وغیرہ کے لئے طہارت حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔

۱۔ **حکم خداوندی:** تیمم کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ یہ ہے :-

اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی رفع حاجت سے فارغ ہو کر آیا یا تم نے عورتوں سے صحبت کی ہو اور پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی کا قصد کرو اپنے منہ اور ہاتھوں کا اس سے مسح کر لو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں تکلیف دینا نہیں چاہتا بلکہ تم کو پاک کرنا چاہتا ہے تم پر اپنی نعمت پوری کرے تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ (پہلے مادہ: ۶)

وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَعَسْتُمْ مِنَ الْمَاءِ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝

۲۔ **احادیث:** تیمم کے بارے میں احادیث مصطفیٰ ﷺ مندرجہ ذیل ہیں:

۱۔ **حدیث:** حضرت عماد قمر ماتے ہیں کہ ایک شخص حضرت عمر بن خطاب کی خدمت میں آیا اور بولا کہ میں جنبی ہو جاتا ہوں اور پانی نہیں پاتا۔ تب حضرت عماد نے عرض کیا کہ اے امیر المؤمنین کیا آپ کو یاد نہیں کہ ہم اور آپ سفر میں تھے آپ نے تو نماز نہ پڑھی اور میں جب لوٹا پھر نماز پڑھ لی۔ پھر میں نے یہ حضور انور ﷺ سے عرض کیا تو فرمایا کہ تم کو یہ کافی تھا۔ پھر نبی اکرم ﷺ نے اپنے دونوں مبارک ہاتھ زمین پر مارے اور ان میں پھونکا پھر انھیں منہ اور ہاتھ پر پھیر لیا (بخاری) اور مسلم میں اسی کی مثل ہے اس میں یہ بھی ہے کہ تمہیں یہ کافی تھا

کہ ہاتھوں کو زمین پر مارتے پھر پھونک لیتے۔ پھر انھیں اپنے منہ اور ہاتھوں پر پھیر لیتے۔

۲۔ **حدیث:** حضرت حذیفہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ہم کو دوسرے لوگوں پر تین چیزوں سے بزرگی دی گئی ہماری صفیں فرشتوں کی طرح کی گئیں۔ ہمارے لیے ساری زمین پر مسجد بنا دی گئی اور جب پانی نہ ملا تو اس کی مٹی پاک کرنے والی کر دی گئی۔ (مسلم شریف)

۳۔ **حدیث:** حضرت عمرانؓ فرماتے ہیں کہ ہم حضور ﷺ کے ساتھ سفر میں تھے کہ آپؐ نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو ایک شخص کو دیکھا جو الگ تھا قوم کے ساتھ نماز نہ پڑھی۔ فرمایا فلاں! تجھے قوم کے ساتھ نماز پڑھنے سے کس نے روکا۔ عرض کیا مجھے جنابت پہنچی اور پانی نہیں ہے تو فرمایا تیرے لئے مٹی ہے وہ تجھے کافی ہے۔ (بخاری)

۳۔ **ارکان تمیم:** تیمم کے ارکان یہ ہیں:

(۱) ایک ضرب لگا کر منہ پر مسح کرے۔

(۲) دوسری ضرب لگا کر ہاتھوں پر کہیوں سمیت مسح کرے کوئی جگہ مسح سے خالی نہ چھوڑے۔

۴۔ **تمیم کی سنتیں:** تیمم کی آٹھ سنتیں ہیں:

(۱) کف دست کو پاک مٹی پر مارنا

(۲) ہتھیلیوں کو مٹی پر مار کر اپنی طرف کھینچنا۔

(۳) اس کے بعد ہتھیلیوں کو ذرا پیچھے ہٹانا۔

(۴) ہاتھوں کو جھاڑنا۔

(۵) بسم اللہ پڑھنا۔

(۶) مٹی پر ہاتھ رکھنے کے وقت انگلیوں کو کشادہ رکھنا۔

(۷) ترتیب یعنی اول منہ پر مسح کرنا اور پھر ہاتھوں پر۔

(۸) پے در پے مسح کرنا توقف نہ کرنا۔

۵۔ **شرائط تمیم:** تیمم کرنے والا مسلمان ہو، تہمت بھی کہے، تین یا زائد انگلیوں سے

مسح کرنے، مسح پاک مٹی یا اس چیز پر ہو جو مٹی کی جنس سے ہے۔ مٹی وغیرہ صرف پاک ہی نہ ہو بلکہ پاک کرنے والی بھی ہو پانی موجود نہ ہو یا بیماری ہو یا اس بات کا خوف ہو کہ اگر پانی استعمال کیا جائے گا تو ہلاکت واقع ہو جائے گی یا کم از کم بیماری میں اضافہ ہو جائے گا۔

۶۔ تیمم کرنے کا طریقہ: پہلے دونوں ہاتھ پاک مٹی پر مار کر پورے چہرے کا مسح کرنے کوئی حصہ باقی نہ رہے اور دوسری مرتبہ ہاتھ مار کر بائیں ہاتھ کی انگلیاں اور ہتھیلی کا کچھ حصہ دائیں ہاتھ کی چھنگلی کے پورے نیچے رکھ کر سیدھے ہاتھ کے بیرونی حصہ پر کھینچتا ہوا انگلیوں کے سروں تک پہنچائے اور بائیں ہاتھ کا بھی اسی طرح مسح کرے۔

۷۔ تیمم کرنے کی نیت: اگر جنابت والا آدمی جنابت دور کرنے اور نماز پڑھنے کی نیت کرتا ہے تو یہ نیت کرے۔ **نَوَيْتُ أَنْ أَتَيْمَّمَ لِرَفْعِ الْجَنَابَةِ وَابْتِيَا حَتَّى الصَّلَاةِ**

اگر مسجد میں داخل ہونے کی نیت ہو تو کہے۔ **نَوَيْتُ أَنْ أَتَيْمَّمَ لِدُخُولِ الْمَسْجِدِ**

اگر قرآن کو ہاتھ لگانے کی نیت ہو تو یہ کہے۔ **نَوَيْتُ أَنْ أَتَيْمَّمَ لِمَسِّ الْقُرْآنِ**

اگر وضو آدمی حدث دور کرنے اور نماز پڑھنے کی نیت کرے تو یہ کہے **نَوَيْتُ أَنْ أَتَيْمَّمَ لِرَفْعِ الْحَدَثِ وَابْتِيَا حَتَّى الصَّلَاةِ**

۸۔ تیمم کن اشیاء سے جائز ہے: مٹی پڑ پتھر پڑ چونہ پڑ گیرا اور ملتان مٹی پڑ سرمہ ہڑ تال اور گندھک پڑ یا قوت زمر۔

۹۔ کن حضرات کو تیمم کرنا جائز ہے:

(۱)۔ اگر پانی نہ مل سکے یا ملے کہ وہ وضو کے لیے کافی نہ ہو تو تیمم جائز ہے۔

(۲)۔ پانی کے استعمال سے بیماری پیدا ہونے یا بیماری میں اضافہ ہونے کا خوف ہو تو تیمم جائز ہے۔

(۳)۔ پانی لینے کے لیے عورت جائے تو اس کو کسی بدچلن مرد کا خوف ہو تو حفظ آبرو کے لیے تیمم جائز ہے۔

(۴)۔ مقرض مفلس ہو اور پانی کے لیے جاتا ہے تو قرض خواہ کا خوف ہے کہ کہیں قید نہ کرے۔

(۵)۔ کوئی سانپ بھیڑیا۔ شیر وغیرہ ورنہ یا کوئی اور دشمن ہو کہ پانی کے لیے جاتا ہے تو جان کا

خوف ہے لہذا تیمم جائز ہے۔

اگر نجاست حقیقی بدن پر یا کپڑے پر اتنی لگی ہے کہ نماز نہیں پڑھ سکتا اور پانی صرف اتنا ہے کہ یا تو وضو کرے یا نجاست دھو ڈالے تو کپڑے اور بدن کو دھو ڈالنا چاہیے اور وضو کی بجائے تیمم کافی ہے اسی طرح اگر خود دوسرا آدمی سخت پیاسا ہوا اور پانی زائد نہ ہو تو پانی سے پیاس بجھائے اور تیمم کر لے۔

۱۰۔ **تیمم توڑنے والی چیزیں:** جو چیزیں ناقص وضو ہیں انہی سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے اور اس کے علاوہ اگر پانی کے استعمال پر قدرت ہو جائے تب بھی تیمم جاتا رہتا ہے۔

۱۱۔ تیمم سے جو عبادات کی جا سکتی ہے:

(۱)۔ اگر بد چلن آدمی یا قرض خواہ کی وجہ سے خود بخود خوف پیدا ہو اور تیمم کر کے نماز پڑھ لی ہو تو رفع خوف کے بعد اس نماز کو دوبارہ پڑھے اور ان دونوں اشخاص کے خوف دلانے کی وجہ سے خوف پیدا ہوا ہے تو رفع خوف کے بعد نماز کو مکرر پڑھنا ضروری نہیں۔

(۲)۔ اگر کسی نے قرآن پڑھنے کے لیے یا قبرستان میں جانے کے لیے یا دفن میت کے لیے یا اذان دینے کے لیے یا مسجد میں داخل ہونے کے لیے تیمم کیا تو اس سے فرض نماز ادا نہیں کر سکتا۔ (عالمگیری)

(۳)۔ اگر سجدہ تلاوت کے لیے یا نماز جنازہ کے لیے تیمم کیا تو اس سے فرض نماز ادا کر سکتا ہے۔

(۴)۔ اگر جنازہ کی نماز فوت ہو جانے کا اندیشہ ہو اور یہ شخص میت کا والی بھی نہ ہو تو باوجود پانی ہونے کے نماز جنازہ پڑھنی روا ہے خواہ بیماری ہو یا تندرست چھٹی ہو یا خائفہ اسی طرح کسوف خسوف اور عیدیں کی نماز کے فوت ہو جانے کا اندیشہ اگر ہو تو باوجود تندرست ہونے اور پانی موجود ہونے کے آدمی تیمم کر کے پڑھ سکتا ہے کیونکہ یہ نمازیں اگر فوت ہو جائیں تو پھر نہ ان کی قضا ہے نہ ان کے قائم مقام دوسری نماز ہو سکتی ہے۔

(۵)۔ سجدہ تلاوت کے اگر فوت ہو جانے کا اندیشہ ہو تو تیمم کر کے ادا نہیں کر سکتا وضو کرنا لازم ہے۔

(۶)۔ جمعہ کی نماز بھی تیمم سے ادا نہیں کر سکتا کیونکہ اگر جمعہ کی نماز فوت ہو جائیگی تو ظہر کی نماز

اس کی قائم مقام ہو سکتی ہے۔

(۷)۔ انسان کو جب تک پانی قدرت حاصل نہ ہو ایک ہی تیمم سے مختلف اوقات میں نمازیں ادا کر سکتا ہے مثلاً فجر کو پانی نہ ملا ہو اور اس نے تیمم کر کے پڑھ لی تو اگر پورے دن بھر پانی نہ ملے اور اس کو کوئی حدث یا کوئی امر ناقض وضو نہ پیدا ہو تو تیمم سے دن بھر کی نمازیں پڑھ سکتا ہے۔

(۸)۔ اگر کوئی شخص مجبور ہو اور تیمم خود نہ کر سکتا ہو تو دوسرا شخص اس کو تیمم کر سکتا ہے مگر نیت اسی پر ہے تیمم کرانے والے پر نیت کرنی لازم نہیں ہے۔

(۹)۔ اگر کسی کافر نے اسلام لانے سے قبل تیمم کیا تو اسلام کے بعد اسی تیمم سے نماز ادا نہیں کر سکتا ہاں اگر اسلام لانے سے پہلے وضو کیا ہے تو اسلام کے بعد اسی وضو سے نماز پڑھ سکتا ہے وجہ فرق یہ ہے کہ تیمم میں نیت مشروط ہے وضو میں نیت شرط نہیں اور کافر کی نیت بحالت کفر صحیح نہیں کیونکہ وہ مکلف ہی نہیں ہے حضرت امام ابوحنیفہ اور امام محمد کا یہی قول ہے اور اس پر فتول ہے۔

(۱۰)۔ غسل و وضو دونوں کا تیمم ایک ہی طرح سے ہوتا ہے۔

(۱۱)۔ ایک مٹی سے ایک آدمی کئی مرتبہ یا ایک جماعت مل کر تیمم کر سکتی ہیں یعنی آدمی ایک مٹی سے تیمم کر سکتے ہیں تیمم کرنے سے مٹی مستعمل نہیں ہوتی پانی مستعمل ہو جاتا ہے۔

۱۲۔ شرعی مسائل: تیمم کے متعلق شرعی مسائل حسب ذیل ہیں:

۱۔ **مسئلہ:** اگر کنویں پر رسی ڈول نہ ہو اور پانی نکالنے کی اور صورت بھی ممکن نہ ہو تو تیمم درست ہے۔

۲۔ **مسئلہ:** اگر ڈول رسی نہ ہو اور کپڑا پاس موجود نہ ہو کہ اس کو کنویں میں لٹکا کر بھگو کر نچوڑ کر وضو کر سکتا ہے لیکن کپڑا بہت بیش قیمت ہے کہ بھگنے سے خراب ہو جائیگا تو تیمم درست ہے۔

۳۔ **مسئلہ:** اگر ایک اجنبی آدمی کے پاس کوئی جانور ہو اور صرف اس قدر پانی ہو کہ یا تو غسل کر سکتا ہے یا جانور کو پلا سکتا ہے اور برتن ایسا موجود ہے کہ اس میں دھوون جمع کر سکتا ہے تو اس کو نہا کر دھوون جمع کر کے جانور کو پلانا چاہئے ورنہ پانی جانور کو پلا دے اور خود تیمم

کر لے۔

۴۔ **مسئلہ:** ایک مسافر کے پاس کوئی آدمی تھا جس سے پانی کے متعلق دریافت کر سکتا ہے لیکن اس نے بغیر دریافت کیے تیمم کر کے نماز پڑھ لی اور نماز کے بعد اس سے دریافت کیا اس نے پاس ہی پانی کا پتہ بتا دیا تو نماز باطل ہو گئی دوبارہ پڑھی جائے۔ ہاں اگر دریافت کر لیتا اور وہ شخص نہ بتاتا اور یہ تیمم کر کے نماز پڑھ لیتا اور بعد میں پانی کا پتہ بتا دیتا تو نماز باطل نہ ہوتی۔

۵۔ **مسئلہ:** اگر مسافر بغیر پانی تلاش کیے تیمم کر کے نماز پڑھ لے گا تو نماز ہو جائے گی مگر یہ گناہگار ہوگا کیونکہ اس پر تیمم سے پہلے پانی کی تلاش واجب ہے اور ترک واجب سے آدمی گناہگار ہوتا ہے۔ اگر پانی کے ملنے کی امید ہو تو نماز اخیر وقت تک نہ پڑھنی اور پانی کا انتظار کرنا مستحب ہے ہاں اگر پانی کی امید نہ ہو تو نماز میں تاخیر نہ کرنی چاہیے۔

۶۔ **مسئلہ:** ہاتھ پاؤں کٹا ہو آدمی مجبور و معذور ہے طہارت کا حکم اس سے ساقط ہے نہ اس کو وضو کرنا ضروری ہے نہ تیمم۔

۷۔ **مسئلہ:** سفر میں ایک مرد ایک عورت اور ایک میت ہے مرد جب ہے اور عورت پر غسل واجب ہے اور پانی صرف اتنا ہے کہ ایک غسل کے لیے کافی ہو سکتا ہے تو جس کا پانی ہے وہ غسل کر لے وہی اولیٰ ہے اگر پانی مشترک ہے تو میت کو غسل دینا چاہیے اور دونوں مرد و عورت تیمم کر لیں اور اگر پانی کسی کی ملک نہیں مباح ہے تو جنبی کو غسل کرنا چاہئے حائضہ تیمم کر لے۔

۸۔ **مسئلہ:** اگر کوئی شخص آبادی سے ایک میل دور نکل گیا اور ایک میل تک کہیں پانی نہ ہو تو تیمم درست ہے خواہ مسافر ہو یا مسافر نہ ہو یونہی تفریح یا کسی ضرورت سے گیا ہو۔

۹۔ **مسئلہ:** اگر پانی اتنا مل سکے کہ ایک ایک دفعہ منہ اور دونوں ہاتھ پاؤں دھو سکتا ہے تو تیمم درست نہیں ایک ایک دفعہ ان چیزوں کو دھولے۔ سر کا مسح کر لے اور باقی کلی وغیرہ نہ کرے۔

۱۰۔ **مسئلہ:** عورتوں کے لیے پردہ کی وجہ سے یا مردوں کی شرم سے پانی لینے نہ جانا اور بیٹھے بیٹھے تیمم کر لینا درست نہیں ایسا پردہ جس سے شریعت کا کوئی حکم چھوٹ جائے ناجائز اور

حرام ہے۔ برقع اوڑھ کر یا چادر لپیٹ کر پانی لینے چلی جائے ہاں مردوں کے سامنے بیٹھ کر وضو نہ کرے اور لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ کھولے۔

۱۱۔ **مسئلہ:** اگر پانی مؤل بکتا ہے اور دام نہیں ہیں تو تیمم درست ہے اگر دام بھی ہیں لیکن کرایہ بھاڑہ اور راستہ کے مصارف سے زائد نہیں ہیں تو تیمم درست ہے اگر مصارف سے زائد بھی ہیں مگر پانی اتنا گراں ملتا ہے کہ اتنی قیمت پر کوئی دوسرا نہیں لے سکتا تو تیمم درست ہے البتہ مصارف سے زائد دام موجود ہوں اور پانی بھی مروجہ قیمت پر ملے تو خریدنا واجب ہے اور تیمم درست نہیں۔

۱۲۔ **مسئلہ:** اگر کہیں اتنی سردی پڑتی ہے اور برف جتنی ہے کہ نہانے سے مر جانے یا بیمار ہو جانے کا خوف ہے اور کوئی گرم کپڑا بھی نہیں کہ نہا کر اس کو لپیٹ لیا جائے تو تیمم درست ہے۔

۱۳۔ **مسئلہ:** اگر کسی کو آدھے سے زیادہ بدن پر زخم ہوں یا چچک نکلی ہو تو نہانا واجب نہیں تیمم درست ہے۔

۱۴۔ **مسئلہ:** اگر میدان میں نماز پڑھ لی اور پانی وہاں سے قریب ہی تھا لیکن اس کو خبر نہ مل سکی تو تیمم و نماز دونوں درست ہیں۔

۱۵۔ **مسئلہ:** اگر زمزمی میں زمزم کا پانی بھرا ہے تو کھول کر پانی نکال کر وضو کرے تیمم درست نہیں۔

۱۶۔ **مسئلہ:** اگر کسی کے پاس پانی تو ہے لیکن راستہ ایسا خراب ہے کہ کہیں آگے پانی مل سکنے کی امید نہ ہو اور راستہ میں پیاس کے مارے تکلیف و ہلاکت کا خوف ہو تو وضو نہ کرے تیمم کر لینا درست ہے۔

۱۷۔ **مسئلہ:** اگر غسل کرنا نقصان کرتا ہو اور وضو کرنا نقصان نہ دیتا ہو تو غسل کی بجائے تیمم کر لے اور وضو کی بجائے وضو۔

۱۸۔ **مسئلہ:** جو چیز نہ تو آگ میں جلے نہ گلے وہ چیز مٹی کی قسم سے شمار ہوگی اس پر تیمم درست ہے اور جو چیز جل کر راکھ ہو جائے یا پکھل جائے اس پر تیمم درست نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اناج پر سونے چاندی رنگ لوہے وغیرہ پر تیمم درست نہیں ہاں اگر ان اشیاء پر غبار اور

خاک ہو تو تیمم درست ہے۔

۱۹۔ **مسئلہ:** تانبے کے برتن اور تکیے گدے تو شک لُحاف وغیرہ پر تیمم کرنا درست نہیں ہاں اگر ان پر اتنا غبار ہو کہ ہاتھ مارنے سے غبار اڑتا ہو اور ہتھیلیوں میں خواب اچھی طرح لگ جاتا ہو تو تیمم درست ہے اور اگر ذرا ذرا اڑتا ہو تو تیمم درست نہیں۔

۲۰۔ **مسئلہ:** مٹی کے گھڑے پر تیمم درست ہے خواہ ان میں پانی بھرا ہو یا نہ ہو البتہ اگر ان پر روغن اور لک کیا ہو تو ان پر تیمم درست نہیں ہے۔

۲۱۔ **مسئلہ:** اگر پتھر پانی سے بھی ڈھلا ہوا ہو اور گرد کا نام نشان نہ ہو تو تب بھی اس پر تیمم کرنا درست ہے کیونکہ پتھر خود مٹی کی جنس سے ہے اس طرح پکی اینٹ پر بھی تیمم درست ہے چائے اس پر گرد ہو یا نہ ہو۔

۲۲۔ **مسئلہ:** کپچڑ سے تیمم کرنا اگرچہ درست ہے مگر مناسب نہیں ہے اگر کپچڑ کے سوا کوئی اور چیز نہ ملے تو یہ ترکیب کرے کہ کپچڑ کو کپڑے میں بھر کر خشک کرے اور اس پر تیمم کر لے ہاں اگر نماز کا وقت ہی نکلا جاتا ہے تو جس طرح بن پڑے کپچڑ سے ہی تیمم کر لے۔

۲۳۔ **مسئلہ:** اگر یہ یقینی معلوم ہو کہ زمین پر پیشاب پڑا تھا اور وہ دھوپ سے خشک ہو گیا جس کا نشان باقی نہ رہا ہو تو زمین پاک ہوگی نماز اس پر جائز ہے مگر تیمم درست نہیں اور اگر یقینی نہ معلوم ہو تو وہ ہم نہ کرے تیمم کر لے۔

۲۴۔ **مسئلہ:** اگر کسی کو دکھانے اور سکھانے کے لیے تیمم کیا اور اپنے تیمم کی نیت نہ کی تو اپنا تیمم نہ ہوگا۔

۲۵۔ **مسئلہ:** تیمم کی نیت صرف اتنی کافی ہے کہ میں طہارت حاصل کرنے کے لیے تیمم کرتا ہوں یا نماز کے لیے یہ ضروری نہیں کہ غسل کی یا وضو کی نیت کرے اگر کریگا تو بہتر ہے۔

۲۶۔ **مسئلہ:** جو تیمم نماز کے لیے کیا ہے اس سے قرآن پڑھنا۔ چھونا قبرستان اور مسجدوں میں جانا سب کچھ درست ہے۔

۲۷۔ **مسئلہ:** اگر کسی کو نہانے کی ضرورت ہو تو وضو اور غسل کا جدا جدا تیمم کرنے کی ضرورت نہیں صرف غسل کی نیت سے تیمم کر لے یا مطلق طہارت کی نیت سے بس کافی ہے وضو کا تیمم بھی ہو جائے گا۔

۲۸۔ **مسئلہ:** اگر پانی ایک میل سے کم دور ہو لیکن وقت اتنا تنگ ہو کہ اگر پانی لینے جاتا ہے تو نماز قضا ہوئی جاتی ہے تب بھی تیمم درست نہیں پانی لا کر وضو کر کے قضا نماز پڑھے۔

۲۹۔ **مسئلہ:** اگر پانی پاس ہے لیکن یہ ڈر ہے کہ اگر پانی لینے جائے گا تو ریل چھوٹ جائے گی تو تیمم درست ہے۔

۳۰۔ **مسئلہ:** اسباب کے ساتھ پانی بندھا تھا لیکن یاد نہیں رہا اور تیمم کر کے نماز پڑھ لی بعد کو یاد آیا تو نماز دُہرائی لازم نہیں۔

۳۱۔ **مسئلہ:** اگر وضو کا تیمم ہے تو وضو کے موافق پانی ملنے سے تیمم نہ ٹوٹے گا اور غسل کا تیمم ہے تو غسل کے لائق پانی ملنے سے تیمم ٹوٹے گا کم پانی ملنے سے تیمم نہ ٹوٹے گا۔

۳۲۔ **مسئلہ:** اگر راستہ میں پانی ملا لیکن ریل چھوٹ جانے کے خوف سے نہ اتر سکا تو تیمم نہ ٹوٹے گا۔

۳۳۔ **مسئلہ:** اگر نہانے کی ضرورت تھی اس لیے غسل کیا لیکن ذرا سا بدن سوکھا رہ گیا اور پانی ختم ہو گیا تو ابھی غسل مکمل نہیں ہوا۔ تیمم کر لینا چاہیے۔ پھر جہاں کہیں پانی ملے تو خشک جگہ کو دھو لینا چاہیے مگر غسل کرنے کی ضرورت نہیں۔

۳۴۔ **مسئلہ:** اگر ایسے وقت میں پانی ملا کہ وضو بھی ٹوٹ گیا ہے کہ اول اس سوکھی جگہ کو دھولے بعد کو وضو کرے۔ اگر وضو کے لیے پانی کافی نہ ہو تو تیمم کر لے۔

۵۔ احکام نفاس

بچہ پیدا ہونے کے بعد جو خون عورت کو آتا ہے اس نفاس کہا جاتا ہے جس کے متعلق شرعی مسائل مندرجہ ذیل ہیں :

۱۔ **مسئلہ:** نفاس میں کمی کی جانب کوئی مدت مقرر نہیں آدھے سے زیادہ بچہ نکلنے کے بعد ایک آن بھی خون آیا تو وہ نفاس ہے اور زیادہ سے زیادہ اس کا زمانہ چالیس دن رات ہے اور نفاس رات کا شمار اس وقت سے ہوگا آدھے سے زیادہ بچہ نکل آیا اور اس بیان میں جہاں بچہ پیدا ہونے کا لفظ آئے گا اس کا مطلب آدھے سے زیادہ باہر آ جانا ہے (عالمگیری)

۲۔ **مسئلہ:** حمل ساقط ہونے سے پہلے کچھ خون آیا کچھ بعد کو تو پہلے والا استحاضہ ہے بعد

والا نفاس یہ اس صورت میں ہے کہ جب کوئی عضو بن چکا ہو ورنہ پہلے والا اگر حیض ہو سکتا ہے تو حیض ہے ورنہ استحاضہ جیسا کہ اوپر ابھی گزرا۔ (بہار شریعت)

۳۔ مسئلہ: حمل ساقط ہو گیا اور اس کا کوئی عضو بن چکا ہے جیسے پاؤں۔ ہاتھ انگلیاں تو خون نفاس ہے ورنہ اگر تین دن رات تک رہا اور اس سے پہلے پندرہ دن پاک رہنے کا زمانہ گزر چکا ہے تو حیض ہے اور اگر تین دن سے پہلے ہی بند ہو گیا یا ابھی پورے پندرہ دن طہارت کے نہیں گزرے ہیں تو استحاضہ ہے (ردالمحتار)

۴۔ مسئلہ: حمل ساقط ہوا اور یہ معلوم نہیں کہ کوئی عضو بنا تھا یا نہیں نہ یاد ہے کہ حمل کتنے دن کا تھا کہ اسی سے عضو کا بننا نہ بنا معلوم ہو جاتا یعنی ۴۰ دن (چار ماہ) ہو گئے ہیں تو عضو بن جانا قرار دیا جائے گا اور بعد اسقاط کے خون ہمیشہ کو جاری ہو گیا تو اسے حیض کے حکم میں سمجھے کہ حیض کی جو عادت تھی اس کے گزرنے کے بعد نہا کر نماز شرع کر دے اور عادت نہ تھی تو دس دن بعد۔

۵۔ مسئلہ: بچہ پیدا ہونے سے پیشتر جو خون آیا نفاس نہیں بلکہ استحاضہ ہے اگرچہ آدھا باہر آ گیا ہو۔ اگر پیٹ سے بچہ کاٹ کر نکالا گیا تو اس کے آدھے سے زیادہ نکالنے کے بعد نفاس ہے۔

۶۔ مسئلہ: کسی عورت کو چالیس دن سے زیادہ خون آیا تو اگر اس کے پہلی بار بچہ پیدا ہوا ہے یا یہ یاد نہیں کہ اس سے پہلے بچہ ہونے میں کتنے دن خون آیا تھا تو چالیس دن رات نفاس ہے باقی استحاضہ۔ اور جو پہلی عادت معلوم ہو تو عادت کے دنوں تک نفاس ہے اور جتنا زیادہ ہے وہ استحاضہ۔ جیسے عادت تیس دن کی تھی اس بار پندرہالیس دن آیا تو تیس دن نفاس کے ہیں اور پندرہ دن استحاضہ کے (درمختار و المحتار)

۷۔ مسئلہ: جس عورت کے دو بچے جڑواں پیدا ہوئے یعنی دونوں کی پیدائش کے درمیان چھ مہینے سے کم زمانہ ہے تو پہلا ہی بچہ پیدا ہونے کے بعد نفاس سمجھا جائیگا پھر اگر دوسرا چالیس دن کے اندر پیدا ہوا اور خون آیا تھا تو پہلے سے چالیس دن تک نفاس ہے پھر استحاضہ اور اگر چالیس دن کے بعد پیدا ہوا تو اس پچھلے کے بعد جو خون آیا استحاضہ ہے نفاس نہیں مگر دوسرے کے پیدا ہونے کے بعد نہا کر نماز شرع کر دے (ردالمحتار)

حیض و نفاس کے شرعی مسائل

حیض و نفاس کے متعلق شرعی مسائل مندرجہ ذیل ہیں :-

۱۔ **مسئلہ :** حیض و نفاس کی حالت میں نماز پڑھنا اور روزہ رکھنا حرام ہے ان دنوں میں نمازیں معاف ہیں۔ ان کی قضا بھی نہیں البتہ روزوں کی قضا دوسرے دنوں رکھنا فرض ہے اور حیض و نفاس والی عورت کو قرآن مجید پڑھنا حرام ہے خواہ دیکھ کر پڑھے یا زبانی پڑھے۔ اس حالت میں قرآن مجید کا چھوٹا بھی حرام ہے۔ ہاں اگر جزدان میں قرآن مجید ہو تو اس جزدان کو چھونے میں کوئی حرج نہیں۔ (عالمگیری ج ۱ ص ۳۶)

۲۔ **مسئلہ :** قرآن مجید پڑھنے کے علاوہ دوسرے وظائف کلمہ شریف درود شریف وغیرہ حیض و نفاس کی حالت میں عورت بلا کراہت پڑھ سکتی ہے بلکہ مستحب ہے کہ نمازوں کے اوقات میں وضو کر کے اتنی دیر تک درود شریف اور دوسرے وظائف پڑھ لیا کرے، جتنی دیر میں نماز پڑھا کرتی تھی تاکہ عادت باقی رہے۔ (عالمگیری ج ۱ ص ۳۶)

۳۔ **مسئلہ :** حیض و نفاس کی حالت میں عورت کو مسجد میں جانا حرام ہے ہاں اگر چور یا درندے سے ڈر کر یا شدید مجبور ہو کر مسجد میں چلی گئی تو جائز ہے مگر اس کو چاہئے کہ تیمم کر کے مسجد میں جائے حیض و نفاس والی عورت اگر عید گاہ میں داخل ہو جائے تو کوئی حرج نہیں حیض و نفاس کی حالت میں اگر مسجد کے باہر رہ کر اور ہاتھ بڑھا کر مسجد سے کوئی چیز اٹھالے یا مسجد میں کوئی چیز رکھ دے تو جائز ہے حیض و نفاس والی کو خانہ کعبہ کے اندر جانا اور اس کا طواف کرنا اگرچہ مسجد حرام کے باہر سے ہو حرام ہے۔

۴۔ **مسئلہ :** حیض و نفاس کی حالت میں ہمبستری یعنی جماع حرام ہے بلکہ اس حالت میں ناف سے گھٹنے تک عورت کے بدن کو مرد اپنے کسی عضو سے نہ چھوئے کہ یہ حرام ہے ہاں البتہ ناف سے اوپر اور گھٹنے سے نیچے اس حالت میں عورت کے بدن کو چھو نا یا بوسہ لینا جائز ہے۔ (عالمگیری ج ۱ ص ۳۷)

۵۔ **مسئلہ :** حیض و نفاس کی حالت میں بیوی کو اپنے بستر پر سٹلانے میں غلبہ شہوت یا اپنے کو قابو میں نہ رکھنے کا اندیشہ ہو تو شوہر کے لیے لازم ہے کہ بیوی کو اپنے بستر پر نہ سٹلائے بلکہ اگر گمان غالب ہو کہ غلبہ شہوت پر قابو نہ رکھ سکے گا تو شوہر کو ایسی حالت میں بیوی کو اپنے

ساتھ سُلانا گناہ اور حرام ہے۔

۶۔ **مسئلہ:** حیض و نفاس کی حالت میں بیوی کے ساتھ ہمبستری کو حلال سمجھنا کفر ہے اور حرام سمجھتے ہوئے کر لیا تو سخت گناہ گار ہوا۔ اس پر توبہ کرنا فرض ہے اور اگر شروع حیض و نفاس میں اگر ایسا کر لیا تو ایک دنیا را اور اگر قریب ختم کے کیا تو نصف دینار خیرات کرنا مستحب ہے تا کہ خدا کے غضب سے امان پاوے (عالمگیری ج ۱ ص ۳۷)

۷۔ **مسئلہ:** پورے دس دن پر حیض ختم ہوا تو پاک ہوتے ہی اس سے جماع (صحبت) جائز ہے اگر چہ اب غسل نہ کیا ہو مگر مستحب یہ ہے کہ نہانے کے بعد جماع کرے اور دس دن سے کم میں پاک ہوئی تو جب غسل نہ کرے یا نماز کا وہ وقت جس میں پاک ہوئی وہ گزر نہ جائے جماع جائز نہیں اور اگر اتنا وقت نہیں تھا کہ اس میں نہا کر کپڑے پہن کر اللہ اکبر کہہ سکے تو اس کے بعد کا وقت گزر جائے یا غسل کر لے تو جماع جائز ہے ورنہ نہیں۔

۸۔ **مسئلہ:** عادت کے دن پورے ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گیا تو اگر چہ غسل کر لے جماع ناجائز ہے جب کہ عادت کے دن پورے نہ ہو جائیں مثلاً کسی کی عادت چھ دن کی تھی اور اس مرتبہ پانچ روز آیا تو اسے حکم ہے کہ نہا کر نماز شروع کر دے مگر جماع کے لیے ایک دن اور انتظار کرنا واجب ہے۔

۹۔ **مسئلہ:** عورت حیض سے پاک ہوئی اور پانی پر قدرت نہیں کہ غسل کرے اور غسل کا تیمم کیا تو اس سے صحبت جائز نہیں جب تک کہ اس تیمم سے نماز نہ پڑھ لے نماز پڑھنے کے بعد اگر چہ پانی پر قادر ہو غسل نہ کیا صحبت جائز ہے۔

۱۰۔ **مسئلہ:** عورت کو جائز نہیں کہ وہ اپنا حیض شوہر سے چھپائے کہ کہیں وہ نادانستہ جماع نہ کر لے۔ جیسا کہ یہ جائز نہیں کہ وہ خود حیض والی ظاہر کرے حالانکہ وہ حیض والی نہیں۔

۱۱۔ **مسئلہ:** اگر عورت نے پاکیزگی کی حالت میں نماز یا روزہ شروع کیا اور پھر درمیان میں حیض شروع ہو گیا تو اگر روزہ نمازِ نفل ہے تو دونوں کی قضا لازم ہے اور اگر فرضی ہے تو فرضی روزہ کی قضا لازم ہے۔ فرض نماز کی قضا نہیں۔ کیونکہ شروع کرنے سے قبل ہر نفل نفل ہوتا ہے اور شروع کرنے کے بعد اس کی تکمیل واجب ہو جاتی ہے۔ ہذا صورت مذکورہ میں نفل کا ادا کرنا بعد انقطاع حیض واجب ہو گیا۔ کیونکہ خود اس نے اپنے ذمہ میں لیا ہے اور فرض خدا کا

مقرر کردہ ہے لہذا خدا نے اپنا واجب معاف فرمادیا قضا لازم نہیں اور جو انسان نے خود اپنے اوپر واجب کیا ہے تو اس کی تکمیل لازم ہے اور تکمیل نہ ہو سکے تو قضا ضروری ہے یہ بات کہ فرض نماز کی قضا نہیں اور فرض روزہ کی قضا ضروری ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ فرض روزے سال بھر میں ایک ماہ کے ہوتے ہیں اور چونکہ مدت حیض کی زیادہ سے زیادہ دس دن ہوتے ہیں اس لیے سال بھر میں حیض کی وجہ سے اگر روزے قضا ہو سکتے ہیں تو زائد سے زائد دس۔ ایسی صورت میں دس روزوں کی قضا سال بھر میں کوئی مشکل بات نہیں ہے اور نماز روزانہ پانچ وقت فرض ہے اس لیے ہر ماہ کی چچاس اور سال بھر کی چھ سو نمازیں ہوتی ہے ایسی صورت میں ہر ماہ چچاس نمازوں کی قضا سخت دشوار ہے اس لیے قضا معاف ہے۔

۱۲۔ مسئلہ: حیض والی کو تین دن سے کم خون آ کر بند ہو گیا تو روزے رکھے اور وضو کر کے نماز پڑھے نہانے کی ضرورت نہیں پھر اس کے بعد اگر پندرہ دن کے اندر خون آیا تو اب نہائے اور عادت کے دن نکال کر باقی دنوں کے قضا کرے اور جس کی کوئی عادت نہیں وہ دس دن کے بعد نمازیں قضا کرے ہاں اگر عادت کے دنوں کے بعد یا بے عادت والی نے دس دن کے بعد غسل کر لیا تھا تو ان دنوں کی نمازیں ہو گئیں۔ قضا کی ضرورت نہیں اور عادت کے دنوں سے پہلے کے روزوں کی قضا کرے اور بعد کے روزے ہر حال میں ہو گئے۔

۱۳۔ مسئلہ: جس عورت کی تین دن رات کے بعد حیض بند گیا اور عادت کے دن ابھی پورے نہ ہوئے۔ یا نفاس کا خون عادت پوری ہونے سے پہلے بند ہو گیا تو بند ہونے کے بعد ہی غسل کر کے نماز پڑھنا شروع کر دے عادت کے دنوں کا انتظار نہ کرے۔

۱۴۔ مسئلہ: عادت کے دنوں سے کون زیادہ آ گیا (دن چڑھ گئے) تو حیض میں دس دن اور نفاس میں ۴۰ دن تک انتظار کرے اگر مدت کے اندر بند ہو گیا تو اب نہا دھو کر نماز پڑھے اور جو اس مدت کے بعد بھی جاری رہا تو نہائے اور عادت کے بعد باقی دنوں کی قضا کرے نماز کی بھی اور روزوں کی بھی۔

۱۵۔ مسئلہ: حیض یا نفاس عادت کے دن پورے ہونے سے پہلے بند ہو گیا تو آخر وقت مستحب تک انتظار کر کے نہا کر نماز پڑھے اور جو عادت کے دن پورے ہو چکے تو انتظار کی کچھ حاجت نہیں۔

۱۶۔ مسئلہ: حیض پورے دس دن پر اور نفاس پورے چالیس دن پر ختم ہوا اور نماز کے

وقت میں اگر اتنا بھی باقی ہو کہ اللہ اکبر کا لفظ کہے تو اس کی نماز اس پر فرض ہوگئی نہا کر اس کی قضا کرے۔ اور اگر اس سے کم میں بند ہو اور اتنا وقت ہے کہ جلدی سے نہا کر اور کپڑے پہن کر ایک بار اللہ اکبر کہہ سکتی ہے تو فرض ہوگئی قضا کرے۔ اور اتنا وقت نہ ہو تو نہیں۔

۱۷۔ **مسئلہ** : اگر پورے دس دن پر پاک ہوئی اور اتنا وقت بھی رات کا باقی نہیں کہ ایک بار اللہ اکبر کہہ لے تو اس دن کا روزہ اس پر واجب ہے اور جو کم ہیں پاک ہوئی اور اتنا وقت ہے کہ صبح صادق ہونے سے پہلے نہا کر کپڑے پہن کر اللہ اکبر کہہ سکتی ہے تو روزہ فرض ہے۔ اگر نہالے تو بہتر ورنہ بے نہائے نیت کر لے۔ اور صبح کو نہالے اور جو اتنا وقت بھی نہیں تو اس دن کا روزہ اس پر فرض نہ ہو۔ البتہ روزہ داروں کی طرح رہنا واجب ہے کوئی بات ایسی جو روزے کے خلاف ہو مثلاً کھانا پینا حرام ہے۔

۱۸۔ **مسئلہ** : نفاس کی حالت میں عورت کو زچہ خانہ سے نکلنا جائز ہے یوں ہی حیض و نفاس والی عورت کو ساتھ کھلانے اور اس کا جھوٹا کھانے میں کوئی حرج نہیں بعض جاہل عورتیں حیض و نفاس والی عورتوں کے برتن الگ کر دیتی ہیں بلکہ ان برتنوں کو اور حیض و نفاس والی عورتوں کو نجس جانتی ہیں۔ یاد رکھو کہ یہ سب ہندوؤں کی رسمیں ہیں۔ ایسی بیہودہ رسموں سے مسلمان عورتوں مردوں کو بچنا لازم ہے۔ اکثر عورتوں میں رواج ہے کہ جب تک چلہ پورہ نہ ہو جائے اگرچہ نفاس کا خون بند ہو چکا ہو وہ نہ نماز پڑھتی ہیں نہ اپنے کو نماز کے قابل سمجھتی ہیں یہ بھی محض جہالت ہے شریعت کا حکم ہے کہ جیسے ہی نفاس کا خون بند ہو اسی وقت سے نہا کر نماز شروع کر دیں اور اگر نہانے سے بیماری کا اندیشہ ہو تو تیمم کر کے نماز پڑھے۔

۶۔ احکام حیض

حیض کا عام مطلب بہنا ہے مگر حیض اس خون کو کہتے ہیں جو بالغ عورت کے رحم سے ہر ماہ نکلتا ہے اور جو خون بچے کی ولادت کے وقت خارج ہوتا ہے اسے نفاس کہتے ہیں اور جو خون کسی بیماری کی وجہ سے رحم سے خارج ہو اسے خون استحاضہ کہتے ہیں۔ حیض کے بارے میں شرعی احکامات حسب ذیل ہیں :-

۱۔ فرمان الہی

وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ

اے پیغمبر! لوگ آپ سے حیض کے بارے

أَدَىٰ ۖ فَامْتَزِلُوا الْبَسَاءَ فِي الْمَغِيضِ
وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا
تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ
أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ
وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ۝
(پ، البقرة: ۲۲۲)

میں پوچھتے ہیں کہہ دیجئے وہ گندگی ہے تو حیض کے دنوں میں عورتوں سے الگ رہو یعنی جماع نہ کرو اور جب تک پاک نہ ہو جائیں ان کے پاس نہ جاؤ پھر جب ستھرائی کر لیں تو جہاں سے اللہ نے حکم دیا ہے ان کے پاس آؤ بیشک اللہ توبہ کرنے والوں اور ستھرائی کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔

(پ ۳۔ البقرة: ۲۲۲)

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جب لوگوں نے رسول اکرم ﷺ سے حیض کے بارے میں پوچھا کہ اس کے بارے میں کیا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مندرجہ بالا آیت نازل ہوئی جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ حیض نجاست یعنی گندگی ہے جو عورت کے جسم سے خون کی صورت میں خارج ہوتی ہے اس کے علاوہ خون حیض پیدا کرنے کی حکمت یہ بھی ہے کہ زمانہ حمل میں یہ خون بچے کی تربیت اور پرورش کا ذریعہ بنتا ہے پھر اللہ شان رزاقیت ہے کہ وہی گندہ خون بچے کی غذا بن جاتا ہے اسی وجہ سے زمانہ حمل میں عورت کو حیض آنا بند ہو جاتا ہے اور جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو وہی خون جو بچے کی غذا تھا خون نفاس کی صورت میں بوقت پیدائش خارج ہوتا ہے۔ اس کے بعد خون حیض بچے کے لیے دودھ بن جاتا ہے اس وجہ سے دودھ پلانے والی عورت کو حیض کم آتا ہے اور جب عورت حاملہ نہیں ہوتی ہے تو وہی خون ہر ماہ حیض کی صورت میں خارج ہوتا ہے لہذا اللہ کے فرمان کے مطابق جب عورت اس گندے خون کی حالت میں ہو تو اس وقت عورتوں سے کنارہ کش رہنا چاہیے۔

حدیث ۱: حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ حج کے لیے نکلے جب مقام سرف میں پہنچے مجھے حیض آیا تو میں رو رہی تھی کہ رسول اللہ ﷺ میرے پاس تشریف لائے فرمایا تجھے کیا ہوا؟ کیا تو حائض ہوئی؟ عرض کیا ہاں! فرمایا یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بنات آدم پر لکھ دیا ہے تو سوائے خانہ کعبہ کے طواف کے سب کچھ ادا کر جیسے حج کرنے والا ادا کرتا ہے اور فرماتی ہیں کہ حضور ﷺ نے اپنی ازواج مطہرات کی طرف سے ایک گائے کی قربانی کی۔ (بخاری شریف)

حدیث ۲: حضرت عائشہ صدیقہؓ سے روایت ہے کہ زمانہ حیض میں میں پانی پیتی۔ پھر حضور ﷺ کو دے دیتی تو جس جگہ میرا منہ لگا تھا حضور وہیں دہن مبارک رکھ کر پیتے اور حالت حیض میں میں بڈی سے گوشت نوج کر کھاتی۔ پھر حضور ﷺ کو دے دیتی حضور ﷺ اپنا دہن شریف اس جگہ پر رکھتے جہاں میرا منہ لگا تھا۔ (مسلم شریف)

حدیث ۳: حضرت ام المومنین میمونہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ایک چادر میں نماز پڑھتے تھے جس کا کچھ حصہ مجھ پر تھا اور کچھ حضور پر اور میں حیض کی حالت میں تھی۔ (بخاری شریف)

حدیث ۴: حضرت عائشہ صدیقہؓ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ جب مجھ پر حیض کی حالت آئی تو حضور میرے ساتھ بیٹھے تھے اور قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے۔ (مسلم)

حدیث ۵: حضرت عروہؓ سے سوال کیا گیا۔ حیض والی عورت میری خدمت کر سکتی ہے اور جب عورت مجھ سے قریب ہو سکتی ہے۔ عروہؓ نے جواب دیا یہ سب مجھ پر آسان ہیں اور یہ سب میری خدمت کر سکتی ہیں اور کسی پر اس میں کوئی حرج نہیں۔ مجھے ام المومنین حضرت عائشہؓ نے خبر دی کہ وہ حیض کی حالت میں رسول اللہ ﷺ کے کنگھا کرتیں۔ اور حضور معتکف تھے۔ اپنے سر مبارک کو ان سے قریب کر دیتے اور یہ اپنے حجرے ہی میں ہوتیں۔ (بخاری)

حدیث ۶: حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے مجھ سے فرمایا کہ ہاتھ بڑھا کر مسجد سے مصلی اٹھا دینا۔ عرض کی کہ میں حائض ہوں فرمایا کو تیرا حیض تیرے ہاتھ میں نہیں۔ (مسلم شریف)

حدیث ۷: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص حیض والی عورت کے پیچھے کے مقام میں جماع کرے یا کاہن کے پاس جائے تو اس کا یہ فعل ایسے ہو گا جیسے اس نے محمد ﷺ پر جو ہدایت نازل فرمائی گئی ہے اس کا انکار کیا۔ (ترمذی)

حدیث ۸: حضرت انس بن مالکؓ سے روایت ہے کہ یہودیوں میں جب کسی عورت کو حیض آتا تو اسے نہ اپنے ساتھ کھلاتے نہ اپنے ساتھ گھروں میں رکھتے صحابہ کرام نے نبی ﷺ سے سوال کیا اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت ویسئلونک عن المحیض نازل فرمائی۔ تو رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا ”جماع کے سوا ہر شے کرؤ“ اس کی خبر یہود کو پہنچی تو کہنے لگے کہ یہ (نبی اکرم ﷺ) ہماری ہر بات کا خلاف کرنا چاہتے ہیں۔ اس پر اسید بن

حضیر اور عباد بن بشرؓ نے آ کر عرض کی کہ یہود ایسا ایسا کہتے ہیں۔ تو کیا ہم ان سے جماع نہ کریں (کہ پوری مخالف ہو جائے) رسول اللہ ﷺ کا روئے مبارک متغیر ہو گیا یہاں تک کہ ہم کو گمان ہوا کہ ان دونوں پر غضب فرمایا۔ وہ دونوں چلے گئے۔ اور ان کے آگے دودھ ہدیہ نبی اکرم ﷺ کے پاس آیا۔ حضور ﷺ نے آدمی بھیج کر ان کو بلوایا اور پلایا تو وہ سمجھے کہ حضور نے ان پر غضب نہیں فرمایا تھا۔ (مسلم شریف)

۳۔ شرعی مسائل : خون حیض تین رات دن یعنی ۷۲ گھنٹے سے کم اور دس رات دن سے زائد نہیں اگر اس مدت سے کم یا زیادہ ہو تو حیض نہیں ہے بلکہ استحاضہ ہے جس سے غسل واجب نہیں اور نہ یہ نماز روزہ سے مانع ہے کیونکہ استحاضہ ایک بیماری ہے جس میں رگون سے خون آتا ہے۔ رحم کے اندر سے نہیں آتا مثلاً ایک عورت کو صبح ۶ بجے حیض شروع ہوا اور چوتھے دن پونے چھ بجے خون منقطع ہوا تو حیض شمار نہ کیا جائے۔ اگر ٹھیک سوا چھ بجے ختم ہوگا تو حیض ہر گاہ اسی طرح اگر دس روز سے ۱۵ منٹ کی بھی زیادتی ہوگئی تو حیض شمار نہ کیا جائے۔ مثلاً ایک عورت صبح چھ بجے خون آنا شروع ہوا۔ اور گیارہویں روز چھ بجے منقطع ہو تو حیض ہے اور اگر سوا چھ بجے ختم ہو تو حیض نہیں بلکہ بیماری ہے جس کو استحاضہ کہتے ہیں یعنی گیارہویں دن کے ۶ بجے تک حیض شمار ہوگا اور باقی پندرہ منٹ طہر کے سمجھے جائیں گے۔ اس کے متعلق شرعی مسائل مندرجہ ذیل ہیں:

۱۔ مسئلہ : کرن چمکتی تھی کہ حیض شروع ہوا اور تین دن تین راتیں پوری ہو کر کرن چمکتی ہی ختم ہو گیا تو حیض ہے اگرچہ ان تین دن رات کی مقدار ۷۲ گھنٹے نہیں مگر طلوع سے طلوع تک اور غروب سے غروب تک ضرور ایک رات ہے۔

۲۔ مسئلہ : طلوع و غروب کے علاوہ اگر کسی اور وقت حیض شروع ہو تو وہی ۲۲ گھنٹے کا ایک دن رات لیا جائے گا مثلاً آج صبح کو ٹھیک ۹ بجے شروع ہوا تو کل ٹھیک ۹ بجے ایک دن رات ہوگا۔

۳۔ مسئلہ : دس رات دن سے کچھ بھی زیادہ خون آیا تو اگر یہ حیض پہلی مرتبہ اسے آیا ہے تو دس دن تک حیض ہے بعد کا استحاضہ۔ اور اگر پہلے اسے حیض آچکے ہیں اور عادت دس دن سے کم تھی عادت سے جتنا زیادہ ہوا استحاضہ ہے۔ اسے یوں سمجھو کہ اسے عادت پانچ دن کی تھی اب خون آیا دس دن تو کل حیض ہے اور یہ سمجھا جائے گا یہ اس کی عادت بدل گئی لیکن اگر

دس دن سے زیادہ مثلاً گیارہ یا بارہ دن خون آیا تو پانچ دن تو پچھلی بار جتنے دن سے وہی اب بھی حیض کے ہیں باقی دن استحاضہ کے۔

۴۔ مسئلہ : یہ ضروری نہیں کی مدت میں ہر وقت خون جاری رہے جیسی حیض ہو بلکہ اگر بعض وقت بھی آئے جب بھی حیض ہے۔

۵۔ مسئلہ : کم از کم نو برس کی عمر سے حیض شروع ہوگا اور انتہائی عمر حیض آنے کی پچپن سال ہے۔ اس عمر والی عورت کو آئسہ اور اس عمر کو سن ایاس کہتے ہیں۔ تو نو برس کی عمر سے پیشتر جو خون آئے وہ استحاضہ ہے اور پچپن سال کی عمر کے بعد جو خون آئے وہ بھی استحاضہ ہے ہاں اس پچھلی صورت میں اگر خالص خون آئے جیسے آتا تھا اسی رنگ کا آیا تو حیض ہے (روا لکھتا رو غیرہ)

۶۔ مسئلہ : حمل والی عورت کو خون آیا استحاضہ ہے یونہی بچہ ہوتے وقت جو خون آیا اور ابھی آدھے سے زیادہ بچہ باہر نہیں نکلا وہ استحاضہ ہے۔

۷۔ مسئلہ : حیضوں کے درمیان کم سے کم پورے پندرہ دن کا فاصلہ ضروری ہے یونہی حیض و نفاس کے درمیان بھی پندرہ دن کا فاصلہ ضروری ہے تو اگر نفاس ختم ہونے کے بعد پندرہ دن پورے نہ ہوئے تھے کہ خون آگیا تو یہ استحاضہ ہے۔

۸۔ مسئلہ : حیض اسی وقت سے شمار کیا جائے گا کہ خون فرج خارج میں آگیا تو اگر کوئی کپڑا رکھ لیا ہے جس کی وجہ سے خون فرج خارج میں نہیں داخل ہی ہیں رکا ہوا ہے تو جب تک کپڑا نہ نکالے گی حیض والی نہ ہوگی۔ نماز پڑھے گی روزہ رکھے گی۔

۹۔ مسئلہ : حیض کے چھ رنگ ہیں سیاہ سرخ، سبز زرد، گدلا، نیلا سفید رنگ کی رطوبت حیض نہیں دس دن کی اندر رطوبت میں ذرا بھی میلا پن ہے تو وہ حیض ہے۔ دس دن رات کے بعد بھی میلا پن باقی رہے تو عادت والی کے لیے جو دن عادت کے ہیں وہ حیض ہوا اور عادت سے بعد والے دن استحاضہ اور اگر کچھ عادت نہیں تو دس دن رات کے حیض باقی استحاضہ۔

۱۰۔ مسئلہ : گدی جب تک تر تھی تو اس میں زردی یا میلا پن تھا۔ بعد سوکھ جانے کے سفید ہوگی تو مدت حیض ہی ہے اور اگر جب دیکھا تھا سفید تھی مگر سوکھ کر زرد ہوگئی تو حیض نہیں۔

۱۱۔ مسئلہ : جس عورت کو پہلی مرتبہ خون آیا اور اس کا سلسلہ مہینوں یا برسوں جاری رہا کہ سچ میں پندرہ دن کے لیے بھی نہ آتا تو جس سے خون آتا شروع ہوا اس روز سے دس دن تک

حیض اور باقی بیس دن استحاضہ کے سمجھے۔ اور جب تک خون جاری رہے یہی قاعدہ برتتے اور اگر اس سے پیشتر حیض آچکا ہے تو اس سے پہلے جتنے دن حیض کے تھے ہر تیس دن میں اسے دن حیض کے سمجھے باقی جو دن بچیں وہ استحاضہ۔

۱۲۔ **مسئلہ** : جس عورت کو عمر بھر خون نہیں آیا یا آگرتین دن سے کم آیا تو عمر بھر وہ پاک ہی رہی اور ایک بار تین دن رات خون آیا پھر کبھی نہ آیا تو فقط وہ تین دن رات حیض کے ہیں باقی ہمیشہ کے لیے پاک۔

۱۳۔ **مسئلہ** : جس عورت کو دس دن خون آیا اس کے بعد سال بھر تک پاک رہی پھر برابر خون جاری رہا تو وہ اس زمانہ میں نماز روزہ کے لیے ہر مہینہ میں دس حیض کے سمجھے اور بیس دن استحاضہ۔

۱۴۔ **مسئلہ** : کسی کو ایک دو دن خون آ کر بند ہو گیا اور شروع ہوئے دس دن پورے نہ ہوئے تھے کہ پھر خون آیا اور دسویں دن بند ہو گیا تو یہ دسوں دن حیض کے ہیں اور اگر دس دن کے بعد جاری رہا تو دو صورتیں ہیں اگر پہلے کی عادت معلوم ہے تو عادت کے دنوں میں حیض باقی استحاضہ اور اگر پہلے کی عادت معلوم نہیں تو دس دن حیض کے باقی استحاضہ۔

۱۵۔ **مسئلہ** : جس کی ایک عادت مقرر نہ ہو بلکہ کبھی مثلاً چھ دن حیض کے ہو اور کبھی سات دن اب جو خون آیا تو بند ہوتا ہی نہیں تو اس کے لیے نماز روزہ کے حق میں کم مدت یعنی ۶ دن حیض کے قرار دیے جائیں گے اور ساتویں روز نہا کر نماز پڑھے اور روزہ رکھے (جبکہ رمضان ہو) مگر سات دن پورے ہونے کے بعد پھر نہانے کا حکم ہے اور ساتویں دن جو فرض روزہ رکھا ہے اس کی قضا کرے اور مدت گزرنے اور شوہر کے پاس رہنے کے بارے میں زیادہ مدت یعنی سات دن حیض کے مانے جائیں گے۔ یعنی ساتویں دن اس سے قربت جائز نہیں۔

۱۶۔ **مسئلہ** : کسی کی عادت تھی کہ فلاں تاریخ میں حیض ہوا اب اس سے ایک دن پہلے خون آ کر بند ہو گیا۔ پھر دس دن تک نہیں آیا اور گیا رہو میں دن پھر آ گیا تو خون نہ آنے کے جو پچھ دس دن ہیں ان میں سے اپنی عادت کے دنوں کے برابر حیض قرار دے اور اگر تاریخ تو مقرر رکھی مگر حیض کے دن معین نہ تھے تو یہ دسوں خون نہ آنے کے حیض کے ہیں (روا المختار)

۱۷۔ **مسئلہ** : جس عورت کو تین دن سے کم خون آ کر بند ہو گیا اور پندرہ دن پورے نہ ہوئے

تھے کہ پھر آگیا تو پہلی مرتبہ جب سے خون آنا شروع ہوا۔ حیض سے اب اگر اس کی کوئی عادت ہے تو عادت کے برابر حیض کے دن شمار کرے ورنہ شروع سے دس دن تک حیض اور پچھلی مرتبہ کا استحاضہ۔

۷۔ استحاضہ کے حکام

عورت کو حیض اور نفاس کے علاوہ جو خون کسی بیماری یا کسی اور سبب سے آئے وہ استحاضہ ہے اس کے متعلق حضور ﷺ کے ارشادات مندرجہ ذیل ہیں:-

۱۔ **حدیث:** حضرت عائشہ صدیقہؓ سے روایت ہے کہ ایک صحابیہ فاطمہ بنت ابی جیشؓ نے نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں عرض کی۔ یا رسول اللہ ﷺ مجھے استحاضہ آتا ہے اور میں پاک نہیں رہتی تو کیا میں نماز چھوڑ دوں؟ حضور ﷺ نے فرمایا نہ یہ تو ایک رگ کا خون ہے، حیض نہیں ہے تو جب حیض کے دن آئیں۔ نماز چھوڑ دو اور جب جاتے رہیں تو خون دھوؤ اور نماز پڑھو۔ (مسلم شریف)

۲۔ **حدیث:** ام المومنین حضرت ام سلمہؓ فرماتی ہیں۔ ایک عورت کو استحاضہ کو خون بہت آتا تھا تو میں نے اس کے متعلق نبی اکرم ﷺ سے مسئلہ پوچھا آپ نے ارشاد فرمایا وہ خاتون اس بیماری میں مبتلا ہونے سے پہلے مہینے میں جتنے دن اور رات حیض آتا تھا اس کو گنے اور ہر مہینے میں اتنے دن رات نماز چھوڑ دے۔ پھر جب وہ دن گزر جائیں تو نہائے اور لنگوٹ باندھا کر نماز پڑھے (ابوداؤد شریف)

۳۔ **حدیث:** نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ استحاضہ والی کو اپنی عادت کے مطابق (ہر ماہ) جتنے دن حیض آتا تھا اتنے دن نمازیں چھوڑ دے پھر نہائے اور نماز کے وقت (تازہ) وضو کرے اور روزہ رکھے اور نماز پڑھے (ترمذی شریف)

مسائل استحاضہ: استحاضہ میں عورت کو نہ تو نماز معاف ہے اور نہ ہی روزہ معاف ہے بلکہ ایسی عورت جس کو ہر وقت خون آتا رہتا ہو وہ معذور ہے۔ وہ ایک وضو سے اس وقت میں چٹنی نمازیں چاہے پڑھے۔ خون آنے سے اس کا وضو نہیں جاتا اور نماز کا وقت ختم ہوتے ہی اس کا وضو جاتا رہے گا۔ لہذا ایسی معذور عورت ہر نماز کے لیے تازہ وضو کر کے نماز پڑھے۔ ایسی عورت کو مسجد میں جانا قرآن پاک پڑھنا، قرآن کو ہاتھ لگانا، طواف کرنا، اس سے

ہمبستری کرنا اور وہ سب کام جو حیض و نفاس والی عورت پر حرام ہوتے ہیں استحاضہ والی عورت کے لیے جائز ہیں۔

۸۔ احکام معذور

ہر وہ آدمی جس کو کوئی ایسی بیماری ہے کہ نماز کا پورا ایک وقت یا وضو نہ رہ سکے یعنی نماز فرض یا وضو ادا نہ کر سکے وہ معذور ہے۔ مثلاً پیشاب کے قطرے کا مرض یا ہر وقت ہوا خار ہوتے رہنا یا پھوڑے یا ناسور سے ہر وقت پیپ بہتے رہنا، کان یا ناف یا پستان سے پانی نکلنے رہنا یا دست آنا یا دکھتی آنکھ سے رطوبت بہتے رہنا، بواسیر وغیرہ یہ سب بیماریاں وضو توڑنے والی ہیں۔ ان میں جب پورا ایک وقت ایسا گزر جائے کہ باوجود کوشش کے وضو اور طہارت کے ساتھ نماز نہ پڑھ سکے تو عذر ثابت ہو گیا۔ یہ آدمی معذور ہے اس کا بھی یہی حکم ہے کہ وقت میں وضو لے لے اور نماز کا وقت ختم ہونے تک جتنی نمازیں چاہے اس وضو سے پڑھے۔ اس بیماری سے اس کا وضو نہیں جاتا لیکن فرض نماز کا عذر ختم ہوئے ہی معذور کا وضو جاتا رہے گا۔

۱۔ مسئلہ: جب کوئی شخص شریعت میں معذور مان لیا گیا تو جب تک ہر نماز کے وقت میں ایک بار بھی اس کا عذر پایا جاتا رہے گا وہ معذور ہی رہے گا جب اس کو اتنی شفاء حاصل ہو جائے کہ ایک نماز کا پورا وقت گزر جائے اور اس کو ایک مرتبہ بھی قطرہ وغیرہ نہ آئے تو اس شخص معذور نہیں مانا جائے گا۔

۲۔ مسئلہ: معذور کا وضو اس چیز سے نہیں جاتا جس کے سبب سے معذور ہے۔ لیکن اگر وضو توڑنے والی دوسری چیز پائی گئی تو اس کا وضو جاتا رہے گا جیسے کسی کو قطرے کا مرض ہے اور وہ معذور مان لیا گیا تو نماز کے پورے وقت میں قطرے آنے سے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے لیکن ہوا نکلنے سے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔

۳۔ مسئلہ: اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں قطرہ آجاتا ہے اور بیٹھ کر نماز پڑھنے میں قطرے نہیں آتا تو اس پر فرض ہے کہ نماز بیٹھ کر پڑھا کرے اور وہ معذور شمار نہیں کیا جائے گا۔

۹۔ مسائل جنابت

ایسے مرد اور عورت کو جن پر غسل فرض ہو گیا ”جب“ کہتے ہیں اور اس ناپاکی کی حالت کو ”جنابت“ کہتے ہیں۔ جب خواہ مرد ہو یا عورت جب تک غسل نہ کر لے وہ مسجد میں داخل نہیں

ہوسکتا نہ قرآن شریف پڑھ سکتا ہے نہ قرآن میں دیکھ کر تلاوت کر سکتا ہے نہ زبانی پڑھ سکتا ہے نہ قرآن مجید کو چھوسکتا ہے نہ کعبہ میں داخل ہوسکتا ہے نہ کعبہ کو طواف کر سکتا ہے۔

۱۔ **مسئلہ** : جب کو ساتھ کھلانے اس کا بھوٹھا کھانے اس کے ساتھ سلام و مصافحہ اور معافیہ کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

۲۔ **مسئلہ** : جب کو چائے کہ جلد سے جلد غسل کر لے کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ رحمت کے فرشتے اس گھر میں نہیں جاتے جس گھر میں تصویر لگتا اور جب ہو۔

۳۔ **مسئلہ** : اس طرح ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ فرشتے تین شخصوں سے قریب نہیں ہوتے ایک کافر کا مردہ دوسرے خلوق (عورتوں کی رنگیں خوشبو) استعمال کرنے والا تیسرے حب آدمی مگر یہ کہ وضو کر لے۔

۴۔ **مسئلہ** : حیض و نفاس والی عورت یا ایسے مرد و عورت جن پر غسل فرض ہے اگر یہ لوگ قرآن شریف کی تعلیم دیں تو ان کو لازم ہے کہ قرآن مجید کے ایک ایک لفظ پر سانس توڑ توڑ کر پڑھائیں مثلاً اس طرح پڑھائیں کہ الحمد پڑھ کر سانس توڑ پھر اللہ پڑھ کر سانس توڑ دیں پھر رب العالمین پڑھیں ایک سانس میں پوری آیت لگا تار نہ پڑھیں اور قرآن شریف کے الفاظ کو سچے کرانے میں بھی کوئی حرج نہیں۔

۵۔ **مسئلہ** قرآن مجید کے علاوہ اور دوسرے وظیفے کلمہ شریف و درود شریف وغیرہ کو پڑھنا جب کے لیے بلا کر ہت جائز بلکہ مستحب ہے جیسے کہ حیض و نفاس والی عورت کے لیے قرآن شریف کے علاوہ دوسرے تمام اذکار و وظائف کو پڑھنا جائز و درست بلکہ مستحب ہے۔

۱۰۔ احکام نجاست

گندگی پلیدی کو نجاست کہا جاتا ہے یہ دو طرح کی ہے ایسی نجاست جس کے لیے شرعی احکام سخت ہیں وہ نجاست غلیظہ کہلاتی ہے اور دوسری نجاست جس کے لیے شرعی احکام ہلکے اور نرم ہیں نجاست خفیفہ کہلاتی ہے نجاست غلیظہ سے مراد پیشاب پاخانہ منی ندی حیض کا خون انڈاس کا خون خون استخاضہ پیپ جاری خون منہ بھر کرتے ہے۔ ان کے علاوہ ہر طرح کی شراب اور نیزہ پاخانہ اور پیشاب ان چوپایہ جانوروں کا جن کا گوشت حرام ہے جیسے کتا بلی لومڑی گدھا خچر باغی خنزیر اور چوہا وغیرہ اور بطن اور مرغی کی بیٹھ اور گائے بھینس کا گوہر گھوڑے کی لید اونٹ اور

بھیڑ بکری کی مینگی۔ اور ہر حلال چوپایہ جانور کا پاخانہ حرام پرندوں کا پیشاب اور مردار وغیرہ یہ سب پلیدیاں نجاست غلیظہ میں شامل ہیں اس کے علاوہ چھپکلی یا گرگٹ کا خون شیر، کتے بچھتے کا لعاب (منہ کا تھوک) اور دوسرے درندوں، چوپایوں کے منہ کا لعاب۔ نیز ہاتھی کے سونڈ کی رطوبت نجاست غلیظہ میں عام لوگوں اور عورتوں میں اکثر مشہور ہے کہ دودھ پیتے بچے کا پیشاب نجاست نہیں یہ بالکل غلط ہے بلکہ پیشاب خواہ بڑے کا ہو یا چھوٹے بچے کا وہ نجاست غلیظہ ہے۔ جن جانوروں کا گوشت حلال ہے جیسے گائے، بیل، بھینس، بھیڑ، بکری اور اونٹ وغیرہ ان کا پیشاب اور گھوڑے کا پیشاب اور حرام پرندے جیسے کوا، چیل، شکر، باز وغیرہ ان کی بیٹ نجاست خفیفہ ہیں۔

۱۔ احادیث: نجاست کے متعلق حضور اکرم ﷺ کی چند احادیث مندرجہ ذیل ہیں:

۱۔ **حدیث:** اسماء بنت ابوبکرؓ سے روایت ہے کہ ایک عورت نے نبی اکرم ﷺ سے پوچھا یا رسول اللہ ﷺ! جب ہم میں سے کسی کے کپڑے کا حیض کو خون لگ جائے تو وہ کیا کرے؟ آپ نے فرمایا: ”جب تم میں سے کسی کا کپڑا حیض کے خون سے آلودہ ہو جائے تو وہ اسے کھرچے پھر پانی سے دھوئے تب اس کپڑے میں نماز پڑھے۔“ (مسلم)

۲۔ **حدیث:** حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ جب کپڑے پر نجاست لگ جاتی تو میں مل کر دھودیتی۔ اور اگر وہ کپڑا حضور کا ہوتا تو آپ اس میں نماز پڑھ لیتے (بخاری)

۳۔ **حدیث:** حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا جب تمہارے برتن میں سے کتا پانی پی لے تو اس کو سات بار دھولو (مسلم)

۴۔ **حدیث:** حضرت عائشہ صدیقہؓ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے حکم فرمایا کہ مردار کی کھالیں جب پکالی جائیں تو ان سے فائدہ اٹھایا جائے۔

۵۔ **حدیث:** حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا چمڑا جب پکالیا جائے تو وہ پاک ہو جاتا ہے۔ (مسلم شریف)

۲۔ شرعی مسائل: نجاست کے متعلق شرعی احکام مندرجہ ذیل ہیں:

۱۔ **مسئلہ:** نجاست غلیظہ کا حکم یہ ہے کہ اگر کپڑے یا بدن پر ایک درہم (روپے) سے زیادہ لگ جائے تو اس کا پاک اور صاف کرنا فرض ہے۔ اگر بغیر پاک کئے نماز پڑھی تو نماز قطعاً

نہیں ہوگی اور اگر جان بوجھ کر اس نجاست اور پلیدنی کے ساتھ پڑھی تو سخت گناہ ہے اور بانیت استخفاف (توہین) پڑھی تو کفر ہوگا اور اگر نجاست غلیظہ درہم کے برابر ہے تو اس کا پاک کرنا واجب اور ضروری ہے کہ اگر بغیر پاک کیے نماز پڑھی تو مکروہ تحریمی ہوگئی یعنی ایسی نماز کا دوبارہ پڑھنا واجب اور ضروری ہے اگر جان بوجھ کر پڑھی تو گناہ بھی ہوگا۔ اگر نجاست غلیظہ درہم سے کم ہے تو اس کا پاک کرنا سنت ہے کہ ایسی نجاست کو پاک کیے بغیر اگر نماز پڑھی تو نماز ہوگئی لیکن خلاف سنت ہوئی جس کا اعادہ یعنی دوبارہ پڑھنا بہتر اور مستحب ہے۔

۲۔ **مسئلہ:** نجاست غلیظہ اگر گاڑھی ہو جیسے پاخانہ، لید، گوبر، تو درہم کے برابر یا کم زیادہ ہونے کے معنی ہیں کہ وزن میں درہم کے برابر یا کم یا زیادہ ہو، درہم کا وزن ساڑھے چار ماشہ ہے اور اگر نجاست غلیظہ تلی ہو جیسے پیشاب اور شراب وغیرہ تو درہم سے مراد اس کی لمبائی چوڑائی ہے اور شریعت نے درہم کی لمبائی چوڑائی کی مقدار ہتھیلی کی گہرائی کے برابر بتائی ہے یعنی ہتھیلی خوب پھیلا کر ہموار رکھیں اور اس پر آہستہ سے اتنا پانی ڈالیں کہ اس سے زیادہ پانی نہ رک سے۔ اب پانی کا جتنا پھیلاؤ ہے اتنی بڑی درہم کی لمبائی چوڑائی ہوتی ہے یعنی روپے کی لمبائی چوڑائی کے برابر (مختار۔ ج ۱ ص ۲۱۱)

۳۔ **مسئلہ:** نجاست خفیفہ کا حکم ہے کہ کپڑے کے جس حصہ یا بدن کے جس عضو پر لگی ہو اگر اس کی چوتھائی سے کم ہے مثلاً آستین پر لگی ہے تو اس کی چوتھائی اس طرح اگر ہاتھ پر لگی ہے تو ہاتھ کی چوتھائی سے کم ہے تو معاف ہے یعنی اس میں نماز ہو جائے گی اور اگر نجاست خفیفہ پوری چوتھائی میں لگی ہو تو بن دھوئے اور پاک صاف کیے بغیر نماز نہ ہوگی۔

۴۔ **مسئلہ:** نجاست غلیظہ خفیفہ میں مل جائے تو کل غلیظہ ہو جائے گی۔ ہر چوپائے کی دکالی کا وہی حکم ہے جو اس کے پاخانے کا ہے ہر جانور کے بچے کا بھی وہی حکم ہے جو اس کے پیشاب کا ہے حرام جانوروں کا پتا نجاست غلیظہ ہے۔

۵۔ **مسئلہ:** مچھلی اور پانی کے دیگر جانوروں اور کھٹل اور مچھر کا خون وغیرہ نیز گدھے اور نیچر کا اعاب یعنی منہ کا تھوک اور پسینہ پاک ہے گوشت تلی، کلجی میں جو خون باقی رہ جاتا ہے وہ پاک ہے حرام جانوروں کا دودھ نجس اور ناپاک ہے۔

۶۔ **مسئلہ:** نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ کے جدا جدا جو حکم بیان ہوئے ہیں یہ اس وقت تک کہ بدن یا کپڑے پر لگیں۔ اگر یہ نجاست کسی تلی چیز پانی وغیرہ میں گرے تو نجاست غلیظہ

ہو یا خفیہ تو وہ سب ناپاک ہو جائے گا اگرچہ ایک قطرہ ہی گرے۔ بشرطیکہ پانی حد کثرت پر یعنی ذہ در رہ نہ ہو۔

۷۔ **مسئلہ:** اگر نماز پڑھی اور جیب میں شیشی ہے اور اس میں پیشاب یا خون یا شراب ہے تو نماز نہ ہوگی۔ کسی کپڑے یا بدن پر چند جگہ نجاست غلیظہ لگی۔ اگر کسی جگہ درہم کے برابر نہیں لیکن مجموعہ درہم کے برابر ہے تو وہ نجاست درہم کے برابر سمجھی جائے گی اس کو پاک کیے بغیر نماز پڑھی تو نماز نہ ہوگی۔

۳۔ **ناپاک چیز کو پاک کرنے کے طریقے:** پاک اور صاف چیز پر جب کوئی نجاست یا گندگی لگ جائے تو وہ ناپاک ہو جائے گی اسے دوبارہ پاکیزہ کرنے کے طریقے حسب ذیل ہیں:-

۱۔ **مسئلہ:** اگر نجاست پتلی ہو جیسے پیشاب اور شراب وغیرہ تو کپڑا وغیرہ نچوڑی جانے والی چیزیں تین مرتبہ دھونے اور تینوں بار بقوت نچوڑے سے پاک ہو جائے گا۔ نچوڑنے کے بعد ہر بار اپنے ہاتھ بھی ساتھ ساتھ دھونے لازمی ہیں۔ دودھ پیتے لڑکے اور لڑکی کا ایک ہی حکم کہ ان کا پیشاب کپڑے کو لگا تو تین بار دھونا اور تین بار ہی اچھی طرح نچوڑنا پڑے گا اگر بدن کو لگا تو تین بار دھونے سے بدن پاک ہوگا۔ جو چیز نچوڑنے کے قابل نہیں جیسے چٹائی جوتا وغیرہ۔ اس کو دھو کر چھوڑ دیں کہ پانی ٹپکنا بند ہو جائے۔ اس طرح دوبارہ اور دھوئیں تیسری بار جب ٹپکنا بند ہو گیا وہ چیز پاک ہوگئی۔

۲۔ **مسئلہ:** مٹی کپڑے یا بدن پر لگ کر خشک ہوگی تو فقط مل کو جھاڑ دینے اور صاف کرنے سے کپڑا اور بدن پاک ہو جائے گا۔ مرد عورت کا اس مسئلہ میں کوئی فرق نہیں اگر مٹی کپڑے یا بدن پر لگی اور جب تک تر اور گیلی ہے تو کپڑا اور بدن دھونے سے ہی پاک ہو جائے موزے یا جوتے ہیں گاڑھی نجاست گو بر پاخانہ منی وغیرہ لگی تو اگرچہ وہ نجاست تر ہو کھڑ چنے اور رگڑنے سے پاک ہو جائیں گے۔ اگر کوئی پتلی نجاست جیسے پیشاب و شراب وغیرہ لگی ہو اور اس پر مٹی یا راکھ وغیرہ ڈال کر رگڑ ڈالیں اور پونچھ دیں جب بھی وہ پاک ہو جائیں گے۔ اگر ایسا نہ کیا یہاں تک کہ وہ نجاست سوکھ گئی تو اب بن دھوئے پاک نہ ہوں گے۔

۳۔ **مسئلہ:** نجاست اگر پتلی نہ ہو بلکہ گاڑھی ہو جیسے گو بر پاخانہ وغیرہ تو دھونے میں گنتی

کی کوئی شرط نہیں بلکہ اس کو دور کرنا اور اچھی طرح صاف کرنا ضروری ہے تاکہ نجاست کا اثر و رنگ و بو وغیرہ نہ رہے۔ اگر ایسی نجاست ایک بار دھونے سے دور ہو جائے تو ایک مرتبہ سے ہی پاک ہو جائے گا۔ اور اگر چار پانچ مرتبہ سے دور ہو تو اتنی بار ہی دھونا فرض ہے۔ ہاں اگر نجاست تین بار سے کم میں دور ہو جائے تو تین بار پورا کر لینا مستحب اور بہتر ہے۔

۴۔ **مسئلہ:** اگر نجاست دور ہو گئی۔ مگر اس کا اثر رنگ و بو وغیرہ باقی ہے تو اس کے زائل کرنا بھی لازم اور ضروری ہے ہاں اگر اس کا اثر بدقت جائے تو اثر دور کرنے کی ضرورت نہیں۔ تیس بار دھولینے سے وہ پاک ہو گیا۔

۵۔ **مسئلہ:** اگر ایسی چیز ہو جس میں نجاست جذب نہ ہوتی ہو جیسے چینی یا لوہے تانبے۔ پتیل وغیرہ کے برتن تو وہ صرف تین بار دھونے سے پاک ہو جائیں گے۔ ہاں پہلی بار مٹی سے مانجھ لینا بہتر اور مستحب ہے۔ اگر کپڑے کا کوئی حصہ ناپاک ہو گیا اور اب یاد نہیں کہ وہ کون سی جگہ سے ناپاک ہوا تھا بہتر یہی ہے کہ پورا کپڑا ہی دھو ڈالیں۔ یعنی اگر بالکل ہی معلوم نہ ہو کہ نجاست کہاں لگی ہے۔ اگر اتنا معلوم ہو کہ نجاست کپڑے کے فلاں حصہ پر لگی ہے۔ اور خاص نجاست والی جگہ معلوم نہیں۔ جیسے قمیض کی آستین یا دامن میں نجاست لگی ہو تو آستین اور دامن کا دھونا ہی ساری قمیض کا دھونا ہے۔

۶۔ **مسئلہ:** لوہے کی چیز مثلاً چاقو وغیرہ جس میں رنگ اور نقش و نگار وغیرہ نہ ہوں اگر یہ چیز ناپاک ہو جائیں تو اچھی طرح مٹی وغیرہ سے پونچھ ڈالنے سے پاک ہو جائیں گی اگر یہ چیزیں زنگ آلود اور نقش و نگار والی ہوں تو ان کا دھونا ضروری ہے بن دھوئے پاک نہ ہوں گی۔

۷۔ **مسئلہ:** جائے نماز میں ہاتھ پاؤں پیشانی اور ناک رکھنے کی جگہ کا نماز پڑھنے میں پاک ہونا فرض ہے۔ باقی جگہ اگر نجاست ہو تو نماز میں حرج نہیں لیکن نماز میں نجاست اور پلیدی کے قرب سے بچنا چاہیے کپڑے کے ایک طرف نجاست لگی ہو تو کپڑے کی دوسری طرف جدھر نجاست نہیں لگی نماز نہیں پڑھ سکتے اگر چہ دوسری طرف نجاست کا اثر ظاہر نہ ہوا ہو۔ اور کپڑا کتنا ہی موٹا کیوں نہ ہو۔

۸۔ **مسئلہ:** جو کپڑا دو تہ کا ہو اگر ایک تہ اس کی نجس اور پلیدی ہو جائے تو اگر دونوں ملا کر کرسی لیے ہوں تو دوسری تہ پر نماز جائز نہیں اور اگر سب سے نہ تو ہونماز جائز ہے۔

۹۔ **مسئلہ:** خنزیر کے سوا ہر مردار جانور کی کھال سکھانے اور پکانے وغیرہ سے پاک ہو جاتی ہے اس پر نماز پڑھنا درست ہے ہاں درندے کی کھال اگرچہ پکالی گئی ہو اس پر بیٹھنا اور نماز پڑھنا نہیں چاہئے کہ مزاج میں تکبر اور غرور پیدا ہوتا ہے کتے کی کھال کا استعمال ممنوع ہے۔

۱۰۔ **مسئلہ:** کپڑے یا بدن میں ناپاک تیل یا چکنائی والی چیز لگی تو تین مرتبہ دھو لینے سے پاک ہو جائے گا۔ ہاں اگر مردار کی چربی لگی تو جب تک اس کی چکنائی نہ جائے پاک نہ ہوگا۔

۱۱۔ **مسئلہ:** ناپاک زمیں اگر خشک ہو جائے اور نجاست کا اثر یعنی رنگ و بو جاتا رہے وہ زمیں پاک ہو گئی خواہ ہوا سے سوکھی یا دھوپ یا آگ وغیرہ سے اس پر نماز پڑھ سکتے ہیں ہاں اس سے تیمم جائز نہیں ایسے ہی جوز میں گوبر لیس گئی اگرچہ سوکھ گئی ہو اس پر نماز جائز نہیں۔ ہاں اگر وہ سوکھ گئی ہو اوپر کوئی کپڑا بچھالیا تو اس کپڑے پر نماز پڑھ سکتے ہیں۔

۱۲۔ **مسئلہ:** کافروں کے استعمال شدہ کپڑوں خاص کر ان کے پاجامہ، شلوار، تہبند وغیرہ میں نماز پڑھنا مکروہ ہے یہی حکم فاسق و فاجر لوگوں کے کپڑوں کا ہے کیونکہ فاسق لوگ پیشاب پاخانہ میں لباس کی طہارت کا خیال نہیں رکھتے لہذا کافروں، فاسق و فاجروں کے استعمال شدہ کپڑے بن دھوئے اور پاک کیے بغیر پہننا اور ان میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔

۱۱۔ اذان

اذان لغت میں آگاہ اور خبردار کرنے کو کہتے ہیں مگر اصطلاحاً مخصوص الفاظ کے ساتھ بلند آواز میں پکار کر نماز کی طرف بلائے کو اذان کہا جاتا ہے یہ ایک اسلامی طریقہ ہے جس کا مقصد لوگوں کو نماز کے لیے آگاہ کرنا ہے جمعہ اور فرض نمازوں کے لیے اذان کہنا ضروری ہے۔

اذان کے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ:

اس سے اچھی کس کی بات ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک کام کرے اور یہ کہے کہ میں مسلمانوں میں ہوں۔ (حم سجدہ ۲۴۔ آیت ۳۳)

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

اسلام میں اذان کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کہ سب لوگ مل کر ایک وقت پر نماز ادا کر سکیں۔ مشورہ طلب امر یہ تھا کہ لوگوں کو جمع کرنے کے واسطے کونسا طریقہ اختیار کیا جائے کسی نے مشورہ دیا کہ بلند مقام پر آگ روشن کر دی جائے جیسا کہ مجوس میں دستور تھا کسی کا مشورہ تھا

marfat.com

کہ سینگ (بگل) بجا دیا جائے جیسا کہ یہود کا معمول تھا۔ کسی نے رائے دی کی گھنٹے بجائے جائیں جیسا کہ انصاری کیا کرتے تھے لیکن حضور عالم ﷺ و مشرف و مجدد کرم نے ان میں سے کسی مشورہ کو پسند نہ فرمایا کہ ان میں یہود و نصاریٰ اور مجوس سے مشابہت تھی۔ دوسرے روز حضرت عبداللہ زید انصاریؓ اور حضرت عمر فاروق اعظمؓ ایک بعد دیگرے خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ انہوں نے خواب میں یہ الفاظ سنے ہیں اور یہ وہی الفاظ تھے جو اذان و اقامت میں کہے جاتے ہیں حضور اقدس ﷺ نے ان کی تصدیق کی اور انہیں الفاظ کے باواز پکارنے کو اذان قرار دیا اور اسے شروع فرما دیا یہ الفاظ نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اسی منشاء عالی کو پورا کرتے ہیں جو تشریح احکام میں ہمیشہ منظور نظر اقدس رہا ہے۔

اذان اپنی مخصوص ہیئت کے ساتھ اطلاع دہی کا وہ سادہ اور آسان طریقہ ہے کہ عالمگیر دین کے لیے ایسا ہونا ضروری تھا۔ اذان درحقیقت اصول اسلام کی اشاعت اور اعلان ہے۔ مسلمان اسی کے ذریعہ سے ہر آبادی کے قریب جملہ باشندوں کے کانوں تک اپنے اصول پہنچا دیتے اور راہ نجات سے آگاہ کر دیتے ہیں۔

غرض امیر المؤمنین فاروق اعظم اور عبداللہ بن زید بن ربیعہؓ کو اذان ان الفاظ مخصوصہ کے ساتھ خواب میں تعلیم ہوئی حضور اقدس ﷺ نے فرمایا یہ خواب حق ہے اور عبداللہ بن زیدؓ سے فرمایا۔ جاؤ بلالؓ کو تلقین کرو وہ اذان کہیں کہ وہ تم سے زیادہ بلند آواز ہیں۔ اس حدیث کو ابو داؤد ترمذی و ابن ماجہ و دارمی نے روایت کیا اور ابن ماجہ نے عبدالرحمن بن سعدؓ سے روایت کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے بلالؓ کو حکم فرمایا کہ اذان کے وقت کانوں میں انگلیاں کر لو کہ اس کے سبب آواز زیادہ بلند ہوگی۔

۱۔ فضیلت اذان: ان کی فضیلت کے بارے میں چند احادیث مندرجہ ذیل ہیں:

۱۔ حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ سوذان کی جہاں تک آواز جاتی ہے اس کے لیے بخشش کر دی جاتی ہے اور ہر تر اور خشک چیز جو اس کی اذان کی آواز سنتی ہے اس کی گواہی دے گی اور نماز کے لیے حاضر ہونے والوں کے لیے ۲۵ گناہ نمازوں کا ثواب لکھا جاتا ہے اور نمازوں کے درمیان جو اس نے گناہ کیے ہوتے ہیں وہ معاف کر دیئے جاتے ہیں۔ (ابن ماجہ شریف)

۲۔ حدیث: حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ حضور اکرم ﷺ کا ارشاد ہے کہ جو شخص

اذان سن کر یہ کہے کہ ”اے پروردگار! اس کی پکار سن اور نماز قائم کر دے حضور ﷺ کو بررگی وسیلہ اور مقام محمود عطا کر جس کا تو نے وعدہ فرمایا ہے قیامت کے روز کی شفاعت آپ ﷺ میرے لیے واجب کر دے۔“ (بخاری شریف)

۳۔ حدیث : حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا ہے کہ تحقیق جس وقت شیطان نماز کی اذان سنتا ہے تو دور بھاگ جاتا ہے یہاں تک کہ وادی روحا تک چلا جاتا ہے راوی نے کہا کا وادی روحا مدینہ سے ۳۶ میل کے فاصلہ پر ہے (مسلم شریف)

۴۔ حدیث : حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا ہے کہ جب مؤذن اذان کہتا ہے۔ رب عزوجل اپنا دست قدرت اس کے سر پر رکھتا ہے اور یونہی رہتا ہے یہاں تک کہ اذان سے فارغ ہوا اور اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے جہاں تک آواز پہنچے۔ جب فارغ ہو جاتا ہے۔ رب عزوجل فرماتا ہے میرے بندے نے سچ کہا اور تو نے حق گواہی دی لہذا تجھے بشارت ہو (بہار شریعت)

۵۔ حدیث : حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا ہے کہ جس نے بارہ برس تک اذان کہی اس کے لیے جنت واجب ہوگئی اور ہر روز اس کی اذان کے بدلے ساٹھ نیکیاں اور اقامت کے بدلے تیس نیکیاں لکھی جائیں گی (ماجہ)

۶۔ حدیث : حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا ہے کہ جس نے سات سال تک ثواب کے لیے اذان کہی اللہ تعالیٰ اس کے لیے تار سے براءت لکھ دے گا (ترمذی شریف)

۷۔ حدیث : حضرت ابوسعیدؓ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جاتا کہ اذان کہنے میں کتنا ثواب ہے تو اس پر باہم تلوار چلتی رہتی۔ (مسند امام احمد)

۸۔ حدیث : حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ تھے حضرت بلالؓ نے کھڑے ہو کر اذان کہی۔ جس وقت وہ اذان کہہ چکے تو حضور اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جس نے حضرت بلالؓ جیسی اذان دی وہ یقیناً جنت میں داخل ہوگا۔

۲۔ کلمات اذان: اللَّهُ أَكْبَرُ - اللَّهُ أَكْبَرُ - اللَّهُ أَكْبَرُ - اللَّهُ أَكْبَرُ
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ - أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ - أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ - حَتَّى عَلَى الصَّلَاةِ
حَتَّى عَلَى الصَّلَاةِ - حَتَّى عَلَى الْفَلَاحِ - حَتَّى عَلَى الْفَلَاحِ - اللَّهُ أَكْبَرُ
اللَّهُ أَكْبَرُ - لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

۳۔ **اذان کا طریقہ** : مسجد سے خارج حصہ میں کسی اونچی جگہ پر قبلہ کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو اور کانوں کے سوراخوں میں کلمہ کی انگلیاں ڈال کر بلند آواز سے **اللَّهُ أَكْبَرُ**۔ **اللَّهُ أَكْبَرُ** کہے پھر ذرا ٹھہر کر دوسرے مرتبہ **أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** کہے۔ پھر دوسرے مرتبہ ٹھہر کر **أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ** کہے پھر بائیں طرف منہ پھر کر دوسرے مرتبہ **حَتَّى عَلَى الصَّلَاةِ** کہے پھر بائیں طرف منہ کے دوسرے مرتبہ **حَتَّى عَلَى الْفَلَاحِ** کہے پھر قبلہ کو منہ نہ لے اور **اللَّهُ أَكْبَرُ**۔ **اللَّهُ أَكْبَرُ** کہے پھر ایک مرتبہ **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** کہے فجر کی اذان میں **حَتَّى عَلَى الْفَلَاحِ** کے بعد دوسرے مرتبہ **الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ** بھی کہے کہ مستحب ایسا ہی ہے۔

۴۔ **شرعی مسائل** : اذان کے متعلق شرعی مسائل حسب ذیل ہیں :

۱۔ **مسئلہ** : جمعہ سمیت پنجگانہ فرض نمازیں جب صحیح وقت پر مسجد میں ادا کی جائیں تو ان کے لئے اذان سنت موکدہ ہے اور اس کا حکم واجب کی مانند ہے کہ اگر نہ کہی تو وہاں کے سب لوگ ہنگامہ ہوں گے بلکہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کسی شہر کے سب لوگ اذان چھوڑ دیں تو میں ان سے جنگ کروں گا اور ایک شخص اذان چھوڑ دے تو میں اس کو سزا دوں گا اور قید کروں گا۔

۲۔ **مسئلہ** : مسجد میں بغیر اذان و اقامت کے جماعت پڑھنا مکروہ ہے اگر کوئی شخص شہر میں یا کھڑے میں نماز پڑھے اور اذان نہ کہے تو کوئی کراہت نہیں وہاں کی مسجد کی اذان ہی اس کے لئے کافی ہے اور اذان کہہ لینا مستحب اور افضل ہے۔

۳۔ **مسئلہ** : قضا نماز مسجد میں پڑھیں تو اذان نہ پڑھی جائے۔ ہاں اگر جنگل وغیرہ میں آیا ہو تو اذان و اقامت کہنا جائز ہے۔ کیونکہ قضا کا اظہار گناہ ہے لیکن پوری جماعت کی نماز قضا ہوئی ہو تو اذان و اقامت سے پڑھیں۔

۴۔ **مسئلہ** : شہر یا گاؤں سے باہر کھیتی یا باغ وغیرہ میں جماعت سے نماز پڑھی جہاں شہر یا گاؤں کی اذان کی آواز پہنچی ہو تو وہاں شہر یا گاؤں کی اذان ہی کافی ہے پھر اذان بھی کہے کہ

لینا بہتر ہے اور اقامت چھوڑنا مکروہ ہے۔

۵۔ **مسئلہ** : گاؤں میں مسجد ہے اور اس میں اذان و اقامت کہی جاتی ہے تو وہاں گھر میں نماز پڑھنا بغیر اذان کے جائز ہے وہاں نماز پڑھنے والے کے لیے وہی حکم ہے جو شہر میں ہے۔

۶۔ **مسئلہ** : اذان کا مستحب وقت وہی ہے جو نماز کا ہے وقت شروع ہونے سے پہلے اذان کہنا جائز نہیں۔ اگر وقت سے پہلے کہہ دی تو وقت شروع ہونے کے بعد اب دوبارہ کہی جائے۔

۷۔ **مسئلہ** : مسافر بھی جنگل میں اذان و اقامت سے نماز پڑھیں ایسی حالت میں اگر انہوں نے اذان چھوڑ دی تو گنہگار نہیں ہوں گے ہاں اقامت کا چھوڑنا مکروہ ہے۔

۸۔ **مسئلہ** : جس مسجد میں امام معین ہو اور بجگانہ نماز باقاعدہ ہوتی ہو اس میں جب پہلی جماعت بطریق مسنون ہو چکی تو دوسری جماعت کے لیے دوبارہ اذان کہنا مکروہ ہے اور دوسری جماعت کے امام کو محراب میں کھڑا ہونا بھی مکروہ ہے۔

۹۔ **مسئلہ** : معد اور فرضوں کے علاوہ باقی نمازوں مثلاً وتر عیدین تراویح کسوف خسوف اشراق چاشت استسقاء اور دیگر نفلوں کے لیے اذان نہیں۔

۱۰۔ **مسئلہ** : عورتوں پر اذان و اقامت نہیں خواہ وہ نماز تنہا پڑھیں یا اپنی جماعت کے ساتھ ادا ہو یا قضا۔ عورتوں کا اذان و اقامت کہنا مکروہ تحریمی ہے۔ مستورات کا اپنی علیحدہ جماعت کرانا بھی مکروہ ہے۔

۱۱۔ **مسئلہ** : شہر میں جمعہ کے دن ظہر کی نماز کے لیے اذان ناجائز ہے اگرچہ ظہر کی نماز پڑھنے والے معذور ہوں۔ یعنی جن پر جمعہ فرض نہ ہو۔

۱۲۔ **مسئلہ** : اذان میں قبلہ کی طرف منہ نہ کرنا اقامت کی طرح جلدی جلدی ٹھہرے بغیر کہنا ترجیح کہنا یعنی چاروں شہادتیں آہستہ آہستہ کہنا پھر چاروں شہادتوں کو زور سے کہنا **حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ** کہتے وقت دائیں

بائیں منہ نہ پھیرنا بیٹھ کر اذان کہنا ایک شخص کا دو مسجدوں میں اذان کہنا۔ اور بلا وضو اذان کہنا مکروہ ہے۔

۱۳۔ **مسئلہ:** فاسق و فاجر خنثی، پاگل، نشے والا اور ناشکھ بچے اور اجنبی کی اذان مکروہ ہے ان سب کی اذان دوبارہ پڑھی جائے سمجھ دار بچے، غلام اور اندھے کی اذان درست ہے۔

۱۴۔ **مسئلہ:** اذان کہنے کا وہ اہل ہے جو نماز کے وقتوں کو پہچانتا ہو، مرد، عقلمند نیک، پرہیزگار، سنت نبوی سے واقف اور ذی وجاہت ہو، جو لوگ جماعت سے رہ جائیں ان کو تنبیہ کرنے والا ہو، اذان پابندی اور مداومت سے دیتا ہو اور اجرت محض ثواب اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اذان کہتا ہے۔ اگر موذن نابینا ہو اور صحیح وقت بتانے والا ہے تو اس کا اور آنکھ والے کا اذان کہنا برابر ہے اگر موذن ہی امام بھی ہو تو بہتر ہے۔

۵۔ **جواب اذان:** جب اذان سنو تو ارشاد نبوی کے مطابق جواب دینے کا حکم ہے اور یہ دو قسم کا ہے ایک فعلی جواب اور دوسرا قولی جواب۔

اذان کا فعلی جواب تو یہ ہے کہ جو شخص اذان سنے اس پر واجب ہے کہ اذان سنتے ہی سب کام چھوڑ دے یہاں تک کہ قرآن پاک کی تلاوت بھی چھوڑ کر نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں حاضر ہو جائے۔

دوسرا قولی جواب یہ ہے کہ موذن جو لفظ کہے اس کے بعد سننے والا بھی وہی لفظ اور کلمہ کہے مگر **حَتَّىٰ عَلَى الصَّلَاةِ** اور **حَتَّىٰ عَلَى الْفَلَاحِ** کے جواب میں **لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ** کہے اور صبح میں **الصَّلَاةِ غَيْرَ مِمَّنِ التَّوْمِرِ** کے جواب میں **مِدْقَاتُ وَبَرَزَاتُ وَبِالْحَقِّ نَطَقْتُ** کہے۔

جب اذان ہو تو اتنی دیر کے لیے سلام، کلام اور سلام کا جواب اور تمام کام موقوف کر دے یہاں تک کہ قرآن پاک کی تلاوت بھی اتنی دیر موقوف کر دے اگر راستہ چل رہا ہے تو اتنی دیر کھڑا ہو جائے اور اذان کو غور سے سنے اور اس کا جواب دے اور یہی حکم اقامت میں بھی ہے جمعہ کے خطبہ کی اذان کا جواب دینا مقتدیوں کو جائز نہیں، جنسی یعنی جس پر غسل فرض ہے وہ بھی اذان کا جواب دے۔ اگر کئی اذانیں سنے تو پہلی اذان کا جواب دینا ضروری ہے اور سب کا جواب دینا بہتر ہے۔

جو شخص اذان کے وقت باتوں میں مشغول رہے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ معاذ اللہ خاتمہ برا ہونے کا ڈر ہے (اللہ تعالیٰ بچائے)

جب موذن کہے تو یہ الفاظ کہنے کے بعد درود شریف پڑھے اور مستحب اور بہتر ہے کہ آنکھوں کو بوسہ دے کر آنکھوں سے لگائے اور کہے۔

حیض و نفاس والی عورت خطبہ سننے والے نماز جنازہ پڑھنے والے جماع کر نیوالے

پیشاب پاخانہ کرنے والے اور علم دین سیکھنے اور سکھانے والے پر اذان کا جواب نہیں۔

۶۔ **دعا بعد از اذان:** حضرت عبد اللہ بن عمر عاصم سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا جو شخص اذان سن کر یہ دعا پڑھے :

اللَّهُمَّ رَبِّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ
مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالدرَجَةَ الرَّفِيعَةَ وَأَبْعَثْهُ مَقَامًا
مُحَمَّدًا الَّذِي وَعَدْتَهُ وَاجْعَلْنَا فِي شَفَاعَتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ

تو اس کے لیے میری شفاعت واجب ہوگئی (رواہ البخاری و ابوداؤد عن جابر)

طبرانی کی روایت میں ابن عباس سے اس دعا کے بعد واجعلنا فی شفاعتہ
یوم القیامتہ کے الفاظ بھی ہیں۔

نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا جب تم اذان سنو تو تم بھی وہی کہو جو موذن کہتا ہے پھر
(اذان کے بعد) مجھ پر درود پڑھو۔ بلاشبہ جس نے مجھ پر ایک بار درود پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر سات
بار درود و رحمت بھیجتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے میرے لیے وسیلہ (اذان کی دعا) مانگو اور وسیلہ جنت
میں ایک مرتبہ ہے۔ جو اللہ کے خاص بندوں میں سے صرف ایک مقبول بندے کو ملے گا اور مجھے
امید ہے کہ وہ میں ہوں تو جس نے میرے لیے وسیلہ یعنی اذان کی دعا مانگی اس کی شفاعت جائز
ہوگئی۔ (مسلم شریف)

۷۔ **اقامت:** فرضوں کے لیے اقامت جس کو عوام تکبیر کہتے ہیں سنت موکدہ ہے بلکہ
اقامت کا سنت ہونا اذان کی بہ نسبت زیادہ موکد اور افضل ہے جس نے اذان کہی اقامت کہنا بھی
اسی کا حق ہے اور موذن کی اجازت و رضا مندی کے بغیر کسی دوسرے کا اقامت کہنا مکروہ ہے ہاں
اگر اذان کہنے والا موجود نہ ہو تو پھر جو چاہے اقامت کہہ لے۔

اقامت اذان کی مثل ہے یعنی جو احکام اذان کے ہیں وہی اقامت کے بھی ہیں
صرف چند باتوں میں فرق ہے اس میں **حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ** کے بعد **قَدْ**
قامت الصلوة دو بار کہیں اس میں بھی آواز بلند ہو مگر اذان جتنی بلند نہ ہو بلکہ اتنی کہ
حاضرین تک آواز پہنچ جائے اقامت کے کلمات جلدی جلدی کہیں درمیاں میں سکتے اور وقفہ نہ
Marfat.com

کریں اقامت میں نہ ہاتھ کانوں پر رکھنا اور نہ کانوں میں انگلیاں رکھنا۔ اقامت کے لیے اذان کی طرح مسجد سے باہر اور بلند جگہ ہونا سنت نہیں اور نہ صبح کی اقامت میں **الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ** ہے اگر امام نے اقامت کہی تو **قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ** کے وقت آگے بڑھ کر مصلے پر چلا جائے اور اقامت میں بھی **حَتَّىٰ عَلَى الصَّلَاةِ حَتَّىٰ عَلَى الْفَلَاحِ** کے وقت دائیں بائیں منہ پھیرا جائے۔

اذان اور اقامت میں وقفہ کرنا سنت ہے۔ اذان کہتے ہی اقامت کہہ دینا مکروہ ہے یہ وقفہ اتنا ہو کہ جو لوگ پابند جماعت ہیں وہ آجائیں مگر اتنا انتظار نہ ہو کہ مکروہ وقت آجائے ہاں مغرب کی نماز میں یہ وقفہ تین چھوٹی آیتوں یا ایک بڑی آیت کے برابر ہو یعنی مغرب کی اذان کے بعد سنت کے مطابق درود پاک اور اذان کی دعائے مانگنے کے بعد اتنا وقفہ ہونا چاہئے اس سے زیادہ وقفہ بلا عذر شرعی مکروہ ہے۔

چاروں اماموں کے نزدیک اقامت کھڑے ہو کر سننا مکروہ ہے اس لیے اقامت کے وقت جو آدمی آئے تو اسے کھڑے انتظار نہیں کرنا چاہئے بلکہ بیٹھ جائے اور جو لوگ مسجد میں موجود ہیں وہ بھی بیٹھے رہیں اور اس وقت انھیں جب مکر **حَتَّىٰ عَلَى الْفَلَاحِ** پر پہنچے۔

امام کے لیے بھی یہی حکم ہے آج کل اکثر دیکھا گیا ہے کہ اقامت کے وقت لوگ کھڑے رہتے ہیں بلکہ جب تک امام مصلے پر کھڑا نہ ہو تکبیر نہیں کہی جاتی۔

مسافر نے اذان و اقامت دونوں نہ کہی یا اذان کہی مگر اقامت نہ کہی تو یہ مکروہ اور اگر صرف اقامت کہی تو مکروہ نہیں مگر بہتر یہ ہے کہ اذان بھی کہے اگر چہ تنہا ہو یا اس کے ساتھ اور ہمراہی مسافر بھی ہوں۔ شہر سے باہر کسی جگہ جماعت قائم کی اور اقامت نہ کہی تو مکروہ ہے اور اذان نہ کہی تو کوئی حرج نہیں ہاں خلاف اولیٰ ضرور ہے۔

اقامت کا جواب دینا مستحب ہے اور اس کے جواب بھی اذان کی طرح ہے فرق اتنا ہے کہ **قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ** کے جواب میں **أَقَامَهَا اللَّهُ وَآدَمَهَا** کہا جائے۔

۱۲۔ نماز کے اوقات

اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر دن اور رات پانچ نمازیں خاص اور مقررہ وقتوں میں فرض

Marfat.com

کی ہیں نماز اسی وقت صحیح اور عند اللہ قابل قبول ہوگی جب وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کے حکم کے مطابق اپنے وقت پر ادا کی جائے گی چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
كِتَابًا مَّقْضُوتًا (پ۔ نساء: ۱۰۳)

پیشک نماز مسلمانوں پر مقررہ اوقات میں فرض ہے۔ (پ۔ ۵۔ نساء: ۱۰۳)

سورت زوم میں پنجگانہ نماز کے وقتوں کی وضاحت اس طرح فرمائی گئی ہے۔

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ اللَّهِ جِدًّا تَمُتُونَ وَحِينَ
تَصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ه
(پ۔ روم: ۱۸)

اللہ کی تسبیح پڑھو جب تم شام کرو اور جب تم صبح کرو اور اسی کی تعریف ہے آسمانوں اور زمین میں اور کچھ دن رہے اور جب دوپہر ہو اس کی تسبیح کرو۔ (پ۔ روم آیت ۱۸)

اور دن کے دونوں کناروں پر نماز کو قائم کرو اور رات کے ٹکڑوں میں۔ (پ۔ ہود: ۱۱۳)

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفًا
مِّنَ اللَّيْلِ ط (پ۔ ہود: ۱۱۳)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ نماز کے لیے اول و آخر ہے۔ اول وقت ظہر کا اس وقت ہے کہ جب سورج ڈھل جائے اور آخر وقت اس وقت ہے کہ عصر کا وقت آجائے اور آخر وقت عصر کا اس وقت ہے کہ سورج پیلا پڑ جائے اور اول وقت مغرب کا اس وقت ہے کہ سورج ڈوب جائے اور مغرب کا آخر وقت اس وقت تک ہے کہ جب شفق (سرخ و سپیدی) مغرب کی طرف ڈوب جائے اور اول وقت عشاء کا اس وقت ہے کہ شفق ڈوب جائے اور آخری وقت عشاء کا اس وقت ہے جب آدھی رات ہو جائے (ترمذی شریف)

۱۔ نماز فجر کا وقت: فجر کی نماز کا وقت صبح صادق سے شروع ہوتا ہے اور طلوع آفتاب تک یعنی سورج کی کرن چمکنے تک رہتا ہے صبح دو قسم کی ہے۔ ایک صبح کاذب یا صبح اول اور دوسری صبح صادق اس کو صبح ثانی بھی کہتے ہیں صبح کاذب جس کو صبح اول بھی کہتے ہیں اس میں نماز کا وقت شروع نہیں ہوتا۔ فجر کا وقت دوسری صبح یعنی صبح صادق یا صبح ثانی سے شروع ہوتا ہے۔

صبح کاذب: اس سفیدی کو کہتے ہیں جو مشرق کی جانب کنارہ آسمان پر طولاً (لسبائی میں) پھیلتی ہے اور جلدی غائب ہو جاتی ہے اور پھر اندھیرا سا ہو جاتا ہے۔ اس سے فجر کا وقت شروع نہیں ہوتا۔

صبح صادق: صبح صادق یا صبح ثانی اس روشنی و سفیدی کو کہتے ہیں جو آسمان کے کنارہ پر عرضاً (چوڑائی میں) پھیلتی ہے اور بڑھتی جاتی ہے حتیٰ کہ تمام آسمان پر پھیل جاتی ہے اور زمین پر روشنی اور اجالا ہو جاتا ہے۔ اس سے نماز فجر کا وقت شروع ہوتا ہے اور سورج کی کرن چمکنے تک رہتا ہے۔

گھڑی کے حساب سے نماز فجر کا وقت ہمارے ملک (پاک و ہند) میں کم از کم ایک گھنٹہ اٹھارہ منٹ اور زیادہ سے زیادہ ایک گھنٹہ ۳۵ منٹ ہے۔ اکیس مارچ کو فجر کا ایک گھنٹہ اٹھارہ منٹ ہوتا ہے۔ پھر بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ ۲۲ جون کو پورا ایک گھنٹہ ۳۵ منٹ ہو جاتا ہے پھر کم ہونا شروع ہو جاتا ہے یہاں تک کہ ۲۲ ستمبر کو ایک گھنٹہ ۱۸ منٹ ہو جاتا ہے یہاں تک کہ ۲۲ دسمبر کو ایک گھنٹہ ۲۴ منٹ ہوتا ہے پھر فجر کا وقت کم ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ ۲۱ مارچ کو وہی ایک گھنٹہ ۱۸ منٹ رہ جاتا ہے۔

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا ”میری امت ہمیشہ فطرت یعنی دین حق پر رہے گی جب تک فجر کو نماز کو اجالے اور روشنی میں پڑھتی رہے گی۔“ (طبرانی)

حضرت رافع بن خدیج فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ فجر کی نماز اجالے اور روشنی میں پڑھو کہ اس میں بہت بڑا ثواب ہے۔ (ترمذی شریف)

حضرت انسؓ فرماتے ہیں نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا ”فجر اجالے میں پڑھنے سے تمہاری مغفرت ہو جائے گی۔“ حضرت انسؓ سے ہی دوسری روایت ہمیں ہے کہ جو فجر کی نماز کو روشن کر کے یعنی اجالے میں پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو قبر اور دل کو روشن کرے گا اور اس کی نماز قبول فرمائے گا۔ (ویلمی)

فجر کی نماز دیر اور تاخیر سے اجالے میں پڑھنا مستحب اور بہتر ہے یعنی خوب اجالا ہو جائے اور روشنی زمین پر پھیل جائے اس وقت فجر کی نماز پڑھنا زیادہ ثواب اور افضل ہے لیکن ایسا وقت مستحب ہونا چاہیے کہ ۴۰ سے ۶۰ آیتیں ترتیل کے ساتھ پڑھ سکے۔ پھر سلام پھیرنے کے بعد اتنا وقت باقی ہو کہ اگر نماز میں کوئی نقص اور فساد ظاہر ہو جائے تو دوبارہ طہارت و وضو کر کے نماز میں ۴۰ سے ۱۴۰ آیتیں ترتیل سے دوبارہ پڑھ سکے۔ اتنی دیر اور تاخیر کرنا کہ سورج طلوع ہونے کا شک پیدا ہو جائے مکروہ ہے۔

حاجیوں کو مزدلفہ میں فجر کی نماز اول وقت میں پڑھنا مستحب ہے عورتوں کو فجر کی نماز

اول وقت یعنی اندھے میں پڑھنا مستحب ہے۔ اور باقی نمازوں میں بہتر یہ ہے کہ مردوں کی جماعت کا انتظار کریں جب جماعت ہو چکے تو نماز پڑھیں۔

نماز ظہر کا وقت: ظہر کی نماز کا وقت سورج کے دو پہر سے ڈھلنے (زوال) کے بعد شروع ہوتا ہے اور ہر چیز کا سایہ دو گنا ہونے تک رہتا ہے سوائے اصلی سایہ کے عین دو پہر کے وقت ہر چیز کا جو سایہ ہوتا ہے اس کو اصلی سایہ کہتے ہیں اور یہ موسم اور علاقوں کے مختلف ہونے سے مختلف ہوتا ہے دن جتنا گھٹتا ہے اصلی سایہ بڑھتا جاتا ہے اور جتنا دن بڑھتا ہے اصلی سایہ کم ہوتا جاتا ہے یعنی سردیوں میں سایہ اصلی سایہ بڑھتا جاتا ہے اور جتنا دن بڑھتا ہے اصلی سایہ کم ہوتا جاتا ہے یعنی سردیوں میں سایہ اصلی زیادہ ہوتا ہے اگر گرمیوں میں کم ہوتا ہے۔ جب سورج دو پہر سے ڈھلنے لگتا ہے تو سایہ مشرق کی جانب بڑھنے لگتا ہے تو اسی لمحہ سے ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے پھر ہر چیز کا سایہ دو گنا (دو مثل) ہونے تک رہتا ہے لیکن سنت اور بہتر اور افضل یہ ہے کہ ظہر مثل اول میں پڑھی جائے۔

سردیوں میں ظہر کی نماز جلدی (اول وقت میں) پڑھنا مستحب اور بہتر ہے اگر میوں میں ظہر تاخیر سے اور ٹھنڈا کر کے پڑھنا مستحب اور افضل ہے۔ ہاں اگر گرمیوں کے دنوں میں ظہر کی جماعت اول وقت میں ہوتی ہو تو مستحب وقت کے لیے جماعت چھوڑنا ہرگز جائز نہیں موسم ربیع یعنی موسم بہار سردیوں کے حکم میں ہے اور موسم خریف یعنی پت جھڑکا موسم گرمیوں میں شمار ہوتا ہے کیونکہ نبی اکرم ﷺ نے گرمیوں میں ظہر کی نماز تاخیر سے پڑھنے کے متعلق فرمایا ہے چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا:

”جب گرمی تیز ہو جائے تو ظہر کی نماز ٹھنڈا کر کے پڑھو کیونکہ سخت گرمی دوزخ کے جوش سے ہوتی ہے دوزخ نے اپنے رب کے پاس شکایت کی کہ یا الہی۔ میرے شعلے ایک دوسرے کو کھائے جاتے ہیں تو اسے دو مرتبہ سانس لینے کی اجازت ہوئی ایک سردی میں اور ایک گرمی میں۔“ حضرت ابو ذرؓ فرماتے ہیں ہم نبی اکرم ﷺ کے ساتھ ایک مرتبہ سفر میں تھے کہ موذن نے ظہر کی اذان کہنی چاہی تو حضور نے فرمایا کہ ٹھنڈا کر۔ پھر کچھ دیر بعد پھر موذن نے اذان دینے کا ارادہ کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ ٹھنڈا کر۔ کچھ دیر بعد موذن نے اذان دینے کا ارادہ کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا ٹھنڈا کر حتیٰ کہ ہم نے سایہ نیلوں کے برابر دیکھا پھر نبی اکرم ﷺ نے فرمایا ”گرمی کی یہ تیزی دوزخ کے جوش سے پیدا ہوتی ہے لہذا جب گرمی تیز ہو جائے

تو ظہر کی نماز کو نماز ٹھنڈا کر کے پڑھو۔ (بخاری شریف)

حضرت ابو سعید خدریؓ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا ظہر ٹھنڈا کر کے پڑھو کیونکہ گرمی کی یہ تیزی دوزخ کے جوش سے ہے۔ (بخاری)

۳۔ نماز عصر کا وقت: عصر کا وقت ظہر کا وقت ختم ہونے سے غروب آفتاب تک ہے یعنی ہر چیز کے سایہ کے دو مثل (ڈگنا) ہونے کے بعد سے عصر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے اور سورج ڈوبنے تک رہتا ہے۔ بلا عذر سفر وغیرہ کے عصر کی نماز پڑھنے میں اتنی دیر کرنا کہ سورج زرد ہو جائے مکروہ تحریمی ہے بہتر و افضل یہ ہے کہ ظہر مثل اول میں پڑھیں اور عصر مثل ثانی کے بعد پڑھیں عصر کی نماز میں ہمیشہ تاخیر مستحب اور افضل ہے مگر اتنی تاخیر اور دیر نہ کریں کہ سورج زرد ہو جائے عموماً سورج میں زردی اس وقت آ جاتی ہے جب غروب میں بیس منٹ رہتے ہیں تو اسی قدر وقت مکروہ ہے تاخیر سے مراد ہے کہ مستحب وقت کے دو حصے کیے جائیں اور دوسرے حصے میں ادا کریں ہاں بارش اور ابر والے دن عصر کی نماز پڑھنے میں جلدی کریں تاکہ عصر کا مکروہ نہ آجائے۔

گھڑی کے حساب سے ہمارے ملک پاکستان اور ہندوستان میں عصر کا وقت کم از کم ایک گھنٹہ ۳۵ منٹ اور زیادہ سے زیادہ دو گھنٹے ۶ منٹ ہے۔ وہ اس طرح کہ عصر کا وقت ۲۳ اکتوبر سے آخر ماہ تک ایک گھنٹہ ۳۶ منٹ ہوتا ہے پھر یکم نومبر سے اٹھارہ فروری یعنی پونے چار مہینے تک عصر کا وقت تقریباً ایک گھنٹہ ۳۵ منٹ ہے ہمارے ملک میں سال میں یہ سب سے چھوٹا عصر کا وقت ہے۔ پھر انیس فروری سے مہینہ ختم ہونے تک عصر ایک گھنٹہ ۳۶ منٹ ہے پھر یکم مارچ سے مزید بڑھنا شروع ہو جاتا ہے حتیٰ کی ۲۲ جون سے مہینہ ختم ہونے تک عصر کا وقت دو گھنٹے ۶ منٹ ہو جاتا ہے اور یکم جولائی سے عصر کا وقت پھر کم ہونا شروع ہو جاتا ہے حتیٰ کہ ۱۲ اکتوبر کو عصر کا وقت غروب آفتاب سے ایک گھنٹہ ۳ منٹ پہلے شروع ہو جاتا ہے۔

حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا جس آدمی کی نماز عصر قضا ہوگئی تو یہ ایسا ہے گویا اس کا گھریا لوٹ گیا (بخاری شریف)

حضرت بریدہؓ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا جس نے نماز عصر چھوڑ دی اس کے تمام نیک عمل ضائع ہو گئے (بخاری)

حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا ”یہ منافق کی نماز ہے کہ بیٹھا سورج ڈوبنے کا انتظار کرتا رہے یہاں تک کہ جب سورج زرد اور پیلا ہو جائے اور شیطان کے سوسینگوں کے درمیاں جا پہنچے تو وہ اٹھے اور چار ٹھونگے مارے وہ اللہ تعالیٰ کو اس نماز میں بہت تھوڑا یاد کرتا ہے۔“ (مسلم شریف)

۴۔ نماز مغرب کا وقت: مغرب کی نماز کا وقت سورج غروب ہونے کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور شفق غائب ہونے تک رہتا ہے شفق اس سفیدی کا نام ہے جو مغرب کی جانب سرخی ڈوبنے کے بعد شمالاً جنوباً صبح صادق کی طرح پھیلی رہتی ہے۔

نماز مغرب کا وقت ہمارے ہاں کم از کم ایک گھنٹہ ۱۸ منٹ اور زیادہ سے زیادہ ایک گھنٹہ ۳۵ منٹ ہوتا ہے ہر دن کے صبح اور مغرب دونوں کی نماز کے وقت برابر ہوتے ہیں۔ بارش اور ابر والے دن کے سوا مغرب کی نماز میں ہمیشہ جلدی مستحب اور افضل ہے اور دو رکعت سے زیادہ تاخیر اور دیر کرنا مکروہ تحریمی ہے اور اگر بلا عذر سفر بیماری وغیرہ کے نماز مغرب میں اتنی تاخیر اور دیر کی کہ ستارے گتے گئے تو مکروہ تحریمی ہے۔

حضرت عقبہ بن عامرؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا میری امت ہمیشہ خیر پر قائم اور ثابت قدم رہے گی جب مغرب کی نماز پڑھنے میں اتنی جلدی کرو اور مغرب کی نماز میں تاخیر اور دیر کرو۔ (ابوداؤد)

۵۔ نماز عشاء کا وقت: عشاء کی نماز کا وقت مغرب کی طرف سفیدی ڈوبنے سے شروع ہوتا ہے اور صبح صادق تک رہتا ہے۔

نماز عشاء میں تہائی رات تک تاخیر اور دیر کرنا مستحب اور افضل ہے اور آدھی رات تک دیر کرنا مباح یعنی جائز ہے اور بغیر عذر سفر وغیرہ کے عشاء میں آدھی رات سے زیادہ تاخیر اور دیر کرنا مکروہ ہے کیونکہ یہ باعث تقلیل جماعت ہے یعنی جماعت میں لوگوں کے کم شامل ہونے کا سبب ہے۔

بارش اور ابر والے روز عشاء کی نماز پڑھنے میں تعجیل اور جلدی کرنا مستحب اور افضل ہے کیونکہ تاخیر اور دیر کرنے سے لوگ بارش اور اندھیرے کی وجہ سے جماعت میں نہ آسکیں گے۔ حضرت معاذ بن جبلؓ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ نماز عشاء تاخیر سے

پڑھا کرو بیشک تمہیں اس نماز کے ساتھ باقی تمام امتوں پر فضیلت دی گئی ہے اور تم سے پہلے اس نماز کی کو کسی نے نہیں پڑھا۔ (ابوداؤد شریف)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا اگر یہ بات ہوتی کہ میری امت پر مشقت ہو جائے گی تو میں کو حکم دیتا کہ ہر وضو کے ساتھ مسواک کریں

عشاء کی نماز تہائی یا آدھی رات تک موخر کر دیتا کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ آسمان پر خاص تجلی رحمت فرماتا ہے اور صبح تک فرماتا رہتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ اسے دوں ہے کوئی مغفرت و بخشش مانگنے والا کہ اسے دینا کو دوں ہے کوئی دعا کرنے والا کہ اس کی دعا قبول کروں (مسند امام احمد)

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا اگر مجھے اپنی امت کی تکلیف کا احساس و خوف نہ ہوتا تو میں ان کو عشا کی نماز تہائی رات یا آدھی رات تک دیر سے پڑھنے کا حکم دیتا ہے۔ (ترمذی شریف)

عشاء کی نماز کے بعد دنیا کی باتیں کرنا قصے کہانیاں کہنا سنا سخت مکروہ ہے۔ نبی اکرم ﷺ نے اس سے منع فرمایا ہے۔ ہاں عشاء کی نماز کے بعد ضروری باتیں۔ تلاوت قرآن پاک ذکر الہی دینی مسائل اور صالحین (نیک بندوں) کے حالات و قصے اور وعظ و نصیحت کہنا سنا اور مہمان سے بات چیت کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

۶۔ وتروں کا وقت : وتر کی نماز کا وقت عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد شروع ہوتا ہے اور طلوع فجر تک رہتا ہے عشاء اور وتر کی نماز میں ترتیب فرض ہے پہلے عشاء اور پھر وتر کی نماز پڑھی جائے اگر پہلے وتر پڑھے اور پھر عشاء کی نماز پڑھی تو وتر کی نماز نہیں ہوگی۔

حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا جس کو یہ اندیشہ ہو کہ وہ رات کے آخری حصہ میں نہ اٹھ سکے گا تو وہ وتر رات کے پہلے حصہ میں پڑھے اور جس کو یہ امید ہو کہ وہ رات کے آخری حصہ میں جاگ اٹھے گا تو پھر وہ وتر رات کے آخری حصہ (سحری) کے وقت پڑھے کیونکہ رات کے آخری حصہ میں نماز میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور یہ افضل ہے۔ (مسلم شریف)

۷۔ ممنوع اور مکروہ اوقات : ممنوع اور مکروہ اوقات کے متعلق شرعی مسائل

مندرجہ ذیل ہیں:-

۱۔ **مسئلہ**۔ سورج نکلنے وقت سورج ڈوبنے وقت اور ٹھیک دوپہر کے وقت کوئی نماز پڑھنی جائز نہیں لیکن اس دن کی عصر اگر نہیں پڑھی ہے تو سورج ڈوبنے کے وقت پڑھ لے مگر عصر میں اتنی دیر کر کے نماز پڑھنا سخت گناہ ہے۔

ان وقتوں میں نماز پڑھنا بھی ناجائز ہے اگر کسی نے قضا شروع کر لی تو واجب ہے کہ وہ توڑ دے اور صحیح وقت میں پڑھے اور اگر توڑی نہیں اور پڑھ لی تو فرض ذمہ سے تو فارغ ہو جائیگا اور گنہگار بھی ہوگا۔

ان وقتوں میں اگر کسی نے نفل نماز شروع کی تو وہ نماز واجب ہوگئی مگر اس وقت پڑھنا جائز نہیں۔ لہذا واجب ہے کہ نماز توڑ دے اور صحیح وقت میں قضا کرے اور اگر نماز پوری کر لی تو گنہگار ہوگا لیکن اس پر قضا واجب نہیں۔

۲۔ **مسئلہ**۔ ان تینوں وقتوں میں قرآن مجید کی تلاوت بہتر نہیں ہے اچھا یہ ہے کہ ان تینوں وقتوں میں کلمہ یا تسبیح یا درود شریف وغیرہ پڑھنے میں مشغول رہے۔ (عالمگیری)

۳۔ **مسئلہ**۔ اگر ان تینوں وقتوں میں جنازہ لایا گیا تو اسی وقت پڑھیں کوئی کراہت نہیں کراہت اس صورت میں ہے کہ جنازہ ان وقتوں میں سے پہلے لایا گیا مگر نماز جنازہ پڑھنے میں اتنی دیر کر دی کہ مکروہ وقت آ گیا (عالمگیری)

۴۔ **مسئلہ**۔ جب سورج کا کنارہ ظاہر ہو اس وقت سے لے کر تقریباً بیس منٹ تک کوئی نماز جائز نہیں سورج نکلنے کے بیس منٹ بعد جب سورج ایک لائچی کے برابر اونچا ہو جائے اس کے بعد ہر نماز چاہے نفل ہو یا قضا یا کوئی دوسری پڑھنی چاہیے۔

۵۔ **مسئلہ**۔ جب سورج ڈوبنے سے پہلے پیلا پڑ جائے اس وقت سے سورج ڈوبنے تک کوئی نماز جائز نہیں ہاں اگر اس دن عصر ابھی تک نہیں پڑھی ہے تو اس کو پڑھ لے نماز عصر ادا ہو جائے گی اگرچہ مکروہ ہوگی۔

۶۔ **مسئلہ**۔ ٹھیک دوپہر میں کوئی نماز جائز نہیں جو کوئی اس وقت نماز پڑھے وہ گنہگار ہے۔

۷۔ **مسئلہ**۔ بارہ وقتوں میں نفل اور سنت نمازیں پڑھنے کی ممانعت ہے وہ بارہ وقت یہ ہیں:

۱۔ صبح صادق سے سورج نکلنے تک فجر کی دو رکعت سنت اور دو رکعت فرض کے سوا دوسری

کوئی بھی نفل نماز پڑھنا منع ہے۔

۲۔ اقامت شروع ہونے سے جماعت ختم ہونے تک کوئی سنت و نفل پڑھنی مکروہ تحریمی ہے ہاں البتہ نماز فجر کی اقامت ہونے لگی اور اس کو یقین ہو کہ وہ فرض نماز ختم ہونے سے پہلے دو سنت ادا کرے گا جب بھی جماعت مل جائے گی اگرچہ قعدہ ہی سہی تو اس کو چاہیے کہ صفوں سے کچھ دور ہٹ کر فجر کی سنت پڑھ لے اور پھر جماعت میں شامل ہو جائے اور اگر وہ جانتا ہے کہ سنت پڑھے گا تو جماعت نہیں ملے گی تو اس کی سنت پڑھنے کی اجازت نہیں بلکہ اس کو چاہیے کہ بغیر سنت پڑھے جماعت میں شامل ہو جائے۔ فجر کی نماز کے علاوہ دوسری نمازوں میں اقامت ہو جانے کے بعد اگرچہ یہ جان لے کہ سنت پڑھنے کے بعد بھی جماعت مل جائے گی پھر بھی سنت پڑھنے کی اجازت نہیں بلکہ سنت چھوڑ کر فوراً ہی جماعت میں شامل ہو جانا چاہیے۔

۳۔ نماز عصر پڑھ لینے کے بعد سورج ڈوبنے تک کوئی نفل نماز پڑھنی مکروہ ہے۔ قضا نمازیں سورج ڈوبنے سے بیس منٹ پہلے تک پڑھ سکتا ہے۔

۴۔ سورج ڈوبنے کے بعد اور مغرب کا فرض پڑھنے سے پہلے کوئی نفل جائز نہیں۔

۵۔ جس وقت امام اپنی جگہ سے جمعہ کے خطبہ کے لیے کھڑا ہو اس وقت سے لے کر نماز جمعہ ہونے تک کوئی نماز سنت و نفل وغیرہ جائز نہیں۔

۶۔ عین خطبہ کے درمیان کوئی نماز سنت و نفل وغیرہ جائز نہیں۔ چاہے جمعہ کا خطبہ ہو یا عیدین کا یا اگر ہن کی نماز کا یا نماز استسقاء کا یا نکاح کا لیکن ہاں صاحب ترتیب کے لیے جمعہ کے خطبہ کے درمیان بھی قضا نماز کو پڑھ لینا لازم ہے۔

۷۔ عید کی نماز سے پہلے نفل نماز مکروہ ہے چاہے گھر میں پڑھے یا مسجد میں یا عید گاہ میں۔

۸۔ عیدین کی نماز کے بعد بھی عید گاہ یا مسجد میں نماز نفل پڑھنی مکروہ ہے۔ ہاں اگر گھر میں نفل پڑھے تو یہ مکروہ نہیں۔

۹۔ عرفات میں جو دو نمازیں ظہر و عصر ملا کر پڑھتے ہیں ان کے درمیان میں اور بعد میں بھی نفل و سنت پڑھنا مکروہ ہے۔

۱۰۔ مزدلفہ میں جو دو نمازیں مغرب و عشاء ملا کر پڑھتے ہیں ان کے درمیان میں نفل

وسنت پڑھنا مکروہ ہے بعد میں مکروہ نہیں۔

۱۱۔ جس بات سے دل بٹے اور اس کو دور کر سکتا ہو تو اس رکاوٹ کو دور کیے بغیر نماز متروک ہے مثلاً کھانے کی خواہش ہو اور کھانا موجود ہو تو کھانا کھا کر نماز پڑھے اگر پیشاب کی حاجت ہو تو پیشاب کر کے نماز پڑھے۔

۱۳۔ شرائط نماز

نماز کے درست اور صحیح ہونے کے لیے شریعت اسلامیہ نے کچھ پابندیاں عائد کی ہیں جنہیں شرائط نماز کہا جاتا ہے یہ شرائط دو طرح کی ہیں ایک نماز کے واجب ہونے کی اور دوسری شرائط نماز کے صحیح ہونے کی ہیں۔ جہاں تک نماز کے واجب ہونے کی شرائط کا تعلق ہے تو وہ چار ہیں۔ اول اسلام، دوم صحت، عقل، سوم بلوغ، چہارم وقت کا پایا جانا۔ پس ہر عاقل و بالغ مسلمان پر کتاب و سنت اور اجماع سے مقررہ اوقات میں نماز کا ادا کرنا فرض ہے اس کے علاوہ نماز کے صحیح ہونے کی شرائط چھ ہیں اول نمازی کے جسم کا پاک ہونا دوم نمازی کا لباس پاک ہونا۔ سوم مصلیٰ یا جائے نماز کا پاک ہونا، چہارم نمازی کے بدن کا پوشیدہ ہونا، یعنی کپڑے سے ڈھانپ کر رکھنا جیسا کہ ستر ڈھانپنے کے بارے حکم ہے، پنجم قبلہ کی طرف منہ ہونا، ششم نماز کی خاص خدا کے لیے نیت کرنا۔

ان تمام شرائط کا نماز سے قبل پورا کرنا لازم ہے ان کی تفصیل حسب ذیل ہے۔

۱۔ طہارت جسم: نماز کے لیے طہارت جسم اول ہے اگر نماز پڑھنے والے کے جسم پر کوئی نجاست غلاظت لگی ہوئی ہو جس کے لیے غسل ضروری ہوتا ہے تو اسے غسل کر لینا چاہیے اگر وضو کی ضرورت ہے تو نماز پڑھنے سے پہلے وضو کر لینا ضروری ہے لہذا یاد رکھو جسم جب تک نجاست حقیقی اور حکمی سے پاک نہ ہو گا نماز پڑھنا درست نہیں البتہ نماز پڑھنے والے کا جسم نماز سے پہلے کسی جب یا حیض و نفاس والی عورت کے جسم سے چھو جائے تو نماز ہو جائے گی۔

کسی شخص نے اپنے آپ کو بے وضو خیال کیا اور اسی حالت میں نماز پڑھ لی بعد معلوم ہو کہ وضو نہ تھا نماز نہ ہوگی۔

اگر نجاست قدر مانع سے کم ہے تب بھی مکروہ ہے پھر نجاست غلیظہ بقدر درہم ہے تو مکروہ تحریمی اور اس سے کم تو خلاف سنت ہے۔

امام کی جیب میں کوئی ناپاک کپڑا یا چیز ہو تو نماز ادا نہ ہوگی ایسے ہی اگر کوئی اکیلا نماز پڑھے اور اس کی جیب میں ناپاک کپڑا یا چیز ہو تو اس کی بھی نماز نہ ہوگی۔

ان مسائل سے معلوم ہوا کہ نماز پڑھنے سے پہلے طہارت جسم یعنی بدن کا پاک صاف ہونا ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل تقویٰ اور صوفیاء اس شرط کا خاص خیال رکھتے ہیں

پانچ طرح سے انسان کا جسم ناپاک ہو جاتا ہے اور ان صورتوں میں غسل کر کے اپنے آپ کو پاک کرنا فرض ہے اگر کوئی ان صورتوں میں پاکیزگی حاصل کیے بغیر نماز پڑھے لے تو وہ گنہگار ہوگا۔

۱۔ بیداری کی حالت میں اگر انسان کے جسم سے ناپاک مادہ نکل کر جسم پر لگ جائے تو اس صورت میں نہا کر اپنے آپ کو پاک کرنا ضروری ہے۔

۲۔ جماع سے غسل فرض ہو جاتا ہے اگر کوئی ایسی حالت میں ناپاک جسم سے نماز پڑھے گا تو گنہگار ہوگا۔

۳۔ احتلام سے بھی انسانی جسم ناپاک ہو جاتا ہے لہذا اس صورت میں بھی جسم پاک کیے بغیر اگر کوئی نماز پڑھے گا تو نماز نہ ہوگی۔

۴۔ حیض سے غسل ہو جاتا ہے اس لیے حیض کی حالت میں ناپاک جسم سے نماز پڑھنے سے عورت گنہگار ہوگی۔

۵۔ نفاس کی صورت میں بھی جسم کو پاک کر کے نماز پڑھنی چاہیے۔

۲۔ لباس کا پاک ہونا: نماز پڑھنے سے پہلے لباس کا پاک ہونا بھی شرط ہے یعنی نماز پڑھنے والے نے جو چیز بھی پہنی ہو اسے پاک صاف ہونا چاہیے قمیص، شلوار، ٹوپی، کوٹ، شروانی، چادر، کمبل، دستا، جرابیں، غرض نمازی نے جو چیز بھی پہنی ہو اس کا پاک ہونا ضروری ہے ورنہ نماز نہ ہوگی۔ کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ **وَتَيَابُكَ قَاطِبَةً** (اپنے کپڑوں کو صاف رکھو) لہذا نماز کے لیے لباس کا پاکیزہ ہونا ضروری ہے اگر نمازی کا کپڑا یا جسم نماز کے دوران بقدر مانع ناپاک چیز کو لئے ہوئے تھا اور اسی حالت میں شروع کر لی اور اللہ اکبر کہنے کے بعد جدا کیا تو نماز نہ ہوگی۔

ایسا لباس جو چوتھائی سے زیادہ نجس ہو اور نہ ہونے کے لئے پانی نہ ملے تو اس سے نماز

پڑھنا اس صورت میں جائز ہے جبکہ اس کے پاس کوئی اور کپڑا نہیں تو اسی میں نماز پڑھ لینا جائز ہے اور بعد میں اعادہ کی ضرورت نہیں۔

وہ کپڑا جو اکثر دھوبی کے پاس جاتا رہے اور دھوبی کسی دوسرے کا پینا اس کو بدل کر دے دے تو اس کپڑے کو لینا اور اس سے نماز پڑھنا اس صورت میں درست ہے جبکہ اپنا پینا جو گم ہو گیا اس کپڑے سے اچھا تھا یا مساوی تو اس کو استعمال میں لانا اور اس سے نماز پڑھنا درست ہے اگر اپنا خراب تھا اور یہ اچھا تو درست نہیں کامل تحقیق و تفتیش کے بعد بھی نشان نہ ملے تو اگر خود حاجت مند ہے تو استعمال کرنے ورنہ صدقہ کر دے۔

مرد کارلشی لباس پہن کر یا مرد اور عورت میں سے کسی کا ایسے کپڑے میں نماز پڑھنے جس میں کسی جاندار کی تصویر ہو، مکروہ تحریمی اور واجب الاعادہ ہے اگر کسی امام کے سر پر عمامہ کے بجائے ٹوپی ہو تو نماز مکروہ نہیں ہوتی۔ البتہ اگر کوئی آدمی سر پر پگڑی پہنے بغیر گھر سے نہ نکلتا ہو تو ایسے شخص کے لیے بلا عمامہ نماز مکروہ ہے خواہ امام ہو یا نہ ہو، غرض کراہت اس کے لیے ہے جو بلا عمامہ مجموعوں میں نہ جاتا ہو۔ اور بلا عمامہ جاتا ہو اس کے لیے مکروہ نہیں۔

رسول اکرم ﷺ نے فرمایا کہ پانچ چیزوں کی وجہ سے لباس کو پاکیزہ کیا جاتا ہے۔

- ۱۔ پاخانہ
- ۲۔ پیشاب
- ۳۔ تے
- ۴۔ خون اور
- ۵۔ منی سے

ایسے ہی ایک مرتبہ حضرت خولہ بنت یسار نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہمارے پاس ایک ہی کپڑا ہوتا ہے اس میں حیض آتا ہے آپ نے فرمایا کہ پاکی کے بعد خون کی جگہ گودھو کر اسی کپڑے میں نماز پڑھو۔ میں نے عرض کے اگر اس کا داغ ختم نہ ہو تو آپ نے فرمایا پانی سے دھولینا کافی ہے۔ اس کا نشان تمہیں کچھ نقصان نہ پہنچائے گا

۳۔ نماز کی جگہ کا پاک ہونا: نماز پڑھنے کے لیے جگہ کا پاکیزہ ہونا بھی شرط ہے لہذا جس جگہ پر نماز پڑھی جائے اس جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے یعنی اس جگہ کوئی حکمی یا حقیقی غلاظت نہ لگی ہو جگہ سے مراد زمین کا وہ حصہ ہے جو نمازی نماز پڑھتے وقت گھیرتا ہے خالی زمین کا پاک صاف ہونا بھی ضروری ہے اور اگر اس پر چٹائی یا مصلی ڈالا گیا ہو تو جگہ کے ساتھ چٹائی اور مصلی کا پاک ہونا بھی ضروری ہے اگرچہ نماز صحیح ہونے کے لیے صرف نماز والی جگہ کا

پاک ہونا شرط ہے لیکن ایسی جگہ پڑھنا اچھا نہیں۔ جو پاک تو ہے لیکن اس کے قریب ہی غلاظت ہے اور اس کی بو پھیل رہی ہو۔

حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے محلوں میں مسجدوں کے بنانے اور ان کو پاک صاف اور خوشبودار رکھنے کا حکم دیا (ابوداؤد)

ایک مقام پر حضرت سمرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے ہمیں محلوں میں مسجدیں بنانے اور ان کی اصلاح کرنا اور انہیں پاک صاف رکھنے کا حکم دیتے تھے۔

حضور ﷺ کے ان ارشاد سے معلوم ہوا کہ نماز کی جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی ناپاک زمین پر کپڑا بچھا کر نماز پڑھے تو نماز نہیں ہوگی کیونکہ جگہ پاک ہے البتہ چھت، تخت، برف اور پل پر نماز پڑھ لینا جائز ہے اگر وہاں کی جگہ پاک ہو۔

ایسے ہی کشتی جہاز اور پل پر بھی نماز پڑھنا جائز ہے۔ البتہ سات جگہوں پر نماز پڑھنا منع ہے۔

- | | | |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|
| ۱۔ ناپاک جگہ | ۲۔ ذبح خانہ | ۳۔ قبرستان |
| ۴۔ سڑک اور شارع عام | ۵۔ غسل خانہ | ۶۔ اونٹ بیٹھنے کی جگہ |
| ۷۔ بیت اللہ شریف کی چھت پر۔ | | |

لکڑی کے تختے یا پتھر یا انیٹوں پر یا پتھر یا ایسی ہی کسی موٹی یا سخت چیز پر نماز پڑھیں بشرطیکہ اس کا وہ رخ جس پر نماز پڑھی پاک ہو تو نماز ہو جائے گی۔ دوسرا رخ ناپاک ہو تو کچھ مضائقہ نہیں۔ اور اگر پتلے کپڑے پر نماز پڑھی اور اس کے دوسرے رخ نجاست تھی تو نماز نہ ہوگی اگر کپڑا ڈھرا ہو اور دونوں تہیں آپس میں سلی ہوئی نہ ہوں اور اوپر والی اتنی موٹی ہوں کہ نیچے کی نجاست کارنگ یا بومسوس نہ ہو تو نماز ہو جائے گی اور اگر دونوں تہیں سلی ہوں تو احتیاط اس میں ہے کہ اس پر نماز نہ پڑھیں۔ چھت، خیمہ، سائبان وغیرہ ناپاک ہو اور وہ نماز پڑھنے والے کے سر سے لگیں جب بھی نماز ہونہ ہوگی۔

جس جگہ نماز پڑھے اس کے ظاہر ہونے سے مراد موضع سجود و قدم کا پاک ہونا ہے یعنی جس چیز پر نماز پڑھنا ہو اس کا پاک ہونا بھی شرط صحت نماز ہے۔

۴۔ اگر جگہ نماز میں مردانہ لباس لگے ہو تو اس پر نماز پڑھنا صحیح ہے اور بیروں

کے علاوہ باقی تمام جسم کا سر سے پاؤں تک لباس سے چھپانا فرض ہے۔

عورت کے ہر حال میں ستر واجب ہے خواہ نماز میں ہو یا نہ ہو تنہا ہو یا کسی کے سامنے ہو۔ اپنے مرد کے ساتھ شرع خلوت کے علاوہ ستر کھولنا جائز نہیں اور لوگوں کے سامنے نماز میں تو ستر یعنی جسم وہ حصہ مرد و عورت پر جس کا چھپائے رکھنا واجب ہے۔ اس کو چھپانا بالجماع فرض ہے۔ یہاں تک کہ اگر اندھیرے مکان میں اگرچہ وہاں کوئی نہ ہو ننگے نماز پڑھی تو بالاتفاق نہ ہوگی۔

عورت کے لئے تنہائی میں جبکہ وہ نماز میں نہ ہو تو سارا بدن چھپانا واجب نہیں بلکہ ناف سے گھٹنے تک چھپانا واجب ہے مگر اخلاقی تقاضا یہی ہے کہ جسم کو ستر میں رکھا جائے۔ محرم یعنی وہ مرد جس کے ساتھ اس کا نکاح قطعاً جائز نہیں کے سامنے پیٹ چھپانی اور پیٹھ کا لوٹانا بھی ضروری نہیں لیکن غیر محرم (جس کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے) اس کے سامنے اور نماز کے لئے اگرچہ تنہا اندھیری کوٹھڑی میں ہو۔ سوامنہ اور دونوں ہتھیلیوں اور دونوں پیروں کے باقی تمام بدن کا چھپانا فرض ہے۔

اتنا باریک کپڑا جس سے بدن نظر آئے بستر کے لئے کافی نہیں۔ ایسا کپڑا پہن کر نماز پڑھی تو ہرگز نہ ہوگی۔ اسی طرح اگر چادر میں سے عورت کے بالوں کی سیاہی چمکے تو اس میں نماز نہ ہوگی اور ایسا کپڑا پہننا جس سے ستر عورت نہ ہو سکے علاوہ نماز کے بھی حرام ہے۔

ایسا موٹا کپڑا جس سے بدن کا رنگ نہ چمکتا ہو مگر بدن کے ساتھ ایسا چپکا ہو چست اور تنگ ہو کہ دیکھنے سے جسم کے اعضاء کی ساخت اور ہیئت معلوم ہوتی ہے۔ اس میں نماز تو ہو جائے گی مگر دوسروں کو اس کے مقام ستر کی طرف دیکھنا جائز نہیں۔ لہذا ایسے تنگ اور چست لباس کو لوگوں کے سامنے پہننا منع ہے اور مستورات کے لئے ایسا تنگ اور چست لباس پہننا بدرجہ اولیٰ منع اور ناجائز ہے۔

مرد پر ہر حالت میں ناف کے نیچے سے گھٹنوں تک بدن کا چھپانا فرض ہے۔ ناف اس حکم میں داخل نہیں اور گھٹنے اس میں داخل ہیں۔ پیش بے باک قسم کے مرد ایسے ہوتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے گھٹنے بلکہ ران تک کھولے رکھتے ہیں۔ یہ اچھا نہیں اور ایسی عادت کو ترک کر دینا چاہیے۔

جن اعضاء کا نماز میں چھپانا فرض ہے ان میں سے کوئی عضو چوتھائی سے کم کھل گیا تو

نماز ہوگئی۔ یا چوتھائی عضو کھل گیا اور فوراً چھپا لیا تو پھر بھی نماز ہوگئی۔ ہاں اگر باندازہ ایک رکن یعنی تین بار سبحان اللہ کہنے کے چوتھائی عضو کھلا رہا یا جان بوجھ کر کھولا۔ اگرچہ فوراً چھپا لیا تو نماز ٹوٹ گئی۔ اگر نماز شروع کرتے وقت چوتھائی عضو کھلا تھا اور اس حالت میں اللہ اکبر کہہ لیا تو نماز منعقد نہ ہوگی۔

مرد و تین کپڑوں شلوار پاجامہ وغیرہ کرتا اور عمامہ ٹوپی وغیرہ میں نماز پڑھنا مستحب ہے اور ایک کپڑے میں بھی نماز جائز ہے جب کہ تمام بدن ڈھک جائے صرف تہبند وغیرہ میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔

عورت کو بھی تین کپڑوں شلوار پاجامہ کرتا اور دوپٹہ میں نماز پڑھنا مستحب ہے اور اگر دو کپڑوں میں نماز پڑھے تو بھی جائز ہے اور ایک کپڑے میں بھی نماز جائز ہے بشرطیکہ سر سے پاؤں تک تمام بدن ڈھک جائے ورنہ نہیں۔

عورتوں کا سارا بدن سوا چہرہ ہتھیلیوں اور پیروں کے یعنی اس کا چھپانا فرض ہے۔ سر کے لٹکے ہوئے بال اور گردن اور کلائیوں کا چھپانا بھی فرض ہے۔ مستورات کا سارا بدن جس کا چھپانا فرض ہے اور وہ میں اعضاء پر مشتمل ہے ان میں سے کوئی عضو کا اگر باندازہ ایک رکن کے چوتھائی عضو کھل گیا یا جان بوجھ کر کھولا اگرچہ فوراً چھپا لیا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔

عورت کا سر لٹکے ہوئے بال دونوں کان گردن گلے سمیت دونوں کندھے دونوں بازو کہلیوں سمیت کہنی کے نیچے سے گٹے تک دونوں کلائیوں سینہ گلے کے جوڑے سے پستانوں کے نیچے تک دونوں پستان اور دونوں پنڈلیاں گٹوں سمیت یہ سب ایک علیحدہ علیحدہ عضو ہیں۔ ان میں سے کوئی عضو اگر باندازہ ایک رکن کے چوتھائی عضو نماز میں کھل گیا یا خود کھولا تو نماز جاتی رہی۔

عورت کا چہرہ اگرچہ اس کا چھپانا ضروری نہیں مگر بوجہ فتنہ کے غیر محرم کے سامنے منہ کھولنا منع ہے۔ یونہی غیر محرم مردوں کو اس کی طرف دیکھنا بھی جائز نہیں ہے۔

مردوں کو ریشمی کپڑا پہننا حرام ہے۔ ہاں اگر کسی مرد کے پاس ستر کے لئے جائز کپڑا نہیں اور ریشمی کپڑا ہے تو فرض ہے کہ اسی سے ستر کرے اور اسی میں نماز پڑھے اگر کسی کے پاس بالکل کپڑا نہیں تو وہ شرمگاہ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ کر نماز پڑھے۔ دن ہو یا رات اور رکوع و سجود اشارے سے سترے تاکہ زیادہ بے پردگی نہ ہو اور ایسے شخص کے لئے بیٹھ کر نماز پڑھنا قیام نے افضل ہے۔

اور اشارہ رکوع و جود سے افضل ہے۔ برہنہ ہرگز نہ پڑھے۔ اگر برہنہ شخص کو کہیں سے کپڑا مل جانے کی امید ہو تو وہ نماز کے آخر وقت تک انتظار کرے۔ جب دیکھے کہ نماز جا رہی ہے تو برہنہ ہی نماز پڑھے۔ اگر برہنہ شخص کو چٹائی یا بوریا وغیرہ مل جائے تو اس سے ستر کرے ننگانہ پڑھے اسی طرح گھاس یا پتوں سے ستر کر سکتا ہے۔ تو کرے۔

۵۔ استقبال قبلہ : نماز کی پانچویں شرط استقبال قبلہ ہے یعنی نماز میں قبلہ (کعبہ) کی طرف منہ کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ :-

قَدْ تَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ
فَلْتَوَلِّ يَنَّا قَبْلَكَ تَرْضَاهَا قَوْلِ
وَجْهِكَ سَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ
شَطْرَكَ - (پ ۲ - البقرہ)

ہم دیکھ رہے ہیں تمہارا آسمان کی طرف منہ کرنا تو ضرور ہم تمہیں پھیر دیں گے اس قبلہ کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے پس ابھی اپنا منہ پھیر دو مسجد حرام کی طرف۔ اور اے مسلمانو! تم جہاں کہیں ہو (نماز میں) اپنا منہ اسی کی طرف کرو۔

(پ ۲: بقرہ)

نبی اکرم ﷺ نے ابتدا میں سولہ یا سترہ مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ لیکن حضور اکرم ﷺ کو پسند یہ تھا کہ کعبہ قبلہ ہو۔ چنانچہ آپ کی رضا کے مطابق اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو قبلہ بنانے کا یہ مذکورہ حکم نازل فرمایا اور نماز میں کعبہ کی طرف منہ کرنا ضروری قرار دے دیا گیا۔

حضرت ابو حمید ساعدی فرماتے ہیں نبی اکرم ﷺ جب نماز ادا کرنے کیلئے کھڑے ہوتے تو کعبہ کی طرف منہ کرتے اور (کانوں تک) ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہتے۔ (ابن ماجہ)

نماز میں کعبہ کی طرف منہ کرنا فرض ہے اور یہ نماز کی پانچویں شرط ہے۔ نماز خالص اللہ تعالیٰ ہی کے لئے پڑھی جائے اور اسی کو سجدہ کیا جائے۔ صرف منہ کعبہ کی طرف ہونا چاہیے۔ اگر کسی نے کعبہ کو سجدہ کیا تو حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ اگر نماز میں عبادت کعبہ کی نیت کی تو ایسا کرنے والا مشرک اور کھلا کافر ہے کیونکہ غیر اللہ کی عبادت کفر و شرک ہے۔

خاص مکہ مکرمہ میں رہنے والوں کے لئے جنہیں بیت اللہ بآسانی نظر آسکے انہیں بعینہ کعبہ شریف کی طرف منہ کرنا فرض ہے اور دوسروں کے لئے صرف اس جہت کو منہ کرنا فرض ہے جیسے پاکستان کے رہنے والوں پر مغرب کی طرف منہ کرنا ضروری ہے۔ یہاں کعبہ اسی جہت میں

ہے اور اگر کعبہ کے اندر نماز تو جس طرف چاہے منہ کر کے پڑھے۔ کعبہ کی چھت پر نماز پڑھتا درست نہیں۔ اگر صرف حطیم کی طرف منہ کر کے اس طرح نماز پڑھی کہ کعبہ شریف سامنے نہ آیا تو نماز نہ ہوگی۔

کعبہ شریف صرف عمارت کا ہی نام نہیں بلکہ زمین کے نیچے تخت العری سے عرش تک اس مقدس فضا کا نام کعبہ ہے۔ اس لئے گہرے سمندر کی تہہ پہاڑ کی بلندی ترین چوٹی اور ہوائی جہاز میں بھی صرف کعبہ کی سمت اور جہت کی طرف نماز پڑھنا جائز ہے۔ چلتی کشتی یا ریل وغیرہ میں نماز پڑھے تو نماز شروع کرتے وقت قبلہ کو منہ کرنا فرض ہے۔ پھر جیسے وہ گھومتی جائے یہ بھی قبلہ کو منہ پھیرتا جائے۔

شہروں اور آبادی میں قبلہ پہچاننے کی علامتیں اور نشانیاں مسجدیں، جنگلوں اور دریاؤں میں ستارے اور آدمی ہیں۔ لہذا اگر کوئی شخص ایسے موقع پر کسی آدمی سے قبلہ دریافت نہ کرے اور ستاروں وغیرہ یا دوسری نشانیوں سے قبلہ کی شناخت نہ کرے اور صرف اپنی سوچ اور انداز سے نماز پڑھے تو یہ جائز نہیں۔ ہمارے ملک کے اکثر شہروں میں قطب ستارہ نماز کی کے داہنے کندھے کی سیدھ پر ہو تو بالکل منہ کے سامنے کعبہ ہوتا ہے۔

جہاں قبلہ پہچاننے کی کوئی علامات نہ پائی جائیں جیسے جنگل وغیرہ اور نہ کوئی ایسا آدمی قریب ہو جو قبلہ کی سمت بتائے اور کسی طریقہ سے بھی معلوم نہ ہو سکے کہ قبلہ کس طرف ہے تو ایسی جگہ آدمی پر یہ فرض ہے کہ وہ تخری کرے یعنی سوچے اور اپنی رائے اور قیاس سے جس طرف قبلہ ہونا والے میں آئے اور وہی منہ کر کے نماز پڑھے اگر تخری کیے بغیر نماز پڑھی تو نماز نہ ہوگی۔ اگر سوچ بچار کر کے ایک طرف کو قبلہ سمجھ کر نماز پڑھ رہا تھا کہ نماز کے درمیان معلوم ہوا کہ قبلہ اس طرف نہیں بلکہ دوسری طرف ہے تو اس پر واجب ہے کہ وہ نماز کے اندر فوراً اسی طرف پھر جائے۔ پہلے جو نماز پڑھی وہ بالکل درست ہے اسی طرف اتر چاروں رکعتیں تخری سے چاروں طرف منہ کر کے پڑھیں تو جائز ہے ماں اگر راتے بدلنے کے ساتھ ہی فوراً اس طرف نہ پھیرا بلکہ تین بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار و طریق تو نماز فاسد ہو جائے گی۔

نماز میں کسی عذر کے بغیر ہی جان بوجھ کر قبلہ سے سینہ پھیرا یا اگرچہ فوراً ہی قبلہ کی طرف پھر لیا پھر بھی نماز فاسد ہوئی۔ ہاں اگر بلا قصد غلطی سے قبلہ سینہ پھرا اور پھر فوراً ہی قبلہ کی طرف پھیر لیا تو نماز ہو جائے گی۔ اور اگر قبلہ سے کسی طرف سینہ پھیرنے میں تین بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار اور طریق تو نماز فاسد ہو جائے گی۔

اگر نمازی نے صرف منہ قبلہ سے پھیرا تو واجب ہے کہ وہ جلدی منہ قبلہ کی طرف کرے۔ اور نماز ہو جائے گی لیکن بلا عذر ایسا کرنا مکروہ ہے۔

جو شخص استقبال قبلہ یعنی نماز میں قبلہ کی طرف منہ کرنے سے عاجز ہو مثلاً بیمار ہو اور وہ خود قبلہ کی طرف منہ نہیں کر سکتا اور کوئی اس کے پاس بھی نہیں جو اس کا منہ قبلہ کی طرف کر دے یا اس کو قبلہ کی طرف منہ کرنے سے تکلیف ہوتی ہے تو ایسی صورت میں وہ جس طرف منہ کر کے نماز پڑھ سکے پڑھے یہ جائز ہے اور اس پر نماز کا اعادہ یعنی لوٹانا بھی ضروری نہیں ہے۔

۶۔ **نیت**: چھٹی شرط نماز کی نیت کرنا ہے۔ نیت کا معنی لغت میں قصد و ارادہ ہے اور شریعت میں کسی عمل کو خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے واسطے ادا کرنے کی پختہ دلی ارادہ کو نیت کہتے ہیں۔ نماز میں نیت صرف اللہ تعالیٰ کے لئے نماز شروع کرنے کے مضبوط دلی ارادہ کو کہا جاتا ہے۔

نماز کی نیت کے الفاظ زبان سے ادا کرنے فرض نہیں لیکن مستحب یہ ہے کہ زبان سے بھی نیت کے الفاظ ادا کیے جائیں تاکہ دل اور زبان میں موافقت ہو جائے اور زبان سے ولی ارادے اور نیت کی تصدیق بھی ہو جائے۔

نماز میں نیت کا معمولی درجہ یہ ہے کہ اگر کوئی پوچھے کوئی نماز پڑھتا ہے تو فوراً بلا تاکل بتا دے۔ اگر ایسی حالت ہے کہ سوچ کر بتائے گا تو نماز نہ ہوگی کیونکہ اگر نماز شروع کرتے وقت دل حاضر ہوگا تو فوراً بتائے گا کہ میں نماز ظہر کے فرض پڑھتا ہوں۔

نیت چونکہ پختہ دلی ارادہ کا نام ہے اس لئے نیت میں زبان کا اعتبار نہیں مثلاً اگر دل میں ظہر کا ارادہ ہے اور زبان سے عصر کا لفظ نکل گیا تو ظہر کی نماز ہوگئی اور الفاظ میں نیت بصیغہ ماضی کرنی چاہیے۔ ”جیسے نیت کی میں نے“۔ زبان سے نیت کے الفاظ ادا کرنے میں عربی عبارت ضروری نہیں ہر زبان میں نیت کے الفاظ ادا کئے جاسکتے ہیں۔

نماز شروع کرنے سے پہلے نیت کرنی فرض ہے۔ اگر نماز شروع کرنے کے بعد یعنی تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد نیت کی تو نماز نہ ہوگی۔ اگر نیت کرنے کے بعد اور نماز شروع کرنے سے پہلے درمیان میں کوئی منافی نماز فعل مثلاً کھانا پینا وغیرہ پایا گیا تو نماز نہ ہوگی۔ اگر وضو کرنے سے پہلے دل میں نماز کی نیت کر لی اور پھر بعد میں نماز کے لئے مسجد کی طرف چلنا پایا گیا تو نماز ہو جائے گی۔ کیونکہ وضو اور نماز کے لئے چلنا یہ کام منافی نماز (فاضل، جنبی) نہیں۔ ہاں احتیاط اور زیادہ بہتر ہے۔ کہ اللہ اکبر کہتے وقت نماز کی نیت حاضر ہے۔

فرض اور واجب نمازوں کی نیت میں فرض اور واجب کا تعین کرنا بھی فرض ہے کہ میں جس نماز کو پڑھتا ہوں یہی فرض ہے یا واجب اگر یہ تعین نہ کیا تو نماز نہ ہوگی۔ مثلاً آج کی نماز ظہر یا آج کی نماز عصر کے فرض۔ اور واجب نمازوں میں جیسے عید الفطر، عید قربان، نذر نماز بعد طواف یا وہ نفل جن کو قصد اتوڑا کیونکہ ان کی قضا بھی واجب ہو جاتی ہے۔ یونہی سجدہ تلاوت میں بھی نیت کا تعین ضروری ہے۔ ان کے علاوہ باقی سنت اور نفل نمازوں میں صرف نماز کی نیت ہی کافی ہے مگر بہتر ہے کہ ان میں بھی تعین کیا جائے۔

نیت میں رکعتوں کی تعداد کا تعین ضروری نہیں بلکہ بہتر و افضل ہے اگر رکعتوں کی تعداد میں غلطی ہوگئی مثلاً تین رکعتیں ظہر یا چار رکعتیں مغرب کی نیت کی تو نماز ہو جائے گی۔

مقتدی کے لئے امام کی اقتداء کی نیت کرنا بھی ضروری ہے اور امام کے لئے امامت کی نیت کرنا ضروری نہیں۔ ہاں امام کو جماعت کا ثواب ملنا امامت کی نیت پر موقوف ہے۔ لہذا امام دل میں امامت کی نیت کرے۔ کعبہ شریف کی جانب منہ کرنے کی نیت کرنا شرط نہیں ہاں ضروری ہے کہ کعبہ شریف سے اعراض کی نیت نہ ہو۔

طریقہ نیت: زبان سے نیت کے الفاظ اس طرح ادا کرنے چاہئیں۔ ”نیت کی میں نے آج کے دو رکعت فرض نماز فجر کی یا چار رکعت فرض ظہر کی۔ خاص اللہ تعالیٰ کے واسطے۔ منہ میرا طرف خانہ کعبہ شریف کے (اگر جماعت سے پڑھتا ہو تو یہ کہے) پیچھے اس امام صاحب کے اللہ اکبر۔ تکبیر تحریر کہتے وقت دل میں نیت حاضر ہونی چاہیے۔

وتر کی نیت اس طرح کرے نیت کی میں نے تین رکعت نماز وتر واجب خاص اللہ تعالیٰ کے واسطے منہ طرف کعبہ شرف کے اللہ اکبر۔

سنت نمازوں میں اس طرح نیت کرے۔ ”نیت کی میں نے چار رکعت سنت ظہر کی متابعت رسول اللہ ﷺ کے منہ میرا کعبہ شریف کے۔ اللہ اکبر۔

ہر نماز کی نیت کا طریقہ تفصیلی طور پر بیان کیا جاتا ہے تاکہ بچوں کو آسانی رہے۔

۱۔ طریقہ نیت نماز فجر

(۱)۔ نیت ۲ سنت: صبح کی نماز کی دو سنتوں کی نیت کا طریقہ یہ ہے کہ زبان سے کہے کہ نیت کی میں نے دو رکعت نماز سنت فجر واسطے اللہ تعالیٰ کے سنت رسول اللہ ﷺ کی منہ میرا طرف کعبہ شریف۔ اللہ اکبر۔

(۲)۔ **نیت ۲ فرض:** نیت کی میں نے دو رکعت نماز فرض فجر واسطے اللہ تعالیٰ کے پیچھے اس امام کے منہ میرا طرف کعبہ شریف کے اللہ اکبر۔ اگر اکیلے پڑھے تو پیچھے اس امام کے نہ کہے۔

۲۔ طریقہ نیت نماز ظہر

(۱)۔ **نیت ۴ سنت:** نیت کی میں نے ۴ رکعت نماز سنت ظہر بندگی اللہ تعالیٰ کی سنت رسول اللہ کی منہ میرا طرف کعبہ شریف کے۔ اللہ اکبر۔

(۲)۔ **نیت ۴ فرض:** نیت کی میں نے ۴ رکعت نماز فرض ظہر کی بندگی اللہ تعالیٰ کی پیچھے اس امام کے منہ طرف کعبہ شریف کے اللہ اکبر۔ اگر اکیلا پڑھے تو پیچھے اس امام کے نہ کہے۔

(۳)۔ **نیت ۴ سنت:** نیت کی میں نے ۴ رکعت نماز سنت ظہر کی بندگی اللہ تعالیٰ کی سنت رسول اللہ ﷺ کی منہ کعبہ شریف کے اللہ اکبر۔

(۴)۔ **نیت ۲ نفل:** نیت کی میں نے ۲ رکعت نماز نفل بندگی اللہ تعالیٰ کی منہ طرف کعبہ شریف اللہ اکبر۔

۳۔ طریقہ نیت نماز عصر

(۱)۔ **نیت ۴ سنت عصر:** نیت کی میں نے ۴ رکعت نماز سنت غیر موندہ عصر کی بندگی اللہ تعالیٰ کی۔ سنت رسول اللہ کی منہ طرف کعبہ شریف کے اللہ اکبر

(۲)۔ **نیت ۴ فرض عصر:** نیت کی میں نے ۴ رکعت نماز فرض عصر بندگی اللہ تعالیٰ کی پیچھے اس امام کے منہ طرف کعبہ شریف کے۔ اللہ اکبر۔

۴۔ طریقہ نیت نماز مغرب

(۱)۔ **نیت ۳ فرض مغرب:** نیت کی میں نے ۳ رکعت نماز فرض مغرب کی۔ اللہ کے لئے پیچھے اس امام کے منہ طرف کعبہ شریف کے اللہ اکبر کیا پڑھے تو پیچھے اس امام کے نہ کہے۔

(۲)۔ **نیت ۴ سنت مغرب:** نیت کی میں نے ۴ رکعت نماز سنت مغرب بندگی اللہ تعالیٰ کے لئے پیچھے اس امام کے منہ طرف کعبہ شریف کے اللہ اکبر۔

(۳)۔ نیت ۲ نفل مغرب : نیت کی میں نے دو رکعت نماز نفل مغرب کی اللہ تعالیٰ کے لئے منہ طرف کعبہ شریف کے اللہ اکبر۔

۵۔ طریقہ نیت نماز عشاء

(۱)۔ نیت ۴ سنت عشاء : نیت کی میں نے ۴ رکعت نماز سنت عشاء کی 'بندگی اللہ تعالیٰ کی۔ سنت رسول اللہ کی منہ طرف قبلہ شریف کے۔ اللہ اکبر۔

(۲)۔ نیت ۴ فرض عشاء : نیت کی میں نے ۴ رکعت فرض نماز مغرب 'بندگی اللہ تعالیٰ کی 'سنت رسول اللہ کی 'منہ میرا طرف کعبہ شریف کے۔ اللہ اکبر۔ اگر اکیلا پڑھے تو پیچھے اس امام کے نہ کہے۔

(۳)۔ نیت ۲ سنت عشاء : نیت کی میں نے دو رکعت نماز سنت عشاء کی۔ بندگی اللہ تعالیٰ کی۔ سنت رسول اللہ کی۔ منہ میرا طرف کعبہ شریف کے اللہ اکبر۔

(۴)۔ نیت ۲ نفل : نیت کی میں نے ۲ رکعت نفل نماز عشاء کی 'بندگی اللہ تعالیٰ کی منہ میرا طرف کعبہ شریف کے۔ اللہ اکبر۔

(۵)۔ نیت و تر : نیت کی میں نے ۳ رکعت نماز واجب وتر عشاء کی 'بندگی اللہ کی منہ میرا طرف کعبہ شریف کے اللہ اکبر۔ اگر رمضان المبارک امام کے ساتھ پڑھیں تو پھر اس میں پیچھے اس امام کے کا اضافہ کریں۔

(۶)۔ نیت ۲ نفل : نیت کی میں نے ۲ رکعت نماز نفل عشاء کی۔ بندگی اللہ تعالیٰ کی۔ منہ میرا طرف کعبہ شریف کے اللہ اکبر۔

۶۔ طریقہ نیت نماز جمعہ

(۱)۔ نیت فرض جمعہ : نیت کی میں نے ۲ رکعت نماز فرض جمعہ کی 'بندگی اللہ تعالیٰ کی۔ پیچھے اس امام کے منہ طرف کعبہ شریف کے اللہ اکبر۔

۷۔ طریقہ نیت نماز عید الفطر

نیت ۲ رکعت : نیت کی میں نے ۲ رکعت نماز عید الفطر کی 'ساتھ زائد چھ تکبیروں۔ بندگی اللہ تعالیٰ کی 'پیچھے اس امام کے منہ طرف کعبہ شریف کے اللہ اکبر۔

marfat.com

۸۔ طریقہ نیت نماز عید الاضحیٰ

(۱)۔ نیت ۲ رکعت : نیت کی میں نے ۲ رکعت نماز عید الاضحیٰ کی بندگی اللہ تعالیٰ کی ساتھ زائد چھ تکبیروں کے پیچھے اس امام کے منہ طرف کعبہ شریف کے۔ اللہ اکبر۔

۱۲۔ فرائض نماز

نماز کے سات فرض ہیں جنہیں ارکان نماز بھی کہا جاتا ہے یعنی:

- | | | |
|-----------------|---------|---------------|
| ۱۔ تکبیر تحریمہ | ۲۔ قیام | ۳۔ قرأت |
| ۴۔ رکوع | ۵۔ سجدہ | ۶۔ قعدہ اخیرہ |
| ۷۔ خروج بھنعہ | | |

نماز کے ان سات فرائض یا ارکان میں سے اگر ایک فرض بھی بھول کر یا جان بوجھ کر رہ جائے تو ساری نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اور اس نماز کا اعادہ یعنی دوبارہ از سر نو پڑھنا فرض ہوتا ہے۔ فرائض کی تفصیل حسب ذیل ہے۔

۱۔ **تکبیر تحریمہ**: نماز کا پہلا فرض تکبیر تحریمہ ہے یعنی اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرنا، ارشاد باری تعالیٰ ہے:-

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَذَكَّرَ وَذَكَرَ اسْمَهُ رَبِّهِ فَصَلَّى۔
یعنی اس نے فلاح پائی جس نے تذکرہ کیا اور اپنے رب کا نام لیا پھر نماز پڑھی۔

حضرت وائل بن حجر فرماتے ہیں میں نے نبی اکرم ﷺ کو دیکھا جبکہ آپ نماز پڑھنے کے لئے کھڑے ہوئے آپ نے (تکبیر تحریمہ کے لئے) ہاتھ اٹھائے۔ حتیٰ کہ آپ کی دونوں ہتھیلیاں دونوں کندھوں کے برابر ہو گئیں اور دونوں انگوٹھوں کے برابر کیا پھر آپ نے اللہ اکبر کہا۔ دوسری روایت میں بیان کرتے ہیں کہ آپ نے دونوں انگوٹھوں کو کانوں کے نرموں تک اٹھایا۔ (ابوداؤد شریف)

تکبیر تحریمہ کہنے کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر دونوں انگوٹھے کانوں کے نرم حصے سے ہلائے جائیں اور ہتھیلیاں قبلہ رخ ہوں۔ انگلیاں نہ بالکل ملی ہوئی ہوں اور نہ زیادہ کھلی ہوں بلکہ درمیانہ حالت میں ہوں۔ پھر اللہ اکبر کہا جائے۔

جو نماز کھڑے ہو کر پڑھنا فرض ہے اس میں تکبیر تحریمہ بھی کھڑے ہو کر پڑھنا فرض ہے۔ اگر بیٹھ کر اللہ اکبر کہا اور پھر کھڑا ہو گیا تو نماز نہ ہوگی۔ اگر کسی نے امام کو رکوع میں پایا تو تکبیر تحریمہ قیام کی حالت میں ہی پوری کہہ کر رکوع میں جانا چاہیے۔ اگر ہاتھ گھٹنوں کے قریب پہنچنے کے بعد تکبیر ختم کی نماز نہ ہوگی۔ بعض لوگ رکعت پانے کے لئے جلدی سے ایسا کر گزرتے ہیں ان کی وہ نماز نہ ہوگی۔ بعض لوگ رکعت نماز کا پہلا فرض اور رکن صحیح ادا نہیں ہوا۔

۲۔ **قیام** : نماز کا دوسرا فرض قیام ہے یعنی فرض نماز وتر، دونوں عیدوں کی نماز اور سنت فجر کھڑے ہو کر پڑھنا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :-

وَقَوْمُوا لِلَّهِ قَائِمِينَ

(پ، البقرہ)

اور کھڑے رہو (نماز میں) اللہ ہی کے فرمانبردار بن کر۔ (پ ۲: البقرہ)

بلا عذر شرعی فرض وتر، دونوں عیدوں کی نماز اور فجر کی سنتیں، اگر بیٹھ کر پڑھیں تو نہ ہوں گی۔ کیونکہ یہ نمازیں کھڑے ہو کر پڑھنا فرض ہیں۔ ان نمازوں میں قیام (کھڑا ہونا) اتنی دیر تک فرض ہے جتنی مقدار میں قرأت فرض ہے یعنی باندازہ قرأت فرض (ایک آیت کے) قیام فرض ہے اور سورت فاتحہ اور چھوٹی سورت ساتھ ملا کر پڑھنے کی مقدار قیام واجب ہے اور اس سے زیادہ قیام سنت ہے۔

عذر شرعی جس کی وجہ سے نماز میں قیام معاف ہو جاتا ہے وہ تین ہیں۔ اول بیماری دوسرا برہنگی یعنی ستر کے لئے کپڑا نہ ملنا اور تیسرا بڑھاپا۔ ہلکی قسم کے بیماری یا کوئی معمولی تکلیف کوئی ایسا عذر نہیں جس سے قیام کی فرضیت معاف ہو جائے۔ بلکہ قیام اس وقت معاف ہو گا جبکہ بالکل کھڑا ہو ہی نہ سکے۔ یا کھڑا ہونے سے ناقابل برداشت تکلیف ہوتی ہے ان تمام صورتوں میں بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے۔

اگر دیوار یا لاشی یا خادم کے سہارے کھڑا ہو سکتا ہے تو نماز کھڑے ہو کر پڑھنا فرض ہے اگر تھوڑی دیر بھی کھڑا ہونا ممکن ہو۔ اگرچہ تکبیر تحریمہ کہنے کی مقدار ہی کھڑا ہو سکے یعنی اتنی دیر جتنا وقت نیت باندھ کر اللہ اکبر کہہ کر پھر بیٹھ جائے۔ اتنا اگر کمزور ہے کہ مسجد میں جماعت کے لیے جانے کے بعد کھڑے ہو کر پڑھے کیونکہ قیام فرض ہے اور جماعت واجب اور واجب کے لیے فرض چھوڑنا جائز نہیں۔

اگر ایک شخص جماعت میں جلدی سے جھکے جھکے آ کر شریک ہو گیا اور صرف تکبیر تحریمہ

کبھی تکبیر انتقال جو رکوع میں جاتے وقت کہی جاتی ہے نہ کہہ سکا تو دیکھا جائے گا اگر اتنا جھکا ہوا آیا تھا کہ ہاتھ گھٹنوں پر پہنچ رہے تھے یعنی بالکل رکوع کی حالت میں آیا تھا تو اس کو یہ رکعت نہیں ملی۔ نیز اگر رکعت میں قیام فرض تھا اور اس کو قیام نہ ملا اور اگر کھڑے ہو کر تکبیر کہی اور پھر رکوع گیا مگر رکوع میں جاتے وقت تکبیر نہ کہی تو قیام صحیح ہے اور رکعت مل گئی۔

۳۔ **قرأت:** قرآن مجید پڑھنے کو قرأت کہا جاتا ہے نماز میں قرآن کی کم از کم ایک آیت پڑھنا یا اس کے بعد شروع کرنا اور سورۃ فاتحہ یعنی الحمد پڑھنا واجب ہے۔ سورۃ فاتحہ کو اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے بعد شروع کریں نماز میں اعوذ باللہ اور بسم اللہ قرأت کے تابع ہیں اور مقتدی پر قرأت نہیں اس لیے اعوذ باللہ اور بسم اللہ کا پڑھنا بھی مقتدی کے لیے مسنون نہیں۔ البتہ جس مقتدی کی کوئی رکعت رہ گئی ہو تو جب وہ اپنی باقی ماندہ رکعت پڑھے تو اعوذ اور بسم اللہ پڑھے۔ تعوذ صرف پہلی رکعت میں ہے اور بسم اللہ ہر رکعت کے اول میں مسنون ہے اور فرض کی ہے، رکعتوں میں نماز وتر سنت اور نفل کی تمام رکعتوں میں سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی اور سورۃ یا ایک آیت یا تین چھوٹی آیتیں پڑھنا بھی واجب ہے فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت کے سوا ہر نماز کی ہر رکعت میں خواہ وہ نماز فرض ہو یا واجب یا سنت یا نفل سورۃ فاتحہ پڑھنا واجب ہے اس کے متعلق احادیث نیچے ہیں۔

قرآن پاک میں قرأت کے بارے میں رب عزوجل کا ارشاد ہے:-

فَاقْرَءْ وَآمَّا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ۔ قرآن سے جو میسر آئے پڑھو۔

ایک اور مقام پر ارشاد ہوا ہے کہ:-

وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعْ لَهُ وَأَنْصِتْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے سنو اور چپ رہو اس امید پر کہ رحم کیے جاؤ۔

ان آیات کریمہ سے یہ معلوم ہوا کہ نماز میں مطلق قرأت فرض ہے کسی خاص سورۃ یا آیت کے پڑھنے کا تعین نہیں جس وقت قرآن کریم پڑھنے جائے نماز میں خواہ نماز کے علاوہ اس وقت سنا اور خاموش رہنا واجب و لازم ہے اس سے یہ بات اخذ ہوتی ہے کہ آیت مقتدی کے سننے اور خاموش رہنے کے بارے میں ہے۔

نماز کی ہر رکعت میں سورت فاتحہ یعنی الحمد کا پڑھنا واجب ہے اس کے بارے میں احادیث میں کئی روایات ہیں۔

حضرت عبادہ بن صامت سے روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو سورۃ فاتحہ نہ پڑھے (متفق علیہ) مسلم کی ایک روایت میں ہے اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو الحمد اور سورۃ نہ پڑھے۔ (مشکوٰۃ شریف)

قرآن پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ تمام حروف اس جگہ سے اور اسی طرح ادا کیے جائیں جو ان کے لیے مقرر ہے تاکہ ہر حرف دوسرے حرف سے ممتاز ہو جائے اور پہچانا جاسکے۔

جس جگہ کچھ پڑھنا یا کہنا مقرر کیا گیا ہے اس سے یہ مقصد ہے کہ کم از کم آہستہ پڑھنے میں بھی اتنا ضرور ہے کہ خود سن سکے۔ اگر کسی نے اس قدر آہستہ پڑھا کہ خود بھی نہ سن سکے اور شور و غل وغیرہ بھی نہیں تو نماز نہ ہوگی۔

۴۔ رکوع: نماز میں فرض رکوع کرنا ہے۔ لغت میں رکوع کا معنی جھکنا ہے اور شریعت میں نماز کے اندر قیام کی حالت۔ قرأت کی اوائلی کے بعد اتنا جھکنا کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں اور پیٹھ سیدھی بچھ جائے۔

ایسا کبڑا آدمی جس کی پیٹھاں جھکا ہوئی ہو کہ اسے کے ہاتھ ہر وقت گھٹنوں تک پہنچ رہے ہوں تو وہ رکوع کے لیے سر سے اشارہ کرے بیٹھ کر رکوع کرنے میں پیشانی زانو کے سامنے ہو اس طرح کہ نہ سر زانوؤں کے ساتھ لگا ہوا ہو اور نہ پچھلا حصہ اٹھا ہوا ہو

۵۔ السجود: نماز کا پانچواں فرض بررکت میں دو سجدے کرنا ہے شریعت میں عبادت کی نیت سے انتہائی عاجزی اور انکساری سے اپنی پیشانی زمین پر رکھنے کو سجدہ کہتے ہیں سجدہ میں پاؤں کی انگلیوں کے پینت کا زمین کے ساتھ اچھی طرح لگنا سجدہ کی لازمی شرط ہے۔

حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں جسم کے سات حصوں کے ساتھ سجدہ کروں

۱۔ پیشانی کے ساتھ

۲۔ دونوں ہاتھوں

۳۔ دونوں گھٹنوں اور

۴۔ دونوں پیروں کی انگلیوں کے ساتھ

(سجدہ کروں) اور سجدہ میں نہ ہم کپڑے سمٹیں اور نہ بال سمٹیں۔ (بخاری شریف)

سجدہ میں زمین پر پیشانی ناک سمیت دونوں ہتھلیاں دونوں گھٹنوں اور دونوں پیروں کی انگلیوں کے پینت اچھی طرح زمین کے ساتھ لگنے چاہئیں۔ سجدہ میں ناک اور پیشانی

دونوں زمین ساتھ کے لگانا ضروری ہے۔ اگر کسی نے بلا عذر صرف پیشانی پر سجدہ کیا اور ناک زمین پر نہ رکھی تو یہ مکروہ ہے اور اگر سجدہ میں صرف ناک زمین پر رکھی اور پیشانی نہ رکھی تو سجدہ بالکل نہیں ہوگا۔ ہاں عذر کے ساتھ صرف پیشانی یا صرف ناک پر بھی سجدہ جائز ہے اور اگر ناک اور پیشانی دونوں میں کوئی ایسا عذر اور تکلیف ہو جس کی وجہ سے ان پر سجدہ نہ ہو سکے تو ایسا شخص سجدہ کے لیے اشارہ کرے۔

گھاس، روٹی اور قالین جیسی نرم چیزوں پر سجدہ کیا تو اگر پیشانی جم گئی یعنی اتنی دب کہ دوبارہ دبانے سے نہ دبے تو جائز ورنہ نہیں کمائی دار یا فوم کے گدے پر سجدے میں پیشانی خوب نہیں دیتی اس لیے ان پر سجدہ جائز نہیں۔ بعض جگہ سردیوں میں مسجد میں پیال بچھاتے ہیں وہاں اس مسئلہ کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ کیونکہ اگر زمین پر پیشانی اچھی طرح نہ لگے تو نماز ہی نہ ہوئی اور اگر ناک ہڈی تک نہ لگے تو مکروہ تحریمی۔ واجب الاعدادہ ہے۔

پگڑی وغیرہ کے بیچ پر سجدہ کیا اگر ماتھا اچھی طرح زمین کے ساتھ لگ گیا تو سجدہ ہو گیا ورنہ نہیں۔ کسی چھوٹے پتھر پر سجدہ کیا اگر پیشانی کا اکثر حصہ لگ گیا تو سجدہ ہو گیا ورنہ نہیں ہوگا ایسی جگہ پر سجدہ کیا جو قدموں کی جگہ سے ایک بالشت اونچی ہے تو سجدہ ہو گیا۔ اگر وہ جگہ ایک بالشت سے زیادہ اونچی ہو تو سجدہ نہ ہوگا اگر سجدہ کرنے کے بعد ناک یا پیشانی کو کنکرے کا ٹٹا چھیننے کی وجہ سے اٹھا کر دوبارہ سجدہ کیا تو یہ ایک ہی سجدہ ہوگا اور نماز ہو جائے گی اس طرح اگر مقتدی نے رکوع یا سجدہ میں امام سے پہلے سر اٹھا کر دوبارہ پھر سجدہ کیا یا رکوع کیا تو رکوع اور سجدہ ہو گیا اور نماز درست ہوگی۔ اگر سجدہ کی حالت میں دونوں پاؤں زمین سے اٹھے رہے تو نماز نہ ہوگی سجدہ میں کم از کم پاؤں کی ایک انگلی کے پیٹ کا زمین کے ساتھ اچھی طرح لگا رہنا سجدہ کے صحیح ہونے کی شرط ہے۔ آدمی کی پیٹھ پر سجدہ کرنا معذور آدمی کے لیے جائز ہے بشرطیکہ وہ آدمی جس کی پیٹھ پر یہ سجدہ کر رہا ہے۔ بھی نماز پڑھ رہا ہو۔ نہ تو خالی بیٹھا ہو اور کوئی دوسری نمازی پڑھ رہا ہو معذور کا مطلب یہ ہے کہ جگہ بہت تنگ ہو مثلاً عیدین یا جمعہ کی نماز میں آدمی اس قدر زیادہ ہوں کہ عید گاہ یا مسجدوں میں صاف زمین کرنے کے لیے نہ ملے تو مجبوراً سامنے والے آدمی کی پشت پر سجدہ کر لے۔

ایک شخص نے ناک اور پیشانی سجدہ سے اٹھا کر فوراً زمین پر رکھ دی اس صورت میں نہ ف ایب سجدہ ہوگا۔ اس طرح مقتدی امام سے پہلے رکوع یا سجدہ سے سر اٹھالے اور فوراً ہی پھر

جھکائے تو بھی ایک ہی رکوع اور ایک ہی سجدہ ہوگا اور نماز درست ہو جائے گی۔

سجدہ اور قدموں کی جگہ ہموار ہونی چاہیے لیکن اگر ایک بالشت اونچی ہوگی تو بھی سجدہ جائز ہے اور اس سے زیادہ اونچی جگہ پر بلا عذر سجدہ کرنا جائز نہیں پہلا سجدہ کر کے کم از کم اتنا اٹھنا چاہیے کہ بیٹھنے کے قریب ہو جائے پھر دوسرا سجدہ کرے اگر اس سے پہلے سجدہ کر لے گا تو بقول صحیح دوسرا سجدہ نہ ہوگا۔

۶۔ آخری قعدہ: نماز کا چھٹا رکن اور فرض آخری قعدہ ہے یعنی نماز کی ساری رکعتیں پوری کرنے کے بعد اتنی دیر تک بیٹھنا کہ التحیات عبودہ ورسولہ تک پڑھ لی جائے فرض ہے قعدہ کا معنی التحیات پڑھنے کے لیے بیٹھنا ہے نماز خواہ دو رکعت والی ہو یا تین چار اور چار رکعت والی فرض واجب ہو یا سنت اور نفل۔ سب میں آخری قعدہ یعنی آخری التحیات پڑھنے کے لیے بمقدار تشہد پڑھنے کے لیے بیٹھنا فرض ہے۔ اگر پورا آخری قعدہ سوتے میں گزر گیا تو جاگنے کے بعد بقدر التحیات پڑھنے کے لیے بیٹھنا فرض ہے ورنہ نماز نہ ہوگی۔ اسی طرح اگر رکوع وجود میں اول سے آخر تک سوتا رہا تو جاگنے کے بعد ان کا عادیہ (لوٹانا) فرض ہے اور آخر میں سجدہ سہو بھی کرے۔ ورنہ نماز نہ ہوگی اگر پوری رکعت سوتے ہوئے پڑھ لی تو نماز ٹوٹ گئی۔

چار رکعت والی نماز فرض میں اگر چوتھی رکعت کے بعد قعدہ نہ کیا تو جب پانچویں رکعت کا سجدہ نہ کیا ہو بیٹھ جائے اور سجدہ سہو کر کے نماز پوری کرے نماز ہو جائے گی اگر پانچویں رکعت کا سجدہ کر لیا یا فجر میں دوسری رکعت کے بعد نہیں بیٹھا اور تیسری رکعت کا سجدہ کر لیا یا مغرب میں تیسری رکعت کے بعد نہیں بیٹھا اور چوتھی رکعت کا سجدہ کر لیا تو ان تمام صورتوں میں فرض باطل ہو گئے۔ اور یہ نمازیں نفل ہو گئیں لہذا مغرب کے سوا باقی نمازوں میں ایک رکعت اور ملا کر آخر میں سجدہ سہو کیا جائے۔

بقدر تشہد پڑھنے کے یعنی التحیات۔ عبودہ ورسولہ تک پڑھنے کے بعد یاد آیا کہ سجدہ تلاوت یا نماز کا کوئی ایک سجدہ رہ گیا ہے اور پھر سجدہ کر لیا تو فرض ہے کہ سجدہ کے بعد پھر بقدر تشہد بیٹھے۔ وہ پہلا قعدہ جاتا رہا۔ قعدہ نہ کرے گا تو نماز نہ ہوگی۔

۷۔ خروج بصلہ: نماز کا ساتواں فرض خروج بصلہ ہے جس کا مطلب ارادہ اور فعل ہے یعنی سلام کے ساتھ نماز کو پایہ تکمیل تک پہنچانا۔ سلام کے سوال کسی اور طریقہ اور فعل سے رخصت نماز سے باہر آیا تو نماز واجب الایمان ہے یعنی اس کا دوبارہ پڑھنا فرض ہے اور اگر بلا

ارادہ کسی قول و فعل سے باہر آیا نماز باطل ہے قیام رکوع وجود اور آخری میں قعدہ ہو اگر قیام سے پہلے رکوع کر لیا پھر قیام تو وہ رکوع جاتا رہا اب قیام کے بعد پھر رکوع کریگا تو نماز ہو جائیگی ورنہ نہیں اس طرح رکوع سے پہلے سجدہ کر لیا تو اب اگر سجدہ کے بعد رکوع کیا اور پھر سجدہ کیا تو نماز ہو جائیگی ورنہ نہیں۔

نماز میں جو چیزیں فرض ہیں ان میں امام کی متابعت و پیروی مقتدی پر فرض ہے یعنی ان فرضوں سے کوئی فرض اگر مقتدی نے امام سے پہلے ادا کر لیا اور پھر امام کے ساتھ یا امام کے ادا کرنے کے بعد دوبارہ ادا کیا تو نماز نہ ہوگی۔ مثلاً مقتدی نے امام سے پہلے رکوع یا سجدہ کر لیا اور امام کے رکوع یا سجدہ میں آنے سے پہلے ہی سر اٹھا لیا تو اب اگر مقتدی نے امام کے ساتھ یا بعد میں رکوع و سجدہ کر لیا تو نماز ہوگئی ورنہ نہیں۔ اور مقتدی پر یہ بھی فرض ہے کہ وہ امام کی نماز کو اپنے خیال میں صحیح سمجھتا ہو اور اگر مقتدی اپنے نزدیک امام کی نماز کو باطل سمجھتا ہو تو اسکی نماز نہ ہوگی اگرچہ امام کی نماز صحیح ہوگی۔

۱۵۔ مسنون طریقہ نماز

رسول اکرم ﷺ کی سنت کے مطابق نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ نماز کے وقت میں با وضو کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے سیدھے کھڑے ہو جائیں اور قدموں میں چار انگلی کا فاصلہ ہو پھر دل سے نیت کریں اور نیت کے مطابق زبان سے الفاظ ادا کرنا بھی مستحب اور بہتر ہے یعنی اس طرح کہیں کہ نیت کی میں نے چار رکعت نماز ظہر کی واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا طرف کعبہ شریف کے اگر جماعت کے ساتھ پڑھتے ہوں تو کہیں پیچھے اس امام کے پھر مرد دونوں ہاتھ کانوں تک اس طرح اٹھائیں کہ ہتھیلیاں قبلہ کی طرف ہوں اور انگلیاں اپنے حال پر ہوں۔ بالکل ملی ہوئی ہوں اور نہ زیادہ کھلی ہوئی ہوں اور انگوٹھے کانوں کے زموں سے چھو جائیں۔ اس وقت تکبیر تحریر یعنی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ فوراً ناف کے نیچے اس طرح باندھیں کہ داہنے ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی پشت پر ہو اور داہنے ہاتھ کے انگوٹھے اور چھوٹی انگلی سے بائیں ہاتھ کے گٹے کو اعلیٰ بغل کر کے پکڑیں اور باقی تین انگلیاں بائیں ہاتھ کی کلائی پر رکھیں عورتیں ہاتھ کندھوں کے برابر اٹھا کر سینے پر اس طرح باندھیں کہ داہنی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی پشت پر ہو۔ پھر نگاہ سجدہ کی جگہ پر رکھ کر شا پڑھیں۔

ثناء:

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ
وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ
وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ

پاک ہے تو اے اللہ اور تیری تعریف کرتا ہوں
اور برکت و بلا ہے نام تیرا اور بلند ہے شان تیری
اور نہیں کوئی معبود سوائے تیرے۔

اگر امام کے پیچھے جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہوں تو ثناء پڑھ کر بالکل خاموش
رہیں اور امام کی قرأت سنتیں اور اگر تنہا نماز پڑھتے ہوں تو ثناء کے بعد تعوذ تسمیہ سورہ فاتحہ اور کوئی
چھوٹی سورت یا تیس آیتیں پڑھیں۔

تعوذ:

عُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

میں پناہ مانگتا اللہ کی شیطان مردود سے۔

تسمیہ:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان
اور نہایت رحم والا ہے۔

سورۃ الفاتحہ:

لْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
رَحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ مَلِكِ يَوْمِ
الْقِيَامِ ۝ إِلَهِكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ
سْتَعِينُ ۝ اهْدِنَا الصِّرَاطَ
الْمُسْتَقِيمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِينَ
أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ
عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ۝ آمِينَ

سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہاں
کا رب ہے بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے
قیامت کے دن کا مالک ہے الہی ہم تیری
ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے
ہیں دکھا ہمیں سیدھا راستہ ان لوگوں کا راستہ
جن پر تو نے انعام کیا نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر
تیرا غضب ہوا اور نہ گمراہوں کا۔

سورۃ الاظہار:

هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝
يَلِدُ وَلَمْ يُولَدْ ۝ وَلَمْ
يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝

اے نبی کہہ دو وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ بے نیاز
ہے نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ کسی سے جنا
گیا۔ اور اس کا کوئی مد مقابل نہیں۔

پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں مرد دونوں ہاتھوں سے گھٹنوں کو اس ط
پکڑیں کہ ہتھیلیاں گھٹنوں پر ہوں اور انگلیاں خوب پھیلی ہوئی ہوں پینہ برابر رکھی ہوئی ہو سرن
ہوا ہو اور نہ اوپر کو اٹھا ہوا ہو بلکہ کمر کے برابر ہونا نکمیں سیدھی ہوں اور بازو بھی۔

تسبیح رکوع:

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ ۝
پاک ہے میرا رب عظمت والا۔

عورتیں رکوع میں تھوڑا جھکیں۔ صرف اتنا کہ ہاتھ گھٹنوں پر پہنچ جائیں۔ انگلیاں
ہوئی ہو اور ہتھیلیاں گھٹنوں پر ہوں۔

تسبیح: پھر منفرد سَمِيعَ اللّٰهِ لِمَنْ حَمِدَكَ ۝ (سن لی اللہ نے اس کی جس نے
کی تعریف کی) کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیں اور پھر قومہ میں کہیں۔

تحمید:

رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ
اے ہمارے رب سب تعریفیں تیرے ہی
ہیں۔

اگر جماعت کے ساتھ ہوں تو امام صرف تسبیح یعنی سَمِيعَ اللّٰهِ لِمَنْ حَمِدَكَ کہے
مقتدی صرف تحمید یعنی رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ کہے۔

پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ میں جائیں اس طرح کہ زمین پر پہلے دونوں گھٹنے رک
پھر دونوں ہاتھ پھر ناک اور پھر پیشانی زمین پر رکھیں پیشانی سجدہ میں دونوں ہتھیلیوں
درمیان اس طرح رکھیں کہ انگوٹھے کان کے نرموں کے برابر انگلیاں ملی ہوئی قبلہ رخ ہوں اور
سجدہ میں بازوؤں کو کروٹوں سے اور پیٹ کو رانوں سے اور رانوں کو پنڈلیوں سے جدا رکھیں
کہنیاں زمین سے اٹھی ہوئی ہوں اور دونوں پیروں کی انگلیوں کے پیٹ زمین کے ساتھ ا
طرح لگے ہوئے ہوں اور انگلیوں کے سرے قبلہ رو ہوں اور سجدہ میں نظر ناک کی طرف رکھیں
بڑے اطمینان سے کم از کم تین بار تسبیح پڑھیں۔

تسبیح سجدہ:

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى
پاک ہے میرا رب اونچی شان والا۔

عورتیں سجدہ مردوں کو برعکس سمٹ کر کریں۔ اس طرح کہ کہیں اس زمین سے بازو پہلوؤں سے پیٹ رانوں سے ران پنڈلیوں سے اور پنڈلیوں سے زمین کے ساتھ ملی رہیں اور دونوں پاؤں دائیں طرف زمین کے ساتھ بچھے ہوئے ہوں۔

پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ سے سر اٹھائیں اس طرح کہ زمین سے پہلے پیشانی پھر ناک پھر دونوں ہاتھ اٹھائیں پھر داہنا پاؤں کھڑا کر کے اس کی انگلیاں قبلہ رخ کریں بائیں پاؤں بچھا کر اس پر بالکل سیدھے بیٹھ جائیں اور ہتھیلیاں رانوں پر بچھا کر اس طرح رکھیں کہ انگلیاں ملی ہوئے قبلہ رخ ہوں اور ان کے سرے گھٹنوں کے قریب ہوں اور اس حالت جلسہ میں کم از کم ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار اطمینان کریں اور نظر گود کی طرف رہے۔

عورتیں جلسہ میں دونوں قدم داہنی طرف نکال کر بیٹھیں پھر **اللَّهُ أَكْبَرُ** کہتے ہوئے اس طرح دوسرا سجدہ بھی کریں اور سجدہ کے بعد پھر **اللَّهُ أَكْبَرُ** کہتے ہوئے سجدہ سے پہلے سر اٹھائیں پھر ہاتھ گھٹنوں پر رکھ کر پنچوں کے بل سیدھے کھڑے ہو جائیں۔ بلا عذر ہاتھ زمین پر ٹیک کر نہ اٹھیں۔

پھر دوسری رکعت کی قرأت شروع کریں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہوں تو قرأت نہ کریں بلکہ خاموش رہیں اور امام کی قرأت سنیں قرأت کرنے یعنی سورت فاتحہ اور کوئی چھوٹی سورت پڑھنے کے بعد پہلے کی طرح رکوع کریں پھر دو سجدے کرنے کے بعد داہنا قدم کھڑا کر کے بائیں قدم بچھا کر اس پر اس طرح بیٹھیں جیسے دو سجدوں کے درمیان جلسہ میں بیٹھے تھے اور یہ التحیات پڑھیں اس میں کوئی حرف کم و بیش نہ کریں اس کو تشہد کہتے ہیں۔

تمام قوی، فعلی اور مالی عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں سلام ہو آپ پر اے نبی اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں۔ سلام ہو ہم پر اور اللہ کے سب نیک بندوں پر میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالطَّيِّبَاتُ
السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَ
رَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا
وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ. أَشْهَدُ
أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا
عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

تشہد میں جب کلمہ "لا" کے قریب پہنچیں تو داہنے ہاتھ کو شہادت کی انگلی اٹھا کر اشارہ کریں اس طرح کی زاہنے ہاتھ کی چھوٹی اور اس کے ساتھ بائیں انگلی کو ہتھیلی سے ملائیں (جیسے منھی

ملاتے ہیں) اور درمیانی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بنائیں اور انگوٹھے حلقہ بنائیں اور لفظ ”لا“ پر شہادت والی انگلی اٹھائیں اور ”لا“ پر گرا دیں اور پھر فوز انگلیاں سیدھی کر لیں۔

اگر دو رکعت والی نماز ہو تو تشہد پڑھنے کے بعد درود شریف اور دعا پڑھ کر سلام پھیر دیں اور اگر چار رکعت والی نماز ہو تو تشہد پڑھنے کے بعد سیدھے اس طرح کھڑے ہو جائیں جیسے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے تھے اگر نماز فرض ہو تو باقی دو رکعتوں میں صرف سورت فاتحہ پڑھ کر حسب دستور رکوع و سجو کریں لیکن اگر جماعت کے ساتھ ہوں تو سورت فاتحہ ہر گز نہ پڑھیں بلکہ خاموش کھڑے رہیں اگر نماز سنت یا نفل ہو تو بسم اللہ سورت فاتحہ اور کوئی سورت ملا کر پڑھیں اور چار پوری کرنے کے بعد تشہد پڑھیں اور اس کے بعد یہ درود شریف اور دعا پڑھ کر سلام پھیر دیں۔

اے اللہ درود بھیج حضرت محمد ﷺ پر اور حضرت محمد ﷺ کی آل پر جس طرح درود بھیجا تو نے ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر بے شک تو تعریف والا بڑی شان والا ہے الہی برکت دے حضرت محمد ﷺ کو اور حضرت محمد کی آل کو جس طرح برکت دی تو نے ابراہیم علیہ السلام کو اور حضرت ابراہیم کی آل کو بیشک تو تعریف والا بڑی شان والا ہے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى
آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى
إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ
إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ
اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى
آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى
إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ
إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ

اے میرے رب بنا دے مجھ کو نماز کا پابند اور میری اولاد کو بھی اے ہمارے رب! میری دعا قبول فرما اے ہمارے رب بخش دے مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور سب ایمان والوں کو بھی اس دن جب عملوں کا حساب ہوگا۔

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمًا الصَّلَاةِ
وَمِنْ ذُرِّيَّتِي عَلَى رِبَّتِنَا وَتَقَبَّلْ
دُعَاءَنَا رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدِي
وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ
يَقُومُ الْحِسَابُ

پھر نماز ختم کرنے کے لیے پہلے ایک بار دائیں طرف پھر ایک بار بائیں طرف منہ کر کے اس طرح سلام کہو کہ پورا منہ پہلے دائیں طرف اور نظر کندھے کی طرف رہے اور پھر سلام پھیر کر پورا منہ بائیں طرف پھیر دو اور نظر کندھے کی طرف رہے سلام کی الفاظ یہ ہیں۔

سلام:

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ
سلام ہو تم پر اور اللہ کی رحمت۔

داہنی طرف سلام پھیرتے ہوئے دائیں طرف کے فرشتوں اور نمازیوں کی سلام کہنے کی نیت کرنی چاہیے۔ بائیں طرف کے سلام میں بائیں طرف کے فرشتوں اور نمازیوں کو سلام کہنے کی نیت کرنی چاہیے۔ مقتدی طرف امام ہو اس طرف کی سلام میں امام کی نیت بھی کرے اور امام دونوں طرف کے سلام میں فرشتوں اور مقتدیوں کو سلام کہنے کی نیت کرے اور تنہا نماز پڑھنے والا دونوں طرف کے سلام میں فرشتوں کو سلام کہنے کی نیت کرے۔

۱۶۔ متعلقات نماز

واجبات نماز: واجبات نماز وہ اعمال ہیں جن کا نماز میں ادا کرنا ضروری ہے اگر ان میں سے کوئی عمل رہ جائے تو سجدہ سہو کرنے سے نماز درست ہو جائے گی۔ اگر سجدہ سہو نہ کیا یا قصداً واجب کو چھوڑا تو نماز کا لوٹانا واجب ہے واجب کا ترک کر دینا اچھا نہیں۔ قصداً واجب چھوڑنے سے گناہ ہوتا ہے واجبات نماز حسب ذیل ہیں :

۱۔ تکبیر تحریر لفظ اللہ اکبر ہونا۔

۲۔ الحمد پڑھنا۔

۳۔ فرض کی دو پہلی رکعتوں میں اور سنت و نفل اور وتر کی ہر رکعت میں الحمد کے ساتھ سورت یا تین چھوٹی آیتوں کو ملانا۔

۴۔ فرض نمازوں میں پہلی دو رکعتوں میں قرأت کرنا۔

۵۔ الحمد کا سورت سے پہلے ہونا۔

۶۔ ہر رکعت میں سورت سے پہلے ایک ہی بار الحمد پڑھنا۔

۷۔ الحمد اور سورت کے درمیان "آمین اور بسم اللہ" کے سوا کچھ اور نہ پڑھنا۔

۸۔ قرأت کے بعد فوراً رکوع کرنا۔

۹۔ سجدہ میں دونوں پاؤں کے تین تین انگلیوں کا پیٹ زمین پر لگنا۔

۱۰۔ دونوں سجدوں کے درمیان کسی رکعت کا قائل نہ ہونا۔

- ۱۱۔ تعدیل ارکان یعنی رکوع و سجود اور قومہ و جلسہ میں کم از کم ایک بار سبحان اللہ کہنے کے برابر ٹھہرنا۔
- ۱۲۔ جلسہ یعنی دونوں سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھنا۔
- ۱۳۔ قومہ یعنی رکوع سے سیدھا کھڑا ہو جانا۔
- ۱۴۔ قعدہ اولیٰ اگر نفل نماز ہو۔
- ۱۵۔ فرض وتر اور موکدہ سنتوں کے قعدہ اولیٰ میں التحیات سے زیادہ کچھ نہ پڑھنا۔
- ۱۶۔ ہر قعدہ میں پورا شہد پڑھنا۔
- ۱۷۔ لفظ السلام دو بار کہنا۔
- ۱۸۔ وتر میں دعائے قنوت پڑھنا۔
- ۱۹۔ وتر میں قنوت کی تکبیر
- ۲۰۔ عیدین میں دوسری رکعت کے رکوع کی تکبیر
- ۲۱۔ اس تکبیر کے لیے لفظ اللہ اکبر ہونا
- ۲۲۔ ہر جہری نماز میں امام کی بلند آواز سے قرأت کرنا
- ۲۳۔ اور غیر جہری نمازوں میں آہستہ قرأت کرنا۔
- ۲۴۔ ہر فرض اور واجب کا اس کی جگہ پر ادا ہونا۔
- ۲۵۔ ہر رکعت میں ایک ہی رکوع ہونا۔
- ۲۶۔ اور ہر رکعت میں دو ہی سجدے ہونا۔
- ۲۷۔ دوسری رکعت پوری ہونے سے پہلے قعدہ نہ کرنا۔
- ۲۸۔ اور چار رکعت والی نمازوں میں تیسری رکعت پر قعدہ نہ کرنا۔
- ۲۹۔ آیت سجدہ پڑھی تو سجدہ تلاوت کرنا۔
- ۳۰۔ سہو ہوا تو سجدہ سہو کرنا۔

۳۱۔ دو فرض یا دو واجب فرض کے درمیان تین مرتبہ ”سبحان اللہ“ کہنے کے برابر وقفہ نہ ہونا۔

۳۲۔ امام جب قرأت بلند آواز سے کرے یا آہستہ کرے اس وقت میں مقتدی کا چپ رہنا۔

۳۳۔ قرأت کے سوا تمام واجبات میں مقتدی کی امام کی پیروی کرنا۔

۲۔ **نماز کی سنتیں:** نماز میں جو امور رسول اکرم ﷺ سے ثابت ہیں لیکن ان کی تاکید فرض اور واجب سے کم ہے انہیں سنت کہا جاتا ہے ان امور میں اگر کوئی کام سہواً چھوٹ جائے تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی اور نہ ہی انسان گنہگار ہوتا ہے اور نہ سجدہ سہواً واجب ہوتا ہے البتہ ان کے چھوڑنے سے ثواب میں کمی ہو جاتی ہے لہذا اہل تقویٰ کے لیے ضروری ہے کہ وہ نماز کی سنتوں پر عمل کریں کیونکہ یہ امور جن پر نبی اکرم ﷺ نے بذات خود عمل کیا ہے۔ نماز کی سنتوں کا ثبوت مندرجہ ذیل احادیث سے ملتا ہے:-

حضرت انسؓ فرماتے ہیں نبی اکرم ﷺ جب نماز شروع فرماتے تو اللہ اکبر کہتے پھر ہاتھ اٹھاتے۔ یہاں تک کہ اپنے انگوٹھوں کو کانوں کے برابر کرتے (پہتی)

حضرت عائشہ صدیقہؓ فرماتی ہیں نبی اکرم ﷺ (تکبیر تحریمہ کے بعد) نماز شروع فرماتے تو یہ پڑھتے: **سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَقَلِيلٌ عَزِيمٌ**. (ابوداؤد)

حضرت انسؓ فرماتے ہیں میں نے نبی اکرم ﷺ حضرت ابو بکرؓ حضرت عمرؓ اور حضرت عثمانؓ کے پیچھے نماز پڑھی۔ میں نے کسی ایک کو بھی بسم اللہ اونچی آواز سے پڑھتے نہیں سنا۔ (نسائی شریف)

حضرت علیؓ فرماتے ہیں نماز سنت دائیں ہاتھ کا بائیں ہاتھ کے اوپر ناف کے نیچے رکھنا ہے۔ (ابوداؤد شریف)

حضرت دائل بن حجرؓ سے روایت ہے کہ میں نے نبی اکرم ﷺ کے پیچھے نماز پڑھی۔ جب **غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ** پر پہنچے تو آپؐ نے آمین فرمایا اور آہستہ آواز کے ساتھ آمین کہی۔ (امام احمد)

حضرت دائل بن حجرؓ سے روایت ہے کہ میں نے نبی اکرم ﷺ کو دیکھا جبکہ آپ نماز پڑھنے کے لیے تشریف لائے۔ آپ نے نماز شروع کرنے وقت ہاتھ کندھوں تک اٹھا کر انگوٹھوں کو کانوں کے برابر کیا۔ اس کے بعد آپ نے اللہ اکبر کہا۔ ابوداؤد کی دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے دونوں ہاتھوں کو کانوں کے نرم حصوں تک اٹھایا۔ (ابوداؤد شریف)

حضرت وائل بن حجرؓ سے روایت ہے کہ میں نے نبی اکرم ﷺ کو دیکھا کہ آپ (میں) داہنا ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھ کر ناف کے نیچے باندھتے۔ (مشکوٰۃ شریف)۔

حضرت وائل بن حجرؓ سے روایت ہے کہ حضرت عمر اور حضرت علیؓ بسم اللہ اونچی میں پڑھتے تھے نہ آئین اونچی آواز میں پڑھتے تھے۔ (طبرانی)

حضرت وائل بن حجرؓ سے روایت ہے کہ میں نے نبی اکرم ﷺ کو دیکھا کہ جب سجدہ فرماتے تو اپنے گھٹنوں کو زمین پر ہاتھوں سے پہلے رکھتے اور جب سجدہ سے اٹھتے تو ہاتھوں کو گھٹنوں سے پہلے اٹھاتے۔ (نسائی شریف)

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا۔ جب تم میں کوئی آدمی رکوع کرے تو وہ اس میں تین بار **سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ** پڑھے بہت کم ہیں اور جب سجدہ کرے تو تین بار **سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى** پڑھے اور یہ بہت کم ہیں۔ (ابوداؤد شریف)

حضرت جابر بن سمرہؓ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا کیا بات ہے کہ میں تمہیں رفع یدین کرتے دیکھتا ہوں سرکش گھوڑوں کی دموں کی طرح نماز میں سکون و اطمینان کیا کرو۔ (مسلم شریف)

حضرت عائشہ صدیقہؓ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم ﷺ جب رکوع فرماتے تو نہ تو سر اونچے رکھتے اور نیچے جھکاتے بلکہ سر اس حالت کے درمیان رکھتے یعنی پیٹھ کے برابر رکھتے۔ (مسلم شریف)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا کہ جب **غیر المغضوب علیہم ولا الضالین** کہے تو تم آمین کہو۔ سو جس کا آمین کہنا فرشتوں کے آمین کہنے کے مطابق ہو اس کے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ (بخاری شریف)

حضرت علقمہؓ تابعی بیان کرتے ہیں کہ ہمیں ابن مسعودؓ نے فرمایا کیا میں تمہیں رفع یدین کی نماز پڑھ کر نہ دکھاؤں۔ پس انہوں نے نماز پڑھی اور نہ رفع یدین کیا مگر ایک طرف تکبیر تحریر کے ساتھ۔ (ترمذی نسائی)

حضرت ابو معمر فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطابؓ نے فرمایا امام چار چیزیں آواز میں پڑھے **اعوذ باللہ بسم اللہ آمین** اور ربنا لک الحمد۔ (یعنی شرح ہدایہ)

حضرت عبداللہ بن زبیرؓ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ رکوع میں جاتے اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع یدین کرتا تھا۔ آپ نے اس کو فرمایا ایسا نہ کرو کیونکہ یہ (رفع یدین) وہ فعل ہے جو رسول اللہ ﷺ نے پہلے کیا تھا اور بعد میں چھوڑ دیا۔ (یعنی شرح ہدایہ)

حضرت براہین عازبؓ سے روایت ہے کہ نبی اکرمؐ نے فرمایا جب تو سجدہ کرے تو ہتھیلیاں زمین پر رکھ اور کہدیاں (زمین سے) اوپر اٹھا رکھ۔ (مسلم شریف)

حضرت انس بن مالکؓ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا کہ جب امام تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو اور جب امام رکوع کرے تم بھی رکوع کرو جب وہ رکوع سے سر اٹھائے تم بھی سر اٹھاؤ اور جب وہ سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم ربذاک الحمد کہو۔ (بخاری)

حضرت عائشہ صدیقہؓ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم ﷺ ہر دو رکعت کے بعد التحیات پڑھتے تھے اور آپ (تعدہ میں) بایاں پاؤں بچھاتے اور دایاں پاؤں کھڑا رکھتے تھے اور اپنا دایاں ہاتھ دائیں ران پر اور بایاں ہاتھ بائیں ران پر رکھتے اور شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے (مسلم)

حضرت عبداللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں کہ یہ بات نماز کی سنتوں میں ہے کہ (التحیات پڑھتے وقت) دایاں پاؤں کھڑا رکھنا اور اس کی انگلیوں کو قبلہ رخ کرنا اور بائیں پاؤں پر بیٹھنا۔ (نسائی شریف)

حضرت ابو حمید ساعدیؓ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ (پہلے سجدہ سے) سر اٹھاتے تو بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھتے (اور دایاں پاؤں کھڑا رکھتے) اور پھر برابر ہو کر بیٹھتے۔ یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنی اپنی جگہ برابر ہو جاتی۔ اس کے بعد آپ دوسرا سجدہ فرماتے (مشکوٰۃ) اور جب (رکعت کے لئے) اٹھتے تو گھٹنوں پر اٹھتے۔ اور دونوں ہاتھوں سے زانوؤں پر ٹیک لگا کر اٹھتے۔ (ابوداؤد شریف)

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا۔ سجدہ میں اطمینان کرو اور تم میں سے کوئی شخص (سجدہ میں) زمین پر کتے کی طرح بازو نہ بچائے۔ (مسلم شریف)

حضرت ابو حمید ساعدیؓ نے لوگوں کو رسول اللہ ﷺ کی نماز پڑھ کر دکھائی۔ انہوں نے جب سجدہ کیا تو ناک اور پیشانی دونوں کو زمین پر لگایا اور دونوں بازوؤں کو پہلوؤں سے جدا رکھا۔ اور ہاتھوں کی انگلیوں کی اپنی حالت پر رکھا اور دونوں پاؤں کی انگلیوں کو قبلہ رخ کیا (ابوداؤد بخاری)

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں نبی اکرم ﷺ (نماز میں دوسری) یا تیسری رکعت کے لئے اپنے قدموں کے کناروں پر (سیدھے) کھڑے ہو جاتے تھے یعنی آرام کے لئے بیٹھے نہیں تھے۔ (ترمذی شریف)

حضرت نعمان بن عیاشؓ سے روایت ہے کہ میں نے نبی اکرم ﷺ کے کئی صحابہؓ کو پایا (اور دیکھا کہ) جب پہلی اور تیسری رکعت کے دوسرے سجدہ سے اٹھتے تھے تو سیدھے کھڑے ہو جاتے اور بیٹھے نہیں تھے۔ (مرقاۃ شرح مشکوٰۃ)

ان احادیث سے معلوم ہوا کہ نماز کی سنتیں حسب ذیل ہیں۔

۱۔ تکبیر تحریر کے لئے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھانا سنت ہے۔

۲۔ تکبیر کے وقت ہتھیلیوں اور ہاتھوں کی انگلیوں کو اپنے حال پر چھوڑنا۔ یعنی یہ بالکل ملائے نہ بے تکلف کشادہ رکھے بلکہ اپنے حال پر چھوڑ دے۔

۳۔ ہتھیلیوں اور انگلیوں کے پیٹ کا قبلہ رو رکھنا سنت ہے۔

۴۔ بوقت تکبیر سر نہ جھکانا سنت ہے۔

۵۔ تکبیر سے پہلے ہاتھ اٹھانا۔ یونہی تکبیر قنوت و تکبیرات عیدین میں کانوں تک ہاتھ لیجانے کے بعد تکبیر کہے اور ان کے علاوہ کسی جگہ نماز میں ہاتھ اٹھانا سنت نہیں ہے۔

۶۔ امام کا بلند آواز سے اللہ اکبر اور سمع اللہ لمن حمدہ اور سلام کہنا۔ جس قدر بلند آواز کی حاجت ہو۔ ضرورت سے زیادہ آواز بلند کرنا بہتر نہیں۔ مقتدی و منفرد کو اونچی آواز سے اللہ اکبر کہنے کی حاجت نہیں۔ صرف اتنا ضروری ہے کہ اتنی آواز سے کہے کہ خود سن سکے۔

۷۔ تکبیر تحریر کے بعد فوراً ہاتھ یوں باندھے کہ مروانف کے نیچے داہنے ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی کلائی کے جوڑ پر رکھے۔ چھٹکل اور انگوٹھا کلائی کو پکڑیں اور باقی انگلیاں بائیں کلائی پشت پر بچھا دے۔

۸۔ ثناء یعنی سبحانک اللہم... انی اعوذ۔ پڑھنا سنت ہے۔

۹۔ پھر تعوذ یعنی اعوذ باللہ اور پھر تسمیہ یعنی بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔

۱۰۔ قرأت سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہنا سنت ہے۔

- ۱۱۔ ثناء تعوذ اور تسمیہ کا آہستہ پڑھنا سنت ہے۔
- ۱۲۔ رکوع میں جاتے وقت اللہ اکبر کہنا سنت ہے۔
- ۱۳۔ رکوع میں تین بار **سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ** کہنا سنت ہے۔
- ۱۴۔ رکوع میں گھٹنوں کو ہاتھ سے پکڑنا اور انگلیاں خوب کھلی ہوئی رکھنا سنت ہے۔
- ۱۵۔ حالت رکوع میں ٹانگیں سیدھی ہونا سنت ہے۔
- ۱۶۔ ہر تکبیر میں اللہ اکبر کی کو جزم پڑھنا سنت ہے۔
- ۱۷۔ رکوع میں پیٹھ خوب ہتھی رکھنا۔ یہاں تک کہ اگر پانی کا پیالہ اس کی پیٹھ پر رکھ دیا جائے تو ٹھہر جائے۔
- ۱۸۔ رکوع سے اٹھ کر ہاتھ نہ باندھنا بلکہ لٹکا ہوا چھوڑ دینا۔
- ۱۹۔ رکوع سے اٹھنے میں امام کے لئے **سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ** کہنا سنت ہے۔
- ۲۰۔ مقتدی کے لئے **رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ** کہنا سنت ہے۔
- ۲۱۔ منفرد کو دونوں کہنا۔ یوں کہ ”سمع الله لمن حمدہ“ کہتا ہوا رکوع سے اٹھے اور سیدھا کھڑا ہو کر ”ربنا ولك الحمد“ کہے۔
- ۲۲۔ سجدے کے لئے اور سجدے سے اٹھتے وقت اللہ اکبر کہنا سنت ہے۔
- ۲۳۔ سجدے میں کم از کم تین بار ”سبحان ربی الاعلیٰ“ کہنا سنت ہے۔
- ۲۴۔ سجدے میں ہاتھ زمین پر رکھنا سنت ہے۔
- ۲۵۔ سجدے میں جاتے ہوئے زمین پر پہلے گھٹنے پھر ناک اور پھر پیشانی رکھنا سنت ہے۔
- ۲۶۔ سجدے سے اٹھتے وقت اس کا عکس کرنا یعنی پہلے پیشانی اٹھانا، پھر ناک پھر ہاتھ گھٹنے اٹھانا سنت ہے۔
- ۲۷۔ سجدے میں بازو کروٹوں سے جدا رکھنا اور پیٹ رانوں سے اور کلائیوں زمین پر نہ بچھانا مگر جب صف میں ہو تو بازو کروٹوں سے جدا نہ ہوں گے۔
- ۲۸۔ دونوں گھٹنے ایک ساتھ زمین پر رکھنا اور اگر کسی عذر سے ایک ساتھ نہ رکھ سکتا ہو تو پہلے وایاں رکھے پھر بائیں۔

۲۹۔ جلسہ یعنی دونوں سجدوں کے درمیان وقفہ میں مثل تشہد کے بیٹھنا یعنی بائیں پاؤں بچھانا اور دائیں پاؤں کو کھڑا رکھنا اور ہاتھوں کا رانوں پر رکھنا سنت ہے لیکن انگلیوں کے سرے قبلہ رو رہیں۔

۳۰۔ سجدے میں دونوں پاؤں کو انگلیوں کے پیٹ ز میں پر اس طرح لگائیں سرے قبلہ رو رہیں۔

۳۱۔ سجدوں سے فارغ ہو کر دوسری رکعت کے لئے پنجوں کے بل گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اٹھنا سنت ہے۔

۳۲۔ دوسری رکعت کے سجدوں سے فارغ ہونے کے بعد بائیں پاؤں بچھا کر دونوں سرے اس پر رکھ کر بیٹھنا اور دائیں قدم کھڑا رکھنا سنت ہے۔

۳۳۔ حالت تشہد میں دائیں پاؤں کی انگلیاں قبلہ رو کرنا سنت ہے۔

۳۴۔ حالت تشہد میں دونوں ہاتھ رانوں پر رکھنا اور انگلیوں کو اپنی اصلی حالت میں اس طرح چھوڑنا کہ نہ کھلی ہوئی ہوں نہ ملی ہوئی ہوں۔

۳۵۔ انگلیوں کے کنارے گھٹنوں کے پاس ہونے چاہئیں۔

۳۶۔ تشہد میں **أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** کی انگلی سے اشارہ کرنا جسے سب اب کہا جا رہا ہے کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ نبی اکرم ﷺ جب تشہد میں کلمہ شہادت پر پہنچتے تو انگلیوں سے اشارہ کرتے ہیں کہ حضور نے ایک شخص کو دو انگلیوں سے اشارہ کرتے دیکھا تو فرمایا تو حید کر تو حید کر یعنی ایک انگلی سے اشارہ کر۔

۳۷۔ قعدہ اولیٰ کے بعد تیسری رکعت کے لئے زمین پر ہاتھ رکھے بغیر گھٹنوں پر زور دے کر اٹھنا لیکن حالت عذر میں اس کی بھی اجازت ہے۔

۳۸۔ آخری قعدہ میں تشہد کے بعد درود شریف پڑھنا سنت ہے۔

۳۹۔ درود کے بعد مسنون دعا پڑھنا سنت ہے۔

۴۰۔ پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف منہ پھر کر "السلام علیکم ورحمتہ اللہ" دو بار کہنا اور امام کے لئے سنت ہے کہ دونوں سلام بلند آواز سے کہے مگر دوسرا بہ نسبت پہلے کے پست آواز سے کہے۔

۴۱۔ امام کے لیے سلام کہتے وقت تمام مقتدیوں اور ساتھ رہنے والے فرشتوں کے نیت کرنا سنت ہے۔

۳۔ مستحبات نماز: نماز میں مندرجہ ذیل افعال مستحب ہیں :

۱۔ حالت قیام میں سجدہ کی جگہ پر نظر کرنا۔

۲۔ رکوع میں قدم کی پشت پر دیکھنا۔

۳۔ سجدہ میں ناک پر نظر رکھنا۔

۴۔ قعدہ میں سینے پر نظر جمانا۔

۵۔ پہلے سلام میں دائیں شانے کو دیکھنا۔

۶۔ دوسرے سلام میں بائیں شانے پر نظر کرنا۔

۷۔ جمائی آئے تو منہ بند کیے رہنا اور اس سے جمائی نہ رُکے تو ہونٹ دانت کے نیچے دبائے اور اس سے بھی نہ رُکے تو قیام کی حالت میں دائیں ہاتھ کی پشت سے منہ ڈھانک لے اور قیام کے علاوہ دوسری حالتوں میں بائیں ہاتھ کی پشت سے جمائی روکنے کا مجرب طریقہ ہے کہ دل میں خیال کرے کہ انبیا علیہم السلام کی جمائی نہیں آتی تھی۔ دل میں یہ خیال لاتے ہی جمائی کا آنا بند ہو جائے گا۔

۸۔ مرد کے لیے تکبیر تحریرہ کے وقت ہاتھ کپڑے سے باہر نکالنا۔

۹۔ عورت کے لیے کپڑے کے اندر بہتر ہے۔

۱۰۔ جہاں تک ممکن ہو کھانسی کو دفع کرنا۔

۱۱۔ جب تکبیر ”حی علی الفلاح“ کہے تو امام و مقتدی سب کا کھڑا ہو جانا۔

۱۲۔ جب تکبیر ”قد قامت الصلوٰۃ“ کہے تو نماز شروع کر سکتا ہے مگر بہتر ہے کہ

اقامت پوری ہو جانے پر نماز شروع کرے۔

۱۳۔ دونوں پنچوں کے درمیان چار انگل کا فاصلہ ہونا۔

۱۴۔ مقتدی کو امام کے ساتھ شروع کرنا۔

۱۵۔ سجدہ زمین پر بلا کچھ بچھائے ہوئے کرنا۔

۴۔ **مفسدات نماز:** ایسے امور جن کا نماز میں کرنا منع ہے کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے انہیں مفسدات صلوٰۃ کہا جاتا ہے ان مفسدات کا دوسرا نام تو اقص نماز بھی ہے نماز ٹوٹ جانے کی صورت میں نماز دوبارہ پڑھنی پڑتی ہے۔ نماز کو فاسد اور توڑنے والی چیزیں دو طرح کی ہیں۔

اول اقوال یعنی کلام گفتگو وغیرہ اور دوم افعال یعنی خلاف نماز کوئی کام اور حرکت وغیرہ کرنا یہ دونوں چیزیں نماز کو توڑنے والی ہیں۔

اقوال یعنی نماز میں کسی سے بات کرنا مفسد نماز ہے یہ بات جان بوجھ کر ہو یا بھول سے ہو تھوڑی ہو یا زیادہ بیداری میں نماز ہو یا نماز کی حالت میں نیند آ جانے کی وجہ سے کسی کو نماز میں قصد ایا بھول کر سلام کرنا یا کسی کے سلام کا قصد ایا سہواً جواب دینا۔ نماز میں کسی کو چھینک کا جواب دینا یعنی **يُرْحَمُكَ اللهُ** کہنا بڑی خبر سن کر **اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ** یا کوئی اور لفظ کہنا اچھی خبر سن کر **الحمد لله** یا کوئی اور لفظ کہنا۔ اللہ کا نام سن کر **بجمل جمل اللہ** اور نبی اکرم ﷺ کا نام سن کر جواب کی نیت سے دور و شریف پڑھنا۔ تعجب والی بات سن کر **سُبْحَانَ اللهِ يَا اَللهُ اِلَّا اللهُ** کہنا۔ اپنے امام کے سوا دوسرے کو نماز میں لقمہ دینا۔ درو یا تکلیف کی وجہ سے آہ اوہ آف کہنا۔ اگر بیماری سے بلا اختیار آہ اوہ وغیرہ آواز نکلی تو معاف ہے نماز کے اندر دعا میں ایسی چیز مانگنا جو عام طور آدمیوں سے مانتے ہیں نماز پوری ہونے سے پہلے قصد اسلام پھیرنا۔ اگر بھول کر سلام پھیر دیا تو کوئی حرج نہیں آخر میں سجدہ سہو کر لے قرآن پاک سے دیکھ کر پڑھنا قرآن پاک غلط پڑھنا ان سب باتوں سے نماز ٹوٹ جائے گی۔

بلا عذر کھنکارنے اور مٹھارنے سے بھی نماز ٹوٹ جائی گی ہاں اگر امام نے آواز صاف کرنے یا مقتدی نے امام کو غلطی پر آگاہ کرنے یا دوسرے کو اپنا نماز میں ہونا بتانے کے لیے کھنکارا تو نماز ہو جائے گی۔

قرآن پاک غلط پڑھنے سے اس وقت نماز فاسد ہوگی جبکہ قرأت قرآن میں ایسی غلطی ہوئی جس سے معنی بگڑ جائیں اعرابی غلطیاں یعنی زیر بر پیش وغیرہ۔ اگر ایسی ہوں جن سے قرآن پاک کے معنی نہ بگڑتے ہوں تو یہ مفسد نماز نہیں۔

مفسدات نماز کی دوسری قسم افعال کی ہے یعنی نماز توڑنے والے فعل اور وہ یہ ہیں اول عمل کثیر نماز کو توڑ دیتا ہے۔ عمل کثیر اس عمل کو کہتے ہیں جو نماز کے افعال سے ہو اور نہ نماز کی

اصلاح و درستی کے لیے کیا جائے اور اس کام کے کرنے والے کو دور سے دیکھنے والا نماز میں نہ سمجھے اور اگر دور سے دیکھنے والا شک و شبہ میں ہو کہ میں نماز میں ہے یا نہیں تو یہ عمل قلیل ہے اس سے نماز نہیں توٹتی۔

نماز کے اندر قصد ایا بھول کر کھانے پینے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ دانتوں میں کھانے کی کوئی چیز رہ گئی تھی اس کو نکل گیا۔ اگر وہ چنے سے کم ہے تو نماز فاسد نہ ہوگی۔ ہاں مکروہ ہو جائے اور اگر چنے کے برابر ہے تو نماز ٹوٹ جائے گی ورنہ نہیں نماز سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھائی تھی۔ اب صرف منہ میں اس کی مٹھاس وغیرہ کا اثر باقی رہ گیا ہے تو اس کے نکلنے سے نماز نہ ٹوٹے گی۔

نماز میں بلا ضرورت قبلہ کی طرف ایک بار دو صفوں کے مقدار چلنے بلا عذر قبلہ کی طرف سے سینہ پھیر دینے، امام سے آگے بڑھ جانا نماز کے اندر تین لفظ لکھنے درد اور مصیبت سے رونے، جماعت میں عاقل و بالغ عورت کے محاذی یعنی دائیں بائیں یا پچھے کھڑے ہونے سے نماز ٹوٹ جائے گی بالغ کا نماز میں قہقہہ لگا کر یعنی آواز سے ہنسنے سے نماز اور وضو دونوں ٹوٹ جائیں گے۔ نماز میں بلا خیال مسئلہ شرعی کے غیر نمازی کا کہا ماننے سے بھی نماز جاتی رہے گی۔ اگر غیر نمازی کے کہنے پر مسئلہ شرعی اور اطاعت رسول ﷺ کا خیال کر کے اپنی جگہ سے ہٹا تو نماز نہ ٹوٹے گی۔ جماعت میں امام کا ایسے شخص کو خلیفہ بنانے سے جو امامت کا اہل نہ ہو۔ امام کا بغیر خلیفہ بنانے کے مسجد سے باہر چلے جانا۔ اور نمازی کا بے وضو ہونے کے بعد اس جگہ ایک رکن ادائیگی کی مقدار کھڑے رہنے سے نماز ٹوٹ جائے گی یعنی اس پر اب بناہ جائز نہیں۔

نماز کی حالت میں سانپ یا بچھو کو مارنے سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ جبکہ تین قدم اپنی جگہ سے چلے اور نہ تین بار مارتا پڑے ورنہ نماز فاسد ہو جائے گی لیکن ان کو مارنے کی بہر حال اجازت ہے کیونکہ ترمذی میں حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ دو کالے رنگ کی چیزوں سانپ اور بچھو کو نماز میں مارو سانپ اور بچھو کو نماز کی حالت میں مارنے کی اس وقت اجازت ہے جبکہ وہ سامنے سے گزریں اور ان کے ایذا دینے اور کاٹ کھانے کا خوف ہو اور اگر ان کے تکلیف پہنچانے کا اندیشہ نہ ہو تو مکروہ ہے۔

نماز میں ایک رکن میں تین بار کھجانے اور ہر بار ہاتھ اٹھانے سے نماز ٹوٹ جائے گی اور ایک بار ہاتھ اٹھانا اور کھجانا بلا عذر مکروہ ہے نماز کے اندر کرتا یا پا جامہ پہننا یا تہبند باندھا تو نماز فاسد ہو جائی گی اکثر نماز سجدہ میں جاتے وقت دونوں ہاتھوں سے پا جامہ یا تہبند وغیرہ اوپر چڑھا

لیتے ہیں یہ سخت مکروہ ہے بلکہ ایک قول کے مطابق یہ عمل کثیر ہے جو مفسد نماز ہے۔

۵۔ مکروہات نماز: مکروہات نماز سے مراد وہ امور ہیں جن سے نماز فاسد تو نہیں ہوتی البتہ مکروہ ہو جاتی ہے اس لیے ان سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، مکروہات دو طرح کے ہیں ایک تنزیہی اور دوسرے تحریمی جن کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے:

(۱)۔ **مکروہات تنزیہی:** نماز میں درج ذیل چیزیں مکروہ تنزیہی ہیں:

اور رکوع و سجود بلا عذر تین تسبیح سے کم پڑھنا۔ ہاں اگر وقت تنگ ہو یا امام نے سجدہ سے سرائٹھا لیا تو امام کی متابعت میں ریل وغیرہ کے چل جانے کا خوف ہو تو کوئی حرج نہیں۔ صاف کپڑے کے ہوتے کام کاج کے میلے کھیلے کپڑوں میں نماز پڑھنا، گرمی اور سستی اور کپڑوں کو بوجھ سمجھنے کی وجہ سے ننگے سر نماز پڑھنا۔ نماز میں ٹوپی وغیرہ سر سے گر جائے تو ایک بار عمل قلیل سے اٹھا کر رکھ لینا افضل ہے بار بار ہو تو نہ اٹھایا جائے۔ منہ میں کوئی چیز لیے نماز پڑھنا جو مانع قرأت ہو۔ نماز میں پیشانی سے مٹی، گھاس یا پسینہ وغیرہ پونچھنا۔ ہاں اگر ناک سے پانی بہے تو اس کا پونچھ لینا بہتر ہے اور اگر مسجد میں گرنے کا اندشہ ہو تو نماز ضرور پونچھے۔ نماز انگلیوں پر تسبیحوں کا شمار کرنا بھی مکروہ ہے۔ نماز نفل یا سنت و فرض میں ہاتھ یا سر کے اشارہ سے نماز میں کسی کے سلام کا جواب دینا۔ نماز میں بلا عذر چارزانوں (چوکڑی) بیٹھا۔ دامن یا آستین سے ہوا پہنچانا یعنی پنکھا جھلانا اسباب یعنی حد سے زیادہ کپڑے دراز رکھنا۔ جمائی وقت منہ کھلا رکھنا۔ قصداً انگڑائی لینا۔ کھانسی یا کھنکارنا اور تھوکنہ بھی مکروہ ہے۔ مقتدی کو صف کے پیچھے اکیلے کھڑا ہونا اور منفرد کا صف میں کھڑا ہونا۔ بلا عذر ایک رکعت میں ایک ہی آیت یا سورت کو بار بار پڑھنا۔ سجدہ میں جاتے وقت بلا عذر گھٹنوں سے پہلے ہاتھ رکھنا اور اٹھتے وقت ہاتھوں سے پہلے گھٹنے اٹھانا اور اٹھتے وقت آگے پیچھے پاؤں اٹھانا۔ رکوع میں سر کو پشت سے اونچا یا نیچا کرنا۔ بلا عذر نماز میں دیوار یا عصا لٹھی وغیرہ پر ٹیک لگانا۔ رکوع میں گھٹنوں پر اور سجدہ میں زمین پر ہاتھ نہ رکھنا۔ نماز میں آستین بچھا کر اس پر سجدہ کرنا، سجدہ میں پاؤں اور ہاتھوں کی انگلیوں کو قبلہ رخ سے پھیرنا۔ دائیں بائیں جھومنا۔ ہاں تراویح یعنی آرام کے لیے کبھی ایک پاؤں پر زور دینا اور کبھی دوسرے پاؤں پر زور دینا سنت ہے۔ نماز میں آنکھیں بند رکھنا، ہاں خشوع و خضوع کی نیت سے آنکھیں بند رکھنا جائز ہے۔ مکھی اور چھمر کو بلا ضرورت اڑانا۔ ہاں چھمر یا جوں اگر تکلیف دیتے ہوں تو عمل قلیل سے ان کو مارنا بھی جائز ہے۔ تلواریں

کمان یا بندوق وغیرہ حائل کیے ہوئے نماز پڑھنا بھی مکروہ ہے اگر ان کی وجہ سے توجہ ہٹے۔ اسی طرح ہاتھ میں کوئی چیز لیے نماز پڑھنا بھی مکروہ ہے ہاں اگر اس کی حفاظت بغیر اٹھائے نہ ہو سکے تو جائز ہے۔ مرد کا سجدہ میں پیٹ کو رانوں سے چپکانا مکروہ ہے۔ نماز میں خوشبو وغیرہ سونگھنا بھی مکروہ ہے۔

امام کا تنہا محراب کے اندر کھڑا ہونا بھی مکروہ ہے ہاں اگر امام محراب سے باہر کھڑا ہو اور سجدہ محراب کے اندر ہو تو مکروہ نہیں۔ امام کی تنہا اونچی جگہ کھڑا ہونا امام کا نیچے کھڑا ہونا اور مقتدیوں کا بلند جگہ پر کھڑا ہونا بھی مکروہ اور خلاف سنت ہے۔ مسجد میں اپنے لیے نماز پڑھنے کی جگہ مخصوص کر لینا مکروہ ہے۔ امام کا اس قدر جلدی نماز کے ارکان میں کھڑا ہونا کہ مقتدی مسنونہ اذکار ادا نہ کر سکیں اور امام کو جمعہ ظہر، عصر اور عید کی نمازوں میں سورتوں کا بھی پڑھنا بھی مکروہ ہے جن میں سجدہ تلاوت ہے۔ (بہار شریعت)

۲۔ **مکروہات تحریمی:** نماز میں یہ حرکات مکروہ تحریمہ ہیں جن سے اجتناب از حد ضروری ہے :

اول نماز میں عبث یعنی بے فائدہ کپڑوں یا ڈاڑھی اور جسم کے ساتھ کھیلنا سجدہ میں جاتے وقت کپڑوں کا آگے پیچھے سے سینٹا یا اٹھانا اگر چہ مٹی سے بچانے کے لئے ہو۔ سدل کرنا یعنی سر اور کندھے پر اس طرح چادر اور رومال ڈالنا کہ دونوں کنارے لٹکتے رہیں ہاں اگر کپڑے کا اک کنارہ دوسرے کندھے پر ڈال لیا تو یہ جائز ہے، کنکرے وغیرہ کو مسجد والی جگہ سے بلا عذر ہٹانا، کوئی ایک استین آدمی کلائی سے اوپر زیادہ چڑھائے یا دامن سمیٹ کر نماز پڑھنا، پیشاب پاخانہ کی حاجت اور پیٹ میں غلبہ ریح کے وقت نماز پڑھنا، ہاں وقت تنگ ہو تو ایسی حالت میں نماز پڑھ سکتا ہے ورنہ نہیں، جوڑا باندھے نماز پڑھنا، نماز میں انگلیاں چکانا یا ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیاں ڈالنا جس کو تشبیک کہتے ہیں۔ یہ نماز کے انتظار میں بھی مکروہ تحریمی ہے نماز میں کولھے یا کمر پر ہاتھ رکھنا یہ نماز کے علاوہ بھی مکروہ ہے منہ پھیر کر ادھر ادھر دیکھنا، آسمان کی طرف نظر اٹھانا، دونوں سجدوں کے درمیان یا تشہد میں کتے کی طرح بیٹھنا یعنی گھٹنوں کو سینہ سے ملا کر دونوں ہاتھ زمین پر رکھ کر سرین کے بل بیٹھنا، مرد کا سجدہ میں کلائیوں کو بچھانا کسی شخص کے منہ کے سامنے نماز پڑھنا اس دوسرے شخص کو بھی نمازی طرف کر کے بیٹھنا، مکروہ ہے چادر وغیرہ اس طرح پھینکا کہ ہاتھ باہر نہ ہو

اعتماد یعنی پگڑی اس طرح باندھنا کہ درمیان سے سر تنگ رہے کپڑے سے منہ اور ناک چھپ جائے یعنی ڈھانٹا باندھا کر نماز پڑھنا بلا ضرورت کھنکارنا لانا نماز میں اپنے آپ جمائی لینا خود آنے حرج نہیں لیکن اس کو روکنا مستحب ہے جاندار کی تصویروں والے کپڑے میں نماز پڑھنا نماز کے سر کے اوپر یاد دلائیں یا سائیں یا سامنے تصویروں کا ہونا۔ ہاں جیب یا تھیلے وغیرہ میں تصویر پڑی ہو تو نماز مکروہ نہیں رکوع و سجود اور قنوتہ جلسہ میں اطمینان نہ کرنا قیام کے علاوہ کسی جگہ میں قرآن پڑھنا یا رکوع میں قرات کرنا امام سے پہلے مقتدی کو رکوع و سجود وغیرہ میں جانا یا اس سے سر اٹھانا دوسرا کپڑا ہونے سے ہونے سے صرف پاجامہ یا تہبند باندھ کر نماز پڑھنا۔ امام کے ایک ہاتھ اور اونچے چبوترے پر اور مقتدیوں کا بلا عذر نیچے کھڑا ہونا امام کا کسی آواز والے کی خاطر نماز کو لمبا کرنا۔ ہاں اگر نماز میں اس کی شمولیت کی نیت سے ایک دو تسبیح کے مقدّم بنا کیا تو حرج نہیں۔ جلدی میں صف کے پیچھے ہی اللہ اکبر کہہ کر شامل ہونا اور پھر صف میں بعد شامل ہونا غصب شدہ زمین اور پرانے کھیت میں جس میں فصل موجود ہو یا بل جو ہونے کھیت میں نماز پڑھنا کسی قبر کے سامنے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے کافروں کے عبادت خانوں میں نماز پڑھنا، لٹا کپڑا پہن کر اور کرتے یا اچکن وغیرہ کے بند بٹن کھلے چھوڑ کر نماز پڑھنا بھی مکروہ ہے۔ (بہار شریعت)

۶۔ نماز توڑنے کی جائز صورتیں

نماز پڑھنے والے! تجھے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ نماز شروع کرنے کے بعد اسے بلا عذر اور بغیر کسی مجبوری کے توڑنا حرام ہے لیکن بعض صورتیں ایسی ہیں جن میں نماز توڑنا جائز ہے اور نماز توڑنے والے پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔

۱۔ کسی کی جان بچانے کیلئے نماز توڑنا: نماز کے قریب اگر کوئی شخص زندہ اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہو یعنی کوئی شخص پانی میں ڈوب رہا ہے یا جل رہا ہے یا کسی حادثہ میں مبتلا ہو گیا ہے اور اس کی جان خطرے میں ہے یا کسی پر کسی درندے نے حملہ کر دیا ہو تو اس صورت میں نماز توڑ کر اس کی جان بچانا فرض ہے۔ اگر ایسی صورت میں کوئی نماز پڑھتا رہے اور مرنے والے کی مدد نہ کرے تو گنہگار اور مجرم ہوگا۔

۲۔ اپنی جان بچانے کیلئے نماز توڑنا: اگر نماز کی اپنی جان کسی وجہ سے خطرے

میں پڑ جائے مثلاً چھت کرنے کے فوراً آثار پیدا ہو جائیں یا درندہ حملہ کر دے نماز پڑھتے ہوئے سانپ آجائے نماز پڑھنے والی جگہ پر یکدم سیلاب آجائے یا شدید طوفان آجائے یا فوراً ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ جس سے موت کی خطرہ پیدا ہو جائے تو اس صورت میں نماز توڑنا فرض ہے۔

۳۔ نماز توڑنے کی واجب صورت: نماز توڑنے کی واجب صورت یہ ہے کہ نماز پڑھنے والے کے والدین کسی مصیبت میں ہوں یا سخت بیمار ہوں یا وہ اچانک گر جائیں اور وہ بلائیں تو نماز توڑ کر ان کی مدد کرنا واجب ہے لیکن اگر کوئی دوسرا ان کی مدد کرنے والا موجود ہو تو نماز توڑنا ممنوع ہے نماز توڑنے کی واجب صورت یہ بھی ہے کہ اگر کسی کو بجلی کا کرنٹ لگ جائے اور نمازی کے کان میں اس کی پکار یا رونے چیخنے کی آواز پڑ جائے تو نماز توڑ کر اس کی صورتحال پر مدد کرنا واجب ہے۔ اگر نمازی کے قریب آگ لگ جائے جس سے اپنی یا کسی دوسرے کی جان کا خطرہ پیدا ہو جائے تو اس صورت میں نماز توڑنا واجب ہے۔

۴۔ نماز توڑنے کی مستحب صورت: پیشاب یا خانہ قابو سے باہر معلوم ہوا۔ یا اپنے کپڑے کے اوپر اتنی کم نجاست دیکھی جتنی نجاست کے ہوتے ہوئے نماز ہو سکتی ہے یا نمازی کو کسی اجنبی عورت نے چھو دیا ان تینوں صورتوں میں نماز توڑ دینا مستحب ہے۔

۵۔ نماز توڑنے کی مباح صورتیں: ان صورتوں میں نماز توڑنا دینا مباح ہے ریلوے سٹیشن کے پلیٹ فارم پر نماز پڑھتے وقت ریل گاڑی چل پڑی اور گاڑی میں اپنا اسباب یا اہل و عیال میں تو نماز توڑ کر گاڑی میں بیٹھنا جائز ہے یا جوئی دروازے پر اتاری تھی اور کسی چور نے جوئی اٹھالی ہے یا رات کو مرغی کھلی رہ گئی تھی یہی اس کی طرف جھٹی ہے۔ یا نماز کی حالت میں دودھ جوش کھا کر پیلی سے باہر نکلنے لگا۔ یا ہانڈی ابلنے لگی تو ایک درہم (ساڑھے تین ماشہ چاندی) تک کے نقصان سے بچنے کے لیے نماز کو توڑ کر اس کو درست کر دینا جائز ہے۔ اس طرح اگر سواری کا جانور بھاگ جائے یا نفل پڑھتے وقت جنازہ آ گیا اور نمازی کو خدشہ ہے کہ نفل پوری کرنے میں نماز جنازہ نہ ملے گا تو نفل کو توڑ کر نماز جنازہ میں شریک ہو جائے اور نفل کو اقسا کر لے اور اگر فرض نماز پڑھتے وقت آ گیا اور خوف ہے کہ نماز فرض سے فراغت پانے سے پہلے نماز جنازہ فوت ہو چکے گی تو فرض کو قطع نہ کرے کیونکہ وہ نماز جنازہ سے قوی تر ہے۔

۶۔ جماعت میں شامل ہونے کے لیے نماز توڑنا: اگر کوئی شخص اکیلا فرض نماز پڑھنا شروع کر دے لیکن اس کے بعد ان جماعت کھڑی ہو جائے تو اسے دائیں طرف سلام پھیر

کر جماعت میں شامل ہو جان چاہئے۔ بشرطیکہ پہلی رکعت کا سجدہ ابھی نہ کیا ہو۔ اور اگر نماز فجر یا مغرب میں پہلی رکعت کا سجدہ کر چکا ہے تو نماز توڑا کر امام کی اقتداء کرے اور اگر ظہر یا عصر یا عشاء کی نماز ہے تو وجوہاً ایک رکعت اور ملا کر توڑے اور اقتداء کرے تاکہ دو رکعتیں نفل ہو جائیں اور جماعت بھی ہاتھ سے نہ جائے اور اگر نماز فجر و مغرب میں دوسری رکعت کا سجدہ کر چکا ہے تو اب اسی کو پورا کرے اور اقتداء نہ کرے۔

۷۔ سجدہ سہو

سہو کا مطلب بھول کر کسی بات کا رہ جانا چنانچہ نماز میں اگر بھول کر انسان سے یا شک سے کچھ کمی زیادتی ہو جائے تو اس کی پیشی کی تلافی کے لیے نماز کے آخر قعدہ میں دو سجدے کرنے کو سجدہ سہو کہا جاتا ہے یہ سجدہ واجب ہے۔

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول ﷺ نے فرمایا کہ تحقیق اے تمہارا جس وقت کہ کھڑا ہو کر نماز پڑھتا ہے اس کے پاس شیطان آیا شبہ ڈالتا ہے اس پر یہاں تک کہ نہیں جانتا کہ کتنی نماز پڑھی جس وقت کہ پاوے ایک تمہارا چائے کہ دو سجدے کرے اس حالت میں وہ بیٹھا ہو (صحیح مسلم)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نمازی جب نماز پڑھتا ہے تو شیطان وسوسے کے ذریعے بھلا دیتا ہے جس سے نماز میں کمی یا بیشی کا گمان پیدا ہو جاتا ہے اگر ایسی صورت پیدا ہو جائے تو اس حال میں سجدہ سہو کر کے نماز درست ہو جاتی ہے۔

۱۔ سجدہ سہو کا طریقہ: سجدہ سہو کا طریقہ یہ ہے کہ نماز آخری قعدے میں التحیات پڑھ لینے کے بعد دائیں طرف سلام پھیرے اور اللہ اکبر کہہ کر سجدے کرے سجدے میں تین مرتبہ تسبیح پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر سجدے سے اٹھے اطمینان سے بیٹھے۔ پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائے سجدے میں تسبیح پڑھے اس کے بعد یعنی دو سجدے مکمل کر لینے کے بعد اٹھے اور قعدے میں بیٹھ جائے اور حسب دستور پھر التحیات درود شریف اور دعا پڑھ کر سلام پھیرے اور اس طرح نماز مکمل کرے۔

حضرت عمران بن حصین سے روایت ہے کہ تحقیق رسول اللہ ﷺ نے نماز پڑھائی لوگوں کو پھر بھول گئے پھر دو سجدے کیے پھر التحیات پڑھی پھر سلام پھیرا۔ (ترمذی)

نماز میں بھول اور غلطی سے جو کمی ہوتی ہے سجدہ سہو سے اس کی اصلاح ہو کر نماز صحیح اور مکمل ہو جاتی ہے اگر جان بوجھ کر کوئی واجب ترک کیا تو سجدہ سہو سے نماز درست نہیں ہوگی بلکہ از سر نو نماز پڑھی جائے اس طرح چھوٹ جانے سے بھی نماز جاتی رہتی ہے سجدہ سہو سے نماز صحیح نہ ہوگی لہذا اس نماز کا دوبار پڑھنا فرض ہے۔

فرض واجب اور سنت و نفل سب نمازوں کے لیے سجدہ سہو کا حکم برابر ایک ہی ہے۔ اس طرح ایک نماز میں کئی واجب ترک ہو جائیں تو سب کی طرف سے آخر میں صرف ایک بار دو سجدے سہو کے کافی ہیں۔

۲۔ شرعی مسائل : سجدہ سہو کے متعلق شرعی مسائل مندرجہ ذیل ہیں۔

۱۔ **مسئلہ:** واجبات نماز اور ارکان نماز کو ہمیشہ دھیان میں رکھنا لازم ہے کہ نماز کی حالت میں کسی رکن (قرض نماز) کو اپنی جگہ سے ہٹا کر مثلاً پہلے یا بعد میں پڑھا۔ یا اسے دوبارہ کیا۔ حالانکہ فرض ایک ہی بار ہے یا جو تکام نماز میں دوبارہ کیے جاتے ہیں ان میں ترتیب چھوڑ دی یونہی واجبات نماز میں رد و بدل کر دیا یا ان میں ترتیب چھوٹ گئی تو ان سب صورتوں میں بھی سجدہ سہو واجب ہے (بہار شریعت)

۲۔ **مسئلہ:** فرض کی پہلی دو رکعتوں میں اور نفل و سنت دو ترک کسی رکعت میں سورۃ الحمد کی ایک آیت بھی رہ گئی یا سورت سے پہلے ہی دوبارہ الحمد پڑھ لی یا پہلے سورت پڑھ لی اور بعد میں الحمد پڑھی تو ان صورتوں میں سجدہ سہو واجب ہے ہاں الحمد کے بعد سورت پڑھی اس کے بعد پھر الحمد پڑھی یا فرض کی پچھلی رکعتوں میں سورۃ الحمد دوبار پڑھ لی تو سجدہ سہو واجب نہیں۔ یونہی فرض کی پچھلی رکعتوں میں سورت ملائی تو سجدہ واجب نہیں۔ (فتاویٰ عالمگیری)

۳۔ **مسئلہ:** تعدیل ارکان (یعنی رکوع و سجود و قومہ اور جلسہ میں کم از کم ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرنا) بھول گیا تو سجدہ سہو واجب ہے۔ (فتاویٰ عالمگیری)

۴۔ **مسئلہ:** فرض نماز میں پہلا قعدہ بھول جائے تو جب تک سیدھا کھڑا نہ ہو اور لوٹ آئے اور سجدہ سہو نہیں اور اگر سیدھا کھڑا ہو گیا تو نہ لوٹے اور آخر میں سجدہ سہو کرے سیدھا کھڑا ہو کر لوٹ آئے تب بھی کھڑا ہو جائے اور بعد میں سجدہ سہو کر لے۔ (در مختار)

۵۔ **مسئلہ:** قعدہ خیمہ بھول جائے تو جب تک اس رکعت کا سجدہ نہ کیا ہو لوٹ آئے اور

سجدہ سہو کرے اور اگر اس رکعت کا سجدہ سے سر اٹھاتے ہی وہ فرض نفل ہو گیا لہذا اگر چاہے تو مغرب کے علاوہ اور نمازوں میں ایک رکعت اور ملا لے تاکہ رکعتیں دو ہو جائیں تنہا رکعت نہ رہے۔ اگرچہ وہ فجر یا عصر کی نماز ہو مغرب میں اور نہ ملائے کہ چار پوری ہو گئیں۔ (درمختار)

۶۔ **مسئلہ:** نفل کا ہر قعدہ قعدہ اخیر ہے یعنی فرض ہے اگر قعدہ نہ کیا اور بھول کر کھڑا ہو گیا تو جب تک اس رکعت کا سجدہ نہ کیا ہو لوٹ آئے اور سجدہ سہو کرے اور واجب نماز فرض کے حکم میں ہے لہذا وتر کا پہلا قعدہ بھول جائے تو وہی حکم ہے جو فرض کے قعدہ اولیٰ بھول جانے کا ہے۔ (درمختار)

۷۔ **مسئلہ:** التحیات پڑھنے کی مقدار اخیرہ کر چکا تھا اور کھڑا ہو گیا تو جب تک اس رکعت کا سجدہ نہ کیا ہو لوٹ آئے اور سجدہ سہو کر کے سلام پھر دے اس حالت میں سجدہ سہو سے پہلے التحیات نہ پڑھے۔ (درمختار)

۸۔ **مسئلہ:** قعدہ اولیٰ میں التحیات کے بعد اتنا پڑھا "اللہم صل علی محمد" تو سجدہ سہو واجب ہے اس وجہ سے نہیں کہ درود شریف پڑھا بلکہ اس وجہ سے کہ تیسری رکعت کے قیام میں دیر لگی تو اگر اتنی دیر تک خاموش رہے تب بھی سجدہ سہو واجب ہے جیسے قعدہ اور رکوع وجود میں قرآن پڑھنے سے سجدہ سہو واجب ہے حالانکہ وہ کلام الہی ہے۔ (در مختار و المختار)

۹۔ **مسئلہ:** دعائے قنوت یا وہ تکبیر بھول جائے جو دعائے قنوت پڑھنے کے لیے پڑھی جاتی ہے تو سجدہ سہو واجب ہے (فتاویٰ عالمگیری)

۱۰۔ **مسئلہ:** جس پر سجدہ سہو واجب تھا اسے یہ یاد ہی نہ رہا ہو کہ سجدہ کرنا ہے اور نماز ختم کرنے کے لیے سلام پھیر دیا تو ابھی نماز سے باہر نہ ہو لہذا جب تک کوئی ایسا کام جو نماز فاسد کر دیتا ہے نہ کیا ہو اسے حکم ہے کہ سجدہ سہو کرے اور پھر اپنی نماز پوری کرے۔ (درمختار)

۱۱۔ **مسئلہ:** اگر کسی کو بالغ ہونے کے بعد پہلی بار تعداد رکعات میں شک ہو کہ تین ہوئیں یا چار تو وہ نماز از سر نو پڑھے اور اگر یہ شک پہلی بار نہیں بلکہ پہلے بھی شک ہوتا رہا تو تا وہ گمان غالب پر عمل کرے اور اس پر سجدہ سہو نہیں ہاں اگر یہ سوچنے میں بقدر ایک رکن دیر کی تو

سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ اگر گمان غالب کسی جانب نہ تو تھوڑی رکعتوں کو اختیار کیا جائے اور تیسری چوتھی رکعت میں قعدہ کیا جائے اور آخری قعدہ رکعتوں کو اختیار کیا جائے اور تیسری اور چوتھی رکعت میں قعدہ کیا جائے اور آخری قعدہ کے بعد سجدہ سہو کر کے سلام پھیرا جائے۔ اگر وتر کی نماز میں شک پیدا ہو کہ یہ دوسری رکعت اور پڑھی جائے۔ اور اس میں بھی قنوت پڑھی جائے اور آخر میں آخر میں سجدہ سہو کیا جائے۔

۱۲۔ **مسئلہ:** امام نے اگر جہری نماز میں ایک آیت آہستہ پڑھی یا سری نماز میں اونچی آواز سے پڑھی اکیلے نمازی نے جہری نماز میں آواز سے اتنی قرات کی وتر میں دعائے قنوت یا دعائے قنوت کی تکبیر رہ گئی تو سجدہ سہو واجب ہے نماز عید کی سب تکبیریں یا بعض بھول کر رہ جائیں یا زیادہ یا غیر محل کہہ دیں تو ان تمام صورتوں میں سجدہ سہو واجب ہے لیکن جمعہ و عیدیں میں اگر اجتماع بہت زیادہ ہو تو بہتر ہے کہ سجدہ سہو نہ کیا جائے۔

اگر مقتدی کا امام کے پیچھے سہو واقع ہو تو اس پر سجدہ سہو واجب نہیں اگر مقتدی کی کچھ نماز باقی ہو اور اس نے بھول کر امام کے ساتھ سلام پھیر دیا تو وہ بقایا نماز پڑھنے کے لیے فوراً کھڑا ہو جائے اس پر سجدہ سہو واجب نہیں اگر امام مسافر ہے اور مقتدی مقیم تو امام کو سہو ہونے کو صورت میں مقتدی بھی امام کے ساتھ سجدہ سہو کرے اگر سجدہ تلاوت رہ جائے تو یاد آنے پر سجدہ کیا جائے اور آخر میں سجدہ سہو بھی کیا جائے سنت و مستحب مثلاً تعویذ، تسمیہ، آمین، تکبیر اور تسبیحیں وغیرہ رہ جانے سے سجدہ سہو واجب نہیں نماز ہو جائے گی۔

۱۸۔ سنتیں اور نوافل

سنتیں دو قسم کی ہیں۔ ایک سنت موكدہ ہے اور دوسری سنت غیر موكدہ۔

موكدہ سنت وہ ہے جس کو نبی اکرم ﷺ نے ہمیشہ کیا ہو یا اس کے کرنے کی تاکید فرمائی ہو۔ اس کی سنن الہدی بھی کہتے ہیں اس کا چھوڑنا گناہ اساعت ہے اور کرنا ثواب ہے اور کبھی کبھار چھوڑ دینے پر عتاب ہے اور سنت موكدہ کو چھوڑ دینے کی ہمیشہ عادت بنا لینا عذاب الہی کا موجب ہے۔

بچکانہ نماز کے ہمراہ پڑھی جانے والی موكدہ سنتوں کی شریعت میں بہت تاکید آئی ہے بلکہ ایک بار چھوڑنے والا مستحق طاعت ہے اور بطور عادت نہ پڑھنے والا فاسق و مرد و الشہادت اور مستحق عذاب ہے اور بعض ائمہ نے ایسے شخص کو گنہگار بھی ٹھہرایا ہے۔ بلکہ ایسے شخص کا

شفاعت سے محروم ہونے کا اندیشہ ہے کیونکہ نبی اکرم ﷺ پاک ہے کہ جو میری سنت کو چھوڑ دے اسے میری شفاعت نہ ملے گی۔

سنت موکدہ یہ ہیں:

(۱) دو رکعت فجر سے پہلے۔

(۲) چار ظہر سے پہلے اور دو بعد ظہر

(۳) دو رکعت مغرب کے بعد اور دو عشاء کے بعد

(۴) چار رکعت نماز جمعہ سے پہلے اور چھ جمعہ کے بعد

چونکہ نبی اکرم ﷺ نے چار بھی پڑھی ہیں اور دو بھی پڑھی ہیں اس لیے افضل یہ کہ جمعہ کے بعد پہلے چار پڑھے اور پھر دو پڑھے تاکہ دونوں پر عمل ہو جائے سب سنتوں میں قوی سنت فجر ہے حتیٰ کی بعض نے ان کو واجب بھی کہا ہے ان کے بعد زیادہ تاکید ظہر کی سنتوں کی ہے پھر مغرب و عشاء کی سنتوں کی ہے۔

منجگانہ نماز کے ساتھ پڑھی جانے والی موکدہ سنتیں بہت فضیلت والی ہیں اور وہ یہ ہیں ظہر کے بعد چار رکعتیں۔ حدیث میں ارشاد ہے جس نے ظہر کے بعد چار رکعتوں کی پابندی اور محافظت کی اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کی آگ حرام فرمادے گا (ترمذی)

علامہ سید طحطاوی فرماتے ہیں کہ وہ سرے سے آگ میں داخل ہی نہ ہوگا اور اس کے گناہ مٹا دیئے جائیں گے اور اس پر جو دوسروں کے حقوق ہیں اللہ تعالیٰ اس کے فریق راضی کر دیگا یا حدیث کا یہ معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ایسے کاموں کی توفیق دے گا جن پر سزا نہ ہو اور علامہ شامی فرماتے ہیں اس کے لیے بشارت ہے کہ اس کے خاتمہ ایمان و سعادت پر ہوگا اور دوزخ سے محفوظ رہے گا۔

عصر سے پہلے چار رکعتیں پڑھنا بھی مستحب اور سنت غیر موکدہ ہے اور مغرب کی دو سنتوں کے بعد دو یا چار یا چھ رکعتیں پڑھنا مستحب و سنت غیر موکدہ ہیں اس کو نماز ادا بین کہتے ہیں۔ عشاء سے پہلے چار رکعت نیز عشاء کے بعد چار رکعت مستحب ہیں اور دو رکعت پڑھنے سے بھی مستحب اور سنت غیر موکدہ ادا ہو جائے گی۔

سنت و فرض کے درمیان کلام کرنے سے سنت باطل تو نہیں ہوتی لیکن ثواب یقیناً کم

ہو جاتا ہے۔

سنتوں اور نوافل کی اہمیت و فضیلت کے متعلق نبی اکرم ﷺ کی احادیث مندرجہ ذیل ہیں۔

۱۔ سنتوں کی عام فضیلت: ام المومنین حضرت حبیبہؓ فرماتی ہیں نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا جس نے دن رات میں فرضوں کے علاوہ بارہ رکعتیں پڑھیں اس کے لئے جنت میں گھر بنایا جائے گا۔ چار رکعتیں ظہر سے پہلے اور دو رکعتیں اس کے بعد اور دو رکعتیں مغرب کے بعد اور دو رکعتیں عشاء کے بعد اور دو رکعتیں نماز فجر سے پہلے (ترمذی)

ایک اور روایت ہے آپؐ فرماتی ہیں کہ میں نے خود سنا کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا جس مسلمان بندے نے روزانہ فرض نمازوں کے علاوہ یہ بارہ رکعتیں تطوع (نفل و سنت) کی پڑھیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک مکان بنا دے گا۔ (مسلم)

ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہؓ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا یہ جوان (بارہ سنتوں) کو پابندی سے ہمیشہ پڑھے گا جنت میں داخل ہوگا (نسائی)

۲۔ فضیلت سنت فجر: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ فجر کی سنتیں نہ چھوڑو اگرچہ تم پر دشمنوں کے گھوڑے ہی چڑھ آئیں۔ (ابوداؤد)

حضرت عائشہ صدیقہؓ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم ﷺ ان کی جتنی محافظت اور پابندی فرماتے کسی اور نفل (سنت) کے نہیں کرتے تھے۔ (بخاری شریف)

حضرت عائشہ صدیقہؓ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا فجر کی دو رکعتیں سنت دنیا و ما فیہا سے بہتر ہیں۔ (مسلم شریف)

حضرت عبداللہ عمرؓ سے روایت ہے کہ صحابیؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جس سے اللہ تعالیٰ مجھے نفع دے آپ نے ارشاد فرمایا۔ فجر کی سنت کی دونوں رکعتوں کو لازم کر لو ان میں بڑی فضیلت ہے (طبرانی)

نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا قل هو اللہ احد تہائی قرآن کے برابر ہے اور قل یا ایہا الکافرؤن چوتھائی قرآن کے برابر ہے اور حضور ﷺ دونوں کی فجر کی سنتوں میں پڑھتے اور فرماتے ان میں زمانہ کی رکعتیں ہیں (مسند ابو یعلیٰ)

۳۔ فضیلت سنت ظہر: حضرت ام حبیبہؓ فرماتی ہیں نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا جس نے پہلے چار اور بعد میں چار رکعتوں کی محافظت و پابندی کی اللہ تعالیٰ اس پر (دوزخ کی) آگ حرام فرما دے گا۔ (ابوداؤد نسائی ابن ماجہ)

حضرت ابوالیوب انصاریؓ فرماتے ہیں نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا ظہر سے پہلے چار رکعتیں (سنت پڑھنا) جن کے درمیان سلام نہ پھیر جائے (یعنی سلام سے پڑھی جائیں) ان کی لیے آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ (یعنی جلد قبول ہوتی ہے) (ابوداؤد ابن ماجہ)

حضرت عبد اللہ بن سائبؓ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ سورج ڈھلنے کے بعد ظہر کے فرضوں سے پہلے چار رکعت سنت پڑھتے اور فرماتے ایسی گھڑی ہے کہ اس میں آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں لہذا میں پسند کرتا ہوں کہ اس میں میرا کوئی اچھا عمل بلند کیا جائے۔ (ترمذی شریف)

حضرت ثوبانؓ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ دوپہر کے بعد (ظہر کے فرضوں سے پہلے) چار رکعت پڑھنے کو بہت محبوب رکھتے۔ حضرت عائشہ صدیقہؓ نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ میں دیکھتی ہوں کہ آپ اس وقت میں نماز کو بڑا محبوب رکھتے ہیں آپ ﷺ نے فرمایا اس وقت آسمان کے (یعنی رحمتوں کے) دروازے کھولے جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ مخلوق کی طرف نظر رحمت فرماتے ہیں اور اس نماز پر حضرت آدمؑ، نوحؑ، ابراہیمؑ، موسیٰؑ اور عیسیٰ علیہم السلام نے پابندی اور محافظت کی۔ (بزاز)

حضرت براء عازبؓ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا جس نے ظہر سے پہلے چار رکعتیں پڑھیں گویا اس نے تہجد کی چار رکعتیں پڑھیں اور جس نے عشاء کے (فرضوں کے) بعد چار رکعتیں پڑھیں تو یہ شب قدر میں چار رکعتوں کی مثل ہیں۔ (طبرانی)

۴۔ فضیلت سنت عصر: حضرت عبد اللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم کرے جس نے عصر سے پہلے رکعتیں پڑھیں۔ (ابوداؤد شریف)

حضرت علیؓ فرماتے ہیں نبی اکرم ﷺ عصر سے پہلے چار رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ (ترمذی)

حضرت ام سلمہؓ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا 'جو عصر سے پہلے چار رکعتیں پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس جسم کو دوزخ (کی آگ) پر حرام فرمادے گا۔ (طبرانی)

حضرت عمرو بن العاصؓ کی روایت میں ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے صحابہ کرامؓ کے مجمع میں جس میں حضرت عمر فاروقؓ بھی تھے ارشاد فرمایا جو عصر سے پہلے چار رکعتیں پڑھے اسے دوزخ کی (آگ) نہ چھوئے گی۔ (طبرانی)

۵۔ فضیلت سنت مغرب : حضرت کھولؓ سے مرسلأ روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مغرب کے بعد کلام کرنے سے پہلے دو رکعت پڑھے دوسری روایت میں ہے کہ چار رکعت پڑھے تو اس کی نماز علیین میں اٹھائی جاتی ہے یعنی بہت جلد قبولیت پاتی ہے نیز حضرت حدیفہؓ کی روایت میں بھی ہے کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ مغرب کے بعد کی دونوں رکعتیں جلدی پڑھو کہ وہ فرضوں کے ساتھ بارگاہ الہی میں پیش ہوتی ہیں۔ (مشکوٰۃ شریف)

حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ "ادباً نجوم" فجر کے پہلے کی دو رکعتیں ہیں اور "ادباً جود" مغرب کی بعد کی دو رکعت ہیں (ترمذی)

۶۔ فضیلت سنت و نفل عشاء : ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہؓ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم ﷺ عشاء کی فرض نماز پڑھ کر میرے گھر تشریف لاتے تو چار یا چھ رکعتیں پڑھتے۔ (ابوداؤد)

۱۹۔ نفل نمازیں

مختلف اوقات میں پڑھے جانے والے نوافل کی تفصیل حسب ذیل ہے:

۱۔ تحیتہ الوضوء : اہل تقویٰ کا شیوہ ہے کہ وہ وضو کرنے کے بعد دو رکعت نفل پڑھتے ہیں جسے تحیۃ الوضوء کہا جاتا ہے اس کی بہت فضیلت ہے جو شخص خلوص دل سے تحیۃ الوضوء پڑھے۔ اسے اللہ جنت میں داخل کرے گا۔ اس کے بارے میں آپؐ کی حدیث یہ ہے۔

حضرت عقبہ بن عامرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا نہیں کوئی مسلمان جو وضو کرے پس اچھا وضو کرے پھر کھڑے ہو کر نماز پڑھے متوجہ ہو ان دونوں پر اپنے ان کے ساتھ اور اپنے چہرہ کے ساتھ گونگے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے (مسلم)

دوسری حدیث میں ہے کہ آپ نے بارشناد فرمایا جس نے میرے وضو کی طرح وضو کیا پھر پوری توجہ اور حضور قلب کے ساتھ دو رکعتیں پڑھے اس کے پچھلے گناہ بخش دے جائیں گے۔ (بخاری شریف)

ان احادیث سے معلوم ہو کہ وضو سے فارغ ہوتے ہی اعضا خشک ہونے سے پہلے دو رکعت نفل پڑھنا مستحب ہے لیکن یہ نوافل مکروہ اوقات ہیں نہ پڑھے ایسے ہی غسل کے بعد بھی ان رکعتوں کا پڑھ لینا سنت ہے کیونکہ غسل کے ساتھ وضو بھی ہو جاتا ہے اس نماز میں سورہ کافرون اور سورہ اخلاص پڑھنا سنت ہے۔

۲۔ تحیۃ المسجد: مسجد میں داخل ہونے پر اللہ کے حضور جو نوافل مسجد میں بیٹھے یا داخل ہونے پر شکرانے کے طور پر پڑھے جاتے ہیں انہیں ”تحیۃ المسجد“ کہا جاتا ہے کیونکہ رسول اکرم ﷺ کا فرمان ہے کہ جب تم میں سے کوئی آدمی مسجد میں داخل ہو تو وہ دو رکعت پڑھے۔

معلوم ہوا کہ تحیۃ المسجد نماز کی دو رکعت ہیں۔ اور مسجد میں داخل ہونے کے جب بعد بیٹھنے سے پہلے پڑھنا سنت ہے اگر بھول کر بیٹھنے کے بعد پڑھے تو درست ہے روزانہ صرف ایک بار تحیۃ المسجد پڑھنا کافی ہے۔

اگر کوئی آدمی بے وضو مسجد میں گیا یا ایسے وقت گیا جس میں نفل نماز مکروہ ہے مثلاً طلوع فجر نماز عصر کے بعد دو چار بار سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ پڑھ لے مسجد کا حق ادا ہو جائے گا۔ تحیۃ المسجد نماز کی چار رکعت منقول ہیں۔

۳۔ نماز اشراق: نماز اشراق کی دو رکعتیں بھی ہیں اور چار رکعتیں بھی منقول ہیں۔ اس کا وقت طلوع آفتاب کے بیس منٹ بعد شروع ہوتا ہے اور سورج کے گرم ہونے تک رہتا ہے۔ حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اکرمؐ نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی فجر کی نماز جماعت سے ادا کر کے طلوع آفتاب تک بیٹھ کر ذکر الہی میں مشغول رہے پھر دو رکعت پڑھے تو اس کے لئے پورے حج اور عمرے کا ثواب ہے اس کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں خواہ کف دریا کو برابر ہوں اور گر طلوع آفتاب کے بعد چار رکعتیں پڑھے گا تو خداوند تعالیٰ شام تک اس کو تمام آفتوں اور برائیوں اور تقصیروں سے محفوظ رکھے گا (ترمذی)

اس نماز میں افضل یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ والشمس اور دوسری رکعت میں افضلی

پڑھے اس سے ثواب زائد ملتا ہے۔ (غنیۃ الطالبین)

۴۔ نماز چاشت: سورج اچھی طرح بلند ہو جانے پر جو نفل نماز پڑھی جاتی ہے اسے نماز چاشت کہتے ہیں اس کا وقت آفتاب بلند ہونے سے زوال آفتاب سے پہلے تک اس کی کم سے کم دور رکعتیں اور زیادہ سے زیادہ بارہ رکعتیں ہیں احادیث میں اس نماز کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے۔

حضرت ابو دروآ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا جس نے چاشت کی دور رکعتیں پڑھیں وہ غافلین میں نہیں لکھا جائے گا اور جو چار پڑھے وہ عابدوں میں لکھا جائے گا اور جو چھ پڑھے اس دن اس کو کافی ہوں گی اور جو آٹھ پڑھے اللہ تعالیٰ اسے قانتین میں لکھے گا۔ اور جو بارہ پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنائے گا اور ہر دن رات میں اللہ تعالیٰ بندوں پر احسان و صفحہ کرتا ہے اور اس سے بڑھ کر کسی بندے پر احسان نہ کیا جسے اپنے سر کا الہام کیا (طبرانی)

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا جس نے چاشت کی بارہ رکعتیں پڑھیں اللہ تعالیٰ اسکے لیے جنت میں سونے کا محل بنائے گا۔ (ترمذی ماجہ)

حضرت نعیم بن ہماز سے روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے ابن آدم شروع دن میں میرے لیے چار رکعتیں (چاشت) پڑھ لے میں آخر دن تک تیری کفایت کروں گا۔ (ترمذی ابو داؤد)

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم نے فرمایا جو چاشت کی دور رکعتوں پر محافظت کرے اس کے گناہ بخش دے جائیں گے اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ (ابن ماجہ)

حضرت ابو ذر سے روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا آدمی پر اس کے بدن کے ہر جوڑ کے بدلے صدقہ ہے (اور کل تین ساٹھ جوڑ ہیں) ہر تسبیح صدقہ ہے ہر حمد صدقہ ہے لا الہ الا اللہ پڑھنا صدقہ ہے۔ اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے اور اچھی بات کا حکم کرنا صدقہ ہے اور بری بات سے روکنا صدقہ ہے اور ان سب کی طرف سے دو رکعت چاشت ہی کافی ہے۔ (مسلم)

۵۔ نماز اوابین: اوابین کی کم سے کم دو درمیانہ چھ اور زیادہ سے زیادہ بیس رکعات ہیں۔ یہ نماز مغرب کے بعد پڑھی جاتی ہے اور بڑی فضیلت والی ہے حضرت ابو ہریرہ سے روایت

ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا جو آدمی مغرب کے بعد چھ رکعتیں پڑھے اور ان کے درمیان کوئی بری بات نہ کرے تو یہ بارہ سال کی عبادت کے برابر شمار کی جائے گی۔ (ابن ماجہ)

حضرت عمار بن یاسرؓ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا اس کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔ (طبرانی)

حضرت عائشہ صدیقہؓ فرماتی ہیں نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا جو مغرب کے بعد بیس رکعتیں پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں مکان بنائے گا۔ (ترمذی)

۶۔ نماز تہجد: تہجد کا افضل وقت رات کا آخری حصہ ہے اس لئے نماز تہجد کے لئے عشر کی نماز کے بعد سوکراٹھے اس کے بعد صبح صادق طلوع ہونے کے وقت تک پڑھ سکتا ہے۔ تہجد نماز کم سے کم دو رکعت اور زیادہ سے زیادہ آٹھ رکعت تک حضور ﷺ سے ثابت ہے۔ لیکن بعض حضرات بارہ رکعت بھی پڑھتے ہیں۔

اس نماز میں سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ جمعہ، سورہ سبین، سورہ اخلاص اور سورہ منزل کا پڑھنا بہتر ہے۔ سورہ اخلاص کا ایک خاص طریقہ سلف سے منقول ہے۔ یہ ہے کہ اول رکعت میں بارہ مرتبہ دوسری میں گیارہ مرتبہ تیسری میں دس مرتبہ اور چوتھی میں مرتبہ۔ اس طرح ہر رکعت میں ایک بار کم کرتا جائے اخیر رکعت میں ایک بار سورہ اخلاص پڑھ کر ختم کر دی جائے۔ اس طریقہ کو بہت بہتر خیال کیا جاتا ہے۔

اس نماز کی فضیلت کے بارے میں رسول اکرم ﷺ کے فرامین مندرجہ ذیل ہیں:-

حضرت مسروقؓ سے روایت ہے کہ انھوں نے حضرت عائشہ صدیقہؓ سے پوچھا کہ حضورؐ کو کونسا عمل سے زیادہ محبوب تھا انہوں نے جواب دیا کہ حضور ﷺ ہمیشہ ہر رات کو تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے اور اس وقت عموماً نماز پڑھتے جبکہ مرغ کی آواز سنتے تھے۔ (بخاری شریف)

حضرت ابو امامہؓ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا۔ قیام اللیل یعنی تہجد کی نماز کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ یہ پہلے نیک لوگوں کا طریقہ ہے اور تمہارے رب کے قرب کا ذریعہ خطاؤں کو مٹانے والا اور گناہوں سے روکنے والا ہے اور بدن سے بیماری دفع کرنے والا ہے (ترمذی)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ ہر رات کے پچھلے تہائی حصہ میں اپنی خاص تجلی فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے۔ ہے کوئی دعا مانگنے والا کہ اس

کی دعا قبول کروں ہے کوئی مانگنے والا کہ اسے دوں۔ ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ اس کو بخش دوں۔ (بخاری شریف)

۷۔ **سفر پر روانگی کی نماز:** سفر پر جاتے وقت روانگی سے پہلے اپنے گھر میں دو رکعتیں نماز سفر پڑھنا سنت ہے۔

نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ کسی نے اپنے گھر والوں میں دو رکعتوں سے بہتر (نائب و محافظ) نہ چھوڑا۔ جن کو وہ سفر کے ارادہ کے وقت اپنے گھر والوں پر پڑھنا ہے۔ (طبرانی)

۸۔ **سفر سے واپسی کی نماز:** سفر سے ہو کر بھی مسجد میں دو رکعت نفل پڑھنا سنت ہے۔ چنانچہ حضرت کعب بن مالکؓ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ سفر سے واپس دن میں چاشت کے وقت تشریف لاتے (رات میں تشریف نہ لاتے) اور پہلے مسجد میں تشریف لاتے اور دو رکعت نفل پڑھتے پھر وہیں مسجد میں (کچھ دیر) تشریف رکھتے۔ (مسلم شریف)

۹۔ **صلوۃ التسبیح:** صلوۃ التسبیح چار رکعت ہیں جو ایک سلام کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں چونکہ اس کی ہر رکعت میں یہ تسبیح **سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ** پچھتر بار پڑھی جاتی ہے اس لئے اس کا نام صلوۃ التسبیح ہے۔ اس نماز میں بے انتہا ثواب ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اس نماز کی فضیلت کو سننے کے بعد وہی شخص اس کو ترک کرے گا جو دین میں سستی کرنے والا ہے اس نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ نمازی کے تمام گناہ اگلے اور پچھلے نئے اور پرانے دانستہ اور نادانستہ چھوٹے اور بڑے پوشیدہ اور ظاہر سب گناہ بخش دیتا ہے۔ یہ نماز نبی اکرم ﷺ نے اپنے چچا حضرت عباسؓ کو سکھائی تھی۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے حضرت عباسؓ سے فرمایا اے چچا! کیا میں تم کو عطا نہ کروں؟ کیا میں تم کو بخشیش نہ کروں؟ کیا میں تم کو نہ دوں؟ کیا میں تمہارے ساتھ احسان نہ کروں؟ دس ہصلیتیں ہیں کہ جب تم ان کو کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارے اگلے پچھلے پرانے نئے جو بھول کر کیے یا جان بوجھ کر کیے صغیرہ اور کبیرہ اور پوشیدہ اور ظاہری سب گناہ بخش دے گا۔ اس کے بعد حضور ﷺ نے آپ کو صلوۃ التسبیح پڑھنے کا طریقہ بتانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ اگر تم سے ہو سکے تو یہ نماز روزانہ ایک بار پڑھو۔ اگر روزانہ نہ پڑھو سکو تو ہر جمعہ کو ایک بار پڑھو۔ یہ بھی نہ کر سکو تو ہر مہینہ میں ایک بار پڑھو اور یہ بھی نہ کر سکو تو عمر میں ایک بار (ضرور) پڑھو۔ (ابوداؤد ابن ماجہ)

صلوۃ التسبیح پڑھنے کی ترکیب سنن ترمذی شریف میں حضرت عبداللہ بن مبارک کی

روایت کے مطابق اس طرح ہے کہ چار رکعت نفل کی نیت سے شروع کریں۔ اللہ اکبر کہنے کے بعد پہلی رکعت میں ثناء یعنی

روایت کے مطابق اس طرح ہے کہ چار رکعت نفل کی نیت سے شروع کریں۔ اللہ اکبر کہنے کے بعد پہلی رکعت میں ثناء یعنی سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ پڑھیں۔ پھر یہ تسبیح سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ پندرہ بار پڑھیں۔ پھر اعموذ اور بسم اللہ اور الحمد اور سورت پڑھ کر رکوع میں جانے سے پہلے یہی تسبیح دس بار پڑھیں۔ پھر رکوع کریں اور رکوع میں پہلے تین بار سبحان ربی العظیم پڑھیں۔ پھر دس بار یہی تسبیح پڑھیں۔ پھر رکوع سے سر اٹھائیں اور تسبیح و تحمید پڑھنے کے بعد دس بار یہی تسبیح پڑھیں پھر سجدہ کو جائیں اور تین بار سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے بعد پھر دس بار یہی تسبیح پڑھیں پھر جلسہ میں دس بار یہی تسبیح پڑھیں۔ پھر دوسرے سجدہ کو جائیں اور اور سجدہ کی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر بارہی تسبیح پڑھیں۔ اسی طرح چاروں رکعتیں پڑھیں ہر رکعت میں پچھتر پچھتر بار یہ تسبیح پڑھیں کل تین سو ہو جائیں گی۔

سیدنا حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ اس نماز کی پہلی رکعت میں سورت تکاثر دوسری میں والعصر تیسری میں قل یا ایہا الکافر ون اور چوتھی میں قل ہو اللہ احد پڑھنی چاہیے۔

یہ نماز دن اور رات کے ہر غیر مکروہ وقت میں پڑھنا جائز ہے لیکن ظہر سے پہلے پڑھنا افضل ہے۔ تسبیح انگلیوں پر گنتا مکروہ ہے بلکہ ہو سکے تو دل میں شمار کریں۔ ورنہ انگلیاں دبا کر پڑھیں۔ اگر کسی جگہ بھول کر دس بار سے کم پڑھی ہیں تو دوسری جگہ پڑھ لیں تاکہ تین سو کی مقدار پوری ہو جائے۔ مثلاً رکوع یا قومہ میں بھولا تو سجدہ میں پڑھے۔ پہلے سجدہ میں بھولا تو جلسہ میں نہ پڑھے بلکہ دوسرے سجدہ میں ہی پڑھے کیونکہ قومہ اور جلسہ کی مقدار پہلے رکن سے تھوڑی ہوتی ہے۔ اگر سجدہ سہواً جب ہو تو ان سجدوں میں تسبیحات نہ پڑھی جائیں کیونکہ عدا تین سو سے زیادہ تسبیح پڑھنا اس نماز میں جائز نہیں۔

حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ اس نماز میں التحیات کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے یہ دعا پڑھنی چاہیے۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ تَوْفِيقَ أَهْلِ الْمُدَى وَأَعْمَالَ أَهْلِ الْيَقِينِ وَ
مَنَاصِحَةَ أَهْلِ التَّوْبَةِ وَعَزْمَ أَهْلِ الْمَصْتَبِرِ وَجِدَادَ أَهْلِ الْخَشْيَةِ وَ

طَلَبَ أَهْلَ الرَّغْبَةِ وَتَعَبَّدَ أَهْلَ الْوَرَعِ وَعِرْفَانَ أَهْلِ الْعِلْمِ حَتَّى
 أَخَافَكَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مَخَافَةَ تَحْجُزُنِي عَنْ مَعَاصِيكَ
 حَتَّى أَعْمَلَ بِطَاعَتِكَ عَمَلًا اسْتَحِقُّ بِهِ رِضَاكَ وَحَتَّى أَنَاصِرَكَ
 بِالتَّوْبَةِ خَوْفًا مِثْلَكَ وَحَتَّى أُخْلِصَ لَكَ النَّصِيحَةَ حُبًّا لَكَ وَحَتَّى
 أَتَوَكَّلَ عَلَيْكَ فِي الْأُمُورِ حَسَنَ ظَنِّي بِكَ سُبْحَانَ خَالِقِ النُّورِ -

ترجمہ:- اے میرے اللہ! میں تجھ سے مانگتا ہوں ہدایت والوں کی توفیق اور یقین والوں کے اعمال اور توبہ والوں کی خیر خواہی اور اہل صبر کا عزم اور خوف والوں کی کوشش اور رغبت والوں کی طلب اور پرہیزگاروں کی عبادت اور علم والوں کی معرفت تاکہ میں تجھ سے ڈروں۔ اے اللہ! میں تجھ سے ایسا خوف مانگتا ہوں جو مجھے تیری نافرمانیوں سے روکے تاکہ میں تیری اطاعت کے ساتھ ایسا عمل کروں جس کی وجہ سے تیری رضا کا مستحق ہو جاؤں اور تیرے خوف سے خالص توبہ کروں اور تیری محبت کی وجہ سے خیر خواہی کو تیرے لئے خالص کروں اور تاکہ تمام کاموں میں تجھ ہی پر بھروسہ کروں۔ تجھ پر اچھا گمان کرتے ہوئے۔ پاک ہے تو نور کا پیدا کرنے والا۔

۱۰۔ **نماز استخارہ:** نماز استخارہ کی دو رکعت ہیں۔ جب کوئی مہم پیش آئے اور اس کے کرنے اور نہ کرنے میں تردد ہو تو یہ نماز پڑھنا سنت ہے۔

حضرت جابر بن عبد اللہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ ہمیں تمام کاموں میں استخارہ کرنے کی تعلیم دیتے تھے۔ اور ہمیں استخارہ اس طرح سکھاتے جیسے قرآن پاک سورت سکھاتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں جب کوئی شخص کسی کام کا ارادہ کرے تو وہ پاک و صاف لباس پہن کر تازہ وضو کر کے دو رکعت نماز استخارہ پڑھے۔ پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری میں قل هو اللہ احد پڑھنا مستحب ہے۔ نماز ختم کرنے کے بعد یہ دعا پڑھی جائے اور اس دعا کے لئے اول و آخر الحمد شریف اور درود شریف پڑھنا مستحب ہے۔ دعا یہ ہے:-

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَحْيِرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَ
 أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا
 أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعَسَمُ إِنَّ هَذَا

marfat.com

الْأَمْرَ خَيْرٌ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أُمْرِي أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ
أَمْرِي وَآجِلِهِ فَأَقْبِلْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ وَإِنْ كُنْتُ
تَعْلَمُ إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أُمْرِي
أَوْ قَالَ عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَأَصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ
وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ ارْضِنِي بِهِ۔

اے اللہ! میں تجھ سے خیر مانگتا ہوں تیرے علم کے ساتھ اور قدرت مانگتا ہوں تیری قدرت
وسیلہ سے اور تجھ سے فضل عظیم مانگتا ہوں اسے لیے کہ تو قادر ہے اور میں قدرت نہیں رکھتا
جانتا ہے اور میں نہیں جانتا اور تو غیبوں کا جاننے والا ہے الہی! اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے
بہتر ہے میرے دین میری معیشت میرا انجام کار یا اس وقت اور آئندہ میں بھی بہتر ہے تو اس
میرا مقدر بنا دے اور میرے لئے آسان کر دے پھر اس میں میرے لئے برکت دے اور
جانتا ہے کہ میرے لیے بڑا ہے میرا دین میری معیشت میرے انجام کار کے لیے یا اس وقت
اور آئندہ میں میرے لیے بڑا ہے تو اس کو مجھ سے دور کر دے اور میرے لیے بھلائی مقدر کر دے
جہاں بھی ہو پھر اس پر راضی کر دے۔

دعا کے بعد اپنی حاجت کا نام لے یا لفظ ھذا الا مد کہتے وقت اپنی حاجت کو
میں یاد رکھے۔ بہتر ہے کہ استخارہ سات بار کرے کیونکہ حدیث شریف میں ہے نبی اکرم ﷺ
نے حضرت انسؓ سے فرمایا اے انس! جب تو کسی کام کا ارادہ کرے تو اپنے رب سے اس کے
سات بار استخارہ کر پھر دیکھ تیرے دل میں کیا گزرا بیشک خیر اسی میں ہے۔

بعض مشائخ عظام سے منقول ہے کہ دعائے مذکورہ پڑھ کر پاک صاف بستر پر با
قبلہ کی طرف منہ کر کے سو رہے اگر خواب میں سفیدی یا سبزی نظر آئے تو یہ کام بہتر ہے اور
سیاہی یا سرخی نظر آئے تو وہ کام اچھا نہیں۔ اس سے بچے۔

۱۱۔ **نماز حاجت** : حضرت حذیفہؓ فرماتے ہیں نبی اکرم ﷺ کو جب کوئی مشکل اور
کام پیش آتا تو نماز پڑھتے تھے۔ (ابوداؤد)

نماز حاجت کی دو رکعت پڑھیں یا چار رکعت پڑھیں۔ اگر چار رکعت پڑھیں تو حدیث
شریف میں ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ اور تین بار آتیاہ الکرسی پڑھیں اور باقی تین رکعتوں

میں سور فاتحہ کے بعد قل هو اللہ اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ایک بار پڑھیں۔ نماز کے بعد مذکورہ دعائیں پڑھیں تو یہ چار رکعتیں ایسی ہیں گویا شب قدر میں چار رکعتیں پڑھیں۔ مشائخ عظام فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ نماز پڑھی اور تمام حاجتیں اللہ تعالیٰ نے پوری فرمائیں۔

حضرت عبداللہ ابی اوفیٰ فرماتے ہیں نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا جس شخص کو کوئی حاجت اللہ تعالیٰ سے ہو یا کسی انسان سے تو وہ اچھی طرح وضو کرے اور پھر دو رکعت نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے اور نبی اکرم ﷺ پر درود شریف پڑھے پھر یہ دعا پڑھے۔

نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے جو حلیم و کریم ہے پاک ہے اللہ وہ مالک ہے عرش عظیم کا۔ اور سب تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے الہی! میں تجھ سے تیری رحمت کے اسباب مانگتا ہوں اور تیری بخشش کے ذرائع مانگتا ہوں اور ہر نیکی سے غنیمت اور ہر گناہ سے سلامتی مانگتا ہوں الہی میرے ہر گناہ کو بخش دیا اور میرے ہر غم کو دور کر دے اور میری ہر حاجت کو جو تیری رضا کے موافق ہو پورا کر دے اس سب سے زیادہ مہربان اللہ (ترمذی)

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ
سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. أَسْأَلُكَ
مُرْجِيَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ
وَالْفَيْئِمَةَ مِنْ كُلِّ بَيْتٍ سَلَامَةٍ
مِنْ كُلِّ إِثْمٍ لَا تَدْعُ لَنَا ذَنْبًا إِلَّا
خَفَرْتَهُ وَلَا هَمًّا إِلَّا فَرَجْتَهُ وَلَا
حَاجَةً هِيَ لَكَ رِغًا إِلَّا قَضَيْتَهَا
يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

حضرت عثمان بن حنیفؓ سے روایت ہے کہ ایک نابینا نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی حضور ﷺ! سے دعا فرمایا کہ مجھے عافیت (آنکھیں) دے آپ نے ارشاد فرمایا اگر تو چاہے تو دعا کر دوں اور چاہے تو صبر کر۔ اور یہ صبر تیرے لیے بہتر ہے اس نے عرض کی حضور! دعا فرمائیں آپ نے ارشاد فرمایا اچھی طرح وضو کر اور پھر دو رکعت نماز پڑھ کر یہ دعا کر۔

الہی! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تو سل ہوں اور تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں تیرے نبی ﷺ کے وسیلہ سے جو نبی رحمت ہیں یا رسول اللہ! میں آپ کے وسیلہ سے اپنے رب کی طرف متوجہ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتَوَسَّلُ وَ
أَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ نَبِيِّ
الرَّحْمَةِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَوَجَّهْتُ
بِكَ إِلَى رَبِّي فِي حَاجَتِي هَذِهِ

لِنَقْضِ رِيَالِ اللَّهِ فَشَوْعُهُ فِي-

ہوتا ہوں تاکہ میری یہ حاجت پوری ہو۔ الہی حضور کی شفاعت کر میرے حق میں قبول فرما۔

عثمان بن حنیف فرماتے ہیں اللہ کی قسم! ہم اپنی جگہ سے ابھی اٹھے بھی نہیں تھے ہم آپس میں باتیں ہی کر رہے تھے کہ وہ نابینا ہمارے پاس (یہ نماز و دعا پڑھ کر) آئے تو ایسے بیٹھا تھے گویا کبھی اندھے تھے ہی نہیں۔ (ترمذی ابن ماجہ)

۱۲۔ نماز توبہ: نماز توبہ سے مراد یہ ہے کہ گناہ سرزد ہونے پر اللہ کے حضور اس گناہ کی معافی مانگی جائے یوں تو ہر وقت اللہ کے حضور اپنے گناہوں پر استغفار کرے رہنا اہل تقویٰ کو شیوہ ہے کیونکہ گزشتہ گناہوں پر اظہار مذامت ہی اصل توبہ ہے لیکن اگر کسی شخص سے کوئی ایسا گناہ ہو جائے جس سے انسانی ضمیر انسان کو توبہ پر مائل کرے تو اس وقت نادم ہو کر وضو کر کے اللہ کے حضور حضور حاضر ہو جانا چاہیے اور دو رکعت نفل نماز توبہ ادا کرنی چاہیے اور آئندہ دل میں پختہ ارادہ کر لینا چاہیے کہ آئندہ ایسی برائی نہیں کروں گا تو اللہ غفور الرحیم ہے۔ اپنے بندوں کو معاف کرنے والا ہے۔ نماز توبہ کو ثبوت مندرجہ ذیل حدیث ہے:-

حضرت علیؓ سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکرؓ نے مجھے سے حدیث بیان کی اور ابو بکرؓ نے سچ کہا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا فرماتے سنا تھا کوئی آدمی نہیں جو کوئی گناہ کا کام کرے پس وضو کرے پھر نماز پڑھے پھر اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرے مگر اللہ تعالیٰ اسے بخشش دیتا ہے۔ پھر یہ آیت پڑھی (ترجمہ: اور وہ جب کوئی بے حیائی کرنے میں یا ظلم کرتے ہیں اپنی جانوں پر اللہ کو یاد کرتے ہیں پس اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے)۔ (ترمذی)

توبہ کا ایک اور طریقہ جو صوفیاء کے ہاں رائج ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی طالب صادق کسی شیخ کامل کے پاس باطنی رہنمائی کے لیے آتا ہے تو وہ سب سے پہلے اسے توبہ کا درس دیتا ہے اور تاکید کرتا ہے کہ جاؤ اور پہلے اچھی وضو یا غسل کر کے آؤ جب وہ اپنے جسم اور لباس کو پاک صاف کرے کے آتا ہے تو شیخ کامل اسے دو رکعت نماز پڑھنے کی تلقین کرتا ہے۔ تو اس کی ہدایت کے مطابق جب بندہ اللہ کے حضور اپنے گناہوں پر توبہ کر لیے دو رکعت نماز توبہ پڑھتا ہے تو شیخ کامل کی توجہ سے اس شخص پر انوار توبہ کو نزول ہوتا ہے۔ وہ بندہ گڑگڑا کر اپنے سابقہ گناہوں کی معافی مانگتا ہے اپنے کیے پر ندامت اور شرمندگی کے انسو بہاتا ہے اور بخشش طلب کرتا ہے تو اللہ اپنی صفت غفور الرحیمی کے پیش نظر اسے معاف کر دیتا ہے۔

۲۰۔ امامت

امام سرور یا حاکم کو کہا جاتا ہے لیکن جماعت کے سلسلے میں امام اسے کہا جاتا ہے جو نمازیوں کے آگے کھڑا ہو کر نماز پڑھاتا ہے امامت بڑی ذمہ داری کا کام ہے اس لیے امام بننے کے لیے انسان کو احتیاط سے کام لینا چاہیے کیونکہ کسی شرعی نقص کی بنا پر اگر امام کی نماز نہ ہوئی تو مقتدیوں کی بھی نماز نہ ہوگی کیونکہ امامت عظیم ترین دینی منصب ہے بلکہ نبی کریم ﷺ کی جانشینی کا مقام ہے اس لیے امام بننے یا کسی کو منتخب کرنے میں بڑی احتیاط سے کام لینا چاہیے۔

۱۔ احادیث: امامت کے متعلق حضور ﷺ کے ارشادات مندرجہ ذیل ہیں :

۱۔ حدیث: حضرت ابو سعید خدریؓ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”امامت کرانے کا زیادہ حقدار وہ ہے جو زیادہ قرآن پڑھا ہو اور یعنی قرآن کا علم زیادہ رکھتا ہو۔“ (مسلم شریف)

۲۔ حدیث: حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”کہ تم میں سے اچھے لوگ اذان کہیں اور قرآن کا زیادہ علم رکھنے والے امامت کروائیں۔“ (ابوداؤد شریف)

۳۔ حدیث: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ فرماتے ہیں۔ کہ جب کوئی نماز پڑھائے تو وہ نماز میں تخفیف کرے یعنی بہت لمبی نہ کرے کیونکہ (پیچھے کوئی بیمار کوئی کمزور اور کوئی بوڑھا ہوتا ہے) جب اپنی پڑھے تو جتنا چاہیے نماز لمبی پڑھے۔ (بخاری شریف)

۴۔ حدیث: حضرت انسؓ فرماتے ہیں ایک دن نبی اکرم ﷺ نے ہمیں نماز پڑھائی۔ جب پڑھ چکے تو ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا: اے لوگو! میں تمہارا امام ہوں۔ رکوع و سجود اور قیام اور نماز سے سلام پھیرنے میں مجھ سے آگے نہ بڑھو کیونکہ میں تم کو آگے اور پیچھے سے دیکھتا ہوں۔ (مسلم شریف)

۵۔ حدیث: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی امام سے پہلے سرائٹھاتا ہے کیا وہ اس سے ڈرتا نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا سر گدھے کا سر بنا دے۔ (بخاری شریف)

۶۔ حدیث: حضرت سلامہؓ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ فرماتے ہیں قیامت کی ایک نشانی یہ ہے کہ مسجدوں والے امامت ایک دوسرے پر ڈالیں گے اور کسی کو امام نہیں پائیں گے جو ان کو نماز پڑھائے یعنی کوئی امامت کے قابل نہیں ملے گا۔ (مسند امام احمد ابن ماجہ)

۷۔ حدیث: حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا ہے کہ تین آدمیوں کی نماز سر سے ایک بالشت بھی اوپر نہیں جانی یعنی قبول نہیں ہوتی ایک وہ شخص جو لوگوں کی امامت کرے اور لوگ اس کو برا جانتے ہوں اور وہ عورت جو اس حالت میں رات گزارے کا اس کا خاوند اس پر ناراض ہو اور تیسرے وہ مسلمان بھائی جو ایک دوسرے سے کسی دنیاوی وجہ سے دور اور ناراض ہوں۔ (ابن ماجہ)

۲۔ شرعی مسائل: امامت کے متعلق شرعی مسائل مندرجہ ذیل ہیں:-

۱۔ مسئلہ: امام کے لیے چھ شرطیں ضروری ہیں:

۱۔ مسلمان ۲۔ مرد ہونا ۳۔ بالغ ہونا

۴۔ عقل مند ہونا ۵۔ قرأت مسنونہ کا جاننا ۶۔ اور معذور نہ ہو

جس کے اندر یہ چھ شرطیں پائی جائیں وہ امامت کر سکتا ہے ورنہ نہیں نابالغ بالغوں کا امام نہیں ہو سکتا نہ فرض میں نہ نفل و تراویح میں۔ ہاں سمجھدار نابالغ۔ بالغوں کی امامت کر سکتا ہے

۲۔ مسئلہ: سب سے زیادہ امامت کے لائق وہ شخص ہے جو طہارت اور نماز کے صحت و فساد کے مسائل و احکام کو سب سے زیادہ جانتا ہو متقی ہو قرأت مسنونہ یعنی سنت کے مطابق قرآن پڑھنا جانتا ہو اور صحیح پڑھتا ہو یعنی حروف مخارج سے ادا کر سکتا ہو بد عقیدہ اور بد مذہب نہ ہو۔ اس کے بعد وہ شخص امامت کا حقدار ہے جو علم تجوید قرآن پڑھنے کا علم زیادہ رکھتا ہو۔ اور قرآن پاک اس کے مطابق پڑھتا ہو۔ اگر ایسے کئی آدمی ملتے ہوں تو صاحب ورع یعنی مشتبہ چیزوں سے پرہیز کرنے والا امامت کرائے اگر اس میں برابر ہوں تو زیادہ عمر والا پھر اچھے اخلاق والا مستحق امامت کرائے اگر اس میں برابر ہوں تو زیادہ عمر والا پھر اچھے اخلاق والا مستحق امامت ہے۔ اگر اس میں بھی کئی افراد برابر ہوں تو پھر زیادہ وجاہت والا یعنی تہجد گزار پھر زیادہ خوبصورت پھر حسب نسب والا پھر زیادہ مالدار اور عزت والا پھر صاف ستھرے لباس والا امامت کا حقدار ہے الغرض ایسی حالت میں جس کو شرعی ترجیح حاصل ہو وہ امامت کے لائق ہے یا جس کو لوگ پسند کریں۔

۳۔ **مسئلہ:** معین امام ہی امامت کا حقدار ہے اگرچہ حاضرین میں کوئی اس سے زیادہ علم والا اور قرآن اچھا پڑھنے والا ہو۔ بشرطیکہ وہ امام جامع شرائط امامت ہو امام کو چاہیے کہ مقتدیوں کی رعایت کرے اور قدر مسنون سے زیادہ لمبی قرات نہ کرے کیونکہ ایسا کرنا مکروہ اور خلاف سنت ہے جو رکوع وجود نہیں کر سکتا اس کے پیچھے رکوع وجود پر قادر آدمی کی نماز نہ ہوگی۔ ہاں بیٹھ کر رکوع وجود کرنے والے کے پیچھے کھڑے ہو کر پڑھنے والے کی نماز ہو جائے گی فرض نماز نفل پڑھنے والے کے پیچھے کھڑے ہو اور ایک فرض کی دوسرے فرض پڑھنے والے کے پیچھے نہیں ہو سکتی مثلاً ظہر کے فرض عصر پڑھنے والے کے پیچھے یا کل کی ظہر آج کی ظہر پڑھنے والے کے پیچھے نہیں ہو سکتی ہاں اگر دونوں کی ایک وقت کی نماز قضا ہو گئی ہے تو ایک دوسرے کے پیچھے پڑھ سکتا ہے وضو والا تیمم والے اور پاؤں دھونے والا موزہ پر مسح کرنے والے اور وضو کے اعضاء دھونے والا پٹی پر مسح کرنے والے کی اقتدار میں نماز پڑھ سکتا ہے یونہی کھڑا ہو کر نماز پڑھنے والا بیٹھ کر نماز پڑھنے والے اور کھڑے شخص کے پیچھے بھی نماز پڑھ سکتا ہے اگرچہ اس کا کب حد رکوع کو پہنچا ہو نفل پڑھنے والا فرض پڑھنے والے کی اقتدار میں نماز پڑھ سکتا ہے معذور آدمی یعنی جس کا وضو نہ رہتا ہو وہ ظاہر اور وضو والے کی امامت نہیں کر سکتا۔

۵۔ **مسئلہ:** وہ بد مذہب جس کی بد مذہبی کفر تک پہنچی ہو جیسے رافضی اور صدیق اکبر کی خلافت اور صحابیت کا انکار کرنے والا یا صدیق اکبر اور عمر فاروق کی شان میں تبرا کہنے والا قدری جی مشبہ اور قرآن پاک کو مخلوق ماننے والا انبیاء کرام کا گستاخ اور شفاعت انبیاء یا دیدار خداوندی اور عذاب قبر یا کرانا کاتبین کا انکار کرنے والے کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی اور جس بد مذہب کی بد مذہبی کفر تک پہنچتی ہو جیسے تفضیلیہ وغیرہ اس کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی ہے یعنی واجب الادعاہ ہے اس طرح کھلا فاسق یعنی شرابی زانی سود خور جواری اور چغزل کور وغیرہ جو کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں ان کو امام بنانا بھی سخت گناہ ہے اور ان کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی واجب الادعاہ ہے یعنی اس نماز کا دوبارہ پڑھنا واجب ہے۔

۵۔ **مسئلہ:** امام کو چاہیے کی صف بندی کروائے اور صفیں سیدھی کرنے کی تاکید کرے کیونکہ یا امام کے فرائض میں شامل ہے کہ وہ جماعت کھڑی ہونے سے قبل مقتدیوں کو صف بندی پر نظر ڈالے اگر صفوں میں سے کوئی جگہ خالی نظر آئے تو اسے پورا کرنے کے لیے

مقتدیوں کو تاکید کرے اگر کوئی بچہ پہلی صف میں کھڑا ہو تو اسے سب سے پچھلی صف میں کھڑا ہونے کے لیے کہے جب صفیں بہت زیادہ ہوں لامحالہ امام ایک نظر میں بہت بڑے مجمع کی صف بندی یکدم درست نہیں کروا سکتا، تو مقتدیوں کو بذات خود ہی جائے کی جماعت کے لیے کھڑے ہوتے ہی خود بخود صفیں درست کر لیں۔

۶۔ **مسئلہ:** جماعت کے دوران امام کے لیے ضروری ہے کہ بیماروں، کمزوروں اور بوڑھوں کا خیال رکھے کیونکہ جب کوئی امام نماز پڑھائے تو اسے چاہیے کہ ہلکی پھلکی جماعت کروائے اس لیے کہ مقتدیوں میں مریض بھی ہوتے ہیں کمزور بھی ہوتے ہیں اور بوڑھے بھی لیکن قرأت کو اتنا مختصر بھی نہ کرے کہ جماعت کی روح ہی قائم نہ رہے۔

۷۔ **مسئلہ:** رسول اکرم ﷺ مقتدیوں کی صورت حال کو مد نظر رکھتے ہوئے حد درجہ رحم اور شفقت فرماتے ہوئے اگر نماز کے دوران کسی بچے کے رونے کی آواز سنتے تو نماز کو اتنا مختصر کر دیتے تاکہ اگر بچے کی ماں جماعت میں شریک ہو تو اسے تکلیف نہ ہو۔

۸۔ **مسئلہ:** امام جب محسوس کر کے نمازیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے کہ اس کی آواز مقتدیوں تک نہیں پہنچ پائے گی تو اس صورت میں اسے چاہیے کہ چند آدمیوں کو مقرر کر دے تاکہ جب وہ امام کی تکبیر سنیں تو تکبیر کہیں اور ان کی آواز پر مقتدی آسانی سے رکوع، سجود اور صفوں کو درست کر لیں۔

۹۔ **مسئلہ:** جماعت پڑھاتے ہوئے امام کے لیے ضروری ہے کہ وہ مقتدیوں کی ضرورت اور معذوریوں کو مد نظر رکھے قرأت درمیانے درجے کی کرے اگر محسوس کرے کہ اس کی قرأت سے کسی بوڑھے نمازی کو تکلیف ہوگی تو اسے چاہیے کہ قرأت مختصر کرے رکوع و سجود بھی لمبے نہ کرے کیونکہ رسول اکرم ﷺ نے نماز ہلکی پڑھانے کا حکم دیا ہے۔

۲۱۔ جماعت

جماعت کے معنی گروہ کے ہیں لیکن اصطلاحاً نظر یہ اسلام پر اکٹھے ہونے والے جماعت کہلاتے ہیں اور مل کر نماز پڑھنے کو جماعت کہا جاتا ہے۔ اسلام میں اس کی بہت اہمیت اور فضیلت ہے۔

احادیث: جماعت کے فضائل کے بارے میں حدیث ﷺ حسب ذیل ہیں:

marfat.com

۱۔ حدیث: حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ ارشاد فرماتے ہیں: باجماعت نماز تنہا نماز پڑھنے سے ستائیس درجہ فضیلت رکھتی ہے۔ (مسلم شریف)

۲۔ حدیث: حضرت عثمانؓ سے روایت ہے کہ رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کامل وضو کیا پھر نماز فرض کے لیے (مسجد کی طرف) چلا اور امام کے ساتھ نماز پڑھی اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ (نسائی)

۳۔ حدیث: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ حضور خود فرماتے ہیں کہ جو شخص اچھی طرح وضو کر کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے مسجد کو جائے اور پھر وہ لوگوں کو حالت میں پائے کہ وہ نماز پڑھ چکے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والوں کی مانند ثواب دیگا اور ان کے ثواب سے کچھ کم نہ ہوگا۔ (ابوداؤد نسائی)

۴۔ حدیث: حضور نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ عورت کا گھر کے برآمدہ میں نماز پڑھنا صحن میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے اور کوٹھڑی کے اندر نماز پڑھنا برآمدہ میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ (ابوداؤد)

۵۔ حدیث: حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جو صرف اللہ کی رضا کے لیے چالیس دن متواتر نماز باجماعت پڑھے اور تکبیر اڈولی پائے اس کے لیے دو آزادیاں لکھ دی جائیں گی۔ ایک آزادی دوزخ کی آگ سے اور دوسری نفاق سے (ترمذی)

۶۔ حدیث: رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ یہ (نماز جماعت سے پیچھے رہ جانے والا) جانتا کہ جماعت کے لیے مسجد میں اس جانے والے کو کیا ثواب ملتا ہے تو وہ پیٹ کے بل گستاہوا حاضر ہو جاتا۔ (طبرانی)

۷۔ حدیث: حضرت عثمانؓ سے روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا جس نے عشاء کی نماز باجماعت پڑھی گو یا اس نے آدھی رات تک قیام کیا اور جس نے فجر کی نماز باجماعت پڑھی گو یا اس نے پوری رات قیام کیا یعنی رات بھر عبادت کی۔ (مسلم شریف)

۸۔ حدیث: حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ سے روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا کہ دو آدمی اور دو سے زیادہ جماعت ہے۔ یعنی دو آدمی بھی جماعت ہے نماز پڑھیں (ابن ماجہ)

۹۔ حدیث: حضرت ابوسعید خدریؓ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب مسجد میں آئے اور اس وقت نبی اکرم ﷺ نماز پڑھ چکے تھے۔ آپ نے فرمایا ہے کوئی جو اس پر صدقہ کرے، یعنی اس کے ساتھ پڑھے تاکہ اسے جماعت کا ثواب مل جائے تو صحابی (ابوبکر صدیقؓ) نے ان کی ساتھ نماز پڑھی۔ (ابوداؤد ترمذی)

۱۰۔ حدیث: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اگر لوگ یہ جانتے کہ اذان اور صف اول میں کیا ثواب ہے تو پھر قرعہ ڈالے نہ بنتی اور اس پر قرعہ اندازی کرتے۔ (مسلم شریف)

۱۱۔ حدیث: حضرت ابی امامہؓ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے پہلی صف والوں پر درود پڑھتے ہیں۔ لوگوں نے عرض کی اور دوسری صف پر؟ تو آپ نے فرمایا اللہ اور اس کے فرشتے صف اول پر درود پڑھتے ہیں۔ لوگوں نے عرض کی دوسری پر؟ تو تیسری بار حضور ﷺ نے فرمایا دوسری پر بھی درود پڑھتے ہیں اور فرمایا صفوں کو برابر کرو اور کندھوں کو برابر رکھو اور اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں نرم ہو جاؤ اور کشادگیوں کو بند کرو کیونکہ شیطان بھیڑیے کے بچے کی طرح تمہارے درمیان داخل ہو جاتا ہے۔ (طبرانی)

۱۲۔ حدیث: رسول اکرم ﷺ کا ارشاد ہے کہ تم میں جو عقلمند ہیں وہ (پہلی صف میں) میرے قریب کھڑے ہوں۔ یہ آپ تین بار فرمایا اور بازاروں کی چیخ و پکار سے بچو۔ (مسلم شریف)

۱۳۔ حدیث: حضور ﷺ نے فرمایا لوگ ہمیشہ پہلی صف سے پیچھے ہوتے رہیں گے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت سے دور کر کے آگ میں ڈال دے گا (ابوداؤد ابن ماجہ)

نیز حضور فرماتے ہیں کہ مردوں کی سب صفوں سے بہتر پہلی صف ہے اور سب سے کم تر پچھلی اور عورتوں کی سب صفوں میں بہتر پچھلی صف ہے اور کتر پہلی صف ہے (مسلم)

۱۴۔ حدیث: نعمان بن بشیرؓ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ ہماری صفیں تیر کی طرح سیدھی کرتے حتیٰ کہ آپ نے خیال فرمایا کہ ہم سمجھ گئے ہیں۔ پھر ایک دن حضور ﷺ تشریف لائے اور (مصلیٰ پر) کھڑے ہو گئے اور تکبیر کہنے ہی لگے تھے کہ آدمی کا سینہ صف سے نکلا دیکھا تو آپ نے فرمایا اے اللہ کے بندو! صفیں برابر کرو۔ ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان اختلاف ڈال دے گا۔ (رواہ السنہ)

حضور فرماتے ہیں جماعت میں صفیں سیدھی اور برابر رکھو کیونکہ صفیں سیدھی اور برابر رکھنا

بھی نماز پوری اور مکمل کرنے سے ہے۔ (بخاری شریف)

۱۵۔ حدیث : حضرت براء بن عازبؓ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ صف کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک جاتے اور صف سیدھی کرنے لیے ہمارے کندھے یا سینے پر ہاتھ پھیرتے اور فرماتے ٹیڑھے کھڑے نہ ہوا کرو ورنہ تمہارے دل ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ (ابوداؤد۔ نسائی)

۱۶۔ حدیث : حضرت جابر بن سمرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا کہ تم (جماعت میں) اس طرح صف کیوں نہیں باندھتے جس طرح فرشتے اپنے رب کے سامنے صفیں باندھتے ہیں؟ عرض کیا یا رسول اللہ! فرشتے اپنے رب کے حضور کسی طرح صفیں باندھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ پہلی صفیں پوری کرتے اور صف میں مل کر کھڑے ہوتے ہیں۔ (مسلم شریف)

۱۷۔ حدیث : حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلی صف کو پورا کرو پھر اس کو پورا کرو جو اس کے پیچھے ہے اگر کچھ کمی ہو تو وہ آخری صف میں ہونی چاہیے۔

ایک اور روایت میں ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا ہے کہ جو صف میں کشادگی کو پورا کرے اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند فرمائے گا طبرانی کی ایک روایت میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں اس کے بدلے ایک گھر بنائے گا۔ حضور فرماتے ہیں اس قدم سے زیادہ کسی قدم کو ثواب نہیں جو اس لیے چلا اور اٹھا۔ تاکہ صف میں کشادگی کو بند کرے اس کی بخشش ہو جائیگی۔

۱۸۔ حدیث : نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صف کو ملائے گا اللہ تعالیٰ اسے ملائے گا۔ اور جو صف کو توڑے گا اللہ تعالیٰ بھی اسے توڑ دیگا (نسائی شریف)

اب وہ احادیث بیان کی جاتی ہیں جن میں نماز باجماعت نہ پڑھنے کی مذمت کی گئی ہے۔

حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اس حالت میں دیکھا کہ نماز سے پیچھے نہیں رہتا مگر وہی جو کھلا منافق یا بیمار ہے اور بیمار کی بھی یہ حالت ہوتی کہ دو آدمیوں کے سہارے اس کو چلا کر نماز کے لیے (مسجد میں) لاتے۔ اور ابن مسعود نے کہا کہ رسول ﷺ نے ہمیں سنن الہدیٰ کی تعلیم دی ہے اور جس مسجد میں اذان ہوتی ہے اس میں نماز پڑھنا بہ ایت کا راستہ ہے ایک اور روایت میں ہے کہ ابن مسعود نے پوچھا کہا کہ جسے یہ اچھا معلوم

ہو کہ کل خدا سے مسلمان ہونے کی حالت میں ملے تو پانچوں نمازوں کے محافظت اور پابندی کرے جب ان کی اذان پڑھی جانے اور اگر تم نے اپنے گھروں میں پڑھ لی جیسے یہ پیچھے رہ جانے والا اپنے گھر میں پڑھ لیا کرتا ہے تو تم نے اپنے نبیؐ کی سنت چھوڑ دی۔ اور اپنے نبیؐ کی سنت چھوڑو گے تو گمراہ ہو جائے گے تو جو قدم اٹھاتا ہے ہر قدم کے بدلے اللہ تعالیٰ نیکی لکھتا ہے اور ایک درجہ بلند کرتا ہے اور ایک گناہ مٹا دیتا ہے۔ (مشکوٰۃ شریف)

حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا کہ جس نے اذان سنی اور مسجد میں آنے سے کوئی عذر مانع نہیں تو اس کی وہ نماز قبول نہیں جو اس نے گھر پر پڑھی۔ لوگوں عرض کیا عذر کیا ہے فرمایا خوف یا بیماری۔ (ابوداؤد ابن ماجہ)

حضرت ابودردؓ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا کہ جس گاؤں یا آبادی میں تین شخص ہوں اور پھر نماز باجماعت قائم نہ کی گئی تو ان پر یقیناً شیطان مسلط ہو گیا لہذا جماعت (کے ساتھ نماز پڑھنے) کو لازم جانو۔ کیونکہ بھیڑ یا اسی بکری کو کھاتا ہے جو ریوڑ سے دور ہو۔ (ابوداؤد نسائی)

حضرت عبداللہ بن مکتومؓ نے عرض کی یا رسولؐ! مدینہ میں موذی جانور بہت ہیں اور میں نابینا ہوں تو کیا مجھے اجازت ہے کہ میں نماز گھر پر پڑھ لوں۔ فرمایا **حی علی الصلوٰۃ** کی آواز سنتے ہو عرض کی ہاں تو آپ نے فرمایا پھر (مسجد میں) حاضر ہوا کروا۔ (ابوداؤد۔ نسائی)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا کہ منافقوں پر سب سے زیادہ بھاری نماز عشاء و فجر ہے اور اگر وہ جانتے کہ ان میں کیا اجر و ثواب ہے تو گھسٹتے ہوئے (مسجد میں) آتے۔ بلاشبہ میں نے یہ ارادہ کیا نماز قائم کرنے کا حکم دوں پھر کسی کو حکم دوں کہ لوگوں کو نماز پڑھائے اور میں اپنے ہمراہ کچھ لوگوں کو جن کے پاس لکڑیوں کے گٹھے ہوں لے کر ان کے پاس جاؤں جو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں حاضر نہیں ہوتے اور ان کو ان کو گھروں سمیت آگ لگا کر جلا دوں۔ (بخاری شریف)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی اکرمؐ نے فرمایا کہ اگر گھروں میں عورتیں اور بچے نہ ہوتے تو نماز عشاء قائم کرتا اور جوانوں کو حکم دیتا کہ (جو نماز پڑھتے مسجد میں نہیں آئے اور

گھروں میں بیٹھے ہیں ان کے گھروں کو جلا دیں (مسند امام احمد)

۲۔ شرعی مسائل : جماعت کے متعلق شرعی مسائل مندرجہ ذیل ہیں:

۱۔ مسئلہ: عقل مند بالغ و آزاد اور تندرست مرد پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے بلا عذر ایک وقت کی بھی نماز چھوڑنے والا گنہگار اور مستحق سزا دی جائے۔ اگر پڑوسیوں نے ایسے تارک نماز و جماعت کے بارے میں خاموشی اختیار کی تو وہ بھی گنہگار ہوں گے۔

۲۔ مسئلہ: جمعہ اور دونوں عیدوں میں جماعت شرط ہے اور تراویح میں جماعت سنت کفایہ ہے کہ سب محلہ والوں نے اگر تراویح کی جماعت چھوڑی دی تو سب گنہگار ہوں گے۔ اگر کچھ نے جماعت قائم کر لی تو دوسروں کے ذمہ سے جماعت ساقط ہوگئی۔ رمضان شریف میں وتر کی جماعت مستحب ہے۔ سورج گہن میں جماعت سنت ہے اور چاند گہن میں نہیں۔ نفلوں میں جماعت بطور تداعی مکروہ ہے تمن سے زیادہ مقتدی ہوں تو اس کو تداعی کہتے ہیں (فتاویٰ عالمگیری)

۳۔ مسئلہ: محلہ کی مسجد کی میں جس کے لیے امام مقرر ہے امام محلہ نے اذان و اقامت کے ساتھ حسب دستور نماز پڑھ لی ہو تو پہلی جماعت کی طرح دوسری جماعت اذان و اقامت کے ساتھ قائم کرنا مکروہ ہے ہاں محراب سے ہٹ کر بلا اذان دوسری جماعت کرنا جائز ہے۔ (در مختار)

۴۔ مسئلہ: عورتوں کو دن رات کی کسی بھی نماز میں جماعت کے لیے مسجد میں حاضر ہونا جائز نہیں۔ اس طرح جمعہ اور عیدین کی نماز بھی ان کو جانا جائز نہیں خواہ وہ جوان ہوں یا بوڑھیاں گھر میں اگر صرف عورتیں ہی ہوں تو اس میں مرد کو ان کی امامت جائز نہیں۔ ہاں اگر ان عورتوں میں اس کی نسبی محارم ہوں یا بیوی ہو یا وہاں کوئی مرد بھی ہو تو پھر ان کی امامت جائز ہے (در مختار)

۵۔ مسئلہ: اکیلا مقتدی مرد اگر چہ لڑکا ہی ہو امام کے برابر داہنی طرف اس طرح کھڑا ہو کہ اس کے پاؤں کا ٹٹا امام کے گٹے سے آگے نہ ہو اور نہ برابر ہو بلکہ اس سے پیچھے ہو۔ دو مقتدی ہوں تو امام کے پیچھے صف میں کھڑے ہوں۔ ایک مرد اور دوسرا لڑکا ہو تو پھر بھی وہ دونوں صف میں پیچھے کھڑے ہوں عورت ایک ہو یا زیادہ ہوں امام کے پیچھے صف میں کھڑی ہوں دو مقتدی ہوں ایک مرد اور ایک عورت اگر امام کے برابر داہنی طرف کھڑا ہو اور

عورت پیچھے صف میں کھڑی ہو۔ ایک شخص امام کے برابر کھڑا تھا پھر ایک اور آگیا تو امام آگے بڑھ جائے یا آنے والا اس کو کھینچے لے دونوں طرح جائز ہے مگر امام یا مقتدی حکم شرع کو بوجہ لانے کی نیت سے ایسا کریں۔ اگر آنے والے کا کہنا ماننے کی نیت سے امام آگے بڑھا یا مقتدی پیچھے ہٹا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ (بہار شریعت)

۶۔ **مسئلہ:** جماعت میں صف بندی اس طرح ہونی چاہئے کہ پہلے مردوں کی صف ہو پھر بچوں کی صف اور آخر میں عورتوں کی صف ہو بچہ اگر اکیلا ہو تو بائیں طرف مردوں کی صف میں شامل ہو جائے۔ صفیں اچھی طرح باہم مل کر کھڑی ہوں۔ بیچ میں کشادگی برگزین رہے اور سب کندھے برابر ہونے چاہئیں۔ امام کو وسط میں کھڑا ہونا چاہئے۔ دائیں بائیں کھڑا ہونا خلاف سنت ہے نیز امام کا ستونوں کے درمیان کھڑا ہونا بھی مکروہ ہے مردوں کی سب سے افضل پہلی صف ہے پھر دوسری اس کے بعد تیسری افضل ہے۔ علیٰ ہذا القیاس مقتدی کو امام کے قریب کھڑا ہونا زیادہ افضل ہے عورتوں کی سب سے افضل آخر ہے۔

۸۔ **مسئلہ:** پہلی صف میں جگہ ہوتے پچھلی صف میں کھڑا ہونا مکروہ ہے بلکہ اگر پہلی صف میں جگہ ہو اور پچھلی بھر گئی ہو تو اس کو چیر کر جانا چاہئے اور اس خالی جگہ میں کھڑا ہونا چاہئے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد ہے جو صف میں کشادگی دیکھ کر اس پر کر دے اس کی بخشش ہو جائے گی۔ مسجد کے صحن میں جگہ ہوتے ہوئے گیلری وغیرہ دوسری منزل پر اقتدار کرنا مکروہ ہے اس طرح صف میں جگہ ہوتے ہوئے صف کے پیچھے کھڑا ہونا بھی منع ہے۔

۳۔ مسائل اقتداء: مقتدی کی چار قسمیں ہیں:

۱۔ مدرک ۲۔ مسبوق

۳۔ لاحق ۴۔ مسبوق لاحق

۱۔ مدرک اس مقتدی کو کہتے ہیں جس نے اول سے آخر تک امام کے ساتھ پڑھی ہو۔

۲۔ مسبوق اس مقتدی کو کہتے ہیں جو امام کے ایک دو رکعت پڑھنے کے بعد شامل ہوا اور آخر تک رہا ہو۔

۳۔ اور لاحق مقتدی اس مقتدی کو کہتے ہیں جس نے امام کے ساتھ پہلی رکعت میں اقتداء کی لیکن بعد میں اس کی ساری یا بعض رکعتیں چھوٹ گئیں۔

marfat.com

۴۔ اور مسبوق لاحق اس کو کہتے ہیں جو امام کے ایک دور کعتیں پڑھنے کے بعد شامل ہو اور بعد میں لاحق ہو گیا۔

مسبوق مقتدی جو کہ ایک دور کعت کے بعد جماعت کے ساتھ شامل ہوا ہے وہ امام کے بائیں طرف سلام پھیرنے کے بعد باقی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو۔ تاکہ اگر امام نے سجدہ سہو کرنا ہو تو وہ بھی کر سکے۔ اگر ایسے مقتدی نے بھول کر امام کے ساتھ سلام پھیر دیا تو نماز فاسد نہ ہوگی۔ فوراً اٹھ کر باقی نماز ادا کرے۔


پانچ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر امام چھوڑ دے تو مقتدی بھی نہ کرے اور امام کی متابعت کرے (۱) عیدین کی تکبیروں (۲) پہلا قعدہ (۳) سجدہ سہو (۴) سجدہ تلاوت اور (۵) دعائے قنوت۔

چار چیزیں ایسی ہیں کہ اگر امام ان کو ادا کرے تو مقتدی ان کو ادا کرنے میں امام کی پیروی نہ کرے۔ اول عید کی تکبیروں میں زیادتی کرنا، دوم جنازہ کی چار زیادہ تکبیریں کہنا، سوم زائد سجدہ یا رکوع کرنا، چہارم اور پانچویں رکعت کے لیے بھول کر کھڑا ہو جانا۔ اس صورت میں اگر امام آخری قعدہ ادا کرنے کے بعد پانچویں رکعت کے لیے کھڑا ہو تو مقتدی امام کی پیروی نہ کریں بلکہ بیٹھے رہیں اور دیکھیں کہ اگر واپس آجائے تو اس کے ساتھ سجدہ سہو کریں اور سلام پھیریں اگر امام نے آخری قعدہ نہیں کیا تھا اور پانچویں رکعت کا سجدہ کر لیا تو امام اور مقتدی سب کی نماز ٹوٹ گئی۔

بیمار جو مسجد تک نہ جاسکے اپنا حج جسے کا پاؤں کٹ گیا ہو جس کو فالج گرا ہو بہت بوڑھا، جو مسجد میں نہ جاسکے اندھا، سخت کچھڑ کا زیادہ ہونا، سخت سردی، بہت اندھرا، شدید آندھی، مال یا کھانے وغیرہ کی چیز کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہونا، قرض خواہ کا ڈر، جبکہ وہ تنگ دست ہو، کسی ظالم کا ڈر، پیشاب پاخانہ، ریاچ یعنی ہوا کی شدید حاجت ہونا، کھانے کی موجودگی میں جبکہ اس کی خواہش بھی ہو، قافلہ چلے جانے کا اندیشہ، بیماری، تماررداری کرنا، جبکہ اور کوئی اس کی خبر گیری کرنے والا موجود نہ ہو، ان تمام صورتوں میں جماعت ترک کرنے میں کوئی گناہ نہیں مذکورہ تمام عذر ترک جماعت کے عذر ہیں۔

جماعت کی نمازوں میں ملنے کے نقشے

نقشہ نمبر ۱




!- فجر کی دوسری رکعت میں

ملنے کا طریقہ

فجر کی دوسری رکعت میں ملنے کا طریقہ نقشہ میں اوپر کے خانے ظاہر کر رہے ہیں کہ امام صبح کے دو فرض پڑھ رہا ہے۔ نیچے کے خانے یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ مقتدی دوسری رکعت میں مل رہا ہے۔ اب ترتیب کے لحاظ سے مقتدی کی پہلی رکعت رہ گئی اور دوسری رکعت امام کے پیچھے ہوئی اب وہ اکیلا پہلی رکعت کو اس طرح پڑھے کہ پہلے سبحانک اللہم پھر فاتحہ پھر سورت پڑھ کر اپنی پہلی چھوڑ ہوئی رکعت کو پورا کریگا (در مختار) جمعہ کی نماز امام کی ساتھ ملنے کی طریقہ بھی ل بالکل وہی ہے جو فجر کی نماز میں ملنے کا ہے۔

۲۔ ظہر، عصر اور عشا کی دوسری رکعت میں ملنے کا طریقہ




نقشہ نمبر ۲

نقشہ کے اوپر کے خانے ظاہر کر رہے ہیں کہ امام چار رکعت کی نماز پڑھا رہا ہے۔ نیچے کے خانے یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ مقتدی دوسری رکعت میں مل رہا ہے اب اس نے امام کے پیچھے دوسری تیسری اور چوتھی رکعت ترتیب سے پڑھ لی اس کی پہلی رکعت باقی رہ گئی جسے وہ اب اکیلا کھڑا ہو کر اس

marfat.com


Marfat.com

طرح ادا کر دیگا کہ پہلے اس میں سبحانک اللہم پھر سورت پڑھے گا (در مختار۔ ج ۱ ص ۸۶)
۲۔ ظہر عصر اور عشاء کی تیسری رکعت میں ملنے کا طریقہ




مطابق مقتدی کی پہلی اور دوسری رکعت بیچ گئی اب وہ کھڑا ہو کر پہلے پہلی رکعت اس طرح ادا کرے گا کہ اس میں سبحانک اللہم پھر سورت پڑھے گا پھر رکوع وسجدہ کرنے کے بعد کھڑا ہو کر دوسری رکعت اس طرح ادا کرے گا کہ پہلے اس میں فاتحہ پھر سورت پڑھے گا۔ اس طرح اس کی باقی ماندہ پہلی اور دوسری رکعتیں پوری ہو جائیں گی۔ (در مختار۔ ج ۱ ص ۸۶)

۳۔ ظہر عصر اور عشاء کی چوتھی رکعت میں ملنے کا طریقہ



پچھلے صفحے پر خانے ظاہر کر رہے ہیں کہ امام چار رکعت کی نماز پڑھا رہا ہے نیچے کے خانے ظاہر کر رہے ہیں کہ مقتدی امام کے پیچھے چوتھی رکعت میں مل رہا ہے۔ اب مقتدی نے امام کے پیچھے صرف اپنی چوتھی رکعت ادا کی۔ ترتیب کے لحاظ سے اب اس کی پہلی اور دوسری اور تیسری رکعت باقی رہ گئی۔ اب وہ اپنی پہلی رکعت کو اس طرح پڑھے گا کہ پہلے اس میں سبحانک اللہم پھر سورۃ فاتحہ اور سورت پڑھ کر رکوع و جود کرے گا اور قعد میں بیٹھ کر التحيات پڑھے گا کیونکہ اس کو دو رکعت پوری ہو گئیں۔ امام کے ساتھ اور ایک اب علیحدہ۔ پھر دوسری رکعت میں فاتحہ اور سورت پڑھے باقی رہ گئی تیسری رکعت تو چونکہ فرض کی آخری رکعتوں میں صرف فاتحہ پڑھی جاتی ہے اس لیے اس میں صرف فاتحہ پڑھ کر تیسری رکعت پوری کریگا۔ اس ترتیب سے اس کی ساری رکعتیں پوری جائیں گی۔ اب بیٹھ کر التحيات درود شریف اور دعا پڑھ کر سلام پھیر دیگا۔

۵۔ مغرب کی دوسری رکعت میں ملنے کا طریقہ :




اوپر کے خانے ظاہر کر رہے ہیں کہ امام تین رکعت کی جماعت کر رہا ہے۔ نیچے کے خانے ظاہر کر رہے ہیں کہ مقتدی دوسری رکعت میں مل رہا ہے۔ اب مقتدی نے امام کے پیچھے دوسری اور تیسری رکعت تو پڑھ لی ہے۔ باقی اس کی پہلی رکعت رہ گئی وہ کھڑا ہو کر اسے اس طرح پڑھے گا کہ پہلے اس میں سبحانک اللہم۔ پھر فاتحہ پھر سورت پڑھے گا۔

ماہ رمضان میں وتر کی جماعت ہوتی ہے۔ اس میں ملنے کی طریقہ بھی بالکل مغرب کی نماز کی طرح ہے۔

۶۔ مغرب کی تیسری رکعت میں ملنے کا طریقہ :

امام تین رکعت کی نماز پڑھا رہا ہے نیچے کے خانے ظاہر کر رہے ہیں کہ مقتدی تیسری رکعت میں مل رہا ہے اب مقتدی کی تیسری رکعت تو امام کے پیچھے ادا ہو گئی پہلی اور دوسری


رکعت باقی رہ گئی اب پہلی رکعت کھڑا ہو کر اس طرح پڑھے گا کہ پہلے سبحانک اللہم پھر فاتحہ کے ساتھ سورت پڑھ کر رکوع اور سجدہ کرے گا۔ اب چونکہ اس کی دو رکعتیں پوری ہو گئی ہیں اس



لیے بیٹھ کر التحیات پڑھے گا پھر کھڑا ہو کر دوسری رکعت اس طرح ادا کریگا کہ پہلے اس میں سورت فاتحہ اور اس کے ساتھ سورت پڑھ کر رکوع و سجود کر کے رکعت پوری کریگا اور التحیات درود

شریف اور دعا پڑھ کر سلام پھیر دیگا اس طرح اس کو تین التحیات پڑھنے پڑتے ہیں ایک امام کے پیچھے اور دوا کیلئے اچھی طرح سمجھ لیں۔ (در مختار)

۷۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی دوسری رکعت میں ملنے کا طریقہ :



سامنے والے خانے ظاہر کر رہے ہیں کہ امام عید کی دو رکعت پڑھا رہا ہے نیچے کے خانے ظاہر کرتے ہیں کہ مقتدی دوسری رکعت میں مل رہا ہے۔ اب ترتیب کے لحاظ سے مقتدی کہ پہلی رکعت رہ گئی اب وہ اپنی پہلی

رکعت اس طرح ادا کرے گا کہ پہلے سبحانک اللہم پھر فاتحہ سورت پڑھ کر تین تکبیریں پڑھے گا۔ اور تکبیر کے وقت کانوں تک ہاتھ اٹھائے گا۔ پھر چوتھی تکبیر پڑھ کر رکوع اور رکعت پوری کرے سلام پھیر دے گا۔ (عائلیہ ج ۱ ص ۱۱۱) marfat.com

۲۲۔ احکام مسجد

مسجد مسلمانوں کی عبادت گاہ ہے اسے اللہ کے ہاں دوسرے مقامات کی نسبت برتری کا شرف حاصل ہے جو عام جگہوں کو حاصل نہیں کیونکہ مسجد کو اللہ کا گھر کہا جاتا ہے اور اس مناسبت سے اللہ کو مسجد عام جگہوں سے زیادہ پسند ہے شرعاً مسجد سے مراد وہ جگہ یا مکان ہے جو نماز باجماعت کے لیے مقرر کر دی جائے۔ اس لیے مسلمانوں کی معاشرتی زندگی میں مسجد کو مرکزیت اور شعائر اسلام کی حیثیت حاصل ہے۔

اے اللہ کے بندے! تجھے معلوم ہے کہ انسان کی زندگی کا اصل مقصد تو عبادت الہی ہے کہ کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا اور عبادت کی بہترین صورت نماز اور ذکر الہی ہے۔ نماز ہر بالغ مسلمان پر فرض ہے پھر ایسی عبادت ہے جو روز اول سے چلی آرہی ہے تو عبادت کی انجام دہی کے لیے جو اللہ کا گھر سب سے پہلے بنایا گیا وہ ہے خانہ کعبہ۔ اس کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ”یقیناً سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہی خانہ کعبہ ہے جو مکہ مکرمہ میں ہے وہ مبارک ہے اور تمام مسلمانوں کے لیے ذریعہ ہدایت ہے۔“ اس سے معلوم ہوا کہ خانہ خدا اللہ کی مقبول ترین مساجد اللہ کو محبوب ہیں تو ان کے فضائل اور ان میں آنے کے آداب جاننا بھی ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔

۱۔ فضائل مسجد

اسلام میں مساجد کو بہت زیادہ عظمت اور احترام حاصل ہے کیونکہ مساجد کو بیت اللہ یعنی اللہ کا گھر ہونے کی وجہ سے ایسی فضیلت اور برتری حاصل ہے جو دوسرے مقامات کو حاصل نہیں۔ مساجد کے فضائل بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے:

اللہ کی مسجدیں وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان لاتے اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تو قریب ہے کہ یہ لوگ ہدایت والوں میں ہیں۔ (پ: ۱۰: التوبہ: ۱۸)

(۱) إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنِ آمَنَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ
وَأَتَى الزَّكَاةَ وَكَانَ يَخْشَى اللَّهَ
فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ
الْمُهْتَدِينَ. (پ، توبہ: ۱۸)

(۲) لَبِئْسَ آدَمُ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ
كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا
تَسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

(پ۔ اعراف: ۳۱)

(۱) قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا
وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ
مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ
تَعْبُدُونَ (پ۔ اعراف: ۲۹)

اے آدم کی ماویا! اپنی زینت کو جب مسجد میں
جاؤ اور کھاؤ اور پیو! اور حد سے نہ بڑھو پیشک حد
سے بڑھنے والے اسے پسند نہیں۔

(پ ۸: اعراف ۳۱)

تم فرماؤ میرے رب نے انصاف کا حکم دیا ہے
اور اپنے منہ سیدھے کرو ہر نماز کے وقت اور اس
کی عبادت کرو، نرے اس کے بندے ہو کر جیسے
اس نے تمہارا آغاز کیا ویسے ہی پلٹو گے۔

(پ ۸: اعراف ۲۹)

ان آیات سے معلوم ہوا کہ مساجد کی تکریم و تعظیم کرنا اہل ایمان کی شیوہ ہے احادیث
میں مساجد کے بیشمار فضائل بیان ہوئے ہیں جو حسب ذیل ہیں:

۱۔ مساجد جنت کے باغ ہیں: نبی اکرم ﷺ نے مساجد کو جنت کے باغوں
سے کہا ہے کیونکہ جنت کے باغوں میں سکون و راحت، سکھ چھین ہوگا اور اس راحت کے سبب
انسان اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوگا تو ایسے ہی انسان اگر سچے دل سے مساجد میں جا کر نماز پڑھے تو وہ
سکون حاصل ہوتا ہے جو دولت میں نہیں۔

۲۔ مساجد بہترین جگہوں میں سے ایک: مساجد بہترین جگہ ہیں
کیونکہ غلاموں کے لیے بہترین جگہ وہی ہوتی ہے جسے مالک پسند کرے لہذا ہم اپنے مالک کے
غلام ہیں اور ہمیں بھی مساجد کو اتنا اچھا اور بہترین جاننا چاہیے جتنا کہ اللہ نے حکم دیا ہے۔ یاد رہے
کہ آقا کے نزدیک بہترین جگہ وہی تو ہے جہاں اس کا تذکرہ ہو۔ لہذا مساجد میں ہر وقت اللہ کا
نام لیا جاتا ہے اس لیے بہترین جگہوں میں سے ہیں۔

حضرت ابوامامہؓ سے روایت ہے کہ ایک یہودی عالم نے نبی کریم ﷺ سے سوال کیا
کہ کونسی جگہ بہتر ہے۔ حضورؐ جواب دینے سے چپ رہے اور اپنے دل میں کہا کہ میں چپ
رہوں گا۔ یہاں تک کہ جبرائیلؑ آئیں۔ آپ ﷺ چپ رہے اور جبرائیلؑ علیہ السلام
آئے۔ حضورؐ نے ان سے پوچھا انہوں نے کہا جس نے پوچھا گیا ہے اس کو پوچھنے والے سے

زیادہ علم نہیں میں اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے سوال کروں گا۔ پھر جبرائیل نے کہا اے محمد ﷺ! میں اللہ کے اس قدر نزدیک ہوا کہ آج تک کبھی اتنا نزدیک نہیں ہوا حضور نے کہا کیسے جبرائیل؟ کہا میرے اور اس کے درمیان ستر ہزار نور کے پردے تھے اللہ نے فرمایا ہے بدترین جگہیں بازار ہیں اور بہترین جگہیں مسجدیں ہیں۔ (ابن حبان عن ابن عمر)

۳۔ مساجد اللہ کو بہت محبوب ہیں: رسول اکرم ﷺ کا ارشاد ہے کہ مکانوں میں سب سے زیادہ اللہ کو محبوب مساجد ہیں۔ جیسا کہ بندوں میں جو شخص اللہ کو زیادہ یاد کرتا ہے وہ اس کا محبوب بندہ بن جاتا ہے ویسے ہی وہ جگہ جس جگہ پر اللہ کا بندہ بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتا ہے وہ جگہ بھی اللہ کے نزدیک محبوب بن جاتی ہے مساجد میں چونکہ لوگ اللہ کی عبادت اور ذکر کرتے ہیں اور اس لیے اللہ کو مساجد بہت محبوب ہیں۔

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مکانوں میں سے سب سے زیادہ محبوب اللہ کی طرف مسجدیں ہیں اور سب سے زیادہ بڑے مکانوں میں سے اللہ کے نزدیک بازار ہیں۔ (مسلم)

۴۔ مساجد سے لگائو کا اجر: مسجد سے لگاؤ اور دلچسپی رکھنا بھی اللہ کے ہاں ایک مقبول فعل ہے یعنی بندوں نے نماز بہر حال مسجد میں پڑھنی ہی ہے لیکن ان میں وہ شخص جو مسجد سے زیادہ محبت و الفت رکھتا ہو اس کا دل ہر وقت مسجد کے کاموں کی طرف ہو تو ایسا شخص اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے اور قیامت کے روز ایسے شخص کو اللہ کی خاص قربت حاصل ہوگی اور قربت اللہ کے سائے کی صورت میں حاصل ہوگی۔

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا سات شخص ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے سایہ میں رکھے گا اس دن اس کے سوا کسی کا سایہ نہ ہوگا:

۱۔ امام عدل کرنے والا۔

۲۔ جوان آدمی کہ اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں خرچ کرے۔

۳۔ وہ شخص کہ اس کا دل مسجد کے ساتھ لٹکا ہوا ہے جب اس سے نکل جاتا ہے یہاں تک کہ اس کی طرف پھر آوے۔

۴۔ دو شخص کہ محبت رکھتے ہیں اللہ کے لیے اس پر اکٹھے ہوں اور اس پر خد اہوتے ہوں۔

۵۔ ایک وہ آدمی جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے پس اس کی آنکھیں بہہ پڑتی ہیں۔

۶۔ ایک آدمی کہ اس کو ایک صاحب حسب و جمال عورت اپنی طرف بلائی ہے وہ کہتا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔

۷۔ ایک وہ آدمی جو اللہ کے لیے صدقہ کرتا ہے اس کو چھپاتا ہے یہاں تک کہ اس کا بایاں ہاتھ نہیں جانتا کہ دائیں نے کیا خرچ کیا ہے۔ (متفق علیہ)

۵۔ **دور سے مسجد میں آنے کا ثواب:** وہ لوگ جو دور سے چل کر مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے آتے ہیں ان کو نزدیک والوں سے زیادہ ثواب ملے گا کیونکہ یہ بھی احترام مسجد میں شامل ہے۔

حضرت ابو موسیٰ اشعرئیؓ سے روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا۔ لوگوں میں از روئے ثواب بڑا وہ شخص ہے جو ان کا دور کا ہے پس دور کا ہے از روئے چلنے کے اور جو شخص انتظار کرتا ہے نماز کا یہاں تک کہا امام کے ساتھ پڑھتا ہے اس کو زیادہ ثواب ہے بہ نسبت اس شخص کے جو نماز پڑھے اور سو رہے۔ (متفق علیہ)

۶۔ **مسجد میں جانے سے مہمانی جنت کا شرف حاصل ہونا :**

رسول اکرم ﷺ کا ارشاد ہے کہ جو شخص دن کے پہلے حصے میں یا پچھلے حصے میں خلوص دل کے ساتھ مسجد میں جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے مہمانی تیار کرتا ہے یعنی مسجد میں جانا گویا ضیافت خانے میں جانے ہے اور اللہ تعالیٰ وہاں آنے والوں کو اپنی عطا سے محروم نہیں کرتا کیونکہ یہ اللہ کریم کی شان کے خلاف ہے کہ اس کے گھر آنے والے محروم رہیں۔

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص اول روز یا آخر روز مسجد کی طرف گیا اللہ تعالیٰ اس کی مہمانی جنت میں تیار کرتا ہے جب بھی صبح صبح جاتا ہے یا پچھلے پہر۔ (متفق علیہ)

۷۔ **خدمت مسجد گواہی ایمان ہے:** مسجد کی دیکھ بھال کرنا اس کی خبر گیری کرنا اس کی مرمت کروانا نماز ادا کرنا اس میں ذکر الہی میں مصروف رہنا انسان کے صاحب ایمان ہونے کی دلیل ہے کیونکہ جس کے ایمان میں جتنی زیادہ استقامت ہوگی وہ ہر دو کام کرنے

کی کوشش کرے گا جس سے اللہ راضی ہو تو مساجد کی خدمت سے اللہ راضی ہوتا ہے اللہ ہر مسلمان کو مسجد کی خدمت کی توفیق دے۔

حضرت ابو سعید خدریؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب تم کسی آدمی کو دیکھو کہ وہ مسجد کی خبر گیری کرتا ہے اس کے ایمان کی گواہی دو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ”سوائے اس کے نہیں کہ اللہ کی مسجدوں کو وہی شخص آباد کرتا ہے جو اللہ اور آخرت کے دن کے ساتھ ایمان لایا۔“ (ترمذی ابن ماجہ داری)

۲۔ مسائل مسجد

مسجد کے آداب اور احکام کے متعلق مسائل مندرجہ ذیل ہیں:-

۱۔ **مسئلہ:** مردوں کے اپنے محلہ کی مسجد میں ایک فرض نماز پڑھنا گھر میں پچیس نمازیں پڑھنے کے برابر ہے اور جامع مسجد میں ایک کا ثواب پانچ سو نماز کے برابر ہے اور مسجد اقصیٰ (بیت المقدس) میں ایک نماز پچاس ہزار نماز کے برابر ہے اور مسجد نبوی شریف مدینہ منورہ میں بھی نماز پچاس ہزار نماز کے برابر ہے اور کعبہ شریف میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب ایک لاکھ نماز کے برابر ہے عورتوں کو مسجد کے بجائے گھر میں نماز پڑھنے کا زیادہ ثواب ہے۔

۲۔ **مسئلہ:** جب مسجد میں داخل ہوں تو درود شریف پڑھ کر **اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي**
أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ پڑھے اور جب مسجد سے نکلے تو درود شریف کے بعد **اللَّهُمَّ**
إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ پڑھے۔

۳۔ **مسئلہ:** مسجد کی چھت کا بھی مسجد ہی کی طرح ادب و احترام لازم ہے بلا ضرورت مسجد کی چھت پر چڑھنا مکروہ ہے۔

۴۔ **مسئلہ:** بچے کو اور پاگل کو جن سے گندگی کا گمان ہو مسجد میں لے جانا حرام ہے اور اگر نجاست کو ذر نہ ہو تو مکروہ ہے۔

۵۔ **مسئلہ:** مسجد کا کوزا حجاز کرایسی جگہ ڈالے جہاں بے ادبی نہ ہو۔

۶۔ **مسئلہ:** ناپاک کپڑا پہن کر یا کوئی بھی ناپاک چیز لے کر مسجد میں جانا منع ہے یونہی ناپاک تیل مسجد میں جلانا ناپاک گار مسجد میں لگانا منع ہے۔

۷۔ مسئلہ: وضو کے بعد بدن کا پانی مسجد میں جھاڑنا یا مسجد میں تھوکنے یا ناک صاف کرنا ناجائز ہے۔

۸۔ مسئلہ: مسجد میں ان آداب کا خیال رکھے:

(۱) جب مسجد میں داخل ہو تو سلام کرے بشرطیکہ جو لوگ وہاں موجود ہوں ذکر و درس میں مشغول نہ ہوں اور اگر وہاں کوئی نہ ہو یا جو لوگ وہاں ہوں وہ ذکر و درس میں مشغول ہوں

تویوں کہیے السلام علینا و علی عباد اللہ الصالحین

(۲) وقت مکروہ نہ ہو تو دو رکعت تحسینۃ المسجد ادا کرے۔

(۳) خرید و فروخت نہ کرے۔

(۴) تنگی تلوار مسجد میں نہ لے جائے۔

(۵) گمی ہوئی چیز مسجد میں نہ ڈھونڈے۔

(۶) ذکر کے سوا آواز بلند نہ کرے۔

(۷) دنیا کی باتیں نہ کرے۔

(۸) لوگوں کی گردنیں نہ پھلانگے۔

(۹) جگہ کے متعلق کسی سے جھگڑانہ کرے۔ بلکہ جہاں جگہ خالی پائے وہاں نماز پڑھ لے اور اس طرح نہ بیٹھے کہ دوسروں کے لیے جگہ میں تنگی ہو۔

(۱۰) کسی نمازی کے آگے سے نہ گزرے۔

(۱۱) مسجد میں تھوک، کھنکار یا کوئی گندی یا گھناؤنی چیز نہ ڈالے۔

(۱۲) انگلیاں نہ چٹکائے۔

(۱۳) نجاست بچوں اور پاگلوں سے مسجد کو بچائے۔

(۱۴) ذکر الہی کی کثرت کرے۔ (کتب فقہ)

۹۔ مسئلہ: کچا لہن پیاز یا مولیٰ کھا کر جب تک منہ میں بدبو باقی رہے مسجد میں جانا جائز نہیں۔ یہی حکم ہر اس چیز کا ہے جس میں بدبو ہے کہ اس سے مسجد کو بچانا جائے اور اس کو بغیر دور کیے ہوئے مسجد نہ جایا جائے۔

۱۰۔ مسئلہ: مسجد کی صفائی کے لیے چمادنیوں اور کپڑوں اور چڑیوں کے گھونسلوں کو نو

چنے میں کوئی حرج نہیں۔

۱۱۔ مسئلہ: اپنے محلہ کی مسجد میں نماز پڑھنا جامع مسجد میں نماز پڑھنے سے افضل و بہتر ہے اگرچہ اپنے محلہ کی مسجد میں جماعت نہ ہوتی ہو یا جماعت تھوڑی ہوتی ہو۔ جب دو تین مسجدیں برابر ہوں تو اس مسجد نماز پڑھیں جس کا امام زیادہ علم تقویٰ والا ہو اگر اس میں برابر ہوں تو جو زیادہ قدیم ہو یا قریب ہو۔ ہاں اپنے محلہ کی مسجد کے امام میں اگر کوئی شرعی عیب ہے یا بد عقیدہ ہو جس کی وجہ سے اس کے پیچھے نماز منع ہو تو محلہ کی مسجد چھوڑ کر دوسری مسجد میں جانا چاہئے۔

۱۲۔ مسئلہ: فرض نمازوں کے علاوہ باقی نقلی نمازیں گھر میں پڑھنا سنت اور افضل ہے مسجد کے علاوہ ہر پاک و صاف جگہ نماز پڑھنا جائز ہے ایسی چیز کے سامنے جو دل کو اپنی طرف مشغول رکھے نماز پڑھنا مکروہ ہے مثلاً زیب و زینت لہو و غیرہ اور عام رستے کوڑا ڈالنے کی جگہ مذبح، قبرستان، غسل خانہ، حمام، نالا، مویشی خانہ، خصوصاً اونٹ باندھنے کی جگہ، اصطبل، پاخانہ کی چھت اور کھلے میدان میں بلاسترہ کے جبکہ آگے سے گزرنے کا اندیشہ ہو ان تمام جگہوں میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔

۲۳۔ جمعہ

جمعہ کے دن نماز جمعہ فرض عین ہے۔ قیام نماز میں سے خاص اہمیت حاصل ہے اس کی فرضیت کا منکر دائرہ اسلام سے خارج ہے نماز جمعہ دراصل نماز ظہر کے قائم مقام ہے جو شخص بغیر کسی شرعی عذر کے، شخص سستی اور لا پرواہی کی بنا پر جمعہ قائم نہ کرے وہ گنہگار ہے کیونکہ قرآن مجید میں جمعہ پڑھنے کے بارے میں سختی سے تاکید کی گئی ہے کہ:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَوَرَّجْتُمْ لِلصَّلَاةِ
مِنَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ
اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ
إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ○

اے ایمان والو! جب جمعہ کے دن اذان دی جائے (تم کو پکارا جائے) تو نماز کی طرف جلد چلو اور خرید و فروخت کو ترک کر دو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو (منافقون: ۹)

یعنی اے ایمان والو! اے وہ لوگو جنہوں نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا اور اس کے واحد و یکتا ہونے کی تصدیق کی جب جمعہ کے دن اذان کے ذریعہ تم کو نماز کے لیے بلا جائے تو نماز کے لیے

جلد چلو اور اذان کے بعد خرید و فروخت بند کر دو۔ اگر تم سچ جانتے ہو تو کمائی اور تجارت سے نماز تمہارے لیے بہتر ہے۔

فضائل نماز جمعہ

نماز جمعہ کی فضیلت بہت زیادہ ہے بلکہ مومنین کے لیے خاص تحفہ ہے نماز جمعہ سے نمازی کو بہت سے دینی اور دنیاوی فوائد حاصل ہوتے ہیں جنہیں فضائل جمعہ کہا جاتا ہے اور ان فضائل سے انسان میں وہ خواص پیدا ہوتے ہیں جن کا شہریت مطہرہ تقاضائی کرتی ہے احادیث کی رو سے جمعہ کے حسب ذیل فضائل ہیں:-

۱۔ گناہوں کی بخشش: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے وہ رسول اللہ ﷺ سے روایت کرتے ہیں آپ ﷺ نے فرمایا جو غسل کرے پھر جمعہ کو آئے پھر جو مقدر میں ہو نماز پڑھے پھر خاموش بیٹھے حتیٰ کہ امام خطبہ سے فارغ ہو جائے پھر اس کے ساتھ پڑھے تو اس جمعہ اور دوسرے جمعہ کے درمیان اور تین دن زیادہ کے اس کے گناہ بخشش دیے جائیں گے (صحیح مسلم)

۲۔ عذاب قبر سے حفاظت: حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مسلمان نہیں جو جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات کو فوت ہوتا ہے مگر اللہ اسے فتنہ سے بچا لیتا ہے۔ (ترمذی شریف)

۳۔ جمعہ کے دن کی فضیلت: حضرت سعد بن معاذؓ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ سب سے بڑا اور عظمت والا ہے بلکہ جمعہ اللہ کے نزدیک عید الضحیٰ اور عید الفطر سے بھی بڑا ہے اس میں پانچ نصیحتیں ہیں اللہ نے اس میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اسی دن انھیں زمین پر اتارا اور اسی دن ان کو وفات دی۔ اسی میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ بندہ اس وقت سوا حرام کے جس چیز کا سوال کرے اللہ وہ دے گا اور اسی میں قیامت قائم ہوگی۔ کوئی مقرب فرشتہ آسمان وزمین ہوا پہاڑ اور دریا ایسا نہیں کہ جمعہ کے دن سے ڈرتا نہ ہو۔ (قیامت قائم ہونے سے) (ماجد)

۴۔ جمعہ کو جمعہ کہنے کے وجہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا گیا کہ کس وجہ سے اس کا نام جمعہ رکھا گیا؟ فرمایا اس لیے

میں تمہارے والد حضرت آدم کی مٹی جمع کی گئی اس میں بہوشی اور اٹھنا ہے۔ اسی میں پکڑے اور اسی کی آخری تین گھڑیوں میں ایسی گھڑی ہے کہ جو اس میں اللہ سے دعا مانگے اس کی دعا قبول ہو۔ (احمد)

۵۔ نماز جمعہ کا انعام: حضرت ابو سعیدؓ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص ایک دن میں پانچ امور سرانجام دے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں داخل ہونا لکھ لیتا ہے ان پانچ چیزوں میں پہلی چیز مریض کی عیادت ہے دوسری جنازے میں حاضری تیسری روزہ رکھنا چوتھی نماز جمعہ کا پابندی سے پڑھنا اور پانچویں غلام آزاد کرنا ہے۔ (بہار شریعت)

۶۔ جمعہ فوقت کا دن ہے: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا (زمانہ اور پیدائش کے لحاظ سے) ہم سب سے پیچھے ہیں مگر قیامت کے روز سب سے آگے ہوں ماسوائے اس کے انھیں ہم سے پہلے کتاب دی گئی اور ہمیں ان کے بعد دی گئی۔ لوگ اس میں ہمارے تابع ہیں پھر یہ یعنی جمعہ کا دن ان کا دن بھی تھا ان پر فرض کیا گیا تھا وہ اس میں اختلاف کر بیٹھے۔ ہمیں اللہ نے اس کی ہدایت دیدی اس میں لوگ ہمارے تابع ہیں یہودی کل میں اور عیسائی پرسوں میں۔ (صحیح بخاری)

۷۔ بابرکت ساعت: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا ہے کہ جمعہ کے روز ایک ایسی ساعت ہے کہ مسلمان اسے پالے اور اس وقت اللہ سے جو مانگے سو پائے گا (بخاری شریف) ایک اور روایت میں ہے کہ جمعہ کے دن قبولیت والی گھڑی کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ اس کا وقت بہت تھوڑا ہے اور یہ امام کے خطبہ کے لیے ممبر پر بیٹھنے سے نماز ختم ہونے تک ہے۔ (مسلم)

نیز ارشاد فرمایا جمعہ کے روز قبولیت والی جس ساعت کی تمنا کی جاتی ہے اسے نماز عصر کے بعد سے غروب آفتاب تک تلاش کرو۔ (ترمذی)

سنن ابن مسعودؓ سے روایت ہے بیشک نبی اکرم ﷺ نے ان لوگوں کے متعلق فرمایا جو نماز جمعہ سے پیچھے رہ جاتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کسی شخص کو حکم دوں وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ پھر میں لوگوں کو جو جمعہ سے پیچھے رہ جاتے ہیں ان کے گھروں میں آگ لگا دوں۔ (مسلم)

حضرت ابوالجعد ضمیرؓ سے روایت ہے کہ رسول ﷺ نے فرمایا جو شخص تین جمعے سستی سے چھوڑ دے اللہ اس کے دل پر مہر لگا دے گا۔ (ابوداؤد۔ ترمذی نسائی)

حضرت سمرہ بن جندبؓ سے روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا جس نے جمعہ بغیر عذر کے ترک کیا۔ چاہئے کہ وہ ایک دینار صدقہ کرے اگر دینار نہ ملے تو نصف دینار صدقہ کرے۔ (احمد ابوداؤد۔ ابن ماجہ)

۲۔ مسائل نماز جمعہ

نماز جمعہ فرض عین ہے کیونکہ اس کی فرضیت نص قطعی سے ثابت ہے جمعہ کی فرضیت ظہر سے زیادہ تاکید اور اہمیت رکھتی ہے اس کا تارک سخت گنہگار اور منکر کافر ہے اس کے مسائل مندرجہ ذیل ہیں:-

۱۔ **مسئلہ جمعہ جن پر فرض ہے:** نماز ہر مسلمان آزاد مرد عاقل و بالغ شہر میں مقیم تندرست اور غیر معذور فرض ہے ان افراد میں سے جو کوئی شرعی عذر کے بغیر جمعہ ترک کرے گا تو وہ آخرت میں سزا کا مستحق ہوگا۔

۲۔ **مسئلہ جمعہ جن پر فرض نہیں:** عورت، غلام، قیدی، نابالغ، مسافر اور بیمار پر جمعہ فرض نہیں ہاں اگر مسافر مریض عورتیں نماز جمعہ میں شریک ہو جائیں تو ان کی نماز درست ہوگی اور ظہران کے ذمے ساقط ہو جائے گی اور ان کے لیے ظہر کی بجائے جمعہ پڑھنا افضل ہے۔

۳۔ **مسئلہ شرائط ادائیگی جمعہ:** جمعہ کی ادائیگی کے لیے چھ شرائط کا ہونا لازم ہے اگر ان میں سے ایک شرط بھی نہ ہو تو جمعہ قائم نہ ہوگا۔

(۱)۔ شہر یا شہر جیسا گاؤں۔

(۲)۔ وقت ظہر

(۳)۔ خطبہ

(۴)۔ جماعت

(۵)۔ اذان عام

(۶)۔ حاکم اسلام یا اس کے نائب کی اجازت سے جمعہ قائم ہوگا۔

۴۔ مسئلہ شہر میں متعدد جگہ پر جمعہ: شہر میں متعدد جگہ پر جمعہ ایک شہر میں اگرچہ متعدد جگہ جمعہ ہو سکتا ہے مگر گلی گلی ہر محلہ و مسجد میں جمعہ قائم کرنا مناسب نہیں کیونکہ جمعہ شعار اسلام اور جامع جماعت۔ اور اسلامی شان و شوکت کا مظہر ہے۔ اور یہ تقاضے بہت بڑے اجتماع سے ہی پورے ہوتے ہیں۔ بلکہ ہر محلہ اور ہر مسجد میں جمعہ قائم کرنے سے اس عظیم اسلامی شعار کی توہین ہوتی ہے لہذا نماز جمعہ کو اور نمازوں کی طرح ہرگز نہیں سمجھنا چاہیے۔ اسی لئے فقہاء نے فرمایا ہے کہ شہر کی جن مسجدوں میں جمعہ نہیں ہوتا انھیں جمعہ کے دن ظہر کے وقت بند رکھنا چاہیے۔ (در مختار)

۵۔ مسئلہ جہاں جمعہ نہیں وہاں نماز ظہر پڑھنا: جن پر جمعہ فرض ہے ان کا شہر میں نماز جمعہ ادا ہونے سے پہلے ظہر پڑھنا مکروہ تحریمی ہے اور جن پر جمعہ فرض نہیں جیسے بیمار، مسافر، قیدی اور معذور وغیرہ ہم ان کو بھی شہر میں نماز جمعہ ادا ہونے کے بعد ظہر پڑھنا چاہیے پہلے پڑھنا مکروہ تنزیہی ہے نیز معذور کا شہر کے اندر ظہر کی نماز باجماعت ادا کرنا ممنوع ہے بلکہ جن پر جمعہ فرض نہیں وہ شہر کے اندر ظہر کی نماز باجماعت ادا کرنا ممنوع ہے بلکہ جن پر جمعہ فرض نہیں وہ شہر میں جمعہ کے دن ظہر بلا اذان و اقامت بلا جماعت علیحدہ علیحدہ پڑھیں۔ ہاں گاؤں میں جمعہ کے دن ظہر کی نماز اذان و اقامت کے ساتھ باجماعت پڑھنا جائز ہے۔

۶۔ مسئلہ آداب جمعہ: شہر میں نماز کی پہلی اذان ہوتے ہی جامع مسجد کی طرف (سعی کرنا) چلنا واجب ہو جاتا ہے خرید و فروخت اور سعی کے منافی ہر کام چھوڑ دینا ہے۔ نماز جمعہ کے لیے پہلے آنا، غسل و مسواک کرنا اچھے اور سفید کپڑے پہننا، تیل اور خوشبو لگانا اور پہلی صف میں بیٹھنا سنت ہے جب امام خطبہ کے لیے کھڑا ہو اس وقت سے ختم نماز تک ذکر و اذکار اور نفل و سنت نماز اور ہر قسم کی کلام منع ہے۔ ہاں صاحب ترتیب اپنی قضا نماز پڑھ سکتا ہے اور جو شخص پہلے سے نفل و سنت پڑھ رہا ہو وہ جلدی نماز پوری کر لے۔

۷۔ مسئلہ خطبہ کے آداب: جب خطبہ پڑھا جائے تو تمام حاضرین پر خاموشی سے خطبہ سننا فرض ہے جو لوگ خطبہ کی آواز نہ سن سکیں ان پر بھی دوران خطبہ بالکل چپ رہنا فرض ہے الغرض جو چیز نماز میں حرام ہیں وہ سب خطبہ کی حالت میں بھی حرام ہیں۔ یہاں تک کہ خطیب کے سوا امر بالمعروف کرنا بھی ممنوع ہے۔ ہاں اگر کسی کو بڑی بات کرتے دیکھیں تو

صرف ہاتھ یا سر کے اشارہ سے منع کر سکتے ہیں زبان سے ناجائز ہے لیکن اگر کوئی اندھا کنوئیں میں گرا چاہتا ہے یا کسی کو سانپ یا بچھو وغیرہ کا ثنا چاہتا ہو تو زبان سے آگاہ کرنا جائز ہے خطبہ میں مسلمانوں کے لیے دعا پڑھی جائے تو اس پر سامعین کا ہاتھ اٹھانا اور آمین کہنا گناہ ہے نبی اکرمؐ کا نام اقدس جب خطیب لے تو صرف دل میں درود پڑھنا جائز ہے زبان سے نہیں اسی طرح صحابہ کے ذکر پر اس وقت زبان سے رضی اللہ عنہم کہنے کی اجازت نہیں۔

خطبہ جمعہ کے لیے جب منبر پر بیٹھے تو اس کے سامنے دوسری اذان دی جائے اذان کے بعد خطیب منبر پر سامعین کے طرف منہ اور قبلہ کو پشت کر کے کھڑا ہو کر اول آہستہ پڑھے۔ پھر بلند آواز سے حمد و ثناء پڑھ کر **اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ** شہادتیں پڑھے پھر درود شریف پھر کلمات وعظ اور قرآن پاک کی دو تین آیات پڑھ کر خطبہ اول ختم کرے۔ پھر بقدر تین آیات پڑھنے کے بیٹھے۔ اس کے بعد دوسرا خطبہ مسنونہ سے شروع کرے اور درود شریف کا اعادہ کرے خلفائے راشدین او عمین مکرین کا ذکر کیا جائے۔ اسلام کی سر بلندی اور تمام مسلمانوں کے لیے دعائیہ کلمات پر خطبہ ثانی ختم کیا جائے۔ پھر فوراً اقامت کہی جائے اور جمعہ کے دو رکعت فرض پڑھے جائیں۔ نماز جمعہ کی تعداد رکعات یہ ہے۔

اول چار رکعت سنت موکدہ پھر باجماعت دو رکعت فرض پھر چار رکعت سنت موکدہ پھر دو رکعت سنت آخر میں دو رکعت غل۔ کل چودہ رکعت۔

۲۲۔ قضا نمازوں کا بیان

جس کام کا بندوں کو حکم ہے اس کو اپنے صحیح وقت میں بجالانے کو "ادا" اور وقت کے بعد عمل میں لانے کو "قضا" اور اگر اس حکم کے بجالانے میں کوئی نقص پیدا ہو جائے تو وہ نقص دور کرنے کے لیے اس حکم کو دوبارہ بجالانے کو "اعادہ" کہتے ہیں اگر کوئی نماز قضا ہو جائے تو اسے بعد میں ادا کرنے کے بارے میں حضور ﷺ کی احادیث مندرجہ ذیل ہیں:-

۱۔ حدیث: غزوہ خندق میں نبی اکرم ﷺ کی چار نمازیں مشرکین کی وجہ سے قضا ہو گئیں۔ حتی کہ رات کا ایک حصہ گزر گیا تو آپ نے حضرت بلالؓ کو حکم فرمایا۔ انہوں نے اذان و اقامت کہی تو اول حضور نے ظہر پڑھی پھر اقامت کہی تو عصر پڑھی پھر اقامت کہی مغرب پڑھ کر فارغ ہوئے تو پوچھا کسی کو معلوم ہے کہ میں نے عصر پڑھی ہے؟ لوگوں نے

عرض کی نہیں پھر موذن کو حکم دیا اس نے اقامت پڑھی تو اول آپ نے نماز عصر پڑھی۔ پھر مغرب کی نماز دوبارہ پڑھی۔ (مسند امام احمد)

۲۔ **حدیث:** حضرت ابی قتادہؓ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا سوتے ہیں (اگر قضا ہو جائے) تو اس میں کوئی گناہ اور قصور نہیں۔ گناہ تو بیداری میں نماز قضا کرنے میں ہے سو جب کوئی تم میں سے نماز پڑھنا بھول جائے یا سو جائے تو جب اسے یاد آئے یا جاگے پڑھ لے کہ وہی اس کا وقت ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔
”میری یاد کے لیے نماز قائم کر۔“

۳۔ **حدیث:** حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ جو شخص کسی نماز کو پڑھنا بھول جائے اور یاد اس وقت آئے کہ امام کے ساتھ (دوسری) نماز پڑھ رہا ہو تو وہ پوری کر لے پھر بھولی ہوئی یعنی قضا نماز پڑھے پھر وہ نماز دوبارہ پڑھے جو امام کے ساتھ پڑھی ہے۔ (طبرانی)

۱۔ شرعی مسائل: قضا نماز پڑھنے کے متعلق شرعی مسائل حسب ذیل ہیں:

۱۔ **مسئلہ:** شرعی عذر کے بغیر نماز قضا کر دینا بہت سخت گناہ ہے ایسے شخص پر فرض ہے کہ اس کی قضا پڑھے اور آئندہ سچے دل سے توبہ کرے تاکہ اللہ تعالیٰ نماز قضا کرنے کے اس گناہ کو معاف کر دے۔

۲۔ **مسئلہ:** دشمن کا ڈر، مسافر کو چور اور ڈاکوؤں کا صحیح اندیشہ اور جنائی کو بچہ کے مرجانے کا اندیشہ نماز قضا کرنے کا شرعی عذر ہیں۔ اسکی طرح نیند یا بھول سے نماز چھوٹ جانے میں گناہ نہیں۔

۳۔ **مسئلہ:** جو نمازیں وقت کے اندر واجب ہو کر قضا ہو گئی ہوں خواہ جان کر یا بھول کر یا نیند سے ان سب کی قضا واجب ہے سوائے مکروہ وقت کے جب چاہے پڑھے مگر جلدی پڑھے بلا عذر تاخیر گناہ ہے جنون یعنی پاگل پن سخت بیماری جس میں اشارہ سے بھی نہ پڑھی جاسکے اور بے ہوشی۔ ان سب میں اگر چھ یا چھ سے زیادہ نمازیں چھوٹ جائیں ان کی قضا واجب نہیں۔ نیز عورتوں کو حیض و نفاس کے دنوں کے نمازوں کی قضا بھی واجب نہیں بلکہ یہ نمازیں معاف ہیں اسی طرح ایک شخص (معاذ اللہ) اگر مرتد ہو جائے اور پھر اسلام قبول کرے تو زمانہ ارتداد کی نمازوں کی قضا اس پر فرض نہیں۔

۴۔ مسئلہ: فرض نماز کی قضا فرض ہے اور واجب کی قضا واجب ہے اور سنت کی قضا سنت ہے یعنی فجر کی نماز چھوٹ جائے تو فرضوں کے ساتھ سنتوں کی قضا بھی سنت ہے اس طرح ظہر کی پہلی چار سنتوں کی قضا اسی ظہر کے وقت میں سنت ہے۔

۵۔ مسئلہ: جو نماز جسی فوت ہوگئی ہو ایسی کی قضا بھی ویسی ہی پڑھی جائے گئی مثلاً سفر کے دو گانہ قضا گھر پر اور اقامت کی حالت میں دو رکعت ہی پڑھی جائے گی۔ اس طرح حالت اقامت کی نماز پوری چار رکعت ہی پڑھی جائیں گی۔ اگرچہ سفر میں ان کی قضا پڑھے۔

۶۔ مسئلہ: پانچ یا اس سے کم فرض نمازیں برابر قضا ہو جائیں تو ان کو ترتیب سے ادا کرنا واجب ہے یعنی پہلے فوت شدہ پڑھے پھر وقتی نماز پڑھے مثلاً فجر کی نماز چھوٹ گئی تو ظہر کی نماز سے پہلے فجر کی قضا پڑھے۔ اگر فجر کی قضا یاد ہو تو ظہر پڑھ لی تو ظہر نہ ہوگی۔ بلکہ یہ نفل ہو جائے گی اس لیے پہلے قضا پڑھ کر ظہر دوبارہ پڑھی جائے۔ اس طرح باقی قضا نمازیں پڑھی جائیں یعنی پہلے ظہر پھر عصر پہلے عصر پھر مغرب پہلے مغرب پھر عشاء اور وتر اور پہلے عشاء و وتر پھر فجر کی نماز ادا کی جائے ہاں اگر بھول کر یا وقتی نماز کا وقت تنگ ہونے کے خوف سے ترتیب سے قضا نہ پڑھی گئی تو جائز ہے یعنی ترتیب ساقط ہو جائے گی اسی طرح اگر پانچ فرض نمازوں سے زیادہ نمازیں قضا ہو گئیں تو اب ترتیب واجب و ضروری نہیں۔

۷۔ مسئلہ: اگر قضا نماز یاد نہ رہی اور وقتی نماز شروع کرنے کے بعد قضا یاد آئی تو اب یہ وقتی نماز جاتی رہی لہذا اس نماز کو دو یا چار رکعت پر ختم کر کے پہلے قضا اور پھر وقتی نماز پڑھی جائے۔ اگر کسی کی نماز قضا ہوگئی اور یہ یاد نہیں رہا کہ کونسی نماز تھی تو وہ ایک دن کی ساری نمازیں پڑھے گا اسی طرح اگر دو نمازیں دو دن میں قضا ہوئیں تو دونوں دنوں کی سب نمازیں پڑھے۔ یوں ہی جتنی دنوں کی قضا ہو جائیں اتنے دنوں کی تمام نمازیں پڑھی جائیں۔

۸۔ مسئلہ: اگر کسی نے مرتے وقت اپنی قضا نمازوں کا فدیہ دینے کی وصیت کی تو وارث میت کے ترکہ مال کے تہائی حصہ سے ہر فرض و وتر کے بدلے نصب صاع گندم یا صاع جو یعنی فطرانہ کی مقدار صدقہ میں دیں۔ اگر میت کا ترکہ نہ ہو اور وصیت بھی نہ کی ہو تو پھر بھی اس کے قریبی وارث اپنی طرف سے بطور احسان اس کی قضا نمازوں کا فدیہ ادا کریں تاکہ میت خدایا آخرت سے نجات پائے اس طرح میت کے قضا نمازوں کا کفارہ و فدیہ بھی ہر روزہ

کے بدلے فطرانہ کے مقدار میں صدقہ مساکین کو دیں۔

۲۵۔ نماز و وتر

عشاء کی نماز کے بعد تین رکعت نماز وتر ہے اسے وتر اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد تین رکعتیں طاق ہیں نماز وتر واجب ہے لیکن اس کے پڑھنے کی تاکید فرضوں جیسی ہے کہ اگر کسی سے وتر رہ جائے تو ان کی قضا واجب ہے۔

نماز وتر کے متعلق احادیث مندرجہ ذیل ہیں:

۱۔ حدیث: حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جسے اندیشہ ہو کہ پچھلی رات نہ اٹھے گا وہ اول رات میں پڑھے اور جسے امید ہو کہ رات کے پچھلے پہر کو اٹھے گا پچھلی رات میں پڑھے کہ آخر شب کی نماز مشہور ہے (یعنی اس میں ملائکہ رحمت حاضر ہو رہے ہیں اور یہ افضل ہے)۔ (ترمذی)

۲۔ حدیث: حضرت عبداللہ عباسؓ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ ﷺ کے یہاں سویا تھا حضور بیدار ہوئے مسواک کی اور وضو کیا اور اسی حالت میں آیہ ان فی خلق السموات والارض ختم سورت تک پڑھی پھر کھڑے ہو کر دو رکعتیں پڑھیں جن میں قیام و رکوع و سجود طویل کیا پھر پڑھ کر آرام فرمایا یہاں تک کہ سانس کی آواز آئی یونہی تین بار میں چھ رکعتیں پڑھیں۔ ہر بار مسواک و وضو کرتے اور ان آیتوں کو تلاوت فرماتے پھر وتر کی تین رکعتیں پڑھیں۔ (مسلم شریف)

۳۔ حدیث: حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ رات کی نماز اور کے آخر میں وتر پڑھنے کا حکم فرماتے کہ صبح سے پندرہ وتر پڑھو۔

۴۔ حدیث: حضرت زید بن اسلمؓ سے مرسل روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا کہ جو وتر پڑھنے سے پہلے سو جائے وہ رات کے پچھلے پہر پڑھے۔ (ترمذی شریف)

۵۔ حدیث: حضرت خارجہ بن خدافہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نماز سے تمہاری مدد فرمائی جو کہ سرخ اونٹوں سے بہتر ہے اور وہ نماز وتر ہے اللہ تعالیٰ نے اسے عشاء اور طلوع فجر کی درمیان میں رکھا ہے۔ (ترمذی شریف)

۶۔ حدیث: حضرت علیؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ وتر ہے۔ وتر کو محبوب رکھتا ہے لہذا اے قرآن والو! وتر پڑھو۔ (ابوداؤد)

۷۔ حدیث: حضرت عائشہ صدیقہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ وتر کی پہلی رکعت میں سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى اور دوسری میں قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ اور تیسری میں قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ پڑھتے۔ (ترمذی)

۸۔ حدیث: حضرت بریدہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا وتر حق ہے جو وتر نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں۔ (ابوداؤد)

شرعی مسائل: نماز وتر واجب ہے اور یہ تین رکعت ہے اور پہلا قعدہ واجب ہے وتر کی تینوں رکعتوں میں قرأت فرض ہے اور سورت فاتحہ کے بعد سورت ملانا واجب ہے تیسری رکعت میں قرأت سے فارغ ہونے کے بعد رکوع سے پہلے کانوں تک ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہیں۔ پھر ناف کے نیچے ہاتھ باندھ کر دعائے قنوت پڑھیں و تروں میں دعائے قنوت کا پڑھنا واجب ہے مشہور دعائے قنوت یہ ہے۔

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ وَنَسْتَعْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ
عَلَيْكَ وَنُشْفِيْ عَالِيكَ الْخَيْرَ وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ وَنَعْلَمُ
كَتْرُكَ مِنْ يَفْجُرُكَ ۝ اللَّهُمَّ إِنَّا نَعْبُدُكَ وَنُحَدِّثُكَ
وَأُحْيِيكَ نَسْأَلُكَ نَحْفِظُكَ وَنَرْجُو أَرْحَمَتَكَ وَنَخْشَى عَذَابَكَ إِنْ
عَذَابَكَ بِالْكَفَّارِ مُلْحِقٌ ۝

امام ہو یا منفرد یا مقتدی وتر ادا پڑھے یا قضا رمضان ہو یا اور دنوں میں سے دعائے قنوت آہستہ پڑھیں۔ جو دعائے قنوت نہ پڑھ سکے وہ دعا پڑھے۔
رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ
وتر کے سوا اور کسی نماز میں قنوت نہ پڑھے۔

۱۔ مسئلہ: وتر کی نماز قضا ہوئی تو کفار میں سے کسی کو پڑھنا واجب ہے اگرچہ کتنا ہی زمانہ ہو

گیا ہو۔ ہاں اگر لوگوں کے سامنے پڑھتا ہوں تو تکبیر قنوت کے لیے ہاتھ نہ اٹھائے کیونکہ اس طرح اس کے گناہ پر مطلع ہوں گے۔

۲۔ **مسئلہ:** اگر دعائے قنوت پڑھنا بھول گیا اور رکوع میں چلا گیا تو نہ قیام کی طرف لوٹے اور نہ رکوع میں پڑھے اور اگر قیام کی طرف لوٹ آیا اور قنوت پڑھی اور رکوع نہ کیا تو نماز تو جائے گی مگر ساتھ گنہگار بھی ہوگا۔ ہاں اگر الحمد یا سورت بھول گیا تو لوٹے اور الحمد و سورت قنوت پڑھ کر رکوع کرے اور آخر میں سجدہ سہو کرے۔ اگر بھول کر پہلی یا دوسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھ لی تو تیسری رکعت میں بھی پڑھے۔

۳۔ **مسئلہ:** قنوت وتر میں مقتدی امام کی متابعت کرے اگر مقتدی قنوت سے فارغ نہ ہو کہ امام رکوع میں چلا گیا۔ تو مقتدی بھی امام کا ساتھ دیا اور اگر امام نے بے قنوت پڑھے رکوع کر دیا اور مقتدی نے ابھی نہ پڑھا تو مقتدی کو اگر رکوع فوت ہونے کا اندیشہ ہو جب رکوع کر دے ورنہ قنوت پڑھ کر رکوع میں جائے اور اس خاص دعا کی حاجت نہیں جو دعائے قنوت کے نام سے مشہور ہے بلکہ مطلقاً کوئی دعا جسے قنوت کہہ سکیں پڑھ لے۔

۴۔ **مسئلہ:** اگر شک ہو کہ یہ رکعت پہلی ہے یا دوسری یا تیسری تو اس میں بھی قنوت پڑھے اور قعدہ کرے پھر اور دو رکعتیں پڑھے اور ہر رکعت میں قنوت بھی پڑھے اور قعدہ کرے۔ یونہی دوسری اور تیسری رکعت ہونے میں شک ہونے واقع ہو تو دونوں میں قنوت پڑھے۔

۵۔ **مسئلہ:** بھول کر پہلی یا دوسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھ لی تو تیسری میں پڑھے یہی راجح ہے۔

۶۔ **مسئلہ:** مسبوق امام کے ساتھ پڑھے۔ بعد کونہ پڑھے اور اگر امام کے ساتھ تیسری رکعت کے رکوع میں ملا ہے تو بعد کو پڑھے گا اس میں قنوت نہ پڑھے۔

۷۔ **مسئلہ:** رمضان شریف کے علاوہ اور دنوں میں وتر جماعت سے نہ پڑھیں۔

۲۶۔ نماز سفر

سفر کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نماز میں کچھ سہولت دی ہے جسے نماز مسافر نماز قصر کہا جاتا ہے اس کے متعلق حکم خداوندی ہے کہ:-

marfat.com

اور جب تم زمین میں سفر کے لیے نکلو تو تم پر کوئی
مضانقہ نہیں یہ کہ تم نماز میں قصر کر لو۔ اگر خوف
ہو کہ کافر کوفتہ میں ڈالیں گے (نسا: ۱۰۱)

فَاِذَا صَرَبْتُمْ فِي الْاَرْضِ فَلَيْسَ
بِعَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ
الصَّلَاةِ اِنْ يَفْتِكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا۔

قرآن مجید کی اس آیت سے معلوم ہوا کہ سفر میں نماز قصر کرنا ضروری ہے مسافر کے
لیے نماز قصر یعنی کمی یا تخفیف کرنے کا مطلب ہے یہ کہ چار رکعت فرض نماز کو صرف دو ہی رکعت
میں پڑھا جائے یعنی ظہر و عصر و عشاء کی نمازوں میں جن میں فرض کی چار رکعتیں ہیں ان میں دو
رکعت پڑھی جائیں۔ سفر میں فرض نمازوں کی قصر کر کے پڑھنا رسول اکرم ﷺ کو معمول تھا۔ لہذا
ہمیں بھی آپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے نماز سفر میں قصر کرنی چاہیے۔

۱۔ **حدیث:** اس کے بارے میں رسول اکرم ﷺ کی احادیث مندرجہ ذیل ہیں:-

۱۔ **حدیث:** حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم ﷺ کی
زبانی حضرت میں (ظہر، عصر اور عشاء کی) چار رکعتیں فرض کیں اور سفر میں دو رکعتیں۔ اور
(لڑائی میں دشمن کے) خوف میں ایک رکعت (امام کے ساتھ)۔ (مسلم شریف)

۲۔ **حدیث:** حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ میں نے نبی اکرم ﷺ کے ساتھ
سفر و حضر دونوں نمازیں پڑھی ہیں۔ حضر میں آپ کے ساتھ ظہر کی چار رکعت پڑھی اور اس
کے بعد دو رکعت۔ اور سفر میں ظہر کی دو رکعت فرض اور اس کے بعد دو رکعت سنت اور عصر کی
نماز بھی سفر میں دو رکعت اور اس کے بعد کچھ نہیں اور مغرب کی حضر و سفر میں ہمیشہ تین رکعت
پڑھیں۔ سفر و حضر میں مغرب کی نماز میں قصر نہ فرماتے اور اس کے بعد دو رکعت سنت
پڑھتے۔ (ترمذی)

۳۔ **حدیث:** حضرت حارثہ بن ہب خزاعیؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے
منیٰ میں (ظہر و عصر و عشاء) کی نماز دو رکعتیں ہی پڑھائی حالانکہ نہ ہماری اتنی زیادہ
تعداد کبھی تھی اور نہ اس قدر امن۔ (بخاری)

۴۔ **حدیث:** حضرت عمر فاروقؓ کے دریافت کرنے پر نبی اکرم ﷺ نے ارشاد
فرمایا۔ سنو! نماز میں قصر کرنا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک صدقہ ہے جو اس نے تم پر فرمایا ہے
لہذا اللہ کا یہ صدقہ (عطیہ) قبول کرو۔ (مسلم)

۵۔ حدیث: حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے (ظہر عصر اور عشاء کی) نماز سفر میں دو رکعتیں مقرر فرمائیں اور ثواب میں پوری چار کے برابر ہیں۔ کم نہیں۔ (ابن ماجہ)

۲۔ شرعی مسائل: مسافر کی نماز کے متعلق شرعی مسائل مندرجہ ذیل ہیں:-

۱۔ مسئلہ: مرد یا عورت اپنے شہر یا بستی سے دور کہیں اور کسی دینی یا دنیاوی کام سے جائے تو روزمرہ کی بول چال میں اسے سفر کہتے ہیں لیکن شریعت میں دس بیس میل جانے والے کو مسافر نہیں مانا جاتا یعنی اس کے لیے سفر کے احکام ثابت نہیں ہوتے بلکہ اس کے لیے تمام احکام مثلاً نماز روزہ اس طرح ادا کرنا لازم ہے جیسے اپنے وطن اپنی بستی میں۔ شریعت کی رو سے مسافر وہ شخص ہے جو تین دن یا (تین منزل) کی رہ تک جانے کے لیے اپنی بستی سے نکل گیا۔ خشکی میں مروجہ میل کے حساب سے ایک منزل کی مقدار ۱۹ میل ایک فرلانگ ہے اور تین منزل کی مقدار ۵۷ میل ۳ فرلانگ یعنی ۹۲ کلومیٹر ہے۔ (در مختار)

۲۔ مسئلہ: تین دن کی راہ یعنی منزل کو تیز سواری مثلاً موٹر کار، ریل گاڑی یا ہوائی جہاز وغیرہ پر دو ایک دن یا اور کم چند گھنٹوں میں طے کر لیا تو آدمی مسافر ہی ہے اور مسافر کے احکام کے لیے ثابت ہیں۔ (روا مختار)

۳۔ مسئلہ: اسٹیشن جہاں آبادی سے باہر ہوں تو اسٹیشن پر پہنچنے سے سفر شروع ہو جائیگا جبکہ سفر کی مسافت طے کرنے کا ارادہ ہو۔ (بہار شریعت)

۴۔ مسئلہ: سفر کے احکام ثابت ہونے لے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جہاں سے چلیں وہاں سے تین دن کی راہ (قریباً ۵۷ میل) کا ارادہ ہو اور اگر دو دن کی راہ کے ارادہ سے چل پڑا۔ وہاں پہنچ کر دوسری جگہ کا ارادہ ہوا کہ وہ بھی تین دن سے کم کا راستہ ہے۔ یا یوں ارادہ کیا کہ مثلاً دو دن کی راہ پر پہنچ کر کچھ کام کرنا ہے۔ وہ کر کے پھر ایک دن کی رہ پر جاؤں گا تو یہ تین دن کی راہ کا ارادہ نہ ہوا۔ تو شرعاً مسافر نہ ہوا (در مختار)

۵۔ مسئلہ: مسافر پر واجب ہے کہ نماز میں قصر کرے یعنی چار رکعت والے فرض کو دو پڑھے۔ اس کے حق میں دو ہی رکعتیں پوری نماز ہے اور جان بوجھ چار پڑھیں اور دو رکعت پر قعدہ کر لیا تو فرض ادا ہو گئے اور پچھلی دو رکعتیں نفل ہو گئے اور مگر گنہگار ہوا کہ واجب چھوڑ دیا لہذا تو پے کرے اور دو رکعت پر قعدہ نہ کیا تو فرض ادا نہ ہوئے اور نماز ہو گئی لہذا فرض پھر

پڑھے۔ (فتاویٰ عالمگیری)

۶۔ **مسئلہ:** سنتوں میں قصر نہیں بلکہ پوری پڑھی جائیں گی۔ ہاں اگر آدمی گھبراہٹ یا جلدی میں ہے تو معاف ہیں لیکن صبح کی سنتیں جہاں تک ہو سکے پڑھ لے کیونکہ اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ (فتاویٰ عالمگیری)

۷۔ **مسئلہ:** فجر و مغرب اور وتر کی نماز قصر نہیں بلکہ جیسے ہمیشہ پڑھی جاتی ہے ویسے ہی سفر میں پڑھنی چائیں۔ (بہار شریعت)

۸۔ **مسئلہ:** کسی آبادی یا بستی میں اقامت کی نیت کی یعنی پندرہ دن وہاں ٹھہرنے کا پختہ ارادہ کر لیا تو یہ بھی ضروری ہے کہ نیت ایک ہی جگہ پر ٹھہرنے کا ارادہ کیا مثلاً ایک جگہ دس دن اور دوسری جگہ پانچ دن تو یہ نیت معتبر نہیں۔ وہ بدستور مسافر ہے۔ (فتاویٰ عالمگیری)

۹۔ **مسئلہ:** مسافر اس وقت تک مسافر جب تک اپنی بستی میں واپس پہنچ نہ جائے یا اپنے شہر و بستی سے دور پورے پندرہ دن ٹھہرنے کی نیت نہ کرے۔ یہ اس وقت ہے جب تین دن کی رہ کر چکے ہوں اور اگر تین منزل سے پہلے ہی واپس کا ارادہ کر لیا تو مسافر نہ رہا۔ (فتاویٰ عالمگیری)

۱۰۔ **مسئلہ:** کسی جگہ جانے کے دو راستے ہیں ایک سے مسافت سفر ہے دوسرے سے نہیں تو جس راستہ سے یہ جائے گا اس کا اعتبار ہو گا نزدیک والے راستے سے گیا تو مسافر نہیں۔ دور والے سے گیا تو مسافر تصور کیا جائے گا۔ اگر چہ راستے کے اختیار کرنے میں اسے کوئی مقصد نہ ہو۔ (فتاویٰ عالمگیری)

۱۱۔ **مسئلہ:** وطن اصلی اور دوسرا وطن اقامت۔ وطن اصلی وہ ہے جہاں وہ اور اس الہ و عیال رہتے ہوں وہاں اس نے مستقل رہائش رکھ لی ہو اور وطن اقامت وہ جگہ ہے جہاں مسافر نے پندرہ دن یا اس سے زیادہ عرصہ ٹھہرنے کا ارادہ کر لیا۔ کسی جگہ ٹھہرنے اور نیت اقامت صحیح ہونے کی چھ شرطیں ہیں۔

۱۔ مسافر چلنا چھوڑ دے۔ اگر چلنے کی حالت میں اقامت (ٹھہرنے کی نیت کی تو وہ مقیم نہ ہوگا۔

۲۔ وہ جگہ اقامت کے قابل ہو جنگل دریا یا غیر آباد جزیرے ہیں اقامت کی نیت درست نہیں ہوگی۔

۳۔ پندرہ دن ٹھہرنے کی نیت ہو اس سے کم ٹھہرے کی نیت سے مقیم نہیں ہوگا۔

۴۔ ایک ہی جگہ ٹھہرنے کا ارادہ ہو۔ دو تین جگہ ٹھہرنے کے نیت کی تو مقیم نہیں ہوگا۔

۵۔ اپنا ارادہ مستقل رکھنا ہو یعنی کسی کا تابع غلام یا نوکر نہ ہو۔

۱۲۔ **مسئلہ:** مسافر کی حالت اس کے ارادہ کے منافی نہ ہو۔ جیسے کوئی حج کو جائے اور شروع ذوالحجہ میں پندرہ دن مکہ مکرمہ میں ٹھہرنے کی نیت کرے تو یہ نیت صحیح نہیں کیونکہ اس کی منی و عرفات میں ضرور جانا ہے وہ اتنے دن مکہ شریف ٹھہر ہی نہیں سکتا۔ ہاں منی سے واپس آ کر نیت اقامت صحیح ہے۔

۱۳۔ **مسئلہ:** عورت بیاہ کر سسرال گئی اور یہیں رہنے سہنے لگی تو اب میکہ اس کا وطن اصلی نہ رہا۔ یعنی اگر سسرال تین منزل پر ہے وہاں سے میکے آئی اور پندرہ دن ٹھہرنے کی نیت نہ کی تو نماز قصر پڑھے اور اگر میکے رہنا نہیں چھوڑا بلکہ سسرال عارضی طور پر گئی تھی (جیسا کہ عمور شادی کے شروع دنوں میں ہوتا ہے کہ لڑکی سسرال جاتی ہے اور پھر میکے آ کر رہنے سہنے لگتی ہے تو میکے آتے ہی سفر ختم ہو گیا) عورت مقیم ہو گئی لہذا نماز پوری پڑھے۔ (بہار شریعت)

۱۴۔ **مسئلہ:** سفر کے لیے گھر سے نکلے تو چلتے وقت آیتہ الکرسی اور قل یا اٰیہا الکلا فرون سے قبل اعوذ برب الناس تک تبت کے سوا پانچ سورتیں سب مع بسم اللہ پڑھے پھر آخر میں ایک بار بسم اللہ شریف پڑھے۔ راستہ بھر آرام سے رہے گا۔ نیز اس وقت **اِنَّ الَّذِیْ فَرَضَ عَلَیْكَ الْقَوَانَ كَوَاذِبًا اِلٰی مَعَاذِ** (بے شک جس نے تجھ پر قرآن فرض کیا ہے تجھے واپسی کی جگہ کی طرف کرنے والا ہے ایک بار پڑھے بالخیر واپس آئے گا)۔ (انشہ)

۲۷۔ نماز بیمار

نماز کی اہمیت اس امر سے بھی ظاہر ہوتی ہے کہ یہ عبادت اسلام میں اتنی اہم ہے کہ بیماری کی حالت میں بھی معاف نہیں اور ہر صورت میں نماز قائم کرنے کی تاکید کی گئی ہے اگر کھڑے ہونے کی ہمت اور طاقت ہو تو کھڑے ہو کر نماز پڑھنی چاہیے اور اگر بیماری میں شدت مرض اور تکلیف کے باعث کھڑے ہونے کی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر نماز پڑھنی چاہیے اور اگر بیٹھنے کی بھی سکت نہ ہو تو داہنی کروٹ پر لیٹ کر نماز پڑھ لینی چاہیے۔ بہر کیف کسی صورت میں بھی نماز

www.marfat.com

نہیں چھوڑنی چاہئے۔

کروٹ کے بل لیٹ کر نماز پڑھ لینے کا حکم قرآن پاک کی آیت سے ظاہر ہوتا ہے

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا
وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ۔ (آل عمران)

وہی لوگ اچھے ہیں جو اللہ کو کھڑے ہو کر بیٹھ کر
اور کروٹ کے بل لیٹ کر یاد کرتے
ہیں۔ (آل عمران)

اگرچہ اس آیت کا صریحاً اشارہ ذکر الہی کی طرف ہے لیکن اس طرف بھی اشارہ ہے کہ
لیٹ کر بھی یاد الہی کی جاسکتی ہے اور یاد رہے کہ یاد الہی کا سب سے عمدہ ذریعہ نماز ہے

حضرت عمران بن حصینؓ بیمار تھے انہوں نے نبی اکرم ﷺ سے نماز کے بارے میں
دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا اگر طاقت ہو تو کھڑے ہو کر نماز پڑھو ورنہ بیٹھ کر پڑھو۔ اگر بیٹھ کر بھی
نہ پڑھ سکو تو لیٹ کر نماز پڑھو۔ اللہ تعالیٰ کیسی نفس اور جان کو اتنی ہی تکلیف دیتا ہے جتنی کہ اس کی
طاقت وسعت ہو۔ (مشکوٰۃ شریف)

حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ ایک مریض کی عیادت کو تشریف لے
گئے دیکھا کہ وہ نماز پڑھتے تکیے پر سجدہ کرتا ہے۔ حضور نے تکیے کو پرے پھینک دیا۔ تو اس نے
لکڑی لے کر اس پر سجدہ کرنا چاہئے۔ آپ نے اسے بھی ہٹا دیا اور فرمایا۔ زمین پر سجدہ کر اگر
طاقت ہو۔ ورنہ (رکوع و سجدہ) اشارہ سے کر۔ (بخاری)

جو شخص بیماری کی وجہ سے کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو وہ بیٹھ کر رکوع و سجود کے ساتھ
پڑھے بیماری سے حقیقتاً بیماری اور مرض مراد ہے جس کی وجہ سے بیمار قیام پر قادر نہ ہو مثلاً کھڑے
ہو کر نماز پڑھنے میں بہت شدید ناقابل برداشت درد ہونا زخموں سے پیپ بہنا بیماری کا بڑھ جانا
بیسے چھا ہونا سر میں چکر آنا پیشاب کے قطرے کا آنا ان تمام صورتوں میں بیٹھ کر نماز پڑھنا
جائز ہے۔

اگر کوئی بیمار سارے قیام پر قادر تو نہیں لیکن ایک آدھ منٹ قیام کر سکتا ہے تو اس پر اسی
قدر قیام کرنا واجب ہے۔ اگرچہ تکبیر تحریرہ اور ایک آیت کی مقدار یا لائھی دو یواریا آدمی کے
بمبارے ہی قیام کر سکتا ہو۔ لہذا معمولی سے عذر سے نماز بیٹھ کر پڑھی تو نہ ہوگی۔ جو شخص قیام کر
سکتا لیکن رکوع و سجود پر قادر نہ ہو وہ بیٹھ کر نماز پڑھے اور رکوع اور سجود اشارہ سے کرے اور سجدہ میں

رکوع سے زیادہ جھکے۔ ورنہ نماز نہ ہوگی۔ جو مریض خود اپنے سہارے تو نہیں بیٹھ سکتا مگر دیوار یا ٹیک یا آدمی کے سہارے بیٹھ سکتا ہے تو اس کو لیٹ کر نماز پڑھنا جائز نہیں۔ سجدہ کے لیے تکیہ وغیرہ کوئی چیز پیشانی کے قریب اٹھا کر اس پر سجدہ کرنا مکروہ تحریمی ہے خواہ خود اس نے اٹھائی ہو یا دوسرے نے۔ اگر کوئی سخت چیز زمین پر رکھی ہو اور اس کی اونچائی بارہ انگل سے زیادہ ہو تو اس پر سجدہ کرنا جائز ہے۔ اگر کسی شخص کی پیشانی پر زخم ہو یا پھوڑا ہو جس کی وجہ سے سجدہ میں زمین پر نہ لگا سکے تو اس کو ناک پر سجدہ کرنا واجب ہے۔ ایسے شخص نے اگر اشارہ سے سجدہ کیا تو نماز نہ ہوگی۔

جو مریض سہارے سے بھی بیٹھنے کی قدرت نہ رکھتا ہو وہ لیٹ کر نماز اشارے سے ادا کرے۔ اس طرح کہ چپت لیٹ کر پاؤں قبلہ کی طرف کرے مگر پاؤں پھیلائے نہیں کیونکہ قبلہ کو پاؤں پھیلانا مکروہ ہے بلکہ گھٹنے کھڑے رکھے اور سر کے نیچے تکیہ وغیرہ رکھ کر اونچا کرے تاکہ منہ قبلہ کو ہو جائے۔ اگر ایسا نہ کر سکے تو پھر دائیں یا بائیں کر وٹ لیٹ کر قبلہ کو منہ کر کے نماز ادا کرے اگر سر کے اشارے سے بھی نماز ادا نہ کر سکے تو اب نماز ساقط ہے آنکھوں یا ہنوں یا دل کے اشارہ سے نماز نہ ہوگی۔ پھر اگر چھ نمازیں اس حالت میں گزر گئیں تو ان کی قضا بھی ساقط ہے۔ اگر اس سے کم ہوں تو بعد صحت ان کی قضا واجب ہے اگر چہ اشارہ۔ ادا کرنے کی صحت حاصل ہو۔ آنکھ بنوائی اور طیب حازق مسلمان نے لیٹے رہنے کا حکم دیا، لیٹ کر اشارہ سے نماز پڑھنا جائز ہے۔ اگر کسی مریض کی زبان بند ہو جائے یعنی قرأت اور تسبیح و تہجد پڑھنے سے عاجز ہو جائے تو گونگے کی مانند ہے نماز ادا کرے۔ (بہار شریعت)

۲۸۔ نماز عید

عید مسلمانوں کی خوشی کا دن ہے جس کے معنی لوٹ کر بار بار آنے کے ہیں چونکہ یہ خوشی کا دن ہر سال لوٹ لوٹ کر آتا ہے اس لیے اسے عید کہا جاتا ہے۔ عیدیں سال میں دو ہوتی ہیں یعنی عید الفطر اور عید الفصحی۔ انھیں عیدین کہا جاتا ہے۔ عید کے دن مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے مل کر خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ اس کی وجہ تسمیہ کے بارے میں حضور انسؓ کا قول ہے کہ رسول اکرم ﷺ جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ کے لوگ خوشی کے دن منایا کرتے تھے۔ نبی اکرم ﷺ نے انھیں دیکھ کر فرمایا کہ یہ کیسے دن ہیں؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ قدیم زمانے سے ہم لوگ ان دنوں میں خوشی

مناتے چلے آرہے ہیں؟ تو آپؐ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ان دنوں سے بہتر دو دن مقرر فرمائے ہیں تم ان میں خوشی منایا کرو۔ ان میں سے ایک دن عید الفطر ہے اور دوسرا عید الضحیٰ ہے۔

حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے عید کی نماز بلا اذان و اقامت دو رکعت پڑھی۔ نہ اس سے پہلے اور نہ بعد میں کچھ پڑھا۔ (بخاری شریف)

حضرت بریدہؓ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ عید الفطر کے دن کچھ کھا کر نماز کے لیے تشریف لے جاتے اور عید الضحیٰ کے دن نماز پڑھنے کے بعد تناول فرماتے۔ (ترمذی)

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ عید الفطر کے دن تشریف نہ لے جاتے جب تک چند کھجوریں نہ تناول فرماتے اور طاق ہوتیں۔ (بخاری شریف)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ حضور اقدس ﷺ کا ارشاد ہے کہ جو عیدین کی راتوں میں قیام کرے (نماز عبادات میں گزارے) اس کا دل نہ مرے گا جس دن لوگوں کے دل مریں گے۔ (ابن ماجہ)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ عید کے دن بارش ہوئی تو حضورؐ نے (مدینہ سے باہر عید گاہ کی بجائے) مسجد میں ہی عید نماز پڑھی۔ (ابوداؤد۔ ابن ماجہ)

۱۔ شرائط عیدین: عید کی نماز کی ادائیگی کی بھی وہی شرطیں ہیں جو جمعہ کی ہیں صرف دو باتوں کا فرق ہے۔

۱۔ جمعہ میں خطبہ شرط ہے بغیر خطبہ کے جمعہ صحیح نہیں اور عید میں خطبہ سنت ہے مگر خطبہ کا ترک بڑی بات ہے۔

۲۔ جمعہ میں خطبہ نماز سے پہلے ہوتا ہے اور عید میں نماز کے بعد۔

۲۔ عید کے دن مسنون کام:۔ امور ذیل عید کے دن مسنون ہیں:

۱۔ صبح کی نماز اپنے محلہ کی مسجد میں پڑھنا۔

۲۔ غسل کرنا۔

۳۔ مسواک کرنا۔

۴۔ خوشبو لگانا۔

۵۔ نئے یا دھلے ہوئے کپڑے پہننا۔

۶۔ خاص عید گاہ کو جانا۔

۷۔ واپسی میں راستہ کو بدلنا۔

۸۔ راستہ میں تکبیر پڑھنا۔ (عید الفطر کے دن تکبیر پڑھیں اور عید الفطر کے دن چلا کر اور عید گاہ میں پہنچ کر ختم کر دی جائیں)

۹۔ عید الفطر کی نماز سے پہلے صدقہ فطر دینا۔

۱۰۔ عید الفطر کی نماز سے پہلے کچھ میٹھا کھانا کھانا (اگر چھوڑے وغیرہ ہوں تو بعد دطاق کھاوے ورنہ) جو موجود ہو کھا کر عید کی نماز کو جائے۔ عید الفطر میں نماز سے پیشتر نہ کھانا مستحب ہے خواہ قربانی کرے یا نہ کرے۔ یہاں تک کہ پان حقہ اور ہر وہ چیز جس سے روزہ افطار ہو سکتا ہے نہ کھائے۔ ان کا نہ کھانا ہی مستحب ہے اگر کھالے گا تو مکروہ بھی نہیں مگر ترک اولیٰ ضرور ہے۔ (در مختار و عالمگیری)

۳۔ عید کی نماز پڑھنے کی ترکیب : امام اور مقتدی دونوں عید الفطر یا عید الفطر کی نماز کی نیت کریں پھر تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھ کر سبحانک اللہم پڑھ کر ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیں۔ دوسری مرتبہ پھر ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیں تیسری مرتبہ پھر ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں امام اعوذ بسم اللہ الحمد اور کوئی سورت پڑھ کر اللہ اکبر کہہ کر رکوع کو جائے۔ سب مقتدی بھی چلے جائیں۔ پھر حسب معمول سجدہ سے فارغ ہو کر دوسری رکعت امام شروع کر دے گا اس میں الحمد سے قبل تکبیریں نہ کہے بلکہ جس وقت الحمد اور سورت پڑھنے سے فارغ ہو جائے تو ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دے۔ دوسری بار بھی ایسا ہی کرے۔ تیسری بار بھی یہی کرے چوتھی بار بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے تکبیر انتقال کہہ کر رکوع کو جلا جاوے اور سجدہ وغیرہ کر کے نماز ختم کر دے عید کی نماز میں دوسری رکعت میں رکوع کو جاتے وقت تکبیر انتقال کہنی واجب ہے نماز سے فارغ ہو کر امام خطبہ پڑھے۔ خطبہ کا بیان آگے آئے گا۔

تکبیرات کے درمیان کچھ پڑھنا چاہیے بلکہ ہر دو تکبیر کے درمیان بقدر تین مرتبہ سبحان

اللہ کہنے کے خاموش رہے۔ عام اور کلیہ قاعدہ ہے کہ جن تکبیروں کے بعد پڑھا جاتا ہے ان کے بعد تو ہاتھ باندھے جاتے ہیں جیسے تکبیر تحریمہ کے بعد چونکہ تسبیح - اَعُوذُ بِسْمِ اللّٰهِ الْحَمْدُ اور سورت پڑھی جاتی ہے اس لیے ہاتھ باندھے جاتے ہیں اور جن تکبیروں کے بعد کچھ نہیں پڑھا جاتا ان کے بعد ہاتھ چھوڑ دیے جاتے ہیں جیسے عید کی زائد تکبیریں۔

۴۔ مسائل عید

- ۱۔ **مسئلہ:** عید کی نماز کے لیے سواری پر جانا درست ہے مگر پیادہ جانا افضل ہے۔
- ۲۔ **مسئلہ:** ایک شہر میں عید کی نماز کئی جگہ ہونی درست ہے عید کی نماز کا وقت طلوع آفتاب سے زوال تک رہتا ہے مگر افضل یہ ہے کہ عید الضحیٰ کی نماز میں جلدی کی جائے۔
- ۳۔ **مسئلہ:** اگر عید کی نماز اس روز کسی وجہ سے نہ پڑھی جائے مثلاً بارش کی کثرت ہو کہ لوگ جمع نہ ہو سکے ہوں یا ابر سے چاند نظر نہ آیا ہو اور تیس تاریخ بھی نہ ہو اور پھر دوسرے دن زوال کے بعد رویت بلال کی اطلاع ملے یا جس وقت نماز پڑھی گئی اس وقت ابر تھا۔ نماز کے بعد معلوم ہوا کہ زوال کے بعد نماز ہوئی ہے یا امام نے بے وضو نماز پڑھا دی تو ان سب صورتوں کے متعلق کلیہ قاعدہ ہے کہ عید الفطر کی نماز دوسرے ہی دن زوال سے پہلے ہو جانی چاہیے۔ دوسرے روز کی بعد عید الفطر کی نماز درست نہیں۔ ہاں عید الضحیٰ کی نماز تین دن یعنی بارہویں تاریخ ہو سکتی ہے۔ بارہویں تاریخ کے زوال سے قبل تو بلا کراہت درست ہے اور زوال کے بعد مکروہ ہے۔ (در مختار۔ عالمگیری)

۴۔ **مسئلہ:** عید کی نماز کی دو رکعتیں ہوتی ہیں لیکن ان میں نہ اذان ہونی چاہیے نہ اقامت۔ اگر تکبیریں ہو جانے کے بعد کوئی شخص پہلی رکعت میں شریک ہو تو پہلے تکبیریں ادا کرنی چاہئیں پھر اقتداء کرنی مناسب ہے۔ (در مختار۔ عالمگیری)

۵۔ **مسئلہ:** اگر کوئی شخص پہلی رکعت کے رکوع میں امام کو پائے تو اگر بحالت قیام تکبیریں کہہ کر رکوع پالینے کی امید ہو تو قیام میں تکبیریں کہہ کر رکوع میں شریک ہو جائے ورنہ تکبیر تحریمہ کہہ کر رکوع کو چلا جائے اور رکوع میں باقی تکبیریں کہہ لے۔ اب اگر رکوع میں اتنا وقت نہ ملا کہ پوری تکبیریں کہہ سکتا امام نے جلدی سر اٹھا لیا تو جتنی تکبیریں کہہ چکا ہے وہ تو خیر۔ باقی تکبیریں اس سے ہذا قلم ہو گئیں۔ اور قلم میں اگر امام کے ساتھ شریک ہو تو

تکبیریں اس رکعت میں اس کو نہ کہنی چاہئیں یہ رکعت اس سے فوت ہوگئی اب یہ مسبوق ہو گیا۔ جس وقت امام سلام پھیرے یہ اٹھ کر اپنی رکعت ادا کر لے اس وقت قرأت کے بعد رکوع سے پہلے یہ فوت شدہ تکبیریں کہے اور یہی حال اس وقت ہوگا جب امام کے ساتھ پہلی رکعت کے سجدہ یا دوسری رکعت میں شریک ہوا۔ ہاں لاحق تمام تکبیریں امام کی طرح کہے جائیں کیونکہ وہ درحقیقت امام ہی کے پیچھے ہے اور مسبوق بقیہ رکعت پڑھنے میں مثل منفرد کے ہے امام کے پیچھے نہیں ہے (عالمگیری)

۶۔ **مسئلہ:** اگر کسی شخص نے امام کو تشہد کی حالت میں پایا خواہ تشہد اصل نماز کا ہو یا سہو کا تو یہ دونوں رکعتیں مع چھ تکبیروں کا امام کی طرح ادا کرے۔ اگر امام نے پہلی رکعت میں تکبیریں بھول کر قرأت شروع کر دی تو اگر الحمد اور سورت دونوں پڑھ چکنے کے بعد یاد آیا تو تکبیریں کہہ کر رکوع کو چلا جائے اور اگر صرف الحمد پڑھی تو الحمد چھوڑ کر تکبیریں کہے اور از سر نو الحمد اور سورت پڑھے۔ (عالمگیری)

۷۔ **مسئلہ:** اگر امام دوسری رکعت میں تکبیریں کہنی بھول گیا اور رکوع کو چلا گیا تو رکوع ہی میں تکبیریں کہ لے۔ قیام کی طرف عود نہ کرے۔ (درمختار)

۸۔ **مسئلہ:** اگر کسی کی عید کی نماز فوت ہو جائے تو پھر اس کی قضا نہیں ہاں گھر میں چار رکعت نفل بغیر تکبیروں کے چاشت کے نماز کی طرح پڑھ لے۔ (درمختار)

۵۔ **عیدین کے خطبہ کے مسائل اور احکام:** تین خطبے الحمد سے

شروع کیے جاتے ہیں جمعہ اکا، استقاء کا، نکاح کا، عید کا خطبہ الحمد سے شروع نہیں کیا جاتا بلکہ دونوں میدوں کے خطبے اللہ اکبر سے شروع کیے جاتے ہیں۔ عید کا پہلا خطبہ شروع کرنے سے قبل نو بار تکبیریں متواتر کہنی چاہئیں اور دوسرا خطبہ شروع کرنے سے قبل سات بار جمعہ کے خطبہ میں شروع کرنے سے قبل اذان کے وقت امام تھوڑی دیر ممبر پر بیٹھتا ہے مگر حنفیہ کے نزدیک عیدین کے خطبوں میں شروع کرنے سے پہلے بیٹھنا چاہیے۔ جس وقت امام تکبیریں کہے تو قوم کو بھی کہنی چاہئیں۔

اگر عید کی نماز سے پہلے جنازہ حاضر ہو تو عید کی نماز پڑھ کر جنازہ کی نماز پڑھنی چاہیے

اور پھر خطبہ پڑھنا چاہیے۔

عید الفطر کی خطبہ میں تکبیر تسبیح اور درود وغیرہ کے بعد صدقہ فطر کے احکام بیان کیے جاتے ہیں اور عید الفطر کی خطبہ میں تکبیر تسبیح وغیرہ کے بعد قربانی کے احکام کیونکہ خطبہ صرف تعلیم احکام کے لیے۔ جس چیز کی ضرورت ہو حسب موقع اسی کی تعلیم کی جاتی ہے۔ (در مختار)

عید الفطر کا پہلا خطبہ

امام منبر پر کھڑا ہو کر پہلے آہستہ آہستہ نو مرتبہ پڑھ کر شروع کرے:

اللَّهُ أَكْبَرُ

اللَّهُ أَكْبَرُ - لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ - نَحْمَدُهُ وَهُوَ
 الْمُحْمَدُ فِي كُلِّ مَكَانٍ وَزَمَانٍ - وَهُوَ الْمَشْكُورُ بِكُلِّ لِسَانٍ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ
 اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ - أَشْهَدُ أَنْ
 لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحَابِهِ وَأَزْوَاجِهِ
 أَجْمَعِينَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ فَإِنَّ التَّقْوَى أَسَاسُ الْحَسَنَاتِ - وَأَعْبُدُوا
 اللَّهَ فَإِنَّ الْعِبَادَةَ دَافِعَةٌ لِلْسَيِّئَاتِ هَلْ عَرَفْتُمْ فَضَائِلَ شَهْرِ الصِّيَامِ وَهَلْ أَدْرَكْتُمْ
 لِمَا ذُكِرَ عَلَيْكُمْ الصِّيَامُ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ - يَا أَسْفَاةَ عَلَى صَيْفٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُ
 مِنَ الْأَكْرَامِ نَزْلًا دِيًّا حَسْرَتًا عَلَى رَفِيقِي شَفِيقٍ وَدَعْنَا وَمَشَى - الْوَدَاعُ الْوَدَاعُ
 يَأْشُرُ طَهَارَةَ الْقُلُوبِ - الْفِرَاقُ الْفِرَاقُ يَأْشُرُ كَفَارَةَ الذُّنُوبِ - الْوَدَاعُ الْوَدَاعُ
 يَأْشُرُ التَّرَاوِيحِ وَالسَّابِيحِ - الْفِرَاقُ الْفِرَاقُ يَأْشُرُ الْقَنَادِيلِ وَالْمَصَابِيحِ
 يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ إِنَّ فِي اللَّهِ عِزًّا مِمَّنْ كُلِّ مَصِيبَةٍ وَخَلْقًا مِمَّنْ كُلِّ
 فَائِتٍ فَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ وَاسْتَفْعِرُوا اللَّهَ إِنَّهُ كَانَ عَفَّارًا - ائْتُوا بِاللَّهِ
 مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَابْشِرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا
 إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ هُوَ أَوْلَىٰ بِكُمْ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ هُوَ أَوْلَىٰ بِكُمْ
 هُمُ الْمُهْتَدُونَ - أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِلسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ
 فَاسْتَغْفِرُوا لَهُ - إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

اس کے بعد تین چھوٹی آیتوں کے پڑھنے کی مقدار بیٹھ جائے۔ پھر استغفار پڑھ کر آہستہ آہستہ تکبیر پڑھ کر یہ دوسرا خطبہ شروع کرے۔

عید الفطر کا دوسرا خطبہ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَمَرَ بِذِكْرِهِ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ مُفْصِلٌ
بِشُكْرِهِ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدًا وَرَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى
آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ مَا بَعْدُ اعْلَمُوا إِنَّ اللَّهَ أَوْجَبَ عَلَيْكُمْ فِي هَذَا الْيَوْمِ
رُكْعَتَيْنِ مَعَ سِتَّةِ تَكْبِيرَاتٍ وَأَوْجَبَ آدَاءَ صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ حُرٍّ مِمَّنْ مَلَكَ
مَالِكٍ مَقْدَارِ النَّصَابِ فَاصْلًا عَنْ حَوَائِجِهِ الْأَصْلِيَّةِ وَإِنْ كَانَ مِنْ جِنْسِ الْغِيَابِ
أَوْ الذَّارِ أَوْ الْعَبِيدِ أَوْ الذَّوَابِ عَنْ نَفْسِهِ وَمَمَالِكِيهِ وَأَوْلَادِهِ الصِّغَارِ لَا عَنْ
زَوْجَتِهِ وَوَالِدَيْهِ وَأَوْلَادِهِ الْكِبَارِ إِلَّا اسْتَحْسَانًا عَنْ كُلِّ رَأْسٍ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ
بُرِّ أَوْ رِقِيمَةٍ أَوْ صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ أَوْ قِيمَةٍ كُلِّ مِنْهُمَا وَمَصَارِفَهَا كَمَا فِي
الزُّكُورِ وَالغُضُلُ أَوْ قَاتٍ أَدَائُهَا قَبْلَ الْغَدُ وَالْإِلَى الْمُصَلَّى - قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يُرِيدُ
اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا
هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ - اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى نَبِيِّنَا وَشَفِيعِنَا مُحَمَّدٍ وَ
آلِهِ الْعِظَمَاءِ وَأَصْحَابِهِ الْأَمْثَاءِ خُصُوصًا عَلَى أَجْلِ صَاحِبِ وَأَسْعَدِ رَفِيقِي
الْخَلِيفَةِ السَّامِيِّ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ وَعَلَى الْإِمَامِ الْهَمَامِ الشَّفُوقِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ
أَبِي حَفْصِ عُمَرَ الْفَارُوقِ وَعَلَى الشَّاكِرِ الصَّابِرِ زَوْجِ الْأُبْنَتَيْنِ لِرَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَثْمَانَ ذِي النُّدَيْنِ وَعَلَى مَظْهَرِ الْعَجَائِبِ وَالْقُرَّابِ
أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَعَلَى رَجَائِنَيْنِ لِسَيِّدِ الْكُوثَيْنِ أَبِي مُحَمَّدٍ
إِلْحَسَنِ وَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنِ وَعَلَى أُمَّهُمَا سَيِّدَةِ النِّسَاءِ فَاطِمَةَ الزَّهْرَاءِ وَعَلَى
عَمَّتَيْهِ الْمُكْرَمَيْنِ الْحَمْدَةَ وَالْعَبَّاسِ وَعَلَى السِّتَّةِ الْبَاقِيَةِ مِنَ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرَةِ
وَسَائِرِ الصَّحَابَةِ وَالْبَاقِعِينَ رِضْوَانُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ

الرَّاحِمِينَ يَا اللَّهُ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِهِمْ وَانْفِهِمُ
الْأَقَاتِ وَأَعِزِّ الْأَسْلَامَ وَنَاصِرِيهِ وَأَذِلِّ الشِّرْكَ وَمَوَالِيَهُ وَاجْعَلْنَا مِنَ
الْمُؤْتَمِرِينَ بِقَوْلِكَ الْمُبِينِينَ - إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى
وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ يَا أَذْكُرُوا اللَّهَ
يَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِعَمَلِهِ وَكُذِّبُوا اللَّهُ تَعَالَى أَعْلَى وَأَوْلَى وَأَعْظَمُ وَأَكْبَرُ -

اس کے بعد چودہ مرتبہ آہستہ سے تکبیر پڑھ کر منبر سے اتر آئے۔ یہ بھی مستحب ہے۔ (در مختار)

عید الضحیٰ کا پہلا خطبہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ
أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَاللَّهُ الْحَمْدُ - أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا
عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ - أَمَا بَعْدُ فَأَيُّ أَوْصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَأُحْذِرُكُمْ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ
وَأَعْلَمُوا أَنَّ هَذَا الْيَوْمَ تَشْرِيفٌ فَتَقَرَّبُوا فِي هَذَا الْيَوْمِ بِصِحَابِيَاكُمْ وَاجْعَلُوهَا
مِنْ أَطْيَبِ ذَخَائِرِكُمْ فَإِنَّهَا يَوْمُ الْقِيَمَةِ مَطَايَاكُمْ وَاجْتَنِبُوا الْعَوْرَاءَ وَ
الْعُرْجَاءَ وَالْمَرِيضَةَ وَالْجُرْبَاءَ وَمَقْطُوعَةَ الْأُذُنِ وَمُهْدَمَةَ الْأَسْنَانِ وَكُلَّ
ذَاتِ عَيْبٍ يُنْقِصُ مِنْ لَحْمِهَا وَاخْتَارُوهَا لِسَمَنِهَا فَإِنَّ الشَّالَةَ السَّمِيئَةَ
أَفْضَلُ مِنْ شَاتِي هَزِيلَتَيْنِ قَالْبُدْنَةُ عَنْ سَبْعِ وَالْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعِ وَالشَّالَةُ مِنْ
وَاحِدٍ وَلَا يُذْبَحُ إِلَّا مِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِيدِ مِنْ يَوْمِ النَّجْرِ وَيَوْمَيْنِ بَعْدَهَا وَ
يَسْتَحِبُّ الْمَصْرُوفُ ثَلَاثًا لِنَفْسِهِ وَثَلَاثًا هَدِيَّةً وَثَلَاثًا لِلْفُقَرَاءِ الْمَسَاكِينِ
إِنْ كَانَتْ تَطَوُّعًا - وَإِنْ كَانَتْ وَصِيَّةً يَتَّصِقُ بِجَمِيعِهَا وَعَظْمُوا شَعَائِرَ
اللَّهِ وَأَدُوا الْفَرَائِضَ وَالْحُقُوقَ فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ لِمَنْ شَكَرَ وَذَاكِرٌ لِمَنْ ذَكَرَ
أَعَادَ اللَّهُ عَلَيْنَا بَرَكَةَ هَذَا الْيَوْمِ وَأَمَّا مِنْ سُوءِ يَوْمِ الْعِيدِ وَجَعَلْنَا مِنَ الَّذِينَ
لَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ بِرَحْمَتِهِ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ - أَعُوذُ بِاللَّهِ

مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِّنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ
فَاذْكُرُوا اللَّهَ عَلَيْهَا صَوَافٍ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِعُوا
الْقَائِعَ وَالْمُعْتَرَّ وَكَذَلِكَ سَخَّرْنَا هَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِنَّهُ تَعَالَى جَرَادٌ
مَلِكٌ بَرٌّ رَّءُوفٌ رَّحِيمٌ

اس کے بعد بقدر تین چھوٹی آیتوں کے بیٹھ کر پھر کھڑا ہو کر سات مرتبہ آہستہ آہستہ تکبیر
کہہ کر خطبہ شروع کرے۔

عید الضحیٰ کا دوسرا خطبہ

الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا كَمَا أَمَرَ وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا
شَرِيكَ لَهُ لِمَنْ جَعَدَ بِهِ وَكَفَرُوا وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ سَيِّدُ
الْجِنِّ وَالْبَشَرِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا - اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ
وَبَارِكْ وَسَلِّمْ - ثُمَّ السَّلَامُ مِنَ الْحَقِّ الْحَقِيقِ عَلَى الْخَلِيفَةِ الْعَتِيقِ أَمِيرِ
الْمُؤْمِنِينَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ وَمِنَ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ عَلَى أَعْدَالِ الْأَصْحَابِ النَّاطِقِ
بِالْحَقِّ وَالصَّوَابِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَمِنَ الْمَلِكِ الدِّيَّانِ عَلَى
ذِي النُّورَيْنِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ وَمِنَ الْمَلِكِ الْوَلِيِّ عَلَى الْأَمِيرِ الْوَهَّابِيِّ
أَسَدِ اللَّهِ الْغَالِبِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَعَلَى الْإِمَامَيْنِ الْهُمَامَيْنِ
أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ وَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنِ وَعَلَى أُمَّهُمَا سَيِّدَةِ
النِّسَاءِ فَاطِمَةَ الزَّهْرَاءِ وَعَلَى الْعَمِيْنِ الْمُكْرَمَيْنِ الْحَمْرَةَ وَالْعَبَّاسِ وَعَلَى سَائِرِ
الصَّحَابَةِ مِنَ الْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالتَّابِعِينَ الصَّالِحِينَ الْأَبْرَارِ الْأَخْيَارِ إِلَى
يَوْمِ الْقَرَارِ رِضْوَانُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ - اللَّهُمَّ انصُرْ مَنْ نَصَرَ دِينَ مُحَمَّدٍ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاجْعَلْنَا مِنْهُمْ - عِبَادَ اللَّهِ رَحِمَكَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ
بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَتَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ
يُعْطِكُمْ لَكُمْ تَذَكُّرُونَ وَلَذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَىٰ أَعْلَىٰ وَأَعَزُّوَا كَبِيرُ-

اس کے بعد آہستہ آہستہ تکبیر پڑھ کر منبر سے اتر آئے۔ (در مختار)

۲۹۔ نماز خوف

مسلمان کی زندگی کا ایک نہایت ہی اہم پہلو جہاد ہے اور نماز کی اتنی اہمیت ہے کہ جہاد کی صورت میں بھی معاف نہیں۔ بلکہ شرعاً یہی حکم ہے کہ میدان جنگ میں لڑائی کی صورت میں بھی نماز پڑھی جائے صلوٰۃ خوف کوئی علیحدہ نماز نہیں بلکہ پانچوں نمازوں میں سے جو بھی میدان کارزار میں جنگ کی صورت میں پڑھی جائے گی وہ صلوٰۃ الخوف کہلائے گی:

نماز خوف کے بارے میں شرعی احکامات حسب ذیل ہیں :

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نماز خوف کے بارے میں فرمایا کہ جب دشمن کا خوف ہو تو فوج کی دو گروہوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ ان دونوں میں سے ایک گروہ پہلے نماز پڑھے جب وہ پڑھ لے تو بھر دوسرا گروہ نماز پڑھے۔

وَإِذَا كُنْتَ تَيْنَهُمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ
الصَّلَاةَ فَلْتُمْمَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ
مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا بِأَسْلِحَتِهِمْ. فَإِذَا
سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَ
نَتَيْ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا
لِيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ
وَأَسْلِحَتَهُمْ. وَذَٰلِكَ نَكْفُرُ الْوَاقِفُونَ
عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ
مِمَّنْ يَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً
وَجُنَاحٌ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ

اور جب آپ ان میں موجود ہوں تو آپ ان کو نماز پڑھائیں ان کے دو گروہ کر دیجیے۔ ان میں سے ایک گروہ آپ کے ساتھ نماز میں کھڑا ہو اور وہ اپنے ہتھیار لیے ہوئے ہو۔ جب یہ سجدے میں جائیں تو دوسرا گروہ تمہارے پیچھے حفاظت کے لیے کھڑا رہے اب دوسرا گروہ آئے جس نے تمہارے پیچھے نماز پڑھی۔ وہ آپ کے ساتھ ایک رکعت پڑھے۔ اپنی پناہ اور اپنے ہتھیار لیے رہیں۔ کافر تو یہ چاہتے ہیں کہ اگر تم ذرا اپنے ہتھیاروں اور اپنے اسباب سے

أَدَىٰ مِنْ مَطِيرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَنْ
تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخَذُوا حِذْرَكُمْ
إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا
مُهِينًا. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ
فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا
وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ. فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ
فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ. إِنَّ الصَّلَاةَ
كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا
مَوْقُوتًا.

غافل ہو جاؤ تو وہ ایک بار سے حملہ کر دیں اور
بارش یا بیماری کی تکلیف ہو تو ہتھیار اتار دو۔
پر کوئی گنا نہیں مگر دشمن سے ہوشیار رہو۔
اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے ذات کا عذاب
تیار کر رکھا ہے۔ جب تم خوف کی نماز پڑھ
کھڑے بیٹھے اور کروٹ پر لیٹے ہوئے
یاد میں لگے رہو۔ پھر اطمینان ہو جائے تو
کو حسب دستور قائم کرو۔ کیونکہ نماز مسلمانوں
مقررہ وقتوں پر فرض ہے۔ (نساء)

جہاد میں جنگ کی کئی صورتیں ہوتی ہیں۔

ایک صورت یہ ہوتی ہے یہ میدان جہاد میں دونوں فوجیں ایک دوسرے کے سر
پڑاؤ ڈال کر بیٹھی ہیں لیکن جنگ نہیں ہو رہی بلکہ دونوں کسی موقع کی تلاش میں ہوں کہ موقع
حملہ کر دیا جائے۔ اس صورت میں جنگ کا خطرہ تو ہوتا ہے لیکن حملہ نہیں ہو رہا ہوتا۔

دوسری صورت یہ ہے کہ دشمن نے حملہ کر دیا ہو۔ کفر و اسلام کے درمیان شدید جنگ
رہی ہو۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ پورے زور شور سے لڑ رہے ہوں مجاہد اپنے مور
پر ڈٹے مقابلہ کر رہے ہوں۔

جنگ کی تیسری صورت یہ ہے کہ مسلمان اپنے خیموں یعنی مورچوں میں ہو
سوار یوں پر ہوں اور سوار یوں سے اترنے کی مہلت نہ ہو تو ان تمام صورتوں میں صورت حال
مطابق نماز ادا کرنا صلوة الخوف ہے۔ رسول اکرم ﷺ کے دور میں صلوة الخوف کے مندرجہ
ذیل واقعات پیش آئے۔

حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ہم نبی اکرم ﷺ کے ہمراہ ایک غزوہ میں گئے جب ذی
الرقاع میں پہنچے تو ایک سایہ دار درخت حضور ﷺ کے لیے چھوڑ دیا گیا اس پر حضور
نے اپنی تلوار لٹکا دی (اور آرام فرما ہو گئے) ایک مشرک نے آ کر تلوار لے لی اور کھینچ کر
لگا آپ مجھ سے ڈرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ وہ کہنے لگا آپ کو مجھ سے کون بچا۔
فرمایا اللہ۔ صحابہ نے جب دیکھا اور اسے ڈرایا تو اس نے تلوار میان میں رکھ دی اسی جگہ

دی۔ اس کے بعد نماز کا وقت ہوا تو اذان ہوئی۔ حضور نے ایک گروہ کے ساتھ دو رکعت نماز پڑھی۔ پھر یہ گروہ پیچھے ہٹ گیا اور دوسرے گروہ کے ساتھ دو رکعت نماز پڑھی۔

تو حضور کی چار رکعت ہوئیں اور لوگوں کی (جماعت کے ساتھ) دو دو (یہ پوری چار رکعت باجماعت ادا کرنے کے بارے میں ہے)۔ (متفق علیہ)

حالت جنگ میں جب دشمن بالکل قریب یا سامنے ہو تو ایسی خوفناک حالت میں مجاہدین اسلام سواری پر یا پیدل تنہا اشارہ سے جس طرف بھی منہ کر سکیں اسی طرف منہ کر کے نماز قصر پڑھیں۔ اگر لڑائی جاری ہو گولیاں چل رہی ہوں اور نماز کا وقت جا رہا ہو تو اب نماز کو موخر کیا جائے۔ لڑائی اور جنگ سے فارغ ہو کر نماز پڑھی جائے۔

اگر دشمن سامنے ہو اور لڑائی تو نہ ہو رہی ہو مگر یہ اندیشہ ہے کہ اگر سب ایک ساتھ باجماعت نماز ادا کریں گے تو دشمن حملہ کر دے گا۔ تو ایسی صورت میں امام (یا فوج کا سالار) جماعت کے دو حصے کرے ایک گروہ کو امام دشمن کے مقابلہ میں کھڑا کرے اور دوسرے گروہ کو نماز پڑھائے۔ اگر نماز دو رکعت والی ہو جیسے سفر کی وجہ سے نماز قصر یا فجر۔ جمعہ و عیدین تو پہلا گروہ جب امام کے پیچھے ایک رکعت پڑھ چکے یعنی پہلی رکعت کے دوسرے سجدہ سے سر اٹھائے تو اب یہ دشمن کے مقابل چلے جائیں اور جو مجاہدین وہاں تھے وہ چلے آئیں اور امام ان کے ساتھ رکعت پڑھے اور تشہد پڑھ کر سلام پھرے دے لیکن مقتدی سلام نہ پھیریں بلکہ یہ لوگ دشمن کے مقابل چلے جائیں (یا اسی جگہ اپنی نماز پوری کر کے جائیں) اور اب وہ پہلا گروہ آئے اور ایک رکعت بغیر قرات پڑھ کر تشہد کے بعد سلام پھرے۔ (اور یہ بھی جائز ہے کہ یہ گروہ یہاں نہ آئے اسی جگہ اپنی نماز پوری کر لے) اور دوسرا گروہ اگر نماز پڑھ چکا تو بہتر ورنہ اب نماز پوری کرے خواہ اسی جگہ یا جماعت والی جگہ آ کر اور یہ قرات کے ساتھ اپنی ایک ایک رکعت پڑھیں اور تشہد کے بعد پھیر دیں۔

اور اگر چار رکعت والی نماز ہو تو ہر گروہ کے ساتھ امام دو رکعت پڑھے اور مغرب کی نماز میں امام پہلے گروہ کے ساتھ دو رکعت پڑھے اور دوسرے کے ساتھ ایک پڑھے اگر اس کا ات کیا تو نماز نہ ہوگی۔ نماز خوف میں یہ بھی جائز ہے کہ پہلے ایک گروہ اپنی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے اور پھر دوسرا گروہ اپنے میں سے کسی امام کے پیچھے نماز پڑھے یعنی دو جماعتیں

نماز خوف میں صرف دشمن کے مقابل پیدل جانا اور وہاں سے امام کے پاس صنف میں آنا یا وضو ٹوٹ جانے کی صورت میں وضو کے لیے چلنا معاف ہے۔ اس کے علاوہ چلنا نماز خوف میں کر دیگا۔ نیز اس دوران لڑنا۔ دشمن کو بھگانا اور اٹھنا موقوف رکھیں۔ ہاں ایک آدھ تیز چھیننے یا دو کی اجازت ہے اور نماز خوف میں ہتھیار و اسلحہ ہمراہ رکھنا بہتہ و مستحب ہے۔ خوف کی حالت میں بھی نماز باجماعت ادا کرنے کی مذکورہ بالا قرآن و حدیث کی تاکید و تریب سے اندازہ کریں۔ نماز باجماعت کس قدر لازمی ہے اور جماعت کی کتنی و تاکید و اہمیت ہے۔

۳۰۔ نماز استسقاء

استسقاء کا مطلب پانی طلب کرنا ہے لیکن شریعت اسلامیہ میں قحط سالی کی صورت میں اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر باران رحمت طلب کرنے کو نماز استسقاء کہا جاتا ہے۔ بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ انسان اپنے بُرے اعمال کی بناء پر اللہ کی ناراضگی مول لے لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے بُرے لوگوں کو تنبیہ کے لیے قحط سالی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اس کا اثر نیک لوگوں کو بھیج کر ادا شدت کرنا پڑتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ :

تمہیں جو تکلیف پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کے اعمال کی وجہ سے ہے اور وہ بہت سی معاف کر دیتا ہے۔

وَمَا آصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ آيَاتِكُمْ وَكَفَرُوا عَنْهَا
كَثِيرًا

اپنے رب سے استغفار کرو بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ موسلا دھار پانی تم پر بھیجے گا۔ دولت اور اولاد سے تمہاری مدد کرے گا تمہارے لیے باغ بنائے گا اور تمہیں نہریں دے گا۔

اِسْتَفْعِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهٗ كَانَ غَفَّارًا
يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا
وَيُمْدِدْكُمْ بِاَمْوَالٍ وَّبَنِيْنَ وَّيَجْعَلْ
لَكُمْ جَنَّتٍ وَّيَجْعَلْ لَكُمْ اَنْهَارًا

۱۔ حدیث: حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ جو لوگ ماپ اور تول میں کمی کرتے ہیں وہ قحط موت کی شدت اور بادشاہ کے ظلم کا شکار ہو جاتے ہیں اگر چو پائے نہ ہوتے تو ان پر بارش نہ ہوتی۔ (ابن ماجہ)

۲۔ حدیث: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ بارش کا نہ ہونا قحط نہیں بلکہ بڑا قحط تو یہ ہے کہ بارش بھی ہو جائے اور زمین کچھ بھی نہ اگائے (مسلم شریف)

۳۔ حدیث: حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ کسی دعا میں اس قدر ہاتھ نہ اٹھاتے۔ جتنا استسقاء میں اٹھاتے۔ یہاں تک کہ بلند فرماتے کہ بغلوں کی سپیدی ظاہر ہو جاتی۔ (بخاری شریف)

۴۔ حدیث: حضور ﷺ نے بارش کے لیے دعا کی اور ہاتھوں کو الٹا کر کے آسمان کی طرف اشارہ کیا (یعنی اور دعاؤں میں تو قاعدہ یہ ہے کہ ہتھیلی آسمان کی طرف ہو اور اس میں ہاتھ لوٹ دیں کہ حال بدلنے کی قال ہو)

۵۔ حدیث: حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ رسول ﷺ پرانے کپڑے پہن کر استسقاء کے لیے تواضع و خشوع و تضرع کے ساتھ تشریف لے گئے۔ (ابن ماجہ)

ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہؓ فرماتی ہیں کہ لوگوں نے نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں قحط کی شکایت کی تو آپؐ نے عید گاہ میں منبر بچھانے کا حکم دیا اور سب لوگوں سے ایک دن کا وعدہ فرمایا کہ اس دن سب لوگ عید گاہ چلیں۔ جب سورج کا کنارہ چمکا تو آپؐ اس وقت تشریف لائے۔ اور منبر پر بیٹھے، تکبیر پڑھی اللہ کی حمد فرمائی۔ پھر آپؐ نے فرمایا تم لوگوں نے اپنے ملک میں قحط کی شکایت کی ہے کہ بارش اپنے وقت سے موخر ہو گئی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ مجھ سے دعا کرو اور اللہ نے قبول فرمانے کا وعدہ کیا ہے۔ اس کے بعد آپؐ نے یہ پڑھا:

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ هِ الرَّحْمَنِ
الرَّحِيمِ هِ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ . لَا إِلَهَ
إِلَّا اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَرِيدُ . اللَّهُمَّ
أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْغَنِيُّ
وَلَحْنُ الْفُقَرَاءِ . أَنْزِلْ عَلَيْنَا
الْفَيْثَ وَاجْعَلْ مَا أَنْزَلْتَ قُوَّةً
وَبَلَاءً إِلَى حِينٍ

سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے روز جزا کا مالک نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے وہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ الہی! تو اللہ ہے نہیں کوئی معبود سوائے تیرے۔ تو غنی ہے اور ہم سب محتاج ہیں نازل کر ہمارے اوپر بارش اور جو کچھ تو اتارے اسے ہمارے لیے قوت اور ایک وقت تک پہنچنے کا سبب بنا دے۔

پھر آپؐ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے یہاں تک کہ بغل کی سفیدی نظر آئی پھر لوگوں کی طرف بیٹھ کی اور چادر مبارک لوٹ دی۔ پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور منبر سے اتر کر دو

رکعت نماز پڑھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت ابرنطاہر فرمایا، وہ گرجا اور چمکا اور برس اور حضور ابھی مسجد سے واپس بھی تشریف نہ لائے تھے کہ پرنا لے بنے لگے۔ (ابوداؤد)

استسقاء کی نماز دو رکعت ہے اور یہ نماز بلا اذان و اقامت۔ خطبہ اور جماعت کے ساتھ پڑھنا مسنون و مستحب ہے۔ امام بلند آواز سے قرات کرے نماز کے بعد زمین پر کھڑا ہو کر پھیلی حدیث والا خطبہ پڑھے۔ دونوں خطبوں کے درمیان بیٹھے۔ صرف ایک خطبہ پڑھنا بھی جائز ہے۔ جو دعا و تسبیح و استغفار پر مشتمل ہو اور اثنائے خطبہ میں چادر اُلٹ دے یعنی اوپر کا کنارہ نیچے اور نیچے کا اوپر کر دے۔ (یہ حال بدلنے کا قال ہے) خطبہ سے فارغ ہو کر لوگوں کی طرف پیٹھ اور قبلہ کو منہ کر کے مسنون دعائیں پڑھے دعائیں ہاتھوں کو خوب بلند کرے اور ان کی پشت آسمان کی طرف رکھے۔ استسقاء کے لیے مسنون دعائیں یہ ہیں:

الہی تو اپنے بندوں اور چوپایوں کو سیراب کر اور
اپنی رحمت کو پھلا اور اپنی مردہ زمین کو زندہ کر۔
الہی ہمیں ایسی بارش سے سیراب کر جو پوری
خوشگوار تازگی لانے والی نفع بخش ہو نقصان نہ
دے جلد ہو دیر میں نہ ہو۔

اللَّهُمَّ اسْقِ عِبَادَكَ وَيَمِيمَتَكَ
وَأَنْشُرْ حَمَمَكَ وَأَخِي بَلْدَكَ الْمَيِّتَ
اللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مَغِيثًا مَرِيئًا
مَرِيئًا. نَافِعًا عَيْرَ ضَائِرٍ عَاجِلًا
عَيْرٍ اَجَلٍ. (ابوداؤد)

بہتر و مسنون یہ ہے کہ استسقاء کے لیے پرانے کپڑے پہن کر نہایت عاجزی و انکساری کے ساتھ پیدل ننگے سر ننگے پاؤں آبادی سے باہر تین دن متواتر جائیں۔ غیر مسلوں کو ہرگز ساتھ نہ لے کر جائیں۔ جانے سے پیشتر صدقہ و خیرات کریں۔ توبہ اور استغفار کریں۔ نیز اپنے ہمراہ تمام کمزور ناتوان اور بچوں و بوڑھوں اور بوڑھیوں حتیٰ کہ مویشیوں کو بھی لے جائیں اور دعا کے وقت مائیں بچوں کو گلچہ کر دیں۔ کمزوروں اور ضعیفوں کے وسیلہ سے دعا کریں۔ اس طرح تین روز متواتر باہر جنگل کو جائیں اور دعا کریں۔ نیز اگر ایسا نہ ہو سکے تو ہر گھر اور ہر محلہ میں اکٹھے ہو کر گھلیوں وغیرہ پر لاتعداد بار استغفار پڑھیں۔ انشاء اللہ ضرور بارش ہوگی۔

۳۱۔ نماز کسوف و خسوف

سورج گہن کو کسوف اور چاند گہن کو خسوف کہا جاتا ہے۔ لہذا سورج گہن کے وقت جو نماز پڑھی جاتی ہے اسے نماز کسوف کہا جاتا ہے۔ گہن کو مذہبی نقطہ نظر سے اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ اس

لیے رسول اکرم ﷺ نے ایسے موقعہ پر دو رکعت نماز پڑھنے کی تاکید کی ہے لہذا سورج گہن کی نماز سنت موکدہ ہے۔ یہ نماز بلا اذان و اقامت جماعت کے ساتھ پڑھنی مستحب ہے اور تنہا بھی پڑھی جاسکتی ہے اگر جماعت سے پڑھی جائے تو خطبہ کے سوا تمام شرائط جمعہ اس کے لیے بھی شرط ہیں۔

حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ کے زمانہ پاک میں ایک بار سورج کو گہن لگا تو آپ مسجد میں تشریف لائے اور طویل قیام و رکوع وجود کے ساتھ پڑھی کہ ایسی طویل نماز پڑھتے کبھی نہ دیکھا گیا۔ نماز کے بعد حضورؐ نے فرمایا اللہ عزوجل کسی کی موت و حیات کے سبب اپنی یہ نشانیاں (گہن) ظاہر نہیں فرماتا بلکہ ان سے بندوں کو ڈراتا ہے لہذا جب تم ان میں سے کچھ دیکھو تو ذکر کرو دعا اور استغفار کے لیے گھبرا کر اٹھو۔ (بخاری شریف)

حضرت سمرہ بن جندبؓ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے گہن کی نماز پڑھائی اور ہم آپ کی آواز نہیں سنتے یعنی قرأت آہستہ فرمائی۔ نیز آپ نے سورج گہن میں غلام آزاد کرنے کا حکم فرمایا۔ (بخاری شریف)

سورج گہن کی کم از کم دو رکعت ہیں اور چار بھی پڑھ سکتے ہیں۔ گہن کی نماز اسی وقت پڑھی جائے جب سورج کو گہن لگے اور اس نماز کی طوالت ارکان کے ساتھ پڑھیں۔ حتیٰ کہ سورج صاف ہو جائے۔ ہاں اگر گہن اوقات ممنوعہ و مکروہ لگے تو ان وقتوں میں نماز نہ پڑھیں بلکہ دعا و استغفار پڑھتے رہیں۔ اگر اسی حالت میں سورج ڈوب جائے تو دعا ختم کر دیں اور مغرب کی نماز پڑھیں۔

نماز نفلوں کی طرح ہے۔ ہر رکعت میں ایک رکوع اور دو سجدے ہیں اور ہر رکعت پر قعدہ ہے۔ بہتر ہے کہ اس نماز کی جماعت مسجد یا عید گاہ میں ادا کی جائے اور لوگوں کو اکھٹا کرنے کے لیے الصلوٰۃ جامعہ کے الفاظ پکارے جائیں۔ سورۃ بقرہ اور سورت آل عمران کی مثل بڑی بڑی سورتیں پڑھیں اور رکوع وجود بھی لے کر لیں اور نماز کے بعد مشغول رہیں تا آنکہ سورج پورا کھل کر صاف ہو جائے۔

خسوف یعنی چاند گہن کی نماز مستحب ہے اس کی دو رکعت ہیں۔ تنہا بغیر جماعت کے پڑھی جائے۔ یہ نماز بھی طوالت ارکان کے ساتھ پڑھی جائے۔ امام کے علاوہ دو تین آدمی جماعت سے پڑھ سکتے ہیں۔ نماز خسوف اور نماز خسوف تنہا اپنے اپنے گھروں میں پڑھنا بھی جائز ہے۔ اگر

یہ نہ ہو سکے تو صرف دعاؤذکر میں مشغول رہنا بھی جائز و کافی ہے۔

۳۲۔ موت

موت اٹل ہے۔ ہر شخص کو اس کا ایک نہ ایک دن ذائقہ چکھنا ہے اس لیے ہر انسان کو چاہئے کہ آخرت کی فکر میں رہے اس کے متعلق فرمانِ مصطفیٰ ﷺ حسب ذیل ہیں:

۱۔ **حدیث:** حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا۔ دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر۔ بلکہ راہ چلتا تو مسافر جس طرح ایک اجنبی شخص ہوتا ہے اور راہ گیر راستہ کے کھیل تماشوں میں نہیں لگتا کہ راہ کھوٹی ہوگی اور منزل مقصود تک پہنچتے ہیں ناکامی ہوگی۔ اس طرح مسلمان کو چاہئے کہ دنیا میں نہ پھنسے اور نہ ایسے تعلقات پیدا کرے کہ مقصودِ اصلی کے حاصل کرنے میں اڑے آئے اور موت کو کثرت سے یاد کرے اس کی یاد دنیوی تعلقات کی بیخ کنی کرتی ہے۔ (بہار)

۲۔ **حدیث:** حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا لذتوں کو کھو دینے والی موت کو بہت یاد کرو۔ (ترمذی نسائی ابن ماجہ)

۳۔ **حدیث:** حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا تم میں سے کوئی موت کی آرزو نہ کرے۔ اگر وہ نیک ہے شاید کہ وہ نیکی زیادہ کرے اور اگر وہ بدکار ہے۔ شاید کہ وہ اللہ سے رضامندی چاہے۔ (بخاری)

۴۔ **حدیث:** حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم میں سے کوئی موت کی آرزو نہ کرے کسی ضرر کی وجہ سے کہ اس کو پہنچے اگر وہ ضروری طور پر ایسا کرنا چاہتا ہے پس وہ کہے اے اللہ! مجھ کو زندہ رکھ جب تک زندہ رہنا میرے لیے بہتر ہے اور مجھ کو مار جس وقت مرنا میرے لیے بہتر ہو۔ (مسلم)

۵۔ **حدیث:** حضرت معاذ بن جبلؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اگر چاہو تو میں تم کو خبر دوں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایمانداروں کو کیا کہے گا اور ایماندار اللہ تعالیٰ کو کیا کہے گے؟ ہم نے کہا ہاں اے اللہ کے رسول! فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ ایمانداروں کے لیے فرمائے گا 'کیا تم میری ملاقات پسند کرتے تھے؟ وہ کہیں گے ہاں اے پروردگار! پس فرمائیں گے۔ کیوں؟ وہ جواب دیں گے ہم تیری معافی اور بخشش کی امید رکھتے

تھے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میری بخشش تمہارے لیے واجب ہوگئی۔ (شرح السنہ)

شرعی مسائل: موت کے متعلق شرعی مسائل مندرجہ ذیل ہیں:

۱۔ **مسئلہ:** جب موت کا وقت قریب آئے اور علامتیں پائی جائیں۔ یعنی سانس اکھڑنے اور جلدی جلدی چلنے لگے پاؤں ست ہو جائیں کہ کھڑے نہ ہو سکیں ناک ٹیزھی اور منہ کی کھال سخت ہو جائے اور دونوں کپٹیاں بیٹھ جائیں تو سنت یہ ہے کہ داہنی کروٹ پر لٹا کر قبلہ کی طرف منہ کر دیں اور یہ بھی جائز ہے کہ چپٹ لٹائیں اور قبلہ کو پاؤں کریں کہ یوں بھی قبلہ کی طرف منہ ہو جائے گا مگر اس صورت میں سر کو قدرے اونچا رکھیں اور قبلہ کو منہ کرنا دشوار ہو کہ اس کو تکلیف ہوتی ہو تو جس حالت پر ہے چھوڑ دیں۔

۲۔ **مسئلہ:** جان کنی کی حالت میں جب تک روح گلے کو نہ آئی ہو جو لوگ وہاں موجود ہوں وہ مرنے والے کو تلقین کریں یعنی آواز سے
 اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ
 وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ
 اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ
 یا صرف کلمہ طیبہ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ
 پڑھیں کہ وہ سن کر پڑھے مگر اس سے یہ نہ کہیں کہ کلمہ پڑھو تمہیں کیا معلوم وہ کس تکلیف اور سختی میں ہے۔ مبادا اس کے منہ سے کوئی غلط بات نکل جائے تو عمر بھر کی کمائی مٹی میں مل جائے گی۔ تلقین کے وقت اس کے پاس نیک اور پرہیز گار لوگوں کا ہونا بہت اچھی بات ہے اور اس وقت وہاں سورہہ یسین کی تلاوت اور خوشبو ہونا مستحب ہے۔ (فتاویٰ عالمگیری)

۳۔ **مسئلہ:** جب وہ دنوں جز کلمہ طیبہ کے کہہ لے تو اس سے دوبارہ کہنے کا اصرار نہ کریں کہ کہیں اکتانہ جائے۔ ہاں اگر کلمہ پڑھنے کے بعد کوئی اور بات اس نے کی تو پھر تلقین کریں کہ اس کا آخر کلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو۔

۴۔ **مسئلہ:** موت کے وقت حیض و نفاس والی عورتیں اس کے پاس حاضر ہو سکتی ہیں مگر جس کا حیض و نفاس ختم ہو گیا ہو اور ابھی غسل نہیں کیا۔ اسے اور جب کو نہیں آنا چاہیے کوشش کریں کہ مکان میں کوئی تصویر یا کتانہ ہو۔ کیونکہ جہاں یہ ہوتے ہیں رحمت کے فرشتے نہیں آتے نزع کے وقت اپنے اور اس کے لیے دعائے خیر کرتے رہیں۔ کوئی بڑا کلمہ زبان سے نہ نکالیں کہ اس وقت جو کچھ کہا جاتا ہے فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ نزع سخت دیکھیں تو سورہ

لیسین اور سورہ رعد پڑھیں۔ (بہار شریعت)

۵۔ **حدیث:** جب روح نکل جائے تو ایک چوڑی پٹی جبرے کے نیچے سے سر پر لے جا کر گرہ دیدیں تاکہ منہ کھلا نہ رہے اور آنکھیں بند کر دی جائیں اور انگلیاں اور ہاتھ پاؤں سیدھے کر دیے جائیں۔ یہ کام اس کے گھر والوں میں سے جو زیادہ نرمی کے ساتھ کر سکتا ہے باپ یا بیٹا وہ کرے (جو ہرہ نیرہ) اس کے پیٹ پر لوہا یا گیلی مٹی یا کوئی اور بھاری چیز رکھ دیں کہ پیٹ پھول نہ جائے مگر ضرورت سے زیادہ وزنی نہ ہو کہ باعث تکلیف ہے میت کے سارے بدن کو کسی کپڑے سے چھپادیں اور زمین کی سیل سے بچائیں۔ (فتاویٰ عالمگیری)

۶۔ **مسئلہ:** آنکھیں بند کرتے وقت یہ دعا پڑھیں:

اللہ کے نام سے ساتھ و رسول اللہ کے ملت پر
اے اللہ! تو اس کے کام کو اس پر آسان کر اور اس
کے مابعد کو اس پر سہل کر اور اپنی ملاقات سے تو
اسے نیک بخت کر اور جس کی طرف نکلا
(آخرت) اے اس سے بہتر کر جس سے نکلا
(دنیا)

بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلَىٰ مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ
اَللّٰهُمَّ يَسِّرْ عَلَيْهِ اَمْرًا وَسَهِّلْ
عَلَيْهِ مَا بَعْدَ اُوَّلِهَا وَاسْعِدْ بِلِقَائِكَ
وَاجْعَلْ مَا خَرَجَ اِلَيْهِ خَيْرًا مِّمَّا
خَرَجَ عَنْهُ۔

۷۔ **مسئلہ:** اس کے ذمہ قرض یا کسی مالی مطالبہ ہو تو جلد سے جلد ادا کریں کہ حدیث شریف میں ہے۔ میت اپنے دین میں گرفتار رہتی ہے اور ایک روایت میں ہے کہ اس کی روح معلق رہتی ہے جب تک کہ دین ادا نہ کر دیا جائے۔ (روالمختار)

۸۔ **مسئلہ:** میت کے پاس تلاوت قرآن مجید جائز ہے جبکہ اس کا تمام بدن کپڑے سے چھپا ہو اور تسبیح و دیگر اذکار مطلقاً کوئی حرج نہیں۔ (روالمختار)

۹۔ **مسئلہ:** ناگہانی موت سے کوئی مرے تو جب تک موت کا یقین نہ ہو تجھیز و تکفین (کفن دفن وغیرہ) ملتوی رکھیں۔ وہ سکتا ہے کہ یہ سکتہ ہو جو طول پکڑ گیا۔ (فتاویٰ عالمگیری)

۱۰۔ **مسئلہ:** عورت مرگئی اور اس کے پیٹ میں بچہ حرکت رہا ہے تو بائیں جانب سے پیٹ چاک کر کے بچہ نکلا جائے اور عورت زندہ ہے اور اس کے پیٹ میں بچہ مر گیا اور عورت کی جان پر بنی ہو تو بچہ کاٹ کر نکالا جائے اور بچہ بھی زندہ ہو تو کسی ہی تکلیف ہو بچہ کاٹ کر نکالنا جائز نہیں۔ (فتاویٰ عالمگیری)

۱۱۔ **مسئلہ:** پڑوسیوں اور اس کے دوست احباب کو موت کی اطلاع دیں کہ نمازیوں کی کثرت ہوگی اور میت کے لیے دعا کریں گے کہ ان پر حق ہے کہ اس کی نماز پڑھیں اور دعا کریں۔

۱۲۔ **مسئلہ:** میت کے پاس زمین پر بیٹھنا افضل ہے اور چار پائی تخت، کرسی وغیرہ پر بیٹھے تو اس کی ممانعت بھی نہیں۔

۱۳۔ **مسئلہ:** جس گھر موت ہو جائے وہاں چولہا جلانا کھانا پکانا شرعاً منع نہیں ہے نہ اس میں کوئی گناہ ہے۔ ہاں چونکہ موت کی پریشانی کے سبب وہ لوگ پکاتے نہیں۔ اس لیے یہ سنت ہے کہ پہلے دن صرف گھر والوں کے لیے کھانا بھیجا جائے۔ اور انھیں با اصرار کھلایا جائے۔ نہ دوسرے دن بھیجیں نہ گھر سے زیادہ آدمیوں کے لیے بھیجیں نہ اور لوگ اس میں سے کھائیں۔

۳۳۔ غسل میت

میت کو نہلانا کفایہ ہے اور اس کا مسنون اور مستحب طریقہ یہ ہے کہ نہلانے والا با طہارت ہو اور میت کا سب سے بہت قریبی رشتہ دار ہو۔ اگر غسل دینا نہیں جانتا تو پھر کوئی اور غسل کا طریقہ جاننے والا امانت دار یا اعتماد پرہیزگار شخص ہو۔ جس تختہ پر غسل دیا جائے اولاً اس کو خوشبو سے تین یا پانچ بار دھونی دیں یعنی سلگتی ہوئی اگر بتی وغیرہ تختہ کے گرد پھیریں اور وہاں پردہ بھی کر لینا چاہیے۔ تاکہ غسل دینے والے اس کے ایک یا دو مددگار آدمیوں کے سوا اور کوئی شخص نہ دیکھ سکے نیز وہاں خوشبو کے لیے اگر بتی سلگانا بھی مستحب ہے۔ اس کے بعد میت کو اس تختہ پر قبلہ رخ رکھیں اور ناف سے گھنٹوں تک کسی کپڑے سے ڈھک دیں۔ پھر نہلانے والا اپنے دونوں ہاتھوں پر کپڑا لپیٹ کر سب سے پہلے استنجا کرائے۔ اس کے بعد نماز کا سا وضو کرائے۔ مگر غسل میت کے وضو میں کلی اور ناک میں پانی نہیں ڈالا جاتا۔ ہاں کپڑا یا روئی وغیرہ بھگو کر میت کے دانتوں مسوڑھوں اور ہونٹوں اور ناک پر پھیر دیں۔ پھر نیم گرم پانی سے جس میں پیری کے پتوں کو جوش دیا گیا ہو میت کے سر اور داڑھی کے بالوں کو صابن وغیرہ کے ساتھ دھوئیں۔ اس کے بعد میت کو بائیں کروٹ پر لٹا کر سر پاؤں تک تین بار اچھی طرح پانی بہائیں۔ پھر اس طرح دہنی کروٹ پر لٹا کر تین بار سر سے پاؤں تک پانی بہائیں کہ پانی نیچے تختہ تک پہنچ جائے۔ پھر میت کو

سہارا دے کر بٹھا میں اور بڑی آہستگی سے پیٹ کو نیچے کی طرف ہاتھ کے ساتھ سونتیں۔ اگر بچہ نکلے تو دھو ڈالیں۔ وہ بارہ وضو و غسل کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد تو لیے وغیرہ سے تمام بدن کو پونچھ کر خشک کر دیں بغیر کنگھی کے ڈاڑھی اور سر کے بالوں میں عطر ملیں اور پیشانی، ناک، ہتھیلیوں، گھٹنوں اور دونوں پاؤں پر کافور ملیں اور پھر کفن پہنائیں۔

مرد عورت اور بچوں کو غسل دینے کا ایک ہی طریقہ ہے۔ جو بچہ پیٹ سے ہی مرد پیدا ہو یا پیدا ہوتے ہی مر جائے اس کو بھی غسل دیا جائے گا۔ مرد کو مرد اور عورت کو عورت غسل دے۔

۱۔ غسل کے مسائل :-

۱۔ **مسئلہ** : جو بچہ مردہ پیدا ہو یا اس کے اعضا ناقص ہوں اور ساقط ہو جائے تو اس کو بھی غسل دینا چاہیے۔ (در مختار)

۲۔ **مسئلہ** : مردہ کے بال اور ناخن تراشنا جائز ہیں۔ خواہ کسی جگہ کے بال ہوں اگر تراشے جائیں یا ٹوٹنا ہونا ناخن علیحدہ کیا جائے تو مردہ کے کفن میں رکھ دینا چاہیے

۳۔ **مسئلہ** : مردہ کے کان، ناک، منہ وغیرہ میں روئی رکھنے میں کوئی ہرج نہیں ہے مگر پاخانہ اور پیشاب کے مقامات میں رکھی جائے۔ (عالمگیری)

۴۔ **مسئلہ** : اگر کوئی شخص ڈوب کر مر جائے تو اس کو بھی غسل دیا جائے گا لیکن اگر پانی سے نکالتے وقت بہ نیت غسل اس کو ہلا لیا ہو تو دوبارہ غسل دینے کی ضرورت نہیں۔

۵۔ **مسئلہ** : اگر کوئی مردہ بہت زیادہ سڑ گیا ہو کہ اس کو چھونا بھی دشوار ہو تو اس پر صرف پانی دینا کافی ہے۔

۶۔ **مسئلہ** : اگر کسی کی لاش نصف سے زائد مع سر کے ملے تو اس کو غسل دیا جائے اور اگر نصف لاش بغیر سر کے ملے یا صرف سر ملے تو غسل نہ دیا جائے اور نہ اس پر نماز پڑھی جائے بلکہ کپڑے میں لپیٹ کر دفن کر دینا چاہیے۔ (در مختار)

۷۔ **مسئلہ** : شوہر اپنی بیوی کو غسل نہیں دے سکتا۔ کیونکہ عورت کے مرنے کے بعد شوہر کا تعلق اس سے منقطع ہو جاتا ہے۔ ہاں عورت اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے۔ کیونکہ ایام عدت ختم ہونے تک اس کا تعلق شوہر سے قائم ہے۔ (عالمگیری)

۸۔ **مسئلہ** : اگر کوئی مرد مر جائے اور سوائے عورتوں کے اور کوئی موجود نہ ہو۔ یا عورت مر

جائے اور مردوں کے سوا کوئی عورت موجود نہ مردہ کو تیمم کرایا جائے مگر عورت کو اس کے محرم مرد کو اس کی محرم عورتیں تیمم کرائیں اور محرم موجود نہ ہو تو اجنبی شخص اپنے ہاتھوں پر کپڑا پیٹ کر مردہ کو تیمم کرائے۔ اگر مرد و عورت ہو تو اس کی باہوں پر نظر نہ ڈالی جائے۔ ہاں اگر خاوند ہو تو اس کو مردہ عورت کی باہوں پر نظر ڈالنی جائز ہے۔ (عالمگیری)

۹۔ مسئلہ: اگر کوئی شخص جہاز میں مرجائے تو اس کو غسل و کفن دے کر کچھ وزنی چیز باندھ کر دریا میں ڈال دینا چاہیے۔ (عالمگیری)

۱۰۔ مسئلہ: غسل دینے والا نہ جب ہونا چاہیے نہ حیض و نفاس والی عورت غسل دینے والے کا جب یا حائضہ یا نفسا ہونا مکروہ ہے۔ ہاں بے وضو ہونے میں کراہت نہیں ہے۔ (عالمگیری)

۲۔ مزکورہ ذیل اشخاص کو غسل نہ دیا جائے:

- ۱۔ جس شخص نے ماں یا باپ کو قصد اہلاک کیا ہو اس کو غسل نہ دیا جائے۔
- ۲۔ جو شخص امام وقت سے باغی ہو جائے اس کی غسل نہ دیا جائے۔
- ۳۔ جو شخص گلا گھونٹ کر لوگوں کو قتل کیا کرتا ہو اس کو غسل نہ دیا جائے۔
- ۴۔ جو شخص راتوں ہتھیار باندھ کر ڈکیتی اور غارتگری کرتا ہو اس کی بھی غسل نہ دیا جائے مگر موخر الذکر دونوں اشخاص کا یہ حکم اس وقت ہے جبکہ گرفتاری سے قبل لڑائی میں مارے جائیں اور اگر گرفتاری کے بعد اپنی موت سے مریں تو ان کی غسل و کفن بھی دیا جائے اور نماز بھی پڑھی جائے گی۔ (شامی)

۲۔ مردہ کی بری بات کا تذکرہ نہ کیا جائے: اگر کوئی شخص مردہ

کوئی عیب یا عذاب کی علامت دیکھے تو تذکرہ نہ کرنا چاہیے مثلاً مردہ کا منہ سیاہ ہو جائے یا اس سے برو آئے۔ یا اس کا جنازہ بھاری پر جائے تو کسی کے سامنے ذکر نہ کرنا چاہیے کیونکہ اس سے مسلمان مردہ کی پردہ درمی اور افشائے حال ہوتا ہے۔ ہاں اگر بدعتی اور لاندہب ہو یا بد عقیدہ ہو یا شراب ہو یا ظالم زانی شرابخور اور فاجر و بدکار ہو اس کی حالت نماز کرنی جائز ہے تاکہ عام مسلمانوں کو اس کی حالت پر واقفیت ہو اور اس کے انجام کو دیکھ کر سب لوگوں کو عبرت حاصل ہو

اگر مردہ کی کوئی اچھی بات معلوم ہو مثلاً نور روشنی، خوشبو، قبر کا پھولوں سے بھر جانا وغیرہ اس کا ذکر کرنا مستحب ہے۔ (عالمگیری)

۱۔ **مسئلہ:** اگر نہلانے والے چند موجود ہوں اور ایک آدمی غسل دے تو نہلانے کو اجرت لینی جائز ہے اور اگر نہلانے والا صرف ایک ہی موجود ہو اور اس پر نہلانا موقوف ہو تو اجرت لینی جائز نہیں۔ تاہم ہر صورت میں اجرت نہ لینی افضل ہے۔ (عالمگیری)

۲۔ **مسئلہ:** اگر پانی نہ ملنے کی وجہ سے کسی میت کو تیمم کر دیا گیا اور دفن سے قبل پانی مل گیا تو غسل دینا چاہیے۔

۳۔ **مسئلہ:** اگر چھوٹی بچی ہو تو مردوں کو اس کو غسل دینا جائز ہے اس طرح اگر چھوٹا بچہ ہو تو عورتیں اس کو غسل دے سکتی ہے۔ (عالمگیری)

۳۴۔ طریقہ کفن

میت کو کفن دینا فرض کفایہ ہے اور کفن کے تین درجے ہیں :-

۱۔ کفن ضرورت ۲۔ کفن کفایہ ۳۔ کفن سنت

مرد کے لیے کفن سنت تین کپڑے ہیں۔ لفافہ ازار، قمیص اور عورت کے لیے سنت یہ ہے کہ اسے پانچ کپڑوں کا کفن یا جائے لفافہ یعنی چادر ازار یعنی تہ بند۔ قمیص جسے کفنی کہتے ہیں اور ڈھنی اور سینہ بند۔ اس کے سوا کفنی میں کوئی اور تہ بند یا رومال رکھنا بدعت ممنوع ہے۔

۱۔ **مسئلہ:** لفافہ یعنی چادر کی مقدار یہ ہے کہ میت کے قد سے اس قدر زیادہ ہو کہ دونوں طرف باندھ سکیں اور ازار یعنی تہ بند چوٹی سے قدم تک یعنی لفافے سے اتنی چھوٹی جو باندھنے کے لیے زیادہ تھا اور قمیص یعنی کفنی گردن سے گھٹنوں کے نیچے تک اور یہ آگے پیچھے دونوں طرف برابر ہو۔ اور جاہلوں میں جو رواج ہے کہ آگے زیادہ اور پیچھے کم رکھنے میں یہ غلطی ہے۔ چاک اور آستین اس میں نہ ہوں اور عورت کے لیے کفنی سینہ کی طرف چیریں۔ اور ڈھنی تین ہاتھ ڈیڑھ گز کی ہونی چاہیے۔ سینہ بند پستان سے ناف تک اور بہتر ہے کہ ران تک ہو۔

۲۔ **مسئلہ:** کفن پہنانے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے کفن کو تین یا سات بار دھونی دیں۔ پھر چار پانی پر کفن اس طرح بچھائیں کہ پہلے بڑی چادر پھرتہ بند پھر کفنی۔ اس کے بعد

میت کو کفن پر رکھیں اور کفنی پہنائیں جو آگے پیچھے دونوں طرف سے گردن سے گھٹنوں تک آجائے پھر داڑھی اور تمام بدن پر خوشبو ملیں اور پیشانی، ناک، ہاتھوں، گھٹنوں اور پیروں پر کافور لگائیں، پھر تہ بند لپٹیں پہلے بائیں طرف سے پھر دائیں طرف سے اس کے بعد بڑی چادر بھی اس طرح لپٹیں۔ اور سر اور قدموں کی طرف سے باندھ دیں تاکہ کفن کھل نہ جائے عورت کو کفنی پہنانے کے بعد اس کے سر کے بالوں کو دو حصے کر کے سینہ پر ڈالیں۔ پھر اوڑھنی نصف پشت کے نیچے سے بچھا کر سر کے اوپر سے لاکر منہ پر نقاب کی طرح ڈال کر سینہ پر ڈال دیں۔ اوڑھنی کی لمبائی اتنی ہو کہ نصف پشت سے سینہ تک آجائے اور چوڑائی سر کے اوپر سے ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک ہو اوڑھنی زندگی کی طرح پہنانا خلاف سنت ہے اس کے بعد بدستور سابق تہ بند اور بڑی چادر میں لپٹیں اور سب سے اوپر سینہ بند بالائے پستان سے ناف یا ران تک لاکر باندھیں۔

۳۔ مسئلہ: سنت کے مطابق کفن کا انتظام نہ ہو سکے تو عورت کے لیے لفافہ ازار اوڑھنی یا لفافہ قمیض اوڑھنی تین کپڑے کافی ہیں اور یہ بھی نہ ہو سکے تو جو میسر آئے اور کم از کم اتنا ہو کہ سارا بدن ڈھک جائے۔ اور بلا ضرورت عورت کو تین کپڑوں سے کم ہیں کفن دینا ناجائز و مکروہ ہے۔ (فتاویٰ عالمگیری)

۴۔ مسئلہ: بعض محتاج اور ضرورت مند و رثاء کفن ضرورت پر قادر ہوتے ہیں (یعنی کم از کم اتنا جس سے سارا بدن ڈھک جائے مگر سنت کے مطابق کفن دینا انھیں میسر نہیں ہوتا۔ وہ کفن مسنون کے لیے لوگوں سے سوال کرتے ہیں۔ یہ ناجائز ہے کہ سوال بلا ضرورت جائز نہیں اور یہاں ضرورت نہیں۔ البتہ اگر کفن ضرورت پر بھی قادر نہ ہوں تو بقدر ضرورت سوال کریں زیادہ نہیں ہاں بغیر مانگے مسلمان خود کفن مسنون پورا کر دیں تو انشاء اللہ تعالیٰ پورا ثواب پائیں گے۔ (بہار)

۵۔ مسئلہ: کفن اچھا ہونا چاہیے یعنی عورت جیسے کپڑے پہن کر میکے جاتی تھی اس قیمت کا ہونا چاہیے۔ حدیث شریف میں ہے مردوں کو اچھا کفن دو کہ وہ باہم ملاقات کرے اور اچھے کفن سے خوش ہوتے ہیں۔ سفید کفن بہتر ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا اپنے مرد سے سفید کپڑے میں دفناؤ۔ پرانے کپڑے کا بھی کفن ہو سکتا ہے جبکہ ڈھلا ہوا ہو کہ کفن ستھرا ہونا مرغوب و مطلوب ہے۔

۶۔ **مسئلہ:** کسم یا زعفران کا رنگا ہوا یا ریشم کا کفن مرد کو ممنوع ہے اور عورت کے لیے جائز یعنی جو کپڑا مرد زندگی میں پہن سکتا ہے اس کا کفن دیا جاسکتا ہے اور جو زندگی میں نا جائز ہے اس کا کفن بھی جائز نہیں۔

۷۔ **مسئلہ:** کفن کے لیے سوال کر کے لائے اس میں سے کچھ بچ رہا تو اگر معلوم ہے کہ فلاں شخص نے دیا ہے تو اسے واپس کر دیں۔ ورنہ دوسرے محتاج کے کفن میں صرف کر دیں۔ اور اگر چندے سے خریدتا تو پھر چندہ دینے والوں کی خواہش کے مطابق صرف کر دیں۔

۸۔ **مسئلہ:** پھولوں کی چادر بالائے کفن ڈالنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں بلکہ نیت خسر سے حسن ہے جیسے قبروں پر پھول ڈالنا کہ وہ جب تک تر ہیں تسبیح کرتے ہیں اس سے میت دل بہلتا ہے اور رحمت اترتی ہے یونہی تبرک کے لیے غلاف کعبہ معظمہ کا قلیل نکرا سینے چہرے پر رکھنا بلاشبہ جائز ہے۔

۹۔ **مسئلہ:** جو نابالغ حد شہوت کو پہنچ گیا وہ بالغ کے حکم میں ہے یعنی بالغ کو جتنے کپڑے کفر میں دیے جاتے ہیں اسے بھی دیے جائیں۔ حد شہوت پر پہنچنے کا اندازہ لڑکوں میں بارہ سال اور لڑکیوں میں نو سال ہے۔ اس سے چھوٹے لڑکے کو ایک کپڑا اور لڑکی کو دو کپڑے دے سکے ہیں اور بہتر ہے کہ پورا کفن دیں اگرچہ ایک دن کا بچہ ہو۔

۱۰۔ **مسئلہ:** کتابیہ جو کسی مسلمان کے نکاح میں ہے اس کا یا مسلمان عورت کا بچہ زندہ پیدا ہوا یعنی اکثر حصہ باہر آ جانے کے وقت زندہ تھا پھر مر گیا تو اس کا غسل و کفن دیں گے اور اگر اس کی نماز پڑھیں گے ورنہ اسے ویسے ہی نہلا کر ایک کپڑے میں لپیٹ کر دفن کر دیں گے اس کے لیے غسل و کفن بطریق مسنون نہیں اور نماز بھی اس کی نہیں پڑھی جائیگی اکثر کی مقدار ہے کہ سر کی جانب ہے تو سینہ تک اکثر ہے اور پاؤں کی جانب سے ہو تو کمر تک۔ (روالمختار)

۳۵۔ جنازہ کے ساتھ چلنے کا سنت طریقہ

جنازہ کو کندھا دینا سنت کا رثواب اور گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے سنت یہ ہے کہ جنازہ کو چار آدمی ایک ایک پایہ سے اٹھائیں اور چاروں پایوں کو یکے بعد دیگرے کندھا دے کر دس دس قدم چل کر چالیس قدم پورے کریں۔ اس طرح کہ پہلے میت کے سر ہانے کے داہے پائے۔ پھر پائنتی کے داہے پائے کو اپنا کندھا دیں اور پھر سر ہانے کے بائیں پھر پائنتی کے بائیں

پائے کو اپنے بائیں کندھے پر رکھیں۔

۱۔ **مسئلہ:** چھوٹا شیر خوار بچہ ہو تو اسے بڑا شخص ہاتھ پراٹھا کر چلے تو کوئی حرج نہیں اور یکے بعد دیگرے لوگ ہاتھوں ہاتھ لیتے رہیں اور اگر کوئی سواری پر ہو تو اتنے چھوٹے جنازے کو ہاتھ پر لیے ہو تو پھر بھی کوئی حرج نہیں۔

۲۔ **مسئلہ:** جنازہ کو معتدل رفتار سے لے جائیں۔ اتنا چیز نہ چلیں کہ میت کو جھٹکا لگے۔ لے جاتے وقت میت کا سر آگے ہو۔ اگر چہ پاؤں قبلہ کی طرف ہی کیوں نہ ہوں ساتھ چلنے والے جنازہ کے پیچھے چلیں۔ دائیں بائیں اور آگے نہ چلیں۔ ساتھ جانے والے موت احوال قبر اور آخرت کو پیش نظر رکھیں۔ نہ ہنسیں اور نہ دنیا کی باتیں کریں بلکہ خاموش رہیں اور اور قدرے جہر سے ذکر بھی علماء نے جائز قرار دیا ہے

۳۔ **مسئلہ:** جنازہ رکھنے سے پہلے ہمراہیوں کا بیٹھنا مکروہ ہے اس طرح نماز پڑھے بغیر واپس ہو جانا بھی جائز نہیں۔ نماز کے بعد میت کے والی کی اجازت سے واپس آنا چاہیے۔ دفن کے بعد اجازت لینا ضروری نہیں۔

۴۔ **مسئلہ:** عورتوں کو جنازے کے ساتھ جانا ناجائز و ممنوع ہے اور نوحہ کرنے والی ساتھ ہیں تو اسے سختی سے منع کیا جائے اگر نہ مانے تو مرد اس کی وجہ سے جنازہ کے ساتھ ہیں جانا نہ چھوڑے کہ یہ ناجائز فعل ہے۔ یہ کیوں سنت ترک کرے بلکہ دل سے اسے بُرا مانیں اور جنازے میں شریک ہوں۔ (در مختار، صغیری)

۵۔ **مسئلہ:** میت اگر بڑوسی رشتہ دار یا کسی نیک انسان کو ہو تو اس کے جنازے کے ساتھ جانا نفل نماز پڑھنے سے افضل ہے۔

۳۶۔ نماز جنازہ

نماز جنازہ فرض کفایہ ہے اور اس کا انکار کرنے والا کفر میں داخل ہو جاتا ہے نماز جنازہ دراصل دنیا سے رخصت ہونے والے کے لیے اللہ کے حضور اجتماعی دعا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہ معاف کرے اور اسے اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ اجتماعی دعا میں ایک بندے کی دعا کی بہ نسبت قبولیت کی زیادہ تاثیر ہوتی ہے کیونکہ جب کچھ مسلمان مل کر اللہ کے حضور کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ مہربان ہوتا ہے اور اللہ کرے والوں کا دعا قبول فرماتا ہے۔

اس لیے نماز جنازہ میں جتنے زیادہ لوگ شریک ہوں بہتر ہے۔

۱۔ نماز جنازہ کے فرض و سنیتیں :

۱۔ چار مرتبہ تکبیر یعنی اللہ اکبر کہنا۔

۲۔ قیام کرنا۔ کسی خاص شرعی عذر کے بغیر بیٹھ کر نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں۔ ان فرض کے

علاوہ نماز جنازہ میں تین امور سنت ہیں :

(الف)۔ اللہ کی حمد و ثناء۔

(ب)۔ نبی اکرم ﷺ پر درود بھیجنا۔

(ج)۔ میت کے لیے دعا کرنا۔

۲۔ شرائط نماز جنازہ :

نماز جنازہ میں دو طرح کی شرائط ہیں۔ ایک نماز جنازہ پڑھنے والے کے متعلق اور دوسری میت کے متعلق۔ جن کی تفصیل حسب ذیل ہے :

۳۔ مصلیٰ کے متعلق شرائط :

نماز جنازہ پڑھنے والے کے لیے وہی شرائط ہیں جو عام نمازی کے لیے یعنی نماز جنازہ پڑھنے کا نجاست حکمیہ و حقیقیہ سے پاک ہونا لباس کا پاک ہونا ستر کا چھپانا قبلہ کو منہ کرنا نیت کرنا :

۴۔ میت کے متعلق شرائط :

جس کے لیے نماز جنازہ پڑھی جائے اس کے متعلق شرائط حسب ذیل ہیں :

۱۔ میت کا مسلمان ہونا

۲۔ میت کے جسم و کفن کا پاک ہونا۔

۳۔ جنازے کا زمین پر رکھا ہونا۔

۴۔ جنازے کا موجود ہونا۔

۵۔ جنازہ مصلیٰ کے آگے قبلہ رو ہونا۔

۶۔ میت کا کفن سے چھپا ہونا۔

۵۔ نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ :

نماز جنازہ پڑھنے کا شرعی طریقہ یہ ہے کہ میت کو آگے رکھا جائے اور امام اس کے سینے کے مقابل کھڑا ہو جائے اور دوسرے امام کے پیچھے صف باندھ کر کھڑے ہو جائیں۔ اگر آدمی زیادہ ہوں تو بہتر ہے کہ تین یا پانچ یا سات صف بنائیں۔ صفوں کو سیدھا کیا جائے۔ امام دیکھ کر صفوں کو سیدھا کروانے نیت باندھنے سے پہلے چائے اگر گناہوں سے مغفرت طلب کرنے کا تصور قائم کرے اپنی موت اور قبر کو یاد کرے اس

کے بعد نیت باندھ کر اللہ اکبر کہے۔

۶۔ **نماز کی نیت:** مقتدیوں کو چاہیے کہ اس طرح نیت کریں نیت کی میں نماز جنازہ کی 'ثنا' واسطے اللہ تعالیٰ کے درود واسطے نبی کریم ﷺ کے اور دعا واسطے اس حاضر میت کے منہ قبلہ شریف کی طرف پیچھے اس امام کے اللہ اکبر۔ امام کو اللہ اکبر بلند آواز سے کہنی چاہیے۔ مقتدی کو آہستہ آواز سے کہنا چاہیے۔ اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر ناف کے نیچے باندھ لینا چاہیے۔ پھر امام اور مقتدی سب آہستہ آہستہ ثنا پڑھیں۔

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَ
جَلَّ ثَنَاءُكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ ۝

پھر بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہے اور درود ابراہیمی پڑھیں جو پنج وقتہ نمازوں میں پڑھا جاتا ہے۔ پھر امام بلند آواز سے اور مقتدی آہستہ آہستہ تکبیر کہہ آہستہ یہ دعا پڑھیں دعا پڑھنے کے بعد چوٹی تکبیر کہہ کر سلام پھیر دیں۔

بالغ مرد اور عورت کی میت کے لیے یہ دعا پڑھنی چاہیے۔

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيَاتِنَا وَمَيِّتِنَا وَ
شَاهِدِنَا وَعَائِنَا وَصَغِيرِنَا
وَكَبِيرِنَا وَذَكْرِنَا وَأُنثَانَا اللَّهُمَّ
مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ
عَلَى الْإِسْلَامِ وَمَنْ كَوَفَيْتَهُ
مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ -
اے اللہ مغفرت فرما ہمارے زندوں کے لیے
اور مردوں کے لیے اور حاضر کے لیے
اور غائب کے لیے اور چھوٹوں کے لیے اور
بڑوں کے لیے۔ اے اللہ! جس کو تو زندہ رکھے
ہم میں سے اس کو سلام پر زندہ رکھ اور جس کو تو
موت دے ہم میں سے اس کا ایمان پر خاتمہ
کر۔ (ابوداؤد)

اگر میت نابالغ لڑکے کی ہو تو یہ دعا پڑھے:-

اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا قَرِطًا وَاجْعَلْهُ
لَنَا جُرًا وَذُخْرًا وَاجْعَلْهُ لَنَا
شَافِعًا وَمُسَفِّعًا -
اے اللہ بنا اس لڑکے کو ہمارے لیے پیشرو اور بنا
اس کو ہمارے لیے اجر اور ذخیرہ اور بنا اس کو ہمارے
لیے سفارش کرنیوالا اور سفارش قبول کیا گیا۔

اگر میت نابالغ لڑکی کی ہو تو یہ دعا پڑھنی چاہیے:-

marfat.com

اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا لَنَا قَرِطًا وَاجْعَلْهَا
لَنَا أَجْرًا وَذُخْرًا وَاجْعَلْهَا لَنَا
شَافِعَةً وَمُشَفَّعَةً

اے اللہ بنا اس لڑکی کو ہمارے لیے پیشرہ اور
اس کو ہمارے لیے اجر اور ذخیرہ اور بنا اس کو
ہمارے لیے سفارش کرنے والی اور سفارش
قبول کی گئی۔

جس شخص کو نماز جنازہ کی یہ دعائیں یاد نہ ہوں وہ امام کے پیچھے خاموش رہے صرف
چار تکبیریں ہی کہہ لے۔ اس کی نماز ہو جائے گی۔

جنازے کے متعلق شرعی مسائل

نماز جنازہ اس مسجد میں پڑھنا مکروہ ہے جو پنجگانہ نماز جمعہ یا عیدین کے لئے بنائی گئی
ہو لیکن جو مسجد جنازہ کے لیے بنائی جائے جسے جنازہ گاہ کہا جاتا ہے اس میں جنازہ پڑھنا درست
ہے۔ ایسے ہی بلا اجازت کسی اور کی زمین میں نمازہ جنازہ پڑھنا اچھا نہیں۔ اگر معلوم ہو کہ زمین
والا ناراض ہوگا۔ البتہ کسی پبلک کی جگہ پر جیسے پارک یا گراؤنڈ ہوتی ہے تو وہاں جنازہ پڑھ لینا
جائز ہے۔

کچھ حضرات کے نزدیک مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا درست ہے ان کی وجہ دلیل یہ ہے
کہ رسول اکرم ﷺ نے سہل اور ان کے بھائی سہیل کی نماز جنازہ مسجد میں پڑھی ہے لیکن یاد
رہے کہ یہ ایک خاص موقعہ تھا۔ جس پر نماز جنازہ مسجد میں پڑھی گئی۔ اس کے علاوہ عام حالات
میں نبی اکرم ﷺ کے زمانہ میں مسجد نبوی کے علاوہ ایک خاص جگہ جنازہ کے لیے مقرر تھی۔

۱۔ نماز جنازہ کی امامت: نمازہ جنازہ کی امامت کا سب سے زیادہ حقدار وصی
ہے اس کے بعد نماز جنازہ پڑھانے کا حق اسلامی حکومت کے سربراہ کو ہے۔ وہ نہ ہو تو اس کا مقرر
کیا ہوا شہر کا حکمران ہے وہ نہ ہو تو قاضی نماز پڑھائے۔ اس کی عدم موجودگی میں اس کا نائب نماز
پڑھائے۔ جہاں وہ بھی نہ ہو تو وہاں ولی کو نماز پڑھانے کا حق حاصل ہے۔ ولی میں وہ لوگ شامل
ہیں جو میت کے قریبی رشتہ دار یا دور کے رشتہ دار ہوں لیکن اگر رشتہ داروں کی نسبت کوئی امام زیادہ
صاحب تقویٰ ہو تو اسے امامت کا حق حاصل ہے اس کے علاوہ ولی جس کو اجازت دے وہ نماز
جنازہ پڑھا سکتا ہے۔

۲۔ جوتے پہن کر نماز جنازہ پڑھنا درست نہیں: بعض آدمی

جو نماز جنازہ جوتا پہنے ہوئے پڑھ لیتے ہیں ان کے لیے یہ امر ضروری ہے کہ وہ جس جگہ پر کھڑے ہوئے ہوں اور جوتے دونوں پاک ہوں اور اگر جوتا پیر سے نکال دیا جائے اور اس پر کھڑے ہوں تو صرف جوتے کا پاک ہونا ضروری ہے اس میں اختیار ہے اور ایسے جوتے جو نیچے سے نجس اور اوپر سے پاک ہوں پہن کر نماز جنازہ پڑھنا اس لیے درست نہیں کہ دوسری نمازوں کی صحت کے لیے جو شرائط ہیں وہی شرائط نماز جنازہ کی صحت کے لیے بھی ہیں۔

اگر زمین پر ظاہری نجاست نہ ہو تو اس پر نماز جنازہ پڑھنا درست ہے لیکن مذکورہ جوتے پہن کر یا ان پر کھڑے ہو کر درست نہیں۔ (خواہ جوتے ایک تہ کے ہوں یا دو تہ کے) کیونکہ جوتوں کی نجاست یقینی ہے اور زمین کی نجاست کا کچھ اثر باقی نہیں رہا۔ نماز جنازہ درست ہے مگر مذکورہ جوتوں سے درست نہیں۔

۳۔ پہلی تکبیر کے بعد ثناء: نماز جنازہ میں پہلی تکبیر کے بعد ثناء پڑھنی چاہیے کیونکہ حضرت فضالہ بن عبید سے روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے ایک شخص کو دعا کرتے ہوئے سنا جس نے دعا کرنے سے پہلے نہ اللہ تعالیٰ کی ثناء اور نہ ہی اللہ کے رسول پر درود بھیجا۔ اس پر نبی اکرم ﷺ نے فرمایا کہ اس نے نماز جنازہ میں جلدی کی ہے یعنی اسے ثناء اور درود پاک پڑھنا چاہیے تھا اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نماز جنازہ میں پہلی تکبیر کے بعد ثناء پڑھنا ضروری ہے کیونکہ بعض پہلی تکبیر کے بعد سورت فاتحہ پڑھتے ہیں لیکن حنفی مسلک میں ثناء پڑھنا بہتر ہے۔

۴۔ پہلی تکبیر کے علاوہ جنازہ کی تکبیروں میں رفع یدین نہیں: نماز جنازہ میں سوائے پہلی تکبیر کے رفع یدین نہیں کرنا چاہیے۔ کیونکہ حضرات ہر تکبیر کے ساتھ ہاتھ اٹھاتے ہیں لیکن مسلک اہل سنت کے نزدیک ایسا کرنا درست نہیں۔

۵۔ زیادہ جنازوں کے لیے ایک ہی نماز جنازہ: ایک سے زائد میتوں کی نماز جنازہ اکٹھی بھی پڑھی جاسکتی لیکن ہر میت کی الگ الگ نماز جنازہ پڑھنا زیادہ افضل ہے ایک سے زائد افراد کا جنازہ پڑھنے کے لیے میتوں کو آگے پیچھے رکھ دیا جائے اور سب کا سینہ امام کے مقابلہ ہو جائے تمام جنازوں کو ایک صف میں رکھ دیا جائے اور امام ایک جنازے کے سینے کے پاس کھڑا ہو جائے اس طرح ایک مرتبہ نماز سے سب کی نماز جنازہ ادا ہو جائے گی۔

۶۔ فاسق اور بدکار کی نماز جنازہ: فاسق اور بدکار آدمی مسلمان کے

زمرے سے خارج نہیں ہوتا۔ اس لیے اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ لیکن نیک اور منفق حضرات اس کی نماز جنازہ میں شامل نہ ہوں تو کوئی حرج نہیں۔

۷۔ **دوبارہ نماز جنازہ** : عام طور پر نماز جنازہ دوبارہ نہیں پڑھی جاسکتی۔ لیکن ولی کے سوا کسی ایسے شخص نے نماز پڑھائی جو ورثاء پر مقدم نہ ہو اور وارث نے اسے اجازت بھی نہ دی وہ اور وارث بذات خود بھی جنازہ میں شریک نہ ہوا ہو تو اسے حق حاصل ہے کہ وہ دوبارہ جنازہ پڑھ لے یا کسی سے پڑھوائے۔ اور اس کے ساتھ وہ نماز پڑھیں جنہوں نے پہلے نماز نہ پڑھی ہو۔ دفن کرنے کے بعد اسے حق حاصل ہے کہ قبر پر نماز جنازہ پڑھے۔

۸۔ **جن لوگوں کی نماز جنازہ نہیں پڑھنی چاہیے** : وہ لوگ جن کی نماز جنازہ نہیں پڑھنی چاہیے یہ ہیں :

(۱)۔ باغی جو امام پر ناحق خروج کرے اور اسی بغاوت میں مارا جائے۔

(۲)۔ ڈاکو جو کہ ڈاکہ میں مارا گیا نہ ان کو غسل دیا جائے نہ ان کی نماز پڑھی جائے مگر جبکہ بادشاہ اسلام نے ان پر قابو پایا اور قتل کیا تو نماز و غسل ہے۔ یا وہ نہ پکڑے گئے نہ مارے گئے بلکہ ویسے ہی مرے تو بھی غسل و نماز ہے۔

(۳)۔ جو لوگ ناحق پاسداری سے لڑیں بلکہ جو ان کا تماشادیکھ رہے تھے اور پتھر آ کر لگا اور مر گئے تو ان کی بھی نماز نہیں۔ ہاں ان کے متفرق ہونے کے بعد تو نماز ہے۔

(۴)۔ جس نے کئی شخص گلا گھونٹ کر مار ڈالے۔

(۵)۔ شہر میں رات کو ہتھیار لے کر لوٹ مار کریں وہ بھی ڈاکو ہیں اس حالت میں مارے جائیں تو ان کی نماز نہ پڑھی جائے۔

(۶)۔ جس نے اپنی ماں یا باپ کو مار ڈالا اس کی بھی نماز نہیں۔

(۷)۔ جو کسی کا مال چھین رہا تھا اور اس حالت میں مارا گیا اس کی بھی نماز نہیں۔

۹۔ **نماز جنازہ کے بغیر دفن کیے ہوئے کی نماز جنازہ پڑھنا** :

ایسی میت جس کو جنازہ پڑھانے کے بغیر ہی دفن کر دیا ہو اور اس کی قبر پر مٹی بھی ڈال دی گئی ہو تو ایسی میت کی نماز جنازہ قبر پر ہی پڑھ لی جائے۔ اگر میت کو تازہ ہی دفن کیا ہو اور اس کے پھٹنے کا گمان نہ ہو اور مٹی بھی نہ ڈالی گئی ہو تو اسے قبر سے نکال کر اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے اور پھر دفن

کیا جائے۔

۱۰۔ **نماز جنازہ میں بلاوجہ تاخیر مکروہ ہے:** نماز جنازہ میں بلاوجہ تاخیر مکروہ ہے اگر کوئی شخص جمعہ کے دن فوت ہو جائے اور جمعہ سے پہلے اس کی تجہیز و تکفین ہو سکتی ہو تو پہلے ہی کر لیں اور اس خیال سے روکنا جمعہ کے بعد نماز جنازہ میں زیادہ لوگ شامل ہو جائیں اچھا نہیں کیونکہ احادیث میں تاکید ہے کہ میت کے ساتھ جلدی کی جائے۔

۱۱۔ **فرض نماز کے بعد جنازہ پڑھنا چاہیے:** فرض نماز کے وقت اگر کوئی جنازہ آجائے تو فرض نماز کی جماعت پڑھنے کے بعد جنازہ کی نماز پڑھنی چاہیے۔ نماز عید کے وقت جنازہ آیا تو پہلے عید کی نماز پڑھی جائے پھر نماز جنازہ پڑھی جائے۔

۱۲۔ **جماعت کے ساتھ بعد میں شامل ہو کر نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ:** اگر کوئی شخص نماز جنازہ کی جماعت کھڑی ہو جانے کے بعد آئے اور اس سے ایک یا دو یا تین تکبیریں رہ جائیں تو اگر یہ شخص تکبیر تحریمہ کے وقت وہاں موجود تھا اور پھر کسی وجہ سے شریک نہ ہو تو امام کی تکبیر کا انتظار کیے بغیر تکبیر کہہ کر جماعت میں شامل ہو جائے اور اگر بعد میں آیا تو امام کی تکبیر کا انتظار کرے جب امام تکبیر کہے اس وقت تکبیر کہہ کر مل جائے اور یہ تکبیر اس کے حق میں تکبیر تحریمہ ہو جائے گی۔ پھر جب امام سلام پھیر دے تو یہ شخص (دونوں صورتوں میں) مسبوق کی طرح اپنی گئی ہوں صرف تکبیروں کو ادا کر کے نماز پوری کر لے۔

اگر کوئی شخص چوتھی تکبیر کے بعد پہنچا اور امام نے بھی سلام نہیں پھیرا ہے تو فوراً مل جائے اور جب تک جنازہ کو اٹھائیں صرف تکبیر ادا کر لے۔ دعائیں چھوڑ دے۔ نماز ہو جائے گی۔

۱۳۔ **زندہ پیدا ہونے والے بچے کی نماز جنازہ:** مسلمان مرد یا عورت کا بچہ زندہ پیدا ہوا یعنی اکثر حصہ باہر ہونے کے وقت زندہ تھا پھر مر گیا تو اس کو غسل و کفن دیں گے اور اس کی نماز پڑھیں ورنہ اسے ویسے ہی نہلا کر ایک کپڑا میں لپیٹ کر دفن کر دیں گے اس کے لیے غسل و کفن بطریق مسنون نہیں۔ اور نماز بھی اس کی نہیں پڑھی جائے گی۔ یہاں تک کہ سر جب باہر ہوا تھا تو اس وقت چیخا تھا مگر اکثر حصہ نکلنے سے پیشتر مر گیا تو نماز پڑھی جائے۔ اکثر کی مقدار یہ ہے کہ سر کی جانب سے ہو تو سینہ تک اکثر ہے اور پاؤں کی جانب سے ہو تو کمر تک۔

بچے کی ماں یا جنائی نے زندہ پیدا ہونے کی شہادت دی تو اس کی نماز پڑھی جائے۔ مگر وراثت کے بارے میں ابن کی گواہی نامعتبر ہے یعنی بچے اپنے باپ فوت شدہ کا وراثت

نہیں قرار دیا جائے گا نہ بچہ کی وارث اس کی ماں ہوگی۔ یہ اس وقت ہے کہ خود باہر نکلا اور کسی نے حاملہ کے شکم پر ضرب لگائی کہ بچہ مرا ہو باہر نکلا تو وارث ہوگا اور وارث پٹنٹے گا۔

۳۷۔ قبر و دفن کا سنت طریقہ

مردے کو زمین کے سپرد کرنے کو دفن کہا جاتا ہے۔ اسلام کا یہ طریقہ دوسرے مذاہب سے منفرد اور عمدہ ہے۔ شرعاً جس طرح کہ میت کے لیے غسل، کفن اور نماز جنازہ فرض کفایہ ہے ایسے ہی دفن کرنا بھی فرض کفایہ ہے اور اس فرض کے متعلق مسائل مندرجہ ذیل ہیں:-

۱۔ **قبر بنانا:** میت کو دفن کرنے کے لیے قبر بنانا ضروری ہے لہذا قبر کی لمبائی میت کے قد کے مطابق ہونی چاہیے۔ گہرائی اور چوڑائی نصف قد کے مطابق ہونی چاہیے۔ اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ گہرائی بھی قد جتنی ہو۔ سیدھی قبر کی بجائے بغلی قبر زیادہ بہتر ہے ہاں اگر زمین زیادہ نرم ہو اور قبر کے بیٹھ جانے کا اندیشہ ہو تو پھر بغلی قبر نہ کھودی جائے بلکہ صندوقی قبر کھودی جائے۔ بغلی قبر میں میت رکھنے کی جگہ قبلہ کی دیوار کے ساتھ بنائی جاتی ہے۔ دونوں طرح ہی قبر کھودنا درست ہے لیکن لحد کو افضل قرار دیا گیا ہے۔ نبی اکرم ﷺ کے لیے لحد والی قبر تیار کی گئی تھی۔

حضرت عروہ بن زبیرؓ سے روایت ہے کہ مدینہ شریف میں دو آدمی تھے جو قبریں کھودا کرتے تے ان میں سے ایک لحد بناتا تھا۔ دوسرا صندوق قبر کھودا کرتا تھا۔ صحابہ کرامؓ نے فرمایا کہ ان دونوں میں سے جو پہلے آ گیا وہ اپنا کام کرے گا۔ لہذا لحد بنانے والا پہلے آ گیا۔ چنانچہ اس نے نبی کریم ﷺ کے لیے لحد یعنی بغلی قبر تیار کی اور اس میں آپ کو دفن کیا گیا۔ بعد میں حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ کے وصال پر ان کی قبر بھی بغلی بنائی گئیں۔

۲۔ **کچی قبر بنانا سنت ہے:** قبر شرعاً کچی بنانے کا حکم ہے لیکن آبادی کی

زیادتی یا کسی اور وجہ سے پختہ بنانے میں کوئی حرج نہیں۔ جہاں مٹی اتنی نرم ہو کہ بمشکل کھودی جائے تو وہاں پختہ قبر بنا لینا جائز ہے لیکن کچی قبر بہر صورت افضل ہے قبر کو کھلا اور کشادہ بنانا چاہیے جس میں آسانی سے میت رکھنے کی گنجائش ہو۔ کیونکہ نبی اکرم ﷺ کا فرمان ہے کہ قبر فراخ کھودو۔

حضرت بشام بن عامرؓ سے روایت ہے کہ بیشک نبی اکرم ﷺ نے احد کے دن فرمایا فراخ قبریں کھودو اور گہرا کرو اور اچھا کرو اور دو دو اور تین تین ایک قبر میں دفن کرو اور آگے اس کو رکھو جس کو قرآن زیادہ یاد ہو۔

۳۔ **قبر میں اتارنے وقت کیا پڑھنا چاہیے** : میت کو قبر میں اتارتے وقت جنازے کو قبر سے قبلے کی جانب رکھا جائے اور اتارتے والے قبلہ رو کر کے میت کو اتاریں اور کلمہ شہادت پڑھیں اس کے ساتھ ہی میت کو قبر رکھتے وقت **بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ** کہنا مستحب ہے۔

حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ بیشک نبی ﷺ جس وقت میت کو قبر میں داخل کرتے فرماتے ”اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور رسول اللہ کی شریعت کے موافق“ اور ایک روایت میں ہے ”رسول اللہ کے طریقہ پر رکھتا ہوں۔“ (ترمذی شریف)

۴۔ **تابوت میں دفن کرنا** : لکڑی کے صندوق کے تابوت کہا جاتا ہے اس میں میت کو رکھ کر دفن کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں اور خاص کر جہاں مٹی تر ہو یا بہت نرم تو تابوت میں میت کو رکھ کر دفن کرنا بہتر ہے۔ جب کسی کو ایک مقام پر امانتاً دفن کر کے بعد میں وہاں سے نکال کر کہیں اور دفن کرنے کا ارادہ ہو تو اس صورت میں تابوت میں دفن کرنا بہت بہتر ہے کیونکہ تابوت کو دوبارہ دفن کرنے میں آسانی رہتی ہے۔ تابوت لکڑی کا ہونا چاہیے۔ لوہے کی چادر درست نہیں۔

۵۔ **میت کو قبر میں اتارنا** : میت کو قبر میں اتارنے کے لیے بقدر ضرورت چند آدمی قبر میں داخل ہو سکتے ہیں۔ نیک اور متقی آدمیوں کا قبر میں داخل ہونا زیادہ بہتر ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی اکرم ﷺ کو قبر مبارک میں رکھنے کے لیے چار صحابہؓ قبر میں اترے تھے۔

عورت کی قبر میں اس کے شوہر یا محرم آدمیوں کو اتارنا چاہیے۔ اگر وہ نہ اتریں تو پھر نیک اور عمر رسیدہ لوگوں کو اتارنا چاہیے۔

میت کو قبر میں رکھنے کے بعد داہنے پہلو پر قبلہ رخ کر دینا مسنون ہے اور اگر کیے بغیر قبر کو بند کر دیا ہو تو اب غلطی کی تلافی کے لیے قبر دوبارہ نہیں کھولنا چاہیے۔ قبر میں اترتے وقت آداب کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ ﷺ کی صاحبزادی کو دفن کرنے کے وقت حاضر تھا۔ رسول اللہ قبر کے پاس بیٹھے ہوتے تھے۔ میں نے آپکو دونوں آنکھوں کو دیکھا ان سے آنسو بہ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا تم سے کوئی ہے جس نے آج رات اپنی بیوی سے صحبت نہ کی۔ ابو طلحہ نے کہا میں ہوں۔ آپ نے فرمایا تو قبر میں اتریں وہ اترے۔ (صحیح بخاری)

اس حدیث پاک سے یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ قبر میں پاکیزہ اور متقی پرہیزگار آدمی کا اترنا زیادہ موزوں ہے۔

۶۔ عورت کے لیے پردہ کرنا: عورت کی میت کو قبر میں رکھتے وقت پردہ کرنا چاہیے اور پھر قبر میں لٹا کر قبلہ رخ کر کے کفن کو سر کی طرف سے کھول دینا چاہیے۔ جب لحد کو اوپر سے ڈھانپ دیا جائے تو پردہ ہٹالینا چاہیے اگر رات کے وقت عورت کو دفن کیا جائے تو پھر پردہ کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ رات کی تاریکی ہی پردے کام کام دے جاتی ہے۔

۷۔ قبر پر مٹی ڈالنا: حاضرین جنازہ میں سے ہر ایک کے لیے مستحب ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں سے لپ بھر مٹی تین بار قبر کے اوپر ڈالیں کیونکہ قبر پر تین بار دونوں ہاتھوں سے مٹی ڈالنا نبی اکرم ﷺ کے طریقوں میں سے ہے۔ مٹی ڈالنے کی ابتداء سر ہانے کی طرف دے کر کرنی چاہیے اور مٹی ڈالتے وقت پہلی بار **مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ** دوسری پر **فِيهَا نُعِيدُكُمْ** اور تیسری ہر **وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى** کہنا چاہیے۔ اس کے بعد مٹی ڈال کر قبر کو بند کر دینا چاہیے۔ قبر پر مٹی ڈالنے کا جواز نبی اکرم ﷺ کی یہ حدیث ہے:

حضرت جعفر بن محمد اپنے باپ سے مرسل روایت کرتے ہیں بیشک نبی ﷺ نے تین لپیں دونوں ہاتھوں سے بھر کر مٹی کی قبر پر ڈالیں اور اپنے بیٹے ابراہیم کی قبر پر پانی چھڑکا اور اس پر سنگریزے رکھے۔ (شرح السنہ)

قبر کو ایک بالشت اونچا رکھنا مستحب ہے اور مٹی کی اونچائی کو اونٹ کی کوبان کی طرح ابھرا ہوا رکھنا چاہیے کیونکہ چھٹی قبر بنانا مکروہ ہے قبر پر مٹی سے لپائی کرنا جائز ہے۔

۸۔ دفن کے بعد قبر پر پانی چھڑکنا: دفن کرنے کے بعد قبر پر پانی چھڑکنا مستحب ہے نبی اکرم ﷺ کو دفن کرنے کے بعد آپکی قبر مبارک پر پانی چھڑکا گیا اور اس کا ثبوت آپ کی درج ذیل حدیث ہے۔

حضرت جابر سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ کی قبر مبارک پر پانی چھڑکا گیا اور بلال بن رباح نے پانی کے مشکیزہ کے ساتھ پانی چھڑکا انہوں نے سر کی جانب سے شروع کیا اور پاؤں تک پہنچے۔ (بیہقی)

پانی چھڑکنے کا طریقہ یہ کہ سر کی جانب سے چھڑکنا شروع کیا جائے اور پاؤں تک چھڑک

کر ختم کیا جائے کیونکہ نبی اکرم ﷺ کی قبر مبارک پر حضرت بلالؓ نے ایسے ہی پانی چھڑکا تھا۔

۹۔ مردے کی ہڈی توڑنے کی ممانعت: مردے کی بعد کسی مردے کی ہڈی نہ توڑی جائے بلکہ یہاں تک احتیاط کرنی چاہیے کہ قبر کھودتے ہوئے اگر کسی دوسرے مردے کی ہڈی نکل آئے تو اسے کسی جگہ یا قبر ہی میں دبا دیا جائے۔ چونکہ ہڈی توڑنے سے منع کیا گیا ہے۔ اس لیے کہ مردہ کی ہڈی کو توڑنا زندہ کی ہڈی توڑنے کی مانند قرار دیا گیا ہے۔

حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا مردے کی ہڈی کو توڑنا زندہ کی ہڈی کو توڑنے کی مانند ہے۔ (ابن ماجہ)

۱۰۔ قبر پر نشان لگانا: قبر کسی چیز سے یا پتھر سے نشان لگانا جائز ہے تاکہ قبر یاد رہے۔ کیونکہ نبی اکرم ﷺ نے اپنے ایک صحابیؓ کی قبر پر خود پتھر رکھ کر نشان قائم کیا۔

حضرت مطلب بن ابی وداعہ سے روایت ہے کہ جس وقت عثمان بن مظعونؓ فوت ہوئے ان کا جنازہ نکلا اور دفن کیے گئے۔ نبی اکرم ﷺ نے ایک آدمی کو پتھر لانے کا حکم دیا وہ اس کا اٹھانہ سکا۔ رسول اللہ ﷺ اس کی طرف کھڑے ہوئے اپنی استینیں چڑھائیں۔ مطلب نے کہا جس نے مجھ سے حدیث بیان کی اس نے کہا کہ گویا میں آپ کے بازوؤں کی سفیدی کو دیکھ رہا ہوں جس وقت رسول اکرم ﷺ نے استینیں چڑھائیں پھر اس کو اٹھایا اور اس کے سر کے پاس رکھا اور فرمایا میں نے اپنے بھائی کی قبر کا نشان لگایا ہے۔ اور میں اپنے اہل میں سے جو فوت ہوگا اس کے پاس دفن کروں گا۔ (ابوداؤد)

۱۱۔ قبر پر ہری شاخ لگانا: قبر پر ہری شاخ لگانا جائز ہے کیونکہ نبی اکرم ﷺ نے ایک دفعہ کھجور کی ایک تازہ شاخ لی اور درمیان سے اس کے دو حصے کیے اور پھر دو قبروں پر لگا دیا۔ اور فرمایا کہ جب تک یہ ٹہنیاں خشک نہ ہوں گی میت کے عذاب میں تخفیف رہے گی کیونکہ یہ دونوں عذاب میں مبتلا تھے۔ ایک کو پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے اور دوسرے کو چغلی کرنے کی وجہ سے عذاب ہو رہا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ قبر پر کسی درخت کی شاخ وغیرہ لگا دینا جائز ہے۔

۱۲۔ دفن کے بعد قبر پر بیٹھنا: دفن کرنے کے بعد سب لوگوں کو چاہیے کہ کھڑے ہو کر دعا کریں اور اللہ کے حضور میت کی مغفرت کی دعا کریں اور اس کے بعد اگر کوئی

چاہے تو قبر کے قریب بیٹھ جائے اور تلاوت قرآن پاک کرے۔ یا اللہ کا ذکر کرے تاکہ مرنے والے کے سوال و جواب میں آسانی ہو۔ اس کے متعلق نبی کریم ﷺ کی احادیث یہ ہیں

۱۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ میں نے رسول ﷺ سے سنا فرماتے تھے جس وقت کوئی تمھارے ہاں مرے اس کو بند نہ رکھو اور جلد اس کی قبر کی طرف لے جاؤ اور اس کے سر کے پاس سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات اور پاؤں کے پاس سورہ بقرہ کی آخری آیات پڑھی جائیں روایت کیا اس کو بیہوشی نے شعب الایمان میں۔ اور کہا صحیح بات یہ ہے کہ یہ عبداللہ بن عمرؓ ہر موقوف ہے۔

۲۔ حضرت عمرو بن عاصؓ سے روایت ہے اس نے اپنے بیٹے کو کہا جبکہ وہ نزع کی حالت میں تھے جس وقت میں مرجاؤں میرے ساتھ کوئی نوحہ کرنے والی نہ جائے اور نہ آگ جس وقت مجھ کو دفن کرو مجھ پر منی آہستہ ڈالنا۔ پھر میری قبر کے گرد کھڑے رہو اتنا عرصہ کہ اونٹ ذبح کیا جاوے اور اس کا گوشت تقسیم کیا جاوے۔ تاکہ تمھاری وجہ سے میں آرام پکڑوں اور میں جان لوں کہ اپنے رب کے فرشتوں کو کیا جواب دیتا ہوں۔ (مسلم)

۱۳۔ **قبر پر سونے اور بیٹھنے کی ممانعت:** قبر پر بیٹھنا سونا یا پاخانہ پیشاب کرنا حرام ہے۔ قبرستان میں جو نیا راستہ نکالا گیا اس سے گزرنا جائز ہے خواہ دنیا ہو یا اسے معلوم ہو یا اس کا گمان ہو اپنے کسی رشتہ دار کی قبر تک جانا چاہتا ہے۔ مگر قبروں میں سے گزرنا بڑی گاتو وہاں تک جانا منع ہے دور ہی سے فاتحہ پڑھ دے قبرستان میں جوتیاں پہن کر نہ جائے ایک شخص کو حضور ﷺ نے جوتیاں پہنے دیکھا۔ فرمایا جوتیاں اتار دے۔ نہ قبر والے تو ایذا دے نہ وہ تجھے ایذا دیں۔

۱۴۔ **قبر پر تلاوت کرنا جائز ہے:** قبر پر قرآن پڑھنے کے لیے حافظ مقرر کرنا جائز ہے۔ یعنی جبکہ پڑھنے والے اجرت پر نہ پڑھتے ہوں کہ اجرت پر قرآن مجید پڑھنا اور پڑھوانا جائز ہے خود پڑھے تو زیادہ بہتر ہے۔

۱۵۔ **کوئی بابرکت تحریر قبر میں رکھنا یا کلمہ لکھنا** شجرہ یا عہد نامہ قبر میں رکھنا جائز ہے اور بہتر یہ ہے کہ میت کے منہ کے سامنے قبلہ کی جانب طاق کھود کر اس میں رکھیں۔ بلکہ درمختار میں کفن پر عہد نامہ لکھنے کو جائز کہا گیا ہے اور فرمایا کہ اس سے

مغفرت کی امید ہے اور میت کے سینہ اور پیشانی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا جائز ہے۔ ایک شخص نے اس کی وصیت کی تھی انتقال کے بعد سینہ اور پیشانی پر بسم اللہ شریف لکھ دی۔ پھر کسی نے انھیں خواب میں دیکھا۔ حال پوچھا کہا جب میں قبر میں رکھا گیا۔ عذاب کے فرشتے آئے۔ فرشتوں نے جب پیشانی پر بسم اللہ شریف دیکھی۔ کہا تو عذاب سے بچ گیا۔ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ پیشانی پر بسم اللہ شریف لکھیں اور سینہ ہر کلمہ طیبہ "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ" مگر نبھانے کے بعد کفن پہنانے سے پیشتر کلمہ کی انگلی سے ناھیں روشنائی سے نہ ناھیں۔

۱۶۔ **تلقین میت:** مردے کو دفن کرنے کے بعد تلقین کرنا مسنون ہے حضرت ابو مروی حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا "جب تم میں سے کوئی مر جائے اور اسے قبر میں دفن کر کے مٹی ڈال دی جائے تو تم میں سے کوئی اس کے سر ہانے کھڑے ہو کر کہے "اے فلاں بن فلاں! بیشک وہ سنتا ہے جو اب نہیں دے سکتا" پھر کہے "فلاں بن فلاں" جب دوسری مرتبہ آواز دے گا تو مردہ اٹھ کر بیٹھ جائے گا پھر تیسری بار بھی اس طرح مخاطب کرے۔ اس وقت میت کہتی ہے "اے خدا کے بندے! اللہ تم پر رحمت نازل فرمائے۔ ہمیں راست دکھاؤ" لیکن تم سن نہیں سکتے "پھر تلقین کہنے والا کہے "تو جس کلمہ پر دنیا سے نکلا تھا اس کو یاد کر۔ تو شہادت دیتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اور تو اللہ کے رب ہونے اسلام کے دین ہونے محمد کے نبی ہونے اور قرآن کے امام ہونے ہر راضی تھا اس وقت منکر تکبیر کہتے ہے کہ اس کو مدلل اور مکمل جواب بتا دیا گیا۔ ہم اس کے پاس بیٹھ کر کیا کریں۔

کسی شخص نے یہ سن کر حضور ﷺ سے عرض کیا۔ یا رسول اللہ اگر کسی شخص کی والدہ کا نام معلوم نہ ہو تو کس طرح اس کا پکاریں؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس کو حضرت حوا کی طرف منسوب کر دے۔ تلقین کرنے والا شخص اگر چاہے تو اس میں یہ بھی اضافہ کر سکتا ہے کہ "تو مسلمانوں کے بھائی ہونے اور کعبہ کے قبلہ ہونے ہر راضی تھا۔" (یعنی تو نے اس کا بھی اقرار کیا تھا) تو اس اضافہ سے کوئی حرج نہیں۔ اس طرح اس تلقین میں دوسرے شعائر اسلام کا ذکر بھی کیا جاسکتا ہے۔

۱۷۔ **زیارت قبور کا سنت طریقہ:** زیادہ قبور کا سنت طریقہ یہ ہے کہ پانچویں جانب سے جا کر میت کے سامنے کھڑا ہو۔ سر ہانے سے نہ آئے کہ میت کے لے باعث تکلیف ہے۔ چونکہ میت کو گردن پھر کر دیکھنا پڑے گا کہ کون آیا ہے۔ پھر یوں کہے:

”أَلَتَدْرِكُكُمْ دَارُ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ وَإِنَّا أَنشَاءَ اللَّهُ بِكُمْ دَارِ حَقُونًا“

(سارم ہو تم پر قوم مومنین! اور ہم بھی انشاء اللہ تم سے متے والے ہیں)

پھر فاتحہ پڑھے اور بیٹھنا چاہے تو اسے فاصدہ بیٹھے جتنے فاصدہ زندگیاں میں بیٹھتا ہے

۱۔ روزہ

رمضان المبارک کے روزے رکھنا اسلام کی اہم عبادات سے ہے اور اسلام کا تیسرا بڑا رکن ہے۔ روزے کو عربی میں صوم کہا جاتا ہے جس کا مطلب رک جانا ہے لیکن شریعت کی اصطلاح میں صوم سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور نفس کی خواہشات کو ترک کیا جائے۔ روزہ فرض عین ہے جو شخص اس کا انکار کرے وہ کافر ہو جائے گا اور جو کسی شرعی عذر کے بغیر رمضان المبارک کے روزے ترک کرے وہ گنہگار ہوگا۔ روزے کی فرضیت کے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ:

اے ایمان والو! تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تا کہ تم پر ہیزار گار بن سکو وہ روزے گنتی کے دن ہیں تو تم سے جو کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو وہ اتنے روزے اور دنوں میں رکھ کر تعداد پوری کرے اور جنہیں روزہ رکھنے کی بالکل طاقت ہی نہ ہو تو وہ روزہ کے بدلہ میں ایک مسکین کو کھانا کھلائیں اور جو اپنی طرف سے زیادہ نیکی کرے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے اور روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ (البقرہ: ۱۷۳)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ
الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن
قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝ أَيَّامًا
مَعْدُودَاتٍ دَفَعْنَا كَانٍ مِّنْكُمْ مَّرِيضًا
أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةً مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ
وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ
طَعَامٍ مِّسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا
فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ
إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ . (البقرہ: ۱۸۴)

مندرجہ بالا آیت کریمہ میں بتایا گیا ہے کہ روزہ اہل ایمان پر فرض ہیں۔ یعنی جس طرح نماز کا فریضہ ایمان لانے کے بعد عائد ہوتا ہے ایسے ہی روزے ہر مسلمان عاقل بالغ ہر شخص میں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی غیر مذہب روزہ رکھے تو اسے اجر نہیں ملے گا۔ کیونکہ اجر صرف صاحب ایمان روزہ دار کو ملے گا لہذا کسی غیر مسلم کو روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔

جیسا کہ فرمایا گیا ہے کہ روزے مسلمان پر ایسے ہی فرض کیے گئے ہیں جس طرح پہلی آیت پر فرض کیے گئے تھے۔ یہ بہت ہی قدیم ترین عبادت ہے جس کی ابتداء حضرت آدم علیہ السلام پر ہوئی۔

اسلام سے ہوئی اور اس کی تکمیل و انتہا سرور کائنات پر ہوئی۔ اس بنا پر حضرت آدم علیہ السلام زمانہ سے لیکر آخری کتاب قرآن حکیم تک ہر آسمانی کتاب و شریعت میں روزہ کو ایک خاص امتیازی اور بنیادی عبادت کا مقام دیا گیا ہے۔ حضرت آدم ہر ماہ کے ایام بیض میں تین روز رکھتے۔ شریعت نوحی میں بھی ہر ماہ کے یہی تین روزے فرض تھے شریعت موسوی میں رمضان علاوہ ہفتہ اور عاشورہ محرم کے روزے بھی فرض تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں بھی روزے فرض تھے لیکن انہوں نے سردیوں کے موسم میں جبکہ دن چھوٹے ہوتے ہیں روزے رکھنے کو مخصوص کر رکھا تھا مگر اسلام نے اس عظیم الشان عبادت کو رضائے الہی کے تابع کر کے عبادت میں مزید اطاعت الہی اور حسن پیدا کیا۔

رمضان المبارک کے روزے ۲۷ھ میں فرض ہوئے اس سے پیشتر عاشورہ یعنی دس محرم کا روزہ فرض تھا پھر اس کے بجائے ہر مہینہ کے تین یوم یعنی تیرھویں، چودھویں اور پندرھویں کے روزے فرض ہوئے جنہیں ایام بیض کے روزے کہتے ہیں۔ پھر ان کے بجائے رمضان کے روزے فرض ہوئے لیکن اختیار دیا گیا تھا کہ اگر روزہ نہ رکھے تو ہر روزہ کے فدیہ میں کسی مسکین کو نصف صاع گندم یا ایک صاع جو ادا کرے۔ پھر بھی روزہ رکھنا بہتر قرار دیا تھا۔ کچھ زمانے کے بعد یہ اختیار منسوخ ہوا اور روزہ رکھنا لازم قرار دے دیا گیا مگر اس طرح کہ دن اور رات دونوں میں روزہ ہے۔ صرف غروب آفتاب سے نماز پڑھنے یا سونے تک کھانے پینے اور بیوی سے ہم بستر ہونے کی اجازت نہ تھی۔ اگر عشاء سے پہلے آدمی سو جاتا تو اسی وقت یہ تینوں باتیں حرام ہو جاتیں دو واقعے ایسے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے رات میں کھانے پینے اور بیوی کے پاس جانے کو جائز قرار دے دیا۔

پہلا واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروقؓ بعد نماز عشاء اپنے مکان پر پہنچے تو محسوس ہوئی جس سے قلب میں انبساط اور قوی میں انتشار پیدا ہوا۔ اہلیہ محترم سے ہم بستر گئے۔ فارغ ہونے کے بعد عدول حکمی کے احساس سے طبیعت متاثر ہوئی اپنے نفس پر ملامت کرنے لگے اور روتے ہوئے بارگاہ شفیع المدینین میں حاضر ہوئے۔ واقعہ عرض کیا۔ یہ سن کر مجھ میں کچھ اور حضرات بھی کھڑے ہوئے اور معذرت پیش کرنے لگے جن سے اس قسم کا ارتکاب تھا اس پر وحی نازل ہوئی اور پوری شب میں ہم بستر ہونا حلال فرما دیا گیا۔

دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ قیس بن مرصہ انصاریؓ روزہ سے تھے یہ مدینہ شریف کے باغ

میں مزدوری کرتے تھے۔ شام کو کچھ کھجوریں لے کر مکان پر آئے۔ اور اہلیہ سے کہا کہ ان کے بدلے میں کسی سے آٹا لے لو۔ وہ پڑوس میں آٹا بدلنے گئیں۔ یہ ہارے تھکے تھے ہی۔ لیٹتے ہی فوراً آنکھ لگی اور سو گئے۔ جب بیوی واپس آئیں انھیں سوتا دیکھ کر افسوس کرنے لگیں اور کہا نامراد رہے۔ کسی طرح رات گزری صبح ہوئی مگر ان کی حالت درست رہی۔ جب دوپہر ہوئی تو بیہوش ہو گئے رحمت عالم ﷺ کی خدمت یہ واقعہ بیان کیا گیا۔ وحی آئی اور غروب آفتاب سے آخر شب تک کھانا پینا حلال کر دیا گیا۔

۲۔ فضیلت رمضان المبارک

رمضان المبارک کے روزے بے پناہ فضیلت اور عظمت کے حامل ہیں کیونکہ روزہ کے بیشمار دینی و دنیوی فوائد اور حکمتیں ہیں اور بے شمار رموز و اسرار روزہ دار کو حاصل ہوتے ہیں۔ حضور نے روزہ کی برکات و فیوض کے پیش نظر روزہ رکھنے کی بہت ترغیب دی ہے۔ رمضان المبارک کی فضیلت کے بارے میں حضور ﷺ کے ارشاد عالیہ حسب ذیل ہیں:

۱۔ حدیث: حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے رمضان المبارک کی آمد پر ماہ شعبان کے آخری دن وعظ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا ”اے لوگو! تمہارے پاس ایک نہایت پر عظمت اور بابرکت مہینہ تشریف لا رہا ہے۔ اس میں ایک ایسی رات ہے جو ہزار مہینوں سے افضل ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے تم ہر فرض کیے ہیں اور اس کی راتوں میں نماز (تراویح) پڑھنا سنت قرار دیا ہے۔ جس نے اس میں ایک (نفل) نیکی کی (تو اس کا ثواب اتنا ہے) گویا اس نے کسی دوسرے مہینہ میں ایک فرض ادا کیا اور جس نے ایک فرض ادا کیا (تو اس کا اجر اتنا ہے) جیسے اس نے کسی دوسرے مہینہ میں ستر فرض ادا کیے یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے یہ غریبوں اور محتاجوں کے ساتھ ہمدردی کرنے کا مہینہ ہے اس مہینہ میں مومن کا رزق بڑھایا جاتا ہے اس میں جو شخص کسی روزہ دار کو افطار کرائے اس کی گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے اور اس کو دوزخ سے آزاد کر دیا جاتا ہے اور اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کہ روزہ دار کو ملتا ہے لیکن اس کا ثواب کم نہ ہوگا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہم میں سے ہر شخص تو افطار کرانے کی توفیق نہیں رکھتا تو حضور اکرم ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ یہی ثواب اس شخص کو بھی دے گا جو کسی کو ایک گھونٹ دودھ یا ایک

کھجور یا ایک پیالہ پانی سے روزہ افطار کرائے گا اور جس نے کسی کو پیٹ بھر کھانا کھلایا۔ اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض کوثر سے پانی پلائے گا جس کے بعد اسے جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہ لگے گی یہ وہ مہینہ ہے جس کا پہلا عشرہ سراسر رحمت ہے دوسرا عشرہ بخشش و رحمت کا ہے اور تیسرا عشرہ دوزخ سے آزادی کا ہے۔ جو شخص اس مہینہ میں اپنے غلام (یا ملازم) سے تھوڑا کام لے گا اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا۔ اور اس کو دوزخ سے آزاد فرما دے گا۔ (بیہقی بحوالہ مشکوٰۃ)

۲۔ **حدیث:** حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ بنی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا رمضان المبارک آگیا ہے یہ برکت والا مہینہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے ہیں اس میں آسمانی رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ سرکش شیطانوں کو طوق ڈال کر قید کر دیا جاتا ہے اور اس میں ایک رات ایسی ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے جو اس کی بھلائی سے محروم رہا وہ بلاشبہ محروم ہے (نسائی احمد)

۳۔ **حدیث:** حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا ”جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیطان اور سرکش جنوں کو قید کر دیا جاتا ہے اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور ان سے کوئی دروازہ نہیں کھولا جاتا اور ایک مسابی اعلان کرتا ہے۔ اے خیر کے طلبکار! (نیکیوں کو طرف) متوجہ ہو اور اے شر کے طالب! گناہوں سے باز آ جا اور کچھ لوگ دوزخ سے آزاد ہوتے ہیں اور یہ رمضان المبارک کی ہر رات میں ہوتا ہے۔“ (ترمذی ابن ماجہ)

۴۔ **حدیث:** حضرت اہل بن سعدؓ سے روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا ”کہ جنت کے آٹھ دروازے ہیں ان میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے۔ اس دروازے سے صرف روزہ دار ہی جنت میں داخل ہوں گے جب وہ داخل ہو چکیں گے تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ پھر کوئی شخص اس دروازے سے نہیں گزر سکے گا (بخاری و مسلم) اس باب الریان سے داخل ہونے والوں کو کبھی پیاس کی تکلیف نہ ہوگی۔“ (ترمذی شریف)

۵۔ **حدیث:** حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا ”رمضان المبارک کی خاطر جنت کو سال بھر آراستہ و مزین کیا جاتا ہے جب رمضان کا پہلا دن آتا ہے تو عرش کے نیچے سے ایک (نہایت شہودار) ہوا چلتی ہے جس سے جنتی درختوں

کے پتے ہلنے لگتے ہیں۔ اس وقت حوران جنت عرض کرتی ہیں۔ الہی تو اپنے بندوں سے ہمارے شوہر بناتا کہ ہماری آنکھیں ان سے ٹھنڈی ہوں اور ان کی آنکھیں ہم سے ٹھنڈی ہوں۔ (بیہقی)

۶۔ حدیث: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا آدمی کے ہر نیک عمل کا ثواب دس سے بڑھا کر سات سو تک دیا جاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سوائے روزہ کے۔ کیونکہ وہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود دوں گا۔ دوسری روایت میں ہے ابن آدم کا ہر عمل اس کا اپنا ہوتا ہے لیکن روزہ میرا ہے اور اس کا بدلہ میں ہی دوں گا کیونکہ بندہ اپنی خواہش اور کھانا پینا میری خاطر چھوڑتا ہے۔ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ ایک افطار اور دوسری اپنے رب سے ملنے کے آمد وقت۔ روزہ دار کے منہ کی بوی اللہ تعالیٰ کے نزدیک کستوری سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ (بخاری و مسلم)

۷۔ حدیث: حضرت ابو مسعود غفاریؓ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا ”رمضان المبارک کے مہینہ میں چار کام بہت لازمی ہیں۔ دو کام تو ایسے ہیں جس سے تمہارا پروردگار راضی ہوتا ہے اور دو کام ایسے ہیں جن کے بغیر تم کو چارہ نہیں۔ ان چار میں سے ایک تو کلمہ شہادت کا ورد ہے اور دوسرا کثرت سے استغفار کرنا ہے یہ دونوں عمل اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں تیسرا جنت کو طلب کرنا اور چوتھا دوزخ سے پنا مانگنا ہے۔ یہ دو باتیں ہیں جو تمہارے لیے بہت ہی ضروری ہیں۔ روزہ دار کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میرے حوض سے پلائے گا پھر اس کو جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہ لگے گی۔“ (ابن خریمہ)

۸۔ حدیث: حضرت عبد اللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول ﷺ نے فرمایا روزہ اور قرآن دونوں بندے کے حق میں قیامت کے دن شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا الہی! میری وجہ سے اس بندے نے دن کو کھانا پینا اور خواہشات کو چھوڑ دیا لہذا میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ قرآن پاک کہے گا الہی! میری وجہ سے یہ بندہ نذات کو نہیں سویا، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ تو اللہ تعالیٰ دونوں کی شفاعت قبول فرمائے گا۔ (بیہقی)

۹۔ حدیث: حضرت عبد اللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا ہے ”اللہ تعالیٰ کے نزدیک اعمال سات قسم کے ہیں۔ دو عمل واجب کرنے والے دو کا بدلہ ان کے برابر ہے ایک عمل کا صلہ دس گنا اور ایک عمل کا صلہ سات سو ہے اور ایک عمل ایسا ہے جس کا ثواب

اللہ ہی جانتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ سے اور جو اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملا کہ وہ خالص اس کی عبادت کرتا تھا اس کے لیے جنت واجب ہے اور جو اس حال میں ملا کہ وہ شرک کرتا تھا تو اس کے لیے دوزخ واجب ہے جس نے گناہ کیا اس کو اس کے برابر سزا دی جائے گی جس نے نیکی کا ارادہ کیا مگر عمل نہ کیا اس کو برابر ایک نیکی کا بدلہ دیا جائے گا۔ اور جس نے نیکی کی اسے دس گنا ثواب دیا جائے گا۔ جس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اس کو سات سو کے برابر ثواب عطا ہوگا۔ لیکن روزہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اس کا صلہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔“

۱۰۔ حدیث: حضرت عمرو بن مرہ جہنیؓ سے روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! اگر میں خدا کی واحدیت اور آپ کی رسالت و نبوت کی گواہی دوں اور پانچوں نمازیں پڑھوں زکوٰۃ ادا کروں رمضان کے روزے رکھوں اس کی راتوں میں قیام کروں تو میرا شمار کن لوگوں میں ہوگا۔ آپ نے ارشاد فرمایا: ”تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک صدیقین اور شہداء میں سے ہوگا۔“ (ابن خزیمہ)

۱۱۔ حدیث: حضرت جابر بن عبد اللہؓ سے روایت ہے کہ حضورؐ نے فرمایا کہ میری امت کو رمضان میں پانچ باتیں عطا کی گئی ہیں۔ جو مجھ سے پہلے کسی نبی کی امت کو نہ ملیں:

۱۔ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر کرم سے دیکھتا ہے اور جس پر نظر کرم فرماتا ہے اسے کبھی عذاب نہیں دے گا۔

۲۔ شام کے وقت روزہ داروں کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کستوری سے بھی زیادہ بہتر ہوتی ہے۔

۳۔ ہر دن فرشتے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔

۴۔ اللہ تعالیٰ جنت کو حکم فرماتا ہے کہ میرے بندوں کے لیے خوب تیار اور مزین ہو جا عنقریب وہ دنیا کی تکلیف سے یہاں آ کر آرام پائیں گے۔

۵۔ جب رمضان کی آخری رات ہوتی ہے تو اللہ ان کی سب کی مغفرت فرمادیتا ہے کسی عرض کیا وہ شب قدر ہوتی ہے؟ فرمایا نہیں بلکہ جب کام کرنے والے کام سے فارغ ہوتے ہیں تو اس وقت وہ اپنے کام کی مزدوری پاتے ہیں۔

۱۲۔ حدیث: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ ایک بار نبی اکرمؐ نے تمام لوگوں کو منبر

کے پاس جمع ہونے کا حکم فرمایا سب حاضر ہو گئے تو جب آپؐ منبر کے پہلے زینے پر چڑھے تو فرمایا آمین دوسرے پر چڑھے تو آمین فرمایا تیسرے زینے پر بھی چڑھتے ہوئے آمین فرمایا۔ پھر جب (خطبہ کے بعد) آپؐ منبر سے نیچے تشریف لائے تو صحابہ نے عرض کی 'آج ہم نے آپؐ سے ایسی بات سنی ہے جو پہلے کبھی نہیں سنی آپؐ نے فرمایا جبریل علیہ السلام نے آ کر دعا کی کہ وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو جس نے رمضان پایا اور اپنی مغفرت نہ کرائی تو میں نے آمین کہی جب میں دوسرے درجے پر چڑھا تو جبریل نے کہا وہ شخص (اللہ کی رحمت سے) دور ہو جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے میں نے آمین کہا۔ جب میں تیسرے درجہ پر چڑھا تو جبریل علیہ السلام نے کہا وہ شخص بھی (اللہ کی رحمت سے) دور ہو جس کے ماں باپ دونوں یا ایک پر بڑھاپا آئے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ جائے میں نے آمین کہا۔ (ابن جبان، حکم)

۱۳۔ حدیث: حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ اسلام کے کڑے اور دین کی بنیاد تین چیزیں ہیں جن پر اسلام کی عمارت مضبوط اور قائم کی گئی ہے اور ان میں سے ایک بھی چھوڑے وہ کافر ہے اس کا خون حلال ہے:

۱۔ کلمہ توحید و رسالت کی گواہی دینا۔

۲۔ فرض نماز ادا کرنا۔

۳۔ اور رمضان کے روزے رکھنا۔

دوسری روایت میں ہے جو شخص ان میں سے ایک کو چھوڑ دے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتا ہے اور اس کا فرض و نفل کچھ قبول نہیں۔ (ابویعلیٰ)

۱۴۔ حدیث: نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا، "جس نے رمضان کے ایک دن کا روزہ بلا رخصت و بغیر مرض کے چھوڑ دیا تو زمانہ بھر کا روزہ اس کی قضا نہیں ہو سکتا اگرچہ وہ اتنی مدت روزہ رکھے بھی لے (یعنی رمضان کی فضیلت وہ اب حاصل نہیں کر سکتا)۔" (بخاری شریف)

۳۔ مقاصد روزہ

اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں روزہ کا مقصد لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ کے الفاظ میں بیان فرمایا ہے

یعنی روزہ فرض کرنے کا مقصد تقویٰ پرہیزگاری خدا خونی اور خدا ترسی ہے۔ روزہ ان ہی مقاصد جلیلہ کے حاصل کرنے کی تمیں روزہ ایک سالانہ مشق ہے طلوع فجر سے غروب آفتاب تک کھانے پینے کی وہ چیزیں اور کام جو پورے گیارہ مہینے جائز و حلال تھے اب وہ عارضی اور وقتی طور پر اللہ تعالیٰ کے ایک خاص حکم کے ذریعے بندہ مومن پر آبدی اور مستقل حرام چیزوں کی طرح حرام قرار دی گئی ہیں۔ اب ایک بندہ مومن تو اس حکم الہی کے سامنے سر تسلیم جھکا دیتا ہے بھوک پیاس کی تمام شدتوں کو برداشت کر کے کھانے پینے اور مجامعت سے دور رہتا ہے۔ پورا ایک مہینہ احکام الہی کی اس پابندی کی غرض و غایت اور مقصد صرف یہی ہے کہ بندہ مسلمان اپنی ساری زندگی میں ہر وقت خدا و مصطفیٰ ﷺ کے تابع فرمان رہے اور تمام گناہوں اور نافرمانی والے کاموں سے پرہیز کرتا رہے۔ اس کا نام تقویٰ ہے روزہ رکھنے کا اصل مقصد اور مدعا یہی ہے۔

صوفیائے کرام فرماتے ہیں کہ روزہ تین طرح کا ہے۔ اول عوام کا روزہ دوسرا خواص کا روزہ تیسرا اخص الخواص کا روزہ۔

عوام کا روزہ یہ ہے کہ طلوع فجر سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور مجامعت سے پرہیز کرنا۔ یہ روزہ کا معمولی اور ادنیٰ درجہ ہے۔

خواص کا روزہ یہ ہے کہ کھانے پینے اور جماع سے باز رہنے کے ساتھ ساتھ کان آنکھ زبان ہاتھ پاؤں الغرض سر تا پاؤں تمام اعضائے جسم کو ہر طرح کے گناہوں سے محفوظ رکھنا۔ یعنی کان کو ہر مکروہ آواز ناجائز و بیہودہ بات جھوٹ غیبت اور چغلی کی باتیں سننے سے محفوظ رکھنا آنکھ کو بڑی اور ذکرا الہی سے غافل کرنے والی چیزوں کو دیکھنے سے بند رکھنا زبان کو جھوٹ بولنے کسی کی غیبت کرنے فحش اور گندی بیہودہ باتوں سے پاک رکھنا ہاتھوں کو کسی گناہ و ناجائز کام کی طرف نہ بڑھانا پاؤں کسی معصیت اور برائی والے کام کی طرف نہ اٹھانا۔ پیٹ کو حرام اور مشتبہ رزق سے محفوظ رکھنا اس طرح باقی تمام اعضاء جسم کو ہر طرح کے گناہوں سے باز رکھنا۔ یہ اولیائے کاملین کا روزہ ہے۔

اخص الخواص کا روزہ یہ ہے کہ مذکورہ تمام اوصاف کے ساتھ دل و دماغ تصور و خیال کو بھی ہر طرح کے مذموم اور برے خیالات سے پاک رکھنا حتیٰ کہ دل میں ماسوی اللہ کا خیال تک بھی نہ آنے پائے ایسا روزہ انبیاء کرام صدیقین اور مقربین حق کا ہے۔

سیدنا فاروق اعظمؓ نے حضرت کعب احبار سے پوچھا۔ تقویٰ اور پرہیزگاری کیا چیز ہے انھوں

نے دریافت کیا، کیا آپ کبھی کانٹے والے راستے سے گزرے ہیں؟ جواب دیا۔ ہاں۔ حضرت کعبؓ نے پوچھا پھر کس طرح گزرے؟ فاروق اعظمؓ نے فرمایا، کپڑوں کو کانٹوں میں الجھ کر پھٹ جانے کے ڈر سے سمیٹ کر دامن بچا کر گزرا۔ حضرت کعبؓ نے فرمایا تقویٰ بھی یہی چیز ہے کہ بندہ ہر چھوٹے بڑے گناہ سے خود بچا کر رکھے۔ چھوٹے گناہوں کو معمولی نہ سمجھو کیونکہ یہ اونچے پہاڑ چھوٹے چھوٹے ذروں سے ہی بنے ہیں۔

حضرت سہلؓ فرماتے ہیں تقویٰ اور پرہیزگاری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس جگہ جانے اور حاضر ہونے سے منع کیا ہے وہاں بندہ ہرگز نہ جائے اور جہاں اللہ تعالیٰ نے حاضر رہنے کا حکم دیا ہے وہاں سے بندہ غیر حاضر نہ ہو۔

۲۔ چاند دیکھنے کا احکام

اسلام میں قمری تاریخ کو اسلامی عبادات کے سلسلے میں اختیار کیا گیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے میرے محبوب لوگ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں ان سے فرمادیں کہ یہ لوگوں کے لیے حج اور عبادات کے لیے ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ شریعت میں ہر کام کے لیے چاند کی تاریخ کو اپنایا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر قمری مہینے کے آغاز میں مسلمانوں میں چاند دیکھنے کو سعادت سمجھا جاتا ہے۔ رمضان المبارک کے روزے رکھنے کا بھی تعین چاند پر ہے۔

۱۔ حدیث: روایت ہلال یعنی رمضان اور عید کا چاند دیکھنے کے متعلق نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ رمضان المبارک کا روزہ اس وقت تک نہ رکھو جب تک (۲۹ شعبان) کو چاند نہ دیکھ لو۔ اگر ابرو بادل وغیرہ چھا جانے کی وجہ سے (۲۹ شعبان یا ۲۹ رمضان کو) چاند نظر نہ آئے تو گن کر مہینے کے تیس دن پورے کرو۔ (بخاری)

۲۔ حدیث: حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ ایک اعرابی نے حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا۔ میں نے رمضان کا چاند دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا تو گواہی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں؟ اس نے عرض کیا ہاں! پھر فرمایا تو گواہی دیتا ہے کہ محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اے بلالؓ مدینہ میں اعلان کر دو کہ کل روزہ رکھیں۔ (ترمذی ابو داؤد)

۳۔ **حدیث:** حضرت عائشہ صدیقہؓ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ ماہ شعبان کا اس قدر حساب رکھتے کہ اتنا اور کسی کا حساب نہ فرماتے۔ پھر آپ رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر روزہ رکھتے۔ اور اگر (۲۹ شعبان کو) بادل کی وجہ سے چاند نظر نہ آتا تو (شعبان کے) تیس دن پورے کر کے رمضان کا روزہ رکھتے۔ (ابوداؤد)

۴۔ **حدیث:** حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ لوگوں نے باہم چاند دیکھنا شروع کیا حضور ﷺ کو میں نے خبر دی کہ میں نے چاند دیکھا ہے۔ حضور ﷺ نے بھی روزہ رکھا اور صحابہؓ کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ (ابوداؤد)

رویت ہلال کے متعلق شرعی مسائل مندرجہ ذیل ہیں:

۱۔ **مسئلہ:** شعبان کی ۲۹ تاریخ کو رمضان کا چاند دیکھنے کی کوشش کرنا مسلمانوں پر واجب کفایہ ہے۔ جنتری یا نجوم وغیرہ سے چاند کا حساب لگا کر روزہ رکھنا اور چاند دیکھنے سے بے نیاز ہو جانا ہرگز جائز نہیں۔ حدیث یہ کہ جو لوگ خود اس فن کے ماہر ہوں وہ نیک اور پرہیزگار بھی ہوں ان کو خود بھی اپنے حساب پر عمل کرنا جائز نہیں۔

۲۔ **مسئلہ:** جو شخص رمضان کا چاند اپنی آنکھ سے دیکھ لے اس پر واجب ہے کہ وہ بستی کے لوگوں یا مسلمانوں کے ذمہ دار افراد یا اداروں کو اس کی خبر پہنچائے چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔

۳۔ **مسئلہ:** رویت ہلال یا تو واضح طور پر ہونی چاہیے یا پھر شرعی شہادت سے ثابت ہو یعنی ایسی گواہی جس کو شہر کا معتبر مفتی یا قاضی شرعی قانون شہادت کے تحت قابل قبول قرار دے اس کے علاوہ کسی اور ذریعہ سے رویت ہلال کا ثبوت خلاف سنت اور ناقابل اعتماد ہے لہذا اگر ۲۹ شعبان کو چاند نظر آئے تو شعبان کے تیس دن پورے کر کے رمضان المبارک کا روزہ رکھا جائے اسی طرح اگر ۲۹ رمضان کو چاند نہ نظر آئے اور نہ شرعی شہادت سے ہی چاند کا ثبوت مہیا ہو سکے تو رمضان شریف کے تیس روزے پورے کر کے عید الفطر کی جائے۔

۴۔ **مسئلہ:** ۲۹ شعبان کو اگر مطلع بالکل صاف ہو تو چاند نظر آنے کے لیے ایک کثیر جماعت کی شہادت ضروری ہے اور اگر اس دن مطلع صاف نہ ہو تو رمضان کے چاند کے لیے ایک دیندار پابند شریعت مسلمان مرد یا دو عورتوں کی گواہی قبول کی جائے گی۔ اور عید کا

چاند ہونے کے لیے دوبار اعتبار پابند شریعت مسلمانوں کی گواہی قبول کی گی۔ شک کے دن روزہ رکھنا جائز نہیں۔ شک کا دن وہ ہے جس کے بارے میں یقینی طور پر معلوم نہ ہو کہ یہ رمضان کا پہلا دن ہے۔ یا شعبان کی ۳۰ تاریخ کا دن ہے۔

۵۔ مسئلہ: اگر کچھ لوگ آ کر یہ کہیں کہ فلاں جگہ چاند ہوا۔ بلکہ اگر شہادت بھی دیں فلاں جگہ چاند ہوا یا یہ شہادت دیں کہ فلاں فلاں نے دیکھا بلکہ اگر یہ شہادت دیں کہ فلاں جگہ کے قاضی نے روزہ یا افطار کے لیے لوگوں سے کہا۔ یہ سب طریقے چاند کے ثبوت کے لیے نا کافی ہیں اور اس قسم کی شہادتوں سے چاند کا ثبوت نہ ہو سکے گا (در مختار رد المحتار)

۶۔ مسئلہ: کسی شہر میں چاند نظر آیا اور وہاں سے چند جماعتیں دوسرے شہر میں آئیں اور سب نے خبر دی کی وہاں فلاں دن چاند نظر آیا ہے اور تمام شہر میں یہ بات مشہور ہے اور وہاں کے لوگوں نے چاند نظر آنے کی بنا پر فلاں دن سے روزے شروع کر دے ہیں تو یہاں والوں کے لیے بھی ثبوت ہو گیا۔ (بہار شریعت)

۷۔ مسئلہ: کسی نے اکیلے رمضان یا عید کا چاند دیکھا اور گواہی دی مگر قاضی نے اس کی گواہی قبول نہیں کی تو خود اس شخص پر روزہ رکھنا لازم ہے اگر نہ رکھا یا توڑ ڈالا تو قضا لازم ہے (فتاویٰ عالمگیری)

۸۔ مسئلہ: اگر چاند دکھائی دیا چاہے دوپہر سے پہلے چاہے دوپہر کے بعد بہر حال وہ آنے والی رات کا چاند مانا جائے گا یعنی اب جو رات آئے گی اس سے مہینہ شروع ہوگا مثلاً تیس رمضان کو دن میں چاند نظر آیا تو یہ دن رمضان ہی کا ہے شوال کا نہیں اور روزہ پورا کرنا فرض ہے اور اگر شعبان کی تیسویں تاریخ کو دن میں چاند نظر آ گیا تو یہ دن شعبان ہی کا ہے رمضان کا نہیں لہذا آج کا روزہ فرض نہیں۔ (در مختار رد المحتار)

۹۔ مسئلہ: مارٹیلیفون ریڈیو سے چاند دیکھنا ثابت نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اگر ان خبروں کی ہر طرح صحیح مان لیا جائے۔ پھر بھی یہ محض ایک خبر ہے۔ یہ شہادت نہیں ہے اور محض ایک خبر سے چاند کا ثبوت نہیں ہوتا اور اسی طرح بازاری افواہوں سے اور جنتریوں اور اخباروں میں چھپنے سے بھی چاند نہیں ہو سکتا۔

۱۰۔ مسئلہ: حضرت عبداللہ بن عمر کا بیان ہے کہ نبی اکرم ﷺ جب پہلی رات کا چاند

دیکھتے تو فرماتے:

”اللَّهُ أَكْبَرُ. اللَّهُمَّ أَهْلُهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ
وَالْتَهْنِيقِ لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى رَبَّنَا وَرَبَّكَ اللَّهُ“

۵۔ نیت

روزہ کے لیے نیت فرض ہے بغیر نیت کے روزہ نہیں ہوگا۔ نیت دل کے مضبوط ارادہ کو کہتے ہیں اس لیے زبان سے نیت کے الفاظ کہنا ضروری شرط نہیں بلکہ مستحب اور بہتر ہے نیت کا وقت غروب آفتاب سے صبحی اکبر تک ہے یعنی دوپہر یا زوال سے پہلے تک ہے۔ نیت کے متعلق شرعی مسائل حسب ذیل ہیں:

۱۔ **مسئلہ:** اگر رات یا طلوع فجر سے پہلے نیت کی جائے تو زبان سے نیت کے یہ الفاظ کرنا مستحب ہے۔ وبصوم غد نويت من شهر رمضان۔ میں نے کل ماہ رمضان روزہ رکھنے کی نیت کی۔ اگر دن کی نیت کی جاتے تو اس کے الفاظ یہ ہیں نويت ان اصوم هذا اليوم لله تعالى۔ میں نے اللہ تعالیٰ کے لیے آج دن کا روزہ رکھنے کی نیت کی۔

۲۔ **مسئلہ:** مستحب اور افضل یہ ہے کہ نیت رات یا سحری کھاتے وقت اور طلوع فجر سے پہلے کی جائے۔ سحری کھانا بھی نیت ہے چاہے رمضان کے روزے کی سحری ہو یا کسی اور روزے کی۔ ہاں اگر سحری کھاتے وقت یہ ارادہ کیا کہ صبح کو روزہ نہ رکھوں گا تو یہ سحری کھانا نیت کی بجائے ہوگی۔

۳۔ **مسئلہ:** رمضان المبارک کے ہر روزے کے لیے الگ نیت کرنا ضروری ہے رمضان کے سارے روزوں کے لیے صرف ایک دن نیت کر لینا کافی نہیں ہے۔ ایسے ہی رمضان کے قضا روزوں میں متعین طور پر فرض کی نیت کرنا ضروری ہے۔

۴۔ **مسئلہ:** رمضان کے ادا روزوں میں فرض کہہ کر نیت کرنا ضروری نہیں۔ صرف روزے کی نیت کر لینا کافی ہے البتہ کوئی مریض اگر رمضان کا روزہ رکھے تو وہ فرض کا تعین کرے اس لیے کہ اس پر رمضان کا روزہ فرض نہیں ہے۔ مریض اگر محض روزے کی نیت کرے یا نقلی روزے کی نیت کرے تو اس کا روزہ رمضان کا روزہ نہ ہوگا۔

۵۔ **مسئلہ:** روزہ صبح صادق سے شروع ہوتا ہے اس لیے صبح صادق سے پہلے پہلے دو

سارے کا جائز ہیں جن سے پچنا روزے میں فرض ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ روزے کی نیت کر لینے کے بعد کچھ کھانا پینا وغیرہ جائز نہیں۔ یہ غلط ہے۔ صبح صادق سے پہلے کھانا پینا وغیرہ سب جائز ہے چاہے غروب آفتاب کے بعد ہی دوسرے دن کے روزے کی نیت کر لی ہو۔

۶۔ **مسئلہ:** اگر کوئی شخص شب میں روزہ کی نیت کرنا بھول جائے اور دن میں اس کو یاد آئے تو ان تین قسم کے روزوں میں نصف النہار سے پہلے پہلے تک نیت کر لے درست ہے۔ یعنی غروب آفتاب سے قبل نصف النہار تک کسی وقت بھی نیت کر لے درست ہے۔ کسی نے شب میں یہ ارادہ کیا کہ کل کاروزہ رکھوں گا لیکن پھر صبح ہونے سے پہلے ارادہ بدل دیا اور روزہ نہیں رکھا تو اس صورت میں قضا واجب نہیں۔

۷۔ **مسئلہ:** اگر شب میں کسی وجہ سے روزہ رکھنے کا ارادہ نہ تھا۔ پھر صبح کو بھی روزہ نہ رکھنے ہی کا خیال رہا۔ پھر نصف النہار سے پہلے خیال آیا کہ رمضان کا روزہ چھوڑنا مناسب نہیں اور نیت کر لی تو یہ روزہ درست ہے۔ ہاں اگر صبح میں کچھ کھاپی لیا تھا تو اب نیت کی گنجائش نہیں رہی۔

۸۔ **مسئلہ:** مسافر کے لیے ضروری ہے کہ وہ رمضان میں کسی اور واجب روزے کی نیت نہ کرے۔ رمضان کے فرض روزے کی نیت کرے یا نقلی روزے کی نیت کرے۔ ہر طرح درست ہے۔

۹۔ **مسئلہ:** رمضان کے مہینے میں کسی نے فرض روزے کے بجائے نقلی روزے کی نیت کی۔ اور یہ سوچا کہ فرض روزے کی قضا رکھ لوں گا۔ تب بھی وہ روزہ رمضان ہی کا ہوگا۔ نقلی روزہ نہ ہوگا۔ اس طرح اگر نقلی روزے کے بجائے واجب روزے کی نیت کی تب بھی رمضان ہی کا روزہ ہوا اصولی بات یہ ہے کہ رمضان میں صرف رمضان کا فرض روزہ ہی صحیح ہے کوئی اور روزہ صحیح نہیں۔

۱۰۔ **مسئلہ:** نقلی روزہ نیت کرنے سے واجب ہو جاتا ہے۔ اگر صبح کے وقت یہ نیت کی کہ آج میرا روزہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد روزہ توڑ دیا تو اس روزے کی قضا واجب ہے۔

۶۔ سحری

روزہ رکھنے کی غرض سے صبح صادق سے پہلے جو کچھ کھایا پیا جاتا ہے اسے سحری کہتے ہیں۔ سحری خود بھی سحری کا اہتمام فرماتے اور دوسروں کو بھی کھانے کی تاکید فرماتے سحری کے متعلق

احادیث مصطفیٰ ﷺ حسب ذیل ہیں:

- ۱۔ حدیث: حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ سحری کھاؤ کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ (نسائی۔ ترمذی)
- ۲۔ حدیث: حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا سحری کھانے سے دن کے روزے پر استعانت کرو اور قیلولہ سے رات کے قیام پر استعانت کرو۔ (بیہقی)
- ۳۔ حدیث: حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”اللہ اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔“ (طبرانی)
- ۴۔ حدیث: نسائی باسناد حسن ایک صحابی سے راوی ہیں کہ میں حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور سحری تناول فرما رہے تھے۔ ارشاد فرمایا ”یہ برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی تو اسے نہ چھوڑنا۔“
- ۵۔ حدیث: حضرت سلمان فارسیؓ سے روایت ہے ”رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”تین چیزوں یعنی جماعت، شرید اور سحری میں برکت ہے۔“ (طبرانی)
- ۶۔ حدیث: طبرانی کبیر میں حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا ”تین شخصوں پر کھانے میں انشاء اللہ حساب نہیں۔ رزق حلال سے روزہ رکھنے والا سحری کھانے والا اور سرحد پر گھوڑا باندھنے والا۔“
- ۷۔ حدیث: حضرت ابن خزیمہ عمرو بن عاصؓ سے روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا ”ہمارے اور اہل کتاب کے درمیان روزوں کا فرق سحری کھانے میں ہے“ (ابوداؤد)
- ۸۔ حدیث: حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا ”سحری کا کھانا ہر لحاظ سے برکت ہے اسے نہ چھوڑنا اگرچہ ایک گھونٹ پانی ہی پی لے۔ کیونکہ سحری کھانے والوں پر اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔“

۱۔ مسائل:

- ۱۔ مسئلہ: سحری کھانا سنت ہے اگر اس وقت کوئی چیز کھانے کو دل نہ چاہتا ہو تو ایک آدھ کھجور یا لقمہ یا چند گھونٹ پانی پی لینا چاہیے تاکہ سحری کا ثواب اور برکت حاصل ہو جائے اور

سنت نبوی پر عمل اور اہل سنت نبوی ہر عمل اور اہل کتاب کی مخالفت بھی ہو جائے۔ سحری کھانے میں دیر اور تاخیر کرنا مستحب ہے مگر اتنی دیر بھی نہیں کہ وقت ہی ختم ہونے کا شک پیدا ہو جائے۔ مناسب یہ ہے کہ سحری کا وقت ختم ہونے سے پانچ دس منٹ پہلے کھانے پینے سے فارغ ہو جائے۔

۲۔ **مسئلہ:** سحری کے وقت غسل کرنے کی حاجت ہو اور وقت اتنا ہی باقی ہے کہ سحری کھائی جاسکتی ہے تو ایسی صورت میں نماز جیسا پورا وضو کر کے سحری کھانا پینا جائز ہے۔ سحری سے فراغت کے بعد غسل جلدی کرنا چاہیے۔ اب زیادہ دیر کرنا گناہ ہے۔

۷۔ افطاری

غروب آفتاب پر وہ امور جو روزہ کی وجہ سے ترک تھے انھیں دوبارہ کرنے یعنی کھانے پینے کو افطاری کہا جاتا ہے اسلام میں روزے کو افطار کرنے کا مسنون وقت غروب آفتاب ہے۔

۱۔ احادیث:

۱۔ **حدیث:** حضرت عمرؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”جب رات اس طرف سے آئی شروع ہو اور دن اس طرف سے پلٹنا شروع ہو اور سورج ڈوب جائے تو روزہ دار کے لیے روزہ کھولنے کا وقت ہو گیا۔ اس سے یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ جب سورج غروب ہو جائے اور مشرق کی جانب سے رات کی تاریکی چھانا شروع ہو جائے تو وہ اس بات کی علامت ہے کہ روزہ افطار کیا جائے۔“

۲۔ **حدیث:** حضرت ابو ہریرہؓ روایت ہے کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا ”یہ دین ہمیشہ غالب رہے گا جب تک لوگ افطار جلدی کرتے رہیں گے کیونکہ یہود و نصاریٰ افطار میں تاخیر کرتے ہیں۔“ (ابوداؤد)

۳۔ **حدیث:** حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ مجھے اپنے بندوں میں سے سب سے زیادہ پسند وہ ہے جو افطار میں جلدی کرنے والے ہیں۔“

۴۔ **حدیث:** حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا ”لوگ اس وقت تک

بھلائی پر قائم رہیں گے جب تک افطاری میں جلدی کرتے رہیں گے۔“ (مسلم شریف)

۵۔ حدیث: حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”جب تم میں سے کوئی شخص افطار کرے تو اسے چائے کہ کھجور سے افطار کرے کیونکہ اس میں برکت ہے اور اگر کھجور نہ پائے تو اسے چائے کہ پانی سے افطار کرے کیونکہ وہ پاک ہے۔“ (ترمذی شریف)

۶۔ حدیث: حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نماز سے پہلے تر کھجوروں سے افطار کرتے تھے۔ تر نہ ہو تو چند خشک کھجوروں سے اور اگر یہ بھی نہ ہو تو چند چلو پانی سے افطار فرماتے۔ (ابوداؤد شریف)

۷۔ حدیث: حضرت معاذ بن زہرہؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ جب روزہ افطار کرتے تو فرماتے ”اللهم لك صمت وعلی رزقك افطرت“ (اے اللہ! تیرے ہی لیے میں نے روزہ رکھا اور تیرے ہی رزق پر افطار کیا) (ابوداؤد)

۸۔ حدیث: نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا میں سو رہا تھا کہ دو آدمی مجھے ایک دشوار گزار پہاڑ پر لے گئے۔ جب میں پہاڑ کے درمیان پہنچا تو سخت آوازیں سنائی دیں۔ میرے دریافت کرنے پر ان دو آدمیوں نے بتایا کہ یہ دوزخیوں کی آوازیں ہیں۔ پھر وہ مجھے آگے لے گئے میں نے ایک قوم کو دیکھا جسے النالک یا گیا تھا اور ان کی باجھیں چیری جا رہی تھیں اور ان سے خون بہہ رہا ہے۔ ان دو آدمیوں نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو وقت سے پہلے روزہ افطار کر لیتے تھے۔ (ابن خزیمہ۔ ابن حبان)

۹۔ حدیث: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا ”تین آدمیوں کی دعا رو نہیں کی جاتی۔ (۱) روزہ دار کی افطاری کے وقت (۲) عادل بادشاہ کی (۳) اور مظلوم کی دعا۔“ (ترمذی۔ ابن ماجہ)

۱۰۔ حدیث: حضرت سلمان فارسیؓ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا ہے ”جس نے حلال و پاکیزہ کھانے یا پانی سے کسی کا روزہ افطار کرایا تو فرشتے ماہ رمضان المبارک کے وقتوں میں اس کے لیے بخشش کی دعائیں لگتے ہیں اور جبریل علیہ السلام شب قدر میں اس کی بخشش کی دعائیں لگتے ہیں۔“ (طبرانی)

۱۱۔ حدیث: حضرت ازید بن خالد جہنیؓ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا ”جو شخص

روزہ دار کا روزہ افطار کرائے یا کسی غازی کو سامان جہاد دے تو اسے بھی اتنا ہی اجر و ثواب ملے گا۔“ (نسائی شریف)

۲۔ مسائل:

۱۔ **مسئلہ:** روزہ رقی حلال سے جو میسر ہو اس سے افطار کیا جائے مگر نبی پاک ﷺ کی سنت یہ ہے کہ روزہ کھجور یا پانی سے افطار کیا جائے اور آپ کا بھی یہ طریقہ تھا کہ آپ نمازہ کھجور سے افطار کرتے۔ اگر کھجور نہ ملتی تو چھواروں سے روزہ افطار کر لیتے۔ اگر اتفاق سے یہ بھی ملتے تو پانی کے ایک گھونٹ پی کر روزہ افطار فرماتے۔

۲۔ **مسئلہ:** جب افطار کا صحیح وقت ہو جائے تو اس وقت جلدی روزہ افطاری کرنا چاہیے اور افطاری میں اتنی دیر کرنا کہ ستارے نظر آنے لگیں، یہودیوں کا طریقہ ہے اور اس قدر تاخیر کرنا مکروہ ہے۔

۳۔ **مسئلہ:** روزہ نماز مغرب سے قبل افطار کرنا چاہیے اور کھجور سے کرے تو بہتر ہے روزہ دار عام طور پر روزہ کھجوروں سے افطار کرتے ہیں۔ اگر کھجوریں میسر نہ ہوں تو کسی بھی دوسری چیز سے روزہ افطار کیا جاسکتا ہے جو چیز میسر ہو۔

۸۔ روزہ نہ ٹوٹنے کی صورتیں

چند ایسے کام ہیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا اس کے متعلق رسول اکرم ﷺ کے چند ارشادات حسب ذیل ہیں:

۱۔ **حدیث:** حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا ”جس روزہ دار نے بھول کر کھاپی لیا وہ اپنا روزہ پورا کرے کیونکہ یہ اسے اللہ تعالیٰ نے کھلایا اور پلایا ہے یعنی روزہ مکمل کرے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا“۔ (بخاری)

۲۔ **حدیث:** حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”جس شخص کو خود بخود تے آجائے اس حالت میں کہ وہ روزے سے ہو تو اس پر قضا لازم نہیں اور جو شخص نماز تے کرے اسے چاہیے کہ قضا ادا کرے۔“ (ترمذی، ابوداؤد، ابن ماجہ)

۳۔ **حدیث:** حضرت انسؓ بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی اکرمؐ کی خدمت میں حاضر ہوا

اور اس نے عرض کی کہ میری آنکھوں میں تکلیف ہے۔ کیا میں روزے کی حالت میں سر لگاؤں؟ آپ نے فرمایا ہاں لگا لو۔ (ترمذی شریف)

۴۔ حدیث: حضرت ابو سعید خدریؓ سے روایت ہے کہ نبی اکرمؐ نے ارشاد فرمایا ”تین چیز روزہ نہیں توڑتیں (۱) پچھنے یا سینگی لگوانا (۲) قے آنا (۳) اور احتلام۔“ (ترمذی شریف)

۱۔ مسائل:

۱۔ مسئلہ: بھول کر کھانے پینے اور جماع سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں ایسی صورت میں روزہ یاد آتے ہی فوراً یہ کام ترک کر دینا ضروری ہے اگر روزہ یاد آنے کے بعد بھی کھانے پینے میں مشغول رہا تو اب روزہ ٹوٹ گیا اور اس روزہ کی صرف قضا واجب ہے کفارہ لازم نہیں (درمختار)

۲۔ مسئلہ: جب کوئی روزہ دار بھول کر کھاپی رہا ہو تو دیکھنے والے پر اس کو یاد دلا جائے اور واجب ہے اگر یاد نہ دلایا تو وہ گنہگار ہوگا۔ ہاں بعض فقہاء نے کہا ہے اگر وہ روزہ انتہائی کمزور اور لاغر یا ضعیف ہو تو بقدر کفایت کھالینے کے بعد اسے یاد کرائے۔ (بہار شریعت)

۳۔ مسئلہ: دھواں غبار حلق میں جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا خواہ وہ غبار آٹا پیسے وقت پینے والی چکی کا ہو یا آٹا چھاننے کا ہو یا غلے کا ہو۔ اگر خود دھواں قصد اپنے اندر داخل کرے اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جیسا کہ حقہ یا سگریٹ پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کفارہ لازم آتا ہے۔ (درمختار)

۴۔ مسئلہ: تیل لگانے یا سرمہ لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا اگرچہ کسی بنا پر تیل یا سرمہ کا حلق میں محسوس ہوتا ہو بلکہ تھوک میں سرمے کا رنگ بھی اگر دکھائی دے تو پھر بھی نہیں ٹوٹتا ایسے سنگی لگوانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ پھول یا عطر وغیر کی خوشبو سونگھنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔

۵۔ مسئلہ: غسل کیا اور پانی کی خشکی اندر محسوس ہوئی یا کلی کی اور پانی بالکل باہر پھینک صرف کچھ تری منہ میں رہ گئی تھی۔ تھوک کے ساتھ اسے نکل گیا یا دو کوئی اور حلق میں اس مزہ محسوس ہوا یا ہڑچوسی اور تھوک نکل گیا مگر تھوک کے ساتھ ہڑکا کوئی جز حلق میں نہ پہنچا۔ کان میں پانی چلا گیا یا تنکے سے کان کجھایا اور اس پر کان کا میل لگ گیا۔ پھر وہی لگا ہوا تنکا منہ میں ڈالا۔ اگرچہ چند بار کیا ہو یا دانت یا منہ میں خفیف چیز بے معلوم سی رہ گئی کہ لعاب کے ساتھ خود ہی اتر جائے گی اور وہ اتر گئی یا دانتوں سے خون نکل کر حلق تک پہنچا مگر حلق سے نہ اترتا تو ان سب صورتوں میں روزہ نہ گیا۔ (درمختار۔ فتح القدیر)

۶۔ **مسئلہ:** جنابت کی حالت میں صبح کی بلکہ سارا دن جب رہا تو بھی روزہ نہ گیا مگر انتی ویرتک قصداً غسل نہ کرنا کہ نماز قضا ہو جائے گناہ و حرام ہے۔ حدیث میں ہے کہ جب جس گھر میں ہو اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ (در مختار)

۷۔ **مسئلہ:** احتلام ہوایا غیبت کی تو روزہ نہ گیا۔ اگر چہ غیبت سخت کبیرہ گناہ ہے۔ قرآن مجید میں غیبت کرنے کی نسبت فرمایا کہ جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ اور حدیث میں فرمایا غیبت زنا سے بھی بدتر ہے اگر چہ غیبت کی وجہ سے روزہ کی نورانیت جاتی رہتی ہے۔ (در مختار)

۹۔ روزہ ٹوٹنے کی صورتیں

چند صورتیں ایسی ہیں جن میں بغیر ارادے کے خود بخود ٹوٹ جاتا ہے یا کوئی دوسرا زبردستی روزہ ٹوڑا دیتا ہے ان حالات میں روز دار کو بعد میں صرف ٹوٹے ہوئے روزے کے بدلے میں روزہ رکھنا ضروری ہے جسے قضا کہا جاتا ہے۔ حسب ذیل صورتوں میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن صرف قضا فرض ہے۔

۱۔ مسائل:

۱۔ **مسئلہ:** کسی نے روزے میں بھولے سے کھاپی لیا اور پھر یہ سمجھ کر کہ روزہ ٹوٹ ہی گیا ہے قصداً کچھ کھاپی لیا تو روزہ جاتا رہا اور قضا واجب ہے کفارہ نہیں ایسے ہی بھول کر جماع کر لینے یا صرف شہوت کی نظر سے دیکھنے کی صورت میں انزال ہو جانے یا دن کو سوتے ہوئے احتلام ہو جانے یا خود بخود تے آنے کے بعد روزہ دار نے یہ سمجھ لیا کہ روزہ ٹوٹ گیا پھر قصداً کھاپی لیا تو اس روزہ کی بھی قضا واجب ہے ایسے ہی روزے میں کسی نے قصداً پھر تے کی تو روزہ جاتا رہا اور قضا واجب ہے۔

۲۔ **مسئلہ:** کسی نے روزہ دار کو زبردستی کچھ کھلا پلا دیا تو صرف قضا واجب ہے ایسے ہی اگر کسی نے زبردستی کسی خاتون کے ساتھ جنسی فعل کیا تو غافل سو رہی تھی یا بے ہوش تھی اور کسی نے اس سے جنسی لذت حاصل کی تو خاتون پر صرف قضا واجب ہوگی۔

۳۔ **مسئلہ:** حقہ سگریٹ بیڑی نیرہ پینے پان چبانے اگر چہ حلق سے نیچے نہ اترے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایسے ہی اگر بتی وغیرہ یا کسی اور چیز کا دھوان قصداً ناک میں کھینچنے سے بھی

روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا واجب ہوگی۔

۴۔ **مسئلہ:** دانتوں کے خون نکلا اور حلق سے نیچے اتر گیا۔ اگر اس میں تھوک کم زیادہ ہو تو روزہ نہیں ٹوٹتا اور اگر خون زیادہ ہو تو روزہ جاتا رہا۔ سر میں دماغ کی جھلی تک یا پیٹ میں معدہ کے منہ تک گہرا زخم ہو تو ایسی صورت میں اگر دو انگلی اور وہ دماغ یا معدہ کے اندر پہنچ گئی تو روزہ ٹوٹ گیا اور اس کی قضا فرض ہے۔ اگر انجکشن کے ذریعے دو معدہ یا دماغ کے اندر پہنچی تو روزہ فاسد ہو جائے گا اس لیے روزہ کی حالت میں ٹیکہ (انجکشن) نہ لگوا یا جائے۔

۵۔ **مسئلہ:** بیوی کو گلے لگانے بوسہ لینے اور بدن کو چھونے وغیرہ کی صورت میں انزال ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے بشرطیکہ روزہ یاد ہو اور اس کی صرف قضا واجب ہے یا بھول کر جماع میں مشغول تھا۔ پھر روزہ یاد آ جانے میں فوراً جدا نہ ہونے سے بھی فاسد ہو جاتا ہے اور اس کی قضا واجب ہے۔

۶۔ **مسئلہ:** کسی کی آنکھ دیر میں کھلی اور یہ سمجھ کر کہ ابھی سحری کا وقت باقی ہے کچھ کاپی لیا پھر معلوم ہوا کہ صبح ہو چکی تھی تو اس روزے کی قضا رکھنا واجب ہے ایسے ہی اگر کسی شخص نے سورج ڈوبنے سے پہلے ہی یہ سمجھ لیا کہ سورج ڈوب گیا ہے افطار کر لیا تو قضا واجب ہے۔

۷۔ **مسئلہ:** روزے میں کسی کے منہ میں آنسو یا پسینے کے قطرے چلے گئے اور پورے منہ میں اس کی نمکینی محسوس ہوئی اور وہ ان قطروں کو نگل گیا تو روزہ جاتا رہا قضا لازم ہے۔

۸۔ **مسئلہ:** مسواک کرتے ہوئے یا یونہی مسوڑھے وغیرہ سے خون نکلا اور روزہ میں تھوک کے ساتھ نگل لیا تو روزہ ٹوٹ گیا قضا واجب ہے ہاں اگر خون تھوک کی مقدار سے کم ہے اور حلق میں محسوس نہیں ہو رہا ہے تو روزہ نہیں جائے گا۔

۱۰۔ قضا اور کفارہ

بعض صورتیں ایسی ہیں کہ اگر ان میں روزہ توڑا جائے تو اس کے بدلے میں رمضان المبارک کے بعد روزہ رکھنا ضروری ہے اور کفارہ بھی دینا واجب ہے:

۱۔ **مسئلہ:** مسلمان عاقل بالغ مقیم نے رمضان المبارک میں گربانیت عبادت روزہ رکھ کر بلا عذر شرعی قضا توڑ دیا تو اس پر روزے کی قضا اور کفارہ دونوں فرض ہیں۔ روزہ کی

حالت میں جان بوجھ کر کھانے پینے جماع کرنے حقہ سگریٹ وغیرہ پینے سے روزہ کی قضا اور کفارہ فرض ہے۔

۲۔ **مسئلہ:** کسی نے جذبات سے مغلوب ہو کر جنسی فعل کا ارتکاب کیا چاہے وہ مرد ہو یا عورت یا مرد نے لواطت کی تو قضا اور کفارہ واجب ہے۔

۳۔ **مسئلہ:** کسی خاتون نے مرد سے ہمبستری کی اور عضو کا سر اندر داخل ہو گیا تو چاہے منی کا خروج ہو یا نہ ہو ہر حال میں قضا واجب ہے اور کفارہ بھی واجب ہے۔ کسی نادان عورت سے ہمبستری کی اور اس کے پچھلے حصے میں سر داخل کر دیا تو دونوں کا روزہ فاسد ہو گیا۔ قضا بھی واجب ہے اور کفارہ بھی۔ ایسے ہی خاتون غافل سورہی تھی یا بے ہوش پڑھی ہوئی تھی اور مرد نے اس سے جنسی لذت حاصل کی تو مرد پر قضا بھی واجب ہے اور کفارہ بھی۔

۴۔ **مسئلہ:** کسی نے ایسی کوئی چیز کھاپی لی جو کھانے پینے کے استعمال میں آتی ہے یا ایسی چیز کھائی جو کھانے پینے میں استعمال نہیں کی جاتی لیکن دوا کے طور پر کھاپی لی کہ اس سے فائدہ ہوگا۔ تو روزہ جاتا رہا اور اس پر قضا اور کفارہ دونوں واجب ہیں۔

۵۔ **مسئلہ:** کوئی ایسا فعل کیا جس سے روزہ کے افطار کا گمان نہ ہوتا ہو یعنی روزہ فاسد نہ ہوتا ہو لیکن روزہ دار نے یہ گمان کر لیا کہ روزہ ٹوٹ گیا۔ اس کے بعد اس نے قصداً کھاپی لیا تو ایسی صورت میں بھی روزہ کی قضا اور کفارہ لازم ہے مثلاً سنگی لگوائی یا آنکھ میں سرمہ لگایا یا عورت سے بوس و کنارہ کیا بشرطیکہ انزال نہ ہو تو روزہ دار نے یہ گمان کر لیا کہ روزہ نہیں رہا۔ حالانکہ ایسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا۔ پھر اس نے قصداً کھاپی لیا تو اب اس پر قضا اور کفارہ دونوں فرض ہیں۔

۶۔ **مسئلہ:** کفارہ اسی روزہ کا لازم ہے جس کی نیت صبح صادق سے پہلے یعنی رات میں کی ہو۔ اگر اس روزہ کی نیت دن میں کی ہو تو اس کی صرف قضا فرض ہے۔ اسی طرح کفارہ لازم ہونے کے لیے یہ بھی ضروری شرط ہے کہ روزہ توڑنے کے بعد کوئی ایسا ”غیر اختیاری“ شرعی عذر پیدا نہ ہو جس سے روزہ نہ رکھنے کی رخصت و اجازت ہے مثلاً عورت کو اسی دن حیض و نفاس آ گیا یا روزہ توڑنے کے بعد اسی دن شدید بیمار ہو گیا کہ جس میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے تو ایسی حالت میں بھی کفارہ لازم نہیں بلکہ صرف قضا فرض ہے۔ سفر سے کفارہ

ساقط نہیں ہوگا کیونکہ یہ اختیاری عذر ہے۔

۷۔ **مسئلہ:** روزہ رکھ کر پھر بلا عذر شرعی توڑ دینا سخت گناہ ہے۔ ہاں اگر روزے دار ایسا شدید بیمار ہو جائے کی روزہ نہ توڑنے کی صورت میں موت واقع ہو جانے یا بیماری کی زیادہ بڑھ جانے کا قوی احتمال ہو یا اتنی شدید بھوک اور پیاس لگے کہ جان جانے کا خطرہ پیدا ہو جائے تو ایسی صورت میں روزہ توڑ دینا بالکل جائز بلکہ واجب ہے اور پھر تندرست ہو جانے پر اس روزہ کی صرف تفسلاً لازم ہے۔

کفارہ: قصداً روزہ توڑنے کا کفارہ تین طرح سے ادا ہوتا ہے اول غلام باندی آزاد کرنا یہ تو آج کل میسر ہی نہیں۔ دوم پے در پے ساٹھ روزے رکھنا سوم اگر روزے نہ رکھے جاسکیں تو پھر ساٹھ مسکینوں کو صبح و شام پیٹ بھر کا کھانا کھلانا۔ اگر کفارہ روزوں کی صورت میں ادا کرنا ہو تو ضروری ہے کہ پے در پے ساٹھ روزے بلا ناغہ رکھے جائیں۔ اگر درمیان میں ایک روزہ بھی چھوڑ گیا تو پھر نئے سرے سے ساٹھ روزے رکھنے ہوں گے ہاں عورت کے حیض کے دنوں میں جتنے روزے چھوٹ جائیں وہ شمار نہیں ہوں گے بلکہ وہ حیض کے پہلے اور بعد والے روزے ملا کر ساٹھ روزے پورے کرنے کفارہ ادا ہو جائے گا۔

کفارے کے روزے رکھنے کے دوران اگر نفاس کا زمانہ آجائے تو اس سے بھی کفارے کا تسلسل ختم ہو جائے گا اور نئے سرے سے پھر دو مہینے کے پورے روزے رکھنا واجب ہوں گے۔

کفارے کے روزوں کے دوران اگر ماہ رمضان آجائے تو پہلے رمضان کے روزے رکھے اور رمضان کے بعد کفارے کے پورے ساٹھ روزے پھر نئے سرے سے رکھے اگر ایک ہی رمضان کے دوران ایک سے زائد روزے فاسد ہو گئے ہوں تو سب کے لیے اک ہی کفارہ واجب ہوگا۔

اگر کسی پر کفارہ واجب ہو اور وہ بھی ادا کرنے نہیں پایا تھا کہ دوسرا واجب ہو گیا۔ تو صرف ایک ہی کفارہ دونوں کے لیے واجب ہوگا۔ چاہے یہ دونوں کفارے دو رمضان کے ہوں بشرطیکہ روزہ فاسد ہونے کی وجہ جنسی فعل نہ ہو۔ جنسی فعل کے سبب جتنے روزے فاسد ہوں ان کا کفارہ الگ الگ ادا کرنا ہوگا۔ چاہے پہلا کفارہ ادا نہ کر پایا ہو۔

ساٹھ محتاجوں میں یہ لحاظ ضروری ہے کہ محتاج پوری عمر کے ہوں اگر بالکل چھوٹی عمر

کے بچوں کو کھلایا تو ان کے بدلے پوری عمر کے محتاجوں کو کھلانا ضروری ہے۔

محتاجوں کو کھانا کھلانے میں اپنے عام معیار کے لحاظ سے کھلائے نہ زیادہ بڑھیا واجب ہے اور نہ یہ صحیح ہے کہ سوکھی روٹی ہی دی جائے۔

اگر مسکینوں کو کھانا کھلانے میں تسلسل نہ رہے تو کوئی مضائقہ نہیں کفارہ صحیح ہو جائے گا کھانا کھلانے کی بجائے غلہ دینا بھی جائز ہے اور یہ بھی جائز ہے کہ قیمت ادا کر دی جائے غلہ فطرانے کی مقدار کے برابر ہونا چاہیے۔

اگر ایک ہی محتاج کو ساٹھ دن تک صبح و شام کھانا دیا تو بھی کفارہ ادا ہو جائے گا یہ صورت بہتر تصور نہیں کی جاتی۔ اس لیے ساٹھ مسکینوں کو بیک وقت کھلانا ہی بہتر ہے

۱۱۔ روزہ توڑنے کی جائز صورتیں

اتفاقی حالات کی بنا پر مندرجہ ذیل صورتوں میں روزہ توڑنا جائز ہے:

۱۔ ایک کوئی زبردست دورہ پڑ گیا یا کوئی ایسی بیماری ہو گئی کہ ان پر بن آئی یا خدا نخواستہ موثر وغیرہ سے کوئی حادثہ ہو گیا یا کسی اونچے مقام سے گر پڑنے کی وجہ سے حالت غیر ہو گئی تو ان تمام صورتوں میں روزہ توڑ دینا جائز ہے۔ اگر کوئی اچانک بیمار پڑ گیا اور یہ اندیشہ تو نہیں ہے کہ جان جاتی رہے گی۔ البتہ یہ اندیشہ ہے کہ اگر روزہ نہ توڑا تو بیماری بہت زیادہ بڑھ جائے گی تو اس صورت میں بھی روزہ توڑنے کی اجازت ہے۔

۲۔ اگر کسی کو ایسی شدت کی بھوک یا پیاس لگی کہ نہ کھانے پینے سے ہلاک ہو جانے کا اندیشہ ہے تب بھی روزہ توڑ دینا درست ہے۔ کسی حاملہ خاتون کو کوئی ایسا حادثہ پیش آ گیا کہ اپنی یا بچے کی جان کا ڈر ہے تو اس صورت میں بھی روزہ توڑ دینے کا اختیار ہے۔ کسی کو سانپ وغیرہ نے کاٹ کھایا اور فوراً دوا وغیرہ کا استعمال ضروری ہے تو روزہ توڑ دینا چاہیے۔

۳۔ کمزوری تو تھی لیکن ہمت کر کے روزہ رکھ لیا دن میں محسوس ہوا کہ اگر روزہ نہ کھولا تو جان پر بن آئے گی یا پھر مرض کا شدید حملہ ہو جائے گا تو اس صورت میں بھی روزہ توڑ دینے کی اجازت ہے۔

۱۲۔ احکام فدیہ

اسلامی شریعت میں ایسے حضرات جن میں روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو ان کو یہ رعایت دی

ہے کہ وہ روزہ نہ رکھنے کے بدلے میں فدیہ ادا کریں۔ کیونکہ بڑھاپے میں عموماً انسان کا جسم لاغر کمزور ہو جاتا ہے جس کی بناء پر روزہ رکھنا مشکل ہو جاتا ہے اور بعض اوقات بیماری کے باعث جسم میں روزے رکھنے کی ہمت نہیں رہتی تو ان حالات میں ان کیلئے ضروری ہے کہ وہ فدیہ کریں۔ ہر روزے کے بدلے میں فدیہ یہ ہے کہ ایک محتاج کو دو وقت کا کھانا کھلانا ہے۔ فدیہ میں غلہ یا اس کی قیمت بھی دی جاسکتی ہے۔ فدیے میں غلے کی مقدار صدقہ فطر کے برابر ہے۔ کسی کے ذمے کچھ قضا کے روزے تھے۔ مرتے وقت اس نے وصیت کی کہ میرا مال میں سے ان کا فدیہ ادا کر دیا جائے۔ اگر ان قضا روزوں کا سارا فدیہ چھوڑے ہوئے آہستہ آہستہ مال کے بقدر ہے تو فدیہ ادا کرنا واجب ہے اور اگر فدیہ کی قیمت زیادہ بن رہی ہے اور تہائی مال کی مقدار کم ہے تب تہائی مال سے زائد فدیہ میں ادا کرنا اسی وقت جائز ہے جب وارث برضا و رغبت اس کی اجازت دیں۔ البتہ اس صورت میں بھی نابالغ وارثوں کی اجازت کا اعتبار نہ ہوگا۔

اگر مرنے والے نے وصیت نہ کی ہو اور وارث بطور خود چھوٹے ہوئے روزوں کا فدیہ ادا کر دیں تب بھی درست ہے اور خدا کی ذات سے توقع ہے کہ وہ فدیہ کو قبول فرمائے۔ روزوں کا مواخذہ نہ فرمائے۔

مرنے والے کی طرف سے اگر وارث روزے رکھ لیں یا اس کی قضا نمازیں پڑھ لیں یہ درست نہیں۔

معمولی سی بیماری کی وجہ سے رمضان کا روزہ قضا کرنا اور یہ خیال کرنا کہ پھر قضا رکھ لیں گے یا فدیہ ادا کر کے یہ سمجھنا کہ روزہ کا حق ادا ہو گیا صحیح نہیں۔ رمضان کا روزہ اسی صورت میں چھوڑے جب واقعی روزہ رکھنے کی سکت نہ ہو۔

۱۳۔ مکروہات روزہ

مکروہات وہ ناپسندیدہ افعال ہیں جن سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا لیکن روزے کا حسن مجروح جاتا ہے اور روزے کے مقاصد صحیح طرح حاصل نہیں ہوتے۔ روزہ میں مکروہ کاموں کے متعلق چند احادیث اور مسائل مندرجہ ذیل ہیں:

۱۔ حدیث: حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد

فرمایا ”جس نے روزہ کی حالت میں بھی بُری باتوں اور برے کاموں کو نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو اس کے ایسے روزہ کی حاجت نہیں جس میں اس نے صرف کھانا پینا چھوڑ ہے۔“

۲۔ حدیث: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ”روزہ ڈھال ہے پر ہے جب تک اسے پھاڑا نہ جائے۔ عرض کیا گیا کس چیز سے پھاڑے گا ارشاد فرمایا جھوٹ یا غیبت سے۔“ (بیہقی، طرانی)

۳۔ حدیث: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا ”جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو اسے چائے کہ شش باتیں نہ کرے نہ کوئی لغو بات کرے اور نہ شور و غیرہ کرے اور اگر اسے کوئی گالی گلوچ وغیرہ دے یا جھگڑا کرے تو وہ اسے کہہ دے کہ میں نے روزہ رکھا ہے۔“ (اس لیے میں تیری گالی کا جواب نہیں دوں گا) (بخاری و مسلم)

۴۔ حدیث: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے ”نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے روزہ دار ایسے ہیں کہ انھیں روزہ میں پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا اور بہت سے رات کے وقت قیام کرنے والے ایسے ہیں کہ انھیں جاگنے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔“ (نسائی، ابن ماجہ)

۱۔ مسائل:

۱۔ مسئلہ: روزے کا معنی و مقصد ہی ہے کہ تمام بُرے کاموں بُری باتوں اور نفسانی خواہشات سے پرہیز کیا جائے۔ لہذا روزے کی حالت میں جھوڑ بولنا، چغلی کرنا، کسی کی غیبت کرنا، گالی گلوچ دینا، نازیبا و گندی باتیں کرنا، چیخنا چلانا، فضول باتیں کرنا، کسی کو ناحق تکلیف پہنچانا، لڑائی جھگڑا کرنا، آتش شطرنج وغیرہ کوئی جائز کھیل کھیلنا، سینما دیکھنا، قصداً غیر محرم عورتوں کو دیکھنا سخت مکروہ و حرام ہے۔ یہ تمام امور روزے کے علاوہ بھی حرام و گناہ ہیں روزے کے حالت میں اور زیادہ حرام اور گناہ کا موجب ہیں۔ ان سے روزے کی نورانیت و ثواب میں کمی پیدا ہو جاتی ہے۔

۲۔ مسئلہ: روزے دار کو نہاتے یا وضو کرتے وقت کلی کرنے اور ناک میں پانی چڑھانے میں قدر مبالغہ کرنا کہ پانی حلق سے نیچے اترنے یا دماغ میں چڑھ جانے کا اندیشہ ہو جائے، مکروہ ہے روزہ کی حالت میں وضو یا غسل میں غرغره کرنا بھی مکروہ ہے۔

۳۔ مسئلہ: ضرورت اور عذر کے بغیر کسی چیز کا صرف زبان سے ذائقہ سے چکھنا یا کوئی

چیز اس طرح چبانا کہ حلق سے نیچے نہ اترے مگر وہ وہ ناجائز ہے۔ روزہ دار کو بیوی سے بوس و کنارہ کرنا گلے لگانا اور اس کے بدن کو چھونا بھی مکروہ ہے ایسی حالت میں اگر انزال ہو گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس روزہ کی قضا واجب ہے۔

۱۴۔ روزہ نہ رکھنے کے شرعی عذر

شریعت نے اپنے سارے احکام میں بندوں کی سہولت اور آسانی کا پورا پورا لحاظ کیا ہے اور کسی معاملے میں بھی ان کو کسی بیجا مشقت اور تنگی میں مبتلا نہیں کیا ہے۔ چنانچہ قرآن حکیم میں روزے کی فرضیت کا اعلان کرتے ہوئے بھی قرآن نے مسافر اور مریض کی معذوری کا لحاظ کیا ہے اور ان کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی ہے۔

جو تم سے بیمار یا سفر میں ہو وہ (ماہ رمضان کے علاوہ) اور دنوں میں روزہ کی تعداد پوری کرے اور جو روزہ رکھنے کی بالکل طاقت نہیں رکھتے وہ فدیہ دیں جو ہر روزہ کے بدلہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ (البقرہ: ۱۸۵)

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ
وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ
طَعَامٌ مِّسْكِينٍ ۗ
(البقرہ: ۱۸۵)

حضرت انس بن مالکؓ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا ”اللہ تعالیٰ نے مسافر سے آدھی نماز معاف فرمادی ہے۔ مسافر دودھ پلانے والی اور حاملہ عورت کو روزہ معاف فرمادیا ہے (کہ ان کو اس وقت روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے مگر بعد میں قضا فرض ہے)۔ (ابوداؤد ترمذی ابن ماجہ)

سفر بیماری حمل بچے کو دودھ پلانا بھوک پیاس کی شدت ضعف اور بڑھاپا خوف ہلاکت جہاد ہوشی جنون اور دیوانگی ایسی معذوریاں ہیں جن میں شریعت نے روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی ہے ان سے متعلقہ مسائل مندرجہ ذیل ہیں:

۱۔ مسئلہ: سفر خواہ کسی بھی غرض کے لیے ہو اور چاہے اس میں ہر طرح کی سہولتیں حاصل ہوں یا مشقتیں برداشت کرنی پڑ رہی ہوں۔ ہر حال میں مسافر کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے البتہ جس سفر میں کوئی خاص مشقت نہ ہو تو مستحب یہی ہے کہ روزہ رکھ لے تاکہ رمضان کی فضیلت و برکت حاصل ہو سکے لیکن مشقت و پریشانی کی صورت میں روزہ نہ رکھنا بہتر ہے۔

۲۔ **مسئلہ:** اگر روزے کی نیت کر لینے کے بعد یا روزہ شروع ہو جانے کے بعد کوئی شخص سفر پر روانہ ہو تو اس دن کا روزہ پورا کرنا ضروری ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی مسافر نصف النہار سے پہلے پہلے مقیم ہو جائے اور اس وقت تک اس نے روزہ کو فاسد کرنے والا کوئی کام نہیں کیا تو اس کے لیے بھی اس دن روزہ رکھنا ضروری ہے۔

۳۔ **مسئلہ:** اگر کوئی مسافر کسی مقام پر کچھ دن قیام کا ارادہ کر لے چاہے پندرہ دن سے کم ہی کا ارادہ کرے تب بھی بہتر ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ ان ایام میں روزہ نہ رکھنا مکروہ ہے اور اگر پندرہ دن قیام کا ارادہ کر لے تو پھر روزہ نہ رکھنا جائز نہیں۔

۴۔ **مسئلہ:** اگر روزہ رکھنے سے کسی بیماری کے پیدا ہو جانے کا اندیشہ ہو یا یہ خیال ہو کہ دوا نہ ملنے کی وجہ سے یا غذا نہ ملنے کی وجہ سے بیماری بڑھ جائے گی۔ یا خیال ہو کہ دیر میں صحت حاصل ہوگی تو ان تمام صورتوں میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے لیکن یہ واضح رہے کہ ایسا خیال کرنے کی کوئی معقول وجہ ضرور ہونی چاہیے مثلاً کوئی نیک ماہر طبیب ہدایت کرے یا اپنا بار بار کا تجربہ ہو یا گمان غالب ہو۔ شخص یونہی وہم و خیال کی بنا پر روزہ ترک کر دینا جائز نہیں۔

۵۔ **مسئلہ:** اگر کسی شخص نے شخص اپنے وہم و خیال سے کہ شاید روزہ رکھنے سے مرض پیدا ہو جائے یا بڑھ جائے نہ خود اس کا کوئی تجربہ ہے اور نہ اس نے کسی ماہر حکیم اور ڈاکٹر ہی سے مشورہ لیا اور روزہ نہیں رکھا تو وہ گنہگار ہوگا اور اس کو کفارہ بھی دینا پڑے گا۔

۶۔ **مسئلہ:** حمل والی کو اگر اپنی جان کا یا اپنے بچہ کی جان کا صحیح اندیشہ ہے تو اجازت ہے کہ اس وقت روزہ نہ رکھے اگر روزہ کی نیت کر لینے کے بعد کسی خاتون کو معلوم ہو کہ حاملہ ہے اور اس کا گمان غالب ہے کہ حمل کی صورت میں روزہ اس کے لیے بہتر نہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس دن کا روزہ پورا کر لے اور بعد کے روزے نہ رکھے۔

۷۔ **مسئلہ:** عورت کو جب حیض و نفاس آ گیا تو روزہ جاتا رہا۔ عورت حیض سے پورے دس دن رات میں فارغ ہوئی تو بہر حال کل کا روزہ رکھے اور کم میں پاک ہوئی تو اگر صبح ہونے کو اتنا وقت ہے کہ نہا کر خفیف سا وقت بچے گا تو بھی روزہ رکھے اگرچہ غسل نہ کیا ہو اور اگر نہا کر فارغ ہونے کے وقت صبح چمکی تو روزہ نہیں۔ حیض و نفاس والی عورت کو اختیار ہے کہ چھپ کر کھائے یا ظاہر روزہ دار کی طرح رہنا اس پر ضروری ہے (جوہر) مگر چھپ کر کھانا بہتر ہے۔

۸۔ **مسئلہ:** دودھ پلانے والی کا اگر یہ خیال غالب ہو کہ روزہ رکھنے سے بچے کو دودھ

پلانے میں نقصان ہوگا یعنی دودھ خشک ہو جائے گا اور بچہ بھوک سے تڑپے گا یا خود ہی اپنے جان کا خطرہ ہے تو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔

۹۔ **مسئلہ:** اگر کوئی شخص بھوک پیاس کی شدت سے اس قدر بیتاب ہو جاتا ہو کہ اس کی جان خطرے میں پڑ جاتی ہو یا عقل میں فتور آتا جاتا ہو تو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔

۱۰۔ **مسئلہ:** ایسا بوڑھا آدمی جس کی عمر ایسی ہوگئی کہ اب روز بروز کمزور ہی ہوتا جائے جب وہ روزہ رکھنے سے عاجز ہو یعنی نہ اب رکھ سکتا ہے نہ آئندہ اس میں اتنی طاقت آنے کی امید ہے کہ روزہ رکھ سکے گا تو اسے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ اور ہر روزے کے بدلے میں صدقہ فطر کی مقدار کسی مسکین کو دے دے (درمختار وغیرہ) بلکہ بہتر ہے کہ بعض اوقات کھانا کھلانا دشوار ہو جاتا ہے۔

۱۱۔ **مسئلہ:** اگر کسی پر بے ہوشی طاری ہو جائے اور کئی دن تک یہی صورت رہے تو اس صورت میں جو روزے رکھے جائیں گے ان کی قضا واجب ہوگی البتہ جس شب میں بیہوشی طاری ہوئی ہے اگر اس دن بیہوشی ہونے والے سے کوئی ایسا فعل سرزد نہیں ہوا ہے جو روزے کو فاسد کرنے والا ہو اور یہ بھی معلوم نہ ہو کہ بے ہوش ہونے والے نے روزے کی نیت تھی یا نہیں تو اس دن اس کا روزہ سمجھا جائے گا۔ اور اس دن کی قضا لازم نہ آئے گی البتہ بقیہ سارے دنوں کی قضا واجب ہوگی۔

۱۲۔ **مسئلہ:** اگر محنت مشقت کی وجہ سے جان ہلاک ہونے کا اندیشہ ہو یا کوئی ظالم مجبور کر رہا ہو کہ اگر تو نے روزہ رکھا تو جان سے مار ڈالوں گا یا شدید مار لگاؤں گا یا کوئی عضو کاٹ لوں گا تو ایسے شخص کے لیے بھی اجازت ہے کہ روزہ نہ رکھے۔

۱۳۔ **مسئلہ:** دشمنان دین سے جہاد کی نیت ہو اور یہ خیال ہو کہ روزہ رکھنے سے کمزور آجائے گی اس صورت میں بھی روزہ نہ رکھنے کا اجازت ہے۔

۱۵۔ اعتکاف

اعتکاف کے لغوی معنی ایک جگہ پر اپنے آپ کو پابند رکھنے روکے رکھنے یا ٹھہرے رہنے کے ہیں۔ قرآن پاک میں یہی لفظ اس معنوں میں استعمال ہوا لیکن شرعی اصطلاح میں سے مراد ایک ایسی عبادت ہے جس میں مسلمان مقررہ مدت کے لیے دنیا سے الگ ہو کر یاد الہی کے لیے مسجد میں بیٹھ جاتا ہے اور یہ عبادت عموماً رمضان المبارک کے آخری عشرے میں کی جاتی ہے۔

اگرچہ ایسی عبادت کے لیے ہر وقت خود کو مسجد میں پابند کیا جاسکتا ہے لیکن عموماً رمضان کے آخری عشرے میں کسی مسجد میں گوشہ نشین ہونے کو اعتکاف کہا جاتا ہے۔

۱۔ حدیث: امام امومنین حضرت عائشہ صدیقہؓ سے روایت ہے کہ رسول اکرمؐ ہمیشہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کیا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے آپؐ کو بلا لیا۔ پھر آپؐ کے بعد آپؐ کی ازواج مطہرات گھروں میں اعتکاف کیا کرتی تھیں (مسلم شریف)

۲۔ حدیث: حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں حضورؐ ہر سال دس دن اعتکاف فرمایا کرتے تھے اور جس سال آپؐ کا وصال ہو اس سال آپؐ نے بیس دن اعتکاف فرمایا۔ (بخاری شریف)

۳۔ حدیث: حضرت امام حسینؓ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان شریف کے آخری دنوں میں اعتکاف کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے دو حج اور دو عمرے ادا کیے۔ (بیہقی)

۴۔ حدیث: حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے اعتکاف والے کے متعلق ارشاد فرمایا۔ وہ گناہوں سے محفوظ رہتا ہے اور اسے اس قدر نیکیوں کا ثواب ملتا ہے گویا اس نے تمام نیکیاں کی ہیں۔ (ابن ماجہ)

۵۔ حدیث: حضرت عائشہ صدیقہؓ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا ”اعتکاف والے پر سنت سے یہ بات لازم ہے کہ وہ نہ تو بیمار کی عیادت کو جائے نہ جنازہ پڑھنے نکلے نہ عورت کو ہاتھ لگائے اور نہ اس سے مباشرت کرے اور وہ ضروری حاجت کے سوا باہر نہیں جاسکتا۔ اعتکاف بغیر روزہ کے نہیں ہوتا اور اسی مسجد میں اعتکاف ہوتا ہے جس میں (مخجگانہ نماز کی) جماعت ہوتی ہو۔“ (ابوداؤد)

۶۔ حدیث: حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں ہوتے تو اپنا سر میرے قریب کر دیتے تو میں بالوں میں کنگھی کرتی اور آپ انسانی چہمت کے علاوہ گھر میں تشریف نہ لاتے۔ (بخاری)

۷۔ حدیث: حضرت ابن عمرؓ روایت ہے کہ جناب عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں نے ایام جاہلیت میں یہ نذر مانی تھی کہ میں ایک رات مسجد حرام میں اعتکاف کروں گا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنی نذر کو چھوڑ کر۔ (مسلم)

۸۔ حدیث: جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے ایک دن کا بھی اعتکاف کیا (یعنی نقلی اعتکاف تو اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ سے تین خندقوں کی مقدار دور کر دے گا۔ (طبرانی، بیہقی)

اعتکاف کے متعلق شرعی مسائل حسب ذیل ہیں:

۱۔ مسئلہ: اعتکاف کے لیے چند چیزوں کا ہونا ضروری ہے جنہیں ارکان اعتکاف کہا جاتا ہے اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو اعتکاف نہ ہوگا۔ لہذا اعتکاف کے ارکان چار ہیں۔

اعتکاف کا پہلا رکن نیت ہے مگر بعض ائمہ نے اسے رکن قرار نہیں دیا بلکہ شرط قرار دیا ہے۔ نیت کو خواہ رکن یا شرط تسلیم کیا جائے بہر کیف یہ اعتکاف کے لیے ضروری ہے۔

اعتکاف کا دوسرا رکن معتکف کا ہونا ضروری ہے کیونکہ جب تک اعتکاف کرنے والا نہیں ہوگا اعتکاف نہیں ہوگا۔

اعتکاف کا تیسرا رکن مسجد کا ہونا ہے کیونکہ مسجد کے بغیر کسی جگہ پر ویسے ہی بیٹھ جانا اعتکاف نہیں کہلاتا۔

اعتکاف کا چوتھا رکن معتکف کا مسجد میں رہنا ہے۔ اگر معتکف دوران اعتکاف مسجد میں نہیں رہتا تو اعتکاف نہیں ہوگا۔

۲۔ مسئلہ: اعتکاف کرنے والے کا مسلمان ہونا۔ کیونکہ اعتکاف صرف مسلمان کی عبادت ہے معتکف کا عاقل ہونا۔ لہذا جس کے ہوش و حواس قائم نہ ہوں اس کا اعتکاف نہیں۔ لہذا دیوانے کا اعتکاف نہیں ہوتا البتہ اگر کوئی اللہ کا دیوانہ ہو تو اس کا معاملہ الگ ہے۔ واجب اور سنت اعتکاف کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے عورت کے اعتکاف کے لیے اس کا حیض سے پاک ہونا ضروری ہے۔ عورتوں کا اعتکاف گھر میں ہوگا۔ مسجد میں نہیں۔ نابالغ جو اچھے بڑے کی تمیز کر سکتا ہو اعتکاف کر سکتا ہے۔

۳۔ مسئلہ: اسلامی عبادت کی جس طرح مختلف قسمیں ہوتی ہیں یعنی فرض واجب سنت اور نفل اسی طرح اعتکاف کی بھی قسمیں ہیں۔ اعتکاف اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض نہیں ہے لیکن صوفیا اور اہل تقویٰ نے سالکان طریقت کے لیے اسے کسپر قرار دیا ہے۔ اسلامی فقہ کی رو سے اعتکاف کی تین قسمیں ہیں:

۱۔ واجب ۲۔ سنت ۳۔ نفل

۴۔ **مسئلہ:** سنت اعتکاف وہ ہے جو نبی اکرم ﷺ کی اتباع میں رمضان المبارک میں کیا جاتا ہے۔ چونکہ نبی اکرم ﷺ نے بذات خود یہ اعتکاف رمضان المبارک فرض ہونے سے آخری دم تک کیا ہے۔ یہ اعتکاف رمضان المبارک سے پہلے دوسرے یا تیسرے عشرے میں کیا جاسکتا ہے۔ لیکن نبی اکرم ﷺ نے رمضان المبارک کے تیسرے عشرے میں اعتکاف کیا ہے اس لیے آخری عشرہ قابل ترجیح ہے۔ یہ اعتکاف بیسویں رمضان کے غروب آفتاب سے قبل شروع ہوتا ہے اور آخری روزے کے افطار تک رہتا ہے چونکہ اس اعتکاف کا آغاز بیسویں روزے کو مغرب سے اتنا پہلے مسجد میں پہنچ جائے کہ غروب آفتاب مسجد میں ہو۔ یہ اعتکاف سنت موکدہ علی الکفایہ ہے یعنی ایک بستی یا محلے میں سے چند افراد یا کوئی ایک شخص اعتکاف کرے تو تمام اہل محلہ کی طرف سے سنت ادا ہو جائے گی۔ اگر کوئی شخص بھی اپنے علاقے سے اعتکاف ادا نہ کرے تو سارے محلے والوں پر ترک سنت کا گناہ ہو گا مگر یہ بات یاد رہے کہ مسجد میں اگر کسی اور علاقے کا آدمی بھی آکر اعتکاف کرے تو پھر بھی یہ سنت اہل علاقہ کی طرف سے ادا ہو جائے گی۔

۵۔ **مسئلہ:** اعتکاف کی لازمی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ اعتکاف مسجد میں کیا جائے پھر مسجد وہ ہونی چاہئے جہاں پر بخگانہ نماز باجماعت ہوتی ہو اگر جامع مسجد ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ لیکن جس مسجد میں پانچوں وقت کی جماعت نہ ہوتی ہو وہاں اعتکاف درست نہیں۔

دوران اعتکاف محکمہ کا مسجد کی حدود میں رہنا ضروری ہے لہذا جس مسجد میں اعتکاف کیا جائے اگر اس کی حدود کا علم ہو تو بہت بہتر ہے اگر علم نہ ہو تو کسی سے مسجد کی حدود معلوم کر لینی چاہئے کیونکہ اعتکاف میں ضروری ہے کہ مسجد کی حدود ہی میں رہا جائے۔

۶۔ **مسئلہ:** محکمہ حضرات ان امور کیلئے مسجد سے نکل سکتے ہیں جن کی شریعت نے اجازت دی ہے ان کے علاوہ کسی اور کام کیلئے نہیں نکل سکتا۔ وہ امور رفع حاجت وضو غسل اور بحالت مجبوری گھر سے ہانا اٹنے کیلئے۔ اس کے علاوہ اگر مسجد جامع نہیں تو نماز جمعہ کیلئے بھی مسجد سے باہر جایا جاسکتا ہے وہ امور جن کیلئے مسجد سے باہر جانا جائز نہیں اور وہ امور جن کیلئے مسجد سے باہر جانا درست ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت سے اخذ کیے گئے ہیں جو حضرت عائشہ سے مروی ہے وہ فرماتی ہیں کہ اعتکاف کرنے والے کیلئے اعتکاف کے معاملے میں سنت یہ ہے کہ وہ نہ مریض کی عیادت کیلئے جائے اور نہ جنازے

میں جائے نہ عورت کو ہاتھ لگائے اور نہ اس کے جسم کے ساتھ جسم مس کرے نہ کسی حاجت کیلئے مسجد سے باہر نکلے بغیر اس حاجت کے کہ جس کیلئے مسجد سے نکلنے کے سوا چارہ نہ ہو۔ مسجد اور روزے کے بغیر کوئی اعتکاف نہیں ہے۔ (ابوداؤد)

۷۔ **مسئلہ:** مسجد سے باہر جانے کا ایک جواز رفع حاجت ہے اگر مسجد کے ساتھ کوئی رفع حاجت کی جگہ ہو تو وہاں تک جاسکتا ہے بعض مساجد کے باہر لیٹرینیں وغیرہ بنی ہوتی ہیں تو معتکف کو وہاں تک جانے کی اجازت ہے اگر مسجد کے ساتھ کوئی رفع حاجت کا انتظام نہیں تو مسجد کے قریب رفع حاجت کیلئے اپنے گھر میں بھی جاسکتا ہے اگر مسجد کے ساتھ والی رفع حاجت کی جگہ اتنی گندی اور پلید ہو کہ جہاں کپڑوں کے صاف رہنے کا احتمال نہ رہ سکتا ہو تو اس صورت میں بھی مسجد کے باہر کسی اور جگہ پر رفع حاجت کیلئے جاسکتا ہے جہاں طہارت کرنے میں جسم اور کپڑے پاکیزہ رہتے ہوں۔

۸۔ **مسئلہ:** اعتکاف میں شوقیہ غسل کی اجازت نہیں یعنی جب انسان کا دل چاہتا ہے نہا لیتا ہے اس طرح اعتکاف میں جائز نہیں۔ خصوصاً گرمیوں میں لوگ دن میں دو تین مرتبہ گرمی کی شدت کو دور کرنے کیلئے اکثر نہاتے ہیں۔ اعتکاف میں اس طرح کا عام غسل جائز نہیں۔ معتکف کو احتلام کی صورت میں غسل کرنا ضروری ہے اور غسل کیلئے مسجد سے باہر جانا جائز ہے مگر یاد رہے کہ احتلام ہونے سے اعتکاف میں کوئی فرق نہیں آتا اس صورت میں معتکف کو چاہئے کہ پہلے وضو یا تیمم کرے۔ اس کے بعد غسل کا انتظام کرے۔ تیمم کیلئے مسجد کی دیوار یا صحن استعمال کیا جاسکتا ہے۔

۹۔ **مسئلہ:** بہتر یہ ہے کہ اعتکاف جامع مسجد میں کیا جائے جہاں نماز جمعہ ہوتی ہو تاکہ نماز جمعہ کیلئے باہر نہ جانا پڑے اس کے برعکس اگر معتکف ایسی مسجد میں اعتکاف بیٹھا ہو جہاں نماز جمعہ نہ ہو تو قریبی مسجد میں جا کر نماز پڑھنے کی اجازت ہے لیکن بہت زیادہ پہلے جانے کی اجازت نہیں۔ صرف جمعہ کی اذان اور خطبہ سے صرف اتنا پہلے جائے کہ چھ یا چار رکعت ادا کر سکے۔

نماز جمعہ کے فرض پڑھنے کے بعد معتکف سنتیں وہاں پڑھ سکتا ہے مگر ضرورت سے زیادہ ٹھہرنا اچھا نہیں۔ اس کے باوجود اگر کوئی معتکف ٹھہر جائے تو پھر بھی اعتکاف فاسد نہ ہوگا کیونکہ وہ مسجد میں ٹھہرا ہے۔

۱۰۔ **مسئلہ:** ہر معتکف کیلئے ضروری ہے کہ اس نے جس مسجد میں اعتکاف شروع کیا ہے

اسی میں پورا کرے لیکن اگر کوئی ایسی شدید مجبوری پیش آ جائے کہ وہاں اعتکاف پورا کرنا ممکن نہ رہے مثلاً وہ مسجد منہدم ہو جائے یا کوئی شخص زبردستی وہاں سے نکال دے یا وہاں رہنے میں جان و مال کا کوئی قوی خطرہ ہو تو دوسری مسجد میں منتقل ہو کر اعتکاف پورا کرنا جائز ہے اور اس غرض کیلئے باہر نکلنے سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ بشرطیکہ وہاں سے نکلنے کے بعد راستے میں کہیں نہ ٹھہرے بلکہ سیدھا دوسری مسجد میں چلا جائے۔ (فتح القدیر)

۱۱۔ مسئلہ: اگر کسی وجہ سے اعتکاف مسنون ٹوٹا ہو اس کا حکم یہ ہے کہ جس دن اعتکاف ٹوٹا صرف اس دن کی قضا واجب ہوگی۔ پورے دس دن کی قضا واجب نہیں (شامی) اور اس ایک دن کی قضا کا طریقہ یہ ہے کہ اگر اسی رمضان میں وقت باقی ہو تو اسی رمضان میں کسی دن غروب آفتاب سے اگلے دن غروب آفتاب تک قضا کی نیت سے اعتکاف کر لیں اور اگر اس رمضان میں وقت باقی نہ ہو یا کسی وجہ سے اس میں اعتکاف ممکن نہ ہو تو رمضان کے علاوہ کسی بھی دن روزہ رکھ کر ایک دن کیلئے اعتکاف کیا جاسکتا ہے اور اگر اگلے رمضان میں قضا کرے تو بھی قضا صحیح ہو جائے گی لیکن زندگی کا کچھ بھروسہ نہیں اس لیے جلد از جلد قضا کرنی چاہئے۔

۱۲۔ مسئلہ: اعتکاف کی تیسری قسم نفلی اعتکاف ہے اس قسم کے اعتکاف کیلئے کوئی مدت مقرر نہیں اور نہ ہی کوئی خاص وقت معین ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ نفلی اعتکاف تھوڑے سے وقت کیلئے بھی ہو سکتا ہے یہ صاحبین کی رائے ہے لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک نفلی اعتکاف ایک دن سے کم نہیں۔ نفلی اعتکاف کیلئے نیت کرنا ضروری ہے۔ نیت کے الفاظ یوں ہیں کہ پہلے بسم اللہ شریف پڑھیں پھر یہ کہیں نیت سنت الاعتکاف یعنی میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ یہ نیت خواہ عربی میں کر لیں یا اپنی زبان میں کر لیں۔ نیت ہو جائے گی۔

نفلی اعتکاف کا طریقہ یہ ہے کہ جب مسجد میں داخل ہوں تو دایاں پاؤں مسجد کے اندر رکھتے ہی اعتکاف کی نیت کر لیں اس کے بعد مسجد میں نماز پڑھیں تلاوت کریں یا جس طرح بھی مصروف عبادت رہیں گے اعتکاف میں رہیں گے۔ اسی طرح دوہرا فائدہ ہوتا ہے ایک طرف تو اصل عبادت ذکر و فکر مذہبی درس و تدریس اور وعظ سننے کا ثواب ملتا ہے اور اس کے ساتھ ہی اعتکاف کا ثواب بھی ملتا ہے اعتکاف کی نیت کرنے سے مسجد میں کھانا پینا اور سونا جائز ہو جاتا ہے۔

۱۳۔ مسئلہ: خواتین کا اعتکاف اپنے گھروں میں ہے۔ گھر میں عموماً جس جگہ نماز ادا کی جاتی ہے وہاں خواتین اعتکاف کریں۔ اگر کوئی مقررہ جگہ نہیں ہے تو گھر میں کسی ایک جگہ کو

مقرر کر کے وہاں اعتکاف کریں۔ مسجد میں عورت کیلئے اعتکاف کرنا جائز نہیں۔ خواتین کی بھی یہی حکم ہے کہ وہ بیسویں روزے کی شام کو جائے اعتکاف پر معتکف ہو جائیں اور آخر روزہ مکمل کر کے جائے۔ اعتکاف سے نکل آئیں بلکہ معتکف خاتون کو اعتکاف میں بیٹھے کر کے کام کاج کرنے کی اجازت نہیں۔ اعتکاف کرنے کیلئے خاتون کو اپنے خاوند سے اجازت لینا ضروری ہے کیونکہ مرد کے حقوق عورت پر مقدم ہیں۔ اعتکاف کے دوران عورت کو حیض یا نفاس شروع ہو جائے تو اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ لہذا جب عورت پاک ہو جائے تو جتنے دن واجب اعتکاف سے رہ گئے ہوں وہ بعد میں پورے کر لے اگر اعتکاف سنت تھا تو اس میں قضا پوری کرنا لازم نہیں اگر قضا پوری کر لی جائے تو بھی بہتر ہے۔ اگر نہ کر سکے تو گناہ بھی نہیں اور نفل اعتکاف کی کوئی قضا نہ ہوگی۔

۱۶۔ شب قدر

شب قدر ایک خیر و برکت والی ایک عظیم الشان رات ہے جو لیلة القدر کے نام سے مشہور ہے۔ اسے لیلة القدر کہنے کی وجہ یہ ہے کہ قدر کے معنی بزرگی کے ہیں اور اس رات کو دیگر راتوں پر بزرگی اور برتری حاصل ہے اس لیے اسے لیلة القدر کہا جاتا ہے اسی قدر اور عظمت کی بنا پر یہ رات سارے رمضان المبارک میں زیادہ فضیلت والی ہے کیونکہ یہ رات مرجع برکات اور پیغام حسنا ہے یہی وہ افضل رات ہے جس کی بدولت اللہ تعالیٰ ہر گنہگار کے گناہ مٹا کر اسے پاکیزہ کر دیتا۔ یہی وہ مقدس رات ہے جس کی شان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:-

بیشک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا اور تمہیں کو معلوم کہ شب قدر کیا ہے۔ شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور جبریل علیہ السلام اپنے اپنے رب کے حکم سے ہر کام کیلئے نازل ہوتے ہیں اس رات میں طلوع فجر تک سلامتی ہے۔ (سورۃ القدر)

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۝
مَا أَذْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۝ لَيْلَةُ
الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ۝ تَنَزَّلُ
الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ
مِنْ كُلِّ امْرٍ سَلَامٌ فَهِيَ حَاشِي
مَطْلَعِ الْفَجْرِ ۝

۱۔ احادیث شب قدر: شب قدر کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ مندرجہ ذیل ہیں:

۱۔ حدیث: حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”جو

آدمی حالت ایمان میں طلبِ ثواب کیلئے شبِ قدر میں قیام کرتا ہے اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں۔ (بخاری شریف)

۲۔ حدیث: حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ کرامؓ کو خواب میں آئی سات راتوں میں لیلۃ القدر دکھائی گئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”میں دیکھتا ہوں کہ تمہارا خواب آخری سات راتوں کے مطابق ہو گیا ہے پس جو شخص لیلۃ القدر کو تلاش کرنا چاہے وہ آخری سات راتوں میں تلاش کرے۔“ (مسلم)

۳۔ حدیث: حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی آخری دس راتوں میں اعتکاف فرماتے اور ارشاد فرماتے ”رمضان کی آخری دس راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔“ (بخاری شریف)

۴۔ حدیث: حضرت عائشہؓ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”لیلۃ القدر کو رمضان شریف کی آخری دس راتوں میں سے طاق راتوں میں تلاش کرو۔“ (بخاری شریف)

۵۔ حدیث: حضرت عبادہؓ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے باہر تشریف لائے تاکہ ہمیں شبِ قدر کی اطلاع فرمادیں مگر دو مسلمانوں میں جھگڑا ہو رہا تھا۔ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ میں اس لیے آیا تھا کہ تمہیں شبِ قدر کی خبر دوں مگر فلاں فلاں شخصوں میں جھگڑا ہو رہا تھا جس کی وجہ سے اس کی تعمین اٹھالی گئی۔ کیا بعید ہے کہ یہ اٹھالینا اللہ کے علم میں بہتر ہو لہذا اب اس رات کو نویں اور ساتویں اور پانچویں رات میں تلاش کرو۔ (بخاری)

۶۔ حدیث: حضرت عبادہؓ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شبِ قدر کے بارے میں دریافت کیا تو آپؐ نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے اخیر عشرہ کی طاق راتوں میں ہے۔ ۲۱-۲۳-۲۵-۲۷-۲۹ یا رمضان کی آخر رات میں جو شخص ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے اس رات میں عبادت کرے۔ اس کے پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں اس رات کی منجملہ اور علامتوں کے یہ ہے کہ وہ رات کھلی ہوئی چمک دار ہوتی ہے۔ صاف شفاف نہ زیادہ گرم نہ زیادہ ٹھنڈی بلکہ متعادل گویا کہ اس میں (انوار کی کثرت کی وجہ سے) چاند کھلا ہوتا ہے۔ اس رات میں صبح تک آسمان کے ستارے شیاطین کو نہیں مارے جاتے۔ نیز اس کی علامتوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس کے بعد کی صبح کو آفتاب بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے۔

ایسا بالکل ہموار نکیہ کی طرح ہوتا ہے جیسا کہ چودھویں رات کا چاند اللہ جل شانہ نے اس دن کے آفتاب کے طلوع کے وقت شیطان کو اس کے ساتھ نکلنے سے روک دیا (بخلاف اور دنوں کے کہ طلوع آفتاب کے وقت شیطان کا اس جگہ ظہور ہوتا ہے)۔ (نیہتی شعب الایمان)

۷۔ **حدیث:** حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو حضورؐ نے فرمایا ”تمہارے اوپر ایک مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ہے جو ہزار مہینوں سے افضل ہے جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا ساری خیر سے محروم رہ گیا اور اس کی بھلائی سے محروم نہیں رہتا مگر وہ شخص جو حقیقتہً محروم ہی ہے۔“ (ابن ماجہ)

۲۔ **شب قدر کون سی رات ہے؟** شب قدر کی تعیین میں علماء کرام میں

اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض علماء کرام اس رات کو سال کے دائرے میں شمار کرتے ہیں کہ کبھی وہ رمضان میں آتی ہے اور کبھی غیر رمضان میں آتی ہے بعض کہتے ہیں کہ یہ رمضان شریف میں آتی ہے اور خاص طور پر اسی کے ساتھ ہے۔ یہاں پر بھی بعض علماء الجھن کا شکار ہیں۔ کہ اگر شب قدر رمضان شریف کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں پوشیدہ ہے۔ ۲۱۔ ۲۳۔ ۲۵۔ ۲۷ اور ۲۹ تاریخ ان تاریخوں میں سے کسی ایک میں بھی شب قدر ہو سکتی ہے اور کسی سال ۲۱ کو آتی ہے تو کسی سال ۲۳ اور کسی سال ۲۵ کو آتی ہے۔ ۲۱ سے لے کر ۲۹ تک کی طاق راتوں میں پھرتی رہتی ہے۔

۳۔ **ستائیسویں رات بحیثیت شب قدر:** ائمہ مجتہدین کے ایک گروہ

نے اپنے خیال کے مطابق رمضان المبارک کی ستائیسویں شب کو لیلۃ القدر قرار دیا اور ان کے خیال کے مطابق ہر سال ستائیسویں رات ہی شب قدر ہوتی ہے۔ حضرت ابی بن کعبؓ ستائیسویں شب کو یقیناً شب قدر کہتے ہیں۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؒ بھی اسی کے قائل تھے اور فرماتے ہیں کہ زیادہ باوثوق ستائیسویں شب ہے حضرت ابن عباسؓ بھی اسی کے قائل تھے۔ اکثر مفسرین اور علماء کرام بھی اسی پر اتفاق رائے کرتے ہیں کہ شب قدر ستائیسویں رات ہی ہوتی ہے۔ حضرت امام ابوحنیفہؒ بھی اسی کے حامی تھے۔

۴۔ **شب قدر کی علامات:** شب قدر صاف شفاف چمکدار اور کھلی ہوتی ہے اس

رات میں نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے اور نہ زیادہ ٹھنڈک بلکہ یہ رات موسم بہار کی راتوں کی مانند ہوتی ہے۔ متعادل اور خوشگوار فضا ہوتی ہے اس رات میں شہاب ثاقب نہیں ٹوٹتے۔ رات کے پچھلے پہر تو بجد کیف و سرور ہوتا ہے آسمانوں کی طرف دیکھنے سے نور زمین کی طرف آتا ہوا معلوم ہوتا

ہے۔ نیز یہ بھی علامت ہے کہ شب قدر کے بعد والی صبح کو سورج میں تیزی نہیں ہوتی۔

اس رات کو رحمت خداوندی کا دنیا والوں پر اتنا نزول ہوتا ہے کہ بیان سے باہر ہے اور ایسی رات میں اہل ایمان کا دل عبادت کرنے کو خواہ مخواہ کرتا ہے ان کی طبیعت قدرتی طور پر عبادت کی طرف کچھ زیادہ ہی راغب ہوتی ہے۔

بعض بزرگوں نے رمضان کی ۷ شب میں سمندر کا پانی چکھا تو میٹھا معلوم ہوا۔ بعض بزرگوں نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ شب قدر میں ہر چیز سجدہ ریز ہو جاتی ہے۔ یہاں تک کہ درخت بھی اس میں سجدہ ریز ہوتے ہیں اور زمین پر گر پڑتے ہیں پھر اپنی جگہ پر آ جاتے ہیں مگر عام لوگوں کی نسبت اہل نظر کو شب قدر کا زیادہ مشاہدہ ہوتا ہے دراصل اس رات کا مزہ اور سرور الفاظ میں کیسے بیان کیا جاسکتا ہے کیونکہ جو بات انسان کے ذاتی تجربے اور مشاہدے میں آتی ہے وہ اوراق میں کیسے پیدا کی جاسکتی ہے۔

اس رات کو عشاء اور فجر کی نماز باجماعت ادا کرنی چاہیے کیونکہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کا ثواب شب بیداری سے زیادہ ہے اس لیے پہلے نماز بعد میں شب بیداری۔

عارفان اور اولیاء کرام کو اللہ کی رحمت سے یہ رات معلوم ہو جاتی ہے کیونکہ اس رات کو وہ اپنی باطنی نگاہ سے عرش معلیٰ سے ایک قسم کا نور کا ظہور دیکھتے ہیں جو آسمانوں اور دنیا والوں پر ظاہر ہوتا ہے جو عام راتوں میں نہیں ہوتا۔ صرف شب قدر کی رات کو نازل ہوتا ہے۔ اللہ کی اس رحمت کے ظہور سے انہیں شب قدر کا علم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ شب قدر میں زمین پر ملائکہ کا نزول ہوتا ہے اور انہیں اپنی باطنی نگاہ سے جب ملائکہ نظر آتے ہیں تو اس سے بھی شب قدر کا علم ہو جاتا ہے۔ باقی جنہیں اللہ تعالیٰ شب قدر کے بارے میں بتانا چاہے بتا دیتا ہے اصل بات تو یہ ہے کہ جو اللہ کا بن گیا اللہ اس کا بن جاتا ہے اور ان کی ہر رات مثل شب قدر ہو جاتی ہے۔

جن لوگوں نے شب قدر دیکھی ہے ان کا کہنا ہے کہ ایک خاص قسم کی روشنی ظاہر ہوتی ہے لیکن اس کا ظہور صرف ان لوگوں پر واضح ہوتا ہے جن پر اللہ ظاہر کرنا چاہے ورنہ ساتھ ساتھ بیٹھے ہوئے دو انسانوں میں سے ایک اس رات جلوہ پا جاتا ہے اور دوسرا محروم رہ جاتا ہے اور وہ جلوہ دیکھ نہیں پاتا۔

۵۔ شب قدر کی عبادت: شب قدر میں عشاء کی نماز اور تراویح پڑھنے کے بعد نوافل پڑھنے چاہئیں اور نوافل اتنے پڑھے کہ جتنے آسمانی بے پڑھے جاسکیں۔ جب تھک جائے

تو پھر بیٹھ کر کثرت سے کرے:

۱۔ چار رکعت نوافل اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ تکوین ایک دفعہ اور سورہ اخلاص تین مرتبہ پڑھے اس کے دو فائدے ہوں گے اول بوقت مرگ سکرات میں آسانی ہو گی۔ دوسرے عذاب قبر سے محفوظ و مامون رہے گا۔ (نزہۃ المجالس ص ۱۱)

۲۔ دو رکعت نماز نفل ادا کرے اس ترکیب سے کہ ہر دو رکعت میں سورہ فاتحہ ایک بار اور سورہ اخلاص سات بار پڑھے۔ دوسری رکعت کے بعد تشہد پڑھے اور سلام پھیرنے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھ کر سات مرتبہ استغفر اللہ کا ورد کرے۔ ابھی جگہ چھوڑنے بھی نہ پائے گا کہ اللہ کی رحمت اس پر اور اس کے والدین پر جلوہ فگن ہو جائے گی۔

چار رکعت نفل نماز اس طرح پڑھی جائے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک بار سورہ القدر اور سورہ اخلاص ستائیس بار پڑھی جائے۔ دوسری نماز یہ ہے کہ چار رکعت نفل اس طرح ادا کیے جائیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت القدر تین بار اور سورت اخلاص پچاس مرتبہ پڑھی جائے پھر سلام کے بعد سجدہ میں جا کر یہ پڑھا جائے۔

سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ۔

اس کے بعد جو دعائیں مانگی جائے انشاء اللہ تعالیٰ قبول ہوگی۔

۶۔ **لیلۃ القدر کا خاص وظیفہ**: ام المؤمنین عائشہ صدیقہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ لیلۃ القدر فلاں رات ہے تو میں اس رات کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا یہ دعا پڑھو:

اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ
فَاعْفُ عَنِّي۔ (ترمذی)

الہی تو گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے درگزر کرنے کو پسند فرماتا ہے میری خطاؤں سے بھی درگزر فرما۔

نوافل اور تلاوت کے بعد ذکر الہی میں مشغول ہو جانا چاہیے اللہ کے ناموں میں سے کسی نام کا وظیفہ پڑھنا چاہیے۔ عام حضرات کیلئے استغفار پڑھنا نہایت ہی اکیسر ہے پھر کچھ وقت کیلئے کلمہ پاک کا ورد بھی کرنا چاہیے اس کے بعد اسم اعظم کا مراقبہ کرنا چاہیے۔ جب اعمال کرتے ہوئے رات کا پچھلا پہر ہو جائے تو اس وقت تہجد کے نوافل ادا کرنے چاہئیں اور اس کے بعد درود پاک

کے ورد میں صبح تک مشغول رہنا چاہیے اور آخر میں دعا مانگنی چاہیے۔

۷۔ ا۔ نفل روزوں کی فضیلت

فرض اور واجب روزوں کے علاوہ جو روزہ رضائے الہی کی خاطر رکھا جائے گا اسے نفل روزہ کہا جاتا ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے روزوں کے علاوہ سال بھر میں مختلف ایام میں روزے رکھا کرتے تھے جنہیں نفل روزے شمار کیا جاتا ہے۔ نفل روزے سال بھر میں جس وقت چاہے رکھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ روزے ایسے بھی ہیں جو کسی خاص دن یا مہینے کی مناسبت سے بھی رکھے جاتے ہیں۔ جیسے ایام عاشورہ کے روزے شوال کے روزے بہر حال ان نفل روزوں میں بعض روزے مسنون اور بعض مستحب ہیں۔

۱۔ حدیث: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”اگر کسی نے ایک دن نفل روزہ رکھا اور زمین بھر اسے سونا دیا جائے تو پھر بھی اس کا ثواب پورا نہ ہوگا اس کا ثواب تو قیامت کے دن ہی ملے گا۔“ (طہرانی، ابو یعلیٰ)

۲۔ حدیث: حضرت ابو امامہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے کسی عمل کا حکم فرمائیں، ارشاد فرمایا ”روزہ کو لازم کو لو اس کے برابر کوئی عمل نہیں۔“ (نسائی)

۳۔ حدیث: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ”ہر چیز کو زکوٰۃ ہے اور بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے روزہ تو نصف صبر ہے۔“ (ابن ماجہ)

۴۔ حدیث: حضرت ابو سعید خدریؓ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ کی رضا کیلئے ایک دن کا روزہ رکھے۔ اللہ تعالیٰ اس کے منہ کو دوزخ سے ستر سال کے فاصلہ پر دور کر دے گا۔ (مسلم شرف) دوسری حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے درمیان اتنی بڑی خندق کر دے گا جتنا آسمان و زمین کے درمیان فاصلہ ہے۔ تیسری حدیث میں ہے کہ دوزخ اس سے سو برس کی راہ دور کر دی جائے گی۔ (مسلم، ترمذی، طہرانی)

مختلف ایام کے نفل روزوں کی تفصیل حسب ذیل ہے:

۱۔ **عاشورہ محرم کے روزے:** دسویں محرم کا روزہ رکھنا بہت افضل ہے، نویں کا روزہ رکھے تو اور بھی بہتر ہے۔

۱۔ حدیث: حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دسویں محرم کا

روزہ خود بھی رکھا اور امت کو بھی اس کے رکھنے کا حکم فرمایا۔ (بخاری، مسلم)

۲۔ **حدیث:** حضرت ابو قتادہؓ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: محرم کی دسویں کا روزہ ایک سال کے گزشتہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھوں کہ دسویں محرم کا روزہ ایک سال کے گزشتہ گناہوں کا اور ایک سال آئندہ کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ (مسلم، ابن ماجہ)

۳۔ **حدیث:** حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے اور دسویں محرم کے روزے کے سوا کسی دن کو فضیلت دے کر اس کے روزے کا اہتمام فرماتے تھے۔ صحابہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! دسویں محرم کے دن کی تو یہودی بھی تعظیم کرتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں آپ نے فرمایا ”اگر میں زندہ رہا تو آئندہ سال نویں محرم کو بھی روزہ رکھوں گا۔“ (مسلم)

۴۔ **حدیث:** حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے بعد افضل روزہ محرم کا ہے اور فرض کے بعد افضل رات یعنی تہجد کی (ترمذی)

۲۔ **شوال کے چہ روزے:** عید الفطر کے بعد شوال میں چھ نفلی روزے رکھنے کا بہت اجر ہے۔ یہ روزے اسی مہینے میں مسلسل رکھ لیں یا مختلف ایام میں پورے کر لیں دونوں طرح جائز ہے۔

۱۔ **حدیث:** حضرت ابو ایوبؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر (عید الفطر کے بعد) چھ روزے شوال کے رکھے۔ یہ ایسا ہے گویا اس نے تمام عمر کے روزے رکھے۔ (مسلم شریف)

۲۔ **حدیث:** حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”جس نے رمضان کے روزوں کے بعد شوال کے چھ روزے بھی رکھے۔ وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو گیا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔“ (طبرانی اوسط)

۳۔ **حدیث:** حضرت جابر بن عبداللہؓ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”جس نے شوال کے یہ چھ روزے بھی رکھے تو اس نے پورے سال کے روزوں کا

ثواب پایا۔ کیونکہ جس نے ایک نیکی کی اسے دس نیکیاں ملیں گی۔ (ابن ماجہ 'نسائی) یعنی رمضان کے روزے دس مہینوں کے برابر اور شوال کے چھ روزے دو مہینوں کے برابر۔ یہ پورے سال کے روزے ہو گئے۔“

۳۔ شعبان کے اونے: شعبان کے روزوں کی بہت فضیلت ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بہت تاکید فرمائی ہے۔

۱۔ حدیث: حضرت عائشہ صدیقہؓ سے روایت ہے کہ شعبان کے مہینہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ روزے رکھا کرتے تھے اور فرماتے لوگ اس مہینہ سے غافل ہیں۔ اس ماہ کی پندرہویں رات کو بندوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں۔ میری تمنا ہے کہ جب میرے اعمال پیش ہوں تو میرا شمار روزہ داروں میں کیا جائے۔ (بیہقی)

۲۔ حدیث: حضرت علیؓ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”جب شعبان کی پندرہویں رات آئے تو اس رات کو عبادت کرو اور دن کو روزہ رکھو کیونکہ اللہ تعالیٰ اس رات غروب آفتاب کے بعد پہلے آسمان پر اپنی خاص تجلی کو ظاہر فرماتا ہے اور اعلان فرماتا ہے کہ ہے کوئی بخشش چاہنے والا تاکہ اسے بخش دوں ہے کوئی روزی مانگنے والا تاکہ اسے روزی دوں ہے کوئی مصیبت زدہ کہ اسے عافیت دوں۔ طلوع فجر تک اسی طرح رحمت عام کی صدا ہوتی رہتی ہے۔“ (ابن ماجہ)

۳۔ حدیث: غنیمۃ الطالبین میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے رمضان میری امت کا مہینہ ہے شعبان میرا مہینہ ہے جو شخص ایمان کے ساتھ حصول ثواب اور اللہ کی رضا کیلئے رجب کا ایک روزہ بھی رکھے گا وہ اجر عظیم اور جنت بریں کا حقدار ہو جاتا ہے جو شخص رجب کی ستائیسویں رات کو عبادت میں گزارے اور دن کو روزہ رکھے اسے سو برس کے قیام و صیام کا اجر ملے گا۔

۴۔ عرفہ اور عشرہ ذی الحجہ کے اونے:

۱۔ حدیث: حضرت ابو قتادہؓ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”عرفہ یعنی نویں ذی الحجہ کا روزہ ایک سال پہلے اور ایک سال آئندہ کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔“ (مسلم ابن ماجہ)

۲۔ حدیث: حضرت عائشہ صدیقہؓ فرماتی ہیں کہ حضور نے عرفہ کے روزہ کو ہزاروں کے

برابر فرمایا ہے۔ ہاں حج کرنے والوں کو عرفات میں روزے رکھنے سے آپ نے منع فرمایا ہے۔
- (بیہقی، طبرانی، ابوداؤد)

۳۔ حدیث: حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”اللہ تعالیٰ کو ذی الحجہ کے دس دنوں کے سوا اور کوئی دن اتنا محبوب نہیں جس میں اس کی عبادت کی جائے۔ ان دنوں کا ہر ایک روزہ سال بھر کے روزوں اور ہر شب کی عبادت لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ہے“۔ (ترمذی)

۵۔ ہر مہینے کے تین روزے:

۱۔ حدیث: حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتوں کی وصیت فرمائی ہے۔

(۱) ہر مہینے میں تین روزے رکھنا۔

(۲) چاشت کی دو رکعت پڑھنا۔

(۳) سونے سے پہلے وتر پڑھ لینا۔ ہر مہینے میں تین روزے رکھنا، ہمیشہ روزہ ہونے کی طرح ہے۔ (بخاری، مسلم)

۲۔ حدیث: حضرت حصہؓ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چار چیزوں کو نہیں چھوڑتے تھے۔

(۱) عاشورہ

(۲) عشرہ ذی الحجہ

(۳) ہر مہینے کے تین روزے (۴) اور فجر کے پہلے دو رکعتیں۔

جب مہینے میں تین روزے رکھنے ہوں تو وہ چاند کی ۱۳، ۱۴، ۱۵ تاریخ کو رکھو (انہیں ایام بیض کے روزے کہتے ہیں)۔ (نسائی، ترمذی)

۶۔ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنا:

۱۔ حدیث: حضرت ابوقحافہؓ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کو روزہ رکھتے تھے۔ صحابہؓ نے سب دریافت کیا تو فرمایا ”اسی روز میری ولادت ہوئی اور اسی روز مجھ پر پہلی وحی نازل ہوئی“۔ (مسلم)

۲۔ حدیث: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ”فرمایا

کہ سوموار اور جمعرات کو اعمالِ پیش ہوتے ہیں لہذا میں پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل روزے کی حالت میں پیش ہو۔ (ترمذی)

۳۔ حدیث حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "سوموار اور جمعرات کا روزہ حضور بڑے اہتمام و خیال سے رکھا کرتے تھے۔ سجاہٹے نے وجہ پوچھی تو فرمایا اللہ تعالیٰ ان دونوں میں مسلمانوں کی مغفرت فرماتا ہے ماسوا ان دو آدمیوں کے جو آپس میں ناراض ہوں۔ ان کے متعلق اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے انہیں صلح کرنے تک چھوڑ دو۔" (ترمذی ابن ماجہ)

حصہ چہارم

۱۔ زکوٰۃ

زکوٰۃ اسلام کا اہم رکن ہے اور یہ اسلامی معاشیات کی بنیاد ہے۔ اس لیے مسلمانوں میں اس کی ادائیگی فرض قرار دی گئی ہے۔ زکوٰۃ کے لغوی معنی پاکی اور بڑھنے کے ہیں اور یہ لفظ زکی سے ہے۔ عربوں میں اس کا مطلب برکت افزائش، پاکی اور صفائی سمجھا جاتا ہے۔ لہذا قرآن و حدیث میں بھی لفظ انھی معنوں میں استعمال ہوا ہے اور از روئے شریعت بھی اس کا شرعی مفہوم اس کے لفظی معنوں سے ملتا جلتا ہے۔

شرعی اصطلاح میں زکوٰۃ کا اطلاق ایسے صدقہ و خیرات میں ہوتا ہے جو ایک صاحب ثروت اور صاحب نصاب مسلمان از راہ مالی امداد دوسرے مسلمان کو دیتا ہے یہ ایک ایسا فریضہ ہے جو ہر مسلمان پر لازم ہے جو دولت کی ایک مقررہ مقدار کا مالک ہو۔

زکوٰۃ مال کی پاکیزگی کا ایک طریقہ ہے جو اسلام میں وضع کیا گیا ہے۔ کیونکہ اللہ نے مالدار پر یہ فرض عائد کر دیا کہ وہ اپنے مال سے حاجت مندوں اور حق داروں کو کچھ حصہ دیوے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ کی اس حکم عدولی کی وجہ سے اس کا مال اللہ کے ہاں اور مسلمانوں کے لحاظ سے ناپاک تصور کیا جائے گا کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ مسلمان وسیع القلب ہو۔ زر پرست نہ ہو بلکہ اللہ کے راستے میں زر قربان کرنے والا ہو۔

۲۔ زکوٰۃ کے متعلق حکم الہی

زکوٰۃ کی اہمیت اور ضرورت کے پیش نظر قرآن پاک میں بیسار مقامات پر نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کے حکم پر بہت زور دیا گیا ہے۔ کیونکہ یہ دونوں حکم معاشرہ میں جسمانی اور مالی عبادت کا لازمی جزو ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک میں زکوٰۃ کے سلسلہ میں تیس مرتبہ زکوٰۃ کا لفظ استعمال ہوا ہے نماز کا شمار حقوق اللہ میں ہوتا ہے اور زکوٰۃ کا شمار حقوق العباد میں ہے۔ اس لیے ان دونوں کا حکم اکثر مقامات پر ساتھ ہے۔

اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ (پ۔ البقرہ: ۴۳)

(۱) وَاقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ
اِزْكُوْا مَعَ الرَّاٰعِيْنَ ۝ (پ۔ بقرہ: ۴۳)

marfat.com

اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور اپنے لیے جو بھلائی تم آگے بھیجو گے اس کو اللہ کے ہاں پاؤ گے بیشک اللہ جو تم کرتے ہو دیکھتا ہے۔

(پ: ۱: بقرہ۔ ۱۱۰)

پس نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور اللہ کی ہدایت کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ (پ: ۱: حج: ۷۸)

پھر نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اللہ جو کچھ تم کرتے ہو وہ جانتا ہے۔ (پ: ۲۸: مجادلہ: ۱۳)

اور نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو۔ اور رسول کریم ﷺ کی اطاعت کرو تا کہ تم پر رحم کیا جائے۔ (پ: ۱۸: النور: ۵۶)

اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو۔

(۲) وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تَقَدَّمُوا لِنَفْسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ (پ: ۱: بقرہ: ۱۱۰)

(۳) فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ (پ: ۱: حج: ۷۸)

(۴) فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ (پ: ۲۸: مجادلہ: ۱۳)

(۵) وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ (پ: ۱۸: النور: ۵۶)

(۶) وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ۔

زکوٰۃ کی فرضیت سے پہلے طلوع اسلام کے ابتدائی دور میں اسلام نے غریبوں کی دیکھ بھال کا درس دیا۔ حالانکہ یہ وہ دور تھا جبکہ اسلام کی دعوت دی جا رہی تھی اور اہل مکہ سخت مخالفت پر کمر بستہ تھے اور جنھوں نے اسلام قبول کر لیا تھا ان پر ظلم و ستم کیے جا رہے تھے لیکن جتنے بھی مسلمان ہوئے تھے اور جو ہو رہے تھے اللہ تعالیٰ نے انھیں اپنی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیا تا کہ مسلمانوں میں بھائی چارہ فروغ پائے اور امیر لوگوں کے رزق کی فراوانی غریبوں کے کام آئے اس لیے قرآن پاک میں اس امر پر خاصا زور دیا گیا ہے کہ غریبوں اور مسکینوں کی مدد کی جائے۔

ہر شخص اپنے عملوں کے بدلے، دائیں بازو والوں کے سوا گروی ہے جو جنتوں میں ہوں گے اہل جنت مجرموں سے پوچھیں گے کونسی چیز تمہیں دوزخ میں لے گئی۔ وہ کہیں گے ہم نماز

پڑھنے والا ہوں میں نے نہ تھے اور مسکین کو کھانا

(۱) كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ ۗ إِلَّا أَصْحَابُ الْيَمِيْنِ ۗ فِي جَنَّتٍ يَتَسَاءَلُوْنَ ۗ عَنِ الْمُجْرِمِيْنَ ۗ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ ۗ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ

نہیں کھلاتے تھے اور حق کے خلاف باتیں بنانے والوں کے ساتھ مل کر ہم بھی باتیں بنانے لگتے تھے۔ اور روز جزا کو جھٹلایا کرتے تھے۔

(پ ۲۹: المدثر ۳۸ تا ۳۸)

آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں؟ آپ فرماتے جو کچھ مال نیکی میں خرچ کرو، تو وہ مال باپ اور قریب کے رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور راہ گیر کے لیے ہے اور تم جو نیکی کرو بے شک اللہ اسے جانتا ہے۔

(پ ۲: البقرہ ۲۱۵)

اور رشتہ داروں کو ان کا حق دے اور مسکین اور مسافر کو اس کا حق دے اور فضول خرچی نہ کر۔

(پ ۱۵: بنی اسرائیل ۲۶)

ان آیات میں اس بات پر بہت زور دیا گیا ہے کہ رشتہ داروں، غریبوں، یتیموں اور مسکینوں کی مدد کی جائے۔

قرآن مجید کی وہ آیات جن میں زکوٰۃ کا ذکر ہے اور وہ مدنی دور سے متعلق ہیں وہ حسب ذیل ہیں۔ ان آیات ہی سے زکوٰۃ کو فرضیت کا مقصد پورا ہوتا ہے کیونکہ ان آیات کی وضاحت نبی اکرم ﷺ کی سنت سے ہوتی ہے جس میں نصاب کا ذکر ہے جس سے یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ مدنی دور کی آیات کے نزول کے بعد زکوٰۃ کی فرضیت لازم ہوگئی۔

اور میری رحمت ہر چیز ہر چھائی ہوئی ہے اور اسے میں ان لوگوں کے حق میں لکھوں گا۔ جو نافرمانی سے پرہیز کریں گے۔ زکوٰۃ دیں گے اور میری آیات پر ایمان لائیں گے۔

(پ ۹: الاعراف ۱۵۶)

وَلَكُمْ نَكُ نَطِعمُ الْمَسْكِينِ ۝ وَكُنَّا
نَخُوصُ مَعَ الْخَائِضِينَ ۝ وَكُنَّا
نَكْذِبُ بِيَوْمِ الدِّينِ ۝

(پ ۲۹- المدثر ۳۸ تا ۳۸)

(۲) يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلْ
مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّوَالِدِينَ
وَالْأَقْرَبِينَ وََالْيَتَامَىٰ وَالمَسْكِينِ
وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ
خَيْرٍ فَإِنَّ اللّٰهَ بِهِ عَلِيمٌ ۗ

(پ، البقرہ: ۲۱۵)

(۳) وَإِذِذَّا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمَسْكِينِ
وَابْنِ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذُرُوا ثَمَارَهُمْ
(پ، بنی اسرائیل: ۲۶)

(۱) وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ۗ وَ
فَسَأَلْتُهُمَّ الَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ
الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ
(پ، الاعراف: ۱۵۶)

تمہارے دوست تو حقیقت میں صرف اللہ اور اللہ کا رسول اور وہ اہل ایمان ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں اور جو اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کو اپنا رفیق بنالے اسے معلوم ہو کہ اللہ کا گروہ ہی غالب رہنے والا ہے۔ (پ: ۶: المائدہ: ۵۶ تا ۵۵)

(۲) اِنَّمَا وَلِيكُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ وَ
الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا الَّذِيْنَ يَّقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ
وَيُوْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ رٰكِعُوْنَ وَ
مَنْ يَتَوَلَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ وَالَّذِيْنَ
اٰمَنُوْا قٰنَ حِزْبِ اللّٰهِ هُمُ الْغٰلِبُوْنَ
(پ: المائدہ: ۵۶ تا ۵۵)

ان آیات سے معلوم ہوا کہ مدینہ منورہ کے دور میں نبی اکرم ﷺ نے زکوٰۃ کی فرضیت کی وضاحت فرمائی۔ زکوٰۃ کی شرح، مقدار اور حدود کو بیان کیا۔ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ زکوٰۃ کے نصاب اور مقررہ صورت کا تعین ۲ھ میں ہوا۔ اس کے بعد مختلف اوقات میں زکوٰۃ کے مزید احکامات کی تکمیل ہوئی اس کے بعد وفد عبدالقیس کے سوال کے جواب میں ۵۵ھ میں جن احکامات کی تعلیم دی تھی ان میں ایک زکوٰۃ بھی تھی رمضان ۸ھ میں مکہ فتح ہوا۔ تمام عرب پر غلبہء اسلام ہو گیا تو اس وقت رسول پاک پر اس آیت کا نزول ہوا کہ اے محمد رسول اللہ ان کے مال میں سے صدقہ (زکوٰۃ) وصول کرو۔ اس کے ذریعہ سے تم ان کو پاک صاف کر سکو گے پھر اس کے بعد ۸ھ میں ہی سورہ برات میں زکوٰۃ کے بارے میں احکام اور قوانین کا نزول ہوا۔ اس کے بعد ۸ھ میں زکوٰۃ کے تمام احکامات مکمل ہو گئے اور اس کے وصولی کے لیے عاملین کا تقریر کر دیا گیا۔ اسلام میں مال و دولت پر زکوٰۃ فرض ہونے کی مدت ایک سال ہے جبکہ شریعت موسوی میں تین سال تھی۔ ایک سال کی مدت انتہائی مناسب اور موزوں ہے۔ ایک سال سے قبل زکوٰۃ کی ادائیگی واجب نہیں ہوتی مگر فقہ کے لحاظ سے زکوٰۃ کے مال پر ملکیت حاصل ہو جانے کے بعد سے پورا سال گزرنا شرط ہے۔

۳۔ فضیلت زکوٰۃ

اسلام میں بعض اعمال کی بہت فضیلت ہے۔ زکوٰۃ بھی انہی اعمال میں سے ہے۔ زکوٰۃ دین اور دنیا کے بے شمار فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اس لیے حضور ﷺ نے اس کی بے حد ترغیب دی ہے۔ اس کی تاکید میں حضور ﷺ کے ارشادات میں درج ذیل ہیں:

۱۔ حدیث: حضرت ابو درد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا زکوٰۃ کا اسلام کا تیل ہے۔ (طبرانی)

۲۔ حدیث: حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے مجھے ارشاد فرمایا کہ اپنے مال کی زکوٰۃ دے کہ وہ پاک کرنے والی ہے۔ تجھے پاک کر دے گی اور رشتہ داروں سے اچھا سلوک کر اور مسکین اور ڑوسی اور سائل کا حق پہچان۔ (مسند احمد)

۳۔ حدیث: حضرت علقمہ فرماتے ہیں نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اسلام کا پورا ہونا اور مکمل ہونا یہ کہ تم مال کی زکوٰۃ ادا کرو۔ (بزار)

۴۔ حدیث: حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا جو اللہ و رسول پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے اور جو اللہ اور رسول پر ایمان رکھتا ہے وہ سچ بولے یا خاموش رہے۔ اور جو اللہ اور رسول پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ (طبرانی)

۵۔ حدیث: حضرت عمارہ بن حزم فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ عزوجل نے اسلام میں چار چیزیں فرض کی ہیں۔ جو ان میں سے تین ادا کرے وہ اسے کچھ کام نہ دیں گی جب تک پوری چاروں ادا نہ کرے۔ وہ چار چیزیں یہ ہیں:

(الف) نماز (ب) زکوٰۃ

(ج) ماہ رمضان کا روزہ اور (د) حج بیت اللہ (مسند احمد)

۶۔ حدیث: حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں اور جو زکوٰۃ نہ دے اس کی نماز بھی قبول نہیں۔ (طبرانی)

۷۔ حدیث: حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا جو شخص پانچوں نمازیں پابندی سے پڑھے ماہ رمضان کے روزے رکھے زکوٰۃ ادا کرے اور سات کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے اس کے لیے جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اور اسے کہا جائے گا کہ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جا (نسائی ابن ماجہ)

۸۔ حدیث: حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا زکوٰۃ ادا کر کے اپنے مال کو مضبوط قلعہ میں محفوظ کر لو۔ اور اپنے بیماروں کا علاج صدقہ سے کرو اور مصیبت

نازل ہونے پر دعا و عاجزی سے مدد مانگو۔ (ابوداؤد)

۹۔ حدیث: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے اُس سے شر کو دور فرما دیا۔ (حاکم)
 زکوٰۃ نہ دینے کے بارے میں حضور ﷺ کی احادیث مندرجہ ذیل ہیں:

۱۔ حدیث: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی اکرم حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن وہ مال ایک گنجدے سانپ کی شکل میں بنا دیا جائے گا جس کے سر میں زہر کی دو تھیلیاں ہوں گی۔ وہ سانپ اس کے گلے میں طوق بنا کر ڈال دیا جائے گا۔ تو وہ اس کی باجھیں کاٹ کاٹ کر کھائے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام آیت:
 وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ كِتَابَتَهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (بخاری)

۲۔ حدیث: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص سونے چاندی کا مالک ہو اور وہ اس کا حق زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو جب قیامت کا دن ہوگا تو اس کے لیے آگ کے پترے بنائے جائیں گے اور پھر ان پر دوزخ کی آگ بھڑکائی جائے گی اور ان سے اس (تارک زکوٰۃ) کی کروٹ اور پیشانی اور پیٹھ کو داغا جائے گا۔ جب وہ ٹھنڈے ہونے لگیں گے تو پھر ویسے ہی گرم کر دیئے جائیں گے اور یہ عذاب کا معاملہ اس دن کا ہے جس کی مقدار پچاس ہزار سال ہے یہاں تک کہ تمام بندوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے۔ اب وہ تارک زکوٰۃ اپنی راہ دیکھے گا جنت کی یاد دوزخ کی۔ (مسلم شریف)

اسی حدیث میں گائے (بھینس اور بھیڑ) بکریوں کے متعلق ارشاد فرمایا کہ ان کی زکوٰۃ نہ دینے والے شخص کو بھی ایک ہموار میدان میں لٹا دیا جائے گا اور وہ سب کی سب (اس کو لتاڑنے اور روندنے کے لیے) آئیں گی۔ ان میں نہ کوئی ٹیڑھے سینک والی ہوگی اور نہ بن سینک والی اور نہ ٹونے سینک والی۔ یعنی سب تیز سینگوں والی ہوں گی۔ وہ اس شخص کو اپنے سینگوں سے ماریں گی اور کھروں سے روندیں گی۔

اس حدیث میں اونٹ کی زکوٰۃ نہ دینے والوں کے بارے میں نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا جو اونٹوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا۔ قیامت کے دن اس کو ہموار میدان میں لٹا دیا جائے گا۔ اور وہ اونٹ سب کے سب موٹے پانوں سے ہو کر آئیں گے اور اس کو اپنے پاؤں سے روندیں

گے اور منہ سے کاٹیں گے۔ جب ان کی کچھلی قطار گزر جائے گی تو پہلی پھر لوٹ آئے
(اس طرح اس کو روندتے اور کاٹتے رہیں گے)

۳۔ حدیث: حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: ”مالدار اور محتاجوں اور غریبوں کے ہاتھوں ذلیل و خوار ہوں گے۔ محتاج عرض کریں گے الہی! ہمارے حقوق جو تو نے ان پر فرض کیے تھے انھوں نے ظلماً نہ دیے۔ اللہ تعالیٰ عزوجل فرمائے گا۔ اپنی عزت و جلال کی قسم ہے میں تمہیں (آج) اپنا قرب عطا کروں گا اور (تارک زکوٰۃ مالداروں کو اپنے قرب سے دور رکھوں گا۔“ (طبرانی)

۴۔ حدیث: نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا جو قوم زکوٰۃ ادا نہ کرے گی۔ اللہ تعالیٰ اس کو میں مبتلا کر دے گا۔ خشکی اور تری میں جو مال ضائع ہوتا ہے وہ اکثر زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے ضائع اور تلف ہوتا ہے۔ نیز ارشاد فرمایا محتاج و غریب لوگ ہرگز بھوکے ننگے ہونے تکلیف نہ اٹھائیں گے مگر مالداروں کے ہاتھوں۔ سن لو! ایسے مالداروں سے (جو زکوٰۃ نہ دیتے) اللہ تعالیٰ سخت حساب لے گا اور انھیں دردناک عذاب دے گا۔ (طبرانی)

۵۔ حدیث: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ فرماتے ہیں معرینج رات میں نے لوگوں کی ایک جماعت کو دیکھا کہ آگے پیچھے مقام بستر پر دھجیاں لٹک رہی اور اونٹوں اور جانوروں کی طرح دوزخ کے کانٹے دار درخت چر رہے تھے اور جہنم کے پتھر انکارے کھارے ہیں۔ میرے دریافت کرنے پر جبریل علیہ السلام نے جواب دیا یہ مال کی زکوٰۃ نہ دینے والے لوگ ہیں۔ (ابن کثیر)

۶۔ حدیث: حضرت ابو ذرؓ فرماتے ہیں زکوٰۃ نہ دینے والوں کے سر پستان پر دوزخ کا آگ پتھر رکھیں گے جو سینے کی ہڈیاں توڑ کر شانے سے پار نکل جائے گی اور شانہ کی ہڈی پر رکھیں گے تو ہڈیاں توڑتا ہوا سینے سے نکل جائے گا۔ (بخاری)

شمع شرائط زکوٰۃ

زکوٰۃ کے فرض ہونے کی چند شرائط ہیں لہذا جس شخص میں وہ شرائط پائی جائیں اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ جس میں وہ شرائط نہیں اس پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ زکوٰۃ ہر شخص پر واجب نہیں بلکہ صرف ان پر فرض ہے جن پر وجوب زکوٰۃ کی شرائط پوری آتی ہوں۔ شرائط مندرجہ ذیل ہیں:

marfat.com

- ۱۔ مسلمان ہونا
۲۔ آزادی
۳۔ عقل
۴۔ بلوغت
۵۔ صاحب نصاب ہونا
۶۔ مالک
۷۔ سال کا گزرنا
۸۔ نصاب کا حاجات اصلیہ سے زائد ہونا
۹۔ مال نامی۔
۱۰۔ مال کا قرض سے بیساک ہونا

شرائط سے متعلقہ مسائل حسب ذیل ہیں:

۱۔ **مسئلہ:** وجوب زکوٰۃ کی پہلی شرط مسلمانی ہے یعنی جو شخص مسلمان ہوگا زکوٰۃ اس پر فرض ہے لہذا غیر مسلم پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے کیونکہ زکوٰۃ اسلام کا نتیجہ ہے اور جو شخص اسلام سے خالی ہو یعنی کافر ہو اس سے زکوٰۃ کا مطالبہ نہیں کیا جاسکتا اور نہ ہی فریضہ زکوٰۃ اس پر عائد ہوگا کہ قبول اسلام کے بعد غیر مسلم ہونے کے وقت کی زکوٰۃ ادا کرے۔

۲۔ **مسئلہ:** وجوب زکوٰۃ کی دوسری شرط آزاد ہونا ہے لہذا غلام پر زکوٰۃ نہیں۔ بلکہ مصارف زکوٰۃ میں سے ایک شق غلام آزاد کرنے کے لیے ہے اللہ تعالیٰ کے قانون کے تحت ہر شخص آزاد ہے آزاد پیدا ہوتا ہے اور اسے آزاد زندگی بسر کرنے کا حق حاصل ہے لیکن اسلام سے پہلے عربوں میں غلامی کا رواج تھا اور یہ رواج ان میں صدیوں سے چلا آ رہا تھا اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ پرانے وقتوں میں طاقتور لوگ اور قبائل دوسروں کو اپنی طاقت کے بل بوتے پر ماتحتی میں لے آتے اور ان سے نوکروں جیسا کام لیتے جو غلامی کی صورت اختیار کر جاتا پھر ان غلاموں کے ساتھ بڑا ظلم کیا جاتا۔ گویا انھیں ہر لحاظ سے انسانی حقوق سے محروم رکھا جاتا یہاں تک کہ عربوں میں غلاموں کی تجارت کا رواج تھا۔ اسلام نے اس غلامی کی شدت سے مخالفت کی اور لوگوں کو غلامی سے نجات کا درس دیا۔ بلکہ یہاں تک کہ زکوٰۃ کے مال میں سے غلام کو آزاد کرانے کا حکم دیا۔ غلاموں کی ملکیت نہیں ہوتی اس لیے ان پر زکوٰۃ نہیں۔

۳۔ **مسئلہ:** زکوٰۃ کے واجب ہونے کی تیسری شرط عقل ہے کیونکہ عبادت اور دنیاوی امور کو سرانجام دینے کے لیے عاقل ہونا ضروری ہے۔ اس لیے عاقل پر فریضہ زکوٰۃ عائد ہوتا ہے لہذا جو شخص عقل نہیں رکھتا وہ شریعت کے اصولوں کی پابندی سے قاصر ہوتا ہے اس لیے عقل نہ رکھنے والے پر سے حقوق و فریضوں کی پابندی ساقط ہے اس وجہ سے مجنون پر زکوٰۃ

واجب نہیں۔

۴۔ **مسئلہ**: وجوب زکوٰۃ کے لیے بلوغت شرط ہونے پر اختلاف ہے۔ حضرت امام ابوحنیفہؒ کا کہنا ہے کہ نابالغ بچے پر زکوٰۃ نہیں لہذا اس کے ولی سے زکوٰۃ کا مطالبہ نہ کیا جائے کیونکہ یہ شخص عبادت ہے اور بچہ اس کے حکم کا مخاطب نہیں ہے۔ البتہ اس کے مال سے قرض نفقہ، عشر اور صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے کیونکہ یہ بندوں کے حقوق ہیں لیکن دیگر ائمہ یعنی حضرت امام مالکؒ، حضرت امام شافعیؒ، امام احمد بن حنبلؒ بچے پر زکوٰۃ کے قائل ہیں۔

اسلامی شرع کی رو سے بالغ ہونے تک بچے کے نفقے اور دیگر ضروریات کو پورا کرنے کی تمام تر ذمہ داری والد پر ہے۔ البتہ والد کے فوت ہونے کی صورت میں یتیم بچے کی کفالت کی ذمہ داری ولی پر عائد ہو جائے گی جو اس کا کفیل بنے گا۔ ان دونوں صورتوں میں بچے پر زکوٰۃ عائد ہونے کی کیفیت مختلف ہے کیونکہ بچہ عموماً والد کے فوت ہونے سے پہلے مال کا وراثت نہیں ہوتا اس لیے اس لیے اس پر زکوٰۃ عائد نہیں ہوتی کیونکہ جب تک کوئی مال کا مالک نہ ہو تو اس پر زکوٰۃ کیسے واجب ہو سکتی ہے البتہ اس صورت پر زکوٰۃ عائد ہوگی جبکہ والد نے اپنے بچے یا بچی کے نام کوئی کاروبار کیا ہو بنک میں رقم رکھی ہو اور وہ سال بھر پڑی رہے اور بقدر نصاب ہو یتیم ہونے کی صورت میں اگر بچے کا اثاثہ بقدر نصاب ہو تو اس پر زکوٰۃ عائد ہوگی۔

۵۔ **مسئلہ**: زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے مال بقدر نصاب ہونا بھی ضروری ہے کیونکہ مال کی مخصوص اور معین مقدار پر زکوٰۃ فرض ہے جسے نصاب کہا جاتا ہے یہ نصاب مختلف اموال پر مختلف ہے اور اس سے کم پر زکوٰۃ نہیں۔

احادیث کے مطابق حضرت داتا گنج بخشؒ کا ارشاد گرامی ہے کہ جب ۲۰۰ درہم چاندی جو نعمت تمام ہے کسی کے تصرف میں ہوں اور ایک سال گزرنے کے باوجود ان کی ضرورت نہ پڑے تو اس پر پانچ درہم زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے۔ بیس دینار سونا بھی نعمت تمام ہے اور اس پر نیم دینار واجب الادا ہے۔ پانچ اونٹ بھی نعمت تمام ہے اور اس پر ایک بھیڑ یا بکری زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ باقی جو اموال اس طرح ہوں ان پر زکوٰۃ واجب الادا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ پانچ اونٹوں سے کم اور چالیس بکریوں سے کم تعداد پر زکوٰۃ نہیں اور اس طرح دو سو درہم سے کم چاندی اور ۲۰ دینار سے کم سونے پر زکوٰۃ نہیں۔ اور پانچ وسق سے کم پھل غلہ، اور زرعی پیداوار پر زکوٰۃ نہیں ہے۔

۶۔ **مسئلہ**: وجوب زکوٰۃ کے لیے مال کی مکمل ملکیت ضروری ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے دنیا کی ہر چیز کا ملک تو اللہ ہے کیونکہ وہی ہر چیز کا خالق ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عارضی ملکیت عطا کی ہے اور یہ ملکیت ایک نائب کی حیثیت سے ہے تاکہ انسان اس ملکیت سے فائدہ اٹھا سکے۔ شریعت اسلامیہ میں اس ملکیت کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص کسی شے کو اپنے قبضہ تصرف میں لائے اسے دوسروں کی نسبت اس چیز پر فائدہ اٹھانے کا حق حاصل ہو گیا ہے۔ کیونکہ اس نے وہ چیز کسی عمل کے بدلے میں حاصل کی ہے۔ چنانچہ زکوٰۃ اس مال پر ہوگی جو کسی کی ملکیت میں ہوگا۔ ملکیت کے ساتھ مال کا قبضہ تصرف یا دسترس میں ہونا ضروری ہے اس لیے رہن میں رکھی ہوئی چیز پر زکوٰۃ نہیں کیونکہ رہن رکھی ہوئی چیز قبضہ تصرف میں نہ رہی اور جس کے پاس رہن رکھی گئی ہو اس پر بھی زکوٰۃ نہیں کیونکہ وہ چیز اس کی ملک میں نہیں۔ البتہ جب چیز رہن سے چھڑالی جائے اور چیز واپس رہن دینے والے کے قبضے میں آجائے تو اب اس پر زکوٰۃ عائد ہوگی لیکن سال گزرنے کے بعد عائد ہوگی۔

۷۔ **مسئلہ**: وجوب زکوٰۃ کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ مال اصلی حاجتوں سے زائد ہو۔ حاجات سے مراد وہ ضروریات ہیں جو میسر نہ آئیں تو انسان کی زندگی ختم ہونے کے آثار پیدا ہو جائیں لہذا اس ضرورت کی رو سے رہنے کے گھر۔ پہننے کے کپڑے اور گھر کے استعمال کی اشیاء سواری کے جانور اور استعمال ہونے والے ہتھیار پیشہ وروں کے اور زار، اہل علم کی کتابیں اپنے یا اہل و عیال کے کھانے کے کام آنے والے غلہ اور آرائش کے برتن، فرنیچر، جو اہرات مولیٰ ان سب پر زکوٰۃ نہیں چاہے وہ کتنی ہی قیمت کے کیوں نہ ہوں اور چاہے روزانہ کام میں آتے ہوں یا کبھی کبھار یا بالکل کام میں نہ آتے ہوں صرف گھر کی سجاوٹ کے لیے ہوں۔

دستکاروں اور پیشہ وروں کے جو آلات زکوٰۃ سے مستثنیٰ ہیں وہ صرف وہی ہیں جن سے کام لیا جاتا ہے اور وہ فروخت کر کے نفع کمانے کی غرض سے نہ ہوں اور اگر فروخت کے لیے ہوں تو ان پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے جبکہ بقدر نصاب اور مدت نصاب کی شرط پائی جائے۔

۸۔ **مسئلہ**: زکوٰۃ ایک سال کے بعد فرض ہوتی ہے سال گزرنے کا مفہوم یہ ہے کہ کسی مال پر مالک کی ملکیت بارہ اسلامی مہینے قائم رہے اس شرط کا نفاذ موسیقی سونا چاند یا نقدی وغیرہ پر ہے نہ زرعی پیداوار جہاں شرائط کا اطلاق نہیں ہوتا کیونکہ اس

کی زکوٰۃ فصل پر ہے۔ سال کے شروع اور آخر میں مال کا نصاب پورا ہو تو درمیان سال میں کمی کا اعتبار نہ ہوگا اور زکوٰۃ ساقط نہ ہوگی۔

۹۔ **مسئلہ** : مال کا قرض سے بیباک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص پر اتنا قرض سے جتنے کا مال اس کے پاس ہے یا اتنا قرض ہے کہ اگر قرض کی رقم اس سے منہا کر دی جائے تو بقایا مال نصاب سے کم رہ جائے ایسے شخص پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ اس قرض میں وہ دونوں قرض شامل ہیں جو فوری دینا ہو یا ایک مدت کے بعد دینا ہو۔

مانع زکوٰۃ وہ قرض ہے جس کا مطالبہ لوگوں کی طرف سے کیا جاتا ہو خواہ وہ قرض بندوں کا ہو جیسے قرض یا قرض پر خریدی ہوئی چیز کی قیمت یا اللہ کا ہو جیسے زکوٰۃ یا خراج۔ مثلاً کسی پر زکوٰۃ فرض ہوئی مگر اس نے ادا نہیں کی۔ اب اگر دوسرے سال اتنا مال ہو کہ سال گزشتہ کی زکوٰۃ ادا کرے تو باقی مال نصاب سے کم رہ جائے تو دوسرے سال کی زکوٰۃ واجب نہ ہوگی۔ زکوٰۃ اور اخراج اللہ کا قرض ہے حاکم بھی مطالبہ کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو اللہ کے قرض ہیں جیسے نذر کفارہ حج کا قرض، گواہی کی طرف سے ان کا مطالبہ ہوگا کوئی بندہ مطالبہ نہیں کر سکتا اس لیے یہ قرض مانع زکوٰۃ نہیں۔ صدقہ فطر اور حج تمتع کی قربانی کا دین بھی مانع زکوٰۃ نہیں ہے۔

۱۰۔ **مسئلہ** : زکوٰۃ واجب ہونے کی ایک شرط مال نامی ہے نامی کے معنی ہیں بڑھنے والا۔ مال کا بڑھنا یا تو فعل تجارت سے ہوگا یا افزائش نسل کے لیے جنگلوں میں جانوروں کو چرنے کیلئے چھوڑ دینے سے ہوگا یعنی جنگل میں وہ آزادی کے ساتھ رہیں اور ان کی نسل بڑھے۔ ترقی اور بڑھنے کیلئے یہ دو فعل موثر ہیں لہذا مال تجارت اور چرنے والے جانوروں میں زکوٰۃ لازم ہوگی۔ یا وہ چیز خلقی طور پر نامی ہو یعنی بڑھنے اور ترقی کرنے کیلئے پیدا کی گئی ہو اسے خلقی نامی مال کہا جاتا ہے جیسے سونا چاندی اگرچہ تجارت کیلئے نہ ہو بلکہ گھر میں پہننے اور رکھنے کیلئے ہو جب بھی زکوٰۃ لازم ہوگی مال نامی تین قسم کا ہے:

(۱) سونا چاندی (۲) مال تجارت

(۳) سانمہ یعنی چرنے والے جانور۔ لہذا ان تینوں مالوں کے سوا کسی اور میں زکوٰۃ نہیں۔

۵۔ مسائل نصاب زکوٰۃ

زکوٰۃ فرض ہونے کیلئے مال و دولت کی ایک خاص حد اور مقدار متعین ہے جس کو شریعت کی اصطلاح میں نصاب کہا جاتا ہے۔ زکوٰۃ اسی وقت فرض ہے جبکہ مال بقدر نصاب ہوگا۔ اس مقدار ”شرعی نصاب“ سے کم مال و دولت پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ نصاب زکوٰۃ کا اجمالی خاکہ یہ ہے:

سونے کا نصاب زکوٰۃ	:	ساڑھے سات تول یعنی ۸۵ گرام
چاندی کا نصاب زکوٰۃ	:	ساڑھے باون تول
مال تجارت کا نصاب زکوٰۃ	:	جو قیمت میں چاندی کے نصاب کے برابر ہو۔
اونٹ کا نصاب زکوٰۃ	:	پانچ عدد (سائہ)
گائے بھینس کا نصاب زکوٰۃ	:	تیس عدد (سائہ)
بھیڑ بکری کا نصاب زکوٰۃ	:	چالیس عدد (سائہ)

زمین کی پیداوار میں احناف کے نزدیک کوئی خاص شرعی مقدار و نصاب متعین نہیں بلکہ زمین کی پیداوار کم ہو یا زیادہ اس میں زکوٰۃ عشر یا نصف عشر فرض ہے۔

زکوٰۃ چار قسم کے مال پر فرض ہے اول ثمن یعنی سونا چاندی (کرنسی نوٹ روپیہ رائج سکے وغیرہ) دوم مال تجارت سوم سائہ یعنی چرائی کے مویشی اونٹ گائے بھینس بھینس بکری وغیرہ۔

۱۔ سونے چاندی کی زکوٰۃ : سونا ایک نہایت قیمتی دھات ہے۔ جس کے پاس جتنا سونا زیادہ ہو وہ صاحب ثروت انسان تصور کیا جاتا ہے۔ لوگوں کے پاس سونا مختلف صورتوں میں ہوتا ہے اس کی ایک صورت تو سونے کی دھات یعنی ڈلیاں ہیں دوسری صورت سونے کے زیورات ہیں تیسری صورت سونے کے برتن سکے اور دیگر آرائشی اشیاء وغیرہ ہیں۔ ان تمام صورتوں میں سونے پر زکوٰۃ عائد ہوتی ہے۔ بشرطیکہ نصاب کی مقررہ حد تک سونا کسی کی ملکیت میں ہو۔

۱۔ حدیث : حضرت عمرو بن شعیب عن ابی عن جدہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دو عورتیں حاضر ہوئیں ان کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن تھے۔ حضور نے ان سے فرمایا تم ان کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ انہوں نے عرض کیا نہیں تو آپ نے ارشاد فرمایا کیا تم یہ پسند کرتی ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں (دو زرخ کی) آگ کے کنگن پہنائے؟

انہوں نے عرض کیا نہیں! حضور نے ارشاد فرمایا تو پھر ان کی زکوٰۃ ادا کیا کرو۔ (ترمذی)

۲۔ حدیث: ام المومنین حضرت ام سلمہؓ بیان فرماتی ہیں کہ میں سونے کے زیور پہنا کرتی تھی تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ! کیا یہ سونے کا زیور کنز تو نہیں۔ (کیونکہ قرآن پائے میں سونے چاندی کے کنز پر وعید کی گئی ہے) تو حضور نے ارشاد فرمایا۔ جو زیور نصاب زکوٰۃ کی مقدار کو پہنچے اور پھر اس کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے تو وہ کنز نہیں۔ (مالک ابو داؤد)

۳۔ حدیث: حضرت ابو سعید خدریؓ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پانچ اوقیہ سے کم چاندی میں زکوٰۃ نہیں ہے۔

۴۔ حدیث: حضرت علیؓ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں سواری کے گھوڑوں اور غلاموں کی زکوٰۃ معاف کر دی ہے۔ سو تم چاندی کی زکوٰۃ ادا کرو چالیس درہم سے ایک درہم لیکن ایک سوننا نوے درہم میں کوئی زکوٰۃ نہیں۔ ہاں جسب پورے دو سو درہم ہو جائیں تو ان میں پانچ درہم زکوٰۃ ہے۔

۱۔ مسئلہ: ۲۰ مثقال یعنی ۸۵ گرام سونے یا اس سے زائد کا مالک ہوگا اس پر اس سونے کی زکوٰۃ دینا واجب ہوگی۔ سونے کی زکوٰۃ کی شرح چالیسواں حصہ یا چالیسویں حصہ کی رائج الوقت سکہ کے حساب سے قیمت ہے۔ بشرطیکہ سونا سال بھر انسان کی ملکیت میں رہا ہو۔

۲۔ مسئلہ: سال کے آغاز میں اگر کسی شخص کے پاس مقدار نصاب کے برابر سونا ہو یعنی ۸۵ گرام اور سال کے دوران اور سونا اس کے پاس آجائے تو سال کے آخر میں تمام سونے پر زکوٰۃ عائد ہوگی۔ اس کا عام اصول یہی ہے کہ سال کے شروع میں صاحب نصاب ہو اور سال کے آخر میں بھی نصاب کی مقدار سے زائد سونا ہو تو دوران سال کم یا زیادہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ بلکہ سال کے آخر میں سونے کی جو مقدار ہوگی اس پر زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔

۳۔ مسئلہ: اگر سونا خالص نہ ہو بلکہ اس میں کھوٹ ملا ہو تو جو دھات زیادہ ملی ہوگی اسی پر قیاس کیا جائے گا۔ اگر سونا زیادہ ہے تو سونا تصور کیا جائے گا اور زکوٰۃ فرض ہوگی اور اگر کھوٹ زیادہ ہے تو اس پر زکوٰۃ نہ ہوگی۔

۴۔ مسئلہ: سونے چاندی کی زکوٰۃ میں وزن کا اعتبار ہے قیمت کا لحاظ نہیں۔ اگر سونا

وزن میں بقدر نصاب نہ ہو تو اس پر زکوٰۃ کا وجوب نہ ہوگا۔

۵۔ **مسئلہ** : چاندی کے بارے میں حکم ہے کہ جس شخص کے پاس ساڑھے پاؤن تولے چاندی ہو تو وہ صاحب نصاب ہے اور اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ خواہ یہ چاندی زیور پتروں، برتنوں، کھلونوں، گھوٹے یا اوزار کی صورت میں ہو، بہر کیف اس پر زکوٰۃ دینا واجب ہے۔ چاندی خواہ خزانے کی صورت میں تجارت کیلئے ہو یا زیب و زینت کیلئے ہو تو ہر صورت میں اس پر زکوٰۃ کا اطلاق ہوگا۔

۶۔ **مسئلہ** : سونا چاندی جس حالت میں بھی ہو خواہ زیور کی حالت میں ہو یا ان کے برتن بنے ہوں یا ویسے پڑا استعمال ہو یا نہ ہو اگر وہ بقدر نصاب ہے تو اس کی زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ چونکہ زیور کی مالک بالعموم عورت ہوتی ہے اس لیے احادیث میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے مستورات سے ارشاد فرمایا کہ تمہارا زیور اگر بقدر نصاب ہے تو اس کی زکوٰۃ ادا کرو۔ ورنہ کل قیامت کے روز یہی زیور آگ بن کر وبال جان اور عذاب کا موجب ہوگا۔

۷۔ **مسئلہ** : شریعت میں سونے چاندی کے برتنوں کا استعمال مسلمانوں کیلئے ناجائز ہے۔ مستورات کو سونے چاندی کے زیورات کا استعمال جائز ہے۔ مرد کو ساڑھے چار ماشہ چاندی کی ایک انگلی کے سوا سونے چاندی کا استعمال حرام ہے۔

۸۔ **مسئلہ** : اگر کسی کے پاس دونوں نصاب سونے چاندی کے ہوں تو اس پر ان دونوں کی علیحدہ علیحدہ زکوٰۃ فرض ہے اگر کسی کے پاس سونا چاندی دونوں ہیں لیکن بقدر نصاب نہیں تو سونے کی قیمت چاندی یا چاندی کی قیمت کا سونا فرض کر کے باہم ملائیں، اگر بقدر نصاب ہو جائے تو زکوٰۃ فرض ہے ورنہ نہیں۔

۹۔ **مسئلہ** : مقررہ نصاب سے جتنا مال زیادہ ہو وہ اگر نصاب کا پانچواں حصہ ہے تو اس کی بھی حسب دستور چالیسواں حصہ زکوٰۃ واجب ہے اور اگر پانچویں حصہ سے کم ہے تو پھر نصاب سے زائد مال کی زکوٰۃ معاف ہے۔ مثلاً نصاب زکوٰۃ ایک ہزار روپے ہے تو اب بارہ سو روپے کی زکوٰۃ ۳۰ روپے ہیں اور گیارہ سو ننانوے کی وہی پچیس روپے زکوٰۃ واجب ہے۔ سونا چاندی اور مال تجارت میں بھی یہی حکم ہے۔

۱۰۔ **مسئلہ** : یہ ضروری نہیں کہ ہر قسم کے نصاب کی زکوٰۃ اسی نصاب سے ادا کی جائے سونے چاندی کی زکوٰۃ سونے چاندی سے بھی ادا کر سکتے ہیں اور رائج سکہ روپے دیگر

اجناس خوردنی، غلہ وغیرہ پہننے کے کپڑے، مال و اسباب سے بھی ادا کرنا جائز ہے۔ بشرطیکہ یہ چیزیں قیمت میں بازار کے نرخ سے کسی طرح کم نہ ہوں بلکہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ مستحقین کو جس چیز کی زیادہ ضرورت ہو اور قیمت کے لحاظ سے زیادہ مفید ہو وہی زکوٰۃ میں دی جائے لہذا زکوٰۃ دینے والا سونے چاندی کی زکوٰۃ میں اس کا چالیسواں حصہ بھی دے سکتا ہے اور چالیسویں حصہ کی جو قیمت بنتی ہے وہ بھی دے سکتا ہے۔

۱۔ **مسئلہ:** کرنسی یعنی رائج سکہ روپیہ، نوٹ وغیرہ بھی اگر ساڑھے ہاؤن تولہ چاندی یا ساڑھے سات تولہ سونے کی قیمت کے برابر ہو تو ان کی زکوٰۃ واجب ہے اگر کچھ نقدی روپیہ، نوٹ وغیرہ ہو اور کچھ سونا چاندی تو ان کو باہم ملانے سے اگر بقدر نصاب ہو جائے تو زکوٰۃ واجب ہے ورنہ نہیں۔

۲۔ **اونٹوں کی زکوٰۃ:** اونٹ ایک پالتو جانور ہے جو انسان کیلئے نہایت ہی مفید ہے کیونکہ یہ سواری اور بار برداری کے کام آتا ہے اس لیے عربوں میں اونٹ رکھنے کا عام رواج تھا بلکہ جس شخص کے پاس زیادہ اونٹ ہوتے تھے وہ بڑا مالدار تصور کیا جاتا تھا اس لیے اسلام میں جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو سب سے پہلے اونٹوں پر ہی زکوٰۃ کا نفاذ ہوا۔

حضرت ابو سعید خدریؓ سے روایت ہے کہ ایک اعرابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور ہجرت کے متعلق سوال کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، ہجرت تو بڑا مشکل کام ہے کیا تیرے پاس اونٹ ہیں جن کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے؟ اس نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ! تو آپ نے ارشاد فرمایا پھر تو عمل کرتا رہ سمندر پار (یعنی جہاں بھی رہتا ہے) اللہ تعالیٰ تیرے کسی عمل کے اجر و ثواب کو کم نہیں کرے گا۔ (بخاری)

پانچ اونٹ سے کم میں زکوٰۃ فرض نہیں اور جب پانچ ہوں تو ان میں سال بھر کی ایک بکری زکوٰۃ واجب ہے اور پھر ۲۳ اونٹ تک ہر پانچ میں سال بھر کی ایک بکری زکوٰۃ واجب ہے یعنی ۵ میں ایک بکری، ۱۰ میں دو بکریاں، ۱۵ میں تین بکریاں اور ۲۵ اونٹ سے ۳۵ تک سال بھر کا اونٹ کا ایک مادہ بچہ (بنت مخاض) پھر ۳۶ سے ۴۵ اونٹ میں دو سال کی ایک اونٹنی (بنت لبون) پھر ۴۶ تا ۶۰ اونٹوں میں تین سال کی عمر کی ایک اونٹنی جو جفتی کے قابل ہو (حقہ) پھر ۶۱ تا ۷۵ اونٹوں میں چار برس کی ایک اونٹنی (جدعد) پھر ۷۶ تا ۹۰ اونٹوں میں دو بنت لبون یعنی دو سال کی عمر کے دو مادہ بچے اور ۹۱ تا ۱۲۰ اونٹوں میں دو حقہ یعنی تین سالہ دو جفتی کے قابل اونٹنیاں اس کے بعد

۱۲۱ تا ۱۲۵ عدد میں دو حقہ اور ہر پانچ میں ایک بکری یعنی ۱۲۵ میں دو حقہ ایک بکری ۱۳۰ عدد میں دو حقہ دو بکری علیٰ ہذا القیاس۔ پھر ۱۵۰ عدد اونٹوں میں تین حقہ جب ۱۵۰ سے زیادہ ہوں تو ان میں پھر وہی ابتداء والا حساب ہوگا۔ یعنی ہر پانچ میں ایک بکری ۲۵ میں ایک بنت مخاض ۳۶ تا ۴۵ عدد میں ایک بنت لبون تو اس حساب سے ۱۹۵ عدد اونٹوں میں زکوٰۃ تین حقے اور ایک بنت لبون ہے اور ۱۹۶ تا ۲۰۰ میں چار حقے زکوٰۃ ہے۔ نیز دو صد اونٹ کی زکوٰۃ میں پانچ بنت لبون دینا بھی جائز ہے۔

پھر ۲۰۰ کے بعد وہی طریقہ استعمال ہوگا جو ۱۵۰ کے بعد اختیار کیا گیا ہے یعنی ہر پانچ میں ایک بکری ۲۵ میں بنت مخاض ۳۶ میں بنت لبون اور پھر ۴۶ سے ۲۵۰ تک پانچ حقے۔ اونٹ کی زکوٰۃ میں جو اونٹ کا بچہ دیا جائے اس کا مادہ ہونا ضروری ہے اگر نر دیں تو پھر مادہ کی قیمت کا ہو۔ ورنہ نہیں لیا جائے گا۔

۳۔ گائے بھینس کی زکوٰۃ: گائے بھینس وغیرہ انسانی معاش میں نہایت ہی قیمتی سرمایہ تصور کیا جاتا ہے کیونکہ یہ مویشی دودھ کھیتی باڑی اور نسل بڑھانے کے کام آتے ہیں۔ ان کی کھالیں اور گوشت بھی استعمال میں آتا ہے اس لیے یہ مویشی انسانی زندگی کیلئے بہت ہی مفید ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ مویشی مال و دولت کے نہایت ہی اہم جزو تھے اس لیے ان پر زکوٰۃ مقرر کی گئی اور ان کی زکوٰۃ کا نصاب حسب ذیل ہے۔

سائے گائے کا نصاب زکوٰۃ میں عدد ہے لہذا ۳۰ سے کم گائے ہوں تو زکوٰۃ فرض نہیں۔ بھینس اور گائے کا ایک حکم ہے یعنی اگر گائے بھینس دونوں ہوں تو ان کا ملا کر نصاب پورا کیا جائے گا۔ مثلاً ۲۰ گائیں ہیں اور دس بھینسیں ہوں تو ان پر زکوٰۃ فرض ہوگی اور زکوٰۃ میں اس کا بچہ لیا جائے گا جو زیادہ ہوں۔

جب پوری ۳۰ عدد گائیں بھینسیں ہوں تو سال گزرنے کے بعد ان کی زکوٰۃ ایک تمبیع یا تبعیہ یعنی سال بھر کا ایک چھڑایا بچھیا ہے۔ ۳۹ تک یہی حکم ہے اور ۴۰ سے انسٹھ تک پورے دو سال کا ایک مسن یا مسنہ نر یا مادہ بچہ ہے۔ پھر ۶۰ عدد گائے بھینس میں پورے ایک ایک سال کی عمر کے دو بچے زکوٰۃ ہے۔ تمبیع یا تبعیہ نر یا مادہ۔ اس کے بعد ۳۰ عدد گائے بھینس میں سے ایک تمبیع یا تبعیہ ہے اور ہر ۴۰ عدد گائے بھینس میں سے ایک مسن یا مسنہ ہے گائے بھینس کی زکوٰۃ میں یہ اختیار ہے کہ نر لیا جائے یا مادہ۔ زکوٰۃ میں جو بچہ لیا جائے وہ نہ بہت اعلیٰ ہو اور نہ بہت ادنیٰ بلکہ متوسط اور

درمیانہ درجہ کا وصول کیا جائے۔

جانوروں کی افزائش نسل اور تعداد بڑھانے کیلئے جن فارموں پر گائے بھینسیں پالی جاتی ہیں اور رکھی جاتی ہیں اور ان سے تجارتی منافع اور دوسرے مختلف مقاصد حاصل کیے جاتے ہیں تو ایسے جانوروں پر زکوٰۃ ہوگی۔ البتہ اگر ڈیری فارم ہو جہاں مویشیوں سے دودھ حاصل کر کے فروخت کیا جاتا ہو تو ڈیری فارم کے جانوروں پر زکوٰۃ نہ ہوگی۔ البتہ جو مصنوعات یعنی دودھ، مکھن وغیرہ ہوگا تو وہ سامان تجارت میں شمار ہوگا اور اس پر زکوٰۃ فرض ہے اور تجارتی اموال کے حساب سے اس کی زکوٰۃ دی جائے۔

۴۔ **بکریوں کی زکوٰۃ**: بھیڑ بکری پر شرعاً زکوٰۃ عائد ہے۔ دنبہ بکرا وغیرہ بھی اسی میں آتا ہے سب کا نصاب اور شرح زکوٰۃ ایک ہی ہے۔

حضرت انسؓ کا بیان ہے کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ نے جب انہیں بحرین کا حاکم مقرر کیا تو کو (زکوٰۃ کے احکام و فرائض پر مشتمل) یہ پروانہ لکھ کر دیا۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ زکوٰۃ کے وہ احکام ہیں جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں پر مقرر فرمائے ہیں اور ان کا حکم اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولؐ کو دیا ہے:-

جنگل میں چرنے والی بکریاں جب چالیس ہو جائیں تو ۱۲۰ بکریوں تک زکوٰۃ میں ایک بکر دینا فرض ہے اور جب ۱۲۰ سے زیادہ ہو جائیں تو ۲۰۰ تک دو بکریاں زکوٰۃ میں دینی ہوں گی جب ۲۰۰ سے زیادہ ہو جائیں تو پھر تین سو تک تین بکریاں زکوٰۃ میں دینا ہوں گی اور جب ۳۰۰ سے زیادہ ہو جائیں تو پھر ہر ۱۰۰ پر ایک بکری زکوٰۃ ہے اور جب کسی کے پاس جنگل میں چرنے والی بکریاں ۴۰ سے کم ہوں تو ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہاں اگر مالک اپنی مرضی سے کچھ دینا چاہتے دے سکتا ہے اور زکوٰۃ میں بوڑھی اور عیب والی بکری نہ لی جائے اور نہ بکرا۔ ہاں اگر زکوٰۃ وصول کر والا چاہے تو لے سکتا ہے اور زکوٰۃ کے ڈر سے نہ متفرق کو جمع کریں اور نہ مجتمع کو متفرق کریں۔

جب سائتمہ یعنی سال کا اکثر حصہ جنگل میں چرنے والی بھیڑ بکریاں ۴۰ ہوں تو سال گزر کے بعد ان میں ایک بکری زکوٰۃ فرض ہے اور ۱۲۰ تک ایک ہی بکری زکوٰۃ میں دینا فرض ہے ۱۲۱ میں دو اور ۲۰۱ میں تین اور ۴۰۰ میں چار۔ پھر اس کے بعد ہر سو پر ایک بکری زکوٰۃ میں دینا فرض ہے اور دو نصابوں کے درمیان جو ہے ان کی زکوٰۃ معاف ہے۔

www.marfat.com

زکوٰۃ اسی وقت فرض ہوگی جب وہ جانور بھیڑ بکری دنبہ وغیرہ کم از کم سال بھر کے ہوں اگر سب ایک سال سے کم عمر کے ہوں تو زکوٰۃ فرض نہیں۔ ہاں اگر ان میں ایک بھی سال بھر کا ہو تو سب اسی کے تابع ہوں گے لہذا زکوٰۃ فرض ہوگی۔

زکوٰۃ میں متوسط درجہ کا جانور وصول کیا جائے گا چن چن کر عمدہ مال اور عمدہ جانور لینا جائز نہیں۔ ہاں اگر سب ہی اچھے اور عمدہ جانور ہوں تو پھر جائز ہے ورنہ نہیں۔ اسی بکریاں ہوں تو ایک ہی بکری زکوٰۃ ہے۔ یہ جائز نہیں کہ اس کو دو حصوں میں بانٹ کر دو بکریاں زکوٰۃ میں وصول کی جائیں اور اگر دو آدمیوں کی چالیس چالیس بکریاں ہیں تو انہیں جمع کر کے ایک گروہ قرار دینا بھی جائز نہیں تاکہ زکوٰۃ میں ایک بکری دینی پڑے بلکہ ہر ایک سے ایک ایک بکری زکوٰۃ میں وصول کی جائے گی اسی طرح اگر ایک آدمی کی ۳۹ بکریاں ہوں اور ایک کی ۴۰ تو ۳۹ والے پر زکوٰۃ نہیں۔ یہی مطلب ہے کہ مجتمع کو متفرق نہ کریں اور متفرق کو مجتمع نہ کریں۔ نیز اگر کسی کے پاس اونٹ گائیں اور بھیڑ بکریاں سب ہوں لیکن نصاب سے سب یا بعض کم ہیں تو نصاب پورا کرنے کیلئے خلط یعنی ان کو باہم ملانا جائز نہیں۔

۵۔ گھوڑے اور دیگر جانوروں پر زکوٰۃ نہیں: گھوڑا پالتو جانور ہے جو

انسان کے لیے بڑا مفید ہے۔ انسان اس سے افادیت کے بیشمار کام لیتا ہے اور سب سے زیادہ اس کا فائدہ بار برداری کا ہے۔ گھوڑوں پر زکوٰۃ نہیں۔ اس کی تائید میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے جو حضرت علیؓ سے مروی ہے۔ حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نے تم سے گھوڑوں اور غلاموں کی زکوٰۃ معاف کر دی۔ اس کے علاوہ اگر گھوڑے گدھے اور خچر وغیرہ تجارت کیلئے پالے جائیں اور ان کی تجارت کی جائے تو ان کا شمار اموال تجارت میں آجائے گا اور ان پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ جب گھوڑوں کی تجارت آغاز سال میں اور سال کے آخر میں دو سو درہم چاندی یعنی ۶۱۸ گرام چاندی کی قیمت کے برابر ہو یا اس سے زائد ہو تو گھوڑوں کی قیمت پر شرح زکوٰۃ اڑھائی (۲/۲) فیصد ہوگی۔

۶۔ معدن پر زکوٰۃ: اللہ تعالیٰ نے انسانی تصرف کیلئے زمین کو معدنی وسائل سے مالا مال کیا ہے۔ بے شمار قدرتی دولت کے خزانے زمین میں چھپے پڑے ہیں۔ معدنیات ٹھوس مانع اور تیس تیسوں قسم کی ہوتی ہیں۔ معدنیات فضل خداوندی ہے۔

معدنیات میں سونا، چاندی، لوہا، کونک، تانبہ، گندھک، فاسفوس، کبڑو، ماسیٹ، تارکول اور معدنی

تیل وغیرہ کو شمار کیا جاتا ہے۔ اگر یہ معدنیات حکومت کے قبضہ میں ہوں تو زکوٰۃ سے مبرا ہیں اور جب معدنیات کسی فرد کی ملکیت ہوں تو ان پر زکوٰۃ عائد ہوگی۔ زیادہ تر معدنیات حکومت ہی کے قبضہ میں ہوتی ہیں۔ انفرادی ملکیت بہت کم ہوتی ہے۔ معدنیات پر زکوٰۃ کے سلسلہ میں ائمہ میں معدنیات کی نوعیت پر اختلاف ہے لیکن معدنیات خواہ کسی قسم کی ہوں جب کوئی شخص ان کو نکالے تو اس پر خمس ادا کرے اس کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ ہے:-

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ کا زخم پہنچا، معاف ہے اور کنواں کھدواتے ہوئے اس میں کوئی گر کر مر جائے تو معاف ہے اور کان کھدوانے میں کوئی گر کر مر جائے تو معاف ہے اور رکاز میں پانچواں حصہ ہے۔ (بخاری)

اس حدیث میں رکاز کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کا اطلاق زمین کے اندرونی مال و دولت پر ہوتا ہے خواہ یہ دولت اللہ تعالیٰ نے معدن کی صورت میں قدرتی طور پر چھپائی ہو یا کسی شخص نے غیر فطری طور پر خود کوئی خزانہ دبایا ہو۔ ہر صورت میں اس پر خمس واجب ہوگا۔

پہاڑی علاقے یا کسی زمین سے قیمتی پتھر فیروزہ، نیلم، یاقوت، زمرد، عقیق، چونے کا پتھر وغیرہ نکل آئے تو ان پر زکوٰۃ واجب نہیں کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ پتھر پر خمس واجب نہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص ان کی تجارت کرتا ہے تو اسے صاحب نصاب ہونے کی صورت میں اڑھائی (۷/۸) فیصد کے حساب سے زکوٰۃ دینا ہوگی البتہ عنبر پر خمس ہوگا چونکہ حضرت عمرؓ نے اپنے زمانہ میں عنبر پر خمس وصول کیا تھا۔

۷۔ مدفون خزانے پر زکوٰۃ: پہلے وقتوں میں لوگ سونا چاندی یا اس کے سکوں کو محفوظ کرنے کیلئے زمین میں دفن کر دیتے تھے اور بوقت ضرورت نکال لیتے تھے۔ اگر کوئی شخص دفن کرنے کے بعد بھول گیا ہو یا دنیا سے چلا جائے تو وہ کنز ہو جائے گا اس دفن شدہ مال کو عربی میں رکاز کہا جاتا ہے جس پر زکوٰۃ خمس کی صورت میں عائد ہوتی ہے۔

زمین کھودتے ہوئے اگر کسی شخص کو اپنی مملوکہ زمین سے کوئی دفینہ مل جائے تو وہ سارا اس کا ہو گا۔ اگر کسی کو کہیں باہر سے ایسی جگہ سے خزانہ ملا جو مباح ہو یعنی اس سے ہر کوئی فائدہ اٹھا سکتا ہو تو اس شخص کا ہوگا جسے ملے گا۔

القصد ہر صورت میں جس شخص کو بھی مدفون خزانہ مل جائے اس کو چاہیے کہ اس کا پانچواں حصہ اللہ کی راہ میں تقسیم کر دے یا اسلامی مملکت کے عالمین زکوٰۃ کے ذریعہ بیت المال میں جمع کرادے۔

۶۔ عشر یعنی زراعت اور پھلوں کی زکوٰۃ

عشر کے لغوی معنی دسواں حصہ ہے اور اسلامی معاشیات میں عشر سے مراد پیداوار کا وہ حصہ ہے جو اللہ کی راہ میں دینے کیلئے مقرر کیا گیا ہے اسے حکومت وصول کرنے کا اختیار رکھتی ہے جہاں بیت المال کا معقول انتظام نہ ہو وہاں زمیندار کو اختیار حاصل ہے کہ وہ اللہ کا حصہ مستحقین میں بذات خود تقسیم کر دے۔ اس کے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ:

كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ
(پٹ۔ الانعام ع ۴)

کھاؤ ان کے پھل جب وہ پھل لائیں اور اس کا حق (زکوٰۃ) ادا کرو جس دن وہ کٹیں اور بے جا خرچ نہ کرو۔ بلاشبہ اللہ تعالیٰ بے جا خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ (پ ۸: الانعام ۴)

مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس سے مراد پیداوار کی زکوٰۃ ہے لہذا معلوم ہوا کہ پیداوار میں سے عشر نکالنا فرض ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔

۱۔ حدیث: حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل یمن سے زکوٰۃ و عشر وغیرہ وصول کرنے پر مامور کیا تو حکم فرمایا کہ میں اس زمین کی زکوٰۃ جسے آسمان سیراب کرنے جسے بارش سال بھر میں ایک بار سیراب کرے اور جو رہٹ کے ذریعے (کنویں وغیرہ) سے پانی نکال کر سیراب کی جائے عشر یا نصف عشر وصول کروں۔ (ابن ماجہ)

۲۔ حدیث: حضرت عبد اللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس زمین کو آسمان یا چشموں نے سیراب کیا یا نہر کے پانی سے (بلا معاوضہ) سیراب کیا جاتا ہو اس میں عشر ہے اور جس زمین کو جانور پر لاد کر پانی دیا جاتا ہو اس میں نصف عشر ہے۔

۳۔ حدیث: حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر اس چیز میں جسے زمین نے نکالا عشر یا نصف عشر ہے (اشعۃ اللمعات) اور ارشاد فرمایا کہ جس زمین کو نہریں بلا معاوضہ سیراب کریں اس میں عشر ہے اور جو زمین رہٹ وغیرہ کے ذریعے پانی نکال کر سیراب کی جائے اس میں نصف عشر زکوٰۃ ہے۔ (مسلم)

ان احادیث کی روشنی میں عشر کے متعلق شرعی مسائل حسب ذیل ہیں:

۱۔ **مسئلہ** : جو زمین بارانی ہو یا چشموں، پہاڑی ندی نالوں یا کسی نہر وغیرہ سے بلا معاوضہ و مشقت سیراب کی جاتی ہو اس کی پیداوار کی زکوٰۃ عشر یعنی کل پیداوار کا سوواں حصہ ادا کرنا فرض ہے جس زمین کو چر سے یا ڈول وغیرہ کے ذریعے کنویں سے پانی نکال کر یا پانی خرید کر یا جانور پر لا کر یا ٹیوب ویل سے ایسی نہروں کے پانی سے جن کا آبیانہ حکومت وصول کرتی ہے سے سیراب کیا جاتا ہے اس میں زکوٰۃ نصف عشر یعنی کل پیداوار کا بیسواں حصہ فرض ہے۔

۲۔ **مسئلہ** : عشر واجب ہونے کیلئے عاقل و بالغ ہونا شرط نہیں بلکہ مجنون اور نابالغ کی زمین کی پیداواری میں بھی عشر واجب ہے اس میں سال گزرنا بھی شرط نہیں ہے کہ بلکہ سال میں جتنی بار ایک کھیت میں کاشت ہوتی بار عشر واجب ہے اس میں پیداوار کا باقی رہنا اور زمین کا مالک ہونا بھی ضروری نہیں۔ اسی طرح عشر واجب ہونے کیلئے نصاب بھی شرط نہیں بلکہ زمین کی پیداوار کم ہو یا زیادہ اس میں زکوٰۃ عشر یا نصف عشر فرض ہے۔

۳۔ **مسئلہ** : زمین کی کل پیداوار کی زکوٰۃ عشر ہو یا نصف عشر ہو ادا کرنا واجب ہے یہ ہرگز جائز نہیں کہ پہلے زراعت و کاشت کے اخراجات مزدوروں کی اجرت سرکاری ٹیکس وغیرہ آبیانہ بٹائی پانی کا حصہ یا خرچہ مال گزاری اور بیج وغیرہ کی قیمت نکال کر بعد میں عشر یا نصف ادا کیا جائے۔

۴۔ **مسئلہ** : زمین کی ہر پیداوار پر عشر ہے مثلاً گندم، جو، جوار، مکئی، باجرہ، دھان، ہر قسم کے اناج اور اسی قسم، اٹ، بادام وغیرہ ہر قسم کے میوے، سیب، انار، انگور، مانا، آم، سنگترہ وغیرہ اور کپاس، پھول، گنا، خر بوزہ اور تربوز وغیرہ اور ہر طرح کی ترکاریوں ان سب میں عشر واجب ہے۔ کم پیدا ہوں یا زیادہ احناف کے نزدیک عشری زمین میں شہد ہو تو اس پر بھی عشر واجب ہے۔

۵۔ **مسئلہ** : خورد و پیداوار پر عشر نہیں ہوتا کیونکہ یہ خود بخود پیدا ہو جاتی ہیں جیسے گھاس وغیرہ تو ان پر عشر نہیں۔ کیونکہ اس سے زمین کا منافع حاصل کرنا مقصود نہیں ہوتا۔

۶۔ **مسئلہ** : کھیت بونے پر اگر پیداوار خرابے کا شکار ہو جائے یا فصل گل سڑ جائے تو اس پر سے عشر ساقط ہوگا بشرطیکہ تمام فصل تباہ ہوگئی۔ اگر کچھ فصل باقی بچ گئی تو بچی ہوئی پیداوار پر عشر کی ادائیگی عائد ہوگی۔

۷۔ **مسئلہ** : فصل تیار ہونے یا پھل پکنے سے پہلے اگر کوئی شخص اسے بیچ ڈالے تو عشر کی ادائیگی خریدار کے ذمہ ہوگی۔ اگر فصل یا پھل پکنے کے بعد فروخت کیا تو عشر بیچنے والے کے ذمہ ہوگا۔

۸۔ **مسئلہ** : زمین جو کاشت کرتا ہے عشر اس کے ذمہ ہوتا ہے خواہ اس نے زمین ٹھیکہ پر لی ہو یا عاریتہ لے کر کاشت کر رہا ہو۔ شراکت کی کاشتکاری میں ہر حصے دار پر عشر کی ادائیگی کا اطلاق ہوگا۔ جتنی فصل حصے میں آئے گی اس پر عشر کی ادائیگی حصہ دار پر لازم ہے۔

۹۔ **مسئلہ** : عشر فصل تیار ہونے پر اسے اولین فرصت میں ادا کر دیا جائے تاکہ اس عجلت کے باعث انسان کئی قسم کے وسوسوں سے بچ جائے کیونکہ نیک کام کرنے کے وقت شیطان اکثر انسان کے دل میں وسوسہ پیدا کرتا ہے تاکہ نیک کام نہ ہو اس لیے جب فصل تیار ہو جائے تو کل پیداوار پر عشر نکال دیا جائے اور عشر ادا کرنے کے بعد باقی پیداوار سے دوسرے مصارف ادا کیے جائیں۔ لہذا ایک مسلمان کیلئے یہ اچھا نہیں کہ عشر نکالے بغیر ہی غلہ یا پیداوار ذاتی استعمال میں لے آئے۔

۱۰۔ **مسئلہ** : عشر حکومت کے عاملین کو دینا چاہیے اگر حکومتی سطح پر عشر وصول کرنے کا انتظام نہ ہو تو پھر خود عشر مستحقین میں تقسیم کر دینا چاہیے۔ اگر کوئی خوشی سے ادا نہ کرے تو حاکم وقت جبراً لے سکتا ہے۔

۷۔ زکوٰۃ کے مصارف

مصارف مصرف کی جمع ہے۔ اسلام نے چند لوگوں کو زکوٰۃ دینے کی اجازت دی ہے جس میں مصارف زکوٰۃ کہا جاتا ہے اور یہ آٹھ قسم کے لوگ ہیں اس کے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ:

اور ان میں کوئی وہ ہے کہ صدقے بانٹنے میں تم پر طعن کرتا ہے تو اگر ان میں سے کچھ ملے تو راضی ہو جائیں اور نہ ملے تو جھبی وہ ناراض ہیں اور کیا اچھا ہوتا اگر وہ اس پر راضی ہوتے جو اللہ اور رسول نے ان کو دیا اور کہتے کہ ہمیں اللہ کافی ہے

وَمِنْهُمْ مَّن يَّمُوزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ
أَعْطُوا مِنْهَا رِضْوَانًا لَّمْ يَعْطُوا مِنْهَا
إِذَا هُمْ يَسْحَطُونَ ۝ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا
مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا
حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ
فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ

اب دیا ہے ہمیں اللہ اپنے فضل سے اور اللہ کا

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ
وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهِمَا وَالْمَوْلَىٰ لَهُ قُلُوبُهُمْ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي
سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً
مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝

(نپ، توبہ: ۶۰ تا ۵۸)

رسول بیشک ہم اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہیں
زکوٰۃ تو فقراء، مساکین، عاملین، موقوفہ القلوب
اور غلاموں کو آزاد کرنے کیلئے اور قرضداری
کی قرضہ سے خلاصی کرانے اور اللہ کی راہ
اور مسافروں کیلئے ہے۔ بیشک اللہ علم والا حکم
والا ہے۔ (توبہ: ۶۰ تا ۵۸)

اللہ تعالیٰ نے مصارف زکوٰۃ کو متعین فرما کر اس امر کی وضاحت کی ہے کہ میرا سو
میرے حکم کے مطابق زکوٰۃ کی تقسیم کرتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بیان کر دیا
تقسیم زکوٰۃ کی مدت میری مقرر کردہ ہیں۔ چنانچہ اس آیت میں جو زکوٰۃ کے مصارف
ہوئے ہیں صرف ان پر زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جاسکتی ہے لہذا کسی شخص کو کوئی اختیار نہیں کہ وہ
مصارف کے علاوہ اپنی مرضی سے زکوٰۃ کی رقم کسی اور مصرف پر خرچ کرے۔ ان مدت کی تفصیل
حسب ذیل ہے۔

۱۔ **فقیر:** فقیر وہ ہے جس کے پاس ضروریات کا کچھ مال تو ہو لیکن اتنا نہ ہو جس پر زکوٰۃ کا اطلاق
ہوتا ہو۔ یعنی فقیر کا مطلب وہ شخص ہے جو بنیادی ضروریات زندگی تو رکھتا ہو مگر خوشحال نہ ہو
ضرورت مند ہو ضرورت مند اپنا بیچ محتاج بیوگان، یتیمی اور نادار دینی طلباء کا شمار فقراء میں ہوتا ہے
مسئلہ: فقیر وہ شخص ہے جس کے پاس کچھ ہو مگر اتنا نہ ہو کہ نصاب کو پہنچ جائے یا نصاب
قدر ہو تو اس کی حاجت اصلیہ میں مستغرق ہو مثلاً رہنے کا مکان، پہننے کے کپڑے، علمی شغف
رکھنے والے کو دینی کتابیں جو اس کی ضرورت سے زیادہ نہ ہوں اگر مقروض ہو تو قرضہ
کرنے کے بعد نصاب باقی نہ رہے تو فقیر ہے۔ (روالمختار)

مسئلہ: فقیر اگر عالم ہو تو اسے دینا جاہل کو دینے سے افضل ہے (عالمگیری) مگر عالم کو
تو اس امر کا لحاظ رکھے کہ اس کا اعزاز مد نظر رکھے ادب کے ساتھ دے جیسے چھوٹے بڑوں
نذر دیتے ہیں عالم دین کو حقیر سمجھ کر زکوٰۃ دینا درست نہیں (بہار شریعت)

۲۔ **مسکین:** مسکین وہ ہے جو پیٹ بھر کر کھانے اور پہننے کیلئے لباس وغیرہ کا محتاج ہو۔
انتہائی تنگ دست اور مفلس ہو۔ ایسے شخص کو سوال کرنا اور مانگنا اور دینا جائز ہے۔

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین وہ نہیں جو

ایک دو کھجور یا ایک دو لقمہ لے کر ٹل جائے بلکہ مسکین وہ ہے جو بے پروائی کے برابر نہ پائے اور نہ اپنی حالت ایسی رکھے کہ کوئی دیکھ کر پہچان لے اور اگر کوئی دے دے تو لے لے ورنہ کسی سے خود سوال نہ کرے۔

مسئلہ: اس حدیث کی رو سے مساکین سے مراد وہ تنگ دست اور مفلوک الحال لوگ ہیں جن کی آمدن اخراجات کی نسبت بہت کم ہو، عیالدار ہوں، غربت کا شکار ہوں۔ خستہ حال ہوں، اپنی عزت نفس کی خاطر کسی کے سامنے سوال نہ کریں۔ لہذا مسکین سے مراد ایسا شخص ہے جو کاروبار کرنے والا یا برسر روزگار تو ہوتا ہے لیکن آمدن اتنی قلیل ہو کہ اپنی تمام بنیادی ضروریات پوری نہ کر سکتا ہو۔

۳۔ عامل: عامل وہ ہے جو حاکم اسلام کی طرف سے زکوٰۃ و صدقات اور عشر وغیرہ وصول کرنے پر مقرر ہو۔ اس کو تنخواہ وغیرہ اس کے کام اور ضروریات کے لحاظ سے زکوٰۃ و صدقات سے دی جائے گی اگرچہ وہ غنی اور مالدار ہی کیوں نہ ہو۔

مسئلہ: عاملین زکوٰۃ کے تقرر کی ذمہ داری خلیفۃ المسلمین پر ہے کہ اسلامی مملکت کے مختلف علاقوں کیلئے زکوٰۃ کے وصول کنندگان مقرر کرے کیونکہ اس کا ثبوت دور رسالت اور خلفائے راشدین کے عہد میں ملتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مختلف مقامات پر وصول کنندگان کو بھیجا۔

مسئلہ: عامل زکوٰۃ کا مسلمان عاقل اور بالغ ہونا ضروری ہے۔ اسلامی حکومت میں کسی غیر مسلم یعنی انگریز، ہندو یا کافر کو مسلمانوں سے زکوٰۃ لینے پر نہیں مامور کیا جاسکتا کیونکہ قرآن کی رو سے وہ امین نہیں اور عامل زکوٰۃ کیلئے امین ہونا ضروری ہے۔

۴۔ مولفتہ القلوب: تالیف قلب سے مراد ہے دوسروں کی دلجوئی کرنا۔ ایسے لوگ جو مسلمان نہ ہوئے ہوں لیکن ان کے دل اسلام کی طرف مائل ہو رہے ہوں ایسے لوگوں کی دلجوئی کیلئے زکوٰۃ سے مدد کرنی چاہیے تاکہ وہ کھلم کھلے مسلمان ہو جائیں۔ اس کے بعد ایسے لوگوں کی بھی تالیف قلب کی جاسکتی ہے جو مسلمان تو ہو گئے ہوں لیکن اسلام میں کمزور ہوں۔ ان کی دلجوئی کیلئے انہیں زکوٰۃ دینا بھی درست ہے۔

اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو انسان کو پیار اور محبت سے رہنا سکھاتا ہے۔ اس کے پیش نظر اسلام کا یہ نقطہ نظر ہے کہ اسلام میں ہر سنیے داخل ہونے والے کی دلجوئی کی جائے اسے ہر ممکن

امداد فراہم کی جائے تاکہ وہ مسلمانوں کے ضابطہ حیات کا قائل ہو اور اپنے آپ کو آسانی سے اسلام پر عمل پیرا کر سکے۔

۵۔ رقاب: رقاب سے مراد غلام آزاد کرانا ہے یعنی مکاتب غلام کو زکوٰۃ دینا تاکہ وہ اس سے بدل کتابت ادا کر کے غلامی سے آزاد ہو جائے۔ غلامی کے خاتمے کا ایک موثر اقدام یہ کیا کہ مصارف زکوٰۃ میں سے ایک مد غلاموں کو آزاد کرانے کیلئے مقرر کر دی جسے فی الرقاب کہا گیا ہے۔ قرآن پاک میں یہ الفاظ غلام اور باندی کو آزاد کرانے کے معنوں میں استعمال ہوئے ہیں گویا کہ زکوٰۃ کا ایک حصہ گردنوں کے آزاد کرانے کیلئے مقرر ہے۔

شروع میں اسلام نے لوگوں کو غلامی سے نجات دلانے کیلئے یہ صورت اختیار کی کہ مالکوں کو حکم دیا کہ اگر تم اپنے غلاموں میں سے اچھی چیز دیکھو تو ان سے معاملہ آزادی طے کر لو تو جیسا مکاتبت کیا جاتا ہے اور انہیں موقعہ دو کہ وہ آزادی کیلئے کسب کریں اور وہ کسب شدہ رقم مالک کو دے کر آزاد ہو جائیں۔ بعد ازاں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ میں سے ایک حصہ غلاموں کی آزادی کیلئے مقرر کر دیا تاکہ وہ رقم مالکوں کو دے کر لوگوں کو غلامی سے آزاد کرایا جائے۔ چنانچہ نبی اکرم ﷺ کے دور میں کئی غلاموں کو زکوٰۃ کے عوض آزادی حاصل ہوئی۔ غلامی کا دور اگرچہ ختم ہو گیا ہے مگر اس کے باوجود اگر کوئی شخص کسی پس ماندہ علاقے میں غلام ہو تو اسے اس مد سے خرچ کر کے آزاد کرایا جاسکتا ہے۔

۶۔ غارم: غارم سے مراد وہ مقروض آدمی ہے کہ اس پر اتنا قرض ہو کہ قرض ادا کرنے کے بعد اس کے پاس بقدر نصاب کچھ نہ بچے ایسا مقروض بھی زکوٰۃ لینے کا حقدار ہے۔ بشرطیکہ وہ ہاشمی سید نہ ہو۔ غارم کا وصف زیادہ درستگی کے ساتھ ان لوگوں پر بھی منطبق ہوتا ہے جن کو زندگی میں کسی اچانک مصیبت نے آگھیرا ہو۔ ان کا سارا مال و اسباب کسی آفت کی نذر ہو گیا ہو اور وہ پانی اور اپنے گھر والوں کی ضروریات کی تکمیل کیلئے قرض لینے پر مجبور ہو گئے ہوں۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ الغار میں تین طرح کے ہیں۔ ایک وہ شخص جس کا مال و اسباب سیلاب میں بہ گیا ہو۔ دوسرا وہ شخص جس کا سامان آتش زدگی میں جل گیا ہو اور تیسرا وہ شخص جو عیالدار ہو اور اس کے پاس مال نہ ہو اور وہ قرض حاصل کر کے اپنی ضروریات پوری کرے۔

۷۔ فی سبیل اللہ: فی سبیل اللہ سے مراد راہ خدا اور ہر نیک کام میں خرچ کرنا ہے جبکہ بطور تملیک ہو۔ کیونکہ تملیک کے بغیر زکوٰۃ ادا نہیں ہو سکتی۔ مثلاً کسی مجاہد کو مصارف جہاد سواری، زاہد راہ وغیرہ مہیا کرنا۔ علم دین کے نادار طلباء کو دینا بلکہ دینی طلباء اور دینی مدارس کو زکوٰۃ دینے سے

دہرا ثواب ہے ایک زکوٰۃ کا اور دوسرا تبلیغ دین میں تعاون کا ثواب۔ اگر کوئی محتاج و نادار شخص حج کو جاتا ہو تو اس کو بھی مال زکوٰۃ دینا جائز ہے۔

۸۔ **ابن السبیل**: ابن السبیل مسافر کو کہتے ہیں۔ یہاں وہ مسافر مراد ہے جس کے پاس سفر خرچ نہ ہو۔ یہ بھی زکوٰۃ لینے کا حقدار ہے اگرچہ وہ اپنے گھر میں امیر ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن یہ ضروری ہے کہ ایسا مسافر صرف اتنی زکوٰۃ لے جس سے وہ اپنی منزل مقصود پر پہنچ جائے۔ ضرورت سے زیادہ لینا اس کیلئے بھی جائز نہیں۔

زکوٰۃ دینے والے کو یہ اختیار ہے کہ مذکورہ بالا مستحقین کو دے۔ یا ان میں سے کسی ایک کو دے اور مستحب یہ ہے کہ ایک شخص کو اتنا دیا جائے کہ کم از کم اس دن سے سوال کرنے کی ضرورت نہ پڑے یعنی اس کے اہل و عیال اور گھر کی ضروریات کو ملحوظ رکھ کر دیا جائے۔

۸۔ ادائیگی زکوٰۃ کے احکام

زکوٰۃ ادا کرتے وقت مستحق اور غیر مستحق افراد کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ اس امر کے پیش نظر شریعت نے ادائیگی زکوٰۃ کے کچھ آداب مقرر کیے ہیں جن کے متعلقہ شرعی مسائل حسب ذیل ہیں:

۱۔ **مسئلہ**: زکوٰۃ دینے کا مقصد یہ ہے کہ زکوٰۃ صرف ان افراد کو دی جائے جو اس کے اہل ہوں۔ قرآن پاک میں جن اصناف کو مستحق قرار دیا ہے ان میں اغنیاء کا شمار نہیں۔ نیز آپ نے حضرت معاذؓ کو فرمایا تھا کہ ان کے اغنیاء سے زکوٰۃ لے کر ان کے فقراء میں تقسیم کی جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اغنیاء زکوٰۃ لینے کے زمرے میں نہیں آتے۔

۲۔ **مسئلہ**: ایسے رشتہ دار جن کی کفالت زکوٰۃ دہندہ کے ذمے نہ ہو انہیں زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ البتہ قریبی رشتہ دار جن کی کفالت اور نفقہ زکوٰۃ دینے والے کے ذمے ہو انہیں زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ لہذا والدین کو زکوٰۃ دینا درست نہیں کیونکہ والدین جب تک اولاد کے ساتھ رہتے ہوں تو ان کا نفقہ اور گزارا وقت مشترک ہوتا ہے اس لیے انہیں زکوٰۃ دینے کا مطلب اپنے آپ ہی کو زکوٰۃ دینا ہوگا اور اس طرح زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوگی۔

۳۔ **مسئلہ**: قریبی رشتہ داری میں میاں بیوی کا رشتہ بہت قریبی ہے لہذا شوہر کیلئے اپنی بیوی کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں کیونکہ شوہر پر بیوی کا نفقہ لازم ہے جو اسے زکوٰۃ لینے سے بالا کرتا

ہے اس لیے اگر کوئی شوہر بیوی کو زکوٰۃ دے تو اس کی زکوٰۃ ادا نہ ہوگی۔ کیونکہ میاں بیوی کا گھر ایک ہوتا ہے اس لیے انہیں دینا جائز نہیں۔ ایسے ہی بیوی اپنے خاوند کو زکوٰۃ دینے کی مجاز نہیں اگرچہ شوہر مسکین ہو اور بیوی مالدار کیوں نہ ہو مرد کو اللہ تعالیٰ نے عورت پر فوقیت دی ہے اس لیے مالدار بیوی کا اپنے مسکین شوہر کو زکوٰۃ دینا مرد کی فوقیت کے خلاف ہے کہ مرد اپنی عورت کا بھکاری بنے لہذا مرد کو اپنی عورت سے زکوٰۃ لینا جائز نہیں۔

۴۔ **مسئلہ:** قریبی رشتہ داروں میں بھائی بہن چچا ماموں پھوپھی وغیرہ کا بھی شمار ہوتا ہے۔ اگر وہ زکوٰۃ لینے کے اہل ہوں تو انہیں زکوٰۃ دینا جائز ہے بشرطیکہ ان میں سے کوئی زکوٰۃ دیتے وقت زکوٰۃ دہندہ کی کفالت میں نہ ہو۔ بہن اور بھائی کو اس وقت زکوٰۃ دی جاسکتی ہے جبکہ وہ آپ سے علیحدہ رہتے ہوں البتہ بیوہ بہن کو زکوٰۃ دینا جائز ہے کیونکہ حضرت ابن عباسؓ کا قول ہے کہ اگر کسی شخص کے رشتہ دار محتاج ہوں تو وہ انہیں زکوٰۃ دے۔ اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ والدین اولاد اور بیوی کو چھوڑ کر قریبی رشتہ داروں کی فلاح و بہبود کا خیال رکھنا عین اسلامی صلہ رحمی اور اخوت میں شامل ہے اس لیے ان کے مستحق زکوٰۃ ہونے کی صورت میں انہیں دینا زیادہ بہتر ہے۔

۵۔ **مسئلہ:** جو شخص تندرست و توانا ہو اس کیلئے زکوٰۃ لینا جائز نہیں کیونکہ شرعاً اس کیلئے یہی حکم ہے کہ وہ اپنے کسب سے محنت کرے اور اس سے جو عوضات حاصل ہو اس سے اپنی ضروریات پوری کرے اور زکوٰۃ لینے کی طرف توجہ نہ دے۔

۶۔ **مسئلہ:** اہل بیت پر زکوٰۃ حرام ہے اس کی وجہ آل رسول کا تقدس ہے کیونکہ آل رسول کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبی تعلق کی بنا پر عوام الناس پر فوقیت اور شرف حاصل ہے مگر اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ آل رسول کون ہے؟۔

۷۔ **مسئلہ:** حضرت امام شافعی کے نزدیک بنو ہاشم اور بنو مطلب آل رسول ہیں۔ مگر حضرت امام ابوحنیفہ اور حضرت امام مالک کی رائے یہ ہے کہ صرف بنو ہاشم ہی آل رسول ہیں اور اس میں حضرت علیؓ کی فاطمی اولاد اور غیر فاطمی اولاد یا حضرت عباسؓ یا حضرت جعفرؓ یا حضرت عقیلؓ یا حضرت حارث ابن عبدالمطلب کی اولاد شمار کی جاتی ہے اور یہ سب ہاشمی ہیں۔ ان سب کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔

۸۔ **مسئلہ:** ادائیگی زکوٰۃ سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے کیونکہ جو مال زکوٰۃ میں دیا جائے

اس کے بارے میں انسان کے دل و دماغ میں یہ ارادہ ہونا چاہیے کہ وہ مال اس نے اللہ کی راہ میں زکوٰۃ کا دیا ہے۔ بعض اہل فقہ کے نزدیک نیت کے بغیر زکوٰۃ ادا کرنے سے زکوٰۃ نہیں ہوتی البتہ زکوٰۃ کا روپیہ دے دیا اور نیت بعد میں کی تو پھر بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ نیت زکوٰۃ دینے والے کی طرف سے ہوتی ہے یا اس شخص کی طرف سے ہوگی جس کے مال کا وہ ولی ہے یعنی اگر کوئی شخص کسی بچے مجنون یا کم عقل والے کا ولی ہو تو اسے ان کی جانب سے نیت کر کے زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی اگر یہ والی نیت کیے بغیر زکوٰۃ ادا کرے گا تو اس طرح اس فریضہ کی ادائیگی نہیں ہوگی۔

۹۔ **مسئلہ:** زکوٰۃ دینے کے احکامات کے ساتھ اس امر کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے کہ رزق حلال سے دی جائے اور جس مال کی زکوٰۃ دی جا رہی ہے وہ رزق حلال ہو۔ اسلام میں کسب حلال ہی کمانے کی تلقین ہے اور پھر اس پر زکوٰۃ دینا فرض ہے۔

۱۰۔ **مسئلہ:** زکوٰۃ خفیہ طور پر چپکے سے دینی چاہیے تاکہ نفس میں ریا اور شہرت کا مادہ پیدا نہ ہو۔ پوشیدہ ادائیگی سے خلوص قائم رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ریا کو پسند نہیں کرتا کیونکہ اس سے نفس میں تکبر پیدا ہوتا ہے جو رضائے الہی کے خلاف ہے لہذا زکوٰۃ کی ادائیگی میں ریا سے بچنا بہت اچھا ہے۔ ریا کاری سے نیکی کا اجر ضائع ہو جاتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ کو ریا بالکل پسند نہیں ہے۔

۱۱۔ **مسئلہ:** زکوٰۃ کی ادائیگی میں اس امر کا خیال رکھنا چاہیے کہ زکوٰۃ کی آڑ میں کسی کو احسان مند کر کے اذیت نہیں پہنچانی چاہیے کیونکہ اس طرح اجر ضائع ہو جائے گا۔ کیونکہ اللہ کی راہ میں دی ہوئی چیز احسان جملانے اور اذیت پہنچانے سے ضائع ہو جاتی ہے کیونکہ زکوٰۃ دے کر دوسرے لوگوں سے اس کا ذکر کرنا زکوٰۃ لینے والے سے زکوٰۃ کا بدلہ چاہنا کہ وہ شکر گزار اور دعا گو بنے خدمت اور تعظیم کرنے بے جا کہنا مانے کام کاج کر دے۔ ایسے سب امور احسان کا بدلہ ہوں گے۔ ایسے ہی احسان کرنے کے بعد اذیت دینے سے نیکی ضائع ہو جاتی ہے۔

۱۲۔ **مسئلہ:** زکوٰۃ دینے میں اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اشد ضرورت مند کو دی جائے لہذا زکوٰۃ دیتے وقت اس امر کا خاص خیال رکھے کہ مستحقین زکوٰۃ میں جو سب سے زیادہ حاجت مند ہوں انہیں تلاش کر کے زکوٰۃ دی جائے کیونکہ زیادہ ضرورت مند کو تلاش کر کے دینے سے

ثواب زیادہ ہو جاتا ہے۔ جہاں حکومتی سطح پر نظام زکوٰۃ ہو یعنی حکومت زکوٰۃ جمع کر کے تقسیم کرتی ہو تو اس صورت میں عالمین زکوٰۃ کے فرائض میں یہ بات شامل ہوگی کہ وہ اپنے علاقہ میں غرض مندوں کو تلاش کر کے انہیں زکوٰۃ دیں۔

۹۔ صدقہ فطر

صدقہ فطر وہ ہے جو رمضان المبارک کے روزِ ختم ہونے پر واجب ہوتا ہے اس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات حسب ذیل ہیں:

۱۔ **حدیث:** حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوروں اور جو کا ایک صاع صدقہ فطر مسلمانوں کے ہر غلام آزاد مرد و عورت چھوٹے اور بڑے پر فرض قرار دیا اور حکم دیا کہ نماز عید پڑھنے سے پہلے ادا کر دیا جائے۔ (مسلم)

۲۔ **حدیث:** حضرت عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ سے روایت ہے کہ رسول اکرمؐ نے ایک شخص کو بھیجا کہ مکہ کے گلی کوچوں میں اعلان کر دے کہ صدقہ فطر واجب ہے ہر مسلمان مرد و عورت آزاد غلام چھوٹے اور بڑے پر دو مد گندم یا ایک صاع کھانا۔ (ترمذی)

۳۔ **حدیث:** حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے رمضان کے آخر میں لوگوں سے فرمایا "اپنے روزے کا صدقہ ادا کرو۔" رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صدقہ فطر واجب قرار دیا ہے ایک صاع کھجور یا جو یا آدھا صاع گندم ہر آزاد غلام مرد و عورت اور چھوٹے بڑے پر۔ (ابوداؤد نسائی)

۴۔ **حدیث:** حضرت ابن عباسؓ ہی سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا "زکوٰۃ روزے کو لغو اور بیہودہ باتوں سے پاک کرتی ہے اور مسکینوں کیلئے خورد و نوش کا ذریعہ ہے۔" (ابوداؤد)

۵۔ **حدیث:** حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا "بندے کا روزہ زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتا ہے یعنی قبول نہیں ہوتا جب تک اس کے ذمہ صدقہ فطر واجب ہے اور عمر بھر اس کے ادا کرنے کا وقت ہے۔" (ولیمیٰ ابن عساکر)

صدقہ فطر ادا کرنے کے متعلق شرعی مسائل حسب ذیل ہیں:

۱۔ **مسئلہ:** جو مسلمان اتنا مالدار ہو کہ اس پر زکوٰۃ لاگو ہوتی ہو یا اس پر زکوٰۃ واجب نہیں لیکن ضروری سامان اتنی قیمت کا ہو کہ جس پر زکوٰۃ کا اطلاق ہوتا ہے اس پر نماز عید سے پہلے

صدقہ فطر دینا واجب ہے۔ اس میں زکوٰۃ کی طرح عاقل، بالغ اور مال کے نامی ہونے کی شرط نہیں ہے۔

۲۔ **مسئلہ:** صدقہ فطر واجب ہے عمر بھر اس کا وقت ہے یعنی اگر ادا نہ کیا ہو تو اب ادا کر دے۔ ادا نہ کرنے سے ساقط نہ ہو گا نہ اب ادا کرنا قضا ہے بلکہ اب بھی ادا ہی ہے اگرچہ مسنون قبل نماز عید ادا کر دینا ہے۔ (در مختار وغیرہ)

۳۔ **مسئلہ:** عید کے دن صبح صادق طلوع ہوتے ہی صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے لہذا جو شخص صبح صادق سے پہلے مر گیا یا غنی تھا فقیر ہو گیا یا سورج طلوع ہونے کے بعد کافر مسلمان ہو یا بچہ پیدا ہو یا فقیر تھا غنی ہو گیا تو واجب نہ ہوا۔ اگر سورج طلوع ہونے کے بعد مر یا سورج طلوع ہونے سے پہلے کافر مسلمان ہو یا بچہ پیدا ہو یا فقیر تھا غنی ہو گیا تو واجب ہے۔ (فتاویٰ عالمگیری)

۴۔ **مسئلہ:** صدقہ فطر ہر شخص پر واجب ہے مال پر نہیں۔ لہذا مر گیا تو اس کے مال سے ادا نہیں کیا جائے گا۔ ہاں اگر ورثاء بطور احسان اپنی طرف سے ادا کر دیں تو ہو سکتا ہے کچھ ان پر جبر نہیں اور اگر وصیت کر گیا ہے تو تہائی مال سے ضرور ادا کیا جائے گا اگرچہ ورثاء اجازت نہ دیں۔ (جوہرہ)

۵۔ **مسئلہ:** نابالغ یا مجنون اگر مالک نصاب ہیں تو ان پر صدقہ فطر واجب ہے ان کا ولی ان کے مال سے ادا کرے۔ اگر ولی نے ادا نہ کیا اور نابالغ بالغ ہو گیا یا مجنون کا جنون جاتا رہا تو اب یہ خود ادا کر دے اور اگر خود مالک نصاب نہ تھے اور ولی نے ادا نہ کیا تو بالغ ہونے یا ہوش میں آنے پر ان کے ذمہ ادا کرنا نہیں۔ (در مختار رد المحتار)

۶۔ **مسئلہ:** صدقہ فطر واجب ہونے کیلئے روزہ رکھنا شرط نہیں۔ اگر کسی عذر، سفر، مرض، بڑھاپے کی وجہ سے یا معاذ اللہ بلا عذر روزہ نہ رکھا جب بھی واجب ہے۔

۷۔ **مسئلہ:** مرد مالک نصاب پر اپنی طرف سے اور اپنے چھوٹے بچے کی طرف سے واجب ہے جبکہ بچہ خود مالک نصاب نہ ہو ورنہ اس کا صدقہ اسی کے مال سے ادا کیا جائے اور مجنون اولاد اگرچہ بالغ ہو جبکہ غنی نہ ہو تو اس کا صدقہ اس کے باپ پر واجب ہے اور غنی ہو تو خود اس کے مال سے ادا کیا جائے جنون خواہ اصلی ہو یعنی اصلی حالت میں بالغ ہو یا بعد کو عارض ہو اور دونوں کا ایک حکم ہے۔ (در مختار)

۸۔ **مسئلہ:** اپنی عورت اور اولاد عاقل و بالغ کا فطرہ اس کے ذمے نہیں اگرچہ اپنا جہ ہو

اگرچہ اس کے نفقات اس کے ذمہ ہوں۔ عورت یا بالغ اولاد کا فطرہ ان کے بغیر اذن ادا کر دیا تو ادا ہو گیا۔ بشرطیکہ اولاد اس کے عیال میں ہو یعنی اس کا نفقہ وغیرہ اس کے ذمے ہو ورنہ اولاد کی طرف سے بلا اذن ادا نہ ہوگا اور عورت نے اگر شوہر کا فطرہ بغیر حکم ادا کر دیا تو ادا نہ ہوا۔ ماں باپ دادا دادی نابالغ بھائی اور دیگر رشتہ داروں کا فطرہ اس کے ذمہ نہیں اور بغیر حکم ادا بھی نہیں کر سکتا۔ (فتاویٰ عالمگیری)

۹۔ مسئلہ: صدقہ فطر کی مقدار یہ ہے۔ گیہوں یا اس کا آٹا یا ستونصف صاع کھجور یا منقے یا جو یا اس کا آٹا یا ستو ایک صاع۔ گیہوں جو منقے کھجوریں دی جائیں تو ان کی قیمت کا اعتبار نہیں مثلاً نصف صاع عمدہ جو جن کی قیمت ایک صاع جو کے برابر ہے یا چہارم صاع کھرے گیہوں جو قیمت میں نصف صاع گیہوں کے برابر ہیں یا نصف صاع کھجوریں دیں جو ایک صاع جو یا نصف صاع گیہوں کی قیمت کے ہوں یہ سب ناجائز ہے جتنا دیا اتنا ہی ادا ہوا باقی اس کے ذمہ واجب ہے ادا کرے۔ (عالمگیری)

۱۰۔ مسئلہ: گیہوں اور جو کے دینے سے ان کا آٹا دینا افضل ہے اور اس سے افضل یہ کہ قیمت دے دے۔ خواہ گیہوں دے یا جو کی یا کھجور کی۔ مگر گرانی میں خود ان کا دینا قیمت دینے سے افضل ہے اور اگر خراب گیہوں یا جو کی قیمت دی تو اچھے کی قیمت سے جو کمی پڑی پوری کرے۔ (درمختار ردالمحتار)

نصف صاع سے مراد سوادوسیر یعنی دو کلو ۲۳۵ گرام ہے اور صاع سے مراد ۴ کلو ۷۰۰ گرام قیمت ادا کرنا زیادہ بہتر ہے تاکہ لینے والے اپنی ضرورت کے مطابق استعمال میں لاسکیں۔

۱۱۔ مسئلہ: فطرہ کا مقدم کرنا مطلقاً جائز ہے جب کہ وہ شخص موجود ہو جس کی طرف سے ادا کرتا ہو اگرچہ رمضان سے پیشتر ادا کرے اور اگر فطرہ ادا کرتے وقت مالک نصاب نہ تھا پھر ہو گیا تو فطرہ صحیح ہے اور بہتر یہ ہے کہ عید کی صبح صادق ہونے کے بعد اور عید گاہ جانے سے پہلے ادا کر دے۔ (درمختار عالمگیری)

۱۲۔ مسئلہ: ایک شخص کا فطرہ ایک مسکین کو دینا بہتر ہے اور چند مسکین کو دے دیا جب بھی جائز ہے یونہی ایک مسکین کو چند اشخاص کا فطرہ دینا بھی بلا خلاف جائز ہے اگرچہ سب فطرے ملے ہوئے ہوں۔ (درمختار ردالمحتار)

۳۔ مسئلہ: شوہر نے عورت کو اپنا فطرہ ادا کرنے کا حکم دیا اس نے شوہر کے فطرے کے

گیہوں میں ملا کر فقیر کو دے دیے اور شوہر نے ملائے کا حکم نہ دیا تھا تو عورت کا فطرہ ادا ہو گیا۔ شوہر کا نہیں مگر جبکہ ملا دینے پر عرف جاری ہو تو شوہر کا بھی ادا ہو جائے گا۔ عورت نے شوہر کو اپنا فطرہ ادا کرنے کا اذن دیا اس نے عورت کے گیہوں اپنے گیہوں میں ملا کر سب کی نیت سے فقیر کو دے دیے جائز ہے۔ (عالمگیری)

۱۴۔ مسئلہ: صدقہ فطر کے مصارف وہی ہیں جو زکوٰۃ کے ہیں یعنی جن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں انہیں فطرہ بھی دے سکتے ہیں اور جنہیں زکوٰۃ نہیں دے سکتے انہیں فطرہ بھی نہیں۔ سوا عامل کے کہ اس کیلئے زکوٰۃ ہے فطرہ نہیں۔ (در مختار رد المحتار)

۱۰۔ فضائل صدقہ و خیرات

رضائے الہی کی خاطر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو صدقہ، نفل اور خیرات کہا جاتا ہے۔ اس کی بڑی فضیلت اور برکت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود انسانوں کی بہتری اور بھلائی کے پیش نظر اس پر بڑا زور دیا ہے اور دین و دنیا کی بھلائی قرار دیا ہے اس کی اہمیت اور فضیلت کے پیش نظر حضورؐ نے بھی صدقہ و خیرات کی از حد ترغیب دی ہے۔ اس کے فضائل کے متعلق چند احادیث حسب ذیل ہیں:

۱۔ حدیث: حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ کہتا ہے کہ یہ میرا مال ہے وہ میرا مال ہے۔ بندے کو اس کے مال سے تین قسم کا فائدہ ہوتا ہے کھاپی کر ختم کر دیا۔ یا پہن کر پرانا کر دیا یا کسی کو دے کر آخرت کے لیے جمع کر لیا۔ اس کے سوا باقی مال دنیا سے جاتے وقت وہ دوسروں کیلئے چھوڑ جائے گا۔ جس سے اسے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ (مسلم شریف)

۲۔ حدیث: حضرت ابن مسعودؓ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ تم میں سے کون ہے کہ جسے اپنے وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ محبوب ہے۔ صحابہؓ نے عرض کی یا رسول اللہ! ہم میں سے کوئی ایسا نہیں جسے اپنا مال زیادہ عزیز نہ ہو۔ تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا مال تو وہ ہے جو آگے روانہ کر چکا ہے اور جو پیچھے چھوڑ گیا وہ وارث کا مال ہے۔ (بخاری شریف)

۳۔ حدیث: حضرت ابو مسعودؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”جب مسلمان اپنے اہل و عیال کی کفالت کرتا ہے اور اجر کی امید رکھتا ہے تو یہ خرچہ اس کیلئے بمنزلہ صدقہ کے ہے۔“

۴۔ حدیث: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی صدقہ دیتا ہے خواہ وہ ایک کھجور جتنا ہی کیوں نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس صدقہ کو اپنے واسطے ہاتھ میں لیتا ہے بشرطیکہ وہ پاک کمائی سے ہو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ پاک ہی چیز کو قبول و پسند فرماتا ہے۔ پھر وہ اس صدقہ کی پرورش کرتا ہے اور اس کو بڑھاتا ہے۔ حتیٰ کہ ایک کھجور ایک پہاڑ کے برابر ہو جاتی ہے۔ (بخاری و مسلم)

۵۔ حدیث: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سخی اللہ تعالیٰ اور جنت اور لوگوں کے قریب ہوتا ہے اور دوزخ سے دور ہوتا ہے اور بخیل شخص اللہ تعالیٰ اور جنت اور لوگوں سے دور ہوتا ہے اور دوزخ کے قریب ہوتا ہے اور جاہل سخی اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب اور پیارا ہے بخیل عابد سے۔ (ترمذی شریف)

۶۔ حدیث: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر صبح آسمان سے دو فرشتے اتر کر یہ دعا کرتے ہیں ایک دعا مانگتا ہے الہی! اچھے کاموں میں خرچ کرنے والوں کو زیادہ مال و دولت دے اور دوسرا کہتا ہے الہی! بخیل کے مال کو تباہ و برباد کر دے۔ (بخاری و مسلم)

۷۔ حدیث: حضرت ابو امامہؓ سے روایات ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اے ابن آدم بچے ہوئے مال کا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا تیرے لیے بہتر ہے اور اس کا روکنا یعنی راہ خدا میں نہ دینا تیرے لیے برا ہے۔ اور بقدر ضرورت روکنے پر تو ملامت نہیں اور صدقہ دینا پہلے ان سے شروع کر جو تیری پرورش میں ہیں۔ یعنی اہل و عیال اور قریبی رشتہ دار۔ (ترمذی شریف)

۸۔ حدیث: حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا۔ راہ خدا میں خرچ کر اور شمار نہ کر۔ ورنہ اللہ تعالیٰ بھی تجھے گن کر اور شمار کر کے دے گا اور راہ خدا میں دینے سے ہاتھ بند نہ کر ورنہ اللہ تعالیٰ بھی تجھ پر دینا بند کر دے گا۔ جتنی تجھے توفیق و استطاعت ہو راہ خدا میں خرچ کرتی رہو۔ (بخاری و مسلم)

۹۔ حدیث: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک درہم ایک لاکھ درہم سے بڑھ گیا۔ کسی نے دریافت کیا یا رسول اللہ! وہ کس طرح؟ فرمایا ایک آدمی کے پاس بہت مال و

دولت ہے اس نے اپنے مال سے ایک لاکھ درہم خیرات کیے لیکن ایک غریب کے پاس صرف دو ہی درہم تھے اس نے ایک خیرات کر دیا تو اس غریب کا ایک درہم اس دولت مند کے لاکھ درہم سے بڑھ گیا۔ (نسائی ابن حبان)

۱۰۔ حدیث: حضرت سلیمان بن عامرؓ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسکین و محتاج کو صدقہ دینے کا تو صرف ایک ثواب ہوتا ہے لیکن رشتہ دار کو دینے کا دہرا ثواب ہوتا ہے ایک صدقہ کا اور دوسرا صلہ رحمی کا یعنی رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے کا۔ (نسائی شریف)

۱۱۔ حدیث: حضرت ابو ہریرہؓ عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ! کونسا صدقہ افضل ہے تو آپ نے فرمایا کم سرمایہ والے کا کار خیر میں کوشش کرنا اور کار خیر میں اس سے ابتدا کرو جس کی کفالت تمہارے ذمہ ہے۔ (ابوداؤد)

۱۲۔ حدیث: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روٹی کا ایک لقمہ صدقہ کرنے کی وجہ سے تین آدمی جنت میں داخل کیے جاتے ہیں۔ ایک حکم دینے والا دوسرا پکانے والا تیسرا وہ نوکر جس نے روٹی کا وہ لقمہ مسکین کو جا کر دیا۔ (طبرانی)

۱۳۔ حدیث: حضرت عدیؓ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: ”اگر کوئی آدمی ایک کھجور خیرات کر کے دوزخ سے بچ سکتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنی جان کو دوزخ سے بچائے“ (بخاری و مسلم)

۱۴۔ حدیث: حضرت علیؓ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صدقہ و خیرات دینے میں جلدی کرو۔ کیونکہ بلا و مصیبت صدقہ کو نہیں پھلانگ سکتی۔ یعنی صدقہ مصیبت کو نال دیتا ہے۔ (زرین)

۱۵۔ حدیث: حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل ترین صدقہ بھوکے کو کھانا کھلانا ہے (نبہتی) ایسے ہی ایک روایت میں ہے کہ کسی بھوکے کو پیٹ بھر کر کھانا کھلانے اور پانی پلانے سے دوزخ سات خندق (ساڑھے سات ہزار سال) کے راہ کی مقدار دور کر دی جاتی ہے۔ (متدرک حاکم)

۱۵۔ حدیث: حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”آدمی کا اپنی زندگی و صحت میں ایک درہم صدقہ کرنا اسی وقت کے سو درہم صدقہ“

کرنے سے بہتر ہے۔ (ابوداؤد)

۱۷۔ حدیث: حضرت عقبہ بن عامرؓ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے صدقہ و خیرات دینے والے قبر کی آگ اور حرارت سے محفوظ ہوں گے اور صدقہ کی آگ و بھاد تپتا ہے۔ (طبرانی)

۱۸۔ حدیث: حضرت عقبہ بن عامرؓ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے (پچاس ہزار سال کے) دن میں لوگ حساب و کتاب میں مبتلا ہوں گے لیکن صدقہ دینے والے اپنے صدقہ کے سایہ میں ہوں گے۔ (مسند احمد)

حج

قصد اور ارادے کا نام حج ہے مگر شرعاً احرام باندھ کر بیت اللہ اور مقامات حج پر اسلام کے مقرر کردہ طریقے کے مطابق اللہ کی عبادت اور نیک اعمال سرانجام دینے کو حج کہا جاتا ہے۔ حج اسلام کے ارکان میں سے ہے بلکہ یہ رکن بڑا اہم ہے۔ حج ۹ھ میں فرض ہوا لہذا اس کی فرضیت اور حقیقت سے انکار کرنا اسلام سے خارج ہونا ہے۔ حج صرف ایک ایسا فریضہ ہے جو بیک وقت بدنی، زبانی اور مالی عبادت کا مجموعہ ہے۔ حج اللہ کے گھر یعنی بیت اللہ سرزمین مکہ میں کیا جاتا ہے مقام حج اور فرضیت کے بارے میں ارشادات الہیٰ حسب ذیل ہیں:

بلاشبہ سب سے پہلا عبادت خانہ جو بنایا گیا لوگوں کیلئے وہ ہے جو مکہ میں ہے بڑا برکت والا اور سب جہانوں کیلئے ہدایت کا مرکز ہے اس میں کھلی نشانیاں ہیں (اور ان میں سے ایک نشانی) مقام ابراہیم سے جو داخل ہوا اس میں وہ امن پا گیا اور اللہ کیلئے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا فرض ہے جو طاقت رکھتا ہو وہاں پہنچنے کی اور جو شخص منکر ہو (اس کا) تو بیشک اللہ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے۔ (پ ۴: آل عمران ۹۶)

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبْرَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ ه
فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ه
وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ه
لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ
مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ه
وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ
عَنِ الْعَالَمِينَ ه

(پ ۴: آل عمران ۹۶)

مزید ارشاد باری تعالیٰ ہے:

حج کے چند معلوم مہینے ہیں۔ تو جو شخص ان میں نیت حج کی کرے وہ کوئی بے حیائی کی بات نہ کرے نہ کوئی گناہ کرے اور نہ کسی سے جھگڑے حج کے دوران میں۔ اور تم جو نیک کام کرو اللہ اسے جانتا ہے اور سفر خرچ ساتھ لے لو۔ سب سے بہتر سفر خرچ تقویٰ ہے اور مجھ سے ڈرانے رہو اللہ بخیر بخیر! (پ ۲: البقرہ ۱۹۷)

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ ه فَمَنْ
فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ
وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي
الْحَجِّ ه وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ
يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَتَرَوُودُوا فَإِنَّ خَيْرَ
الزَّادِ التَّقْوَىٰ ه وَاتَّقُوا يَا أُولِي
الْأَلْبَابِ ه (پ ۲: البقرہ ۱۹۷)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبہ میں ارشاد فرمایا کہ اے لوگو! تم پر حج فرض کیا گیا ہے لہذا حج کرو۔ ایک آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ آپ خاموش رہے۔ اس شخص نے تین بار یہی پوچھا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا۔ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تم پر ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا اور تم اس پر عمل نہ کر سکتے۔ (مسلم) حج عمر میں صرف ایک بار ہی فرض ہے جس نے اس سے زیادہ کیے وہ نفل ہیں۔ (احمد نسائی)

۱۔ فضائل حج و عمرہ

حج ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ کے ہاں اس کا اجر بے پناہ ہے اور اس کا سب سے بڑا اجر تو یہ ہے کہ حج کرنے والے کے تمام گناہ یکدم معاف ہو جاتے ہیں اور بالکل بے گناہ ہو جاتا ہے اس لیے یہ ایسی عظیم عبادت ہے کہ اس سے انسان کی دین و دنیا سنور جاتی ہے۔ حج کی فضیلت کے متعلق حضور ﷺ کے ارشادات بے شمار ہیں۔ ان میں سے چند حسب ذیل ہیں:

۱۔ **حدیث:** حضرت ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کونسا عمل افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا ”اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔“ سائل نے معلوم کیا اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا ”اللہ کی راہ میں جہاد“ عرض کی گئی کہ اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا ”مقبول حج“۔ (بخاری شریف)

۲۔ **حدیث:** حضرت ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”جس نے اللہ کے لیے حج کیا اور اس کے درمیان کوئی غلطی اور گناہ کا کام نہیں کیا تو وہ اس طرح واپس ہوگا جیسا کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے وقت تھا۔“ (مسلم شریف)

۳۔ **حدیث:** حضرت ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”ایک عمرہ سے دوسرے عمرہ تک کا درمیانی عرصہ گناہوں کا کفارہ ہے اور مقبول حج کی جزا جنت ہے۔“ (بخاری شریف)

۴۔ **حدیث:** حضرت ابو ہریرہؓ ہی روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مہمان تین ہیں۔ مجاہد حج یا عمرہ کرنے والا۔ (نسائی)

۵۔ **حدیث:** حضرت ابو ہریرہؓ ہی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”حاجی اور عمرہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں۔ اگر وہ دعا کریں گے تو قبول ہوگی اور اگر مغفرت چاہیں گے تو بخشے جائیں گے۔“ (ابن ماجہ)

۶۔ **حدیث:** حضرت ابن عباسؓ روایت کرتے ہیں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے

”فرمایا جس شخص کا حج کا ارادہ ہو وہ اس کو پورا کرنے میں عجلت کرے۔“ (ابوداؤد ڈواری)

۷۔ حدیث: حضرت ابن مسعودؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج و عمرہ یکے بعد دیگرے کرو کیونکہ یہ دونوں تنگ دستی اور گناہوں کو دور کرتے ہیں جس طرح بھٹی میں لوہے سونے اور چاندی کا میل صاف ہو جاتا ہے اور حج مقبول کا ثواب جنت کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ (ترمذی نسائی)

۸۔ حدیث: حضرت ابن عباسؓ روایت کرتے ہیں کہ یمن والوں کا یہ وطیرہ تھا کہ جب وہ حج کیلئے آتے تو اپنے ساتھ زاوراہ نہ لاتے اور مکہ میں آ کر بھیک مانگتے اور کہتے کہ ہم تو متوکل ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ زاوراہ لے کر چلو اور بہتر زاوراہ تقوے ہے۔ (بخاری شریف)

۹۔ حدیث: حضرت ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حج عمرے یا جہاد کے ارادے سے گھر سے چلا اور راستہ میں اس کی موت آ گئی تو اللہ تعالیٰ اس کو غازی حاجی اور عمرہ کرنے والے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ (بیہقی)

۱۰۔ حدیث: حضرت ابو امامہؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”جس شخص کو حج کی ادائیگی میں نہ تو کوئی ظاہری حاجت مزاحم ہوئی نہ وہ بیماری یا حاکم کے جبر کی وجہ سے رکا بلکہ بلا وجہ حج نہ کیا اب اس کو چاہیے کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر۔“ (دارمی شریف)

۱۱۔ حدیث: حضرت عائشہؓ روایت کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد کیلئے اجازت طلب کی تو آپؐ نے فرمایا تمہارا جہاد حج ہے۔ (مسلم شریف)

۱۲۔ حدیث: حضرت ابن عباسؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”رمضان میں عمرہ کا ثواب حج کے برابر ہے۔“ (بخاری)

۱۳۔ حدیث: حضرت عائشہ صدیقہؓ روایت کرتی ہیں کہ میں نے رسول اکرم ﷺ سے معلوم کیا کہ عورتوں پر جہاد ہے۔ تو آپؐ نے فرمایا ہاں! ایسا جہاد جس میں جنگ و جدل نہیں وہ حج و عمرہ ہے۔ (ابن ماجہ)

۱۴۔ حدیث: حضرت ابن عباسؓ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے آ کر رسول اللہ سے عرض کیا۔ میری بہن نے حج کی نذر مانی تھی لیکن اس کا انتقال ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر اس پر قرض ہوتا تو کیا تم ادا کرتے؟ اس نے کہا ہاں! تو آپؐ نے فرمایا ”اب اللہ کے

قرض کو ادا کرو۔ اس کو ادا کرنے کی زیادہ ضرورت ہے۔“ (بخاری شریف)

۱۵۔ حدیث : حضرت ابن عباسؓ روایت کرتے ہیں کہ قبیلہ ثعم کی ایک عورت نے رسول اللہؐ سے عرض کیا یا رسول اللہ! رب تعالیٰ کے فرائض میں سے ایک فریضہ حج میرے والد پر لازم ہو گیا ہے لیکن وہ اتنے بوڑھے ہیں کہ وہ سواری پر بیٹھ نہیں سکتے، کیا میں ان کی طرف سے حج کروں؟ تو آپؐ نے فرمایا ”ہاں!“ راوی کہتے ہیں کہ یہ واقعہ حجت الوداع کا ہے۔ (مسلم شریف)

۱۶۔ حدیث : حضرت ابن عباسؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہؐ نے فرمایا ”لوگ غیر عورتوں کے ساتھ تخیلہ میں نہ بیٹھیں اور عورتیں محرم کے علاوہ کسی کے ساتھ سفر میں نہ جائیں۔“ اس وقت ایک صحابیؓ نے کہا کہ میرا نام تو فلاں فلاں غزوہ کیلئے مقرر ہوا ہے اور میری بیوی حج کیلئے نکلی ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ تم جاؤ اور اپنی بیوی کے ساتھ حج کرو۔ (بخاری شریف)

۱۷۔ حدیث : حضرت انسؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار مرتبہ عمرہ کیا اور یہ تمام عمرے ذی القعدہ کے مہینے میں ہوئے سوائے اس عمرے کے جو حج کے ساتھ کیا تھا۔ ایک عمرہ حدیبیہ پر دوسرا عمرہ اس سے اگلے سال اور ایک عمرہ کیلئے بھرانہ سے جنگ حنین کے بعد اموال غنیمت کی تقسیم سے فارغ ہو کر روانہ ہوئے۔ یہ تین عمرے ذی القعدہ میں ایک عمرہ حج کے ساتھ ذی الحجہ میں کیا۔ (مسلم شریف)

۲۔ احکام حج

حج ہر صاحب استطاعت، مسلمان، بالغ، عاقل، تندرست، صحیح الاعضاء، آزاد مرد و عورت پر حج بیت اللہ شریف پہنچ سکتے ہوں، عمر بھر میں صرف ایک بار فرض ہے۔ حج کی فرضیت نص قطعی یعنی قرآن پاک سے ثابت ہے۔ حج کا منکر دائرہ اسلام سے خارج اور حج کا تارک اور بلا عذر شرعی دہر کرنے والا سخت گناہگار فاسق و فاجر ہے۔ دکھلاوے کیلئے حج کرنا اور مال حرام سے حج کو جانا حرام اور گناہ عظیم ہے۔ ماں باپ اگر خدمت کے محتاج ہوں تو ان کی اجازت کے بغیر حج فرض کو جانا مکروہ ہے۔ حج نفل میں والدین کی خدمت مقدم ہے ہاں اگر وہ اجازت دیں تو جائے ورنہ نہ جائے۔ جب حج کو جانے پر قادر ہو اور تمام ضروری اخراجات مہیا ہو جائیں تو اسی سال حج فرض ہو گیا ہے لہذا فوراً حج ادا کرنے کی کوشش کی جائے اب تاخیر گناہ ہے۔ اگر چند سال مزید خیر کی گئی تو ایسے

تخص فاسق و مردود گواہی والا ہے مگر جب بھی حج کرے گا ادا ہی ہوگا، قضا نہیں کہلائے گا۔ مال و اخراجات حج مہیا تھے مگر سستی سے فریضہ حج ادا نہ کیا۔ پھر مال ضائع ہو گیا تو قرض لے کر حج ادا کیا جائے مگر نیت یہ ہو کہ بتوفیق الہی قرض ضرور ادا کر دوں گا۔ ایسی صورت میں اگر قرض ادا نہ بھی ہو سکے تو امید کامل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر مواخذہ نہیں فرمائے گا۔ حج کے واجب ہونے اور اس کی صحیح ادائیگی کے مسائل مندرجہ ذیل ہیں:

۱۔ حج فرض ہونے کی شرائط: حج واجب ہونے کی آٹھ شرطیں ہیں۔ جب

تک وہ سب نہ پائی جائیں حج فرض نہیں۔ وہ یہ ہیں:

(۱) مسلمان ہونا۔ کافر پر حج فرض نہیں۔

(۲) دارالہرب میں ہو تو یہ بھی ضروری ہے کہ جانتا ہو کہ حج اسلام کے فرائض میں سے ہے۔

(۳) بالغ ہونا یعنی نابالغ پر حج فرض نہیں۔

(۴) عاقل ہونا۔ لہذا مجنون پر حج فرض نہیں۔

(۵) آزاد ہونا یعنی لونڈی غلام پر حج فرض نہیں۔

(۶) تندرست ہونا کہ حج کو جاسکے۔ اس کے اعضاء سلامت ہوں۔ انکھیاں ہولہذا پانچ اور

فالج والے اور جس کے پاؤں کٹے ہوں اور اس بوڑھے پر کہ سواری پر خود نہ بیٹھ سکتا ہو حج

فرض نہیں۔ یونہی اندھے پر بھی حج فرض نہیں اگرچہ ہاتھ پکڑ کر لے چلنے والا اسے ملے ان

سب پر یہ بھی ضروری نہیں کہ کسی کو بھیج کر اپنی طرف سے حج کرا دیں۔

(۷) سفر خرچ کا مالک ہونا اور سواری کی قدرت ہونا۔ چاہے سواری کا مالک ہو یا اس کے

پاس اتنا مال ہو کہ سواری کرایہ پر لے سکے۔

(۸) حج کا وقت یعنی حج کے مہینوں میں تمام شرائط پائی جائیں گی تو حج فرض ہو جائے گا۔

(فتاویٰ عالمگیری)

۲۔ ادائیگی حج کی شرائط: حج فرض ہونے کے بعد ادائیگی حج کی کچھ شرائط ہیں

سب یہ شرائط پائی جائیں تو خود حج کو جانا ضروری ہے اور اگر یہ سب شرطیں نہ پائی جائیں تو خود حج

کو جانا ضروری نہیں بلکہ دوسرے سے حج کرا سکتا ہے۔ یا وصیت کر جائے مگر اس میں یہ بھی

ضروری ہے کہ حج کرانے کے بعد آخر عمر تک خود قادر نہ ہو ورنہ خود بھی حج کرنا ضروری ہوگا۔ وہ

شرطیں یہ ہیں:

(۱) راستہ میں امن و امان ہونا۔ یعنی اگر غالب گمان ملامتی کا ہو تو حج کئے جانا ضروری ہے۔

اور غالب گمان یہ ہو کہ ڈاکہ یا لڑائی کی وجہ سے جان ضائع ہو جائے گی تو حج کیلئے جانا ضروری نہیں۔

(۲) عورت کو مکہ تک جانے میں تین دن یا زیادہ کا راستہ ہو تو اس کے ہمراہ شوہر یا محرم کا ہونا شرط ہے خواہ وہ عورت جوان ہو یا بڑھیا اور اگر تین دن سے کم کا راستہ ہو تو عورت بغیر شوہر اور محرم کے بھی جاسکتی ہے۔ محرم سے مراد وہ مرد ہے کہ جس سے ہمیشہ کیلئے اس عورت کا نکاح حرام ہو۔ چاہے نسب کی وجہ سے نکاح حرام ہو جیسے بیٹا باپ، بھائی وغیرہ چاہے دودھ کے رشتہ سے نکاح حرام ہو جیسے رضاعی بھائی، رضاعی باپ، رضاعی بیٹا وغیرہ یا سسرال کے رشتہ سے نکاح حرام ہو جیسے خسر یا شوہر کا بیٹا عورت شوہر یا محرم جس کے ساتھ سفر کر سکتی ہے اس کا عاقل، بالغ، غیر فاسق ہونا شرط ہے۔

(۳) حج کو جانے کے زمانے میں عورت عدت سے نہ ہو چاہے وفات کی عدت ہو یا طلاق کی ہو۔

(۴) قید میں نہ ہو۔ حاکم اگر حج کو جانے سے روکتا ہے تو اس عذر کا بھی یہی حکم ہے۔ (فتاویٰ عالمگیری)

۳: صحت ادا کی شرائط: صحت ادا کی نو شرطیں ہیں کہ اگر یہ نہ پائی جائیں تو حج صحیح نہیں ہوگا۔ وہ شرائط یہ ہیں:

(۱) مسلمان ہونا۔

(۲) احرام کہ بغیر احرام کے حج نہیں ہو سکتا۔

(۳) حج کا وقت یعنی حج کیلئے جو وقت شریعت کی طرف سے معین ہے اس سے قبل حج کے افعال نہیں ہو سکتے۔

(۴) افعال حج کی جگہوں پر افعال کرنا۔ مثلاً طواف کی جگہ مسجد حرام ہے۔ وقوف کی جگہ

میدان عرفات و مزدلفہ ہے۔ کنکری مارنے کی جگہ منیٰ ہے اگر یہ کام دوسری جگہ کرے گا تو حج صحیح نہیں ہوگا (۵) تمیز کرنا اتنا چھوٹا بچہ کہ جس میں کسی چیز کی تمیز ہی نہ ہو اس کا حج صحیح نہیں۔

(۶) عقل والا ہونا کہ مجنون اور دیوانے کا حج صحیح نہیں۔

(۷) حج کے فرائض کو ادا کرنا۔ جس نے حج کا کوئی فرض چھوڑ دیا اس کا حج صحیح نہیں ہوا۔

(۸) احرام کے بعد اور عرفات میں وقوف سے پہلے جماع نہ ہو گا اگر ہو گا تو حج باطل ہو جائے گا (۹) جس سال احرام باندھا اسی سال حج کرنا۔ اگر اس سال احرام باندھا اور

چاہے کہ اسی احرام سے آئندہ سال حج کرے تو یہ حج صحیح نہیں ہوگا۔ (بہار شریعت ج ۶)
۴: فرائض حج: فریضہ حج ادا کرنے کی سعادت پانے والوں کے لیے ضروری بلکہ فرض ہے کہ وہ حج کے ان تمام مسائل و احکام سے پوری طرح باخبر ہوں تاکہ دین اسلام کا یہ بنیادی اور آخری عظیم الشان رکن کما حقہ ادا ہو سکے۔ حج میں یہ افعال و امور فرض یا رکن ہیں:

(۱) احرام کی یہ شرط ہے۔

(۲) وقوف عرفہ یعنی نویں ذی الحجہ کے آفتاب ڈھلنے سے دسویں کی صبح صادق سے پہلے تک کسی وقت عرفات میں ٹھہرنا۔

(۳) طواف زیارت کا اکثر حصہ یعنی چار پھیرے۔ یہ دونوں چیزیں یعنی عرفہ کا وقوف اور طواف زیارت حج کا رکن ہیں۔

(۴) نیت۔

(۵) ترتیب یعنی پہلے احرام باندھنا پھر عرفہ میں ٹھہرنا پھر طواف زیارت۔

(۶) ہر فرض کا اپنے وقت پر ہونا۔

(۷) مکان یعنی وقوف عرفہ میدان عرفات کی زمین میں ہونا 'سوا بطن عرنہ' کے اور طواف کا مکان مسجد الحرام شریف ہے۔ (در مختار)

۵: واجبات حج: حج کے واجبات یہ ہیں:

(۱) میقات سے احرام باندھا یعنی میقات سے بغیر احرام باندھے آگے نہ گزرنا اور اگر میقات سے ہی احرام باندھا جائے تو جائز ہے۔

(۲) صفا و مروہ کے درمیان دوڑنا اس کو 'سعی' کہتے ہیں۔

(۳) سعی کو صفا سے شروع کرنا۔

(۴) اگر عذر نہ ہو تو پیدل سعی کرنا۔

(۵) دن میں میدان عرفات کے اندر وقوف کیا ہے تو اتنی دیر تک وقوف کرے کہ آفتاب ہو جائے آفتاب ڈھلتے ہی شروع کیا تھا یا بعد میں عرض غروب آفتاب تک وقف مشغول رہے اور اگر رات میں میدان عرفات کے اندر وقوف کیا ہے تو اس کے لیے کسی خاص حد تک وقوف کرنا واجب نہیں مگر وہ اس واجب کا تارک ہو کہ دن غروب آفتاب تک وقوف کرتا۔

(۶) وقوف میں رات کا کچھ حصہ آجانا۔

(۷) عرفات سے واپسی میں امام کی پیروی کرنا یعنی جب تک امام میدان عرفات سے نہ

نکلے یہ بھی نہ چلے ہاں اگر اگر امام نے وقت سے تاخیر کی تو اسے امام سے پہلے میدان عرفات سے روانہ ہو جانا جائز ہے۔ اگر زبردست بھینٹ کی وجہ سے یا کسی دوسری ضرورت سے امام کے چلے جانے کے بعد میدان عرفات میں ٹھہرا رہا امام کے ساتھ نہ گیا جب بھی جائز ہے۔
(۸) مزدلفہ میں ٹھہرنا۔

(۹) مغرب و عشا کی نماز کا عشا کے وقت میں مزدلفہ پہنچ کر پڑھنا۔

(۱۰) تینوں جمروں ہر دسویں، گیارہویں و بارہویں ذوالحجہ کو تینوں جمروں پر کنکریاں مارنا۔ یعنی دسویں ذوالحجہ کو صرف جمرۃ العقبہ پر اور گیارہویں و بارہویں ذوالحجہ کو تینوں جمروں پر کنکریاں مارنا (۱۱) جمرۃ العقبہ کی رمی پہلے دن سرمنڈانے سے پہلے ہونا۔

(۱۲) ہر روز کی رمی کا اسی دن ہونا۔

(۱۳) احرام کھولنے کے لیے سرمنڈانا یا بال کترانا۔

(۱۴) یہ سرمنڈانا یا بال کترانا ایام نحر یعنی دسویں، گیارہویں و بارہویں ذوالحجہ کی تاریخوں کے اندر اندر ہو جانا۔ اور سرمنڈانا یا بال کترانا منی یا حرم کی حدود کے اندر ہونا۔

(۱۵) قرآن یا تمتع کرنے والے کا قربانی کرنا۔

(۱۶) اور اس قربانی کا حدود حرم اور ایام نحر میں ہونا۔

(۱۷) طواف زیارت کا اکثر حصہ ایام نحر میں ہو جانا۔ عرفات سے واپسی میں جو طواف کیا جاتا ہے۔ اس کا نام طواف زیارت ہے اور اس طواف کو طواف افاضہ بھی کہتے ہیں۔

(۱۸) طواف، حطیم کے باہر ہونا۔

(۱۹) داہنی طرف سے طواف کرنا یعنی کعبہ معظمہ طواف کرنے والے کے بائیں جانب ہو۔

(۲۰) عذر نہ ہو تو پاؤں سے چل کر طواف کرنا ہاں عذر ہو تو سواری پر بھی طواف کرنا جائز ہے۔

(۲۱) طواف کرنے میں با وضو اور با غسل ہونا۔ اگر بے وضو یا جنابت کی حالت میں طواف کر لیا تو اس طواف کو دہرائے۔

(۲۲) طواف کرتے وقت ستر چھپانا۔

(۲۳) طواف کے بعد دو رکعت نماز تحسیۃ الطواف پڑھنا۔ لیکن اگر نہ پڑھی تو قربانی واجب نہیں۔

(۲۴) کنکریاں مارنے قربانی کرنے اور طواف زیارت میں ترتیب یعنی پہلے کنکریاں مارے

پھر غیر مفرد قربانی کرے پھر سرمنڈانے پھر طواف زیارت کرے

marfat.com

- (۲۵) طواف صدر یعنی میقات سے باہر کے رہنے والوں کے لیے رخصت کا طواف کرنا۔
 (۲۶) وقوف عرفہ کے بعد سر منڈانے تک جماع نہ ہونا۔
 (۲۷) احرام کے ممنوعات مثلاً سلا ہوا کپڑا پہننے اور منہ یا سر چھپانے سے بچنا۔ (بہار شریعت ج ۶)

واجب کے چھوٹ جانے سے دم یعنی بکرا ذبح کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ ہاں چند ایک واجبات ایسے ہیں جن کے ترک سے دم واجب نہیں ہوتا۔ ان کی اپنے مقام پر وضاحت کر دی گئی ہے۔ واجب کے چھوٹ جانے سے حج باطل نہیں ہوتا۔ فرض یا رکن کے چھوڑ جانے سے حج باطل ہو جاتا ہے۔

۶۔ حج کی سنتیں: حج کی سنتیں یہ ہیں:

- (۱) طواف قدوم یعنی میقات سے باہر آنے والا مکہ معظمہ پہنچ کر سب سے پہلا جو طواف کرے اس کو طواف قدوم کہتے ہیں۔ طواف قدوم مفرد اور قارن کے لیے سنت ہے، متمتع کے لیے نہیں۔
- (۲) طواف کا حجر سود سے شروع کرنا طواف قدوم یا طواف زیارت میں رمل کرنا یعنی شانہ ہلا ہلا کر اور چھوٹے چھوٹے قدم رکھتے ہوئے اکڑ کر چلنا۔
- (۳) صفا اور مردہ کے درمیان دو سبز رنگ کے نشانوں کے درمیان دوڑنا۔
- (۴) امام کا مکہ میں ساتویں ذی الحجہ کو خطبہ پڑھنا۔
- (۵) اسی طرح میدان عرفات میں نویں ذی الحجہ کو خطبہ پڑھنا۔
- (۶) اسی طرح منیٰ میں گیارہویں تاریخ کو خطبہ پڑھنا۔
- (۷) آٹھویں ذی الحجہ کو فجر کے بعد مکہ سے منیٰ کے لیے روانہ ہونا۔ تاکہ منیٰ میں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر پانچ نمازیں پڑھ لی جائیں۔
- (۸) ذی الحجہ کی نویں رات منیٰ میں گزارنا۔
- (۹) آفتاب نکلنے کے بعد منیٰ سے عرفات کو روانہ ہونا۔
- (۱۰) عرفات میں ٹھہرنے کے لیے غسل کر لینا۔
- (۱۱) عرفات سے واپسی میں مزدلفہ کے اندر رات کر رہنا۔
- (۱۲) اور آفتاب نکلنے سے پہلے منیٰ سے مزدلفہ کو چلا جانا۔
- (۱۳) دس اور گیارہ کے بعد جو دونوں راتیں ہیں ان کو منیٰ میں گزارنا اور اگر تیرھویں کو منیٰ

میں رہا تو بارہویں کے بعد کی رات بھی منی میں رہے۔

(۱۴) بطح یعنی وادی محصب میں اترنا اگرچہ تھوڑی ہی دیر کے ہے ہو۔ (بہار)

۳۔ اقسام حج

حج اور عمرہ ایسی عبادت ہے جو بیت اللہ شریف اور مکہ کے علاوہ عام جگہوں پر سرانجام نہیں دی جاسکتی حج کے تمام افعال تو ذی الحجہ کے پانچ دنوں میں ادا کیے جاتے ہیں یعنی دوسرے دنوں میں حج ادا ہی نہیں ہو سکتا اور عمرہ حج کے ان پانچ دنوں کے علاوہ سال بھر میں ہر وقت ادا کیا جاسکتا ہے۔

کتاب و سنت کے رو سے حج و عمرہ ملا کر ادا کرنے کے بہت فضیلت و اہمیت ہے اس لیے عمرہ کو حج کے ساتھ ملا کر ادا کرنے یا نہ کرنے کی تین صورتیں ہیں جنہیں حج کی اقسام کہا جاتا ہے اول حج قرآن دوسرا حج تمتع اور تیسرا حج افراد۔ سب سے افضل حج قرآن ہے پھر حج تمتع اور پھر حج افراد ہے۔

۱۔ حج افراد: حج افراد صرف حج کرنے کو کہا جاتا ہے یعنی اس کے ساتھ حج کے مہینوں میں عمرہ نہ ملایا جائے۔ صرف حج کی نیت سے احرام باندھے اگر عمرہ حج کے مہینوں سے پہلے یا بعد کیا تب بھی حج مفرد ہی کہلائے گا۔ یہ تیسرے درجے کا حج ہے۔ اول درجہ کا حج قرآن ہے دوسرے درجہ کا حج تمتع اور تیسرے درجہ کا یہ حج افراد ہے۔ جب یہ شخص میقات سے احرام باندھ کر مکہ میں داخل ہوگا اور طواف کرے گا تو یہ طواف قدوم ہوگا۔ اس ہی احرام سے یہ حج کرے گا اور یہ احرام حج سے فارغ ہو کر ہی کھلے گا۔

۲: حج قرآن: قرآن دو چیزوں کے ملانے کو کہتے ہیں لیکن شریعت کی اصطلاح میں حج کے مہینوں میں عمرہ اور حج دونوں کو ایک احرام کے ساتھ ادا کرنے کو قرآن کہا جاتا ہے۔ عمرہ سے فارغ ہو کر قرآن احرام میں رہے گا اور اسی احرام سے پھر حج ادا کر دیگا۔ دونوں مناسک کو اسی احرام سے ادا کر کے حج کی قربانی کے بعد طاق کر کے احرام کھولے گا اس حج کو قرآن کہتے ہیں اور اس حاجی کو قارن کہتے ہیں۔ بظاہر ایک احرام ہے مگر حکماً دو احرام ہیں لہذا اس حاجی سے اگر کوئی قصور ہو تو دو قصور شمار ہوں گے۔ دو جرموں کی سزا واجب ہوگی۔ اس کے برعکس تمتع اور افراد میں ایک ہی جرم شمار ہوگا کیونکہ ایک ہی احرام ہے۔

قارن نے میقات سے احرام باندھتے وقت حج اور عمرہ کی نیت ایک ساتھ کی تو اس طرح اب وہ احرام میں داخل ہوگا۔ احرام کی تمام قیود کی پابندی اس پر لازم ہوگی۔ اس کے بعد ایک اور

طواف کرے جو طواف قدوم ہے جو واجب ہے پھر اسی احرام میں رہے یہاں تک یہ حج کے تمام افعال اسی احرام سے ادا کرے۔ رمی جمرہ عقبہ کے بعد اسی پر قربانی واجب ہے اور قربانی کے بعد سرمنڈوائے اور احرام کھول لے۔

قرآن کے عمرہ کے لیے شرط ہے کہ یہ عمرہ اشہر حج میں واقع ہو۔ اگر اس سے پہلے ہوگا تو قرآن نہ ہوگا۔ قرآن آفاقی کے لیے ہے مکہ میں رہنے والے کے لیے نہیں۔ لہذا مکی کو اشہر حج میں عمرہ کرنے کی اجازت نہیں بشرطیکہ اس سال حج کا ارادہ ہو ورنہ عمرہ کے ساتھ قرآن جمع ہو جائے گا۔ جو مکہ والے کو جائز نہیں۔ ہاں اگر حج کا ارادہ نہ ہو تو مکہ والا فقط عمرہ کر سکتا ہے اور حج کا ارادہ ہو تو فقط حج کرے عمرہ نہ کرے حج کے مہینوں میں عمرہ اور حج دونوں کو جمع کرنے کی اجازت صرف آفاقی کو ہے یعنی باہر سے آنے والے کو ہے مکہ والوں کو نہیں۔ کیونکہ حج کے مہینوں میں عمرہ اور حج کا جمع ہو جانا قرآن اور تمتع ہے۔

۳۔ حج تمتع: تمتع کے لغوی معنی کچھ وقت کے لیے فائدہ اٹھانا ہے لیکن شرعاً تمتع کے معنی حج تمتع کرنا ہے۔ حج تمتع یہ ہے کہ آدمی عمرہ اور حج ساتھ ساتھ کرے لیکن اس طرح کہ دونوں کے احرام الگ الگ باندھے اور عمرہ کر لینے کے بعد احرام کھول کر ان ساری چیزوں سے فائدہ اٹھائے جو احرام کی حالت میں ممنوع ہو گئی تھیں اور پھر حج کا احرام باندھے حج ادا کرے اس طرح کے حج میں چونکہ عمرے اور حج کی درمیانی مدت میں احرام کھول کر حلال چیزوں سے فائدہ اٹھانے کا کچھ وقت مل جاتا ہے اس لیے اس کو حج تمتع کہتے ہیں۔ چونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ:

فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَفْرَمَ الْهُدَى (البقرہ: ۶)

پس جو شخص حج کے ایام تک اپنے عمرے سے فائدہ اٹھانا چاہے تو اس پر اس کی وسعت کے مطابق قربانی ہے۔ (البقرہ: ۶)

حج تمتع افراد سے افضل ہے اس لیے کہ اس میں دو عبادتیں ایک ساتھ جمع کرنے کا موقع مل جاتا ہے اور کچھ زیادہ مناسب ادا کرنے کی سعادت حاصل ہو جاتی ہے۔

حج تمتع کی دو صورتیں ہیں ایک یہ کہ ہدی کا جانور اپنے ہمراہ لائے اور دوسری یہ کہ ہدی کا جانور اپنے ہمراہ نہ لائے۔ پہلی صورت دوسری سے افضل ہے۔ تمتع کیلئے ضروری ہے کہ وہ عمرے کا طواف زمانہ حج میں کرے۔ تمتع میں پہلے عمرے کا احرام باندھا جائے اور پھر حج کا احرام باندھنے سے پہلے عمرے کا طواف کر لیا جائے۔

تمتع کیلئے ضروری ہے کہ وہ عمرے اور حج کے درمیان المقام نہ کرے۔ المقام کے معنی

ہیں اتر پڑنا اور اصطلاح میں امام سے مراد یہ ہے کہ آدمی عمرے کا احرام کھولنے کے بعد اپنے گھر والوں میں جا کر اتر پڑے۔ ہاں اگر وہ قربانی کا جانور ہمراہ لایا ہے تو گھر اتر پڑنے پر بھی حج تمتع صحیح ہوگا۔

حج تمتع صرف ان لوگوں کیلئے ہے جو میقات سے باہر کے باشندے ہیں۔ جو لوگ مکے میں یا میقات کے داخلی علاقوں میں رہتے ہیں ان کیلئے تمتع اور قرآن مکروہ تحریمی ہے۔ حج تمتع کرنے والے کیلئے طواف قدم کرنا مسنون نہیں ہے اور اس کو چاہیے کہ طواف زیارت میں رمل کرے۔ تمتع پر بھی قارن کی طرح قربانی واجب ہے اور مقدور نہ ہو تو پھر دس روزے رکھے تمین حج کے دوران یوم النحر سے پہلے رکھ لے اور سات اس وقت رکھے جب حج سے فارغ ہو جائے۔

۲۔ سفر حج

حج چونکہ دین اسلام کا بڑا اہم اور مقدس رکن ہے اس لیے اس کا سفر بھی بڑا مقدس ہے حج کا سفر خالصتہً رضائے الہی کیلئے کرنا چاہیے اس میں ریا اور دکھاوا بالکل نہیں ہونا چاہیے بہتر تو یہ ہے کہ حج کے سفر کا ارادہ کرتے ہی توبہ کر لیں اور اپنے آپ کو آئندہ ہر قسم کے گناہ سے بچانے کا عزم کر لینا چاہیے۔ پھر روانگی سے پہلے والدین سے اجازت لینا ضروری ہے اگر وہ خدمت کے محتاج ہوں تو فی الحال ان کی خدمت کو مقدم رکھا جائے۔ جن حقوق العباد کی ادائیگی ممکن ہو انہیں فوراً ادا کیا جائے ورنہ حقدار سے معافی طلب کی جائے۔ قرض اور امانتیں ادا کی جائیں حقوق الہی یعنی نماز روزہ اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا پختہ عہد کیا جائے۔ حج کے تمام اخراجات حلال اور جائز مال سے لیے جائیں۔ اہل و عیال کیلئے حج سے واپسی تک کے جملہ اخراجات و ضروریات زندگی کا مکمل انتظام کرنا بھی ضروری ہے گھر سے روانگی سے قبل عزیز و اقارب دوستوں اور ہمسایوں سے ملنا اور ان سے اپنی کوتاہیوں کی معافی طلب کرنی چاہیے اور ان سے اپنے لیے دعائیں خیر اور خود بھی ان کیلئے سلامتی جان و ایمان اور عافیت کیلئے دعا کرنا چاہئے۔ اس موقع پر اپنی وسعت کے مطابق صدقہ و خیرات کرنا بھی باعث برکت ہے۔ اگر سفر حج میں دو یا دو سے زیادہ افراد شریک ہوں تو ایک کو اپنا امیر بنانا مسنون ہے۔

افعال حج کی ادائیگی کیلئے حج کے فرائض و واجبات آداب و مستحبات سے کما حقہ واقفیت حاصل کرنے چاہیے۔ نیز حج کے مفسدات، محرکات اور مکروہات کو بھی ذہن نشین رکھا جائے تاکہ فریضہ حج کی ادائیگی صحیح طور پر ہو سکے۔ سفر حج کیلئے جمعرات جمعہ ہفتہ اور سوموار کے

دن بہت ہی مبارک ہیں۔ اگر وقت مکروہ نہ ہو تو روانگی کے وقت گھر میں دو رکعت نفل پڑھے جائیں اور گھر سے باہر نکلنے وقت یہ دعا پڑھی جائے:

اللَّهُمَّ بِكَ انْتَشَرْتُ وَبِكَ تَوَجَّهْتُ وَبِكَ اعْتَصَمْتُ وَعَلَيْكَ
تَوَكَّلْتُ اللَّهُمَّ أَنْتَ ثِقَتِي وَأَنْتَ رَجَائِي اللَّهُمَّ الْكُفِيُّ مَا أَهَمَّنِي وَمَا
لَا أَهَمَّهُ بِهِ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي عَزَّ جَارُكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ اللَّهُمَّ
رَوِّدْنِي فِي الْقَوَى وَأَعِزَّنِي فِي ذُنُوبِي وَوَجِّهْنِي إِلَى الْخَيْرِ أَيْمًا تَوَجَّهْتُ
اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبِئِ الْمُنْقَلَبِ وَالْحَوْرِ بَعْدَ
الْكُورِ وَسُوءِ الْمُنْظَرِ فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ وَالْوَالِدِ بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ وَتَوَكَّلْتُ
عَلَى اللَّهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ أَرْسُولٍ أَوْ
نَزْلٍ أَوْ نَضِيلٍ أَوْ نُضْضٍ أَوْ نُظْلِيَةٍ أَوْ نُظْلَمَةٍ أَوْ نُجْمَلٍ أَوْ يُجْمَلُ عَلَيْنَا أَحَدٌ

گھر سے نکلنے وقت آیتہ الکرسی ازا جائے نصر اللہ اور چاروں قل مع بسم اللہ شریف پھر آخر میں ایک بار بسم اللہ پڑھنا بھی باعث برکت ہے۔ پھر عموماً جس مسجد میں نماز پڑھتے ہوں اس میں بھی دو رکعت نفل پڑھ کر رخصت ہوں۔ بشرطیکہ وقت مکروہ نہ ہو۔ جب عزیزوں سے بوقت رخصت مصافحہ کریں تو یہ دعا پڑھیں:

اَسْتُوذِعُ اللّٰهَ دِيْنَكُمْ وَاِيْمَانَكُمْ وَ
عَوَاثِيْمَ اَعْمَالِكُمْ۔
میں تمہارا دین و ایمان اور تمہارے اعمال کا
انجام اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں۔

اس کے بعد جب سواری پر سوار ہوں تو یہ دعا پڑھیں کیونکہ سواری پر سوار ہوتے وقت دعا پڑھنا مسنون ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ سُبْحَانَ
الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا
كُنَّا لَهُ مُقْرِبِينَ۔ وَإِنَّا إِلَى
رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ۔
اللہ کے نام سے اور سب تعریفیں اللہ کیلئے ہیں
پاک ہے وہ ذات جس نے اس کو ہمارے تابع
کیا اور ہم اس کی توفیق کے بغیر اس کو قابو میں
نہیں رکھ سکتے اور یقیناً ہمیں اپنے رب کی
طرف لوٹ کر جانا ہے۔

ہوائی یا بحری سواری پر سوار ہوتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیں اور منزل مقصود پر پہنچنے کیلئے اللہ کی مدد اور توفیق مانگیں اور یہ دعا پڑھیں:

بِسْمِ اللّٰهِ مَجْبِلَهَا وَمَرْسَلَهَا
اِنَّ رَبِّي لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ۔
اللہ کے نام سے ہی اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے۔
بلاشبہ میرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔

تمام راستہ ذکر الہی میں مشغول رہنا چاہیے اور نمازیں پابندی سے ادا کرنی چاہئیں۔

۵۔ احرام

احرام حج کرنے کا مخصوص لباس ہے احرام لغت میں حرام کرنے کو کہتے ہیں۔ کیونکہ احرام پہننے سے کچھ چیزیں احرام پہننے والے پر حرام ہو جاتی ہیں اس لیے اسے احرام کہا جاتا ہے۔
میقات یا محاذات میقات پر پہنچ کر حج و عمرہ کیلئے احرام باندھنا فرض ہے۔ احرام باندھنے کے بعد چیزیں محرم سے حرام ہو جاتی ہیں۔ نیز احرام کی پابندیوں کی خلاف ورزی حرام ہو جاتی ہے اس لیے اس کو احرام کہتے ہیں۔ احرام کی یہ پابندیاں حج و عمرہ کے بعد حلق یا قصر تک برقرار رہتی ہیں۔

احرام باندھنے سے قبل حجامت بنوانا، لبس پست کروانا، ناخن کٹوانا، غیر ضروری بال صاف کرنا، خوب مل کر نہانا، اگر نہانا ممکن نہ ہو تو پھر وضو کرنا مستحب ہے۔ عورتیں بھی غسل کریں۔ پیشک حیض و نفاس میں بھی ہوں۔ غسل و طہارت کے بعد مرد سلعے ہوئے کپڑے دستانے اور موزے جرابیں وغیرہ اتار دیں اور احرام کی دوٹی یا دھلی ہوئی سفید چادریں استعمال میں لائیں ایک کا تہ بند باندھیں اور دوسری چادر کو اوپر دہنی بغل کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے پر ڈالنا خلاف سنت ہے یہ اضطباع ہے جو صرف طواف کے وقت مسنون ہے۔ پہلے نہیں۔ احرام کیلئے کھل اور مخصوص تولیوں کا استعمال بھی جائز ہے بشرطیکہ سلعے ہوئے نہ ہوں۔ اس کے بعد اگر وقت مکروہ نہ ہو تو سر ڈھانک کر احرام کے دو رکعت نفل پڑھیں۔ سر اس لیے ڈھانکنا ہے کہ ابھی احرام شروع نہیں ہوا۔ احرام کے نفلوں کی پہلی رکعت میں قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ اور دوسری میں سوۃ اخلاص پڑھنا مستحب ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد اسی جگہ سر برہنہ کر کے قبلہ رخ بیٹھ کر حج کی مذکورہ تین قسموں میں سے جس طرح کا حج کرنا مقصود ہو اس کی دل میں نیت کریں اور پھر زبان سے بھی اس حج یا عمرہ کی نیت کے الفاظ ادا کریں۔ ہر قسم کی نیت کے الفاظ یہ ہیں۔

(۱) عمرہ کرنے کی نیت: اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ الْعُمْرَةَ فَيسِّرْهَا لِي وَتَقَبَّلْهَا مِنِّي

مِنِّي۔

(۲) حج افراد کی نیت: اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ الْحَجَّ فَيسِّرْهُ لِي وَتَقَبَّلْهُ مِنِّي

تَوَيْتُ الْحَجَّ وَأَحْرَمْتُ بِهِ مَخْلِصًا لِلَّهِ تَعَالَى۔

(۳) حج تمتع کی نیت: اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ الْعُمْرَةَ فَيسِّرْهَا لِي وَتَقَبَّلْهَا مِنِّي

marfat.com

نَوَيْتُ الْعُمْرَةَ وَأَخْرَمْتُ بِهَا مَخْلَصًا لِلَّهِ تَعَالَى -

(۳) حج قرآن کی نیت: اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ الْعُمْرَةَ وَالْحَجَّ فَيَسِّرْهُمَا لِي وَتَقَبَّلْهُمَا مِنِّي نَوَيْتُ الْعُمْرَةَ وَالْحَجَّ وَأَخْرَمْتُ بِمَا مَخْلَصًا لِلَّهِ تَعَالَى -

نیت کے فوراً بعد تلبیہ پڑھیں۔ نیت کے بعد تلبیہ پڑھتے ہی احرام شروع ہو جائے گا۔ محض نیت سے احرام شروع نہیں ہوتا۔ تلبیہ یہ ہے:

تلبیہ یعنی لبیک کہنا: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ ۖ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ
إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ ۖ

احرام باندھنے کے بعد ایک بار تلبیہ کہنا فرض ہے اور ایک بار سے زیادہ کہنا سنت ہے۔ احرام باندھنے کے بعد سے دسویں تاریخ کو پہلے جمرے کی رمی تک برابر تلبیہ کا ورد رکھئے ہر نشیب میں اترتے وقت ہر بلندی پر چڑھتے وقت ہر قافلے سے ملتے وقت ہر نماز سے فارغ ہونے کے بعد اور ہر صبح و شام تلبیہ پڑھتا رہے۔ تلبیہ بلند آواز سے پڑھنا مسنون ہے۔

حضرت سہل بن سعد روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”جب کوئی مسلمان تلبیہ پڑھتا ہے تو اس کے دائیں بائیں کے شجر و حجر اور مٹی کے ڈھیلے بھی لبیک پکارتے ہیں یہاں تک کہ زمین ادھر اور ادھر سے ختم ہوتی ہے۔“ (یعنی جانبین میں کنارہ ہائے زمین تک) (ترمذی ابن ماجہ)

حضرت خلد بن سائب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”جبریل امین نے آ کر مجھے بتایا کہ میں اپنے صحابہ کو حکم دوں کہ وہ احرام باندھ کر بلند آواز سے تکبیر یا تلبیہ کہیں۔“ (مالک ترمذی ابوداؤد نسائی ابن ماجہ دارمی)

حضرت عمارہ بن خزیمہ بن ثابت اپنے والد سے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام تلبیہ سے فارغ ہوتے تو اللہ تعالیٰ سے اس کی رضا اور جنت کی دعا فرماتے اور اس کی رحمت سے آتش دوزخ سے پناہ مانگتے۔

حضرت ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد ذی الحلیفہ کے قریب رکاب میں پیر رکھتے اور اونٹنی اٹھنے لگتی تو آپ تلبیہ شروع کر دیتے تھے۔ (بخاری)

۱۔ عورتوں کا احرام: عورتوں کا احرام مردوں سے مختلف ہوتا ہے یعنی ان کا احرام ملے ہوئے کپڑے ہیں یعنی جو وہ روزمرہ زندگی میں استعمال کرتی ہیں عورتیں شلوار قمیض پہنیں اور دوپٹے سے سر ڈھانپیں۔ اور چہرہ کھلا رکھیں۔ حیض و نفاس کی حالت میں بھی احرام باندھنا جائز

ہے مگر وہ احرام کیلئے نفل نہیں پڑھ سکتیں۔ عورتیں احرام کی حالت میں جرابیں، دستا نے اور زیور پہن سکتی ہیں اس کے علاوہ احرام کے باقی عام احکام اور احرام کی تمام پابندیاں ان پر بھی مردوں کی طرح لازم و فرض ہیں۔ مردوں کا احرام سر اور منہ دونوں کو کھلا رکھنے میں ہے اور عورتوں کا احرام سر چھپانے اور منہ کھلا رکھنے میں ہے۔

۲۔ ممنوعات احرام: احرام کی حالت میں یہ باتیں حرام اور ممنوع ہیں۔ مردوں کو سلا ہوا کپڑا پہننا، سر یا منہ کو کسی کپڑے وغیرہ سے چھپانا، بدن یا کپڑوں میں خوشبو لگانا، کسی ایسے خوشبودار رنگ میں رنگے ہوئے کپڑے کا پہننا جس کی خوشبو باقی رہے۔ کوئی خوشبودار چیز کھانا جیسے زعفران، لوگ، الابچی وغیرہ یا ایسی کوئی خوشبودار چیز اپنے ساتھ رکھنا اور خوشبودار صابن استعمال کرنا، بالوں یا بدن وغیرہ پر تیل لگانا، وسہ مہندی وغیرہ کا خضاب لگانا، جماع کرنا۔ عورت سے بوس و کنار کرنا، عورتوں سے جماع و شہوت (رفٹ) والی باتیں کرنا۔ فسق اور گناہ والے کام کرنا۔ لڑائی جھگڑا کرنا، شکار کرنا یا شکاری کی مدد کرنا۔ اپنا یا دوسرے کا ناخن کاٹنا، بدن کے کسی حصہ کا بال کاٹنا یا اکھیڑنا، کسی کے بال کاٹنا یا مونڈنا، منڈی مارنا، اپنے جسم یا کپڑے کی جوں مارنا۔ جوئیں مارنے کی غرض سے اپنے سر یا داڑھی کو کسی دوائی یا خوشبودار صابن سے دھونا وغیرہ منع ہے۔

۳۔ مکروہات احرام: احرام کی حالت میں یہ باتیں مکروہ ہیں: بدن کی میل اتارنا یا میل اتارنے کی غرض سے نہانا اور جسم کو صابن وغیرہ سے دھونا، کنگھی کرنا۔ اس طرح سر کھجلا نا کہ بال اکھڑنے یا جوں گرنے کا اندیشہ ہو۔ سلا ہوا کپڑا کرنا وغیرہ کندھوں پر ڈالنا، خوشبو میں بسا ہوا کپڑا اوڑھنا، قصداً خوشبو یا عطر وغیرہ یا کسی خوشبودار پھل پھول کا سونگھنا۔ ناک یا منہ کا کوئی حصہ کپڑے سے چھپانا۔ سر یا منہ پر پٹی باندھنا۔ اسی طرح بلا عذر جسم کے باقی حصہ پر پٹی باندھنا۔ غلاف کعبہ کا سر یا منہ سے لگنا۔ تکیہ پر منہ رکھ کر اوندھے لیٹنا وغیرہ مکروہ ہے۔

۶۔ آداب حرم شریف

شہر مکہ میں داخل ہو کر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہئے کہ جس نے اپنی رحمت سے اپنے شہر مکہ تک پہنچنے کی سعادت بخشی۔ لہذا جب حرم کے قریب پہنچیں تو نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ سر جھکائے پورے ادب و احترام سے اگر ممکن ہو تو پیادہ ننگے پاؤں داخل ہوں۔ تلبیہ اور دعا کی کثرت کریں۔ اب سر زمین حرم کے آداب کو ملحوظ رکھنا فرض ہے۔ حرم کی ترگھاس کاٹنا، درخت کاٹنا، وحشی جانوروں کو تکلیف دینا، وہاں کے پرندوں، کبوتروں کو اڑانا سخت حرام ہے یہ زمین حرم

کے خصوصی آداب ہیں ان کی خلاف ورزی گناہ ہے۔ جب شہر مکہ مکرمہ نظر آئے تو وہیں ٹھہر کر درود شریف پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھیں:

اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي يَهَا قَرَارًا وَرُزُقْنِي فِيهَا رِزْقًا حَلَالًا - اللَّهُمَّ أَنْتَ
رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ وَالْبَلَدُ بِلَدِّكَ جِئْتُكَ هَارِبًا بِإِمْنِكَ إِلَيْكَ لِأُودِيَ قَرَأْتُ بِصَلَاةِ
أَطْلُبُ رَحْمَتَكَ وَالْقَوْمُ رَضُوا أَنَّكَ أَسْأَلُكَ مَسْئَلَةَ الْمُضْطَرِّينَ إِلَيْكَ وَالْخَائِفِينَ
عَقُوبَتَكَ أَسْأَلُكَ أَنْ تَقْبَلَنِي الْيَوْمَ بِمَعْفُوكَ وَتَدْخِلَنِي فِي
رَحْمَتِكَ وَتَجَاوِزَ عَنِّي بِمَعْفُورَتِكَ وَتُعِينَنِي عَلَى أَرْأْيَ قَرَأْتُ بِصَلَاةِ اللَّهُمَّ
تَجِبْنِي مِنْ عَذَابِكَ وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَأَدْخِلْنِي فِيهَا وَأَعِزَّنِي
مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ -

سرزمین حرم میں داخل ہونے کے بعد جب شہر مکہ میں آجائیں تو اللہ کا احسان مند ہونا چاہیے کہ پروردگار نے آج تمہیں اس مقام تک پہنچا دیا ہے کہ جس کیلئے مدتوں سے دل بیتاب تھا حرم شریف کے پاس پہنچ کر سب سے پہلے اپنی رہائش اور ٹھہرنے کا بندوبست کریں تاکہ پورے اطمینان و سکون قلب کیساتھ بیت اللہ شریف کی زیارت و طواف کیا جاسکے۔ اس کے بعد سر جھکائے عجز و انکسار کے ساتھی تلبیہ پڑھتے دعائیں مانگتے۔ درود شریف پڑھتے ہوئے مسجد حرام کی طرف چلیں اور باب السلام سے مسجد حرام میں درود شریف پڑھ کر مسجد میں داخل ہونے والی دعا پڑھتے ہوئے پہلے دایاں پاؤں رکھ کر داخل ہوں۔ بیت اللہ شریف پر جب پہلی نظر پڑے تو تین بار "لا الہ الا اللہ واللہ اکبر" اور درود شریف پڑھ کر یہ دعا مانگنا مستحب ہے:

اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ وَإِلَيْكَ يَرْجِعُ السَّلَامُ حَيْثُنَا
رَبَّنَا بِالسَّلَامِ وَأَدْخِلْنَا دَارَ السَّلَامِ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ
وَإِلْكُورِهِ أَعُوذُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ
مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ
اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِ سَيِّدِنَا
مُحَمَّدٍ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ -

بیت اللہ شریف کو پہلی نظر دیکھتے ہی جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے اس لیے اب درود

شریف پڑھ کر اپنا مستجاب الدعوات ہونا اور بلا حساب جنت کی دعا مانگو۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ وَتَصَدَّقُ بِكَ بِكِتَابِكَ وَرِزْقِكَ بِعَمَلِكَ وَإِسْبَاعًا
لِسُنَّتِكَ فَبِيَّتِكَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْنَا وَسَلَّمَهُ اللَّهُمَّ شَرِّدْ
بَيْتَكَ هَذَا لِنَعْتَبِرَ بِمَا نَشْرَفُ بِهَا وَمَهَابَةً وَبِذِيْن نَعْتَبِرُ بِهِ وَتَشْرِيفِهِ

مَنْ حَجَّهٖ وَاِعْتَمَرَ لَا تَعْلِيْمًا وَاكْثَرُ يُفَارِقُ مَهَابَةً ۝ اَللّٰهُمَّ هٰذَا بَيْتُكَ وَاَنَا عَبْدُكَ اَسْئَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لِيَّ وَاِلٰى اَوْلَادِيَّ وَاِلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ۝ اِنَّا نَامِلِيْنَكَ ۝ اَللّٰهُمَّ اِنصُرْنِيْ نَصْرًا عَزِيْزًا ۝ اَمِيْن ۝

اگر یہ دعا پڑھ سکیں تو دین و دنیا پر مشتمل جو دعائیں بھی قرآن و حدیث سے یاد ہو وہی پڑھی جائے یا اس کا مفہوم اپنی زبان سے ادا کیا جائے۔ شرط توجہ الی اللہ خشوع و خضوع اور رقت قلبی ہے۔ یہ مقصد جس دعا سے بھی حاصل ہو وہی دعا پڑھنا بہتر و افضل ہے۔ بیت اللہ شریف کی مسجد حرام میں حاضر ہونے کے وقت نفل تحسیۃ المسجد نہیں پڑھے جاتے کیونکہ یہاں حج و عمرہ اور طواف کی نیت سے آنے والوں کا تحسیۃ طواف ہے اس لیے اگر حاضری کے وقت وہاں خطبہ پڑھا جا رہا ہو یا جماعت ہو رہی ہو تو اس کیساتھ شریک ہو جائیں ورنہ سب سے پہلے طواف کا عمل ضروری ہے۔

۷۔ طواف

خانہ کعبہ کے ارد گرد کھلا صحن ہے اس کھلے صحن میں بیت اللہ کے چاروں طرف سات چکر لگانے کو طواف کہتے ہیں۔ شرعی اصطلاح میں ایک چکر کو شوط کہا جاتا ہے بیت اللہ کے ایک طرف حطیم ہے جو کعبہ کا حصہ ہے اس لیے طواف کے دوران حطیم کے باہر سے گزرنا ضروری ہے۔ طواف کے بیشمار فضائل ہیں۔ فضیلت کی چند حدیثیں مندرجہ ذیل ہیں:

۱۔ حدیث: حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے خانہ کعبہ کے گرد سات چکر لگائے یعنی طواف کیا اور اس کے پورے حقوق ادا کیے تو یہ ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ہوگا۔

۲۔ حدیث: حضرت عائشہ صدیقہؓ سے روایت ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حج کیلئے مکہ مکرمہ میں تشریف لائے سب کاموں سے پہلے وضو کر کے بیت اللہ کا طواف کیا۔ آپؐ نے حجر اسود کے پاس آ کر اس کو بوسہ دیا۔ پھر داہنے ہاتھ کو چلے اور طواف کے پہلے تین پھیروں میں رمل کیا۔ حضورؐ کے دست مبارک میں چھتری تھی (طواف کے دوران میں) اس چھتری کو حجر اسود سے لگا کر بوسہ دیتے تھے (بخاری و مسلم)۔

۳۔ حدیث: حضرت عمرو بن عاصؓ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ”جس نے کامل وضو کیا۔ پھر حجر اسود کے پاس بوسہ دینے کو آیا۔ وہ رحمت میں داخل ہوا پھر

جب بوسہ دیا اور یہ پڑھا:

”بِسْمِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ“

اسے رحمت سے ڈھا تک لیا گیا۔ پھر جب بیت اللہ کا طواف کیا تو ہر قدم کے بدلے ستر ہزار نیکیاں لکھی جائیں گی اور ستر ہزار گناہ مٹا دیے جائیں گے اور ستر ہزار درجے بلند کیے جائیں گے اور اپنے گھر والوں میں ستر کی شفاعت کرے گا۔ پھر جب مقام ابراہیم پر آیا اور وہاں دو رکعت نماز ایمان کی وجہ سے اور طلبِ ثواب کیلئے پڑھی تو اس کیلئے اولاد اسماعیل میں سے چار غلام آزاد کرنے کا ثواب لکھا جائے گا اور گناہوں سے ایسا نکل جائے گا جیسے آج اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ (بہار شریعت بحوالہ صیہانی)

۴۔ حدیث: حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیت الحرام کا حج کرنے والوں پر ہر روز اللہ تعالیٰ ایک سو بیس رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ساتھ طواف کرنے والوں پر اور چالیس نماز پڑھنے والوں پر اور بیس کعبہ کو دیکھتے رہنے والوں پر۔ (بیہقی شعب الایمان)

۵۔ حدیث: حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ حضورؐ نے فرمایا ہے کہ جس نے پچاس طواف کیے وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو گیا گویا کہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ (ترمذی)

۶۔ حدیث: حضرت ابن عباسؓ روایت کرتے ہیں بیشک رسول خدا نے فرمایا ”بیت اللہ کا طواف نماز کی طرح ہے سوائے اس فرق کے کہ تم طواف کی حالت میں باتیں کرتے ہو لہذا جو بھی دوران طواف گفتگو کرے وہ کلمات خیر کہے۔“ (نسائی، دارمی)

- **حجرہ سود:** حجرہ سود ایک مقدس پتھر ہے جو بیت اللہ کے جنوب مشرقی کونے پر لگا ہوا ہے طواف کے شروع میں یا ہر چکر کے آغاز میں اس کا بوسہ لینا بڑی رحمت کی دلیل ہے۔ اگر کوئی دوسرے لے سکے تو اس کو چھڑی سے چھو کر اسے چوم لے یا اپنے ہاتھ کا اشارہ اس کی طرف کر کے ہاتھ چوم لے۔ حجرہ سود کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ارشادات مندرجہ ذیل ہیں:-

۱۔ حدیث: حضرت عبید بن عمیرؓ روایت کرتے ہیں کہ میں نے اصحاب رسولؐ میں کسی کو سوائے جناب ابن عمرؓ کے حجرہ سود اور رکن یمانی کو بوسہ دینے میں اتنا اہتمام کرتے نہیں دیکھا وہ فرماتے تھے کہ میں ایسا اس لیے کہتا ہوں کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو

فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ان کو چھونا گناہوں کا کفارہ ہے میں نے آپ سے یہ بھی سنا کہ جس نے اس گھر کا سات مرتبہ طواف کیا اور تمام شرائط کی پابندی کی تو اس کو ایک غلام آزاد کرے گا ثواب ملے گا آپ نے یہ بھی فرمایا تھا جو شخص ایک قدم رکھتا اور اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر قدم پر ایک گناہ کو مٹاتا اور ایک نیکی لکھتا ہے۔ (ترمذی)

۲۔ حدیث: حضرت ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تشریف لائے تو حجر اسود کے پاس آ کر اس کو بوسہ دیا پھر خانہ کعبہ کا طواف کیا پھر صفا کر اس پر چڑھے اور خانہ کعبہ کی طرف منہ کیا اور جب تک اللہ نے چاہا دعا کرتے رہے (ابوداؤد)

۳۔ حدیث: حضرت ابن عباسؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے حجۃ الوداع کے موقع پر اونٹ پر سوار ہو کر طواف کیا اور آپ نے چھڑی کے اشارے سے استلام کیا۔ (بخاری)

۴۔ حدیث: حضرت ابو طفیلؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ کو میں نے دیکھا کہ دوران طواف آپ حجر اسود کی جانب اپنی چھڑی سے اشارہ کر کے اس کو چومتے تھے۔ (مسلم)

۵۔ حدیث: حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ حجرہ اسود جب جنت سے اترتا تو دودھ سے زیادہ سفید تھا۔ پھر بنی آدم کی خطاؤں نے اسے سیاہ کر دیا۔ (ترمذی۔ احمد)

۶۔ حدیث: حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حجرہ اسود اور مقام ابراہیم جنتی یا قوت ہیں۔ اللہ نے ان کے نور کو مٹا دیا ورنہ مشرق اور مغرب تک ہر چیز کو روشن کر دیتے۔ (ترمذی)

۷۔ حدیث: حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حجر اسود کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس طرح اٹھائے گا کہ اس کی آنکھیں ہوں گی جن سے دیکھے گا زبان ہوگی جس سے بات کرے گا جس نے حق کے ساتھ اسے بوسہ دیا ہے یہ اس کے حق میں شہادت دے گا۔ (ترمذی ابن ماجہ)

۲۔ اضطباع: احرام کی چادر کو دائیں بغل کے نیچے سے نکال کر اس کے دونوں پلے بائیں کندھے پر اس طرح ڈال لینا کہ ایک کنارہ پشت پر رہے اور ایک کنارہ چھاتی پر رہے غرض کہ دایاں شانہ ننگا رہے۔ ایسا کرنے کو اضطباع کہا جاتا ہے۔ اضطباع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کیونکہ حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے جعرانہ کے مقام سے عمرہ کیا اور طواف کے تین چکروں میں تیز چلے اور طواف میں چادر کو دائیں

بغل سے نکال کر بائیں کندھے پر ڈال لیا۔ (ابوداؤد)

حضرت یعلیٰ بن امیہؓ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سبز چادر اوڑھ کر حالت اضطباع میں بیت اللہ کا طواف کیا۔ (ترمذی)

۳۔ **رمل طواف** کے تین چکروں میں اکڑ کر تیز چلنے کو رمل کہا جاتا ہے۔ رمل صرف اس طواف میں کیا جاتا ہے جس کے بعد سعی کی جاتی ہے۔ بڑھاپے یا مرض کی وجہ سے رمل نہ کر سکے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔

حضرت ابن عمرؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب وہ حج یا عمرہ کا طواف کرتے تو پہلے تین پھیروں میں تیز چلتے اور بقیہ چار میں معمول کے مطابق چلتے تھے۔ پھر دو رکعت نماز پڑھ کر صفا و مردہ کے درمیان سعی کیا کرتے تھے۔ (بخاری)

حضرت ابن عمرؓ ہی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے طواف کے تین چکروں میں حجر اسود سے شروع کر کے حجر اسود پر ختم کرتے ہوئے رمل کیا اور بقیہ چار پھرے معمول کی رفتار سے مکمل کیے اور سعی میں صفا و مردہ کے درمیان اس خطہ میں جہاں پانی بہتا تھا تیز چلے۔ (مسلم)

حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ آتے تو خانہ کعبہ میں آ کر پہلے حجر اسود کو بوسہ دیتے پھر دائیں جانب چلتے اور تین پھیروں میں رمل کرتے اور بقیہ چار چکر معمول کے مطابق چلتے۔ (مسلم)

۴۔ **طواف کا سنت طریقہ**: طواف شروع کرنے سے پہلے اضطباع کر لیں یعنی اپنے احرام کی چادر کو دائیں بغل کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے پر ڈال لیں اور دایاں کندھا ننگا رکھیں۔ اس کے بعد حجر اسود کے قریب قبلہ رو اسی طرح کھڑے ہوں کہ پورا حجر اسود دائیں طرف رہے۔ اس کے بعد دل میں طواف کی نیت کریں اور ساتھ ہی نیت کے یہ الفاظ زبان سے بھی ادا کریں۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ طَوَافَ بَيْتِكَ
الْمُحَرَّمِ قَبِيضَةً لِي وَتَقَبَّلَهُ
مِنِّي۔
الہی میں تیرے محترم گھر کا طواف کرنا چاہتا
ہوں۔ اس کو میرے لیے آسان کر دے اور اس کو
مجھ سے قبول فرما۔

حجر اسود کا اگر بوسہ لے سکتے ہوں تو لے لیں اگر نہ لے سکتے ہوں تو حجر اسود کی طرف ہتھیلیاں کر کے ان کا بوسہ لے لیں اور کانوں تک ہاتھ اٹھا کر یہ پڑھیں۔

بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُ أَكْبَرُ وَبِاللَّهِ
میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ۔ اللہ

الْحَمْدُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى
رَسُولِ اللَّهِ -

بہت بڑا ہے تمام تعریفیں اللہ ہی کیلئے ہیں اور حضور
رسول اکرم پر درود و سلام ہو۔

اس کے بعد چکر لگانے کیلئے چل پڑیں اور **پہلے چکر** کیلئے یہ دعا پڑھیں:

سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْعَمْدُ لِلَّهِ وَ
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ
وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا
بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ وَ
الْمَسَلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
اللَّهُمَّ اِيْمَانًا بِكَ وَتَصَدِيقًا
بِكَلِمَاتِكَ وَوَقَاءً بِعَهْدِكَ
وَاتِّبَاعًا لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ وَ
حَبِيبِكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ - اللَّهُمَّ اِنِّي اَسْأَلُكَ
الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ وَالْمُعَافَاةَ
الدَّائِمَةَ فِي الدُّنْيَا وَ
الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَالْفَوْزَ
بِالْجَنَّةِ وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ -

اللہ تعالیٰ پاک ہے اور سب تعریفیں اللہ ہی کیلئے ہیں
اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور اللہ
سب سے بڑا ہے اور (گناہوں سے پھرنے کی)
طاقت اور (عبادت کی طرف راغب ہونے کی)
قوت اللہ ہی کی طرف سے ہے جو بزرگی اور عظمت
والا ہے اور اللہ کی رحمت اور سلام ہو اللہ کے رسول
صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اے اللہ! تجھ پر ایمان لاتے
ہوئے اور تیرے احکام کو مانتے ہوئے اور تجھ سے
کیا ہوا عہد پورا کرتے ہوئے اور تیرے نبی اور
حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے
ہوئے (میں طواف شرع کرتا ہوں) اے اللہ! میں
تجھ سے سوال کرتا ہوں معافی کا اور سلامتی کا اور دائمی
حفاظت کا دین اور دنیا اور آخرت میں اور جنت
سے متمتع ہونے اور دوزخ سے نجات پانے کا۔

رکن یمانی پر پہنچ کر یہ دعا ختم کر دیجئے اور اس سے آگے بڑھتے ہوئے یہ دعا پڑھیے:

رَبَّنَا اِنْتَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي
الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقِنَا عَذَابَ
النَّارِ وَاَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ
الْاَبْرَارِ يَا عَزِيزُ يَا فَخْرُ يَا
رَبَّ الْعَالَمِينَ و

اے پروردگار! ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور
آخرت میں بھی اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے
بچا۔ اور نیک لوگوں کے ساتھ ہمیں جنت میں داخل
فرما۔ اے بڑی عزت والے بڑی بخشش والے۔
اے تمام جہانوں کے پالنے والے۔

یہ دعا پڑھنے کے بعد حجر اسود پر پہنچ کر اسے بوسہ دیجئے اور اگر بوسہ نہ دے سکیں تو دونوں ہاتھ
یا صرف داہنا ہاتھ اس کو لگا کر چوم لیجئے اور اگر یہ بھی مشکل ہو تو وہیں سے کھڑے ہو کر اور اپنی
ہتھیلیاں اس کی طرف کر کے اشارہ کر لیں اور کانوں تک ہاتھ نہ اٹھائیں۔ کانوں تک ہاتھ اٹھانا

صرف شروع طواف میں ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ اللّٰهُ اَكْبَرُ
لِلّٰهِ الْحَمْدُ۔

(شروع کرتا ہوں) اللہ کے نام سے اللہ سب سے بڑا ہے اور سب تعریفیں اللہ ہی کیلئے ہیں۔

پڑھتے ہوئے آگے بڑھے اور دوسرے چکر کی دعا پڑھتے ہوئے دوسرا چکر شروع کر دیجئے:

اللّٰهُمَّ اِنِّىْ هٰذَا الْبَيْتَ بَيْنَكَ
وَالْحَرَمُ حَرَمُكَ وَالْاَمْنُ
اَمْنُكَ وَالْمَبْدُ عَبْدُكَ وَاَنَا
عَبْدُكَ وَاَبْنُ عَبْدِكَ وَهٰذَا
مَقَامُ الْعَائِدِ بِكَ مِنَ الْمَكَارِدِ
فَحَرِّمْ لِحُومَنَا وَبَشَوْتَنَا عَلٰى
النَّارِ اَللّٰهُمَّ حَبِّبِ اِلَيْنَا
الْاِيْمَانَ وَزَيِّنْهُ فِىْ قُلُوْبِنَا
وَكُوِّهْ اِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوْقَ
وَالْعِضْيَانَ وَاَجْعَلْنَا مِنَ الْوَالِدِيْنَ
اللّٰهُمَّ قِنِّ عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ
عِبَادَكَ اَللّٰهُمَّ اَرْزُقْنِىْ الْجَنَّةَ
بِغَيْرِ حِسَابٍ۔

اے اللہ! بیشک یہ گھر تیرا گھر ہے اور یہ حرم تیرا حرم ہے اور (یہاں کا) امن و امان تیرا ہی دیا ہوا ہے اور ہر بندہ تیرا ہی بندہ ہے اور میں بھی تیرا ہی بندہ ہوں اور تیرے ہی بندہ کا بیٹا ہوں اور یہ دوزخ کی آگ سے تیری پناہ پکڑنے والوں کی جگہ ہے سو تو ہمارے گوشت اور کھال کو دوزخ پر حرام کر دے۔ اے اللہ! ہمارے لیے ایمان کو محبوب بنا دے اور ہمارے دلوں میں اس کی چاہ پیدا کر دے۔ اور ہمارے لیے کفر، بدکاری اور نافرمانی کو ناپسند بنا دے اور ہمیں ہدایت پانے والوں میں شامل کر لے اے اللہ! جس دن تو اپنے بندوں کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے مجھے اپنے عذاب سے بچانا۔ اے اللہ! مجھے بغیر حساب کے جنت عطا فرما۔

رکن یمانی پر پہنچ کر یہ دعا ختم کر دیجئے اور آگے بڑھتے ہوئے یہ دعا پڑھئے:

رَبَّنَا اِنْتَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَ
فِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقِنَا عَذَابَ
النَّارِ وَاذْخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ
الْاَبْرَارِ يَا عَزِيزُ يَا غَفَّارُ
يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ۔

اے ہمارے پروردگار! ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ جنت میں داخل فرما اے بڑی عزت والے اے بڑی بخشش والے اے سب جہانوں کے پالنے والے۔

یہ دعا پڑھنے کے بعد حجر اسود پر پہنچ کر اگر ممکن ہو تو بوسہ دیجئے ورنہ دور ہی سے استلام کیجئے اور

بِسْمِ اللّٰهِ اللّٰهُ اَكْبَرُ
لِلّٰهِ الْحَمْدُ۔

(شروع کرتا ہوں) اللہ کے نام سے اللہ سب سے

بڑا ہے اور سب تعریفیں اللہ ہی کیلئے ہیں۔

پڑھتے ہوئے آگے بڑھیے اور تیسری چکر کی دعا شروع کیجئے۔

اے اللہ! میں تیری پناہ چاہتا ہوں (تیرے احکام میں) شک سے اور (تیری ذات و صفات میں) شرک سے اور اختلاف و نفاق سے اور برے اخلاق سے۔ اور برے حال اور برے انجام سے مال میں اور اہل و عیال میں۔ اے اللہ! میں تجھ سے تیری رضا مندی کی بھیک مانگتا ہوں اور جنت کی۔ اور تیری پناہ چاہتا ہوں تیرے غضب سے اور دوزخ سے۔ اے اللہ! میں تیری پناہ مانگتا ہوں قبر کی آزمائش سے اور تیری پناہ چاہتا ہوں زندگی اور موت کی ہر مصیبت سے۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ
الشَّقِ وَالشُّرْكِ وَالشِّقَاقِ
وَالنِّفَاقِ وَسُوءِ الْأَخْلَاقِ
وَسُوءِ الْمَنْظَرِ وَالْمُنْقَلَبِ فِي
الْمَالِ وَالْأَهْلِ وَالْوَالِدِ. اللَّهُمَّ
إِنِّي أَسْأَلُكَ رِضَاكَ وَالْجَنَّةَ
وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ سَعْيِكَ وَالنَّارِ
اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ
الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ
الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ

رکن یمانی پر پہنچنے تک یہ دعا ختم کر دیجئے اور آگے بڑھتے ہوئے یہ دعا پڑھیے:

اے ہمارے پروردگار! ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ جنت میں داخل فرما اے بڑی عزت والے اے بخشش والے۔ اے سب جہانوں کے پالنے والے۔

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَ
فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ
النَّارِ وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ
الْأَبْرَارِ يَا عَزِيزُ يَا غَفَّارُ. يَا
رَبَّ الْعَالَمِينَ.

یہ دعا پڑھنے کے بعد حجرِ اسود پر پہنچ کر اگر ممکن ہو تو بوسہ دیجئے ورنہ دور سے اسلام کیجئے اور

(شروع کرتا ہوں) اللہ کے نام سے اللہ سب سے بڑا ہے اور سب تعریفیں اللہ ہی کیلئے ہیں۔

بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُ أَكْبَرُ
وَلِلَّهِ الْحَمْدُ

پڑھتے ہوئے آگے بڑھیے اور چوتھی چکر کی دعا پڑھتے ہوئے چوتھا چکر شروع کر دیجئے۔

اے اللہ! بنادے میرے اس حج کو حجِ مبرور اور کامیاب کوشش اور گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ اور مقبول نیک عمل اور بے نقصان تجارت۔ اے دل کے حال کے جاننے والے۔ اے اللہ! مجھے (گناہ کی) اندھیروں سے (ایمان و عمل صالح کی)

اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَبْرُورًا
وَسَعْيًا مَشْكُورًا أَوْ ذَنْبًا مَغْفُورًا
وَعَمَلًا صَالِحًا مَقْبُولًا وَ
تِجَارَةً لَنْ تَبُورَهُ يَا عَلِيمَ مَا فِي
الضُّدُورِ أَخْرِجْنِي يَا اللَّهُ مِنَ

الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ اللَّهُمَّ إِنِّي
أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَرَحْمَتِكَ
عَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالسَّلَامَةَ مِنْ
كُلِّ إِتْمٍ وَالْفَنِيْمَةَ مِنْ كُلِّ بَرٍّ وَ
الْفَقْدَ بِالْجَنَّةِ وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ
رَبِّ تَعْنِي بِمَا رَزَقْتَنِي وَبَارِكْ
لِي فِي مَا آتَيْتَنِي وَاخْلُفْ
عَلَى كُلِّ غَائِبَةٍ لِي مِنْكَ
بِخَيْرٍ۔

روشنی کی طرف نکال۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال
کرتا ہوں تیری رحمت کے لازمی ذریعوں کا اور ان
اسباب کا جو تیری مغفرت کو (میرے لیے) لازمی
بنادیں۔ اور ہر گناہ سے سلامتی کا اور ہر نیکی سے
فائدہ اٹھانے کا اور جنت سے بہرہ ور ہونے کا اور
دوزخ سے نجات پانے کا اور اے میرے
پروردگار! تو نے جو کچھ مجھے رزق دیا ہے اس پر
قناعت بھی عطا کر اور جو نعمتیں مجھے عطا فرمائیں
ہیں ان میں برکت بھی دے اور ہر نقصان کا اپنے
کرم سے مجھے نعم البدل عطا کر۔

رکن یمانی پر پہنچ کر یہ دعا ختم کر دیجئے اور آگے بڑھتے ہوئے یہ دعا پڑھیے:

رَبَّنَا آمِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَ
فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ
النَّارِ وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ
الْأَبْرَارِ۔ يَا عَزِيزُ يَا عَفَّارُ
يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

اے ہمارے پروردگار! ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا
فرما اور آخرت میں بھی اور ہمیں دوزخ کے عذاب
سے بچا اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ جنت میں
داخل فرما اے بڑی عزت والے اے بڑی بخشش
والے۔ اے سب جہانوں کے پالنے والے۔

یہ دعا پڑھنے کے بعد حجر اسود پر پہنچ کر اگر ممکن ہو تو بوسہ دیجئے ورنہ دور ہی سے استلام کیجئے اور

(شروع کرتا ہوں) اللہ کے نام سے اللہ سب سے
بڑا ہے اور تمام تعریفیں اللہ ہی کیلئے ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ اللّٰهُ اَكْبَرُ
وَاللّٰهُ اَحْمَدُ۔

پڑھتے ہوئے آگے بڑھیے اور پانچویں چکر کی دعا پڑھتے ہوئے پانچواں چکر شروع کیجئے:

اے اللہ! جس روز سوائے تیرے عرش کے سایہ
کے کہیں سایہ نہ ہوگا اور تیری ذات پاک کے سوا
کوئی باقی نہ رہے گا۔ مجھے اپنے سایہ کے نیچے جگہ
دینا اور اپنے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے
حوض (کوثر) سے مجھے ایسا خوشگوار اور خوش ذائقہ
مکھنڈ پانا کہ اس کے بعد کبھی ہمیں پیاس نہ لگے

اللّٰهُمَّ اِظْلِمِي تَحْتِ ظِلِّ
عَرْشِكَ يَوْمَ لَا ظِلَّ اِلَّا ظِلُّ
عَرْشِكَ وَلَا بَاقِيَ اِلَّا وَجْهَكَ
وَاشْقِيْنِي مِنْ حَوْضِ نَبِيِّكَ
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
شَرِبَتْهُ هَبِيْبَةً مَّرِيْبَةً لَا تَنْظُمَا

بَعْدَهَا أَبَدًا اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ
مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَك مِنْهُ نَبِيُّكَ
سَيِّدَنَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَكَ
مِنْهُ نَبِيُّكَ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ
الْجَنَّةَ وَنَعِيمَهَا وَمَا يَقْرِبُنِي
إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ عَمَلٍ وَ
أَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا يَقْرِبُنِي
إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ عَمَلٍ۔

رکن یمانی پر پہنچ کر یہ دعا ختم کر دیجئے اور آگے بڑھتے ہوئے یہ دعا پڑھیے:

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَ
فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ
النَّارِ وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ
الْأَبْرَارِ يَا عَزِيزُ يَا غَفَّارُ
يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

یہ دعا پڑھنے کے بعد حجر اسود پر پہنچ کر اگر ممکن ہو تو بوسہ دیجئے۔ ورنہ دور ہی سے استلام کیجئے اور

بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُ أَكْبَرُ۔

وَلِلَّهِ الْحَمْدُ۔

پڑھتے ہوئے آگے بڑھیے اور چہنیے چکر کی دعا پڑھتے ہوئے چھٹا چکر شروع کر دیجئے:

اللَّهُمَّ إِنَّ لَكَ عَلَيَّ حُقُوقًا

كَثِيرَةً فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكَ وَحَقُوقًا

كَثِيرَةً فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَ خَلْقِكَ اللَّهُمَّ

مَا كَانَ لَكَ مِنْهَا فَاغْفِرْهُ لِي وَمَا

كَانَ لِي خَلْقِكَ فَتَحَمَلْهُ عَنِّي وَ

أَغْنِنِي بِحَلَالِكَ عَنِ حَرَامِكَ وَ

اے اللہ! میں تجھ سے ان چیزوں کی بھلائی مانگتا ہوں جن کو تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے طلب کیا اور ان چیزوں کی برائی سے تیری پناہ چاہتا ہوں جن سے تیرے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی۔ اے اللہ! میں تجھ سے جنت اور اس کی نعمتوں کا سوال کرتا ہوں۔ اور ہر اس قول فعل یا عمل (کی توفیق) کا جو مجھے جنت سے قریب کر دے۔ اور میں دوزخ سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور ہر اس قول یا فعل یا عمل سے جو مجھے دوزخ سے قریب کر دے۔

اے ہمارے پروردگار! ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی اور ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ جنگ میں داخل فرما اے بڑی عزت والے اے بڑی بخشش والے۔ اے سب جہانوں کے پالنے والے۔

یہ دعا پڑھنے کے بعد حجر اسود پر پہنچ کر اگر ممکن ہو تو بوسہ دیجئے۔ ورنہ دور ہی سے استلام کیجئے اور

(شروع کرتا ہوں) اللہ کے نام سے اللہ سب سے بڑا ہے اور تمام تعریفیں اللہ ہی کیلئے ہیں۔

چکر کی دعا پڑھتے ہوئے چھٹا چکر شروع کر دیجئے:

اے اللہ! مجھ پر تیرے بہت سے حقوق ہیں ان معاملات میں جو میرے اور تیرے درمیان ہیں اور

بہت سے حقوق ہیں جو میرے اور تیری مخلوق کے درمیان ہیں اے اللہ! ان میں سے جن کا تعلق

صرف تیری ذات سے ہو ان (کی کوتاہی) کی مجھے

معافی دے اور جن کا تعلق مخلوق سے (بھی) ہو ان

معافی دے اور جن کا تعلق مخلوق سے (بھی) ہو ان

(کی فروگذاشت کی معافی) کا تو ذمہ دار بن جا۔
 اے اللہ مجھے (وزق) حلال عطا فرما کہ حرام سے
 بچا اور فرما نبرداری کی توفیق عطا فرما کرنا فرمائی سے
 اور اپنے فضل سے بہرہ مند فرما کر اپنے سوا دوسروں
 سے مستغنی کر دے۔ اے وسیع مغفرت والے اے
 اللہ بیشک تیرا گھر بڑی عظمت والا ہے اور تیری
 ذات بڑی عزت والی ہے اور تو اے اللہ! بڑا باوقار
 ہے بڑا کرم والا ہے اور بڑی عظمت والا ہے معافی
 کو پسند کرتا ہے سو میری خطاؤں کو بھی معاف فرما
 دے۔

بَطَّلَتْكَ عَنْ مَعْصِيَتِكَ وَ
 بِفَضْلِكَ عَنْ مَنْ سِوَاكَ يَا وَاسِعَ
 الْمَغْفِرَةِ. اللَّهُمَّ إِنَّ يَبْتَكَ
 عَظِيمٌ مَدَّ وَجْهَكَ كَرِيمٌ
 وَأَنْتَ يَا اللَّهُ حَلِيمٌ كَرِيمٌ
 عَظِيمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ
 فَاعْفُ عَنِّي۔

رکن یمانی پر پہنچ کر یہ دعا ختم کر دیجئے اور آگے بڑھتے ہوئے یہ دعا پڑھیے:

اے ہمارے پروردگار! ہمیں دنیا میں بھی بھلائی
 عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں
 دوزخ سے بچا اور نیک لوگوں کے ساتھ جنت میں
 داخل فرما، اے بڑی عزت والے اے بڑی
 مغفرت والے اے سب جہانوں کے پالنے
 والے۔

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَ
 فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا
 عَذَابَ النَّارِ وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ
 مَعَ الْأَبْرَارِ يَا عَزِيزُ يَا عَفَّارُ۔
 يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

یہ دعا پڑھنے کے بعد حجر اسود پر پہنچ کر اگر ممکن ہو تو بوسہ دیجئے۔ ورنہ دور ہی سے استلام کیجئے اور

(شروع کرتا ہوں) اللہ کے نام سے اللہ سب سے
 بڑا ہے اور تمام تعریفیں اللہ ہی کیلئے ہیں۔

بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُ أَكْبَرُ
 كَلِمَةُ الْحَمْدِ۔

پڑھتے ہوئے آگے بڑھیے اور ساتویں چکر کی دعا پڑھتے ہوئے ساتواں چکر شروع
 کر دیجئے:

اے اللہ! میں تجھ سے مانگتا ہوں کامل ایمان اور سچا
 یقین اور کشادہ رزق اور عاجزی کرنے والا دل اور
 (تیرا) ذکر کرنے والی زبان اور حلال اور پاک
 روزی اور بچے والی توبہ اور موت سے پہلے کی توبہ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ إِيمَانًا
 كَامِلًا وَيَقِينًا صَادِقًا رِزْقًا وَاسِعًا
 وَقَلْبًا عَاشِقًا وَسَانًا ذَاكِرًا وَ
 رِزْقًا حَلَالًا لَاطِيًا وَتُوبَةً نَسُوخًا

اور موت کے وقت کا آرام اور مرنے کے بعد مغفرت اور رحمت اور حساب کے وقت معافی اور جنت کا حصول اور دوزخ سے نجات۔ (یہ سب کچھ میں مانگتا ہوں) تیری رحمت کے وسیلے سے اے بڑی عزت والے! اے بڑی مغفرت والے۔ اے پروردگار میرے علم میں اضافہ کر اور مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما دے۔

وَتَوْبَةٍ قَبْلَ الْمَوْتِ وَرَاحَةً
عِنْدَ الْمَوْتِ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً
بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْعَفْوَ عِنْدَ الْحِسَابِ
وَالْفَوْزَ بِالْجَنَّةِ وَالنَّجَاةَ مِنَ
النَّارِ بِرَحْمَتِكَ يَا عَزِيزُ
يَا غَفَّارُ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا
وَالْحَقِّي بِالصَّالِحِينَ ه

رکن یمانی پر پہنچ کر یہ دعا ختم کر دیجئے اور آگے بڑھتے ہوئے یہ دعا پڑھیے:

اے ہمارے پروردگار! ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں دوزخ سے بچا اور نیک لوگوں کے ساتھ جنت میں داخل فرما اے بڑی عزت والے اور اے بڑی مغفرت والے۔ اے سب جہانوں کے پالنے والے۔

رَبَّنَا إِنِّي أَسْأَلُكَ
فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَفِي
عَذَابِ النَّارِ وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ
الْأَبْرَارِ يَا عَزِيزُ يَا غَفَّارُ
يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ه

یہ دعا پڑھنے کے بعد حجر اسود پر پہنچ کر اگر ممکن ہو تو بوسہ دیجئے ورنہ دور ہی سے استلام کیجئے اور

(شروع کرتا ہوں) اللہ کے نام سے۔ اللہ سب سے بڑا ہے اور تمام تعریفیں اللہ ہی کیلئے ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ
وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ۔

پڑھتے ہوئے اب ملتزم کے پاس آجائیے۔ یہ حجر اسود اور دروازہ کعبہ کے درمیان کعبہ شریف کی شرقی دیوار کا حصہ ہے۔ یہ قبولیت دعا کا مقام ہے۔ یہاں دیوار کعبہ سے چمٹ جاؤ اور اپنا پیٹ دیوار سے لگا دو اور داہنا رخسار دیوار پر رکھو اور کبھی بائیں رخسار دیوار پر لگاؤ اور اپنے ہاتھ اور ہتھیلیوں کو طول میں سر سے اونچا کر کے دیوار سے لگا کر پھیلا دو اور بائیں ہاتھ حجرہ اسود کی طرف چسپاں کر دو۔ یہ ہاتھ عرض میں یا طول میں اس طرح رکھو کہ دیوار کعبہ سے چسپاں ہوں۔ خوب رو رو کر جو بھی دل میں آئے مانگئے جس زبان میں جی چاہے مانگئے اور یہ سمجھ کر مانگئے کہ رب کریم کے آستانہ پر پہنچ گیا ہوں اور اس کی چوکھٹ سے لگا کھڑا ہوں اور وہ میرے حال کو دیکھ رہا ہے اور یہ دعا بھی پڑھیے۔

۵۔ مقام ملتزم پر پڑھنے کی دعا:

اے اللہ! اے اس قدیم گھر کے مالک ہماری گردنوں کو اور ہمارے باپ دادوں اور ماؤں (بہن) اور بھائیوں اور اولاد کی گردنوں کو دوزخ سے آزاد کر دے۔ اے بخشش والے کرم والے فضل والے احسان والے عطا کرنے والے اے اللہ! تمام معاملات میں ہمارا انجام بخیر فرما اور ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ! میں تیرا بندہ ہوں تیرا بندہ زادہ ہوں تیرے (مقدس گھر کے) دروازہ کے نیچے کھڑا ہوں تیرے دروازہ کی چوکھٹوں سے لپٹا ہوں۔ تیرے سامنے عاجزی کا اظہار کرتا ہوں اور تیری رحمت کا طلبگار ہوں اور تیرے دوزخ کے عذاب سے ڈر رہا ہوں اے ہمیشہ کے محسن! (اب بھی احسان فرما) اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ میرے ذکر کو بلندی عطا فرما اور میرے گناہوں کا بوجھ ہلکا کر اور میرے کاموں کو درست فرما اور میرے دل کو پاک کر اور میرے لیے قبر میں روشنی فرما اور میرے گناہ معاف فرما اور میں تجھ سے جنت کے اونچے درجوں کی بھیک مانگتا ہوں۔ آمین!

اللَّهُمَّ يَا رَبَّ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ
أَعْتَقْ رِقَابَنَا وَرِقَابَ آبَائِنَا
وَأُمَّهَاتِنَا وَإِخْوَانِنَا وَأَوْلَادِنَا مِنَ
النَّارِ يَا ذَا الْجُودِ وَالْكَرَمِ
وَالْفَضْلِ وَالْحَمْدِ وَالْعَطَاءِ
وَالْإِحْسَانِ اللَّهُمَّ أَحْسِنُ
عَاقِبَتَنَا فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا وَأَجِرْنَا
مِنْ حَزَبِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ
الْآخِرَةِ اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ
وَابْنُ عَبْدِكَ وَأَقْبَتُكَ تَحْتَ
بَابِكَ مُلْتَمِئًا بِعَمَلِكَ
مُتَدَلِّلًا بَيْنَ يَدَيْكَ أَرْجُو رَحْمَتَكَ
وَأَخْشَى عَذَابَكَ مِنَ النَّارِ
يَا قَدِيمَ الْإِحْسَانِ اللَّهُمَّ إِنِّي
أَسْأَلُكَ أَنْ تَرْفَعَ ذِكْرِي وَتَضَعِ
يَدِي وَتُضَلِّحَ أَمْرِي وَتَطَهِّرَ
قَلْبِي وَتَوَدِّعَ لِي فِي قَبْرِي
وَتَعَوِّدَ لِي ذَنْبِي وَأَسْأَلُكَ
الدَّرَجَاتِ الْعُلَى مِنَ
الْجَنَّةِ آمِينَ۔

۶۔ نوافل مقام ابراہیم:

طواف سے فارغ ہو کر مقام ابراہیم پر حاضر ہو کر
واتخذوا من مقام ابراہیم مصلیٰ پڑھ کر دو رکعت نماز طواف واجب **قُلْ يَا أَيُّهَا
الْكَافِرُونَ** اور **قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ** سے پڑھو۔ بشرطیکہ وقت کراہت نہ ہو۔ یعنی طلوع
آفتاب سے بلندی آفتاب تک یا دوپہر یا نماز عصر کے بعد سے غروب تک۔ ان اوقات میں نماز
طواف ادا نہ کرو۔ ان اوقات میں نماز طواف مکروہ ہے۔ مگر خود طواف کسی وقت بھی مکروہ نہیں۔

اول یہ کہ چادر نو دائیں کندھے کے نیچے سے نکال کر اضطباعی حالت کو دور کر لو۔ یعنی دایار شانہ کھلا نہ رہے بلکہ شانوں کو ڈھک کر نماز پڑھو۔ ورنہ نماز مکروہ ہوگی۔ اضطباعی حالت صرف طواف کے اندر ہے۔ طواف کے بعد یہ حالت نہیں رہنی چاہیے۔

دوسرے اس نماز کی ادائیگی کے وقت اس طرح کھڑے ہو کہ تمہارے اور کعبہ شریف کے درمیان مقام ابراہیم رہے۔

اس نماز کے پڑھنے کی بہترین جگہ تو خلف مقام یعنی مقام ابراہیم کے پیچھے ہے۔ ہجوم ہونے کے سبب یہاں جگہ نہ ملے تو کعبہ کے اندر ورنہ حطیم میں تحت میزاب یا پھر حطیم میں جہاں جگہ ملے یا پھر بیت اللہ کے قرب میں یا پھر یقیہ مسجد حرام میں یا پھر تمام مکہ میں یا پھر ارض حرم میں ادا کرو لیکن حرم کی سرزمین سے باہر ادا کرنا مکروہ ہے۔ خلف سے مراد عرف و عادت میں جس کو خلف یعنی پیچھے کہا جائے وہ مراد ہے۔ لہذا اور مسجد کے کنارے پر کھڑے ہونے والے کو افضلیت خلف یعنی مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑے ہونے کی فضیلت حاصل نہ ہوگی۔

ہر طواف کے بعد دو رکعت نماز طواف پڑھنا واجب ہے خواہ وہ طواف نفل ہو یا واجب ان رکعتوں کو طواف کے متصل ہی پڑھنا چاہیے۔ بلا عذر تاخیر مکروہ ہے یعنی کئی طواف کر کے سب طوافوں کی نمازیں اکٹھی جمع کر کے پڑھنا مکروہ ہے۔ ہاں اگر وقت مکروہ ہے تو طواف پر طواف کر لو۔ وقت مکروہ نکل جانے کے بعد ہر طواف کا دو گانا الگ الگ ادا کر لو اور یہ دعا پڑھو:

اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ سِرِّي وَعَلَانِيَتِي
قَابِلُ مَعْدِرَتِي وَتَعْلَمُ حَاجَتِي
فَاعْطِنِي سُؤْيِي وَتَعْلَمُ مَا فِي
نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي يَا مُؤْتِي اللَّهُمَّ
إِنِّي أَسْأَلُكَ إِيَّاهُ نَائِبًا شَرُّ قَلْبِي
وَيَقِينًا ذَا وَقَاحِي أَعْلَمُ أَنَّهُ لَا
يُصَلِّيَنِي إِلَّا مَا كَتَبْتَ لِي وَرِضًا
مِنْكَ بِمَا قَسَمْتَ لِي أَنْتَ وَبِي
فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَتَوْفِيئِي
مُسْلِمًا وَالْحَقِيئِي بِالصَّالِحِينَ
اللَّهُمَّ لَا تَدَعْ لَنَا فِي مَقَامِنَا

اے اللہ! تو میری سب چھپی اور کھلی باتیں جانتا ہے لہذا میری معذرت قبول فرما اور تو میری حاجب کو جانتا ہے لہذا میری خواہش کو پور کر اور تو میرے دل کا حال جانتا ہے لہذا میرے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ! میں تجھ سے مانگتا ہوں ایسا ایمان جو میرے دل میں سما جائے اور ایسا سچا یقین کہ میں جان لوں کہ جو کچھ تو نے میری تقدیر میں لکھ دیا ہے وہی مجھے پہنچے گا۔ اور تیری طرف سے اپنی قسمت پر رضامندی۔ تو ہی میرا مددگار ہے دنیا اور آخرت میں مجھے اسلام کی حالت میں وفات دے اور نیک لوگوں کے زمرہ میں شامل فرما۔ اے اللہ!

اس مقدس مقام (کی حاضری کے موقع) پر ہمارا کوئی گناہ بغیر معاف کیے نہ چھوڑنا اور کوئی پریشانی دور کیے بغیر نہ چھوڑنا اور کوئی ضرورت پوری کیے بغیر اور سہل کیے بغیر نہ چھوڑنا۔ سو ہمارے تمام کام آسان کر دے اور ہمارے سینوں کو کھول دے اور ہمارے دلوں کو روشن کر دے اور ہمارے عملوں کو نیکیوں کے ساتھ ختم فرما۔ اے اللہ ہمیں اسلام کی حالت میں موت دے اور ہمیں نیک لوگوں میں شامل فرما کہ نہ ہم رسوا ہوں اور نہ آزمائش میں پڑیں۔ آمین اے رب العالمین۔

هَذَا رَبُّنَا الْاَغْفَرُ مَكَّةُ وَلَا
هُمَا اِلَّا فَتَرَجَّتْهُ وَلَا حَاجَةٌ
اِلَّا قَضَيْتَهَا وَيَسِّرْ تَهَامَا فَيَسِّرْ
اُمُورَنَا وَاشْرَحْ صُدُورَنَا وَ
تَوَرَّقْ لِقَوْلِنَا وَاخْتِمِ بِالصَّلِيحِ
اَعْمَالِنَا اللَّهُمَّ تَوَقَّنَا
مُسْلِمِينَ وَالْحَقَّنَا بِالصَّالِحِينَ
غَيْرِنَحْرَايَا وَلَا مَفْتُونِينَ
اٰمِيْنَ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ

۷۔ **مسائل طواف:** یہ طواف عمرہ اور حج تمتع والے کیلئے عمرہ کا طواف ہے جو واجب ہے لہذا یہ طواف شروع کرتے وقت تلبیہ بند کر دیں۔ مفرد کیلئے یہ طواف قدم ہے جو سنت ہے اور حج قرن والے کو پہلے عمرہ کرنا ہوگا اور پھر حج کا طواف قدم کرنا ہوگا۔

طواف میں نیت فرض ہے بلانیت طواف صحیح نہیں ہوگا۔ طواف میں رمل اضطباع اور حجرہ اسود اور رکن یمانی کا استلام سنت ہے۔ رمل اور اضطباع مردوں کیلئے ہے اور رمل صرف اس طواف میں ہے جس کے بعد سعی ہو۔ ہر پھیرا حجر اسود سے شروع ہو کر حجر اسود پر ہی ختم ہوتا ہے حجرہ اسود کا استلام طواف کے شروع اور اختتام پر سنت مؤکدہ ہے۔ درمیان میں ہر پھیرے کے شروع میں مستحب ہے۔ طواف کے بعد مقام ابراہیم کے پاس دونوں اہل پڑھنا واجب ہے۔

طواف کے دوران مسنون دعاؤں کے پڑھنے تسبیح و تہلیل اور ذکر الہی میں مصروف رہنا چاہیے اگر کوئی دعا یاد نہ ہو تو درود شریف ہی پڑھتے رہنا چاہیے کہ یہ ہر اعتبار سے کامل دعا ہے طواف کے دوران اگر وضو ٹوٹ جائے تو وضو کر کے دوبارہ طواف وہیں سے شروع کریں جہاں چھوڑا تھا۔ یہی حکم نماز کا ہے کہ نماز پڑھ کر طواف جہانی چھوڑا تھا اسی جگہ سے دوبارہ شرع کر دیں طواف کے دوران دنیاوی گفتگو بد نظری اور دوسروں کو ایذا رسانی سے مکمل پرہیز کرنا چاہیے ورنہ طواف کا ثواب جاتا رہے گا۔ اور سخت گناہ بھی ہوگا۔ یہاں اگر ایک نیکی کا ثواب لاکھ نیکی کے برابر ہے تو ایک گناہ کا وبال بھی سخت تر ہے۔ عورتوں کو مردوں سے مزاحمت کے ساتھ حجرہ اسود کو

دس دینار رکن یمانی کو چھونا اور کعبہ کے قریب ہونا ہرگز جائز نہیں۔

۸۔ **آب زمزم پینا:** طواف کعبہ نماز طواف اور ملتزم پر حاضری سے فارغ ہو کر زمزم شریف پر جانا مستحب ہے اور خوب پیٹ بھر کر زمزم کا پانی پینا چاہیے۔ زمزم کا پانی قبلہ رخ کھڑے بسم اللہ پڑھ کر تین سانسوں میں پینا سنت ہے۔ جب بھی آب زمزم پینا ہو تو پیٹ بھر کر اس طرح پیئیں اور آخر میں الحمد للہ پڑھیں۔ باقی بچا ہوا پانی چہرے اور بدن پر مل لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ زمزم کا پانی جس مقصد کیلئے پیا جائے وہی مقصد پورا ہوگا۔ آب زمزم پیتے وقت یہ دعا پڑھنا مستحب ہے۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا تَنْفَعُنِي رِزْقًا أَلْهِبِي مِنْ تَجْهِدِي نَفْعَ بَخْشِ عِلْمٍ كَشَادَهُ رِزْقٍ مُقْبُولٍ
وَأَسْأَلُكَ عَمَلًا مُتَقَبَّلًا وَشِفَاءً لِي مِنْ كُلِّ عَمَلٍ أَعْمَلُ وَأَسْأَلُكَ شِفَاءً لِي مِنْ كُلِّ عَمَلٍ أَعْمَلُ

۹۔ **محرمات طواف:** طواف میں یہ باتیں حرام ہیں۔ بے وضو طواف کرنا۔ جنابت یا حیض و نفاس میں طواف کرنا بلا ستر یا برہنہ طواف کرنا، بلا عذر سواری پر یا گھٹنوں کے بل طواف کرنا، خانہ کعبہ کو دائیں ہاتھ رکھ کر الٹا طواف کرنا، حطیم کے اندر سے طواف کرنا، سات پھیروں سے کم طواف کرنا۔

۱۰۔ **مکروہات طواف:** طواف میں یہ چیزیں مکروہ ہیں: ناپاک کپڑوں میں طواف کرنا، فضول باتیں کرنا، خرید و فروخت کرنا، دعائیں بلند آواز کے ساتھ پڑھنا، فضول اشعار پڑھنا، جس طواف میں رمل و اضطباع ہو تو ان کا ترک کرنا، حجرہ اسود کا استلام نہ کرنا، بلا وجہ طواف کے کچھ پھیروں کے بعد وقفہ کرنا، خطبہ یا فرض جماعت کے وقت طواف کرنا، ایک طواف کی نماز پڑھے بغیر دوسرا طواف شرع کر دینا۔ ہاں اگر وقت مکروہ ہو تو دونوں طوافوں کی نماز بعد میں صحیح وقت میں الگ الگ پڑھنا واجب ہے۔ اثنائے طواف میں کوئی چیز کھانا، پیشاب یا پاخانہ یا ہوا کی حاجب میں طواف کرنا۔

طواف کے دوران سلام کرنا، سلام کا جواب دینا، کوئی مسئلہ پوچھنا یا کسی کو مسئلہ بتانا۔ حمد و ثناء اور نعت و منقبت والے اشعار پڑھنا جائز ہے۔

۸۔ السعی

سعی حج اور عمرہ کے واجبات سے ہے۔ سعی کا مطلب دوڑنا ہے مگر شرعی اصطلاح میں سعی سے مراد صفا اور مروہ کے درمیان سات چکر لگانے کو کہا جاتا ہے۔ صفا اور مروہ بیت اللہ کے

قریب دو پہاڑیاں ہیں۔ سعی کی وجہ تسمیہ کچھ یوں ہے کہ اللہ کے حکم سے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ علیہا السلام کے پاس ایک مشکیزہ پانی رکھ کر چلے گئے اور جب وہ ختم ہو گیا تو حضرت ہاجرہ اپنی اور حضرت اسمعیل کی پیاس سے بیتاب ہو کر پانی کی تلاش میں دوڑیں اس سنان جنگل میں دو درتک پانی کا نام و نشان نہ تھا تو آپ اضطراب میں اپنے رب کی رحمت کی تلاش میں نکلیں۔ خدائے رب العالمین نے اپنی ربوبیت کا جلوہ دکھلایا اور نبی چشمہ آب زمزم نمودار ہوا۔ حضرت ہاجرہ کی طلب رحمت کی سعی بار آور ہوئی۔ آج تک اللہ تعالیٰ نے ان کے دوڑنے کو زندہ و تابندہ کر دیا اور سعی کو اعمال حج و عمرہ سے قرار دے دیا۔ سعی کے متعلق حضور ﷺ کی احادیث حسب ذیل ہیں۔

۱۔ حدیث: حضرت عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جو خانہ کعبہ کی زیارت کی نیت سے آیا اور وہاں حاضر ہو کر طواف کیا۔ صفا مروہ کے درمیان سعی کی۔ پھر سر منڈایا یا کترا یا تو وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو گیا۔ جیسا ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے وقت گناہوں سے پاک تھا۔ (بہقی)

۲۔ حدیث: حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو آپ نے حجر اسود کی طرف متوجہ ہو کر اسے بوسہ دیا۔ پھر طواف کیا (پھر نماز طواف پڑھنے کے بعد) صفا کے پاس آئے اور اس پر اتنا اوپر چڑھے کہ بیت اللہ نظر آنے لگا۔ پھر ہاتھ اٹھا کر ذکر الہی میں مشغول جب تک اللہ نے چاہا آپ نے دعا فرمائی۔ اس کے بعد آپ نے صفا اور مروہ کے درمیان سعی فرمائی۔ (ابوداؤد۔ مسلم)

۳۔ حدیث: حضرت جبیبہ بنت ابی جبرائیل سے روایت ہے کہ میں نے رسول اکرم ﷺ کو سعی کرتے دیکھا اور آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ سعی کرو اللہ تعالیٰ نے سعی کو تمہارے لیے ضروری قرار دیا ہے۔ (احمد)

۱۔ سعی کرنے کا سنت طریقہ: طواف کے بعد مقام ابراہیم پر نوافل پڑھ کر آب زمزم پی لینے کے بعد حجر اسود کے پاس آئیں اور اس کا بوسہ لیں اگر بوسہ نہ لے سکیں تو ہاتھ کا اشارہ کر کے ہاتھوں کا اشارہ کر کے ہاتھ کو چوم کر صفا کی طرف آ جائیں اور صفا کے اوپر چڑھ کر کعبہ کی طرف منہ کر کے سعی کی نیت کریں۔ نیت یہ ہے:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَرِيدُ السَّعْيَ بَيْنَ
الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعَةَ أَشْرَافٍ
اے اللہ میں آپ کی رضا و خوشنودی کی خاطر صفا و
مروہ کے درمیان سعی کے ساتھ چکر کرنے کا ارادہ

لِيُجِيبَكَ الْكَرِيمُ فَيَسِّرَهُ لِي
وَلَقَبَلَهُ مِنِّي -

کر رہا ہوں۔ آپ اسے میرے لیے آسان
فرمادیتے ہیں اور اسے قبول فرمائیے۔

پھر دعا کی طرح دونوں ہاتھ تک اٹھا کر بلند آواز سے تکبیر و تہلیل پڑھے اور آہستہ
آواز میں درود شریف پڑھ کر نہایت عاجزی و زاری سے ولی مقاصد کی دعائیں مانگے۔ یہ قبولیت
دعا کا مقام ہے۔

۲۔ تکبیر و تہلیل :

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ
اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْحَمْدُ
الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى مَا هَدَانَا
الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى مَا أَوْلَانَا
الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى مَا أَلْهَمَنَا
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا
وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ
هَدَانَا اللَّهُ - لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ
وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَ
هُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ
وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ وَصَدَقَ
وَعْدُهُ وَتَصَرَّ عِبْدَكَ وَ
أَعْرَجْتَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ
وَحْدَهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا
تَعْبُدُ إِلَّا يَاكَ مُخْلِصِينَ لَهُ
الَّذِينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ
اللَّهُمَّ إِنَّكَ قُلْتَ وَقَوْلِكَ
الْحَقُّ أَدْعُوكَ أَسْتَجِيبُ لَكَ

اللہ ہی کی ذات بڑی ہے اللہ ہی کی ذات بڑی ہے
اللہ ہی کی ذات بڑی ہے اور وہی تعریف کا مستحق
ہے جس اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہوئی تعریف کا
مستحق ہے جس اللہ نے ہمیں ہدایت دی وہی
تعریف کا مستحق ہے اور جس نے ہمیں نعمت بخشی
وہی خدا تعریف کے قابل ہے اور اسی کی ذات
مستحق حمد ہے۔ جس نے ہمیں بھلائی کی راہ
بھائی۔ تمام تعریفیں اسی خدا کو زیب دیتی ہیں
جس نے ہمیں ہدایت نصیب فرمائی۔ اگر اللہ ہمیں
ہدایت نہ دیتا تو ہم کبھی ہدایت نہ پاسکتے۔ اللہ ہی
یکہ و تنہا معبود ہے۔ اس کا کوئی سا جھمی نہیں وہی
مالک الملک ہے۔ وہی ہمہ قسم حمد کا مستحق
ہے۔ زندگی اور موت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ وہ
ایسا زندہ ہے کہ اس کے لیے موت نہیں۔
خیر و بھلائی اسی کے قبضہ میں ہے اور وہ ہر شے پر
قادر ہے۔ وہی اکیلا معبود ہے اس کے سوا کوئی
معبود نہیں اور اس کا وعدہ سچا ہے اور اس نے اپنے
بندے کی مدد فرمائی اور اس کے لشکر کو سرخرو کیا۔ اور
اسی نے تنہا باطل کے سارے لشکروں کو پسا کیا اللہ
کے سوا کوئی معبود نہیں اور ہم خلوص نیت کے ساتھ

اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرتے چاہے یہ بات کافروں کو گراں کیوں نہ گزرے۔ اے اللہ آپ کا فرمان ہے اور آپ کا فرمان ہی حق ہے کہ تم مجھے پکارو میں تو تم کو جواب دوں گا اور آپ کا وعدہ ملتا نہیں۔ تو اے اللہ جس طرح آپ نے مجھے اسلام کی دولت عطا فرمائی۔ اب میرا سوال ہے کہ مجھ سے یہ دولت نہ لیجئے۔ مجھے مرتے دم تک مسلمان ہی رکھیے۔ اللہ ہی کی ذات پاک ہے اور حمد کی مستحق بھی خدا ہی کی ذات ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اللہ بہت ہی بڑا ہے۔ اللہ بزرگ و برتر کے علاوہ نہ کسی میں قوت ہے نہ طاقت۔ اے اللہ! ہمارے آقا و مولا محمد ﷺ پر اور آپ کی اولاد پر اور آپ کے صحاب پر اور آپ کی ازواج مطہرات پر آپ کی ذریت اور پیروکاروں پر قیامت تک درود و سلام نازل فرما۔ اے اللہ! مجھے میرے والدین کو اور سارے مسلمان مرد و عورت کو معاف فرما۔ اور تمام پینمبروں پر سلام پہنچا۔ جملہ تعریفوں کا سزا اور دونوں جہان کا رب ہی ہے۔

اسی کے بعد صفا سے مروہ کی طرف چلیں۔ مرد جب میلین اخضرین (سبز رنگ کے دو ستونوں) کے قریب پہنچیں تو ذرا درمیانی چال سے دوڑنا شروع کر دیں لیکن خیال رکھیں کہ دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے اور دوسرے سبز ستونوں تک اسی طرح دوڑتے چلیں۔ میلین اخضرین کے درمیان دوڑتے وقت یہ دعا پڑھنا مستحب ہے:

میرے رب! بخش اور رحم فرما اور درگزر فرما ان گناہوں سے جن کو تو جانتا ہے اور تو وہ جانتا ہے جو ہم نہیں جانتے۔ بلاشبہ تو عزت و کرامت والا ہے۔ اے اللہ! اس کو سزا اور سعی مشکور بنا اور

وَإِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ
اللَّهُمَّ كَمَا هَدَيْتَنِي لِلْإِسْلَامِ
أَسْأَلُكَ أَنْ لَا تُنْزِعَهُ مِنِّي
عَشَى تَرْفَأَنِي وَأَنَا مُسْلِمٌ
سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا
إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ
وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ اللَّهُمَّ صَلِّ
وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ
وَأَصْحَابِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ
وَأَتَّبِعْهُ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدِي
لِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ
وَسَلِّمْ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ
لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَتَجَاوَزْ عَمَّا
تَعْلَمُ وَتَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُ إِنَّكَ أَنْتَ
الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ
مَبْرُورًا وَسَعِيًّا مُشْكُورًا

وَذُنُوبًا مَّقْصُومًا اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي
وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَ
الْمُؤْمِنَاتِ يَا مُجِيبَ الدَّعَوَاتِ
رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ
الْعَلِيمُ وَتَبَّ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ
التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا آتِنَا فِي
الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ
حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

گناہ مغفور کر دے۔ الہی! مجھے اور میرے ماں
باپ اور تمام مومنین و مومنات کو بخش دے۔ اے
دعاؤں کے قبول کرنے والے ہمارے رب! ہمیں
سے قبول فرما تو ہی کو قبول فرمانے والا ہے اور رحمت
کرنے والا ہے ہمارے رب! ہمیں دنیا میں بھلائی
عطا کر اور آخرت میں بھی بھلائی عطا کر اور ہمیں
دوزخ کے عذاب سے بچا۔

سبز ستونوں سے آگے نکل کر پھر عام رفتار سے چلیں اور کلمہ توحید بار بار پڑھیں۔
جب مروہ پر چڑھنے کے بعد قبلہ رخ کھڑے ہو جائیں اور تیسرا کلمہ پڑھیں۔ پھر درود پاک
پڑھیں۔ اب یہ سعی کا ایک شوٹ (پھیرا) پورا ہو گیا۔

اس کے بعد یہاں (مروہ) سے صفا کی طرف ذکر الہی، درود پاک اور دعائیں پڑھے
واپس چلیں اور مرد حسب سابق سبز ستونوں کے قریب پہنچ کر دوڑنا شروع کر دیں اور دوسرے
سبز ستونوں سے آگے نکل کر عام رفتار سے چل کر صفا پر پہنچیں اور پہلے کی طرح قبلہ رخ رکھ کر
دونوں ہاتھ اٹھا کر تسبیح و تکبیر و حمد و ثناء و درود پاک اور دعائیں پڑھیں۔ اب یہ سعی کا دوسرا شوٹ
(پھیرا) پورا ہو گیا۔ اسی طرح سعی کے سات پھیرے پورے کرے۔ ساتواں پھیرا مروہ پر ختم ہو
گا۔ صفا و مروہ کی سعی کے بعد مسجد حرام میں آ کر مطاف کے نزدیک دو رکعت نماز پڑھنا سنت ہے۔
۳۔ مسائل سعی: سعی سے متعلقہ شرعی مسائل مندرجہ ذیل ہیں:

(۱)۔ مسئلہ: طواف کے بعد صفا و مروہ کی سعی میں بلا عذر دیر کرنا مکروہ اور خلاف سنت
ہے۔ طواف حج اور طواف عمرہ دونوں میں سعی واجب ہے۔

(۲)۔ مسئلہ: سعی کا طواف کے بعد ہونا ضروری شرط ہے خواہ سعی عمرہ کی ہو یا حج کی۔
ہاں حج کی سعی اگر وقوف عرفات کے بعد کی جائے تو اب احرام کھول کر سعی کرنا سنت ہے۔

(۳)۔ مسئلہ: اگر کوئی عذر نہ ہو تو پیدل سعی کرنا واجب ہے۔ پاک بدن یا کیزہ لباس
کے ساتھ با وضو سعی کرنا سنت ہے۔ طواف کے بعد اگر سعی کرنا ہو تو حجر اسود کا اسلام کر کے
باب الصفا کے راستے سے زکو جانا مسنون و مستحب ہے۔

(۴)۔ مسئلہ: سعی کی ابتدا صفا سے کرنا اور پھر سعی کے ساتھوں پھیرے بلا وقفہ پے
در پے کرنا سنت ہے۔ ہاں سعی کے دوران اگر جماعت قائم ہو جائے یا جنازہ آ جائے تو

سعی وہاں ہی چھوڑ کر نماز کے ساتھ شامل ہو جانا چاہیے۔ پھر نماز کے بعد جہاں سعی چھوڑی تھی وہیں سے شروع کر دیں۔

(۵)۔ **مسئلہ:** سعی کے دوران درود شریف اور مسنون دعاؤں کے پڑھنے تکبیر و تہلیل و توبہ واستغفار میں مشغول رہنا چاہیے۔ فضول باتوں بدکلامی بد نظمی اور دوسروں کو تکلیف پہنچانے سے مکمل اجتناب کرنا چاہیے۔

۴۔ **مکروہات سعی:** سعی کے دوران یہ باتیں مکروہ ہیں۔ طواف کے بعد سعی میں بلا عذر تاخیر کرنا، ستر فرض کا نہ ہونا، بلا عذر سواری پر بیٹھ کر سعی کرنا، صفا و مروہ پر نہ چڑھنا، مردوں کا میلین اخضرین کے درمیان سعی میں بلا عذر نہ دوڑنا، خرید و فروخت کرنا، دوسروں کو تکلیف پہنچانا، بد نظری و تلخ کلامی کرنا، فضول ادھر ادھر دیکھنا، پھیروں کے درمیان بلا وجہ وقفہ اور تاخیر کرنا۔ ہاں جماعت یا جنازہ کے ساتھ شامل ہونے، قضائے حاجت اور وضو کے لیے وقفہ جائز ہے۔ نیز کھانے پینے کے لیے بھی تھوڑا سا وقفہ کرنا جائز ہے، باقی جو باتیں طواف میں جائز ہیں وہ سعی میں بھی جائز ہیں۔

۹۔ طریقہ حج

آٹھویں ذوالحجہ سے لے کر بارہ ذوالحجہ تک حج کے شرعی اعمال میں شامل ہونے سے حج مکمل ہوتا ہے۔ یہ پانچوں دن ایام حج کہلاتے ہیں۔ آٹھویں ذوالحجہ کو تمام حاجیوں نے مکہ مکرمہ سے منیٰ کو جانا ہے۔ مفرد اور قارن طریقہ سے حج کرنے والے تو پہلے ہی احرام میں ہیں۔ حج تمتع اور مکہ میں رہنے والوں کو چاہیے کہ وہ فجر کی نماز کے بعد سند کے مطابق مسجد حرام میں احرام باندھیں اور طواف کریں اور پھر دو رکعت نماز طواف پڑھ کر دو رکعت نفل احرام بھی پڑھیں اور اس کے بعد حج کی یوں نیت کریں۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ الْحَجَّ فَبَدِّئْهُ
لِي وَتَقَبَّلْهُ مِنِّي تَوَيْتُ الْحَجَّ
مُخْلِصًا لِلَّهِ تَعَالَى كَتَبْتُكَ
بِعَجْبَةٍ۔

اے اللہ! میرے حج کرنے کا ارادہ ہے۔ میرے لیے اس کو آسان کر دے اور اس کو مجھ سے قبول فرما خالصاً توجہ اللہ تعالیٰ میں نے حج کی نیت کی۔ میں حج کرنے کے لیے حاضر ہوں۔

۱۔ **روانگی منیٰ:** نیت کے بعد فوراً تلبیہ پڑھیں۔ تلبیہ پڑھتے ہی حج کا احرام شروع ہو گیا۔ لہذا اب احرام کی تمام پابندیاں شروع ہو گئیں لہذا انہیں ملحوظ خاطر رکھیں اس کے

بعد منیٰ کو روانہ ہو جائیں۔ منیٰ کا میدان مکہ کے قریب دو پہاڑوں کے درمیان واقع ہے۔ راستے میں تلبیہ درود شریف اور اللہ کی حمد و ثنا کی دعائیں پڑھتے جائیں۔ آٹھویں ذی الحجہ کو سورج نکلنے سے پہلے ہی اگر کوئی منیٰ میں چلا جائے تو بھی کوئی حرج نہیں۔ منیٰ میں پہنچتے ہی یہ دعا پڑھیں۔

اللَّهُمَّ هَذَا مِنِّي فَأَمِّنْ عَلَيَّ
يَا مَنَنْتَ بِهِ عَلَيَّ يَا مَنَنْتَ بِهِ عَلَيَّ

الہی! یہ منیٰ ہے۔ مجھ پر بھی وہ احسان کر جو تو نے اپنے دوستوں پر کیے۔

۲۔ **قیام منیٰ**: منیٰ میں پہنچنے کے بعد وہاں قیام کریں۔ بہتر یہ ہے کہ منیٰ شریف میں ظہر سے نویں کی صبح تک پانچ نمازیں مسجد خیف میں ادا کریں۔ یہ پانچ نمازیں منیٰ میں پڑھنا اور رات کو قیام و عبادت میں گزارنا سنت ہے۔ آنے والی رات ”شب عرفہ“ کو ذکر و عبادت میں بسر کریں اور سونا ہو تو با وضو سوئیں۔ یہ رات مکہ میں گزارنا یا اس سے پہلے عرفات میں چلا جانا خلاف سنت ہے اور مکروہ ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا ہے کہ جو عرفہ کی رات کو یہ دعا ایک ہزار مرتبہ پڑھے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ سے قطع رحم اور گناہ کے سوا جو دعا کریگا اللہ اس کو قبول فرمائے گا۔ کسی نے حضرت عبداللہ مسعودؓ سے پوچھا کہ آپ نے خود حضور اکرم ﷺ سے سنا ہے؟ تو آپ نے کہا ہاں!۔

سُبْحَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ عَرْشُهُ - سُبْحَانَ الَّذِي فِي الْأَرْضِ مَوْطِنُهُ
سُبْحَانَ الَّذِي فِي الْبَحْرِ سَبِيلُهُ - سُبْحَانَ الَّذِي فِي النَّارِ سُلْطَانُهُ
سُبْحَانَ الَّذِي فِي الْجَنَّةِ رَحْمَتُهُ - سُبْحَانَ الَّذِي فِي الْقَبْرِ قَضَاءُهُ
سُبْحَانَ الَّذِي فِي الْهَوَاءِ رُوحُهُ - سُبْحَانَ الَّذِي ذَكَرَ السَّمَاءَ
سُبْحَانَ الَّذِي وَصَّعَ الْأَرْضَ - سُبْحَانَ الَّذِي لَمْ يَلْجَأْ وَلَا مَنْجَأٌ إِلَّا إِلَيْهِ۔
(بہشتی۔ طبرانی)

منیٰ کے قیام کے دروان تلبیہ کثرت سے پڑھیں اور اللہ کا ذکر جتنا کر سکیں کریں اور درود شریف بھی پڑھیں۔

۳۔ **عرفات کو روانگی**: نویں ذوالحجہ جو حج کا دوسرا دن ہے۔ اس روز منیٰ کی مسجد خیف میں نماز فجر باجماعت پڑھ کر تلبیہ ذکر الہی تلاوت قرآن درود شریف اور دعاؤں میں

مشغول رہیں۔ جب سورج مسجد خیف کے سامنے شبیر پہاڑ پر چمکنے لگے تو عرفات روانہ ہو جائیں۔ عرفات یہاں سے تھوڑے سے فاصلے پر ہے۔ لہذا یہ سفر ذکر الہی و درود شریف اور دعاؤں میں طے کریں۔ فضول باتوں سے پرہیز کریں اور تلبیہ بار بار بکثرت پڑھتے چلیں۔ جب عرفات کا مشہور پہاڑ جبل رحمت نظر آئے تو لبیک اور ذکر الہی میں مزید کثرت کریں یہ دعا پڑھتا بھی بہتر ہے۔

اللَّهُمَّ إِلَيْكَ تَوَجَّهْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَيُوجِّهُكَ الْكَرِيمُ
 أَرَوْتُ فَأَجْعَلْ ذَلِكَ لِي مَغْفُورًا وَحَيَاتِي مَبْرُورًا وَأَرْحَمَنِي وَلَا تَجْعَلْ لِي
 وَبَارِكْ لِي فِي سَفَرِي وَاقْضِ بَعْرَاتِي حَلَجَةً إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
 اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا أَقْرَبَ عَدْوٍ وَعَدْوَتَهَا مِنْ رِضْوَانِكَ وَبَعْدَهَا مِنْ
 سَخَطِكَ اللَّهُمَّ إِلَيْكَ عَدَوْتُ وَعَلَيْكَ اعْتَمَدْتُ وَوَجَّهْتُ أَرَدْتُ
 فَأَجْعَلْنِي مِمَّنْ تَبَاهَى بِهِ الْيَوْمَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي وَأَفْضَلُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ
 الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ وَالْمَعَاوَاةَ الدَّائِمَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيَّ
 خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ۔

۴۔ میدان عرفات: عرفات وہ عظیم الشان اور وسیع میدان ہے جہاں حضرت آدم اور حوا کی ساہا سال کی جدائی کے بعد باہم ملاقات ہوئی اور انہیں ایک دوسرے کا تعارف ہوا۔ اسی لیے اس کا نام عرفات ہے یہاں حج کا سب سے بڑا رکن وقوف عرفہ ادا ہوتا ہے جس کے بغیر حج نہیں ہوتا۔ چاروں طرف سے عرفات کی حدود نشانات لگا کر واضح کر دی گئی ہیں تاکہ وقوف حدود عرفات کے اندر صحیح طور پر ادا کیا جاسکے۔ جس طرف سے عرفات میں داخل ہوتے ہیں وہاں ایک بہت بڑی مسجد ہے جس کو مسجد نمروہ کہتے ہیں۔ یہ مسجد میدان عرفات کے ایک طرف کنارے پر ہے۔ اس کی مغربی دیوار کی جانب وادی بطن عرفہ عرفات سے خارج ہے۔ یہاں وقوف درست نہیں۔ یاد رکھیں وقوف کا وقت اگر کسی نے یہاں گزارا تو اس کا حج نہیں ہوگا۔ بطن عرفہ کے سوا عرفات کی حدود کے اندر جہاں چاہیں قیام کریں جبل رحمت کے قریب ٹھہرنا مسنون اور افضل ہے۔ وقوف کے لیے غسل کرنا دونوں خطبے سننا، ظہر و عصر کی دونوں نمازیں اکٹھی پڑھنا۔ نمازوں کے بعد فوراً موقف میں جانا۔ با وضو رہنا بہت بہتر ہے۔

۵۔ فضیلت و قوف عرفہ: نویں ذوالحجہ کے بعد اور دسویں کی صبح صادق تک کے درمیانی اوقات میں کسی وقت بھی عرفات میں ٹھہرنے سے حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ ادا ہو جاتا

ہے اور نویں کے غروب آفتاب تک یہاں ٹھہرنا واجب ہے اس سے پہلے حدود عرفات سے باہر نکلنا سخت جرم ہے جس پر دم لازم آتا ہے۔ وقوفِ عرضہ کی فضیلت بے پناہ ہے۔ اس کے متعلق حضور ﷺ کے ارشادات مندرجہ ذیل ہیں:

۱۔ حدیث: حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے ایسا کوئی دن نہیں جس میں اللہ تعالیٰ یومِ عرفہ سے زیادہ بندوں کو دوزخ سے آزاد کرتا ہو پہلے رب کریم بندوں سے قریب ہوتا ہے پھر فرشتوں کے سامنے بندوں پر فخر کر کے فرماتا ہے کہ یہ لوگ کیا ارادہ کرتے ہیں۔ (مسلم)

۲۔ حدیث: حضرت طلحہ بن عبید اللہ بن کریرؓ روایت کرتے ہیں بیشک رسول خدا نے فرمایا "شیطان یومِ العرفہ کے سوا اور کسی دن زیادہ ذلیل، حقیر اور غصہ کی حالت میں نہیں دیکھا گیا اور اس کا سبب رحمت الہی کا نزول اور کبیرہ گناہوں کی مغفرت ہے اور یہی اس نے جنگ بدر میں دیکھا تھا کہ جناب جبرئیل ملائکہ کی صفوں کو ترتیب دے رہے ہیں۔" (مشکوٰۃ)

۳۔ حدیث: حضرت عمرو بن عبد اللہ بن صفوانؓ اپنے ماموں یزید بن شیبانؓ سے روایت کرتے ہیں کہ ہم میدانِ عرفات میں اس جگہ کھڑے ہوئے تھے جو موقفِ عمرو بن عبد اللہ کے نام سے موسوم تھا۔ یہ (نبی علیہ السلام کی) قیام گاہ سے دور تھی۔ اس دوران ہمارے پاس ابن مربع انصاری آئے اور کہا کہ میں سرکارِ عالم کا قاصد ہوں۔ آپ نے فرمایا ہے کہ تم لوگ اپنی عبادت کی جگہ ٹھہرے رہو کیونکہ تم اپنے جدِ اعلیٰ حضرت ابراہیمؑ کے طریقے پر ہو۔ (ابن ماجہ)

۴۔ حدیث: حضرت جابرؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا نویں ذی الحجہ کو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے اور فرشتوں سے فخر یہ طور پر فرماتا ہے میرے بندوں کو دیکھو وہ میرے پاس پراگندہ حال، شویدہ مال دور دور سے آتے ہیں۔ میں تمہیں گواہ کرتا ہوں کہ میں نے ان کی بخشش کر دی ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں خداوند! فلاح شخص مرتکب گناہ مشہور ہے اور فلاں مرد اور فلاں عورت بھی گناہوں میں آلودہ ہیں رب کریم فرماتا ہے۔ "میں نے ان کو بھی معاف کر دیا۔" نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا "یومِ العرفہ کے علاوہ اور کسی دن (اتنے زیادہ) ناردوزخ سے آزاد نہیں کیے جاتے۔" (شرح السنہ)

۵۔ حدیث: حضرت عباس بن مرداسؓ روایت کرتے ہیں۔ بیشک رسول خدا ﷺ نے نویں ذی الحجہ کی شام امت مسلمہ کی مغفرت کے لیے دعا فرمائی جس کو قبول کرتے ہوئے

رب کریم نے فرمایا میں نے ان کی خطاؤں کو معاف کر دیا سوائے مظالم کے۔ کیونکہ میں ظالم سے مظلوم کا حق لوں گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ خداوند اگر تو چاہے تو مظلوم کو جنت دے کر ظالم کو معاف فرما دے لیکن اس وقت یہ اضافہ منظور نہ ہوا مگر جب دوبارہ مزدلفہ میں دعا فرمائی تو قبول ہو گئی۔ راوی کہتے ہیں کہ اس وقت نبی علیہ السلام مسکرائے تو حضرت ابو بکرؓ و عمرؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہمارے ماں باپ آپ پر قربان! رب کریم آپ کو مسکراتا رکھے اس وقت مسکراہٹ کا کیا سبب ہے؟ تو آپ نے فرمایا ”دشمن خدا ابلیس کو جب معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا کو قبول فرمایا اور امت مسلمہ کی مغفرت فرمادی تو اس نے سر پر خاک بکھیر لی ہے اور ہلاکت ہلاکت پکار رہا ہے اس کی بے چینی دیکھ کر مسکرا رہا ہوں۔“ (ابن ماجہ)

۶۔ **وقوف کا سنت طریقہ:** وُتوف کا سنت طریقہ یہ ہے کہ جب دوپہر کا وقت قریب آجائے تو وُتوف کے لیے غسل کریں یہ نہ ہو تو وضو کریں اور مسجد نمبرہ میں جائیں۔ زوال کے بعد ظہر کے وقت میں ظہر کی سنتیں پڑھیں پھر حج کا خطبہ سن کر جماعت کے ساتھ ظہر پڑھیں۔ سلام پھرتے ہی عصر کی تکبیر پڑھی جائے گی نماز عصر ادا کریں۔ دونوں نمازوں کے درمیان کسی قسم کی بات کرنا تو کجا سنتیں پڑھنا بھی جائز نہیں۔ یہاں ظہر و عصر اکٹھی پڑھنے کے لیے درج ذیل شرائط کا پایا جانا ضروری ہے

ذوالحجہ کی نویں تاریخ کا ہونا حدود عرفات میں ہونا حج کا احرام ہونا باجماعت کے ساتھ ہونا حاکم وقت یا اس کے نائب کا موجود ہونا پہلے ظہر پھر عصر کا پڑھنا۔ مقیم امام کا قصر نہ کرنا۔ مذکورہ شرائط سے کوئی شرط اگر نہ پائی جائے تو ظہر و عصر کو اپنے اپنے وقت میں پڑھنا چاہیے۔ یہاں ظہر و عصر نمازیں ملا کر ایک ہی وقت میں پڑھنے کا حکم اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ غروب آفتاب تک وُتوف اور دعا کے لیے کافی وقت مل سکے۔

نماز سے فراغت کے بعد فوراً موقف (وقف کرنے کی جگہ) کو چلیں۔ جبل رحمت کے سیاہ پتھروں کے قریب نبی اکرم ﷺ کے وقف شریف پر یا اس کے نزدیک وُتوف کرنا افضل ہے۔ ہجوم کے باعث یہاں اگر جگہ نہ مل سکے تو بطن عرفہ کے سوا عرفات کی حدود کے اندر ہر جگہ وُتوف ادا ہو سکتا ہے۔

بہتر و افضل یہ ہے کہ قبلہ رو کھڑے وُتوف کیا جائے۔ اگر سارا وقت کھڑے نہ ہو سکیں تو جتنی دیر ممکن ہو کھڑے رہیں پھر بیٹھ جائیں۔ کچھ دیر ستانے کے بعد پھر کھڑے ہو جائیں اس طرح وُتوف کا سارا وقت خشوع و خضوع اور نہایت سنی عاجزی و انکساری کے ساتھ ہاتھ پھیلائے

تسبیح و تہلیل، تکبیر، حمد و ثنا، ذکر و دعا، توبہ و استغفار، تلاوت قرآن اور دور در شریف پڑھنے میں گز
دیں، تلبیہ بار بار پڑھیں۔

حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم ﷺ کو دیکھا کہ آپ عرفات میں سے
تک ہاتھ اٹھا کر اور ہاتھوں کو پھیلا کر اس طرح دعا مانگ رہے تھے جیسے کھانا مانگنے والا محتاج ہاتھ
پھیلا کر کھانا مانگتا ہے۔ (فتح القدر)

دعا مانگنے کا عاجزانہ اور صوفیانہ طریقہ یہ ہے کہ بوقت دعا ہاتھوں کو آسمان کی طرف
سر سے اونچا پھیلائیں، آنکھیں بند کیے، گردن جھکائے، خشوع اور خضوع کے ساتھ جو مسجد نم
میں ہیں اور جو ڈیروں میں ہیں وہ سب ہمہ تن صدق دل سے اپنے مہربان رب کریم کی طرف
متوجہ ہوں اور میدان قیامت میں حساب اعمال کے لیے اس کے حضور حاضری کا تصور کریں
اس وقت تسبیح تہلیل تکبیر حمد لبیک، ذکر و دعا، توبہ اور استغفار میں ڈوب جاؤ اور کوشش کرو کہ ایک
قطرہ آنسوؤں کا ٹپکے کہ دلیل اجابت و سعادت ہے ورنہ رونے کا سامنہ بناؤ کہ اچھوں کی صورت
بھی اچھی ہے۔ دعا اور ذکر کے دوران لبیک کی بار بار تکرار کرو۔ سب سے بہتر یہ ہے کہ سارا وقت
رونے اور عاجزی میں گزارو اور اللہ کے عذاب سے پناہ مانگو۔ کبھی اس کے غضب کی یاد سے دل
کانپ جائے کبھی اس کی رحمت کی امید میں مرجھایا ہوا دل تازہ اور شگفتہ ہو جائے۔ یوں ہی تضرر
اور زاری میں رہو۔ یہاں تک کہ آفتاب غروب ہو جائے اور رات کا ایک لطیف جزا آ جائے اس
سے پہلے کوچ کرنا منع ہے۔ اللہ کے وعدے پر بھروسہ رکھو اور آج حاجی کے دل سے اٹھی ہوئی دعا
بارگاہ رب العزت میں قبول ہے اور وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو گیا جیسا کہ آج ہی ماں
کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے اور اب اللہ سے توفیق مانگے کہ آئندہ اس سے گناہ سرزد نہ ہو۔

وقوف میں یہ باتیں مکروہ ہیں نماز ظہر و عصر ملا کر پڑھنے کے بعد موقوف کو جانے میں دیر
کرنا پھر اس وقت سے غروب آفتاب تک کھانے پینے میں یا وقوف کے سوا کسی اور کام میں
مشغول رہنا دنیا کی باتیں کرنا۔ مزولفہ روانگی کے لیے سورج ڈوبنے سے قبل وقوف چھوڑ
دینا۔ غروب آفتاب کے بعد عرفات سے روانگی میں دیر کرنا، مغرب یا عشاء کی نماز عرفات میں
پڑھنا۔

غروب آفتاب سے پہلے حدود عرفات سے باہر نکلنا حرام ہے جس نے ایسا کیا اس پر
لازم ہے کہ واپس آئے اور غروب کے بعد عرفات سے باہر نکلے۔ ورنہ اس پر دم واجب ہوگا نویں
کے زوال کے بعد سے دسویں کی صبح تک اگر کوئی وقوف نہ کر سکا تو اس کا حج فاسد ہو گیا اور اس پر

آئندہ سال حج کرنا فرض ہے۔

وقف کی مسنون دعا

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ - وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَلِلَّهِ
 الْحَمْدُ - لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ
 اللَّهُمَّ اهْدِنِي بِالْهُدَى وَتَقِيَّتِي وَاعْتَصِمْتَنِي بِالتَّقْوَى وَاعْفُرْ لِي فِي الْأَخْوَةِ
 وَالْأُولَى - اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ حَبْجًا مَبْرُورًا وَوَدْبًا مَغْفُورًا اللَّهُمَّ لَكَ
 صَلَوَاتِي وَتُسْكِينِي وَمَخْيَايَ وَمَعَايَ وَإِيَّاكَ مَالِي - اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ
 مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَسُوسَةِ الصَّدْرِ وَشَتَاتِ الْأَمْرِ - اللَّهُمَّ اهْدِنَا بِالْهُدَى
 وَزَيْنَا بِالتَّقْوَى وَاعْفُرْ لَنَا فِي الْأَخْوَةِ وَالْأُولَى - اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ رِزْقًا
 حَلَالًا طَيِّبًا مُبَارَكًا - اللَّهُمَّ أَمْرَتِنِي بِالذُّعَاءِ وَتِلْكَ الْإِجَابَةُ وَإِنَّكَ لَا
 تُغْلِفُ وَعُدَّكَ - اللَّهُمَّ مَا أَحْبَبْتِ مِنْ خَيْرٍ فَاجِئِيهِ إِلَيْنَا وَبِئْسَ لَنَا وَمَا
 كَرِهْتِ مِنْ شَرٍّ فَتَكْرِهِيهِ إِلَيْنَا وَجَنِّبْنَا عَنْهُ وَلَا تَنْزِعْ مِنَّا الْإِسْلَامَ أَبَدًا
 إِذْ هَدَيْتَنَا لِإِلَهِ إِلَّا إِلَهِهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ
 يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ - اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي صَدْرِي نُورًا وَفِي
 سَمْعِي نُورًا وَفِي بَصَرِي نُورًا وَفِي قَلْبِي نُورًا اللَّهُمَّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ
 لِيْتَرِّ لِي أَمْرِي وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ وَسَاوِسِ الصَّدْرِ وَتَشْتِ الْأَمْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ
 اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا يَلِجُ فِي اللَّيْلِ وَشَرِّ مَا يَلِجُ فِي النَّهَارِ وَشَرِّ
 مَا تَهَبُّ الرِّيَّاحُ وَشَرِّ بَوَائِقِ الدَّهْرِ - رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ
 حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرٍ مَا سَأَلَكَ بِهِ نَبِيُّكَ
 وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَ مِنْهُ نَبِيُّكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَبَّنَا ظَلَمْنَا
 أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ - رَبِّ اجْعَلْنِي
 مِنْ عِبِيدِكَ الصَّالِحِينَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءَ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ
 وَ لِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَحِمْتَ بَيْنِي
 وَبَيْنَهُمَا - رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي
 قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ - رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 وَتُبَّ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ -
 اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ وَسْرِي مَكَانِي وَتَسْمَعُ كَلَامِي وَتَعْلَمُ سِرِّي
 وَعَلَانِيَّتِي وَلَا يَخْفَى عَلَيْكَ شَيْءٌ مِنْ أَمْرِي وَأَنَا الْبَائِسُ الْفَقِيرُ
 الْمُسْتَغِيثُ الْمُسْتَجِيرُ الْوَجِلُ الْمُشْفِقُ الْمُقْتِرُ الْمُعْتَرِفُ بِذَنْبِهِ

أَسْأَلُكَ مَسْأَلَةَ الْمُسْكِينِ وَأَبْتِهْلُ إِلَيْكَ أَيُّهَا الْمَذْنِبِ الذَّلِيلِ
وَأَدْعُوكَ دُعَاءَ الْغَائِبِ الضَّرِيرِ مَنْ خَضَعَتْ لَكَ رَقَبَتُهُ وَفَاضَتْ
عَيْنَاهُ وَنَجِلَ لَكَ جَسَدُهُ دَرَّعِمَكَ لَكَ الْفُؤَادُ. اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْنِي بِدُعَاؤِكَ
شَقِيئًا وَكُنْ لِي رَعُوقًا رَحِيمًا يَا خَيْرَ الْمَسْئُولِينَ وَيَا خَيْرَ الْمُعْطِينَ يَا أَرْحَمَ الرَّحِيمِينَ
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. آمِينَ. يَا مَنْ لَا يُبْرِمُهُ إِلَّا عَاطِمُ الْمُلْحَبِينَ فِي
الدُّعَاءِ وَلَا تُعْجِزُهُ مَسْئَلَةُ السَّائِلِينَ أَذْكَأَ بَرْدَ عَفْوِكَ وَخَلَادَةَ مَغْفِرَتِكَ
وَلَذَّةَ مُنَاجَاةِكَ وَرَحْمَتِكَ. إِلَهِي مَنْ مَدَحَ إِلَيْكَ نَفْسَهُ
فَاقْبَلْ لَائِمَةَ نَفْسِي أَخْرَسَتْ الْمَعَاصِيَ لِسَانِي فَعَالِي دَرَجَتِكَ مِنْ عَمَلٍ وَلَا تَقْبَلْ مِنْ سِوَى
الْأَمَلِ د

۷۔ **قیام مزدلفہ:** میدان عرفات کے موقوف سے فارغ ہونے کے بعد غروب

آفتاب کے بعد مزدلفہ میں پہنچنا ضروری ہے۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ:

اس کا کچھ ہرج نہیں کہ حج کے دنوں میں اپنے رب
سے روزی مانگی جائے اور جب عرفات سے واپس
ہونے لگو تو مشعر حرام (مزدلفہ) میں خدا کا ذکر کرو
اور اس طرح ذکر کرو جس طرح اس نے تمہیں سکھایا
ہے۔ (پ: ۲: بقرہ ۱۹۸)

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا
فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَقَضْتُمْ
مِنْ عَرَفَاتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ
الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوا
هَذَا كُمْ ء (پ: ۲، بقرہ: ۱۹۸)

مزدلفہ پہنچ کر جہاں جگہ ملے ٹھہر جاؤ لیکن قزح پہاڑی کے پاس ٹھہرنا زیادہ افضل ہے
اس مقام کو مشعر حرام بھی کہتے ہیں جہاں مسجد مشعر حرام ہے۔ مزدلفہ پہنچ کر مغرب اور عشاء کی نماز
میں تاخیر نہ کرو۔ جلدی کرنا مستحب ہے۔ کوشش کرو کہ امام کے ساتھ نماز باجماعت ادا کرو۔
یہاں ایک اذان اور ایک اقامت کے ساتھ یکے بعد دیگرے دو جمعائیں ہوں گی۔ پہلے مغرب کی
پھر عشاء کی۔ مغرب کی یہ نماز قضا نہیں بلکہ اس میں ادا ہی کی نیت کرو۔ ان دونوں کے درمیان
سنتیں نہ پڑھو عشاء کی نماز کے بعد البتہ مغرب اور عشاء کی سنتیں اور وتر پڑھ لو۔

اگر امام کے ساتھ جماعت نہ ملے اور اپنی قیام گاہ پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھو تو وہاں
بھی اسی طرح دونوں وقتوں کی نمازوں کو جمع کر کے پڑھو۔ یہاں فجر تک رات گزارنا سنت موكودہ
ہے یہ رات بعض کے نزدیک شب قدر اور شب جمعہ سے بھی افضل ہے۔ یہ رات شرف مکان اور
زمان کی جامع ہے۔ مکان کا اشرف اس لیے ہے کہ سرزمین حرم ہے اور پھر مشعر حرام اور زمان کا
شرف اس لیے کہ شب عید اور ماہ حج کی آخری شب ہے اور مناسب ہے کہ یہ رات تلاوت

قرآن نماز درود شریف اور استغفار میں بسر ہو۔ آج کی عبادت کا ثواب لیلۃ القدر سے زیادہ ہے۔ یہاں دعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ تم سے حقوق العباد کو معاف فرمائے اور جن کے حقوق سلب ہوئے ہیں ان کو تم سے راضی کر دے۔

۸۔ وقوف مزدلفہ: وقوف مزدلفہ واجب ہے اور اس کا وقت طلوع فجر سے سورج نکلنے سے تھوڑی دیر پہلے تک ہے۔ اور سنت اور افضل یہ ہے کہ وقوف مزدلفہ کے لیے مشعر حرام یعنی قزح پہاڑ کے قریب راستہ سے ہٹ کر اتریں۔ اگر ہجوم کے باعث یہاں جگہ نہ ملے تو وادی محسر کے سوا مزدلفہ کے سارے میدان میں جہاں جگہ ملے وقوف کریں۔ وادی محسر جسے آج کل وادی النار بھی کہتے ہیں یہاں وقوف جائز نہیں۔ اس جگہ کو نشان لگا کر واضح کر دیا گیا ہے تاکہ کوئی شخص بھول کر وہاں وقوف نہ کرے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں اصحاب فیل پر عذاب نازل ہوا تھا۔ طلوع فجر سے قبل ہی وضو وغیرہ کر کے وقوف کی تیاری کر لیں اور نماز فجر اول وقت اندھیرے میں ہی باجماعت ادا کریں۔ نماز کے بعد طلوع آفتاب سے تھوڑی دیر پہلے تک پورے خشوع و خضوع کے ساتھ وقوف عرفات کی طرح یہاں بھی ذکر الہی، تسبیح و تہلیل، حمد و ثناء، تلبیہ و درود اور دعاؤں کے ساتھ وقوف کریں اور یہاں خاص کر حقوق العباد معاف ہونے کی دعا کریں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں آنحضرت ﷺ کی دوسری دعا (حقوق العباد معاف ہونے کی) قبول ہوئی۔

حضرت عباس بن مرداس سے مروی ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے عرفہ کی شام کو اپنی امت (یعنی حج کرنے والوں) کے لیے دعائے مغفرت کی تو آپ کو جواب ملا کہ میں نے حقوق العباد کے سوا سب گناہ بخش دیے۔ میں ضرور مظلوم کا حق لوں گا۔ عرض کیا یا رب! اگر آپ چاہیں تو مظلوم کو جنت دیں اور ظالم کو بخش دیں۔ شام تک اس کا کوئی جواب نہ ملا۔ جب مزدلفہ میں حضور نے صبح کی تو اس دعا کا پھر اعادہ کیا تو اللہ نے آپ کا یہ سوال بھی پورا کر دیا۔ راوی کہتے ہیں کہ نبیؐ بنسے تو حضرت ابو بکرؓ نے عرض کی کہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ یہ ساعت تو حضور کے ہنسنے کی نہیں۔ کس چیز نے حضور کو ہنسایا اللہ تعالیٰ حضور کو ہمیشہ ہنستار کھے۔ آپ نے فرمایا ”اللہ کے دشمن ابلیس نے جب جانا کہ میری دعا اللہ نے قبول کر لی اور میری امت کی بخشش ہو گئی تو وہ مٹی لے کر اپنے سر پر ڈال رہا ہے اور پکار رہا ہے۔ ہائے ہلاکت اور وائے افسوس! اس کی جزع و فزع نے مجھ کو ہنسا دیا۔“ یہ قبولیت دعا کا قبول مقام ہے۔ تم بھی خشوع و خضوع کے ساتھ نیا اور آخرت کی بھلائیوں کے لیے وقوف مزدلفہ کا وقت صرف طلوع فجر سے روشنی پھیلنے تک ہے۔ لہذا اس وقت میں جو مزدلفہ سے ہو کر گزرتے ہو اس کا وقوف ہو گیا۔ طلوع فجر سے پہلے جو یہاں سے

چلا گیا اس پر دم داب ہے ہاں بیمار یا عورت یا کمزور و ناتواں بوڑھے اگر هجوم میں ضرر کے خوف سے قبل از وقت چلے جائیں تو ان کو معاف ہے اور ان پر دم بھی نہیں۔ طلوع فجر کے بعد نماز پہلے یا طلوع آفتاب کے بعد مزدلفہ سے جانا خلاف سنت اور مکروہ ہے۔

۹۔ منیٰ کو روانگی: سورج نکلنے سے تھوڑی دیر پہلے منیٰ کو روانہ ہو جائے چاہیے سورج طلوع ہونے کا انتظار کرنا خلاف سنت ہے۔ حضور اکرم ﷺ مازنین کے راستہ منیٰ کو روا ہوئے تھے۔ مازنین دو ہیں۔ ایک عرفات سے مزدلفہ تک دوسرا مزدلفہ سے منیٰ تک۔ مازنین پہاڑوں کے درمیان تنگ راستہ کو کہتے ہیں۔ مزدلفہ سے جب چلو تو یہاں سے چھوٹی چھوٹی کنکریاں خرما کی گٹھلی کے برابر پاک جگہ سے اٹھا لو ان کو دھو کر اپنے پاس رکھو۔ آج دس تاریخ ذوالحجہ کی ہے۔ ان کنکریوں سے رمی جمرہ عقبی کرنا ہے مزدلفہ سے کنکری اٹھانا مستحب ہے لیکن کسی پتھر توڑ کر کنکری بنانا مکروہ ہے۔ راستہ بھر دعا ذکر و درود اور بلیک میں مصروف رہو۔ آخر منیٰ میں پہنچ کر یہ دعا پڑھو:-

اللَّهُمَّ هَذَا مِنِّي قَدْ أَتَيْتُهَا وَ
أَنَا عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ
أَسْأَلُكَ أَنْ تَمُنَّ عَلَيَّ بِمَا
مَنْنْتَ بِهِ عَلَيَّ أَوْ لِيَاؤِكَ
اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ
الْحَرَمَانِ وَالْمُصِيبَةِ فِي وَبَيْتِي
يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ هَذَا الْحَقْدُ لِلَّهِ
الَّذِي بَلَغَنِي مِنِّي سَائِلًا
مُعَافًا۔

الہی یہ منیٰ ہے۔ میں یہاں آ پہنچا ہوں۔ میں آپ کا بندہ ہوں اور آپ کے بندہ کا بیٹا ہوں میں آپ سے یہاں وہ انعام و اکرام مانگتا ہوں جو آپ نے یہاں اپنے اولیاء پر انعام و اکرام کیا۔ الہی! میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں محرومیوں سے اور دین میں مصیبت سے۔ ان سب رحم کرنے والوں میں زیادہ رحم کرنے والے۔ حمد ہے اس ذات کو جس نے مجھ کو منیٰ سلامت اور عافیت کے ساتھ پہنچایا۔

حضرت جابر فرماتے ہیں کہ حجۃ الوداع میں نبی اکرم ﷺ مزدلفہ سے روانہ ہوئے۔ جب آپ وادی محسر میں پہنچے تو یہاں سواریوں کو تیز کر دیا پھر آپ درمیانی راستہ پر چلے جو جمرہ کبریٰ کو جاتا ہے۔ جب آپ منیٰ میں جمرہ عقبی کے پاس پہنچے تو اس پر سات کنکریاں ماریں۔ ہر کنکری پر تکبیر کہتے۔ آپ نے یہ رمی بطن وادی سے کی۔ پھر منحر (قربانگاہ) میں آ کر تریسٹھ اونٹ اپنے ہاتھ سے قربان کیے۔ پھر آپ کے ارشاد سے حضرت علیؑ نے باقی اونٹ قربان کیے اور حضور نے ان کو اپنی قربانی میں شریک کر لیا۔ پھر آپ کے حکم سے ہر اونٹ سے گوشت کا ایک ایک ٹکڑا

ہانڈی میں پکایا گیا جس سے دونوں نے گوشت کھایا اور شور بانوش فرمایا۔ پھر حضور سوار ہو کر طواف کے لیے بیت اللہ کو روانہ ہوئے اور ظہر کی نماز مکہ میں پڑھی۔ (مسلم)

عبادات • اذوالحجہ: اذوالحجہ کو منیٰ میں پہنچ کر جمرہ عقبیٰ کو رمی کرنا پھر قربانی کرنا اس کے بعد سر منڈوانا یا بال کترانا واجب اور سنت ہے اور اسی تاریخ کو طواف زیارت کرنا بھی افضل ہے۔

(۱) **دھس:** کنکریا پتھر مارنے کو رمی کہتے ہیں اور اصطلاح میں رمی سے مراد حج کا وہ عمل ہے جس میں حاجی تین ستونوں پر کنکریاں مارتا ہے۔ رمی جمرات واجب ہے۔ جمرات یا جمار جمرہ کی جمع ہے۔ جمرہ کنکری کو کہتے ہیں۔ منیٰ کے راستے میں کچھ کچھ فاصلے سے پتھر کے تین ستون قد آدم کے برابر کھڑے ہیں۔ ان پر چونکہ کنکریاں پھینکی جاتی ہیں اس لیے ان ستونوں کو ہی جمرات کہنے لگے۔ اور یہ تین جمرات جمرہ اولیٰ، جمرہ وسطیٰ اور جمرہ عقبیٰ کے نام سے مشہور ہیں ان میں سے جو مکہ مکرمہ کے قریب ہے اس کو جمرہ عقبیٰ کہتے ہیں۔ بعد والے کو وسطیٰ اور اس کے بعد والے کو جو مسجد خیف کے قریب ہے جمرہ اولیٰ کہتے ہیں۔

آج منیٰ میں سب سے پہلا کام جمرہ عقبیٰ کی رمی ہے۔ اس رمی کا مسنون وقت طلوع آفتاب سے زوال آفتاب تک ہے اور زوال آفتاب سے غروب آفتاب تک بھی جائز ہے عورتوں، بیماروں اور ضعیفوں کے علاوہ غروب آفتاب کے بعد رمی کرنا مکروہ ہے البتہ طلوع فجر سے پہلے پہلے رمی کرنے سے واجب ادا ہو جاتا ہے۔ جمرہ عقبیٰ کی رمی کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ جمرہ سے تھوڑے سے فاصلے پر اس طرح کھڑے ہوں کہ منیٰ دائیں اور کعبہ بائیں اور جمرہ سامنے ہو۔ پھر مندرجہ ذیل الفاظ پڑھتے ہوئے دائیں ہاتھ میں ایک کنکری لے کر زور سے جمرہ پر مار دیں اس طرح یکے بعد دیگرے سات پوری کریں۔ پہلی کنکری مارتے ہیں تلبیہ بند کر دیں اور ہر کنکری کے ساتھ بسم اللہ اللہ اکبر کہیں اور یہ دعا پڑھنا بھی مستحب ہے۔

اللہ کے نام سے اللہ بہت بڑا ہے۔ شیطان کو ذلیل کرنے کے لیے اور رحمن کو راضی کرنے کے لیے رمی کرتا ہوں! الہی! حج کو قبول، کوشش کو منظور اور گناہوں کو معاف فرما۔

بِسْمِ اللّٰهِ اللّٰهُ اَكْبَرُ رَحْمًا
لِلشَّيْطَانِ رِضًا لِلرَّحْمٰنِ
اللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَبْرُورًا وَ
سَعْيًا مَشْكُورًا وَ ذَنْبًا مَغْفُورًا۔

آج کی رمی کے بعد دعا کے لیے وہاں ٹھہرنا خلاف سنت ہے لہذا رمی کے بعد ذکر و دعا میں مشغول اپنی قیام گاہ میں آ جائیں اور فرمادے گا کہ اذوالحجہ مبارک ہے اللہ تعالیٰ ہم سے

بند ہو جائے گی۔

پتھر توڑ کر کنکریاں بنانا، مسجد سے یا کسی ناپاک جگہ سے کنکریاں اٹھانا مکروہ ہے۔ بڑے پتھر یا ناپاک کنکریوں سے رمی کرنا بھی مکروہ ہے۔ اس لیے احتیاطاً رمی سے پہلے کنکریوں کو دھو لینا بہتر اور مستحب ہے۔ جمرات کے قریب سے استعمال شدہ کنکریوں سے رمی کرنا بھی مکروہ ہے کیونکہ وہ مردود کنکریاں ہیں۔ حدیث پاک میں ہے جن کا حج قبول ہوتا ہے ان کی کنکریاں اٹھالی جاتی ہیں اور جن کا حج قبول نہیں ہوتا۔ وہ کنکریاں وہیں پڑی رہتی ہیں۔ ایسا نہ ہو تو وہاں کنکریوں کا پہاڑ ہو جائے۔

اگر دسویں تاریخ کی یہ رمی بعد والی رات میں بھی نہ کی تو اس کی قضا اور دم دونوں واجب ہیں۔ جمرہ کی جڑ پر کنکری مارنا مستحب ہے کنکری کا جمرہ کو لگنا لازمی شرط نہیں کنکری جمرہ کے گرد بنی ہوئی دیوار کے اندر گرے تو جائز ہے باہر گرے تو اس کی جگہ دوسری مارنا چاہیے۔ ساتوں کنکریاں ایک ہی بار ماریں تو وہ ایک ہی بار شمار ہوں گی۔

بلاعذر شرعی کسی کو اپنا نائب بنا کر رمی کروانا ہرگز جائز نہیں، شدید بیماری، بہت زیادہ بڑھا پا اور کمزوری یا ایسی بیماری کہ سواری پر بھی رمی کرنے سے زیادہ تکلیف و بیمار ہو جانے کا قوی اندیشہ ہو تو دوسرے کو نائب بنا کر رمی کروانا جائز ہے۔ نائب کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ پہلے اپنی رمی سے فارغ ہو کر پھر دوسرے کی طرف سے رمی کرے۔

(۲)۔ **قربانی**: دس ذی الحجہ کو رمی سے فارغ ہو کر دوسرا کام قربانی ہے۔ قربانی کے جانور میں وہی شرائط ہیں جو عید الاضحیٰ کی قربانی کے ہیں کہ اونٹ پانچ برس سے کم نہ ہو پورے پانچ برس کا ہو۔ گائے پورے دو برس کی ہو۔ بھینٹ اور بکری پورے ایک سال کے ہوں یہ قربانی عید کی قربانی نہیں جو صرف مقیم مالدار پر واجب ہوتی ہے۔ یہ قربانی توجح کا شکرانہ ہے امیر غریب ہر حاجی پر واجب ہے۔

ہاں اگر حاجی مفرد ہے تو یہ قربانی مستحب ہے اگر چہ غنی ہو، اگر حاجی متمتع یا قارن ہے تو یہ قربانی واجب ہے اگر چہ حاجی فقیر ہی ہو۔ لیکن اگر غنی حاجی مقیم ہو تو اس قربانی کے علاوہ عید کی قربانی بھی اس پر واجب ہے۔ عید اور حج کی قربانی میں صرف فرق یہ ہے کہ یہ سب پر واجب ہے اور عید کی قربانی فقط غنی پر واجب ہے۔

بہتر ہے کہ اپنے ہاتھوں سے خود قربانی کرو۔ جانور کو قبلہ رخ لٹاؤ اور خود بھی قبلہ رخ کھڑے ہو کر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے ہوئے اتنی قوت کے ساتھ چھری پھیرو کہ چاروں رگیں

کٹ جائیں۔ اس سے زیادہ نہ کاٹو کہ بلا وجہ تکلیف دینا ہے۔ جب تک جانور ٹھنڈا نہ ہو جائے کھال اتارنا شروع نہ کرو۔ افضل یہ ہے کہ بھینٹ، بکری، گائے وغیرہ کو ذبح کرو اور اونٹ کو نحر کرو۔ نحر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو کھڑا کر کے سینہ میں گلے کی انتہا پر تکبیر کہہ کر نیزہ مارو کہ حضور ﷺ نے اسی طرح سے نحر کیا ہے۔ قربانی اچھی طرح سے خود کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ سے قرب اور نزدیکی کا ایک فعل ہے۔

قارن اور متمتع اگر قربانی کی استطاعت نہ رکھتے ہوں تو اس کے بدلے وہ دس روزے رکھیں لیکن اس کے لیے یہ لازمی شرط ہے کہ تین روزے تو ذوالحجہ سے پہلے رکھ لیے جائیں اور باقی سات روزے ایام کے حج کے بعد رکھے جائیں۔ تلک عشرۃ کاملت (قرآن حکیم) یوم عرفہ سے پہلے اگر تین روزے نہ رکھے تو اب لازماً قربانی کرنا واجب ہے لہذا وہ حلق اور قصر ترا کر احرام کھول دیں مگر اب ان پر دو دم واجب ہوں گے۔ ایک دم قربانی نہ کرنے کا اور دوسرا قربانی سے پہلے حلق یا قصر کروانے کا دم واجب ہوگا۔

(۳)۔ **حلق و قصر**: دسویں ذوالحجہ کا تیسرا واجب، قربانی کے بعد حلق و قصر ہے یعنی مردوں کو سر کے بال منڈوانا یا کترانا اور سر منڈوانا کترانے سے افضل ہے۔ عورتوں کے لیے حلق یعنی سر کے بال منڈوانا حرام ہے بلکہ ان پر صرف قصر ہے یعنی کم از کم چوتھائی سر کے بال لمبائی میں ایک ایک پورے کے برابر کترائے جائیں۔ اس سے کم میں مرد عورت دونوں کے لیے قصر جائز نہیں۔

سر منڈانے کے بعد احرام سے باہر ہو جائے گا اس لیے حلق سے پہلے ناخن اور لبیں وغیرہ نہ کتروانی چاہیں۔ اگر حلق سے پہلے ناخن یا لبیں ترشوائیں تو دم لازم آئے گا۔ کیونکہ حلق سے پہلے احرام میں داخل ہے اور احرام میں لبیں تراشنا منع ہے البتہ حلق کے بعد احرام سے فارغ ہو جانے پر لبیں اور ناخن ترشوانے کی اجازت ہوگی۔

حلق اور قربانی منیٰ میں سنت ہے اور حد حرم میں واجب ہے۔ اگر حد حرم سے باہر حلق کرائے گا تو دم لازم آئے گا۔

حلق یا قصر کم از کم چوتھائی سر کا ہونا چاہیے۔ اگر کسی نے تین بال یا چوتھائی سر سے کم کے بال حلق یا قصر کرائے تو اس کے ذریعہ احرام سے باہر نہیں ہوا۔ اگر تین بال کتر کر سلے ہوئے کپڑے پہن لے تو دم لازم ہوگا۔ کیونکہ چوتھائی سر سے کم کا قصر یا حلق کافی نہیں ہوتا۔ کم از کم چوتھائی سر کا قصر یا حلق واجب ہے۔

حلق کے بعد حاجی کے لیے وہ تمام چیزیں حلال ہو جائیں گی جن چیزوں کو احرام نے حرام کر دیا تھا؛ البتہ طواف زیارت کے بعد عورت بھی حلال ہو جائے گی اور اگر عمرہ کا احرام ہے تو حلق کے بعد ہی عورت حلال ہو جائے گی۔
حج کا حلق منیٰ میں اور عمرہ کا حلق مکہ معظمہ میں سنت ہے اور حد حرم میں واجب ہے بہتر ہے کہ منیٰ میں حلق کرو۔

حلق اور قصر کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ قبلہ رو بیٹھے۔ اپنی دائیں جانب سے حجامت شروع کروائی جائے۔ قربانی کے بعد محرم بھی ایک دوسرے کے بال مونڈ یا کتر سکتے ہیں۔ حجامت کرواتے وقت یہ تکبیر پڑھتے رہیں:

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ

حلق اور قصر کے بعد قبولیت دعا کا وقت ہے لہذا اس وقت ذکر و دعا میں مشغول رہنا چاہیے۔ رسول اکرم ﷺ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ آپ نے سحر کے بعد حجام کو طلب کیا جن کا نام معمر بن عبد اللہ تھا۔ انہوں نے جب استراہا تھ میں لیا تو حضور اکرم ﷺ نے ان کے رخ کی طرف دیکھا اور فرمایا۔ اے معمر! اللہ کے رسول نے تجھے اس امر پر قدرت دی کہ انہوں نے (اپنا سر اور) اپنے کان کی لوؤں کو تیرے آگے کر دیا ہے۔ اس حال میں کہ تیرے ہاتھ میں استرا ہے۔ یعنی ہوشیار ہو کر اس نعمت کی قدر جان اور حلق کر۔ حضرت معمرؓ نے کہا پیشک اللہ کا یہ مجھ پر بہت بڑا احسان ہے۔ آپ نے فرمایا پیشک ایسا ہی ہے۔ پھر آپ نے دائیں طرف اشارہ فرمایا کہ دائیں طرف سے ابتدا کرو۔ جب وہ دائیں طرف کے حلق سے فارغ ہوئے تو آپ نے حضرت ابو طلحہ انصاریؓ کو بلا کر یہ موئے مبارک ان کو عطا فرما دیے تاکہ وہ اپنے پاس بطور تبرک رکھیں۔ پھر بائیں طرف کے بالوں کا حلق کرایا اور اس طرف کے بال بھی حضرت ابو طلحہ انصاریؓ کو دے دیے اور فرمایا کہ ان کو لوگوں میں تقسیم کر دیں۔

(۴)۔ طواف زیارت: دسویں تاریخ کا چوتھا کام طواف حج ہے۔ یہ طواف احرام کے بعد حج کا تیسرا اور آخری رکن ہے۔ جس کی ادائیگی سے حج مکمل ہو جاتا ہے۔ اس کو طواف زیارت، طواف رکن، طواف فرض، طواف افا بھی کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ۔

ثُمَّ لِيَقْضُوا تَمَثُّمَهُمْ وَلِيُؤْتُوا
نُدُورَهُمْ وَلِيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ
پھر (قربانی کے بعد حلق و قصر کریں اور) اپنا
میل کچیل اتاریں اور اپنی نذریں پوری کریں

الْعَيْتِيُّ وَ (الْحَجَّ) اور لیں آزاد گھر کا طواف کریں۔ (الحج)

اس طواف کا مسنون اور افضل وقت تو دسویں ذوالحجہ کو جمرہ عقبیٰ کی رمی قربانی اور حلق و قصر کے بعد ہے اور بارہویں کے غروب آفتاب سے پہلے پہلے ادا کرنا بھی بالکل جائز اور درست ہے۔ اس طواف سے فراغت کے بعد احرام کی تمام پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور بارہویں کی شام تک اگر یہ طواف نہ کیا تو یہ طواف ادا کرنا بدستور فرض رہے گا لیکن حیض و نفاس والی عورت کے سوا دوسروں کو اس تاخیر کی وجہ سے دم دینا بھی واجب ہوگا۔ اور جب تک یہ طواف نہ کر لیا جائے بیوی سے مباشرت اور بوس و کنار حرام و ناجائز ہے اور ایسا کرنے سے دم واجب ہوگا۔

چونکہ عورت کو حیض و نفاس کی حالت میں طواف کرنا منع ہے لہذا جو عورت دسویں سے بارہویں تک مذکور عذر کی وجہ سے طواف نہ کر سکے وہ انتظار کرے اور پاک ہونے کے بعد طواف کرے۔ عورت پر اس تاخیر کی وجہ سے دم بھی واجب نہیں اس لیے عورت جب تک پاک نہ ہو جائے طواف نہ کرے اور جب تک طواف نہ کرے وطن نہیں جاسکتی۔ اگر بلا طواف وطن آجائے تو پھر بھی اس کے ذمہ یہ طواف فرض ہی رہے گا کیونکہ یہ طواف نہ فوت ہوتا ہے نہ اس کا بدل دیا جاسکتا ہے بلکہ عمر بھر اس کی ادائیگی کا فریضہ بدستور رہتا ہے۔

سنت یہ ہے کہ طواف حج دسویں کو قربانی، حلق اور قصر کے بعد احرام کھول کر کیا جائے اگر حج کی سعی اور رمل پہلے کر چکے ہوں۔ تو پھر اس طواف میں رمل اور اس کے بعد صفا و مروہ کی سعی وغیر کچھ نہیں۔ اگر حج سے پہلے سعی اور رمل نہ کیا ہو تو پھر اس طواف کے پہلے تین پھیروں میں رمل کرنا ہوگا اور طواف کے بعد صفا و مروہ کے درمیان حسب دستور سعی بھی لازم ہے۔

(۵)۔ **طواف حج کا سنت طریقہ:** دسویں تاریخ کے افعال سے فارغ ہونے کے بعد نہادھو کر باطہارت سہلے کپڑے پہنے عطر و خوشبو لگائے۔ قربانی کا گوشت کھا کر مکہ مکرمہ روانہ ہوں سنت کے مطابق ذکر و دعا میں مشغول مسجد حرام میں داخل ہوں۔ حسب دستور طواف شروع کریں۔ حج کا رمل پہلے نہ کیا ہو تو پہلے تین پھیروں میں رمل کریں۔ سات پھیرے مکمل کرنے کے بعد مقام ابراہیم کے پاس دو رکعت نماز طواف پڑھیں پھر ملتزم پر آکر دعا مانگیں۔ پھر زمزم پینیں حج کی سعی اگر پہلے نہ کی ہو تو اب دستور کے مطابق سعی کر کے مسجد حرام میں مطاف کے قریب دو رکعت نفل پڑھیں۔ اب صرف دو یا تین روز منیٰ میں قیام کے دوران جمرہ کی رمی باقی ہے۔ کیونکہ آج رات منیٰ میں ہی قیام کرنا ہے۔ منیٰ کے علاوہ دوسری جگہ رات گزارنا مکروہ ہے۔ کل کی رات بھی نہیں گزارنی ہوگی اور پرسوں کی رات

بھی۔ یعنی گیارہویں اور بارہویں کی راتیں منیٰ میں گزارنا سنت ہے۔ تیرہویں تاریخ کی رات کا گزارنا اس شرط پر مشروط ہے کہ بارہویں تاریخ کو غروب سے پہلے کوچ نہ کرو۔ منیٰ کے زمانہ قیام میں ہر نماز باجماعت مسجد خیف میں ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کیونکہ یہ محل انبیاء ہے۔ خصوصاً جہاں رسول اکرم ﷺ کا اس مسجد میں مصلیٰ ہے۔ وہاں زیادہ نمازیں پڑھو۔

المختصر یہ کہ یوم نحر یعنی دس تاریخ کو آنحضرت ﷺ نے چار عبادتیں ادا کی ہیں۔ اول رمی جمرہ عقبی دوسرے قربانی تیسرے حلق چوتھے طواف زیارت۔ یہ ترتیب واجب ہے۔ خلاف ترتیب میں دم واجب ہوگا۔

ایک مسئلہ یاد رہے کہ دسویں تاریخ کو جمرہ عقبی کی رمی کے بعد قربانی پھر حلق و قصر اور طواف حج اسی تاریخ کو کرنا ضروری نہیں بلکہ یہ امور بارہویں تک بھی کرنا جائز ہیں۔ لہذا ان تین دنوں میں آسانی و سہولت کے مطابق جب چاہیں ان امور کو ادا کرنا جائز و درست ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ قارن اور متمتع قربانی سے قبل حلق و قصر نہیں کروا سکتے اور حلق و قصر کروائے بغیر انہیں احرام کھولنا بھی جائز نہیں ورنہ دم لازم ہوگا۔

(۶)۔ **گیارہ ذی الحجہ کو جمرات کورمی**: گیارہ تاریخ کا چوتھا دن ہے اس روز منیٰ میں نماز ظہر پڑھ کر تینوں جمروں کو رمی کرنا واجب ہے آج کی رمی کا افضل وقت زوال کے بعد سے غروب آفتاب تک ہے۔ عورتوں اور ضعیف و ناتوان بوڑھوں کے سوا دوسروں کو بعد غروب رمی کرنا مکروہ ہے۔ ہاں بارہویں کی فجر طلوع ہونے سے پہلے اگر رمی کر لی تو ادا ہو جائے گی۔ اس کے بعد رمی کا وقت فوت ہو جاتا ہے اسی صورت میں رمی کی قضا اور دم دونوں واجب ہیں۔

سب سے پہلے اس جمرہ پر جو مسجد خیف سے قریب ہے جس کو جمرہ اولیٰ کہتے ہیں رو بہ کعبہ کھڑے ہو کر سات کنکریاں یکے بعد دیگرے تکبیر پڑھ کر ہاتھ اٹھا کر مارو۔ بہتر یہ ہے کہ اپنے ساتھ زیادہ کنکریاں رکھو۔ اگر تین سے کم کنکریاں ماریں تو معتبر نہیں۔ اگر تین سے زیادہ ماریں تو معتبر ہے لیکن سات کی تعداد پوری ہونے میں جتنی کنکریاں باقی رہ گئیں تو ہر کنکری کے عوض صدقہ دینا ہوگا۔ ہر کنکری مارتے وقت یوں تکبیر کہو اور یہ دعا پڑھو۔

بِسْمِ اللّٰهِ اللّٰهُ اَكْبَرُ نَفْعًا
لِلشَّيْطَانِ وَنَصْرًا لِلرَّحْمٰنِ
(میں کنکری مارتا شروع کرتا ہوں) اللہ کے نام سے اللہ بہت بڑا ہے۔ کنکری مارتا ہوں شیطان

اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ حَبِيبًا
مَبْرُورًا وَسَفِيًّا مَشْكُورًا
وَذَكْبًا مَغْفُورًا۔

کو ذلیل کرنے کے لیے اور خدائے رحمن کو رضا
اور رغبت کے لیے۔ اے اللہ! حج کو مبرور بنا اور
سعی کو مشکور اور گناہ کو مغفور فرما۔

شرط یہ ہے کہ ہر کنکری جمرہ پر گرے یا اس سے ہٹ کر تین ہاتھ سے کم فاصلہ پر گرے۔
اگر تین ہاتھ سے کم فاصلے پر بھی گری تو معتبر نہ ہوگی۔ اس رمی سے فارخ ہو کر کچھ آگے بڑھ
جاؤ اور بائیں طرف ہٹ کر قبلہ رو کھڑے ہو کر اور کندھوں تک ہاتھ اٹھا کر خشوع اور خضوع
کے ساتھ اس طرح دعا مانگو کہ ہتھیلیاں قبلہ کی طرف رہیں، حمد درود و شریف، تسبیح و تہلیل اور
استغفار میں مصروف ہو جاؤ۔ اس دعا میں سورۃ بقرہ پڑھنے کی مقدار تک مشغول رہو۔ یہ نہ ہو
سکے تو پون سید پارہ تک اور یہ بھی نہ ہو سکے تم کم از کم بیس آیتیں پڑھنے کی مقدار مشغول رہو۔

(۷)۔ **جمرہ وسطیٰ**: جمرہ اولیٰ کی رمی اور دعا کے بعد جمرہ وسطیٰ کے پاس آئیں اور
حسب دستور اس جمرہ کو بھی رمی کریں۔ رمی کے بعد اس جگہ سے علیحدہ ہٹ کر پہلے کی طرح
یہاں بھی کچھ دیر دعا میں مشغول رہیں۔

(۸)۔ **جمرہ عقبیٰ**: پہلے دو جمروں کی طرح یہاں جمرہ عقبیٰ پر بھی یکے بعد دیگر سات
کنکریاں ماریں۔ اس جمرہ کی رمی کے بعد فوراً ذکر و دعا میں مشغول اپنی قیام گاہ کو واپس
آ جائیں۔ دعا کے لیے وہاں ٹھہرنا خلاف سنت ہے۔

(۹)۔ **بارہ ذی الحجہ کی رمی**: آج بارہ تاریخ ہے۔ اگر کسی نے طواف زیارت
نہیں کیا ہے تو مکہ مکرمہ جا کر طواف زیارت کر آئے آج بھی موقع ہے۔ آج کے بعد بلا عذر
طواف زیارت میں تاخیر کرنا جائز نہیں۔

اس دن بھی نماز ظہر کے بعد تینوں جمروں پر سات سات کنکریاں مارنا واجب ہے۔ پہلے
دو جمروں کی رمی کے بعد حسب دستور دعا کے لیے ٹھہرنا اور آخری جمرہ عقبیٰ کی رمی کے بعد نہ
ٹھہرنا بلکہ فوراً اپنی قیام گاہ کو آ جانا سنت ہے۔

ان تینوں جمروں پر رمی کا وقت مسنون زوال سے لے کر غروب آفتاب تک ہے اور غروب
سے طلوع فجر تک وقت مکروہ ہے۔ جب صبح نکل آئی تو ادا کا وقت فوت ہو گیا۔ اب قضا اور دم
دونوں اس پر لازم ہیں۔ قضا کا وقت بھی تیرہ تاریخ کے غروب تک ہے۔ پھر وہ بھی ختم ہے
لیکن دم لازم رہے گا۔

بارہ ذوالحجہ کی رمی کے بعد غروب آفتاب سے پہلے پہلے مکہ مکرمہ چلے جانے کا اختیار

ہے۔ اور غروب کے بعد جانا مکروہ ہے۔ اگر تیرھویں کی صبح منیٰ میں ہوئی تو اب اس دن کی رومی بھی واجب ہو جائے گی۔ لہذا اب بغیر رومی کیے جانا ہرگز جائز نہیں ورنہ دم لازم ہوگا۔

(۱۰)۔ ۱۳ ذوالحجہ کی رومی: سنت اور افضل ۱۳ تاریخ کو بعد زوال نماز ظہر پڑھنے اور پھر رومی کرنے کے بعد مکہ مکرمہ جانا ہے۔ ہاں اگر آج کی صبح منیٰ میں طلوع ہو جائے تو پھر تیرہ تاریخ کی رومی واجب ہو جاتی ہے لہذا آج بھی حسب دستور اور سنت کے مطابق تینوں جمروں رومی کریں: حجرہ اولیٰ اور حجرہ وسطیٰ کی رومی کے بعد دعا کے لیے ٹھہریں اور حجرہ عقبیٰ کی رومی کے بعد نہ ٹھہریں۔ رومی سے فارغ ہونے کے بعد مکہ مکرمہ روانہ ہوں۔ آج ۱۳ تاریخ کو غروب آفتاب کے بعد ہر طرح کی رومی قضا ہو یا ادا وقت ختم ہو جائے گا۔

(۱۱)۔ مکہ مکرمہ کو واپسی: منیٰ کے افعال و قیام سے فارغ ہونے کے بعد مکہ مکرمہ کو واپس آئیں۔ راستہ میں جنت المعلیٰ کے قریب محصب میں دعا کے لیے تھوڑی دیر ٹھہرنا سنت ہے۔ یہ قبولیت دعا کا مقام ہے۔ افضل یہ ہے کہ یہاں نماز عشاء پڑھ کر تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد مکہ مکرمہ میں حاضری دیں۔ یہی سنت نبوی ہے۔ ”آفاتی“ یعنی حضرات جو حدود میقات سے باہر کے رہنے والے ہیں ان کے ذمہ حج کا صرف ایک واجب ’طواف دواع‘ اب باقی رہ گیا ہے جو مکہ سے بوقت رخصت ادا کیا جائے گا۔

اب ۱۳ ذوالحجہ کے بعد قیام مکہ کے دوران میں جتنے ہو سکیں اپنے آقا مولیٰ نبی اکرم ﷺ اور اپنے لیے والدین اور بھی جس کی طرف سچا ہیں جتنے چاہیں عمرے ادا کرتے رہیں اور نفل طواف بھی بکثرت پڑھیں کیونکہ بیرونی حضرات کے لیے کعبہ شریف میں نفل نماز سے بھی زیادہ افضل نفل طواف ہے۔ علاوہ ازیں یہاں ایک ختم قرآن بھی ضرور کریں۔ خوب زمزم پیئیں، حطیم کعبہ میں نفل پڑھیں، ملتزم کے ساتھ لپٹیں، دعائیں مانگیں، حجر اسود کو بوسہ دیں، بارش اور سخت گرمی اور تیز دھوپ میں طواف کرنا۔ اجر و ثواب کے اعتبار سے بہت ہی افضل ہے۔ کعبہ شریفہ کو بار بار دیکھیں اور رب کعبہ سے بار بار دعائیں مانگیں۔ ان عبادات کے علاوہ بوقت فرصت اس مقدس شہر کے متبرک مقامات کی زیارت بھی کریں۔ نہ معلوم یہ غنیمت و حاضری دوبارہ نصیب ہوگی یا نہیں۔ اس لیے قیام مکہ کا ایک ایک لمحہ غنیمت جانیں۔

(۱۲)۔ طواف و داع: یہ طواف صرف اہل آفاق یعنی بیرون میقات رہنے والوں پر واجب ہے اس کو طواف صدر بھی کہا جاتا ہے جو کعبہ معظمہ سے رخصت کے وقت ادا کرنا ہوتا

ہے۔ چاہے کتنا عرصہ ہی یہاں قیام کیا جائے۔ جب بھی وطن روانگی ہو تو یہ طواف کر کے رخصت ہونا واجب ہے۔ اس طواف میں رمل اصظہاع اس کے بعد سعی وغیرہ کچھ نہیں۔ یہ طواف کر لینے کے بعد اگر دوبارہ کسی وجہ سے مکہ شریف قیام کرنا پڑے تو بوقت رخصت حیض و نفاس میں ہو اس پر یہ طواف واجب نہیں۔ ایسی صورت حال میں وہ صرف مسجد حرام کے (باب الوداع) دروازے پر کھڑے ذکر و دعا میں مشغول اور اشکبار نظروں سے کعبہ شریفہ کی الوداعی زیارت کر کے رخصت ہو جائے۔ اگر ممکن ہو تو عورت پاک ہونے کا انتظار کر سکتی ہے، لیکن یہ ضروری نہیں۔

(۱۳)۔ طواف و داع کا طریقہ: حسب دستور طواف و داع کی نیت کر کے حجر اسود کے استلام کے بعد طواف شروع کریں۔ سات پھرے مکمل کرنے کے بعد مقام ابراہیم پر دو رکعت نماز طواف پڑھیں۔ پھر خوب پیٹ بھر کر زمزم پئیں چہرے اور بدن پر بھی طہیں چیتے وقت بار بار کعبہ کی زیارت کریں۔ پھر دروازہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر چوکھٹ کو بوسہ دیں۔ اور بار بار حاضری کی دعا مانگیں۔ دعائے جامع اور یہ دعا بھی پڑھیں:-

اللہی! یہ سوال تیرے در پر کھڑا تیرے فضل و کرم کا سوال کرتا ہے اور تیری رحمت کا امیدوار ہے۔

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ بِرَبِّکَ اَسْتَعِیْذُ
وَمَعُوْذُ فِیْکَ وَبِحَبْرٍ رَّحْمَتِکَ

اس کے بعد ملتزم پر حاضری دیں اور حسب دستور دیوار کعبہ سے لپٹ کر خوب روئیں۔ آنسو بہائیں اللہ کی حمد و ثنا، تسبیح و تہلیل اور توبہ و استغفار درود دعا بکثرت پڑھیں پھر حجر اسود کا استلام کریں اور بوسہ دیں اور یہ دعا پڑھ کر رخصت ہوں۔

اے یحییٰ الہی! میں تجھے گواہ بنا تا ہوں اور اللہ کی گواہی کافی ہے۔ میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد ﷺ کے رسول ہیں اور میں تیرے پاس اس شہادت کو امانت رکھتا ہوں تاکہ قیامت کے دن جو بڑی گھبراہٹ کا دن ہے تو میرے لیے اس کی شہادت دے گا۔ الہی! میرے اس حج کو اپنے محترم گھر کی

یٰٰی یٰٰمِیْنِ اللّٰهِ فِیْ اَرْضِہٖ اِنِّیْ
اَشْهَدُکَ وَکَفٰی بِاللّٰهِ شَہِیْدًا
اِنِّیْ اَشْهَدُ اَنْ لّٰاِلهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ
اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَاَنَا
اَقْدَعُکَ هٰذِهِ الشَّہَادَةَ لِتَشْهَدَ
فِیْہَا عِنْدَ اللّٰهِ تَعَالٰی فِیْ یَوْمِ
الْقِیٰمَةِ یَوْمَ الْقُرْعِ الْاَکْبَرِ
اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَشْهَدُکَ عَلٰی ذٰلِکَ
وَاَشْہِدُ مَلَائِکَتَکَ الْکِیْمٰہِ اَللّٰهُمَّ
لَا تَجْعَلْہٗ لِحِجِّ الْعَبْدِ مِنْ بَیِّنٰتِکَ

الْحَرَامَ وَإِنْ جَعَلْتَ قَعُوضًا مِنْهُ الْجَنَّةَ

مجھے اس کے بدلہ میں جنت عطا فرماتا۔

جب بیت اللہ سے رخصت ہوں تو کعبہ کی طرف منہ کر کے الوداعی زیارت کرتے ہوئے لٹے پاؤں چلیں یا سیدھے چلتے ہوئے مڑ مڑ کر بیت اللہ کو حسرت و یاس بھی نظروں سے دیکھتے اس کے غم و فراق میں آنسو بہاتے رخصت ہوں۔ باب الوداع سے باہر نکلنا سنت ہے باہر آ کر حسب وسعت و گنجائش صدقہ و خیرات کرنا بہتر و افضل ہے۔

طواف ووداع کر کے چلا۔ پھر کسی وجہ سے ٹھہر گیا لیکن اقامت کی نیت نہیں کی تو یہی طواف کافی ہوگا۔ روانگی کے وقت پھر طواف کرے تو مستحب ہے تاکہ سب سے آخر طواف ہی رہے۔ اگر کوئی شخص بغیر طواف ووداع چلا گیا اور ابھی میقات سے باہر نہیں ہوا تو واپس کر طواف کرے اور میقات سے باہر ہو گیا تو دم دے۔ واپس آنے کی ضرورت نہیں اور اگر واپس ہوتا ہے تو عمرہ کا احرام باندھ کر آئے۔ عمرہ ادا کرے پھر طواف ووداع کرے۔ اب اس پر کوئی دم نہیں۔

۱۰۔ احکام جنایت

جنایت سے مراد ایسا کام کرنا ہے جو حرم میں ہونے کی وجہ سے یا احرام باندھ لینے کی وجہ سے حرام ہو کر گناہ کے زمرے میں شامل ہو جائے اس کی تلافی کے لیے شریعت نے کچھ عوضانہ مقرر کیا ہے جسے کفارہ کہا جاتا ہے۔ احرام اور حج میں یہ جرم یا گناہ ارادتا ہو یا بھول کر ہو عذر سے ہو یا بلا عذر تیند میں ہو یا بیداری میں ہوش میں ہو یا بے ہوشی میں جرم کے جرم ہونے کا علم ہو یا نہ الغرض کسی طرح بھی سرزد ہو۔ ہر حال میں اس کا کفارہ لازم ہے۔ ہاں اگر جرم غلطی یا بھول یا کسی شرعی عذر کی وجہ سے سرزد ہو تو اس میں گناہ نہیں صرف کفارہ لازم ہوتا ہے اور دانستہ بلا عذر جرم کے ارتکاب سے گناہ بھی ہوتا ہے۔ بلا عذر شرعی جان بوجھ کر اس نیت سے جنایت کا ارتکاب کرنا کہ جزا دے دوں گا سخت گناہ بھی ہوتا ہے اور اس میں توبہ و کفارہ دونوں ضروری ہیں۔ جنایت کے سلسلے میں عذر سے مراد بیماری شدید گرمی یا سردی، زخم پھوڑے اور جوخیں وغیرہ تکلیف دہ اور مشقت والے اسباب ہیں۔ ان کے علاوہ اور کوئی سبب ”شرعی عذر“ نہیں کہلاتا۔ جو جرم مذکورہ عذر کے باعث سرزد ہو اس کو غیر اختیاری جنایت کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور کسی سبب سے سرزد ہونے والے جرم کو اختیاری جنایت کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور کسی سبب سے سرزد ہونے والے جرم کو اختیاری جنایت کہا جاتا ہے۔ اختیاری جنایت کی شریعت نے جو جزا مقرر کی ہے وہی ادا کرنا واجب ہے اور غیر اختیاری جنایت میں اگر دم واجب ہو تو شرعیاً آسانی

اور سہولت ہے کہ چاہیں تو دم دیں یا اس کے بدلے میں چھ مسکینوں کو صدقہ فطر کی مقدار ہر ایک کو ایک ایک صدقہ دیں یا دو وقت ان کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائیں۔ یا اس کے بدلے میں تین روزے رکھے جائیں۔ روزوں میں وقت اور مقام کی پابندی نہیں جہاں اور جب چاہیں رکھیں۔ مگر زیادہ تاخیر جائز نہیں۔ اور اگر یہ جنایت ایسی ہو جس کی جزا میں صدقہ واجب ہے تو اس میں بھی صدقہ دینے یا ایک روزہ رکھنے کا اختیار ہے۔

جنایت کے ارتکاب کی وجہ سے شریعت نے جو کفارے اور جزائیں مقرر کی ہیں ان کی تفصیل یہ ہے:

- (۱)۔ **بغضہ**: اس سے مراد ایک اونٹ یا ایک گائے ہے۔
- (۲)۔ **دم**: ایک بھیڑ بکری یا اونٹ اور گائے کا ساتواں حصہ ہے۔
- (۳)۔ **صدقہ**: مطلق صدقہ سے مراد فطرانے کی مقدار صدقہ ہے اور کچھ صدقہ دینے کا حکم ہو تو وہاں مٹھی بھر گندم وغیرہ دینا مراد ہوتا ہے۔
- (۴)۔ **قیمت**: بحالت احرام یا حدود حرم میں خشکی کے جنگلی جانوروں کو شکار وغیرہ کرنے سے اس جانور کی قیمت دنیا واجب ہوتی ہے۔

احرام کی جنایت میں قارن پر دو کفارے واجب ہوں گے کیونکہ اس کے دو احرام میں ایک حج کا اور دوسرا عمرے کا۔ ہاں بلا احرام میقات سے گزرنے کا اس پر ایک ہی کفارہ ہے اس کے علاوہ حج و عمرہ کی باقی جنایتوں میں قارن پر ایک ہی کفارہ واجب ہو۔ بدنہ یا دم واجب ہونے کی صورت میں یہ لازمی شرط ہے کہ وہ جانور حدود حرم میں ذبح کیا جائے اور اس کا گوشت صرف تاجروں کا حق ہے۔ خود کھانا یا امیروں کو کھلانا ہرگز جائز نہیں۔ نیز اس جانور کی قیمت کا صدقہ کرنا بھی جائز نہیں۔ علاوہ ازیں ان جانوروں کے بھی وہی احکام و شرائط ہیں جو قربانی کے جانوروں کے ہیں۔

جنایات احرام: احرام کی جنایات مندرجہ ذیل ہیں:

- (۱)۔ **بلا حرام میقات سے گزرفنا**: میقات کی حدود سے باہر رہنے والے کے لیے بغیر احرام باندھے میقات سے آگے مکہ مکرمہ کی طرف جانا جائز نہیں۔ ورنہ دم واجب ہوگا۔ اگر دانستہ ایسا کیا تو گنہگار بھی ہوگا۔ اگر کوئی شخص بلا احرام میقات سے آگے چلا گیا تو اس پر واجب ہے کہ واپس میقات پر آ کر احرام باندھے اب اس پر دم واجب نہیں رہے گا

اگر واپس نہ آیا اور وہیں سے حج یا عمرہ کا احرام باندھ لیا تو دم لازم ہوگا۔ جو حضرات ہوائی جہاز پر سفر کرتے ہیں ان کو احرام باندھ کر سوار ہونا چاہیے۔ یا جہاز کے جدہ اترنے سے ڈیڑھ دو گھنٹے پہلے جہاز کے اندر ہی احرام باندھ لیتا چاہیے کیونکہ ہوائی جہاز حدود میقات پر سے گزر کر جدہ اترتا ہے ورنہ دم واجب ہوگا۔

(۲)۔ **خوشبو لگانا:** احرام کی حالت میں جسم یا لباس میں خوشبو وغیرہ لگانا حرام ہے خوشبو خواہ تھوڑی ہو یا زیادہ پورے جسم پر یا کسی حصے پر جیسے سر منہ وغیرہ تو دم واجب ہے معمولی مقدار میں خوشبو تھوڑے سے حصے پر لگائی تو صدقہ لازم ہے۔ اگر خوشبو کا استعمال غذا شرعی کی وجہ سے ہو تو پہلی صورت میں دم دینے یا چھ مسکینوں کو فطرانہ کی مقدار ایک ایک صدقہ دینے یا تین روزے رکھنے یا ان میں سے کوئی ایک کفارہ دینے کا اختیار ہے اور دوسری صورت میں صدقہ دینے یا ایک روزہ رکھنے کا اختیار ہے۔ اگر تھوڑی تھوڑی خوشبو چند اعضاء لگائی۔ اگر سب ملا کر بڑے عضو کے برابر ہو جائے تو دم واجب ہے ورنہ صدقہ ہے۔

ایسا کپڑا جس پر زیادہ مقدار میں خوشبو لگی ہو تو ایسا کپڑا پورا ایک دن یا پوری ایک رات پہنے رکھا تو دم واجب ہے اور اس سے کم وقت میں صدقہ ہے۔ اگر خوشبو تھوڑی سی لگی ہو صرف صدقہ لازم ہے۔ وقت کی حد نہیں۔ جس بستر یا کپڑے پر خوشبو لگائی گئی ہو اس پر لیٹنے حکم بھی یہی ہے۔

ایسی چیز زیادہ مقدار میں کھانا پینا جس میں خوشبو ملائی گئی ہو مگر وہ پکائی نہ ہو اگر خوشبو غالب ہو تو دم ہے ورنہ صدقہ ہے۔ ایسا خوشبودار کھانا کھایا جس میں خوشبو پکائی گئی ہو اور خوشبو آ رہی ہو مگر وہ ہے لہذا احرام کی حالت میں خوشبودار کھانے پینے کی چیزوں کے استعمال سے پرہیز کرنا چاہیے۔ حجر اسود پر اگر خوشبو لگی ہو تو بحالت احرام استلام کرتے وقت اس کا بوسہ لینا یا ہاتھوں سے چھونا جائز نہیں بلکہ صرف ہاتھوں سے اشارہ کر کے ہاتھوں کو بوسہ دینا چاہیے اگر بوسہ دیا یا ہاتھوں سے چھوا اور منہ یا ہاتھوں پر خوشبو زیادہ مقدار میں لگ گئی تو دم واجب ہے۔ کم لگی تو صدقہ ہے۔

داڑھی یا سر پر مہندی پتلی لگائی کہ بال نہ چھپے تو ایک دم واجب ہے اور اگر خوب گاڑھی لگائی اور ۱۲ گھنٹے گزر گئے تو مرد پر دو دم واجب ہوں گے۔ ایک چہرہ یا سر چھپانے کا اور دوسرے خوشبو لگانے کا۔ اور عورت کو سر پر مہندی لگانے کی وجہ سے صرف ایک دم واجب ہے کیونکہ اس کے لیے سر چھپانا جائز ہے خوشبو لگانا حرام ہے۔ عورت نے اگر پوری ایک ہتھلی یا ایک

تکوے پر مہندی لگائی تو دم واجب ہے اس سے کم میں صدقہ ہے۔ خوشبودار سر یا ایک یا دو بار لگایا تو صدقہ واجب ہوگا اور دو بار سے زیادہ میں دم لازم ہے۔ جس سرمہ میں خوشبو نہ ہو اس کے لگانے میں کوئی حرج نہیں مگر بلا ضرورت مکروہ ہے۔

(۳)۔ **بال دور کھونا:** سر یا داڑھی کے چوتھائی حصہ کے بال موٹڈ وائے یا کترائے تو دم واجب ہے اور اس سے کم میں صدقہ ہے۔ پوری گردن یا پوری ایک بغل یا زیر ناف کے بال صاف کرنے میں بھی ایک دم ہے اور کم میں صدقہ ہے۔ مونچھ اگر تھوڑی یا پوری منڈوائی یا کترائی جائے اس میں صدقہ لازم ہے۔ سر داڑھی، بغلوں، زیر ناف یا سارے بند کے بال اگر ایک ہی وقت اور ایک ہی جگہ میں صاف کیے تو ایک کفارہ ہے اور اگر علیحدہ علیحدہ جگہ اور الگ الگ وقت میں صاف کیے تو اتنے ہی کفارے لازم ہوں گے۔ مذکورہ اعضاء کے علاوہ باقی جسم کے بال موٹڈ تے میں صرف صدقہ لازم ہے۔ دو تین بال کاٹنے یا موٹڈنے میں مٹھی بھر گندم یا روٹی کا ایک ٹکڑا صدقہ دینا چاہیے اور اس سے زائد بالوں میں صدقہ فطر کی مقدار صدقہ واجب ہے۔ یہی حکم وضو کرتے ہوئے یا کھانے سے بال گرنے کا ہے۔

ہاتھ لگائے بغیر خود بخود اگر بال گر جائیں تو کچھ لازم نہیں۔ عورت نے سارے یا چوتھائی سر کے بال ایک پورے برابر اگر کترائے تو دم واجب ہے اور اس سے کم میں صدقہ ہے۔ محرم نے دوسرے محرم کا چوتھائی سر موٹڈا تو موٹڈنے والے پر صدقہ اور منڈوانے والے پر دم واجب ہوگا اگر غیر محرم نے محرم کے چوتھائی سر کے بال موٹڈے تو اس کا بھی یہی حکم ہے۔

(۴)۔ **سلا کپڑا پہننا:** احرام کی حالت میں مردوں کو سلے کپڑے پہننا حرام ہے۔ سلا کپڑا اگر پورا ایک دن ۱۲ گھنٹے یا ایک رات پہنے رکھا تو دم واجب ہے اور اس سے کم وقت میں صدقہ ہے۔ اگر کسی عذر کی وجہ سے ایک سلا کپڑا پہنا مگر دوسرا بلا عذر اور ضرورت والی جگہ سے اور جگہ پہنا تو دو دم واجب ہوں گے۔ مثلاً ضرورت کرتے کی تھی اور بلا ضرورت پا جامہ بھی پہن لیا۔ مردوں کو بحالت احرام موزے، جرابیں، تسمے والے بوٹ اور ایسی جوتی پہننا جو پاؤں کی ابھری ہوئی ہڈی کو چھپالے حرام ہے۔ اگر ایسا کوئی جوتا یا بوٹ وغیرہ ۱۲ گھنٹے لگا تار پہنے رکھا تو دم واجب ہے اور اس سے کم وقت میں صدقہ ہے۔

(۵)۔ **سر یا منہ چھپانا:** احرام کی حالت میں مرد کو سر، منہ اور عورت کو چہرہ ڈھانپنا حرام ہے۔ اگر مرد نے سر یا منہ اور عورت نے منہ متواتر ایک دن یا رات چھپائے رکھا

تو دم واجب ہوگا اور اس سے کم وقت میں صدقہ ہے۔ سر یا منہ کا چوتھائی حصہ ڈھا پنا پورے سر اور پورے چہرہ کا حکم رکھتا ہے لہذا چوتھائی حصہ سے کم سر یا منہ اگر ۱۲ گھنٹے لگانا چھپائے رکھا تو صدقہ لازم ہوگا اور اس سے کم وقت میں کچھ واجب نہیں۔ ہاں گناہ ضرور ہے۔

(۶)۔ **احرام کی حالت میں شکار کرنا:** احرام کی حالت میں حلال و حرام ہر قسم کے خشکی کے جنگلی جانوروں کا شکار کرنا یا کسی دوسرے کو شکار مارنے کے لیے شکار کی طرف اشارہ کر کے بتانا یا ان کو ایذا دینا، زخمی کرنا، پرندوں کے انڈے توڑنا، ان کے پراکھیرنا حرام و ممنوع ہے اگر ایسا کیا تو کفارہ واجب ہوگا۔ اور وہ شکار کی وہ قیمت ہے جو دو عادل و با اعتماد آدمی مقرر کریں گے۔ ہاں حرام جانور کے مارنے میں یہ لازمی شرط ہے کہ اس کا کفارہ ایک بھیڑ بکری سے زیادہ نہیں ہوگا اگرچہ وہ کتنا ہی قیمتی کیوں نہ ہو۔

شکار میں مذکورہ جانوروں کو زخمی کرنے عضو کاٹنے پراکھیرنے کا بھی بقدر نقصان کفارہ واجب ہوگا۔ شکار کی قیمت کا صدقہ کرنے میں یہ اختیار ہے کہ اس سے اگر بھیڑ بکری خریدی جاسکتی ہو تو خرید کر حرم میں ذبح کر کے گوشت محتاجوں میں تقسیم کر دیا جائے یا گندم وغیرہ خرید کر بقدر صدقہ فطر ہر مسکین کو دیا جائے تو وہ قیمت ہی فقراء میں بانٹ دی جائے۔ بحالت احرام ہڈی مارنا بھی ناجائز ہے۔ دو تین ٹڈیاں مارنے میں کچھ صدقہ دینا چاہیے اور تین سے زیادہ ٹڈیاں مارنے میں پورا صدقہ واجب ہے۔

کو، چیل، سانپ، بچھو، پسو، مچھر، مکھی، کاٹنے والی چیونٹی، چھپکلی، بھڑ وغیرہ اور حملہ آور درندوں کو مارنے میں کوئی کفارہ نہیں اور کبوتر کے سوا گھریلو اور پالتو جانور بھیڑ بکری اونٹ گائے بھینس مرغی وغیرہ کا ذبح کرنا جائز ہے۔

(۷)۔ **جونین مارنا:** احرام کی حالت میں اپنے بدن کی جوں خود مارنا یا کسی دوسرے سے مردانا یا کسی اور طریقہ سے مارنا منع ہے۔ اگر ایسا کیا تو کفارہ واجب ہوگا۔ ایک جوں کسی بھی طریقہ سے مارنے کے بدلہ میں روٹی کا ایک ٹکڑا اور دو یا تین میں مٹھی بھر گندم صدقہ میں دینا لازم ہے اور تین سے زیادہ جوئیں مارنے کا کفارہ پورا ایک صدقہ ہے۔ کپڑا دھو کر دھوپ میں ڈالا یا ویسے ہی دھوپ میں ڈالا اور جوئیں مر گئیں۔ ایسی صورت میں اگر نیت جوئیں مارنے کی نہ ہو تو کفارہ واجب نہیں۔

(۸)۔ **ناخن کاٹنا:** چاروں ہاتھوں پاؤں کے ناخن یا صرف ایک ہاتھ اور ایک پاؤں کے پانچ ناخن اگر ایک مجلس میں کاٹے تو دم اور پانچ ناخنوں سے کم میں ہر ناخن کے بدلے

طرف نشان لگا کر حرم شریف کی حدود کو واضح کر دیا گیا ہے تاکہ کوئی شخص لاطمی میں کسی غلطی کا ارتکاب نہ کر دے۔ منیٰ اور مزدلفہ حدود حرم میں واقع ہیں۔ البتہ عرفات کا میدان حرم کی حدود سے باہر ہے۔

۳۔ طواف کی جنایات: جنایت یا حیض و نفاس کی حالت میں طواف زیارت کیا تو بدنہ یعنی ایک گائے یا اونٹ ذبح کرنا واجب ہے۔ اگر طواف قدم یا طواف وداع یا نفل طواف یا طواف عمرہ ناپاک حالت میں کیا تو دم واجب ہے اور اگر کامل طہارت کے ساتھ ان سب کا اعادہ کر لیا تو اب کفارہ ساقط ہو جائے گا۔ اگر طواف زیارت کے تمام یا کچھ چکر بے وضو کیے تو دم واجب ہے۔ اگر طواف وداع یا طواف قدم یا نفل طواف یا طواف زیارت کے تین پھیرے بلا وضو کیے تو ہر پھیرے کے عوض ایک صدقہ لازم ہے۔ ہاں اگر ان تمام صورتوں میں وضو کر کے طواف دوبارہ کر لیا تو کفارہ ساقط ہو جائے گا۔ یاد رکھیں! جو طواف جنایت یا حیض و نفاس کی حالت میں کیا اس کا اعادہ واجب ہے اور جو بلا وضو کیا اس کا اعادہ مستحب ہے۔ ورنہ اس کی مقررہ جزا دینا واجب ہوگی۔

پورا طواف وداع یا اس کا کچھ حصہ ترک کر دیا تو دم لازم ہے اور چار پھیروں سے کم چھوڑا تو ہر پھیرے کے بدلہ میں ایک صدقہ ہے اور طواف عمرہ کا ایک پھیرا بھی چھوڑ دیا تو دم لازم ہوگا اور کل ترک کر دینے کی صورت میں اس کا ادا کرنا ہی لازم ہے کفارہ نہیں۔ طواف قدم نہ کرو اگرچہ معیوب ہے مگر اس کے ترک سے کفارہ لازم نہیں ہوتا۔ ناپاک کپڑوں میں طواف کرنا مکروہ ہے کفارہ لازم نہیں۔

۴۔ سعی کی جنایات: تمام سعی یا سعی کے چار پھیروں سے بلا عذر چھوڑ دیے یا بلا عذر سواری پر کیے تو دم واجب ہوگا اور اگر چار سے کم پھیروں سے چھوڑ دیے یا بلا عذر سواری پر کیے تو ہر پھیرے کو بدلے میں ایک صدقہ لازم ہے۔ اگر ان تمام صورتوں میں سعی کا ارادہ کر لیا تو کفارہ ساقط ہو جائے گا۔ اگر کسی عذر کی وجہ سے سوار ہو کر سعی کی تو کفارہ واجب نہیں۔ سعی کا طواف کے بعد ہونا ضروری ہے اگر طواف سے پہلے سعی کر لی اور پھر اس کا اعادہ نہ کیا تو دم واجب ہے سعی کے لیے احرام اور زمانہ حج لازمی شرط نہیں جب بھی کی ادا ہوگی۔

۵۔ وقوف عرفہ اور مزدلفہ کی جنایات: غروب آفتاب سے پہلے حدود عرفات سے باہر نکلنے سے دم واجب ہوگا۔ ایسی صورت میں غروب آفتاب سے پہلے پہلے

عرفات میں پلٹ آنے سے کفارہ ساقط نہ ہوگا۔ عرفات سے نکلنا اختیار سے ہو یا بلا اختیار دونوں صورت میں دم لازم ہے۔

مزولفہ میں دسویں ذی الحجہ کی صبح کو وقوف مزدلفہ بلا عذر شرعی چھوڑ دیا تو دم واجب ہوگا۔ ہاں اگر کسی نے بہت زیادہ کمزوری یا بڑھاپے یا عورت نے ہجوم کے ڈر سے وقوف نہ کیا تو کفارہ لازم نہیں ہوگا۔

۶۔ **رمی کی جنایات** : اگر ایک دن کی رمی ساری چھوڑ دی یا ایک ان کی اکثری نہ کی تو دم واجب ہے۔ یعنی دسویں کو تین کنکریاں ماریں اور باقی دنوں میں دس دس کنکریاں ماریں تو ان تمام صورتوں میں دم واجب ہوگا اور اگر اکثری کر لی اور کچھ رمی چھوڑ دی تو ہر کنکری کے بدلہ میں ایک صدقہ دینا واجب ہوگا۔ تیرھویں کی صبح اگر منیٰ میں طلوع ہو گئی تو اس دن کی رمی واجب ہے لہذا اس دن کی رمی ترک کرنے کا کفارہ بھی مذکورہ صورت میں دینا واجب ہے۔

۷۔ **قربانی اور حلق کی جنایات** : دسویں تاریخ کو منیٰ میں پہلے جمرہ عقبی کی رمی کرنا پھر قربانی دینا اور اس کے بعد حلق یا قصر کروانا ہے۔ یہ ترتیب قارن متمتع حاجی پر واجب ہے اگر اس ترتیب سے یہ افعال ادا نہ کیے تو دم واجب ہوگا۔ اور مفرد کے لیے رمی اور حلق یا قصر میں ترتیب واجب ہے اگر اس نے یہ دونوں افعال خلاف ترتیب کیے تو اس پر دم دینا ضروری ہوگا۔

۱۱۔ زیارت مدینہ منورہ

ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب
ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی است

مدینہ منورہ دنیا کے مقدس ترین مقامات سے ہے کیونکہ وہاں حضور ﷺ کا روضہ اقدس ہے۔ مدینہ منورہ کو حضور کی نسبت کی وجہ سے شہروں میں سے بے پناہ فضیلت اور بزرگی حاصل ہے کیونکہ نبی اکرم ہجرت کے بعد یہاں تشریف لائے اور تادم آخر وہیں رہے۔ مدینہ منورہ کی فضیلت کے بارے میں چند احادیث مندرجہ ذیل ہیں۔

(۱)۔ **حدیث** : حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا "جس کو یہ توفیق نصیب ہو کہ مدینہ میں اس کو موت آئے تو وہ اس کو ترجیح دے مدینہ میں مرنے والوں کی میں

شفاعت کروں گا۔ (احمد ترمذی)

(۲)۔ حدیث: حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے دعا فرمائی خداوند اتو نے جتنی برکت مکہ کو عطا فرمائی ہے اس سے دگنی برکت مدینہ کو عطا فرما۔ (بخاری)

(۳)۔ حدیث: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”مجھے ایسی بستی کی جانب ہجرت کا حکم دیا گیا ہے جو تمام بستیوں پر غالب آجائے گی۔ جس کو لوگ یثرب کہتے ہیں لیکن وہ مدینہ ہے۔ وہ بستی برے لوگوں کو اس طرح صاف کر دے گی جس طرح بھٹی لوہے کے میل کو دور کر دیتی ہے۔“ (بخاری شریف)

(۴)۔ حدیث: حضرت سفیان بن ابرزہؓ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم ﷺ سے سنا۔ آپؐ نے فرمایا یمن فتح ہوگا تو ایک قوم اپنے اہل و عیال اور متعلقین کو لے کر مدینہ سے چلی جائے گی اور اگر انہیں اس کا علم ہو تو مدینہ ان کے لیے بہتر ہے۔ اسی طرح شام فتح ہوگا اور ایک جماعت اپنے اہل و عیال اور متعلقین کو لے کر مدینہ سے شام کی جانب کوچ کرے گی۔ حالانکہ مدینہ ان کے لیے بہتر ہے اگر وہ اس کو جان لیں۔ اسی طرح عراق بھی فتح ہوگا۔ وہاں بھی لوگ اپنے خاندان اور متعلقین کو لے کر چلے جائیں گے حالانکہ مدینہ ان کے لیے بہتر ہے اگر وہ اس کو سمجھیں۔ (بخاری شریف)

(۵)۔ حدیث: حضرت جریر بن عبد اللہؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا ”اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی فرمائی ہے کہ ان تین بستیوں میں سے جس میں اترو وہ تمہاری جائے ہجرت ہوگی۔ مدینہ، بحرین اور قرین۔“ (ترمذی)

(۶)۔ حدیث: حضرت جابر بن سمرہؓ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے آپؐ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مدینہ کا نام طابہ رکھا ہے۔ (مسلم)

(۷)۔ حدیث: آل خطابؓ کے ایک فرد سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا جو مسلمان قصد امیری زیارت کو آتا ہے وہ قیامت کے دن میرے ہمراہیوں میں ہوگا اور مدینہ کے دوران قیام یہاں کے مصائب پر صبر کرے گا میں قیامت کے دن اس کا گواہ ہوں گا اور اس کی شفاعت کروں گا اور جو مسلمان حرمین میں سے کسی جگہ فوت ہوا وہ قیامت کے دن امن یافتہ لوگوں کے ساتھ محشور ہوگا۔ (بیہقی)

(۸)۔ حدیث: حضرت ابو سعیدؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا۔ جناب

ابراہیم علیہ السلام نے سرزمین مکہ کو حرمت دی۔ میں مدینہ کو حرمت دیتا ہوں۔ اب اس کے دونوں کناروں کے درمیان نہ تو خوزریزی کی جائے اور نہ یہاں جنگ کے لیے ہتھیار اٹھائے جائیں اور جانوروں کی غذا کے علاوہ یہاں کے درختوں کے پتے نہ جھاڑے جائیں۔ (مسلم)

(۹)۔ حدیث: حضرت ابو سعیدؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے احد کے پہاڑ کو دیکھ کر فرمایا یہ وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا اور ہم اس کو محبوب رکھتے ہیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرمت دی اور میں ان دونوں پہاڑوں کے درمیان جو زمین (مدینہ) ہے اس کو حرمت دیتا ہوں۔ (بخاری)

(۱۰)۔ حدیث: حضرت سعدؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”میں مدینہ کو دونوں کناروں کو حرام کرتا ہوں اس علاقہ میں نہ تو خاردار درخت کاٹا جائے نہ اس میں شکار کیا جائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مدینہ ان کے لیے بہتر ہے اگر وہ اس (کے تقدس) کو جائیں۔ اگر کوئی شخص مدینہ سے بے رغبتی نہ رکھتے ہوئے اس کو چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ اس کا نعم البدل مہیا فرمادے گا اور جو شخص مدینہ کی سختی اور تنگی محنت و مشقت پر ثابت قدم رہے گا میں قیامت میں اس کا شفیع و شہید ہوگا۔“ (مسلم)

(۱۱)۔ حدیث: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ لوگ جب فصل کا نیا پھل دیکھتے تو اس کو لے کر رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوتے۔ جب نبی علیہ السلام اس پھل کو لیتے تو دعا فرماتے خداوند! ہمارے پھلوں اور ہمارے شہر کو برکت عطا فرما۔ خداوند! جناب ابراہیم تیرے بندے تیرے نبی خلیل تھے۔ میں بھی تیرا بندہ اور نبی ہوں۔ انہوں نے مکہ مکرمہ کے لیے دعا کی تھی میں مدینہ طیبہ کے لیے اس کی مثل اور مزید اتنی ہی دعا کرتا ہوں۔ اس کے بعد خاندان میں سے چھوٹے بچے کو بلا کر وہ پھل عطا فرمادیتے تھے۔ (مسلم)

۱۲۔ روضہ اقدس کی حاضری

حضور ﷺ کا روضہ اقدس عاشقوں کے دل کی تسکین اور راحت کا باعث ہے حج یا عمرہ کی سعادت پانے کے بعد حضور کے روضہ اقدس کی زیارت دین و دنیا میں باعث فلاح ہے اور قیامت کے روز سرور عالم ﷺ کی شفاعت اور حمایت کا وسیلہ ہے۔ روضہ اقدس کی زیارت بغیر واپس آنا نہایت ہی بدبختی کی دلیل ہے۔ وہ حادثہ کہ جن کی رو سے مارگاہ روالہ کا

حاضری بڑی لازم ہے وہ حسب ذیل ہیں:

(۱)۔ حدیث: حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایات ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا کہ جس نے میری حیات ظاہری کے بعد حج کیا اور میری قبر کی زیارت کو آیا تو اس نے گویا میری ظاہری حیات میں میری زیارت کی۔ (بہتمی)

(۲)۔ حدیث: ایک اور روایت میں حضرت عبداللہ بن عمرؓ کا بیان ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا ”جس شخص نے میری قبر کی زیارت کی۔ اس کے لیے مری عقیقت ضروری ہوگئی۔“ (وہ قطنی)

(۳)۔ حدیث: آل خطابؓ کے ایک آدمی سے روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا جو شخص ارادہ کرے میری زیارت کرے وہ قیامت میں میرے پڑوس میں ہوگا اور جو شخص مدینہ میں قیام کرے اور وہاں کی تنگی پر صبر کرے میں اس کے لیے قیامت میں گواہ اور سفارشی ہوں گا اور جو حرم مکہ یا حرم مدینہ میں مر جائے وہ قیامت میں امن والوں میں اٹھے گا۔ (بہتمی)

(۴)۔ حدیث: حضرت انسؓ سے روایات ہے کہ رسول اکرم ﷺ جب مکہ مکرمہ سے تشریف لائے تو وہاں کی ہر چیز پر اندھیرا چھا گیا اور جب مدینہ طیبہ پہنچے تو وہاں کی ہر چیز روشن ہوگئی۔ حضورؐ نے فرمایا ”مدینہ میرا گھر ہے اور اسی میں میری قبر ہوگی اور یہ مسلمان پر حق ہے کہ اس کی زیارت کرے۔“ (بہتمی)

(۵)۔ حدیث: حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا ”جو شخص حج کے لیے مکہ مکرمہ جائے اس کے بعد میری مسجد میں آئے تو اس کے لیے دو مہرور حجوں کا ثواب ہوگا۔ (الاتحاف)

(۶)۔ حدیث: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ حضورؐ کا ارشاد ہے کہ جو شخص بھی میری قبر کے پاس آ کر مجھ پر درود اور سلام پیش کرے تو اللہ تعالیٰ اس درود و سلام کو میری روح تک پہنچا دیتا ہے اس کے سلام کا میں جواب دیتا ہوں۔

(۷)۔ حدیث: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ حضور اقدس ﷺ کا ارشاد ہے کہ جو شخص میری قبر کے پاس کھڑا ہو کر مجھ پر درود پڑھتا ہے میں اس کو خود سنتا ہوں اور جو کسی اور جگہ درود پڑھتا ہے تو اس کی دنیا و آخرت کی ضرورتیں پوری کی جاتی ہیں اور میں قیامت کے دن اس کا گواہ اور سفارشی ہوں گا۔ (بہتمی)

(۸)۔ حدیث: حضرت ابن ابی ندیک کا بیان ہے کہ جو شخص حضور اقدس ﷺ کی قبر مبارک کے پاس کھڑے ہو کر یہ آیت پڑھے **إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ** اس کے بعد ستر مرتبہ صلی اللہ علیک یا محمد کہے تو ایک فرشتہ کہتا ہے کہ اے شخص! اللہ جل شانہ تجھ پر رحمت نازل کرتا ہے اور اس کی ہر حاجت پوری کر دی جاتی ہے۔ (بہشتی)

معلوم ہوا کہ سرزمین حجاز میں جا کر سب سے افضل و اعلیٰ نعمت و سعادت مدینہ منورہ کی حاضری ہے اور خصوصاً حج کے موقع پر روضہ رسول پر جانا ضروری ہے کیونکہ اس شہر میں وہ محبوب خدا جلوہ فرما ہیں جن کی وجہ سے یہ کارخانہ کائنات رواں دواں ہے اس شہر کے گلی کوچوں کو محبوب خدا کی قدم بوسی کا شرف حاصل ہے۔ بلکہ خاک طیبہ کے وہ ذرے جنہیں محبوب خدا کے جسم انور کا قرب خاص ملا ہے ان کی عظمت و رفعت پر تو عرش بریں بھی رشک کرتا ہے۔ لہذا حج کعبہ کے بعد یا پہلے جب بھی اس بارگاہ میں حاضری و زیارت کا موقع پائیں تو مدینہ طیبہ حاضر ہو جائیں۔ اس سعادت سے محرومی کا داغ لے کر نہ لوٹیں۔ ورنہ سر محشر پچھتائیں گے اور جب بھی یہ سنہری موقع پائیں تو خالص بارگاہ رسالت کی زیارت کی نیت سے مدینہ منورہ کا سفر کریں۔ اسی میں وہ تمام برکتیں اور سعادتیں شامل ہیں جن کو زبان رسالت نے ان عظمتوں سے ہمکنار فرمایا ہے۔

دیار حبیب میں جانے والو! اب اس راہ جذب و شوق میں قدم قدم پر خداوند کریم کا لاکھ لاکھ شکر کرتے چلو کہ تمہیں محبوب رب العالمین کی بارگاہ میں حاضری کی سعادت مل رہی ہے اور اس پیارے محبوب آقا پر درود و سلام پڑھتے چلو جو تمہیں اپنی بارگاہ بے کس پناہ میں آغوش رحمت و شفاعت میں گنبد خضریٰ کی ٹھنڈی چھاؤں میں بلا رہا ہے۔ جوں جوں مدینہ منورہ قریب آتا جائے ذوق شوق کی حرارت و گرمی فزوں تر ہوتی چلی جائے۔ جب باغ طیبہ کی بلند کھجوریں اور شہر مدینہ کی عمارات نظر آئیں تو درود و سلام کا ورد بکثرت کریں۔ جب سبز گنبد پر نگاہ پڑے تو صلوٰۃ و سلام پڑھنے میں مزید اضافہ کرتے چلے جائیں۔ جب مدینہ منورہ میں پہنچو تو نہایت ادب و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت میں حاضری و باریابی کے حسین تصور میں ڈوبے شوق زیارت کے ساتھ یہ دعا پڑھتے ہوئے مدینہ شریف میں داخل ہوں:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ
 السَّلَامُ وَإِلَيْكَ يَرْجِعُ السَّلَامُ
 فَحِينَارَبَّنَا بِالسَّلَامِ وَأَدْخِلْنَا دَارَ
 شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الہی تو سلامتی والا ہے اور تیری طرف سے سلامتی ہے اور تیری طرف لوٹتی ہے سلامتی۔ پس زندہ رکھو ہمیں اللہ ہمارے رب سلامتی کے

ساتھ اور داخل فرما ہمیں اپنے گھر میں جو سلامتی والا ہے بابرکت ہے تو اے ہمارے رب اور عالیشان اے عظمت اور بزرگی والے پروردگار! داخل فرما مجھے (مدینہ میں) داخل فرمانا سچا اور نکال مجھے (مدینہ سے) نکالنا سچا اور عطا کر مجھ کو اپنی جناب سے غلبہ یا فتح و نصرت۔ اور کہہ دیجئے آگیا حق اور مٹ گیا باطل بلاشبہ تھا باطل مٹنے ہی والا اور ہم اتارتے ہیں قرآن کو جو کہ شفا اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے اور نہیں بڑھتے ظالم مگر خسارے میں۔

السَّلَامُ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ
يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ رَبِّ
أَدْخِلْنِي مَدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي
مَخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ
لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا
وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ
إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا وَتَنْزِيلُ
مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ
لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ
إِلَّا خَسَارًا

مدینہ منورہ میں داخل ہونے کے بعد اول اپنے ساز و سامان کی حفاظت و رہائش کا انتظام کر لیں تاکہ دربار نبیؐ میں حاضری کے وقت سکون و اطمینان حاصل رہے۔ پھر نہادھو کر مسواک وضو کر کے صاف ستھرا لباس پہنیں سرمہ اور خوشبو وغیرہ لگائیں۔ پھر نہایت ادب و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت میں حاضری کے لیے چلیں۔

۱- **مسجد نبویؐ میں داخلہ:** مسجد نبویؐ میں داخل ہوتے وقت پہلے داہنا قدم رکھیں اور مسجد نبویؐ میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھیں:

اے اللہ! درود بھیج ہمارے سردار محمدؐ اور ان کی آل پر۔ اے اللہ! میرے گناہوں کو بخش دیا اور میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے اے اللہ! آج کے دن مجھے تیری طرف متوجہ بنا لے۔ تیرا قرب حاصل کرنے والوں میں سب سے زیادہ قریب بنا لے اور زیادہ فائز المرام کر انہیں سے جنہوں نے تجھ سے دعا کی اور اپنی مرادیں مانگیں۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى
آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي
ذُنُوبِي وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ
اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي الْيَوْمَ مِنْ أَوْجِهٍ
مَنْ تَوَجَّهَ إِلَيْكَ وَأَقْرَبَ مَنْ
تَقَرَّبَ إِلَيْكَ وَأَنْجِحْ مَنْ دَعَاكَ
وَابْتَغَى مَرْضَاتِكَ

۲- **حاضری و زیارت روضہ مباری:** دل بیتاب نے مسجد مصطفیٰ ﷺ میں بڑی بیقرار سے دو نفل ادا کیے پھر ذوق وصل نے جوش مارا اور پاؤں روضہ اطہر کی طرف چل

دیے۔ آخر غلام مولاجہ شریف کے سامنے دربار رسالت میں حاضر ہو گیا۔ جہاں ذرا ادب و نیاز سے کھڑا ہوا۔ اے آنکھ آج اس روضہ اطہر کو دیکھ جس کے ہجر میں تو گر یہ زار ہے اور شب خیزی میں آنسو بہاتی رہی۔ آج سرور کونین کی جلوہ گاہ ہے اور تو ہے۔ ذرا وصل میں خوشی کے آنسو بہا اور اس آقا کا شکر ادا کر جس نے تجھے یہاں تک بلایا۔ آج تیری خوش بختی کے کیا کہنے کہ تو محبوب کائنات کا مہمان بنا ہے۔ پھر اور تجھے کیا چاہیے کہ آج حضور تیرے میزبان ہیں۔ یہ وہ در ہے جہاں فرشتے بھی ادب و نیاز سے آئیں۔ جہاں قطب و ابدال اور اوتاد و اغیاث بھی سر خم جبین نیاز سے آئیں۔ یہ منزل عشق ہے اس لیے اے دل! ذرا روح کی آنکھ کو کھول اور اپنے من میں ذوب کر چشم باطن سے رخ رسول اللہ ﷺ کو دیکھ اور بصد احترام یہ سلام پیش کر کیونکہ گنہگاروں کی شفاعت کا یہی آخری مقام ہے:

سلام ہو آپ پر اے نبی سخی اور رسول! بہت بڑے شفیق مہربان اور رحمت اللہ کی اور اس کی برکتیں آپ پر نازل ہوں اور درود و سلام ہو آپ پر اے ہمارے آقا اور نبی اور محبوب اور شہنشاہ آنکھوں کی اے رسول اللہ! درود اور سلام ہو آپ پر۔ اے اللہ کے نبی! درود اور سلام ہو آپ پر۔ اے اللہ کے محبوب! درود اور سلام ہو آپ پر۔ اے زینت اللہ کے ملک کی! درود اور سلام ہو آپ پر۔ اے سب سے بہتر اللہ کی مخلوق ہیں! درود اور سلام ہو آپ پر۔ اے شفاعت کرنے والے گنہگاروں کے اللہ کے ہاں درود اور سلام ہو آپ پر۔ اے وہ (مقدس) ہستی کر بھیجا نہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کر کل عالم کے لیے اور تحقیق فرمایا اللہ تعالیٰ نے آپ کے بلند مرتبہ کے بارے میں۔ ”اور اگر وہ (گنہگار) جب ظلم کریں اپنی جانوں پر (پھر) آپ کے پاس آئیں اور وہ اللہ سے معافی چاہیں اور معافی

السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ السَّيِّدُ
الْكَرِيمُ وَالرَّسُولُ الْعَظِيمُ الرَّؤُفُ
الرَّحِيمُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ
الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَنَا
نَبِيَّنَا وَحَبِيبَنَا وَقَرَّةَ أَعْيُنِنَا
يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ
يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ
يَا حَبِيبَ اللَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ
عَلَيْكَ يَا جَمَالَ مُلْكِ اللَّهِ وَالصَّلَاةُ
وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَيْرَ خَلْقِ اللَّهِ وَالصَّلَاةُ
وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا شَفِيعَ
الْمُذْنِبِينَ عِنْدَ اللَّهِ وَالصَّلَاةُ
وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَنْ أَرْسَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى
رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى
فِي حَقِّكَ الْعَظِيمِ وَكَوْنِهِمْ إِذْ
نَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَافُونَ فَاسْتَغْفَرُوا
لِلَّهِ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ

چاہے ان کے لیے پیغمبر تو وہ پائیں گے اللہ کو توبہ قبول کرنے والا بڑا رحم فرمانے والا۔ درود سلام ہو آپ پر اے محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم اے ط اے سین اے خوشخبری دینے والے اے چراغ (ہدایت) اے منور کرنے والے اے سالار گروہ انبیاء مرسلین کے اور دیکھیے اے میرے آقا کے رسول! میں حاضر ہوا ہوں آپ کے پاس بھاگ کر اپنے گناہوں اور (برے) اعمال اور شفاعت کی امید لے کر اور آپ کی پناہ مانگنے کے لیے اپنے رب کے سامنے۔ پناہ مانگنے کے لیے اے شفاعت فرمائیے میرے اے امت کے اے دور فرمانے والے ظلمت کے اے حمد اندھیرے کے نجات دے مجھے آپ کے طرف سے اے اللہ آگ سے اے نبی رحمت اے اللہ کے رسول! ہم حاضر ہوئے ہیں آپ کے پاس زیارت کی غرض سے اور ہم نے آپ کا قصد ہے شوق سے اور آپ کی بارگاہ عالی میں کھڑے ہیں اور آپ کے حق کو (حقی المقدور) پہچانے ہیں۔ پس ہمیں نامراد نہ لوٹائیے اپنے شفاعت کے دروازے سے محروم نہ رکھیے اے میرے سردار اے رسول اللہ میں آپ سے شفاعت خواستگار ہوں اور مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ سے آسماں کے لیے وسیلہ اور بزرگی اور درجہ بلند اور مقام محمود اور حوض (کوثر) جو جنتوں کے اترنے والے جگہ ہے اور بڑی شفاعت روز قیامت میں آپ ہی محبوب ہیں اے اللہ کے محبوب آپ ہی شفاعت

لَوْحَدُّ وَاللَّهِ تَوَابًا رَحِيمًا
الصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدَ بْنَ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ
هَاشِمٍ يَا طَهَّ يَا إِسْحَاقَ يَا بَشِيرَ يَا سِرَاجَ
يَا مُنِيرَ يَا مُقَدَّمَ جَيْشِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ وَهَآ أَنَا يَا سَيِّدِي
يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ جِئْتُكَ هَارِبًا
مِنْ ذُنُوبِي وَمِنْ عَمَلِي وَمُسْتَشْفِعًا
وَمُسْتَجِيرًا بِكَ إِلَى رَبِّي فَاشْفَعْ
لِي يَا شَفِيعَ الْأُمَّةِ يَا كَاشِفَ
الظُّلْمَةِ يَا سِرَاجَ الظُّلْمَةِ
أَجِرْنِي بِهِ يَا اللَّهَ مِنَ النَّارِ
يَا نَبِيَّ الرَّحْمَةِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَيْنَكَ
رَاغِبِينَ وَقَصَدْنَاكَ رَاغِبِينَ وَ
عَلَى بَابِكَ الْعَالِيِّ وَقَافِلِينَ وَ
بِعَوْنِكَ عَارِفِينَ فَلَا تُرَدُّنَا
خَائِبِينَ وَلَا عَن بَابِ شَفَاعَتِكَ
مَحْدُومِينَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ
أَسْأَلُكَ الشَّفَاعَةَ وَأَسْأَلُ اللَّهَ
تَعَالَى لَكَ الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ
وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيعَةَ وَالْمَقَامَ
الْمَحْمُودَ وَالْحَوْضَ الْمَوْرُودَ
الشَّفَاعَةَ الْعَظِيمَةَ فِي الْيَوْمِ الْمَشْهُورِ
أَنْتَ الْحَبِيبُ يَا حَبِيبَ اللَّهِ أَنْتَ
الشَّفِيعُ يَا شَفِيعَ اللَّهِ أَنْتَ الْمُشَفَّعُ
أَنْتَ الَّذِي تُرَجَى شَفَاعَتُكَ عِنْدَ
الصِّرَاطِ مَا زِلْتِ الْقَدَمُ وَأَشْهَدُ

رَحِيمًا هَلَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ
 أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ
 حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ
 رَءُوفٌ رَّحِيمٌ هَلَقَانَ تَوَلَّوْا قُلْ
 حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ
 تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ
 وَقَدْ جِئْنَاكَ سَامِعِينَ كَوَلِّكَ
 طَائِعِينَ أَمْرَكَ مُسْتَشْفِعِينَ
 تَبَيَّنَكَ إِلَيْكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا غُفْرَانًا
 وَلَا إِخْوَانًا الَّذِينَ سَبَقُونَا
 بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا
 لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ
 رَّحِيمٌ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ
 يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
 آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ
 اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِعُرْمَةِ هَذَا
 النَّبِيِّ الْكَرِيمِ أَنْ تَرْزُقَنِي
 إِيْمَانًا كَامِلًا تَابِتًا ثَابِتًا شَرِيحًا
 قَلْبِي وَ يَقِينًا صَادِقًا حَتَّى أَعْلَمَ
 أَنَّهُ لَا يُصِيبُنِي إِلَّا مَا كَتَبْتَ لِي وَ
 عَلِمَانًا نَافِعًا وَقَلْبًا خَاشِعًا وَ لِسَانًا
 ذَاكِرًا وَوَلَدًا صَالِحًا وَرِزْقًا وَاسِعًا
 وَحَلَالًا طَيِّبًا وَتَوْبَةً تَصُوحًا وَ
 صَبْرًا جَمِيلًا وَآخِرًا عَظِيمًا وَعَمَلًا
 صَالِحًا مَقْبُولًا وَتِجَارَةً كُنْ تَبُورُ
 يَا نُورَ النُّورِ يَا عَالِمَ مَا فِي الصُّدُورِ

پاتے اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا
 بلاشبہ آئے تمہارے پاس ایک رسول جو تم ہی میں
 سے ہیں گراں ہے ان پر وہ چیز جو تمہیں مشقت
 میں ڈالے تمہاری بھلائی کے آرزو مند مومنوں کے
 ساتھ شفیق اور رحیم ہے پس اگر وہ روگردانی کریں تو
 فرما دیجئے کافی ہے مجھے اللہ کوئی نہیں معبود جس کے
 سوا اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہی مالک ہے
 عرش عظیم کا اور تحقیق ہم آئے ہیں تیرے پاس سکر
 تیرا فرمانا مان کر تیرا حکم سفارشی لے کر تیرے نبی کو
 تیرے پاس اے اللہ! ہمارے رب بخش دے ہمیں
 اور ہمارے ان بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لا
 کر ہو گزرے اور نہ چھوڑے ہمارے دلوں میں
 کدورت مومنوں کی طرف سے اے ہمارے رب
 بلاشبہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی پر
 اے ایمان والو! درود بھیجو آپ پر اور سلام کثرت
 سے اے اللہ رحمت نازل فرما اور سلامتی اور برکتیں
 آپ پر! اے اللہ! رحمت نازل فرما اور سلامتی اور
 برکتیں آپ پر! اے اللہ! میں سوال کرتا ہوں تجھ
 سے بطفیل اس نبی کریم کے کہ تو مجھے عطا فرمائے
 ایمان کامل اور محکم، مطمئن ہو جس کی وجہ سے میرا
 دل اور یقین سچا یہاں تک کہ میں جان لوں کہ مجھے
 وہی ملے گا جو تو نے میرے لیے لکھ دیا ہے اور علم
 نافع اور ذل جھکنے والا اور زبان تیرا ذکر کرنے والی
 اور اولاد نیک اور رزق کشادہ اور حلال پاکیزہ اور
 توبہ سچی اور صبر جمیل اور اجرا بڑا اور عمل نیک جو
 مقبول ہو اور تجارت جس میں گھانا نہ ہو اے نور ہی
 نور ہے جاننے والے سینوں کے رازوں

کے نکال لے مجھے اور تمام مسلمانوں کو اندھیروں سے روشنی میں دنیا اور آخرت میں اور وفات دے مجھے حالت اسلام پر اور ملا مجھے نیک لوگوں کے ساتھ اپنی رحمت سے اے سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے اے پروردگار کل جہانوں کے اے ہمارے رب عطا فرما ہمیں دنیا میں بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی اور بچالے ہمیں عذاب دوزخ سے پاک ہے آپ کا پروردگار صاحب عزت ان چیزوں سے جو وہ (کافر) بیان کرتے ہیں اور سلام ہو رسولوں پر اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو پروردگار ہے کل جہانوں کا۔

أَخْرِجْنِي وَجَمِيعَ الْمُسْلِمِينَ مِنَ
الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَ
تَوَقَّئِي مُسْلِمًا ذَا الْعِفَّةِ بِالْقَلْبِ حَيًّا
بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ يَا رَبِّ
الْعَالَمِينَ دَرِّبْنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي
الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ
سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا
يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

پھر قبلہ رخ ہو کر یہ دعا پڑھیں:

اے اللہ! نہ چھوڑ ہمارے لیے اس مبارک جگہ میں سامنے ہمارے آقا رسول اللہ کے کوئی گناہ مگر اسے بخش دے اور نہ کوئی غم اے اللہ! مگر تو اسے چھپا دے اور نہ کوئی مریض اے اللہ مگر تو اسے شفا ع اور عافیت دے اور نہ کوئی مسافر اے اللہ مگر اسے سفر کی تکلیف سے نجات دیدے اور نہ کوئی گمشدہ اے مولیٰ مگر اسے واپس فرما دے اور نہ کوئی دشمن اے مولیٰ مگر اسے رسوا فرما دے اور اس کو ہلاک کر دے اور نہ کوئی فقیر اے مولیٰ مگر اسے غنی فرما دے اور نہ کوئی ضرورت الہی دنیا کی اور آخرت کی ضرورتوں سے جس میں ہمارے بھلائی ہو مگر اسے پورا اور آسان فرما دے اے اللہ! پوری فرما ہماری حاجتیں اور آسان فرما دے ہمارے کام اور ہموں دے ہمارے نسنے اور قبول فرما ہمارے

اللَّهُمَّ لَا تَدَعْ لَنَا فِي مَقَامِنَا هَذَا
الشَّرِيفِ بَيْنَ يَدَيْ سَيِّدِنَا رَسُولِ
اللَّهِ ذُنُوبًا إِلَّا غَفَرْتَهُ وَلَا هَمًّا يَا اللَّهُ
إِلَّا فَجَّجْتَهُ وَلَا عَيْبًا يَا اللَّهُ إِلَّا سَتَرْتَهُ
وَلَا مَرِيضًا يَا اللَّهُ إِلَّا شَفَيْتَهُ
وَلَا عَاقِبَةً وَلَا مَسَافِرًا يَا اللَّهُ إِلَّا
نَجَّيْتَهُ وَلَا غَائِبًا يَا اللَّهُ إِلَّا رَدَدْتَهُ
وَلَا عَدُوًّا يَا اللَّهُ إِلَّا خَدَلْتَهُ وَ
نَمَرْتَهُ وَلَا فَقِيرًا يَا اللَّهُ إِلَّا
أَغْنَيْتَهُ وَلَا حَاجَةً يَا اللَّهُ مِنْ
حَوَائِجِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَنَا فِيهَا
صَلَاحٌ إِلَّا قَضَيْتَهَا وَيَسَّرْتَهَا
اللَّهُمَّ اقْضِ حَوَائِجَنَا وَتيسِّرْ أُمُورَنَا
وَاشْرَحْ صُدُورَنَا وَقَبَّلْ زِيَارَتَنَا
وَأَمِنْ خَوْفَنَا وَاشْرُ عِيُوبَنَا وَ

اغْفِرْ ذُنُوبَنَا وَارْحَمْنَا
 اَحْتِمْنَا بِالصَّالِحَاتِ اَهْمَالَنَا وَرَدِّ
 غُرُوبِنَا اِلَى اَهْلِنَا وَاَوْلَادِنَا سَالِمِينَ
 غَانِمِينَ مُتَوَرِّينَ مِنْ عِبَادِكَ
 الصَّالِحِينَ هـ مِنَ الَّذِينَ لَا خَوْفَ
 عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ
 بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ
 يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ هـ

زیارت اور امن سے بدل دے ہمارے خوف
 اور پردہ ڈال ہمارے غیبوں پر اور بخش دے
 ہمارے گناہوں کو اور دور فرما دے ہمارے
 تکالیف کو اور خاتمہ فرمائیں نیکیوں پر ہمارے اعمال
 اور لوٹا دے ہمارے مسافروں کو ہمارے اہل
 اولاد میں صحیح و سالم خوشحال پردہ پوشی کے ساتھ
 اپنے نیک بندوں سے ان لوگوں میں سے کہ
 نہیں کوئی خوف ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے
 اپنی رحمت سے اے سب سے بڑھ کر رحم فرما
 والے۔ اے پروردگار کل جہانوں کے۔

زیارت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَنَا اَبَا بَكْرٍ
 الصِّدِّيقِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَلِيفَةَ
 رَسُولِ اللّٰهِ عَلَى النَّحْقِيقِ وَالسَّلَامُ
 عَلَيْكَ يَا صَاحِبَ رَسُولِ اللّٰهِ تَابِي
 اثْنَيْنِ اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ وَالسَّلَامُ
 عَلَيْكَ يَا مَنْ نَقَّوْا مِنْهُ كَلْبَةً فِي
 حَيْثُ اللّٰهُ وَحَيْثُ رَسُولُهُ حَتَّى تَخْلَعَ
 بِالْعَبَاسِيِّ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْكَ وَاَرْضَاكَ
 اَحْسَنَ الرِّضَا وَجَعَلَ الْجَنَّةَ
 مَنْزِلَكَ وَمَسْكَنَكَ وَمَحَلَّكَ وَ
 مَا ذَكَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا اَوَّلَ الْخُلَفَاءِ
 وَتَابِعِ الْعُلَمَاءِ وَصِهْرِ النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى
 وَرَحْمَةِ اللّٰهِ وَبَرَكَاتِهِ ۝

سلام ہو آپ پر اے ہمارے سردار ابوبکر صدیق
 سلام ہو آپ پر اے رسول اللہ کے حقیقی خلیفہ
 سلام ہو آپ پر اے ساتھی رسول اللہ کے
 دوسرے دو میں کے جبکہ وہ غار میں تھے۔ سلام
 ہو آپ پر اے وہ ہستی کے جس نے خرچ کیا اپنے
 مال سارا اللہ اور اس کے رسول کے محبت میں
 یہاں تک کہ اتار دیا اپنی عبا کو بھی راضی ہو اللہ
 تعالیٰ آپ سے اور راضی کرے آپ کو بہتر
 راضی کرنا اور بنا دے جنت کو آپ کا گھر اور
 مسکن اور رہنے کی جگہ اور ٹھکانا سلام ہو آپ پر
 اے سب سے پہلے خلیفہ اور سر تاج علماء اور خسر
 نبی مصطفیٰ ﷺ کے اور رحمت اللہ کی ہو آپ پر
 اور اس کی برکتیں۔

زیارت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ

marfat.com

حضرت عمرؓ کی زیارت کے وقت یہ سلام پڑھیں:

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ
السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَاطِقًا بِالْعَدْلِ وَالْ
الْقَوَابِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَتِيفِي
الْمِحْرَابِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مُكْتَبِ
الْأَصْنَافِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا الْفُقَرَاءِ
وَالضُّعْفَاءِ وَالْأَرَامِلِ وَالْأَيْتَامِ
أَنْتَ الَّذِي قَالَ فِي حَقِّكَ سَيِّدُ
الْبَيْتِ لَوْ كَانَ نَبِيٌّ مِنْ بَعْدِي
لَكَانَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ
تَعَالَى عَنْكَ وَأَرْضَاكَ أَحْسَنَ
الرِّضَا وَجَعَلَ الْجَنَّةَ مَنْزِلَكَ وَ
مَسْكَنَكَ وَمَحَلَّكَ وَمَا ذَلِكَ
السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا ثَابِتِي الْخُلَفَاءِ
وَتَاجِ الْعُلَمَاءِ وَصِبْهَرِ النَّبِيِّ
الْمُصْطَفَى وَرَحْمَةِ اللَّهِ وَبَرَكَاتِهِ ۝

سلام ہو آپ پر اے (حضرت) عمر بن خطاب
سلام ہو آپ پر اے فرمانے والے انصاف اور
ٹھیک بات کے سلام ہو آپ پر اے زینت دینے
والے محراب کو سلام ہو آپ پر اے غلبہ دینے
والے دین اسلام کے سلام ہو آپ پر اے توڑنے
والے بتوں کے سلام ہو آپ پر اے مددگار فقیروں
ضعیفوں بیواؤں اور یتیموں کے۔ آپ وہ ہیں کہ
فرمایا آپ کے حق میں انسانوں کے سردار نے کہ
اگر ہوتا کوئی نبی میرے بعد وہ البتہ ہوتا عمر بن
خطاب! راضی ہو اللہ تعالیٰ آپ سے اور راضی
فرمائے آپ کو بہتر راضی فرمانا اور بنادے جنت کو
آپ کا گھر اور جائے سکونت اور رہنے کی جگہ اور
ٹھکانا سلام ہو آپ پر اور دوسرے خلیفہ اور سرتاج
علماء کے اور خسر نبی مصطفیٰ ﷺ کے اور اللہ کی
رحمت ہو اور اس کی برکتیں نازل ہوں۔

۱۳۔ مسجد نبوی

مسجد نبوی دنیا کی عظیم ترین مساجد میں سے ہے اور فضیلت کے لحاظ سے مسجد حرام
کے بعد اس مسجد کا درجہ ہے کیونکہ اس کی نسبت حضور ﷺ سے وابستہ ہے کیونکہ اس مسجد کی بنیاد
خود حضور ﷺ نے اپنے ہاتھ سے رکھی۔ الغرض اس مبارک مسجد کی بنیاد اور تعمیر کا کام شروع ہو گیا
جس میں حضور اکرم ﷺ بھی شہس نفیس شریک تھے۔ اینٹ پتھر اٹھاتے جاتے تھے اور دعا
فرماتے تھے:

اللَّهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَةِ فَاعْزِزِ الْأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرِينَ

مسجد کیا تھی انتہائی سادگی کا نمونہ تھی۔ دیوار کچی اینٹ کی بنائی ہوئے چھت کھجور کے
پتوں کی اور ستون کھجور کے تنوں کے اس وقت مسجد کا طول ۰۵ فٹ عرض ۹۰ فٹ اور بلندی ۰۱ فٹ

تھی۔ مسجد کے مشرقی گوشہ میں ایک چبوتر اچھت دار بنایا گیا جسے صفہ کہتے تھے۔ مسجد نبوی کی فضیلت کے متعلق حضور ﷺ کے چند ارشادات گرامی مندرجہ ذیل ہیں:

(۱)۔ **حدیث:** حضرت ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میری اس مسجد میں نماز دوسری مساجد کے مقابلہ میں ہزار گنا ثواب کی حامل ہے سوائے مسجد حرام کی۔ (مسلم شریف)

(۲)۔ **حدیث:** حضرت ابو سعید خدریؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا تین مسجدوں کے علاوہ اور کسی مسجد کی جانب سفر کا ارادہ نہ کرو۔ مسجد حرام، مسجد اقصیٰ اور میری یہ مسجد (مسجد نبوی)۔ (بخاری شریف)

(۳)۔ **حدیث:** حضرت انس بن مالکؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”مسلمان کو گھر میں نماز ادا کرنے کا ثواب ایک نماز کا ملتا ہے جبکہ محلہ کی مسجد میں پچیس نمازوں کا اور جامع مسجد میں پچاس نمازوں کا اور مسجد اقصیٰ میں پچاس ہزار نمازوں کا اور میری اس مسجد میں (مسجد نبوی میں) پچاس ہزار نمازوں کا اور مسجد حرام میں نماز ادا کرنے کا ایک لاکھ کا ثواب ہے۔“ (ابن ماجہ)

(۴)۔ **حدیث:** حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا ہے کہ جو شخص میری مسجد میں چالیس نمازیں پڑھے کہ نہ فوت ہو اس سے کوئی نماز تیرا اللہ کے ہاں اس کے لیے جہنم کے عذاب اور نفاق سے نجات لکھ دی جاتی ہے۔ (مسند امام احمد۔ ترغیب)

(۵)۔ **حدیث:** حضرت سہل بن سعدؓ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا ہے کہ جو شخص میری اس مسجد میں بہتری سیکھنے یا سکھانے کے لیے داخل ہو تو اس کا مقام مجاہد فی سبیل اللہ جیسا ہے۔ (وقا الوفاء ج ۱)

(۶)۔ **حدیث:** حضرت سہل بن حنیفؓ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ جو پاک صاف ہو کر میری مسجد میں نماز کی ادائیگی کے ارادے سے نکلا اور یہاں آ کر اس نے نماز ادا کر لی تو اس کا ثواب حج کے برابر ہے۔ (وقا الوفاء ج ۱)

۱۔ **مسجد نبوی کی تاریخ:** فتح خیبر کے بعد حضرت محمد ﷺ نے مسجد کی لمبائی میں ۳۵ فٹ اور چوڑائی میں ۶۰ فٹ کا اضافہ کروایا تو مسجد شریف ۱۵۰ x ۱۵۰ فٹ کی مربع عمارت بنائی گئی۔

حضرت ابو بکر صدیقؓ کے دور خلافت میں اس مبارک مسجد میں کوئی تغیر و تبدل نہ ہوا۔ حضرت عمرؓ نے اسے اس میں مسجد کی لمبائی ۲۱۰ فٹ اور چوڑائی ۸۰ فٹ اور چھ دروازے تعمیر کرائے۔ دو قبلہ کی دہنی طرف دو بائیں طرف اور دو پیچھے کی طرف۔ موجودہ باب السلام اور باب النساء اسی دور فاروقی کی یادگار ہے البتہ مسجد کی سادگی جوں کی توں رکھی گئی۔

حضرت عثمانؓ ۲۳ھ میں خلیفہ ہوئے تب انہوں نے دیواروں اور ستونوں کو پتھر سے تیار کرا کے اس پر نقش و نگار کروایا قبلہ کی جانب موجودہ دیوار تک بڑھایا اور اس دیوار میں ایک محراب بھی تعمیر فرمائی جو آج بھی محراب عثمانؓ کے نام سے مشہور ہے۔ یہ تعمیر ۲۹ھ میں شروع ہوئی اور ۳۰ھ میں اختتام کو پہنچی۔

اس کے بعد بنی امیہ کے دور خلافت میں عمر بن عبدالعزیز نے ۸۸ھ میں ولید بن عبدالملک کے دور میں مسجد کی وسعت اور خوشنمائی میں اضافہ کیا انہوں نے مسجد کی لمبائی ۳۰۰ فٹ اور چوڑائی ۵۰ فٹ کروادی۔ ستون سنگ مرمر کے بنائے گئے۔ چھت میں بھی سونے کا پانی چڑھا کر نقاشی کی گئی۔ یہ کام ۹۱ھ تک جاری رہا اور بڑے اہتمام سے پایہ تکمیل تک پہنچا۔

اس کے بعد خلفاء جاسیہ نے بھی اس مسجد کی وسعت میں کچھ حصہ لیا اور مسجد کا صحن بہت وسیع کروادیا۔ اس کے بعد تقریباً سات سو سال تک مسجد اسی حالت میں قائم رہی۔ مہدی عباسیہ نے یہ توسیع ۱۶۱ھ میں کی۔ ۶۷۸ھ میں قلاؤن صالحی نے تانبے کی جالیوں کے ساتھ قبہ خضر بنوادیا جو خطیرہ شریفہ کے اوپر مسجد کی چھت سے بلند ہے اور اب تک اسی طرح موجود ہے۔

اس کے بعد سلطان سلیمان رومی نے دسویں صدی کے وسط میں روضہ متبرکہ میں سنگ مرمر کا فرش لگایا جو تا حال موجود ہے اور کچھ اور اضافہ بھی کیا۔

حجرہ شریف میں سرنگ لگانے کا واقعہ ۵۵ھ میں ہوا۔ یہ لوگ عیسائی تھے جو جسم مبارک کو سرنگ کے ذریعہ سے نقب لگا کر لے جانا چاہتے تھے جو کہ نصاریٰ کی حرکت تھی۔ چنانچہ اس کے بعد مصر کے بادشاہ نورالدین زنگی نے حجرہ کے چاروں طرف گہری خندق کھدوا کر اس میں سیسہ پگھلا کر اس خندق کو بھر دیا تاکہ کوئی مفسد ملعون قبر شریف تک نہ پہنچ سکے۔

پھر سلطان عبدالعزیز سعود مرحوم نے ۱۳۶۸ھ میں مسجد نبوی کو دہنی توسیع دینے کا حکم دیا۔ چنانچہ اسی دوران گرد و نواح کے مکانات خریدنے اور گرانے کا کام شروع ہو گیا ۱۳۷۲ھ میں سلطان سعود بن عبدالعزیز نے مدینہ منورہ تشریف لاکر اس کام کی اہمیت کی اور حضور کے روضہ پر

توسیع مسجد کی اس اسکیم میں ایک خاص بات یاد رکھنے والی ہے کہ اصل مسجد اور اس کے مقدس مقامات یعنی روضہ اقدس، گنبد خضرا، حجرہ مبارک، مقصودہ شریف، اصحاب صفہ کا چبوترہ وغیرہ تاریخی چیزوں کو اصل حالت میں رہنے دیا گیا ہے اس میں ذرہ بھر تغیر و تبدل نہیں کیا گیا اس کے چاروں طرف باہر ایک نئی مسجد کی عمارت بنا دی گئی۔ اس طرح سلاطین عثمانیہ کی شاندار توسیع کو قائم رکھتے ہوئے سعودی حکومت نے اپنے استطاعت کے مطابق دلکش اضافہ کیا۔

۲۔ تحویل کعبہ: ابتدا میں قبلہ کی سمت بیت المقدس یعنی شمال کی طرف تھی لہذا اس شمالی دیوار کو چھوڑ کر بقیہ مسجد کے تینوں طرف دیواروں میں تین دروازے نکالے گئے۔ سترہ مہینے تک بیت المقدس کی طرف نمازیں پڑھنے کے بعد ہجرت کے دوسرے سال میں بیت اللہ شریف کو قبلہ بنانے کا حکم الہی نازل ہوا تب جنوبی دیوار کو بند کر کے شمال کی طرف ایک دروازہ کھول دیا گیا جو آج کل باب مجیدی کے نام سے موسوم ہے۔

۳۔ ریاض الجنہ: یوں تو پوری مسجد نبوی بڑی اہمیت اور فضیلت کی حامل ہے مگر ریاض الجنہ کو خصوصی فضیلت حاصل ہے کیونکہ حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا کہ میرے حجرہ اور منبر کا درمیانی حصہ جنت کے باغوں میں سے ہے اور میرا منبر میرے حوض پر ہے۔ (بخاری شریف)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ریاض الجنہ بہت ہی بابرکت مقام ہے اس حصہ کی حد بندی ظاہر کرنے کے لیے سفید ستون بنائے گئے ہیں۔

۴۔ مبارک ستون: ریاض الجنہ میں بعض ستون بہت مشہور ہیں اور فضیلت کے اعتبار سے برے اہم ہیں۔ ان ستونوں کے قریب نوافل اور نماز پڑھنا بڑی برکت کا ذریعہ ہے۔ ستونوں کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے۔

(۱)۔ **استوانہ حنائفہ:** یہ ستون محراب النبی ﷺ کی پشت کے ساتھ ملا ہوا ہے اس جگہ کھجور کا ایک خشک ٹانگڑا ہوا تھا جس کا سہارا لے کر حضور اکرمؐ خطبہ فرمایا کرتے تھے۔ جب آپ کے لیے منبر تیار ہوا تو آپ نے اس پر بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرمایا تو یہ ٹانگڑا ہوا بکا کرنے لگا۔ حضور منبر سے نیچے تشریف لائے اس پر دست شفقت رکھا تو اس کا رونا بند ہوا۔ (یہ ٹانگڑا جگہ مدفون ہے)

(۲)۔ **استوانہ عائشہ:** حضور ﷺ نے ایک ہرجیہ ارشاد فرمایا کہ اس ستون کے

پاس ایک ٹکڑا ایسا ہے کہ اگر میں اس کو ظاہر کر دوں تو (وہاں اتنا ہجوم ہو جائے کہ) وہاں نماز پڑھنے کے لیے قرعے پڑھنے لگیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہؓ کو وہ جگہ معلوم تھی اور آپ نے اپنے بھانجے ابن زبیرؓ کو بتائی تھی۔ جب دیگر صحابہ کرامؓ نے ان کو دیکھا تو وہ ستون سے ذرہ دائیں ہٹ کر نماز پڑھ رہے تھے۔

(۴)۔ **استوانہ ابی لبابہ**: استوانہ عائشہؓ کے بائیں طرف ہے اسے استوانہ توبہ بھی کہتے ہیں ایک صحابی لبابہؓ نے اپنی کسی لغزش کی بنا پر اپنے آپ کو اس ستون سے باندھ کر قسم کھالی تھی کہ جب تک حضورؐ اپنے دست مبارک سے نہ کھولیں گے بندھا رہوں گا اللہ تعالیٰ نے جب ان کی لغزش معاف فرمادی تو حضورؐ نے تشریف لا کر ان کو کھولا۔

(۵)۔ **استوانہ وفود**: یہ وہ مقام ہے جہاں باہر سے آنے والے وفود سے حضورؐ ملاقات و گفتگو فرمایا کرتے تھے۔

(۶)۔ **استوانہ حوس**: آیت حفاظت نازل ہونے سے پہلے اس جگہ کھڑے ہو کر صحابہ کرامؓ حضورؐ کا حفاظتی پہرہ دیا کرتے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے بھی یہ خدمت انجام دی اس لیے بعض لوگ اس کو استوانہ علیؓ بھی کہتے ہیں۔

(۷)۔ **استوانہ سویر**: جب حضورؐ مسجد میں اعتکاف فرما ہوتے تو یہاں لیٹنے بیٹھنے کے لیے چٹائی بچھالیا کرتے اور یہیں بعض مرتبہ ایسی حالت میں حضرت صدیقہؓ آپ کے سر پر تیل لگاتیں اور کنگھا فرمایا کرتیں کہ آپ کا جسد اطہر مسجد میں ہوتا۔

یہ تینوں مقصودہ کے گرد کی آہنی جالیوں کی وجہ سے نصف کے قریب مقصورہ مبارک کے اندر ہیں اور نصف باہر۔

(۸)۔ **استوانہ تہجد**: یہ وہ جگہ ہے جہاں حضور اکرمؐ تہجد ادا فرمایا کرتے تھے۔

(۹)۔ **استوانہ جبریل**: یہ وہ مقام ہے جہاں جبریل علیہ السلام سے ملاقات ہوتی جب وصال سے پہلے والے رمضان میں حضورؐ نے جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن شریف کا دور فرمایا تو اسی جگہ فرمایا تھا۔

یہ دونوں ستون بالکل روضہ مبارک کے اندر آگئے ہیں اس لیے باہر سے نظر نہیں آتے گنبد خضراء انہیں پر قائم کیا گیا ہے۔

ریاض الجنہ میں ترکوں کی بنائی ہوئی ایک محراب ہے اس پر محراب النبیؐ لکھا ہوا ہے اس

کے متعلق مشہور ہے کہ یہاں کھڑے ہو کر حضور امامت فرماتے تھے مگر یہ صحیح نہیں اسی محراب کا دایاں ستون ہے جس کے اوپر لکھا ہوا ہے ہذا مصلی رسول اللہ ﷺ۔ دراصل حضور کے امامت فرمانے کی جگہ یہی ہے۔ رمضان کے عشرہ آخر میں تہجد کی نماز باجماعت کے وقت امام یہیں کھڑا ہوتا ہے۔

حضور کے وصال کے بعد ادب و احترام کے تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے بجز قدمین شریفین کی جگہ کے پوری جگہ دیوار بنا دی تھی تاکہ جہاں حضور سجدہ فرماتے تھے وہ جگہ لوگوں کے قدموں سے محفوظ رہے۔ ترکوں نے بھی اسی دیوار کی حد تک محراب بنا دی۔ اب جو بھی مصلی نبی کے سامنے کھڑا ہو کر نماز پڑھے گا سجدہ میں اس کا سر عین اس جگہ ہوگا جہاں حضور کے قدم مبارک ہوتے تھے۔

ریاض الجنہ کے دائیں کنارے پر منبر ہے۔ یہ منبر بھی ترکوں کا بنایا ہوا ہے۔ سنگ مرمر کا بہت سبک اور بہت خوبصورت یہ منبر اسی اصل جگہ پر ہے جہاں حضور اکرم کے زمانہ میں آپ کا منبر تھا۔ اس منبر کے سامنے اونچھائی پر منڈنہ بنا ہوا ہے جہاں سے اذان و تکبیر کہی جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں خطبہ کے وقت حضرت بلال اذان دیتے تھے۔

حضور کے وقت مسجد نبوی کہاں تک تھی کتنا حصہ مسقف تھا اور کتنا کھلا ہوا؟ یہ سب ترکوں نے ستونوں نے ذریعے واضح کیا ہے۔ مثلاً مسقف حصہ جہاں تک تھا وہاں ایسے ستون بنائے ہیں کہ ان پر دھاریاں کھود دی ہیں اور ان کو سنہرا کر دیا ہے اور جو صحن بغیر چھت کے تھا وہاں سادہ ستون رکھے ہیں۔

ریاض الجنہ کے جنوبی سمت کا حصہ حضرت عثمان غنی کے عہد خلافت میں مسجد نبوی میں شامل ہوا۔ موجودہ محراب بھی آپ نے قائم فرمائی اسی لیے محراب عثمانی کہلاتی ہے۔ اسی طرف چھ امہات المؤمنین کے مکانات تھے اسے پتیل کا کٹہرا لگا کر جدا اور نمایاں کیا گیا ہے۔ جنوب کی طرف حد مسجد نبوی تک کی عمارت جو مسقف ہے ترکوں کی یادگار ہے مغرب کی طرف حضرت عمر فاروق اور دیگر خلفاء بنو امیہ و بنو عباس کے زمانہ میں اضافہ ہوا۔ اس طرف شمالاً جنوباً اصل مسجد نبوی کی آخری حد پر ستونوں کی جو قطار ہے اس کے ہر ستون پر سبز زین پر سنہرے حروف سے حد مسجد نبوی علیہ السلام کندہ کر دیا گیا ہے۔

۵۔ روضہ اقدس کی تفصیل: حضور نے مسجد نبوی کی تعمیر سے فراغت کے

بعد از واج مطہرات کے لیے علیحدہ علیحدہ نو حجرے تعمیر کرائے یہ حجرے پندرہ فٹ لمبے ساڑھے دس فٹ چوڑے اور ۶ فٹ اونچے تھے۔ امام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہؓ کا حجرہ مبارکہ مسجد نبوی سے بالکل متصل تھا۔ اتنا کہ حضورؐ جب مسجد میں متکلف ہوتے تھے تو امام المؤمنینؑ اپنے حجرہ میں بیٹھی ہوئی آپ کے بالوں میں کنگھا فرما دیا کرتی۔

یہ حجرہ مبارکہ کچی اینٹوں کا تھا۔ بیچ میں ایک دیوار کھڑی کر کے دو حصے کر دیے تھے ایک حصہ میں باہر سے آنے والے وفود سے آپ ملاقات فرماتے۔

حضورؐ کے وصال کے بعد بھی یہی مبارک حجرہ آپ کی آخری آرامگاہ ہے۔ اور اسی کو روضہ مقدسہ کہا جاتا ہے۔ سر مبارک کہ جانب مغرب ہے۔ قدین شریفین جانب مشرق اور روئے انور بجانب قبلہ (جنوب سمت)۔

جسب ۱۳ھ میں آپ کے رفیق صادق حضرت ابو بکر صدیقؓ وصال فرمائے تو آپ کو حضورؐ کے برابر میں اسی طرح دفن کیا گیا کہ آپ کا سر حضورؐ کے سینہ مبارک کی سیدھ میں ہے۔ اور جسب ۲۳ھ میں حضورؐ کے دوسرے جاں نثار حضرت عمر فاروقؓ جام شہادت نوش فرمائے تو ان کو بھی ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہؓ کی اجازت حاصل سے آپ کے سامنے ہی حضرت صدیقؓ کے آگے اس طرح دفن کیا گیا کہ آپ کا سر حضرت صدیقؓ کے سینہ کے برابر ہے۔

حجرہ مبارکہ میں ایک قبر کی جگہ ابھی خالی ہے جو از روئے فرمان والا شان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ہے۔ آپ نزول کے بعد مدت قیام پوری فرما کر جب واصل بحق ہوں گے تو یہاں مدفون ہوں گے۔ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام۔

حضرت عمر فاروقؓ کے دور خلافت میں اس حجرہ شریف کی دیواریں اصل بنیادوں پر ہی کبھی اینٹوں سے پھرتیاری کی گئیں۔ ولید بن عبد الملک کے زمانہ میں جب از واج مطہرات کے دیگر حجروں کو شامل کیا گیا تب بھی حجرہ عائشہؓ کی اصل کچی دیواریں باقی رکھی گئیں اور اس کے چاروں طرف بہت ہی گہری بنیادیں کھود کر بیچ گوشہ مضبوط چھتری کھڑی کی گئی جس کے اوپر حصہ کی شکل مثلث اور نیچے کی مربع ہے۔ اس گوشہ دیوار اور حجرہ شریف کے درمیان تینوں طرف ایک ایک دو دو ہاتھ جگہ چھوڑی گئی مگر غربی جانب جدھر سر مبارک ہے وہاں درمیان میں ذرا بھی جگہ نہیں چھوٹ سکی اسی لیے بیچ گوشہ عمارت نظر آ رہی ہے اور اصل تینوں مزارات مع حجرہ کے اس کے اندر آ گئے۔ یہ تعمیر حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ نے اپنے زمانہ گورنری مدینہ میں تیار کرائی اور بیچ گوشہ اس لیے تعمیر کرائی تاکہ خانہ کعبہ کے ساتھ اس کی مشابہت نہ ہو اور کہیں جہاں اس کا بھی

طواف نہ شروع کر دیں۔

اس وقت تک روضہ مبارکہ پر گنبد نہ تھا۔ ۶۷۸ھ میں حجرہ مبارکہ کی دیواروں پر لکڑی کا پہلا قبة بنایا گیا اس کے بعد ۵۹۲ھ میں سلطان ترکی قایتبائی نے پنج گوشہ دیوار پر ایک دوسرا قبة بنایا اس پر سیسہ کی چادر کی طرح سبز رنگ لگایا گیا آخر میں سلطان محمود بن عبد الحمید عثمانی نے ۱۲۳۳ھ میں ازسرنو بنا کر اس پر گہرا سبز رنگ چڑھایا جس کی وجہ سے اس کا نام قبة خضرا (سبز گنبد) پڑا۔ موجودہ رنگ اسی سلطان ترکی سلطان محمود بن عبد الحمید کی یادگار ہے۔ ۱۳۹۰ھ میں سعودی حکومت نے گنبد شریف پر روغن کرایا۔

۵۵۷ھ میں ایک عیسائی بادشاہ نے سازش کے ذریعہ حضور کے جسد اطہر کو قبر شریف سے نکال لانے کے لیے دو عیسائی بھیجے جو مسلمانوں کے بھیس میں مدینہ منورہ آ کر مسجد نبوی کے قریب رباط عثمان میں ٹھہرے اور وہاں سرنگ کھودنی شروع کی۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں حضور نے ان دو شخصوں کی صورت دکھا کر فرمایا کہ مجھے ان کے شر سے بچاؤ۔ سلطان یہ خواب دیکھ کر تیز رو اونٹوں پر اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ ۱۶ دن میں مصر سے مدینہ پہنچا اور ان سازشیوں کو گرفتار کر کے واصل جہنم کیا۔ جب سلطان نے اس سرنگ میں جا کر دیکھا تو وہ سرنگ عین قد میں شریفین تک پہنچ گئی تھی سلطان نے قد میں شریفین کو بوسہ دیا سرنگ بند کرائی اور پنج گوشہ عمارت کے چاروں طرف زمین کو اتنا کھدوایا کہ پانی نکل آیا۔ پھر لاکھوں من سیسہ پگھلا کر اس میں ڈالا گیا اور اس طرح سطح آب سے زمین تک قبر مبارک کے ارد گرد سیسہ کی ایک زائد دیوار قائم ہو گئی۔ یہ سیسہ جس مکان میں پگھلایا گیا وہ آج بھی ”دار الرصاص“ کے نام سے مشہور ہے جو باب السلام سے باہر جنوب مشرقی کونہ میں واقع ہے۔ روضہ مبارک کے گرد جو جالی ہے سیسہ کی دیوار وہاں تک ہے۔ پہلے یہ جالی لکڑی کی تھی بعد میں پیتل اور تانبے کی جالی بنائی گئی جو اب تک موجود ہے۔

الغرض تینوں مزارات تین دیواروں کے اندر دو گنبدوں کے نیچے اور ایک جالی سے محیط ہے اور اس ساری عمارت کو مقصورہ شریف کہتے ہیں۔

۶۔ **چبوترہ اصحاب صفہ:** اسی مقصورہ شریف کے شمال کی جانب ایک چبوترہ ۴۰ فٹ لمبا اور ۴۰ فٹ چوڑا اور زمین سے ۲ فٹ اونچا بنا ہوا ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں وہ مسکین و نادار صحابہ کرام قیام فرما رہے تھے جن کے نہ گھر تھے نہ در اور جو شب و روز ذکر تلاوت اور حضور کی صحبت سے مستفیض ہوتے تھے۔ چبوترہ کے تین طرف پیتل کا خوبصورت کٹہرا لگا ہوا ہے۔ اس

کے آگے خدام حرم نبوی بیٹھے رہتے تھے مقصورہ شریف میں جالی کے اندر یہی خدام جا کر صفائی کرتے دھونی دیتے اور خوشبو لگاتے ہیں۔ صفہ مبارکہ پر زائرین تلاوت قرآن کرتے اور نمازیں پڑھتے ہیں آپ کو اگر موقع مل جائے تو وہاں بھی نوافل پڑھیے تلاوت کیجیے اور درود شریف کا ورد کیجیے دعائیں مانگیے۔

۱۴۔ زیارات جنت البقیع

جنت البقیع مدینہ منورہ کا مقدس قبرستان ہے یہ مسجد نبوی کے مشرقی واقع ہے اس قبرستان میں حضور کی چند ازواج مطہرات آپ کی صاحبزادیاں پھوپھیاں آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم آپ کے چچا حضرت عثمان غنی اور دیگر بیٹا جلیل القدر صحابہ دفن ہیں ان مقدس ہستیوں کے علاوہ بیٹا صلحاء اولیاء اتقیاء اور مسلمان دفن ہیں۔ اسی وجہ سے اسلامی تاریخ میں یہ قبرستان بڑی اہمیت کا حامل ہے اس لیے اس کی زیارت کرنا سنت ہے۔ کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ حضور بعض اوقات رات کے پچھلے حصہ میں جنت البقیع میں تشریف لے جاتے اور فرماتے ”اے ایمان والو! تم پر سلام ہو انشاء اللہ ہم بھی تمہارے پاس آنے والے ہیں اے اللہ بقیع غرقہ والوں کو معاف فرمادے۔“ (مسلم شریف) معلوم ہوا کہ جنت البقیع نہایت ہی قابل قدر اور مقدس قبرستان ہے۔

جنت البقیع میں جن مشہور شخصیات کی قبروں کی نشاندہی ہوتی ہے ان میں مندرجہ ذیل اسماء قابل ذکر ہیں:-

حضرت فاطمہ الزہراء بنت رسول اللہ حضرت عباس عم رسول اللہ حضرت امام حسن بن علی حضرت امام زین العابدین حضرت امام محمد باقر حضرت امام جعفر صادق ازواج مطہرات یعنی حضرت عائشہ صدیقہ حضرت سوڈہ حضرت حفصہ حضرت زینب بنت خزیمہ حضرت زینب بنت جحش حضرت سلمیٰ حضرت ام حبیبہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا حضور کی صاحبزادیاں یعنی حضرت رقیہ بنت رسول اللہ حضرت ام کلثوم بنت رسول اللہ حضرت زینب بنت رسول اللہ حضور کی پھوپھیاں حضرت عقیل بن ابی طالب سیدنا ابراہیم ابن رسول اللہ حضرت امام مالک حضرت امام نافع حضرت حلیمہ سعدیہ حضرت عثمان غنی حضرت فاطمہ بنت اسد والدہ ماجدہ حضرت علی حضرت عبدالرحمن بن عوف حضرت ابوسعید خدری حضرت سعد بن ابی وقاص حضرت عبداللہ بن مسعود حضرت عثمان بن مظعون ان

کے علاوہ شہدائے احد کے بھی ایک مقام پر مزارات ہیں۔

اس بارے میں علماء کے مختلف رائے ہیں کہ بقیع میں آ کر سلام و دعا کی ابتداء کس جگہ سے کرے۔ بعض حضرت عثمان عنیؓ، بعض حضرت ابراہیمؓ اور بعض حضرت عباسؓ کے مزار سے شروع کرنے کے متعلق فرماتے ہیں جہاں سے بھی شروع کرے اجازت ہے۔ جب بقیع میں داخل ہو (یا اس کے پاس سے گزرے) تو یہ کہے:-

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْبَقِيعِ يَا أَهْلَ الْجَنَابِ الرَّفِيعِ أَنْتُمْ
السَّابِقُونَ وَنَحْنُ الْتَّالِيُونَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ وَابْتِشْرُوا بِأَنَّ
السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ
أَنْسَلُمُ اللَّهُ تَعَالَى وَشَرَّفَكُمْ اللَّهُ تَعَالَى بِقَوْلِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
وَحَدَا لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ-

۱۔ زیارت احد و شہداء احد: مدینہ طیبہ سے جاب شمال تین میل کے قریب یہ مقدس پہاڑ واقع ہے جس کے متعلق سرور عالم نے ارشاد فرمایا ہے کہ احد ہم سے محبت رکھتا ہے اور ہم احد سے محبت رکھتے ہیں۔ آپ جبل احد پر تشریف فرما ہوئے ہیں اور فرمایا ہے کہ جب تم احد پر آؤ تو اس کے درخت سے کچھ کھاؤ۔ اگرچہ خاردار درخت ہی ہے۔ اس لیے وہاں کے درخت پودے سے بوٹی وغیرہ کھالینا چاہیے۔ احد کی زیارت جمعرات کو افضل ہے۔

اب مدینہ کی آبادی احد کے قریب پہنچتی جا رہی ہے۔ احد پہاڑ کی تلہشی میں ۳ھ کا معرکہ پیش آیا جہاں حضرت حمزہؓ اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جام شہادت نوش فرمایا۔ حضرت حمزہؓ اور دیگر صحابہ کرامؓ کے مزارات ایک احاطہ میں ہیں۔ حضرت حمزہؓ حضورؐ کے محبوب چچا کا مزار احاطہ کے پنج میں ہے آپ کی قبر کے برابر ہی حضرت عبداللہ بن جحشؓ اور حضرت مصعب بن عمیرؓ مدفون ہیں اور کچھ آگے باقی اصحاب کرامؓ مدفون ہیں۔

اس احاطہ کے دروازہ کی طرف پشت کر کے کھڑے ہوں تو سامنے ہی وہ پہاڑی ہے جسے جبل رماہ کہتے ہیں جہاں تیر انداز صحابہ متعین کیے گئے تھے۔ اسی کے قریب حضرت حمزہؓ کی اصل شہادت گاہ کی عمارت کے کھنڈر ہیں۔ سیلاب میں آپ کی قبر آ جانے سے سبب سے آپؐ کو موجودہ جگہ پر منتقل کیا گیا ہے۔ جب حضرت حمزہؓ کے مزار پر حاضر ہوں تو یوں کہے:-

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَنَا حَمَزَةَ
سلام ہو آپ پر اے سیدنا حمزہؓ۔ سلام ہو آپ پر

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا عَمَّ رَسُولِ اللَّهِ
السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا عَمَّ نَبِيِّ اللَّهِ
السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا عَمَّ حَبِيبِ اللَّهِ
السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا عَمَّ الْمُصْطَفَى
السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الشُّهَدَاءِ
ذِي أَسَدِ اللَّهِ وَأَسَدَ رَسُولِهِ
السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَنَا عَبْدَ اللَّهِ
ابْنَ حَبَشٍ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا
مُصْعَبَ بْنَ عَمِيرٍ - السَّلَامُ عَلَيْكَ
يَا شُهَدَاءَ أَحَدٍ كَانَتْ عَامَّةً
وَرَحْمَةً اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ -

اے عم محترم رسول اللہ سلام ہو آپ پر اے عم
بزرگوار اللہ کے نبی کے۔ سلام ہو آپ پر اے
چچا اللہ کے محبوب کے سلام ہو آپ پر۔ اے چچا
مصطفیٰ کے۔ سلام ہو آپ پر اے سردار شہیدوں
کے اور اے شیر اللہ کے اور شیر اس کے رسول
کے سلام ہو آپ پر اے سیدنا عبد اللہ بن حبش
سلام ہو آپ پر اے مصعب بن عمیر سلام ہو
آپ پر اے شہدائے احد سب کے سب پر اور
اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔

۱۰۔ مدینہ منورہ کے کنویں

مدینہ منورہ کے کچھ کنویں ایسے ہیں جو حضور کے وقت سے ہیں۔ ان کنوؤں میں سے
کچھ تو موجود ہیں اور کچھ ناپید ہو گئے ہیں۔ کہ کنویں نہایت ہی بابرکت ہیں کیونکہ ان کنوؤں کی
نسبت حضور کی طرف ہے یعنی کسی کنویں کے پانی سے آپ نے وضو فرمایا کسی کا پانی نوش فرمایا۔
کسی میں اپنا لعاب دہن ڈالا لہذا ان کنوؤں کی زیارت کرنا بھی باعث سعادت ہے۔

۱۔ **بیر اریس**: یہ کنواں مسجد قبا کے قریب غربی جانب ہے اس کو بیر خاتم کہا جاتا ہے اس لیے
کہ حضرت عثمان کے ہاتھ سے مہر نبوت کی انگٹھی اس کنویں میں گر گئی اور بڑی تلاش و جستجو کے
باوجود نہیں ملی۔ اس کے نیچے کے حصہ میں دودھ ہانے کھلے ہوئے تھے جن سے پہاڑی چشموں کا
پانی آتا تھا تیسرا وہاں نہر زرقا کا تھا کہ وہ کنویں میں شامل ہو کر آگے چلی جاتی تھی اس کا پانی
نہایت صاف اور شیریں تھا۔ رسول اللہ ایک مرتبہ تشریف لائے اور اس میں پاؤں لٹکا کر من پر
بیٹھ گئے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکرؓ، عمرؓ، عثمان رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور آپ کے اتباع میں
اسی طرح بیٹھ گئے۔ آپ نے اس کا پانی پیا اور اسی سے وضو کیا اور لعاب مبارک بھی اس کنویں
میں ڈالا۔ اس کنویں کا مالک اریس نامی شخص تھا۔ اس لیے اسے بیر اریس کہا جاتا ہے۔

۲۔ **بیر عرس**: یہ کنواں مسجد قبا سے تقریباً ایک کلومیٹر کے فاصلے پر شمال کی طرف واقع ہے
اس کے پانی سے حضور نے وضو فرمایا ہے اور اس کا پانی پیا بھی ہے اور اس میں اپنا لعاب دہن اور
شہد بھی ڈالا ہے۔

۳۔ **بیربضاہ**: یہ کنواں شامی دروازہ سے باہر جمل اللیل باغ کے پاس ہے۔ اس میں بھی حضور نے اپنا لعاب دہن ڈالا اور برکت کی دعا فرمائی ہے۔

۴۔ **بیرحاح**: یہ کنواں باب مجیدی کے سامنے شمالی فصیل سے باہر تھا۔ یہ کنواں حضرت ابو طلحہ انصاریؓ کے باغ میں تھا۔ حضور اقدس اکثر اس جگہ جلوہ افروز ہوتے تھے اور اس کا پانی نوش فرماتے تھے۔ جب آیہ مبارکہ **لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ** نازل ہوئی تو چونکہ یہ کنواں حضرت ابو طلحہؓ کو بہت زیادہ محبوب تھا اس لیے انہوں نے اس کو خدا کی راہ میں صدقہ کر دیا۔

۵۔ **بیربصہ**: یہ کنواں قبا کے راستے میں جنت البقیع کے متصل ہے۔ اس کنویں پر حضور اقدس نے اپنا سر مبارک دھویا اور غسل فرمایا اس جگہ دو کنوئیں ہیں۔ صحیح یہ ہے کہ بڑا کنواں بیربصہ ہے اور بہتر یہ ہے کہ دونوں سے برکت حاصل کرے۔

۶۔ **بیرعقن**: یہ کنواں مسجد شمس کے قریب ہے اس کنویں کے پانی سے بھی حضور نبی کریم نے وضو فرمایا ہے۔ اس کا پانی قدرے کھاری ہے اس کو بیرالیسیرہ بھی کہا جاتا ہے۔

۷۔ **بیرحضرت عثمان**: یہ کنواں وادی عقیق کے کنارے پر مدینہ منورہ سے تقریباً تین میل کے فاصلہ پر ایک باغ میں ہے۔ اس کنویں کو بیر رومہ بھی کہتے ہیں۔ یہ وہی کنواں ہے جس کا مالک ایک یہودی تھا اور مسلمانوں کو پانی کی تکلیف تھی تو حضرت عثمان غنیؓ نے بیس ہزار درہم پر اس کنویں کو یہودی سے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔

۸۔ **متفرق کنوئیں**: ان کنوؤں کے علاوہ اور بھی کنوئیں ہیں جن کا پانی حضور نے استعمال کیا ہے ان کے نام یہ ہیں:

(۱) بیر آنا (۲) بیر اعواف (۳) بیر انس (۴) بیر الحصارم

(۵) بیر السقیا (۶) بیر ابی ایوب (۷) بیر عروہ (۸) بیر ذردان (جس

میں لہید یہودی نے حضور ﷺ پر سحر کر کے بال کنگھے میں باندھ کر دفن کیے تھے

(۹) بیر القویم (۱۰) بیر الصفیہ (۱۱) بیر بویطہ (۱۲) بیر فاطمہ۔

۱۶۔ زیارت مساجد

مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے علاوہ اور بھی بہت سی مساجد حضور کے زمانہ میں تعمیر ہو گئیں تھیں جن میں حضور نے نماز پڑھی ہے اس نسبت کی وجہ سے وہ مساجد بابرکت ہیں۔ بعض مساجد صحابہ کرام کے نام سے بھی منسوب ہیں اور مشہور مساجد میں سے کچھ مساجد تو اب تک موجود ہیں مگر بعض مساجد زمانہ کی گردش کی بنا پر دوبارہ تعمیر نہ ہو سکیں۔ جو مساجد موجود ہیں ان میں سے کوئی مسجد بھی زمانہ نبوی کے دور کی ماہیت پر موجود نہیں۔ طویل عرصہ کی بنا پر یہ مساجد دوبارہ تعمیر ہوتی رہی ہیں۔ ان مساجد کی تعمیر کی جگہ وہی ہے اس لیے ان مساجد کی زیارت کرنا اور ان میں نوافل پڑھنا بھی باعث سعادت و ثواب ہے۔ مشہور مساجد کی تفصیل حسب ذیل ہے:-

۱۔ **مسجد قبا:** مدینہ منورہ سے جنوب مغربی جانب مسجد نبوی سے تقریباً دو میل کے فاصلہ پر ہے۔ یہ مسلمانوں کی سب سے پہلی مسجد ہے جس وقت رسول اللہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے اور بنیعوف میں قیام فرمایا تو آپ نے مع صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے دست مبارک سے اس کو تعمیر فرمایا۔ اور مسجد حرام مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ کے بعد یہ تمام مساجد سے افضل ہے رسول اللہ اکثر مدینہ منورہ سے مسجد قبا میں تشریف لایا کرتے جس روز جی چاہے پیدل یا سواری پر مسجد قبا کی زیارت کی جائے مگر شنبہ کے روز افضل ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا ہے **إِنَّ صَلَاةَ رَكْعَتَيْنِ فِيهِ كَعُمْرَةٍ** کہ مسجد قبا میں دو رکعت کا ثواب مثل عمرہ کے ہے۔

۲۔ **مسجد جمعہ:** یہ وہ مسجد ہے کہ جس میں نماز جمعہ سب سے پہلے ادا کی گئی تھی یعنی جب جمعہ فرض ہوا تو حضور نے اس مسجد سے نماز جمعہ کا آغاز فرمایا۔ حضور کے وقت اس جگہ پر بنو سالم آباد تھے۔ مسجد جمعہ جس علاقے میں واقع ہے اسے وادی زانونا کہا جاتا تھا۔ مسجد کے قریب کسی زمانے میں باغ بستان الجزع تھا۔

۳۔ **مسجد غمامہ:** مسجد غمامہ کو گنبدوں والی مسجد بھی کہتے ہیں۔ یہ مسجد اسی جگہ پر تعمیر کی گئی جہاں پر حضور عیدین کی نماز پڑھایا کرتے تھے۔ مسجد غمامہ مسجد نبوی سے قریب ہی ہے۔ اسی مسجد کے مقام پر نماز استسقاء بھی پڑھی گئی۔ غمامہ بادل کو کہا جاتا ہے۔ اسی مقام پر ایک مرتبہ گرمی کی شدت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے جس اطہر پر ایک بادل کے ٹکڑے کا سایہ کر دیا۔ اسی نسبت سے یہ مسجد مسجد غمامہ مشہور ہوئی۔

۴۔ **مسجد سقیا:** یہ مسجد مکہ مکرمہ کو جانے والے راستے پر ہے اس علاقے کو باب غنبر یہ کہا جاتا ہے۔ دراصل سقیا ایک کنواں تھا اور اس کنویں کی مناسبت سے یہ مسجد 'مسجد سقیا' مشہور ہوئی۔ اس مسجد کی فضیلت کے متعلق عبداللہ بن دنیاوی کی روایت ہے کہ حضورؐ جب بدر و روان ہوئے تو آپؐ نے اس مسجد میں نماز ادا فرمائی اور اہل مدینہ کے لیے یوں دعا فرمائی کہ اے اللہ! ان کے پیانے میں برکت دے اور انہیں رزق پہنچانے اور اسی روز سے آپؐ نے مدینہ منورہ کو حرم بھی قرار دیا۔ (الوفاء)

۵۔ **مسجد فتح:** مسجد فتح کو مسجد احزاب بھی کہا جاتا ہے۔ کیونکہ غزوہ خندق کے موقع پر مقابلہ کے لیے چونکہ خندق کھودی گئی اور عربی میں خندق کو احزاب کہا جاتا ہے لہذا اس جگہ پر تعمیر ہونے والی مسجد 'مسجد احزاب' کے نام سے مشہور ہوئی۔ غزوہ خندق کے موقع پر حضور ﷺ اس مقام پر تین دن دعا فرماتے رہے یعنی پیر، منگل اور بدھ اور آخری روز یعنی بدھ کے روز اللہ تعالیٰ نے فتح کی خوشخبری دی اور اس وجہ سے غزوہ خندق میں مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ اس مسجد میں قبلہ رخ چار اور مساجد ہیں جو مسجد سلمان فارسی، مسجد ابو بکر، مسجد عمر اور مسجد علی کے نام سے مشہور ہیں۔ دراصل غزوہ خندق کے موقع پر یہ ان حضرات کے پڑاؤ تھے اور حضورؐ نے یہاں تشریف لا کر نماز بھی پڑھی۔ جن کو محفوظ و متعین کرنے کے لیے غالباً سب سے پہلے حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے مساجد کی شکل دے دی۔ یہ مقام مساجد خمسہ کے نام سے مشہور ہے۔ حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ مجھے جب بھی کوئی اہم امر پیش آتا ہے میں مسجد فتح میں فوراً حاضر ہوتا اور دعا کرتا تھا اور مجھے دعا کی قبولیت کی بشارت مل جاتی تھی۔

۶۔ **مسجد نبی حرام:** سلع پہاڑی کی گھاٹی میں مسجد احزاب کو جاتے ہوئے داہنی طرف یہ مسجد واقع ہے۔ اس کی تاریخ یہ ہے کہ حضورؐ نے اس جگہ نماز پڑھی ہے اس کے قریب ایک غار ہے جس میں حضورؐ پر ایک مرتبہ وحی اتری تھی۔ اور جنگ خندق کے موقع پر رات کو اس غار میں آرام فرماتے تھے۔ اس غار کی زیارت بھی باعث شرف و سعادت ہے۔

۷۔ **مسجد ذباب:** یہ مسجد ذباب کی پہاڑی پر ہے جو جبل احد کے راتہ کے بائیں جانب ہے۔ جنگ خندق کے موقع پر اس جگہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا خیمہ گاڑا گیا تھا۔

۸۔ **مسجد الفصیح:** عوالی (محلہ کا نام) کے شرق میں واقع ہے۔ یہودی قبیلہ بنو نضیر کے محاصرہ کے وقت حضورؐ نے یہاں نماز ادا فرمائی تھی۔ فصیح کھجور کی شراب کو کہتے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاریؓ تحریم خمر ہے پہلے ایک جماعت نے کھجور سے نوشی میں مشغول تھے کہ شراب کی

حرمت نازل ہوئی جو نہی انہیں اس کی اطلاع ملی تو انہوں نے شراب کے سارے مٹکے توڑ ڈالے اور شراب لٹھادی۔ غالباً یہ واقعہ اسی جگہ کا ہے اسی لیے اس کا نام مسجد فصیح پڑ گیا۔

بعض حضرات نے اس کا نام مسجد شمس بتایا ہے اس لیے کہ اونچائی پر ہے اور دوسری جگہ کی نسبت یہاں سے طلوع پہلے نظر آتا ہے۔ مسجد قبا سے جانب شرق میل پون میل کے قریب ہے بغیر چھت کی کالے پتھروں کی ایک چار دیواری ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ سورج غروب ہو گیا۔ حضورؐ کو علم ہوا تو آپؐ نے دعا فرمائی۔ اور سورج پلٹ آیا اور یہ دعا اسی مقام پر فرمائی تھی جہاں مسجد شمس ہے۔ اسی لیے اس کا نام مسجد شمس پڑ گیا لیکن یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ یہ واقعہ مقام صہبا کا ہے جو خیبر کے شہروں میں سے ایک شہر تھا البتہ سورج کے لوٹائے جانے کا واقعہ صحیح ہے۔

۹۔ مسجد نبی قریضہ: مسجد فصیح سے جانب مشرق تھوڑے فاصلہ پر ہے۔ یہودی قبیلہ بنو قریظہ کے محاصرہ کے وقت اس جگہ حضور اکرمؐ نے قیام فرمایا تھا اور یہود کے مقرر کردہ حکم حضرت سعد بن معاذؓ نے یہیں وہ فیصلہ صادر کیا تھا جس کی رو سے یہودی مردوں کو قتل اور بچوں اور عورتوں کو قید بنایا تھا۔

۱۰۔ مسجد نبی ظفر: یہ مسجد بقیع سے مشرقی جانب حرہ واقم کے کنارے واقع ہے یہاں قبیلہ بنو ظفر نامی بود و باش رکھتا تھا۔ ایک مرتبہ سرکارِ دو عالمؐ یہاں تشریف فرما ہوئے اور نماز ادا فرمائی نماز کے بعد وہیں پڑے ہوئے ایک پتھر پر آپؐ بیٹھ گئے۔ اہل مدینہ میں زمانہ قدیم سے یہ بات مشہور رہی ہے کہ جس عورت کے اولاد نہ ہوئی ہو وہ اس پتھر پر بیٹھ جائے تو انشاء اللہ صاحب اولاد ہو جاتی ہے۔ اس پتھر پر بیٹھ کر ایک صحابیؓ نے آپؐ کی فرمائش پر قرآن شریف کی تلاوت کی۔ ایک آیت کی تلاوت پر آپؐ پر گریہ طاری ہو گیا۔

۱۱۔ مسجد الاجابہ: بقیع سے شمال جانب ”بستان سمان“ کے پاس ہے اب اس کے آس پاس بسا تین کی جگہ عمارات ہیں اور کافی آبادی ہے اس وقت بنو معاویہ (ابن مالک زبن عوف) یہاں مقیم تھے اس لیے اس کا نام مسجد بنی معاویہ بھی ہے ایک مرتبہ حضور اکرمؐ اس جگہ تشریف لائے۔ نماز کے بعد دیر تک دعا میں مشغول رہے فراغت کے بعد فرمایا میں نے اپنے رب سے تمیں درخواستیں کی تھیں۔

۱۔ میری امت کو (اجتماعی) قحط سالی کے عذاب سے تباہ نہ فرمائیے۔

۲۔ اے غرق عام سے ملاک فرمائیے۔

۳۔ ان میں باہمی اختلاف اور خانہ جنگی نہ ہو۔

اللہ تعالیٰ نے ان میں سے اول کی دو درخواستیں قبول فرمائیں۔ مگر تیسری منظور نہیں فرمائی محمد بن طلحہ سے مروی ہے کہ اس مسجد میں آپ کے نماز پڑھنے کی جگہ محراب سے دائیں جانب دو گز کے فاصلہ پر ہے۔

۱۲۔ **مسجد قبلتین:** مدینہ منورہ کے شمال مغرب میں وادی عقیق کے قریب اونچائی پر واقع ہے اس کی ایک دیوار میں محراب کا نشان بنا ہوا ہے جس کا رخ بیت المقدس کی طرف ہے اور دوسری دیوار میں بجانب کعبہ باقاعدہ محراب ہے۔ کہتے ہیں کہ تحویل قبلہ کا حکم عین حالت نماز میں اسی مسجد میں نازل ہوا تھا اسی لیے اسے مسجد قبلتین کہتے ہیں۔

۱۳۔ **مسجد بسجدہ:** بستان بگیری اور بساتین صدقہ کے درمیان واقع ہے اس جگہ حضور اکرمؐ نے دو رکعت نماز ادا فرمائی اور کافی طویل سجدہ فرمایا اس کو مسجد بحیرہ بھی کہتے ہیں۔ یہ مسجد حضرت حمزہؓ کے مقام شہادت کی طرف لے جانے والے راستہ پر شرقی جانب دائیں ہاتھ پر ہے اسے مسجد طریق السافلہ اور مسجد ابوذر غفاریؓ بھی کہتے ہیں۔

۱۴۔ **مسجد ابی:** بقیع کے متصل ہے یہاں حضرت ابی بن کعبؓ کا مکان تھا۔ حضور اکرمؐ یہاں تشریف لاتے اور نماز ادا فرماتے تھے۔

۱۵۔ **مسجد ابوبکرؓ:** یہ مسجد غمامہ کے قریب شمالی جانب واقع ہے۔

۱۶۔ **مسجد عمرؓ:** یہ بھی مسجد غمامہ کے شمالی جانب مسجد ابوبکرؓ کی لائن میں تھوڑے فاصلہ پر ہے کہتے ہیں کہ حضرت عثمانؓ کے محاصرہ کے وقت حضرت علیؓ اپنا مکان چھوڑ کر یہاں فرودکش ہو گئے تھے۔

۱۷۔ **مسجد مشربہ أم ابراہیم:** محلہ عوالی میں مسجد ٹریڈ سے شمالی جانب حرہ شرقیہ کے نزدیک واقع ہے۔ یہ جگہ سیدنا ابراہیمؑ کی جائے پیدائش ہے اور حضورؐ نے اس جگہ بھی نماز ادا فرمائی ہے۔ مشربہ کے معنی باغ کے ہیں۔ یہاں حضرت ماریہ قبطیہؓ کے کچھ باغ تھے اور آنحضرتؐ کے کچھ صدقات تھے جو آپؐ نے فقراء و مساکین پر وقف فرمادے تھے۔

نکاح و طلاق نکاح

نکاح ایک اسلامی طریقہ ہے۔ علمی طور پر نکاح کی تعریف یہ ہے کہ نکاح ایک معاہدہ ہے جو مرد اور عورت میں ہوتا ہے جس کا مقصد نفسانی خواہشات کی تکمیل اور حصول اولاد ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نکاح کو حصن یعنی قلعہ سے تعبیر کیا ہے جس سے مراد میاں بیوی کی عفت و عصمت کا تحفظ ہے۔ بہر کیف جب لڑکایا لڑکی جوان ہو جائیں تو ان کا نکاح کرنا ضروری ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ:

اور تم اپنے میں سے بے شوہر عورتوں کا نکاح کر دیا کرو اور اپنے نیک غلاموں اور لونڈیوں کا بھی اگر وہ مفلس ہوں تو اللہ انہیں غنی کر دے گا اپنے فضل سے اللہ وسعت والا جاننے والا ہے۔ (نور: ۳۲)

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝ (نور: ۳۲)

ایک اور مقام ہر ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ:-

مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو حتیٰ کہ وہ ایمان لے آئیں بیشک مسلمان لونڈی آزاد مشرک سے بہتر ہے۔ اگرچہ وہ تمہیں اچھی معلوم ہو۔ اسی طرح مشرک مرد جب تک ایمان نہ لائیں مومن عورتوں سے ان کا نکاح نہ کرو۔ مشرک مرد سے مومن غلام بہتر ہے۔ خواہ مشرک مرد کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو۔ مشرک دوسروں کو آگ کی طرف بلا تے ہیں اور اللہ اپنے حکم سے جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے اور اپنی آیات کی

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ بِهِ
وَلَا مَنَّهُ مُؤْمِنَةٌ وَخَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ
وَلَوْ أَنَّعَجَبْتُمْ لَهُمْ وَلَا تَنْكِحُوا
الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ
مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۚ وَلَوْ
أَعَجَبْتُمْ لَهُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى
النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ
وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ

إِنَّهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔

(البقرہ: ۲۲۱)

وضاحت کرتا ہے تاکہ لوگ سمجھداری سے کام لیں۔ (البقرہ: ۲۲۱)

نکاح کے متعلق پروردگار عالم نے ایک اور مقام پر وضاحت کرتے ہوئے ترغیب دی ہے۔ کہ تم زیادہ سے زیادہ چار عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو۔

وَإِنْ حِفْظُهُمْ إِلَّا تَقْسَمُوا فِي الْيَمِينِ

فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ

النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۚ

(نساء: ۳)

چار سے نکاح کر لو۔ (نساء: ۳)

ان احکام الہی سے معلوم ہوا کہ نکاح کرنا ہر عاقل بالغ مسلمان مرد اور عورت کے لیے ضروری ہے۔ اگر کسی جوان مرد یا عورت کے ورثاء نکاح نہ کرتے ہوں تو اسے خود بھی اپنا نکاح کروالینے کا پورا حق حاصل ہے۔ نکاح کرنا انبیاء کی سنت ہے کیونکہ تمام انبیاء اور رسولوں نے تقریباً نکاح کیا ہے۔ حضور ﷺ کا ارشاد گرامی ہے کہ چار چیزیں انبیاء کی سنت میں سے ہیں۔ حیاء، خوشبو، مسواک اور نکاح۔ (ترمذی) نیز آپ کا ارشاد ہے کہ نکاح میری سنت ہے۔ جو میری اس سنت کو نہ اپنائے وہ مجھ میں سے نہیں (مسلم) گویا کہ نکاح اسلام میں ہر لحاظ سے ضروری ہے۔ نکاح کی فضیلت اور دیگر شرعی احکام مندرجہ ذیل ہیں۔

۱. فضائل نکاح

اسلام میں نکاح یعنی شادی کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے کیونکہ نکاح کے ذریعے برائی کا راستہ بند ہو جاتا ہے انسانی زندگی میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے کیونکہ معاشرتی زندگی میں عورت کے بغیر کوئی رعنائی نہیں۔ نکاح دین کا ایک ضروری حصہ ہے۔ جس طرح زندگی کے لیے دوسری اشیاء ضروری ہیں ویسے ہی نکاح بھی ضروری ہے۔ اس سے انسانی نسل کا سلسلہ آگے بڑھتا ہے۔ اس ضرورت کی بنا پر حضور نے نکاح کی بہت تاکید فرمائی ہے۔ اس ضمن میں آپ کے ارشادات عالیہ حسب ذیل ہیں۔

۱۔ حدیث: حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اے

نوجوانوں کی جماعت! جو تم میں سے عورت رکھنے کی طاقت رکھتا ہے تو اسے نکاح کرنا چاہیے

کیونکہ یہ نظر کو جھکاتا اور شرمگاہ کو محفوظ رکھتا ہے اور جو اس کی طاقت نہ رکھتا ہو تو وہ روزے

رکھے کیونکہ یہ اس کے لیے نخصی کرنا ہے۔ (مسلم شریف)

۲۔ حدیث: حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہؐ نے فرمایا جب بندے نے نکاح کر لیا تو نصف دین کو اس نے مکمل کر لیا اور باقی نصف کے لیے اللہ کا تقویٰ اختیار کرے۔ (مشکوٰۃ شریف)

۳۔ حدیث: حضرت انسؓ ہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ سے پاک صاف حالت میں ملنا چاہے تو اسے چاہئے کہ آزاد کنواری عورتوں سے نکاح کرے۔ (مشکوٰۃ شریف)

۴۔ حدیث: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تین آدمیوں کی مدد کرنا اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے۔

(۱)۔ مکاتب جو کتابت ادا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔

(۲)۔ نکاح کا خواہشمند جو عفت کو بچانا چاہے اور

(۳)۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا۔ (ترمذی ابن ماجہ)

۵۔ حدیث: حضرت اسامہ بن زیدؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”میں نے اپنے بعد کوئی ایسا فتنہ نہیں چھوڑا جو مردوں کے لیے عورتوں سے زیادہ ضرر پہنچانے والا ہو۔“ (بخاری شریف)

۶۔ حدیث: حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”دنیا میٹھی اور سرسبز ہے اور اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں خلافت دینے والا ہے پس دیکھو کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ دنیا سے محتاط ہو اور عورتوں سے محتاط رہو کیونکہ بنی اسرائیل میں جو فتنہ سب سے پہلے آیا وہ عورتوں میں تھا۔“ (مسلم شریف)

۷۔ حدیث: حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کا بیان ہے کہ رسول اللہؐ نے حضرت عثمان بن مظعونؓ کے مجرور بننے کو پسند نہیں فرمایا۔ اگر آپ انہیں اجازت مرحمت فرما دیتے تو ہم اپنے آپ کو نخصی کر لیتے۔ (بخاری شریف)

۸۔ حدیث: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہؐ نے فرمایا جب تمہیں کوئی نکاح کا پیغام دے جس کے دین اور اخلاق سے تم خوش ہو تو اس سے نکاح کر لو اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ برپا ہوگا اور لمبا چوڑا فساد ہوگا۔ (ترمذی)

۹۔ حدیث: حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہؐ نے فرمایا: قسم، عورت، گھوڑا اور

گھوڑے میں ہوتی ہے۔ (مسلم شریف) اور ایک روایت میں ہے کہ نحوست تین چیزوں میں ہوتی ہے۔ عورت زہائش گاہ اور سواری میں۔ (مسلم شریف)

۱۰۔ حدیث: حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم نے نکاح کی طرح دو محبت کرنے والے نہیں دیکھے ہوں گے۔ (مشکوٰۃ شریف)

۲۔ اچھی عورتوں کے خصائل

نکاح میں لانے کے لیے نیک سیرت اور خوبصورت کنواری عورتوں کو منتخب کرنا حضورؐ کی سنت ہے اس لیے رشتہ تلاش کرتے وقت عورت میں یہ خوبیاں مد نظر رکھنی چاہئیں کہ عورت کا چال چلن درست ہو اچھی عقل اور صورت والی ہو اولاد جننے والی ہو یعنی بانجھ نہ ہو۔ کم مہر لینے والی ہو۔ مناسب خرچہ پر گزارہ کرنے والی ہو اور اپنے خاوند سے محبت کرنے والی ہو۔ یہ ایسی خوبیاں ہیں کہ جس عورت میں ہوں گی وہ اچھی بیوی ثابت ہوگی۔ نیک بیوی کے متعلق حضورؐ کے ارشادات مندرجہ ذیل ہیں:

۱۔ حدیث: حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ساری دنیا ہی دولت ہے اور دنیا کی بہترین دولت نیک بیوی ہے۔ (مسلم شریف)

۲۔ حدیث: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا عورتوں کے ساتھ چار وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے۔ اس کے مال اس کے حسب نسب اس کے حسن و جمال اور اس کے دین کے باعث تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں تو دین والی کو ترجیح دے (بخاری شریف)

۳۔ حدیث: حضرت ابو امامہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مومن نے اللہ کے تقویٰ کے بعد نیک بیوی سے بہتر کوئی بھلائی حاصل نہیں کی۔ اگر اسے حکم دے تو اطاعت کرتی ہے۔ اس کی طرف دیکھے تو خوش کرتی ہے اگر اس پر قسم ڈالے تو پورا کر دیتی ہے اور اگر وہ غائب ہو تو جان و مال میں اس کی خیر خواہی کرتی ہے۔ (ابن ماجہ)

۴۔ حدیث: عبدالرحمن بن سالم بن عتبہ بن عویم بن ساعدہ انصاریؓ کے والد ماجد نے ان کے بعد امجد سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کنواری لڑکیوں سے نکاح کیا کرو کیونکہ وہ منہ کی میٹھی زیادہ بچے جننے والی اور تھوڑی چیز پر راضی ہو جانے والی ہوتی ہیں۔

(ابن ماجہ)

۵۔ حدیث: حضرت معقل بن یسارؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا محبت کرنے والی عورت سے نکاح کیا کرو تا کہ میں تمہاری کثرت کے باعث دوسری امتوں پر فخر کروں۔ (ابوداؤد نسائی)

۶۔ حدیث: حضرت جابرؓ کا بیان ہے کہ ایک غزوہ میں ہم نبی کریم ﷺ کے ہمراہ تھے جب ہم کہنے لگے کہ مدینہ منورہ کے قریب آگے تو میں عرض گزار ہوا یا رسول اللہ! مجھے نکاح کیے ہوئے چند روز ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ تم نے نکاح کر لیا؟ عرض کیا ہاں! فرمایا کہ کنواری ہے یا شوہر دیدہ؟ عرض گزار ہوا کہ شوہر دیدہ۔ فرمایا کہ کنواری سے کیوں نہ کی کہ تم اس سے دل بہلاتے اور وہ تم سے؟ جب ہم داخل ہونے ہی والے تھے تو فرمایا۔ ذرا ٹھہرو کیونکہ ہم رات میں یا عشاء کے وقت داخل ہوں گے تا کہ بکھرے ہوئے بالوں والی کنگھی کر لے اور جن کے خاوند موجود نہ تھے وہ موئے زیناف کی صفائی کر لیں۔ (بخاری شریف)

۷۔ حدیث: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا بہترین عورتیں اونٹوں پر سوار ہونے والی ہیں نیک قریش کی عورتیں ہیں جو اپنی اولاد پر ان کے بچپن میں شفقت اور خاوند کا جو مال ان کی تحویل میں ہو اس کی محافظ ہوتی ہیں۔ (مسلم شریف)

۳۔ رشتہ دیکھنا

نکاح کرنے کے لیے ورثاء کے لیے ضروری ہے کہ جب بچہ یا بچی بالغ ہو جائیں تو رشتہ تلاش کریں کیونکہ بیٹا یا بیٹی میں جوان ہونے پر ان کی شادی نہ کرنا گناہ کے زمرے میں شامل ہو جاتا ہے۔ مناسب رشتہ دیکھ کر نکاح کر دینا ضروری ہے۔

۱۔ حدیث: حضرت عمرؓ اور حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تو ریت میں لکھا ہوا ہے کہ جس کی بیٹی بارہ سال کی ہوگئی اور وہ اس کا نکاح نہ کرے۔ اگر وہ گناہ میں مبتلا ہوئی تو گناہ باپ پر ہوگا۔ (بیہقی)

۲۔ حدیث: حضرت ابوسعیدؓ اور حضرت عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس کے گھر لڑکا پیدا ہو تو اس کا اچھا نام رکھے اور اسے ادب سکھائے۔ جب بالغ ہو جائے تو اس کا نکاح کر دے۔ اگر بالغ ہونے پر اس کا نکاح نہ کرے اور اس نے گناہ کیا تو اس کا گناہ اس کے باپ پر ہوگا۔ (بیہقی)

۳۔ حدیث: حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ جب تم میں

سے کوئی کسی عورت کو نکاح کا پیغام دے تو جس کو نکاح کا پیغام دیا ہے اُسے دیکھ سکتا ہے دیکھ لے۔ (ابوداؤد)

۴۔ حدیث: حضرت مغیرہ بن شعبہؓ کا بیان ہے کہ میں نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام دیا تو رسول اللہ ﷺ نے مجھ سے فرمایا کیا تم نے اسے دیکھ لیا ہے؟ عرض گزار ہوا کہ نہیں فرمایا کہ اسے دیکھ لو۔ کیونکہ دیکھنا تم دونوں کے درمیان محبت کا باعث ہوگا۔ (احمد ترمذی دارمی نسائی ابن ماجہ)

۵۔ حدیث: حضرت بریدہؓ کا بیان ہے کہ رسول اللہ نے حضرت علیؓ سے فرمایا کہ اچانک نظر کے بعد دوسری نظر نہ ڈالنا کیونکہ پہلی نظر معاف ہے اور دوسری معاف نہیں ہے (ترمذی)

۶۔ حدیث: حضرت ابو ہریرہؓ کا بیان ہے کہ ایک آدمی نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوا کہ میں ایک انصاری عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ اسے دیکھ لے کیونکہ انصاری آنکھوں میں کچھ خرابی ہوتی ہے۔ (مسلم)

ان احادیث سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ رشتہ کرنے والے طرفین رشتہ دیکھ کر سوچ سمجھ کر کریں۔ والدین جو مناسب سمجھیں کریں مگر رشتہ دیکھتے ہوئے لڑکے اور لڑکی کی رائے معلوم کر لینا بھی ضروری ہے۔

۴۔ ایجاب و قبول

ایجاب اور قبول نکاح کا لازمی حصہ ہے اپنے آپ کو دوسرے کی زوجیت میں دینے کا نام ایجاب ہے اور دوسرے کی طرف سے تسلیم کر لینے کا نام قبول ہے۔ ایجاب و قبول کا صحیح اور مسنون طریقہ یہ ہے کہ ولی عورت سے اجازت لے کر شوہر کو یوں کہے کہ بسم اللہ الحمد للہ! میں نے فلاں عورت کو تیرے نکاح میں بعوض اتنے حق مہر کے وظیفہ زوجیت کے لئے دیا اور جواب میں دولہا کہے کہ میں نے قبول کیا۔ ایجاب و قبول نکاح کا رکن ہے جو کہے وہ ایجاب ہے اور اس کے جواب میں دوسرے کے جواب کو قبول کہا جاتا ہے۔ اس کے متعلق شرعی مسائل مندرجہ ذیل ہیں:

۱۔ مسئلہ: ایجاب و قبول میں ماضی کا صیغہ ہونا ضروری ہے مثلاً یوں کہے کہ میں نے اپنا بیٹا اپنی لڑکی یا اپنی مولا کا تجھ سے نکاح کیا یا ان کو تیرے نکاح میں دیا۔ وہ کہے میں نے اپنے لیے یا اپنے بیٹے یا مولا کے لیے قبول کیا یا ایک طرف سے امر کا صیغہ اور دوسری طرف سے

ماضی کا۔ مثلاً یوں کہے کہ تو مجھ سے اپنا نکاح کر دے یا تو میری عورت ہو جا۔ اس نے کہا میں نے قبول کیا یا زوجیت میں دیا نکاح ہو جائے گا۔ ایک طرف سے حال کا صیغہ ہو دوسری طرف سے ماضی کا۔ مثلاً کہے تو مجھ سے اپنا نکاح کرتی ہے؟ اس نے ہاں کہا کیا تو ہو گیا یا یوں کہ میں تجھ سے نکاح کرتا ہوں۔ اس نے کہا میں نے قبول کیا تو ہو جائے گا۔ ان دونوں صورتوں میں پہلے شخص کو اس کی ضرورت نہیں کہ کہے میں نے قبول کیا۔ اور اگر کہا تو نے اپنی لڑکی کا مجھ سے نکاح کیا؟ اس نے کہا کر دیا یا کہا ہاں! تو جب تک پہلا شخص یہ نہ کہے کہ میں نے قبول کیا نکاح نہ ہوگا اور ان لفظوں سے نکاح کروں گا یا قبول کروں گا نکاح نہیں ہو سکتا۔ (عالمگیری)

۲۔ **مسئلہ:** دونوں موجود ہیں۔ ایک نے ایک پر چہ پر لکھا میں نے تجھ سے نکاح کیا اور دوسرے نے بھی لکھ دیا یا زبان سے کہا۔ میں نے قبول کیا نکاح نہ ہو اور ایک اگر موجود ہے دوسرا غائب اس غائب نے لکھ بھیجا اس موجود نے گواہوں کے سامنے پڑھایا کہا فلاں نے ایسا لکھا۔ میں نے اپنا نکاح اس سے کیا تو ہو گیا اور اگر اس کا لکھا ہوا نہ سنایا نہ بتایا۔ فقط اتنا کہہ دیا کہ میں نے اس سے اپنا نکاح کر دیا تو نہ ہوا۔ ہاں اگر اس میں امر کا لفظ تھا مثلاً تو مجھ سے نکاح کر تو گواہوں کو خط سنانے یا مضمون بتانے کی حاجت نہیں اور اگر موجود نے اس کے جواب میں زبان سے کچھ نہ کہا بلکہ وہ الفاظ لکھ دیے جب بھی نہ ہوا۔ عورت نے مرد سے ایجاب کے الفاظ کہے۔ مرد نے اس کے جواب میں قبول کے لفظ نہ کہے اور مہر کے روپے دے دیے تو نکاح نہ ہوا۔ (روا ملختار)

۳۔ **مسئلہ:** بعض ایسی صورتیں بھی ہیں جن میں ایک ہی لفظ سے نکاح ہو جائے گا۔ مثلاً چچا کی نابالغ لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہے اور ولی یہی ہے تو دو گواہوں کے سامنے اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ میں نے اس سے اپنا نکاح کیا۔ یا لڑکا لڑکی دونوں نابالغ ہیں اور ایک ہی شخص دونوں کا ولی ہے یا مرد و عورت دونوں نے ایک شخص کو وکیل کیا۔ اس ولی یا وکیل نے یہ کہا کہ میں نے فلاں کا فلاں کے ساتھ نکاح کر دیا ہو گیا۔ ان سب صورتوں میں قبول کی کچھ حاجت نہیں۔ (جوہرہ یزہ)

۴۔ **مسئلہ:** یہ اقرار کہ یہ میری عورت ہے نکاح نہیں یعنی اگر پیشتر سے نکاح نہ ہوا تھا تو فقط یہ اقرار نکاح قرار نہ پائے گا۔ البتہ قاضی کے سامنے دونوں ایسا اقرار کریں تو وہ حکم دے دے گا کہ یہ میاں بیوی ہیں۔ اگر گواہوں کے سامنے اقرار کیا گواہوں نے کہا۔ تم دونوں نے

نکاح کیا، کہایاں! تو ہو گیا۔ (درمختار)

۵۔ مسئلہ: عورت سے کہا کہ تو میری ہو گئی، اس نے کہا ہاں! میں تیری ہو گئی۔ یا عورت سے کہا بعوض اتنے کے تو میری عورت ہو گئی۔ اس نے قبول کیا۔ یا عورت نے مرد سے کہا کہ میں نے تجھ سے اپنی شادی کی، مرد نے قبول کیا یا مرد نے عورت سے کہا تو نے اپنے کو میری عورت کیا اس نے کہا کیا، تو ان سب صورتوں میں نکاح ہو جائے گا۔ (بہار شریعت)

۶۔ مسئلہ: ایک شخص نے منگنی کا پیغام کسی کے پاس بھیجا۔ یہ پیغام لے جانے والوں وہاں جا کر کہا تو نے اپنی لڑکی ہمیں دی۔ اس نے کہا دی، نکاح نہ ہوا۔ (عالمگیری)

۷۔ مسئلہ: لڑکے کے باپ نے لڑکی کے باپ کے پاس پیغام دیا۔ اس نے کہا میں تو اس کا فلاں سے نکاح کر دیا ہے۔ اس نے کہا نہیں تو اس نے کہا اگر میں نے اس سے نکاح نہ کیا ہو تو تیرے بیٹے سے کر دیا اس نے کہا میں نے قبول کیا، بعد کو معلوم ہوا کہ اس لڑکی نکاح کسی سے نہیں ہوا تھا تو یہ نکاح صحیح ہو گیا۔ (عالمگیری)

۸۔ مسئلہ: عورت نے مرد سے کہا میں نے تجھ سے اپنا نکاح کیا اس شرط پر کہ مجھے اختیار ہے جب چاہوں اپنے کو طلاق دے لوں، مرد نے قبول کیا تو نکاح ہو گیا اور عورت کو اختیار ہے جب چاہے اپنے کو طلاق دے لے۔ (عالمگیری)

۹۔ مسئلہ: نکاح میں مہر کا ذکر ہو تو ایجاب پورا جب ہوگا کہ مہر بھی ذکر کر لے مثلاً یہ کہن تھا کہ فلاں عورت تیرے نکاح میں دی بعوض ہزار روپے کے اور مہر کے ذکر سے پیشتر ہی اس نے کہا میں نے قبول کی، نکاح نہ ہوا کہ ابھی ایجاب پورا نہ ہوا تھا اور اگر مہر کا ذکر نہ ہوتا تو ہر جاتا۔ (درمختار ردالمحتار)

۱۰۔ مسئلہ: کسی نے لڑکی کے باپ سے کہا کہ میں تیرے پاس اس لیے آیا کہ تو اپنی لڑکی کا نکاح مجھ سے کر دے۔ اس نے کہا میں نے اس کو تیرے نکاح میں دیا، نکاح ہو گیا۔ قبول کی بھی حاجت نہیں بلکہ اسے اب یہ اختیار نہیں کہ قبول نہ کرے۔ (ردالمحتار)

۵۔ اجازت نکاح

نکاح کے لیے لڑکی کی اجازت اور رضا مندی ضروری ہے۔ والدین کی رضا مندی ایک طرح کی لڑکی کی طرف سے رضا مندی کہلاتی ہے مگر اس کے باوجود جس لڑکی کا نکاح ہو اسے آگاہ کرنا چاہیے۔ کیونکہ شرعاً عورت کی اجازت اور رضا مندی کے بغیر نکاح کر دیا جائے تو نکاح

نہیں ہوگا۔ لڑکی کو جب یہ بتلایا جائے کہ تمہارا نکاح فلاں سے کیا جائے اگر وہ خاموش رہے تو اس کی خاموشی رضامندی کے مترادف تصور کی جائے گی۔ نکاح سے پہلے عورت کی رضامندی حاصل کرنے کے بارے میں حضور ﷺ کے ارشادات حسب ذیل ہیں:

۱۔ **حدیث:** حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا بیوہ ولی کی نسبت اپنے نفس کی زیادہ حقدار ہے اور کنواری سے اس کی ذاتی رائے لی جائے گی اور خاموشی اس کی اجازت ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ شوہر دیدہ اپنے نفس کا ولی سے زیادہ حق رکھتی ہے اور کنواری سے اس کا باپ اس کی ذاتی رائے لے گا اور خاموش ہو جانا اس کا اجازت دینا ہے۔ (مسلم شریف)

۲۔ **حدیث:** حضرت خساء بنت خزام کا بیان ہے کہ جب وہ بیوہ تھیں تو ان کے والد ماد نے ان کا نکاح کر دیا اور وہ اسے ناپسند کرتی تھیں۔ پس وہ رسول اللہ ﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئیں اور آپ نے اس نکاح کو رد فرما دیا۔ (بخاری)

۳۔ **حدیث:** حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ یتیم لڑکی سے اس کی ذاتی مرضی دریافت کی جائے اگر وہ خاموش رہے تو یہ اس کی اجازت ہے اگر وہ انکار کرے تو اس پر جبر کرنا جائز نہیں۔ (ترمذی نسائی)

اجازت نکاح کے متعلق شرعی مسائل مندرجہ ذیل ہیں:

۱۔ **مسئلہ:** عورت بالغ عاقلہ کا نکاح بغیر اس کی اجازت کے کوئی نہیں کر سکتا۔ نہ باپ نہ کوئی اور کنواری ہو یا بیانیہ یونہی مرد عاقل بالغ آزاد کا نکاح اس کی مرضی کے برخلاف کوئی نہیں کر سکتا۔ (عائلیہ کی۔ درمختار)

۲۔ **مسئلہ:** کنواری عورت سے اس کے ولی یا ولی کے وکیل یا قاصد نے اذن مانگا یا ولی نے بلا اجازت نکاح کر دیا اور اب عورت کو اس کی خبر دی گئی اور عورت خاموش رہی یا ہنسی یا مسکرائی یا بغیر آواز کے رونی تو ان سب صورتوں میں اذن سمجھا جائے گا کہ پہلی صورت میں نکاح کر دینے کی اجازت ہے اور دوسری صورت میں نکاح کیا ہوا منظور ہے۔ (درمختار)

۳۔ **مسئلہ:** اذن طلب کرتے وقت اس نے سن کر کچھ جواب نہ دیا اس لیے کہ اسے حائض یا چھینک آگئی یا کسی نے اس کا منہ بند کر دیا کہ بول نہ سکی تو ان صورتوں میں وہ چپ بنا اجازت نہیں اس کے بعد وہ رد کر سکتی ہے اور غصہ اگڑا طور مذاق اڑانے کے ہو یا رونا آواز سے نہ تو اذن نہیں۔ (عائلیہ کی)

۴۔ **مسئلہ** ولی کی عورت سے خود اپنا نکاح کرنا چاہتا ہے اور اجازت لینے سے یہ اور اس کی خاموشی اختیار کی تو یہ اجازت ہے۔ اور اگر نکاح کرنے کے بعد اسے خبر ہوئی اور عورت نے خاموشی اختیار کی تو یہ اجازت نہ ہوگی۔ (درمختار)

۵۔ **مسئلہ** اذن لینے میں یہ ضروری ہے کہ جس سے نکاح کرنا ہو اس کا نام لیا جائے اور وہ عورت کو جانے کہ وہ عورت اس مرد کو پہچان سکے۔ اور بہتر یہ ہے کہ اذن لینے کے وقت مرد کو بھی خبر ہو جائے۔ (درمختار)

۶۔ **مسئلہ** ولی نے نکاح کر دیا یا عورت کو خبر پہنچی اس نے سکوت کیا مگر اس وقت شہر چکا تھا تو یہ اذن نہیں اور اگر شوہر کے مر جانے کے بعد ہوتی ہے کہ میرے اذن سے باپ نے اس سے نکاح کیا اور شوہر کے ورثہ انکار کریں تو عورت کا قول مانا جائے وراثت ہوگی اور عدت واجب۔ اور اگر عورت نے یہ بیان کیا کہ میرے اذن کے بغیر نکاح ہو گیا مگر جب نکاح کی خبر پہنچی۔ میں نے نکاح کو جائز کیا تو اب ورثہ کا قول معتبر ہے اور پانے کی نہ میراث رہا یہ کہ عدت گزارے گی یا نہیں۔ اگر واقع میں سچی ہے تو عدت گزارے گی ورنہ نہیں مگر نکاح کرنا چاہے تو عدت تک روکی جائے گی کہ جب اس نے اپنا نکاح کر لیا تو اب بغیر عدت کیوں نکاح کرے گی۔ (عائلیہ کی۔ درمختار رد المحتار)

۷۔ **مسئلہ** کسی خاص کی نسبت عورت سے اذن مانگا اس نے انکار کر دیا مگر ولی نے نکاح کر دیا اب خبر پہنچی اور ساکت رہی تو یہ اذن ہو گیا اور اگر کہا کہ میں تو پہلے ہی سے نکاح نہیں چاہتی ہوں تو یہ رد ہے اور اگر جس وقت خبر پہنچی انکار کیا پھر بعد ورنہ یہ نکاح جائز نہ ہوا۔ (درمختار رد المحتار)

۸۔ **مسئلہ** عورت سے اذن لینے گئے اس نے کہا کسی اور سے ہوتا تو بہتر تھا تو یہ اور اگر نکاح کے بعد خبر دی گئی اور عورت نے وہی لفظ کہے تو قبول سمجھا جائے گا (درمختار)

۹۔ **مسئلہ** اذن لینے میں یہ بھی ضروری ہے کہ جس سے نکاح کرنے کا ارادہ ہوا اس طرح لیا جائے جس کو وہ عورت جان سکے۔ اگر یوں کہا کہ ایک مرد سے تیرا نکاح یا یوں کہ فلاں قوم کے ایک شخص سے نکاح کر دوں تو یوں اذن نہیں ہو سکتا اور اگر یوں فلاں یا فلاں سے تیرا نکاح کر دوں اور عورت نے سکوت کیا تو اذن ہو گیا ان دونوں ایک سے چاہے کر دے یا یوں کہا کہ پڑوس والوں میں سے کسی سے نکاح کر دوں کیا اور دونوں صورتوں میں ان کا بہت کو چاہتا بھی ہو تو اذن ہو گیا ان میں سے جس

کرے گا ہو جائے گا اور سب کو جانتی نہ ہو تو اذن نہیں۔ (در مختار رد المحتار)

۱۰۔ مسئلہ: اجازت جس طرح قول سے ہوتی ہے مثلاً عورت خبر نکاح سن کر کہے میں نے جائز کیا یا اجازت دے دی یا راضی ہوئی یا مجھے قبول ہے یا اچھا کیا یا خدا مبارک کرے وغیرہ الفاظ رضا۔ یونہی اس فعل یا حال سے بھی ہو جاتی ہے جس سے رضا مندی سمجھی جائے مثلاً عورت مبارکباد لے یا خبر نکاح سن کر خوشی سے ہنسے یا مسکرائے وغیرہ وغیرہ (فتاویٰ رضویہ)

۶۔ نکاح کا ولی

ولی سے مراد وہ شخص ہے جسے لڑکے یا لڑکی کا نکاح کرنے کا اختیار ہو۔ ولی کے لیے عاقل اور بالغ ہونا ضروری ہے اس لیے بچہ اور مجنون ولی نہیں ہو سکتا۔ مسلمان کے نکاح میں ولی کا مسلمان ہونا بھی ضروری ہے۔ کوئی غیر مسلم مسلمان کا ولی نہیں ہو سکتا۔ ولی بننے کے چار اسباب ہیں۔ جن میں پہلا سبب رشتہ داری ہے جیسا کہ باپ کا بیٹی کا نکاح کر سکتا ہے۔ دوسرا سبب ملک یعنی ملکیت ہے تیسرا سبب ولا ہے اور چوتھا سبب حاکمیت ہے یعنی کوئی حاکم لا وارث کا نکاح کر دے۔ نکاح کے لیے ولی کو لازم قرار دیا گیا ہے۔ اس کے متعلق حضور ﷺ کے ارشادات حسب ذیل ہیں:

۱۔ حدیث: حضرت ابو موسیٰؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا ولی کے بغیر نکاح نہیں ہے۔ (احمد ترمذی، ابوداؤد، ابن ماجہ، دارمی)

۲۔ حدیث: حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس عورت نے اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کیا تو اس کا نکاح باطل ہے اس کا نکاح باطل ہے اس کا نکاح باطل ہے۔ اگر مرد نے اس سے صحبت کر لی تو عورت کو اتنا مہر ملے گا کہ جتنا اس کی شرمگاہ سے فائدہ اٹھایا ہے۔ اگر لوگ اختلاف کریں تو جس کا کوئی ولی نہ ہو اس کا ولی سلطان ہے۔ (احمد)

۳۔ حدیث: حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ ایک کنواری لڑکی نے رسول اللہ ﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ذکر کیا کہ اس کے والد ماجد نے اس کا نکاح کر دیا جس کو وہ ناپسند کرتی ہے۔ پس نبی کریم ﷺ نے اس کو اختیار دیا۔ (ابوداؤد)

۴۔ حدیث: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کوئی عہدت

جو اپنا نکاح خود کرتی ہے۔ (ابن ماجہ)

۵۔ حدیث: حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا جو غلام اپنے آقا کی اجازت کے بغیر نکاح کرے تو وہ بدکار ہے۔ (ترمذی، ابوداؤد، دارمی)

نکاح کی ولایت کے متعلق شرعی مسائل حسب ذیل ہیں:

۱۔ مسئلہ: اولاد کا سب سے پہلا ولی ان کا والد ہے اگر باپ نہ ہو تو دادا، وہ نہ ہو تو پردادا، اگر یہ لوگ کوئی نہ ہوں تو سگا بھائی، سگا بھائی نہ ہو تو سوتیللا بھائی یعنی باپ شریک بھائی، پھر بھتیجا، پھر بھتیجے کا لڑکا، پھر بھتیجے کا پوتا، یہ لوگ نہ ہوں تو سگا چچا، پھر سوتیللا چچا یعنی باپ کا سوتیللا بھائی، پھر سگے چچا کا لڑکا، پھر اس کا پوتا، پھر سوتیلے چچا کا لڑکا، پھر اس کا پوتا، یہ کوئی نہ ہوں تو باپ کا چچا ولی ہے، پھر اس کی اولاد، اگر باپ کا چچا پھر اس کے لڑکے پوتے پر پوتے کوئی نہ ہوں تو دادا کا چچا، پھر اس کے لڑکے پوتے پر پوتے وغیرہ یہ کوئی نہ ہوں تب ماں ولی ہے، پھر دادوی پھر نانی پھر نانا پھر حقیقی بہن پھر سوتیلی بہن جو باپ شریک ہو پھر جو بھائی بہن ماں شریک ہوں، پھر پھوپھی پھر ماموں پھر خالہ وغیرہ۔ (کتاب النکاح من الہدایہ)

۲۔ مسئلہ: نکاح کے سلسلے میں بالغ عورت پر ولی اپنی رائے زبردستی نہیں ٹھونس سکتا وہ خود مختار ہے جس سے چاہے نکاح کرے۔ اگر اس نے ولی کی اجازت کے بغیر اپنی مرضی سے کسی کے ساتھ نکاح کر لیا تو اس طرح نکاح تو ہو گیا لیکن اس کے ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ خاوند اس کا کفو ہو یعنی اس کی حیثیت سے کم حیثیت والا نہ ہو۔ نسب، چال چلن، سیرت میں اتنا کم نہ ہو کہ اس کے ساتھ اس کا نکاح ہو جانا عورت کے خاندان کے شایان شان نہ ہو اگر ایسا ہے تو وہ نکاح درست نہ ہوگا۔ اگر نکاح تو اپنے کفو یعنی اپنی حیثیت کے مطابق والے سے کیا لیکن اس کے اپنے خاندان کے مطابق مہر مقرر نہیں کیا گیا تو اس نکاح کو ولی منسوخ کروا سکتا ہے۔ (در مختار)

۳۔ مسئلہ: نابالغ نے اپنا نکاح خود کیا اور نہ اس کا ولی ہے نہ وہاں حاکم تو یہ نکاح موقوف ہے۔ بالغ ہو کر اگر جائز کر دے گا ہو جائے گا اور اگر نابالغ نے بالغ عورت سے نکاح کیا پھر غائب ہو گیا پھر عورت نے دوسرا نکاح کیا اور نابالغ نے بلوغ کے وقت نکاح جائز کر دیا تھا اگر دوسرا نکاح اجازت سے پہلے کیا تو دوسرا ہو گیا اور بعد میں کیا تو نہیں بلکہ اب اس کی جدید اجازت درکار ہے۔ (در مختار رد المحتار)

۴۔ مسئلہ: قریبی ولی غائب ہونے کی صورت میں دور والا ولی اگر نکاح کر دے تو نکاح

صحیح ہوگا اور اگر اس کی موجودگی میں نکاح کیا تو اس کی اجازت پر موقوف ہے۔ محض اس کا سکوت کافی نہیں بلکہ صاحبایا وکالتا اجازت کی ضرورت ہے یہاں تک کہ قریبی ولی مجلس میں موجود ہو تو یہ ہی اجازت نہیں اور اگر اس قریبی ولی نے نہ اجازت دی تھی نہ رد کیا اور مرگیا یا غائب ہو گیا کہ اب ولایت اسی دور والے کو پہنچی تو وہ قبل میں اس کا نکاح کر دینا اجازت نہیں بلکہ اب اس کی جدید اجازت درکار ہے۔ (در مختار رد المحتار)

۵۔ مسئلہ: ولی کے غائب ہونے سے مراد یہ ہے کہ اگر اس کا انتظار کیا جائے تو وہ جس نے پیغام دیا ہے اور کفو بھی ہے ہاتھ سے جاتا رہے گا۔ اگر ولی قریب مفقود الخمر ہو یا کہیں دور رہ کر تا ہو کہ اس کا پتہ معلوم نہ ہو یا وہ ولی اسی شہر میں چھپا ہوا ہے مگر لوگوں کو اس کا حال معلوم نہیں اور دورہ کے ولی نے نکاح کر دیا اور وہ اب ظاہر ہوا تو نکاح صحیح ہو گیا۔ (خانہ وغیرہ)

۶۔ مسئلہ: نابالغہ کا انکار و اقرار کوئی چیز نہیں ان کے حق میں مسنون طریقہ یہ ہے کہ اولیاء خود ایجاب و قبول کریں یا ان کی اجازت سے ان کے وکیل نابالغوں سے ایجاب و قبول کہلوانے کی ضرورت نہیں۔ اگرچہ وہ بات سمجھتے اور الفاظ و معنی کا قصد کر سکتے ہوں۔ تاہم اگر ولی کی اجازت سے ہے تو نافذ بھی ہے ورنہ اجازت ولی پر موقوف ہے جبکہ کوئی مانع شرعی نہ ہو۔ (فتاویٰ رضویہ وغیرہ)

۷۔ مسئلہ: نابالغ لڑکا اور لڑکی اگرچہ شیب ہو ان کے نکاح ان کے ولی کو ولایت اجبار حاصل ہے یعنی اگرچہ یہ لوگ نہ چاہیں ولی نے جب نکاح کر دیا تو ہو گیا۔ پھر اگر باپ دادا نے نکاح کر دیا ہے تو اگرچہ مہر مثل سے بہت کم یا زیادہ پر کیا یا غیر کفو سے کیا جب بھی ہو جائے گا بلکہ لازم ہو جائے گا کہ ان کو بالغ ہونے کے بعد اس نکاح کو توڑنے کا اختیار نہیں اور اگر باپ دادا کے سوا کسی اور نے کیا ہے اور غیر کفو یا مہر مثل میں زیادہ کمی بیشی کے ساتھ ہو تو مطلقاً صحیح نہیں اور اگر کفو سے مہر مثل سے کیا ہے تو صحیح ہے مگر بالغ ہونے کے بعد فسخ کا اختیار ہوگا۔ اگرچہ خلوت بلکہ وطی ہو چکی ہو۔ (در مختار وغیرہ)

۷۔ گواہان نکاح

شریعت کے طریقہ نکاح میں دو آزاد عاقل بالغ اور مسلمان گواہوں کا ہونا ضروری ہے ان کی گواہی کے بغیر نکاح نہ ہوگا۔ گواہی کے متعلق حضور ﷺ کے ارشادات حسب ذیل ہیں:

۱۔ حدیث: حضور ﷺ نے فرمایا ہے کہ جو ہر تین گواہوں کے بغیر نکاح کر لیتی ہیں وہ زنا

کرنے والی ہیں۔ (ترمذی شریف)

۲۔ حدیث: حضور ﷺ نے فرمایا ہے کہ ولی اور دو نیک سچے گواہوں کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا۔ (بیہقی)

۳۔ حدیث: حضور ﷺ نے فرمایا ہے کہ نکاح میں چار چیزیں ہونا ضروری ہیں: ولی زوج، دو گواہ ایجاب و قبول۔ (دارقطنی)

۱۔ مسئلہ: نکاح کے لیے کم از کم دو عاقل بالغ گواہوں کی گواہی یا ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی ضروری ہے یعنی ان کے سامنے نکاح کیا جائے۔ گواہوں کا مسلمان ہونا بھی شرط ہے لہذا مسلمان عورت کا نکاح غیر مسلم گواہوں کی شہادت سے نہیں ہوگا۔ (عین الہدیہ)

۲۔ مسئلہ: اگر نکاح کے وقت مرد کوئی نہ ہو بلکہ عورتیں ہی عورتیں ہوں خواہ تعداد میں کتنی ہوں ان کی گواہی سے نکاح نہیں ہوگا۔ کیونکہ دو عورتوں کی گواہی کے ساتھ شریعت کی رو سے ایک مرد کی گواہی ضروری ہے اگر ان عورتوں میں صرف ایک مرد گواہی دیدے تو نکاح ہو جائے گا۔ (عین الہدیہ)

۳۔ مسئلہ: دو مسلمان گواہ تو موجود ہوں لیکن ایک ان میں بالغ اور ایک نابالغ ہو تو ان کی شہادت سے نکاح نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک مرد اور دو عورتوں کی موجودگی میں نکاح ہو مگر وہ عورتیں بالغ نہ ہوں تو ان کی گواہی قابل قبول نہ ہوگی۔ اور نکاح درست نہ ہوگا۔ (عالمگیری)

۴۔ مسئلہ: اگر گواہ بیٹھے ہوئے یا لیٹے ہوئے سو رہے ہوں اور ان کی موجودگی میں نکاح ہوا تو نکاح نہ ہوگا کیونکہ گواہان کا ہوش اور عقل کے ساتھ نکاح کو ہوتے ہوئے دیکھنا اور سننا ضروری ہے۔ ایسے ہی اگر گواہ بہرے ہوں اور ان کی موجودگی میں نکاح کیا گیا تو نکاح نہ ہوگا کیونکہ انہوں نے نکاح کے الفاظ نہیں سنے۔ ایسے ہی ایک گواہ سننے والا ہو اور ایک بہرا ہو بہرے نے نکاح کے الفاظ نہ سنے تو نکاح نہیں ہوگا۔ (بہار شریعت)

۵۔ مسئلہ: اگر گواہان ایسے ہوں جو زبان نہ جانتے ہوں یعنی غیر ملکی ہوں مگر مسلمان ہوں اور ان کی موجودگی میں نکاح ہوا اور ان کے شعور میں ہو کہ نکاح ہوا ہے اور انہوں نے نکاح کے الفاظ بھی سنے لیے تو اس صورت میں نکاح ہو جائے گا۔ (فتاویٰ عالمگیری)

۶۔ مسئلہ: ایک شخص نے کسی سے کہا کہ میری نابالغ لڑکی کا نکاح فلاں سے کر دے اس نے ایک گواہ کے سامنے کر دیا۔ اگر لڑکی کا باپ بوقت نکاح موجود تھا تو نکاح ہو گیا کہ وہ دونوں گواہ ہو جائیں گے اور باپ عاقد اور موجود نہ تھا تو نہ ہوا۔ یونہی اگر بالغ کا نکاح اس کی

اجازت سے باپ نے ایک شخص کے سامنے پڑھایا اگر لڑکی وقت عقد موجود تھی ہو گیا۔ ورنہ نہیں۔ یونہی اگر عورت نے کسی کو اپنے نکاح کا وکیل کیا اس نے ایک شخص کے سامنے پڑھا دیا تو اگر مؤکلہ موجود ہے تو ہو گیا ورنہ نہیں۔ خلاصہ یہ کہ مؤکلہ اگر بوقت عقد موجود ہے تو اگرچہ وکیل عقد کر رہا ہے مگر مؤکلہ عاقد قرار پائے گا اور وکیل گواہ مگر یہ ضرور ہے کہ گواہی دیتے وقت اگر وکیل نے کہا کہ میں نے پڑھایا ہے تو شہادت نامقبول ہے کے یہ خود اپنے فعل کی شہادت ہوئی (درمختار)

۷۔ مسئلہ: کسی نے اپنی بالغ لڑکی کا نکاح اس کی اجازت سے کر دیا اور اپنے بیٹوں کو گواہ بنایا اب لڑکی کہتی ہے کہ میں نے اذن نہیں دیا اور اس کا باپ کہتا ہے کہ دیا تو لڑکوں کی گواہی کہ اذن دیا تھا مقبول نہیں۔ (بہار شریعت)

۸۔ مسئلہ: گواہوں کا ایجاب و قبول کے وقت موجود ہونا شرط ہے لہذا اگر نکاح اجازت پر موقوف ہے اور ایجاب و قبول گواہوں کے سامنے ہوئے اور اجازت کے وقت نہ تھے تو ہو گیا اور اس کی عکس ہوا تو نہیں۔ (فتاویٰ عالمگیری)

۹۔ مسئلہ: عورت سے اذن لیتے وقت گواہوں کی ضرورت نہیں یعنی اس وقت اگر گواہ نہ بھی ہوں اور نکاح پڑھاتے وقت ہوں تو نکاح ہو گیا البتہ اذن کے لیے گواہوں کی یوں حاجت ہے کہ اگر اس نے انکار کر دیا اور یہ کہا کہ میں نے اذن نہیں دیا تھا تو اب گواہوں سے اس کا اذن دینا ثابت کیا جائے گا۔ (عالمگیری، روالختار)

۱۰۔ مسئلہ: گواہ اسی کو نہیں کہتے جو دو شخص مجلس عقد میں مقرر کر لیے جاتے ہیں۔ بلکہ وہ تمام حاضرین گواہ ہیں جنہوں نے ایجاب و قبول سنا اگر قابل شہادت ہوں۔ ایک گھر میں نکاح ہوا اور یہاں گواہ نہیں۔ دوسرے مکان میں کچھ لوگ ہیں جن کو انہوں نے گواہ نہیں بنایا۔ مگر وہ وہاں سے سن رہے ہیں اگر وہ لوگ انہیں دیکھ بھی رہے ہوں تو ان کی گواہی مقبول ہے ورنہ نہیں۔ (فتاویٰ عالمگیری)

۸۔ وکالت نکاح

نکاح کے سلسلے میں جس شخص کو نکاح کر دینے کی اجازت دی جاتی ہے اسے وکیل کہا جاتا ہے۔ اجازت دینے والے کو مؤکل کہا جاتا ہے اگر عورت اجازت دے گی تو مؤکلہ کہلائے گی۔ وغیرہ اجازت کے نکاح کر دینے والے کو فضولی کہا جاتا ہے۔ فضولی کا نکاح اجازت پر مبنی ہوتا

ہے۔ البتہ وکیل کا کیا ہوا نکاح ہو جاتا ہے اس کے متعلق شرعی مسائل مندرجہ ذیل ہیں:

۱۔ **مسئلہ:** عورت نے کسی کو وکیل بنایا کہ جس سے چاہے میرا نکاح کر دے تو وکیل خود اپنے نکاح میں اسے نہیں لاسکتا۔ یونہی مرد نے عورت کو وکیل بنایا تو وہ عورت اپنا نکاح اس سے نہیں کر سکتی۔ (عالمگیری)

۲۔ **مسئلہ:** مرد نے عورت کو وکیل کیا کہ تو اپنے ساتھ میرا نکاح کر دے یا عورت نے مرد کو وکیل کیا کہ میرا نکاح اپنے ساتھ کر دے اس نے کہا میں نے فلاں مرد (مؤکل کا نام لے کر) یا فلاں عورت (مؤکلہ کا نام لے کر) اپنا نکاح کیا تو نکاح ہو گیا قبول کی بھی حاجت نہیں۔ (عالمگیری)

۳۔ **مسئلہ:** کسی کو وکیل کیا کہ فلاں عورت سے اتنا مہر پر میرا نکاح کر دے وکیل نے اس مہر پر اپنا نکاح اس عورت سے کر لیا تو اسی وکیل کا نکاح ہوا۔ پھر وکیل نے اسے مہینے بھر رکھ کر دخول کے بعد اسے طلاق دے دی اور عدت گزرنے پر مؤکل سے نکاح کر دیا تو مؤکل کا نکاح جائز ہو گیا۔ (عالمگیری)

۴۔ **مسئلہ:** عورت نے اپنے کاموں میں تصرفات کا کسی کو وکیل کیا اس نے اس وکالت کی بنا پر اپنے نکاح اس سے کر لیا عورت کہتی ہے کہ میں نے تو خرید و فروخت کے لیے وکیل بنایا تھا نکاح کا وکیل نہیں کیا تھا تو یہ نکاح صحیح نہ ہوا کہ اگر نکاح کا وکیل ہوتا بھی تو اسے کب اختیار تھا کہ اپنے ساتھ نکاح کر لے۔ (عالمگیری)

۵۔ **مسئلہ:** وکیل سے کہا کہ فلاں عورت سے میرا نکاح کر دے اس نے دوسری سے کر دیا۔ یا حرہ سے کرنے کو کہا تھا۔ باندی سے کر دیا۔ یا باندی سے کرنے کو کہا تھا آزاد عورت سے کیا۔ یا جتنا مہر بتا دیا تھا اس سے زیادہ باندھا۔ یا عورت نے نکاح کا وکیل کر دیا تھا اس نے غیر کفو سے نکاح کر دیا ان سب صورتوں میں نکاح صحیح نہ ہوا۔ (در مختار رد المحتار)

۶۔ **مسئلہ:** عورت نے نکاح کا کسی کو وکیل بنایا پھر اس نے بطور خود نکاح کر لیا۔ تو وکیل کی وکالت جاتی رہی۔ وکیل کو اس کا علم ہو یا نہ ہو۔ اور اگر اس نے وکالت سے معزول کیا تو جب تک وکیل کو اس کا علم نہ ہو معزول نہ ہوگا۔ یہاں تک کہ معزول کرنے کے بعد وکیل کو علم نہ ہوا تھا اس نے نکاح کر دیا تو ہو گیا اور اگر مرد نے کسی عورت سے نکاح کا وکیل کیا تھا پھر مؤکل نے اس عورت کی ماں یا بیٹی سے نکاح کر لیا تو وکالت ختم ہو گئی۔ (عالمگیری)

۷۔ **مسئلہ:** جس کے نکاح میں چار عورتیں موجود ہیں اس نے نکاح کا وکیل کیا تو یہ

وکالت معطل رہے گی۔ جب ان میں سے کوئی بائن ہو جائے اس وقت وکیل اپنی وکالت سے کام لے سکتا ہے۔ (عالمگیری)

۹۔ کفو یعنی معاشرتی حیثیت

کفو کا مطلب برابری اور مثل کے ہیں یعنی لڑکے اور لڑکی کی ذاتی اور معاشرتی حیثیت ایک دوسرے کے ہم پلہ ہو اس لیے نکاح کرتے وقت کفایت یعنی برابری کے درجے کو ملحوظ رکھنے کو ضروری قرار دیا گیا ہے۔ حضور ﷺ کا ارشاد ہے کہ عورتوں کے نکاح ان کے جائز ولی ہی کریں مگر نکاح کرتے وقت کفو کا خیال رکھیں۔ (عین الہدیہ)

خوشحال ازواجی زندگی اسی صورت میں ہو سکتی ہے جبکہ فریقین ہم کفو ہوں۔ شریف گھر کی عورت اپنے گھر جیسی حیثیت کے گھر میں جائے یعنی شادی کرتے وقت جوڑ کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ بے جوڑ شادی عموماً بربادی کا پیش خیمہ ثابت ہوتی ہے کفو سے متعلقہ مسائل مندرجہ ذیل ہیں:

مسئلہ: کفایت یعنی رشتہ کرنے میں برابری کے اختیار میں چھ خوبیوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے:

- | | | |
|----------|-----------|----------------------------------|
| (۱) نسبت | (۲) اسلام | (۳) حرمت |
| (۴) حریت | (۵) دیانت | (۶) مال یعنی نسب میں برابر ہونا۔ |

مسلمان ہونا، برسر روزگار ہونا، آزاد ہونا، مالدار ہونا اور دیندار ہونے کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہئے۔ اس لیے لڑکی کا جس مرد سے نکاح کے باعث عورت کے متعلقین کو دنیاوی اعتبار سے احساس کمتری پیدا ہو دوران کے لیے باعزت رہنا مشکل ہو جائے بلکہ خود عورت کے حق میں اس کا خاوند پریشانی کا باعث بن جائے۔ (فتاویٰ عالمگیری)

۱۔ نسب میں برابری: کفایت میں سب سے پہلے نسب کا اعتبار کیا جاتا ہے کیونکہ نسب ہی فخر کا باعث بنتا ہے لہذا نسب میں برابر یہ ہے کہ قریشی، ہاشمی اور سید سب برابر کے نسب ہیں۔ کوئی غیر قریشی، قریش کا کفو نہیں۔ قریش کے علاوہ تمام قومیں ایک دوسرے کا کفو ہیں۔ انصار اور مہاجرین سب برابر ہیں نسب میں اعتبار باپ کا ہے مال کا نہیں، اگر باپ سید ہے تو بیٹا بھی سید ہے۔

۲۔ اسلام میں برابری: جو خود مسلمان ہو یعنی اس کے باپ دادا مسلمان نہ تھے وہ

اس کا کفو نہیں جس کا باپ مسلمان ہو اور جس کا صرف باپ مسلمان ہو اور اس کا کفو نہیں جس کا دادا بھی مسلمان ہو۔ اور باپ دادا دو پشت سے اسلام قبول ہو تو اب دوسری طرف اگر چہ زیادہ پشتوں سے اسلام ہو کفو ہیں۔ مگر باپ دادا کے اسلام کا اعتبار غیر عرب میں ہے۔ عربی کے لیے خود مسلمان ہونا باپ دادا سے اسلام چلا آتا ہو۔ سب برابر ہیں مرد اگر اسلام لایا تو وہ اس مسلمان کا کفو ہے جو مرد نہ ہوا تھا۔ (درمختار)

۳۔ **پیشہ میں برابری:** بعض پیشے اچھے تصور کیے جاتے ہیں اور بعض کم درجے کے خیال کیے جاتے ہیں۔ زراعت، تجارت، کارخانہ داری ملازمت اچھے پیشے ہیں۔ ایسے ہی درس و تدریس کا پیشہ یا سکول کالج میں معلمی کا پیشہ، حکمت اور ڈاکٹری کا پیشہ وغیرہ۔ اس کے برعکس محنت مزدوری، نانائی، دھوبی، تیلی، بڑھئی وغیرہ کے پیشے اچھے خیال نہیں کیے جاتے۔ بہر کیف رشتہ داری کرتے وقت پیشہ میں برابری کا خیال کرنا بھی ضروری ہے۔

۴۔ **آزادی میں برابری:** غلامی کا تصور آج کل نہیں بلکہ ہر شخص آزاد ہی ہے لیکن اس کے باوجود بعض علاقے ایسے ہیں جہاں دوسری قوموں نے مسلمانوں کو ماتحت کر رکھا ہے۔ بہر کیف آزاد مرد کا نکاح آزاد عورت سے کرنا چاہیے لہذا کوئی غلام آزاد عورت کا کفو نہیں۔ نو آزاد شدہ پشت در پشت آزاد آدمی کے برابر نہیں۔ بہر کیف حریت کا مطلب یہی ہے۔ مرد اور عورت آزاد ہوں یعنی کسی کے غلام نہ ہوں۔

۵۔ **دیانت میں برابری:** دیانت سے مراد اچھا کردار اور سیرت ہے لہذا نیک متقی اور پرہیزگار لوگ بدکاروں کے کفو نہیں۔ اور رشتہ داری کرتے وقت اس امر کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ بڑے لوگوں کے نکاح میں اچھی عورتیں نہ دی جائیں۔ اچھے کردار کی عورت کے لیے نیک سیرت رشتہ ہی تلاش کرنا چاہیے۔

۶۔ **مالداری میں برابری:** مالداری میں برابری کے معنی یہ ہیں کہ بالکل مفلس، امیر عورت کے برابر نہیں۔ لہذا مال میں کفایت کے یہ معنی ہیں کہ مرد کے پاس اتنا مال ہو کہ مہر معجل اور نفقہ دینے پر قادر ہو، اگر پیشہ نہ کرتا ہو تو ایک ماہ کا نفقہ دینے پر قادر ہو، ورنہ روز کی مزدوری اتنی ہو کہ عورت کے روزانہ کی ضروری مصارف روز دے سکے۔ اس کی ضرورت نہیں کہ مال میں اس کے برابر ہو۔ مرد کے پاس مال ہے مگر جتنا مہر ہے اتنا ہی اس پر قرض ہے اور مال اتنا ہے کہ قرض ادا کرے یا دین مہر تو کفو ہے۔ (ردالمحتار)

عورت محتاج ہے اور اس کے باپ دادا بھی ایسے ہی ہیں تو اس کا کفو بھی بحیثیت مال وہی ہوگا کہ مہر معجل اور نفقہ دینے پر قادر ہو۔ مالدار شخص کا نابالغ لڑکا اگرچہ وہ خود مال کا مالک نہیں مگر مالدار قرار دیا جائے گا کہ چھوٹے بچے باپ دادا کے نمول سے غنی کہلاتے ہیں۔ (بہار شریعت)

۱۔ **مسئلہ:** مرد اگر معمولی عورت سے شادی کرے جو اس کے برابر نہ ہو تو اس پر اعتراض نہ ہوگا کیونکہ خاوند کو شریعت نے بہر حال فوقیت دی ہے لہذا بیوی کا کم درجہ ہونا بھی اس کے لیے باعث نفرت نہیں ہوگا اگر کوئی عورت غیر کفو مرد کے ساتھ نکاح کرے تو ولی کو حق حاصل ہے کہ دونوں میں فیصلہ کروادے۔

۲۔ **مسئلہ:** کفایت میں شہری اور دیہاتی کا امتیاز نہیں اور نہ ہی حسن و جمال کا اعتبار ہے لیکن نکاح کرتے وقت والدین کو اس بات کا خیال بھی رکھنا چاہیے تاکہ بعد میں خرابی پیدا نہ ہو۔

۳۔ **مسئلہ:** کسی نے اپنا نسب چھپایا اور کوئی دوسرا نسب بتا دیا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ یہ تو کم درجے کا تھا تو عورت اور اس کے ورثاء کو حق پہنچتا ہے کہ نکاح کو منسوخ کروالیں۔

۴۔ **مسئلہ:** عورت نے شوہر کو دھوکا دیا اور اپنا نسب دوسرا بتایا تو شوہر کو حق فسخ ہے۔ چاہے رکھے چاہے طلاق دے دے۔

۱۰۔ مہر

نکاح کرنے پر جو خاص مقررہ مال یا رقم عورت کو دی جاتی ہے اسے مہر کہا جاتا ہے۔ مہر اصل اس مال کا نام ہے جو عورت کو نکاح کے عوض میں دیا جاتا ہے۔ مہر میں ہر وہ جائز چیز دی جاسکتی ہے جو اپنے اندر مالیت رکھتی ہو چنانچہ نقدی مال تجارت، جائداد، کمپنی کے حصص وغیرہ بھی مہر میں دیے جاسکتے ہیں۔ مہر کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَكْفُرُوا
ذَاتِكُمْ مَوْهِنَ أَجُورَهُنَّ۔

اور تم پر کچھ گناہ نہیں کہ ان عورتوں کو مہر دے کر ان سے نکاح کر لو۔ (الممتحنہ: ۱۰)

مزید ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ:-

لَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُخْسِنِينَ
غَيْرِ مُسَافِحِينَ وَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ
بِهِ مِنْهُمْ فَأُولَئِكَ كُفُورُهُنَّ

اس طرح سے مال خرچ کر کے ان سے نکاح کر لو بشرطیکہ اس سے شہوت رانی کی بجائے عفت مقصود ہو تو جن عورتوں سے تم فائدہ حاصل کرو ان کا مہر جو

قَرِیْبَةُ ط (النساء: ۲۴) مقرر کیا ہوا ادا کر دو۔ (النساء: ۳۳)

۱۔ حدیث: حضرت عقبہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا ان شرطوں میں جن کا پورا کیا جانا نہایت ضروری ہے وہ شرط ہے جس کے ذریعہ تم نے اپنے لیے عورتوں کی شرمگاہوں کو حلال کیا ہے۔ (یعنی مہر)۔ (بخاری و مسلم)

۲۔ حدیث: حضرت ابو سلمہؓ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عائشہؓ سے پوچھا۔ نبیؐ کا مہر کتنا تھا؟ انہوں نے فرمایا کہ نبیؐ کا مہر آپ کی بیویوں کے لیے بارہ اوقیہ اور ایک نش تھا۔ پھر حضرت عائشہؓ نے کہا نش کو جانتے ہو۔ میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا نصف اوقیہ اور یہ سب ملا کر پانچ سو درہم ہوئے۔ (مسلم)

۳۔ حدیث: حضرت عمر بن خطابؓ سے روایت ہے کہا کہ عورتوں کے حق مہر میں مبالغہ نہ کرو۔ اگر زیادہ حق مہر باندھنا دنیا میں عزت والی چیز ہوتی اور اللہ کے نزدیک تقویٰ والی تو اللہ کے نبیؐ زیادہ لائق تھے کہ زیادہ حق مہر ادا کرتے۔ میں رسول اللہ ﷺ سے نہیں جانتا کہ آپ نے اپنی بیویوں سے نکاح کیا اور نیز اپنی بیٹیوں کا نکاح کیا بارہ اوقیہ سے زیادہ پر۔ (ترمذی)

۴۔ حدیث: سیدنا حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ حضور سرور کونین ﷺ کے زمانہ اقدس میں مہر دس اوقیہ تھا۔ (نسائی شریف)

۵۔ حدیث: حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنی بیوی کے حق مہر میں اپنے دونوں ہاتھ بھر کر ستویا کھجور دے دیے تو اس نے اس عورت کو اپنے اوپر حلال کر لیا۔ (ابوداؤد)

۱۔ شرعی مسائل: ان احادیث سے مندرجہ ذیل مسائل اخذ ہوتے ہیں:

۱۔ مسئلہ: مہر کی مقدار کم از کم دس درہم ہے اور زیادہ کی کوئی حد نہیں۔ جس قدر باندھا جائے گا لازم آئے گا۔ درہم چاندی کا ایک سکہ تھا جو اب راج نہیں۔ دس درہم کی مقدار وزن کے اعتبار سے قریباً دو روپے تیرہ آنہ بھر یا دو تولہ سات ماشہ ۴ رتی چاندی ہے۔ جس کی قیمت گھٹتی بڑھتی رہتی ہے۔ روپیوں کی صورت میں مہر مقرر کریں تو اس کا خیال ضرور رکھیں کہ یہ رقم دس درہم چاندی کی قیمت سے کم نہ ہو۔ (بہار شریعت)

۲۔ مسئلہ: وطی یا خلوت صحیحہ یا زن و شوہر میں سے کسی کی موت کی صورت میں مہر مؤکد ہو جاتا ہے یعنی شوہر پر پورا مہر لازم آتا ہے کہ جو مہر مقرر ہے اب اس میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی

ہاں اگر صاحب حق نے کل مہر یا اس کا کوئی حصہ معاف کر دیا تو معاف ہو جائے گا۔ اور مہر مؤکد نہ ہوا تھا مثلاً عورت کی رخصتی عمل میں نہ آئی تھی یا خلوت صحیحہ نہ پائی گئی اور شوہر نے طلاق دے دی تو نصف مہر واجب ہوگا۔ (درمختار)

۳۔ **مسئلہ:** شغار یعنی ایک شخص نے اپنی لڑکی یا بہن کا نکاح دوسرے سے کر دیا اور دوسرے نے اپنی لڑکی یا بہن کا نکاح اس سے کر دیا اور ہر ایک کا مہر دوسرا نکاح ہے تو ایسا کرنا گناہ اور منع ہے اور مہر مثل واجب ہوگا۔ (درمختار)

۴۔ **مسئلہ:** نکاح میں مہر کا ذکر ہی نہ ہو یا مہر کی نفی کر دی یا بلا مہر نکاح کیا تو نکاح ہو جائے گا اور اگر خلوت صحیحہ ہو گئی یا دونوں میں سے کوئی مر گیا تو مہر مثل واجب ہے بشرطیکہ بعد عقد آپس میں کوئی مہر طے نہ پایا گیا ہو ورنہ وہی طے شدہ مہر ہے۔ (فتاویٰ عالمگیری)

۵۔ **مسئلہ:** عورت نابالغہ ہے اور اس کا باپ مہر مقرر معاف کرنا چاہتا ہے تو نہیں کر سکتا اور بالغہ ہے تو اس کی اجازت پر معافی موقوف ہے۔ (ردالمحتار)

۶۔ **مسئلہ:** خلوت صحیحہ یہ ہے کہ نکاح کے بعد عورت اور مرد تنہائی میں جمع ہوں اور کوئی چیز جماع سے مانع نہ ہو تو یہ خلوت بھی جماع ہی کے حکم میں ہے اور اگر دونوں ایک جگہ تنہائی میں جمع ہوئے مگر کوئی مانع شرعی (مثلاً عورت کا حیض و نفاس میں ہونا یا ان میں سے کسی کا رمضان کا روزہ دار ہونا) یا مانع حسی (مثلاً مرد کا بیمار ہونا یا عورت کا اس حد تک بیماری میں مبتلا ہونا کہ وطی سے ضرر کا صحیح اندیشہ ہے) یا مانع طبعی (کہ وہاں کوئی تیسرا موجود ہے۔ غرض ان میں سے کوئی مانع) پایا جاتا ہے تو یہ خلوت فاسدہ ہے۔ خلوت صحیحہ کے احکام اس پر نافذ نہ ہوں گے۔ (بہار شریعت)

۷۔ **مسئلہ:** لڑکا جو اس قابل نہیں کہ وطی کر سکے اپنی عورت کے ساتھ تنہائی میں رہا یا زوجہ اتنی چھوٹی لڑکی سے کہ اس قابل نہیں اور اس کا شوہر اس کے ساتھ تنہائی میں رہا ان دونوں صورتوں میں خلوت صحیح نہ ہوئی۔ (عالمگیری)

۸۔ **مسئلہ:** عورت کے خاندان کی اس جیسی عورت کا (کہ عمر، جمال، عقل، تمیز، دیانت، پارسائی، علم و ادب اور کنواری یا بیواہی ہونے میں یکساں ہوں) جو مہر ہو وہ اس کے لیے مہر مثل ہے۔ مثلاً اس کی بہن، پھوپھی، چچا کی بیٹی وغیرہ کا مہر اس کی ماں کا مہر اس کے لیے مہر مثل نہیں۔ جبکہ وہ دوسرے گھرانے کی ہو اور اس کی ماں اسی خاندان کی ہو مثلاً اس کے باپ کی چچا زاد بہن ہے تو اس کا مہر اس کے لیے مہر مثل ہے۔ شوہر کا حال میں ملحوظ ہوتا ہے مثلاً جوان اور

بوڑھے کے مہر میں اختلاف ہوتا ہے۔ شہر اور زمانہ کا بھی لحاظ رکھا جاتا ہے۔ (در مختار)

۹۔ **مسئلہ:** مہر شرعی جو لوگ یہ سمجھ کر باندھتے ہیں کہ سب سے کم درجے کا مہر جو شہر میں مقرر رہے تو اس صورت میں دو تولے سات ماشہ چار رتی چاندی دینی آئے گی اور سمجھ کر باندھتے ہیں کہ جو مہر حضرت خاتون جنت کا تھا تو ڈیڑھ سو تولہ چاندی آئے گی اور جس سمجھ میں کچھ معنی نہیں خالی ایک لفظ بول دیتے ہیں تو وہاں مہر مثل لازم آتا ہے۔ (بہار شریعیہ)

۲۔ **مہر کی قسمیں:** مہر تین قسم پر ہے۔ معجل کہ رخصت ہونے سے پہلے دینا قریب لیا ہو۔ اس کے لیے عورت کو اختیار ہے کہ جب تک وصول نہ کر لے رخصت نہ ہو اور اگر رخصت ہوگئی تو اسے اب بھی اختیار ہے کہ جب چاہے مطالبہ کرے بلکہ مہر معجل وصول کرنے کے عورت اپنے شوہر سے روک سکتی ہے۔ اگرچہ اس سے پیشتر عورت کی رضامندی سے خلوت وطی ہو چکی ہو۔ یعنی یہ حق عورت کو ہمیشہ حاصل ہے جب تک وصول نہ کر لے۔

دوسرا مؤجل جس کی میعاد قرار پائی ہو کہ دس برس یا بیس برس یا پانچ دن کے بعد ادا جائے گا تو جب تک وہ میعاد نہ گزرے عورت کو مطالبہ کا اختیار نہیں اور میعاد گزرنے کے بعد وقت مطالبہ کر سکتی ہے۔

تیسرا مؤخر کہ نہ پیشگی کی شرط ٹھہری ہو نہ کوئی میعاد مقرر کی گئی ہو۔ یونہی مطلق و مبہم طور باندھا ہو جیسا کہ آج کل عام طور پر یونہی بندھ دیتے ہیں اس میں تا وقتیکہ موت یا طلاق نہ عورت کو مطالبہ کا حق نہیں (فتاویٰ رضویہ و عالمگیری وغیرہ) اور یہ جو عوام میں مشہور ہے کہ مہر کیے بغیر عورت کو ہاتھ لگانا حرام ہے محض غلط ہے۔

(۱)۔ جس لڑکی سے منگنی ہوئی اس کے پاس لڑکے کے یہاں سے مٹھائی شکر اور میوہ وغیرہ آئے پھر کسی وجہ سے نکاح نہ ہوا تو اگر وہ چیزیں تقسیم ہو گئیں اور بیچنے والے نے تقسیم اجازت بھی دیدی تھی تو واپس نہیں لے سکتا۔ (عالمگیری)

(۲)۔ تقسیم کی اجازت صراحتہ ہو یا عرفاً مثلاً ان بلاد میں ایسے موقعوں پر ایسی چیزیں آتی ہیں کہ لڑکی والا اپنے کنبہ اور رشتہ داروں میں بانٹے گا۔ یہ چیزیں اس لیے نہیں ہوتیں کہ رکھ لے گا یا خود کھا جائے گا۔ (بہار شریعیہ)

(۳)۔ لڑکی والوں نے نکاح یا رخصت کے وقت شوہر سے کچھ لیا ہو یعنی بغیر لیے نکاح رخصت سے انکار کرتے ہوں اور شوہر نے دے کر نکاح یا رخصت کرائی تو شوہر اس چیز کو واپس لے سکتا ہے اور وہ نہ رہی تو اس کی قیمت لے سکتا ہے کہ یہ رشوت ہے (بحر وغیرہ) اور

رخصت کے وقت جو کپڑے بھیجے اگر بطور تملیک ہیں (کہ وہ چیزیں لڑکی والوں کے ملک میں دیدیں) جیسے ہندوستان میں عموماً رواج ہے کہ ڈال بری جوڑی بھیجے جاتے ہیں اور عرف یہی ہے کہ لڑکی کو مالک کر دیتے ہیں تو انہیں واپس نہیں لے سکتا۔ اور تملیک نہ ہو تو لے سکتا ہے۔
(عالمگیری)

(۴)۔ لڑکی نے ماں باپ کے مال اور دستکاری سے کوئی چیز جہیز کے لیے تیار کی اور اس کی ماں مر گئی۔ باپ نے وہ چیز جہیز میں دیدی۔ تو اس کے بھائیوں کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اس چیز میں ماں کی طرف سے میراث کا دعویٰ کریں۔ یونہی اس کا باپ جو کپڑے لانا رہا اس میں سے یہ اپنے جہیز کے لیے بنا کر رکھتی رہی اور بہت کچھ جمع کر لیا اور باپ مر گیا تو یہ اسباب سب لڑکی کا ہے۔ (عالمگیری)

(۵)۔ شادی وغیرہ تمام تقریبات میں طرح طرح کی چیزیں بھیجی جاتی ہیں۔ اس کے متعلق ان علاقوں میں مختلف قسم کی رسمیں ہیں۔ ہر شہر میں اور ہر قوم میں جدا جدا رسوم ہیں۔ ان کے متعلق ہدیہ اور بیہ کا حکم ہے یا قرض کا۔ عموماً رواج سے جو بات ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ دینے والے یہ چیزیں بطور قرض دیتے ہیں اسی وجہ سے شادی میں اور ہر تقریب میں جو روپے دیے جاتے تو ہر شخص کا نام اور رقم تحریر کر لیتے ہیں۔ جب اس دینے والے کے ہاں تقریب ہوتی ہے تو یہ شخص جس کے یہاں دیا جا چکا ہے فہرست نکالتا ہے اور اتنے روپے ضرور دیتا ہے جو اس نے دیے تھے اور اس کے خلاف کرنے میں سخت بدنامی ہوتی ہے اور موقع پا کر کہتے بھی ہیں کہ نوتے کا روپیہ نہیں دیا۔ اور اگر یہ قرض نہ سمجھتے ہوتے تو ایسا عارف نہ ہوتا جو ان علاقوں میں ہے۔ (بہار شریعت)

(۶)۔ کوئی عورت عدت میں تھی اسے خرچ دیتا رہا اس امید پر کہ بعد عدت اس سے نکاح کریگا اگر نکاح ہو گیا تو جو کچھ خرچ کیا ہے واپس نہیں لے سکتا اور عورت نے نکاح سے انکار کر دیا تو جو کچھ اسے بطور تملیک دیا ہے واپس لے سکتا ہے اور جو بطور اباحت دیا ہے (کہ اس کی ملکیت میں دیے بغیر اس کے برتنے یا کام میں لانے اور ضرورت پوری کرنے کو دیا) مثلاً اس کے یہاں کھانا کھاتی رہی تو یہ واپس نہیں لے سکتے ہے۔ (بہار شریعت تنویر)

(۷)۔ جس مرد کی دو یا تین یا چار عورتیں ہوں اس پر عدل فرض ہے یعنی جو چیزیں اختیاری ہوں ان میں سب عورتوں کو یکساں لحاظ کرے یعنی ہر ایک کو اس کا پورا حق دے۔ پوشاک اور نان نفقہ اور ہر چیز جسے وہ اپنے لیے چاہتا ہے ادا کرے۔ حدیث شریف میں

ہے کہ جس کی عورتیں ہوں اگر ان دونوں میں عدل نہ کرے گا تو قیامت کے دن اس طرح پر حاضر ہوگا کہ اس کا آدھا دھڑ ساقط (بیکار) ہوگا۔ (ترمذی) اور جو بات اس کے اختیار میں نہیں اس میں مجبور و معذور ہے۔ مثلاً ایک کی زیادہ محبت ہے دوسری کی کم۔ یونہی جماع سب کے ساتھ برابر ہونا بھی ضروری نہیں۔ (در مختار)

(۸)۔ ایک ہی بی بی ہے مگر مرد اس کے پاس نہیں رہتا بلکہ نماز روزہ میں مشغول رہتا ہے تو عورت شوہر سے مطالبہ کر سکتی ہے اور حکم دیا جائے گا کہ عورت کے پاس بھی رہا کرے کہ حدیث میں فرمایا **وَإِنَّ لِرِّوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا** (تیری بی بی کا تجھ پر حق ہے) روزمرہ شب بیداری اور روزے رکھنے میں اس کا حق ملف ہوتا ہے اسے چاہئے کہ عورت کا بھی لحاظ رکھے اس کے لیے بھی کچھ وقت دے۔ (بہار شریعت)

(۹)۔ شوہر بناؤ سنگار کو کہتا ہے یہ نہیں کرتی۔ (گھر میں میلی کچیلی پر اگندہ حال رہتی ہے) یا وہ اپنے پاس بلاتا ہے اور یہ نہیں آتی۔ اس صورت میں شوہر کو مارنے کا بھی حق ہے اور نماز نہیں پڑھتی تو طلاق دے سکتا ہے۔ (عالمگیری)

(۱۰)۔ ایسی عورتیں جو آپس میں سوت ہیں ایک ہی مکان میں رہنے پر خود راضی ہوں تو رہ سکتی ہیں مگر ایک کے سامنے دوسری سے وطی نہ کرے۔ اگر ایسے موقع پر عورت نے انکار کر دیا تو نافرمان نہیں قرار دی جائے گی۔ (عالمگیری)

۱۱۔ محرمات

وہ عورتیں جن سے شریعت کی رو سے نکاح کرنا حرام ہے محرمات کہلاتی ہیں۔ ارشاد

باری تعالیٰ ہے کہ :-

تم پر تمہاری مائیں اور بیٹیاں اور بہنیں اور پھوپھیاں اور خالائیں اور بھتیجاں اور بھانجیاں اور وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہو اور رضاعی بہنیں اور سائیں حرام کر دی گئی ہیں اور جن عورتوں سے تم مباشرت کر چکے ہو ان کی لڑکیاں جنہیں تم پرورش کرتے ہو (وہ بھی تم پر حرام ہیں) ہاں اگر ان کے ساتھ تم نے

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّتُكُمْ وَأَخَوَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَالْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُ الْأَخِي وَأُمَّهَاتُ الْأَخِي وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرِّضَاعِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنَ نِسَائِكُمُ الَّتِي كَلَّمْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا

وَأَخْلَتُمْ بِهِمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ز
وَحَلَالٌ لِّأَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ
أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ
الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا (نساء: ۲۳)

مباشرت نہ کی ہو تو (ان کی لڑکیوں کے ساتھ
نکاح کر لینے میں) تم پر کچھ گناہ نہیں۔ اور
تمہارے صلیبی بیٹوں کی عورتیں بھی اور دو بہنوں
کا اکٹھا کرنا بھی (حرام ہے) مگر جو ہو
چکا (سو ہو چکا) بیشک خدا بخشنے والا (اور) رحم
والا ہے۔ (النساء: ۲۳)

اس آیت کی رو سے ماں بہن بیٹی، پھوپھی، خالہ بھتیجی، بھانجی رضاعی بہن اور ساس
کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے ان کی تفصیل مسائل میں بیان کی جائے گی۔ حرمت کے بارے میں
حضور ﷺ کے چند ارشادات حسب ذیل ہیں:

۱۔ حدیث: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے کسی عورت پر اس کی
پھوپھی سے نکاح کرنے سے منع فرمایا۔ یا پھوپھی پر بھتیجی کے ساتھ اور کسی عورت پر اس کی
خالہ سے یا خالہ پر اس کی بھانجی سے نکاح نہ کیا جائے بڑی پر چھوٹی سے اور نہ چھوٹی پر بڑی
سے۔ (ترمذی)

۲۔ حدیث: حضرت عائشہ صدیقہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا رضاعت
سے بھی وہی رشتے حرام ہوتے ہیں جو ولادت سے حرام ہوتے ہیں۔ (بخاری)

۳۔ حدیث: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کسی عورت کو اور اس
کی پھوپھی کو جمع نہ کیا جائے اور نہ کسی عورت اور اس کی خالہ کو۔ (مسلم شریف)

۴۔ حدیث: حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ حضرت غیلان بن سلمہؓ ثقفی مسلمان
ہوئے تو ان کی دس بیویاں تھیں دور جاہلیت سے وہ بھی ان کے ساتھ مسلمان ہو گئیں۔ نبی کریم
نے ان سے فرمایا کہ چار کو رکھ لو اور باقی سب بیویوں کو جدا کر دو۔ (احمد ترمذی ابن ماجہ)

۵۔ حدیث: حضرت عمرو بن شعیبؓ کے والد ماجد نے ان کے جد امجد سے روایت کی ہے
کہ رسول اللہ نے فرمایا جس آدمی نے کسی عورت سے نکاح کیا اور صحبت بھی کر لی تو اس
عورت کی بیٹی سے نکاح کرنا اس کے لیے حلال نہیں ہے اور اگر صحبت نہیں کی ہے تو اس کی بیٹی
سے نکاح کر سکتا ہے۔ جس نے کسی عورت سے نکاح کیا تو اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ اس
کی ماں سے نکاح کرے خواہ اس سے صحبت کر لی ہو یا نہ کی ہو۔ (ترمذی)

۶۔ حدیث: حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ نسب کے ذریعے سات عورتیں حرام کی گئی ہیں

اور سات ہی سسرال کے رشتے سے۔ پھر یہ آیت پڑھی:

حرام کی گئیں ہیں تم پر تمہاری مائیں۔ الخ (بخاری)

۱۔ شرعی مسائل: ان احادیث سے معلوم ہوا کہ محرمات وہ عورتیں ہیں جن سے نکاح حرام و ناجائز ہے اور یہ دو قسم کی عورتیں ہیں ایک وہ جن سے نکاح ہمیشہ ہمیش کے لیے حرام ہے دوسری وہ جو کسی خاص صورت یا مقررہ وقت میں حرام ہیں۔ حرمت کے اسباب مندرجہ ذیل ہیں:

(۱)۔ **نسب:** نسب کے اعتبار سے ماں، بیٹی، بہن، خالہ، پھوپھی، بھتیجی اور بھانجی سے شادی کرنا حرام ہے۔

(الف)۔ ماں سے مراد وہ عورت ہے جس کی اولاد میں سے وہ بلا واسطہ یا بالواسطہ ہے لہذا دادی، نانی، پر نانی اگرچہ کتنی ہی پشت اوپر کی ہوں سب حرام ہیں اور یہ سب ماں میں داخل ہیں۔ سوتیلی ماں بھی حقیقی ماں کی طرح قطعی حرام ہے۔ اور اس کی حرمت ویسی ہی ہے جیسی حقیقی ماں کی ہے۔

(ب)۔ بیٹی سے مراد وہ عورتیں ہیں جو اس کی اولاد ہیں لہذا پوتی، پر پوتی اور نواسی وغیرہ سب حرام ہیں۔

(پ)۔ بہن خواہ حقیقی ہو یعنی ایک ماں باپ سے ہو یا سوتیلی کہ باپ دونوں کا ایک ہے اور مائیں دو۔ یا ماں ایک ہے اور باپ دو سب حرام ہیں۔

(ج)۔ باپ کی بہنیں یا دادا کی بہنیں، ماں کی بہنیں یا نانی کی بہنیں سب پھوپھی اور خالہ کے حکم میں ہیں خواہ حقیقی ہوں یا سوتیلی سب مثل ماں کے حرام قطعی ہیں۔

(د)۔ بھتیجی اور بھانجی سے مراد بھائی اور بہن کی اولاد ہے ان کی پوتیاں، نواسیاں بھی اسی میں شمار ہیں۔ یونہی بھتیجی، بھانجی کی اولاد بھی اسی زمرے میں شمار ہوتی ہے۔

۲۔ مصاہرات: مسرالی رشتوں میں سے بیوی کی والدہ، دادی، نانی وغیرہ سے نکاح کرنا حرام ہے:

(۱)۔ جس عورت سے نکاح کیا اور وطی نہ کی تھی کہ جدائی ہوگئی اس کی لڑکی اس پر حرام نہیں

ہاں اگر خلوت صحیحہ عورت کے ساتھ ہوگئی تو اس کی لڑکی حرام ہوگئی کہ خلوت صحیحہ بھی وطی کے حکم میں ہے اور بیٹی سے نکاح کیا تو نکاح ہوتے ہی اس کی ماں اس مرد پر ہمیشہ کے لیے حرام ہوگئی

وطی شرط نہیں کہ زوجہ کی والدہ ہمیشہ اپنی ماں کی طرح ہے۔ زوجہ کے مرنے یا طلاق ہو کر عدت گزارنے کے بعد کسی طرح حلال نہیں ہو سکتی۔ (عالمگیری۔ فتاویٰ رضویہ)

(۲)۔ حرمت مصاہرت جس طرح وطی سے ہوتی ہے یونہی بشہوت چھونے بوسہ لینے، فرج داخل کی طرف نظر کرنے، گلے لگانے، دانت سے کاٹنے، چپٹانے، یہاں تک کہ سر پر جو بال ہوں انہیں چھونے سے بھی حرمت ثابت ہو جاتی ہے اگرچہ کوئی باریک کپڑا یا باریک نقاب بوسہ لینے میں حائل ہو۔ (بہار شریعت)

(۳)۔ عورت نے شہوت کے ساتھ مرد کو چھوایا بوسہ لیا اس کے آلہ کی طرف نظر کی اس سے بھی حرمت مصاہرت ثابت ہوگئی۔

(۴)۔ حرمت مصاہرت کے لیے شرط یہ ہے کہ عورت مشہاۃ (قابل شہوت) ہو یعنی نو برس سے کم عمر کی نہ ہو تو اگر مرد نے نو سال سے کم عمر لڑکی کو بشہوت چھوایا اس کا بوسہ لیا تو حرمت ثابت نہ ہوگی۔

(۵)۔ یہ افعال قصداً ہوں یا بھول کر یا غلطی سے یا مجبوراً۔ بہر حال حرمت ثابت ہو جائے گی مثلاً اندھیری رات میں مرد نے اپنی عورت کو جماع کے لیے اٹھانا چاہا۔ غلطی سے شہوت کے ساتھ مشہاۃ لڑکی پر ہاتھ پڑ گیا۔ اس کی ماں ہمیشہ کے لیے حرام ہوگئی۔ یونہی اگر عورت نے شوہر کو اٹھانا چاہا اور شہوت کے ساتھ ہاتھ لڑکے پر پڑ گیا جو مراہق تھا۔ (اس کی مقدار ۱۲ برس کی عمر ہے) تو عورت ہمیشہ کے لیے اس شوہر پر حرام ہوگئی۔

(۶)۔ کسی نے ایک عورت سے نکاح کیا اور اس کے لڑکے نے اس عورت کی لڑکی سے کیا جو دوسرے شوہر سے ہے تو حرج نہیں۔ یونہی اگر لڑکے نے عورت کی ماں سے نکاح کیا جب بھی یہی حکم ہے۔

(۷)۔ سوتیلی ماں، ماں نہیں تو اس کی سگی بہن سے بھی نکاح جائز ہے۔

(۸)۔ جس نے اپنی منکوحہ کی حقیقی ماں سے وطی کی یا اسے بشہوت ہاتھ لگایا اس کی عورت اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہوگئی۔ نہ کبھی اسے رکھ سکتا ہے نہ کسی حال میں دوبارہ اس سے نکاح کر سکتا ہے۔ اس پر فرض ہے کہ عورت کو اب فوراً چھوڑ دے تاکہ وہ اس کے نکاح سے باہر ہو جائے۔

(۹)۔ ایک شخص نے اپنے حقیقی بیٹے کی بی بی سے زنا کیا جس کا اسے اقرار ہے اور بیٹا بھی مانتا ہے کہ ایسا ہوا تو وہ عورت بیٹے پر ہمیشہ کے لیے حرام ہوگئی اب کسی حیلہ سے اس کی زوجیت میں نہیں آ سکتی۔ اس پر فرض ہے کہ اسے فوراً چھوڑ دے۔ مثلاً کہہ دے کہ میں نے تجھے چھوڑا۔ اس کے بعد عورت عدت گزارے اور بعد عدت اپنے خسر کے علاوہ جس سے چاہے نکاح کر سکتی ہے۔

۳۔ **جمع بین المحارم:** جمع بین المحارم سے مراد ایسی دو عورتوں کو نکاح میں جمع کرنا ہے جو ایک دوسرے کے لیے محرم ہیں۔ وہ دو عورتیں کہ ان میں سے جس ایک کو مرد فرض کریں دوسری اس کے لیے حرام ہو۔ مثلاً دو بہنیں کہ ایک کو مرد فرض کریں تو بھائی بہن کا رشتہ ہوا۔ یا پھوپھی بھتیجی کہ پھوپھی کو مرد فرض کرو تو چچا بھتیجی کا رشتہ ہوا اور بھتیجی کو مرد فرض کریں تو پھوپھی بھتیجی کا رشتہ ہوا۔ یا خالہ بھانجی کہ خالہ کو مرد فرض کریں تو ماموں بھانجی کا رشتہ ہوا اور بھانجی کو مرد فرض کرو تو خالہ بھانجی کا رشتہ ہوا۔ تو ایسی دو عورتوں کو نکاح میں جمع نہیں کر سکتا۔ یا یوں سمجھ لو کہ مثلاً ایک عورت نکاح میں ہے تو جب تک وہ نکاح میں رہے اس کی بہن پھوپھی خالہ بھتیجی بھانجی سے نکاح حرام ہے بلکہ اگر طلاق دے دی ہو اگرچہ تین طلاقیں تو جب تک عدت نہ گزرے دوسری سے نکاح نہیں کر سکتا۔

ایسی دو عورتیں جن میں اس قسم کا رشتہ موجود ہو جو اوپر مذکور ہوا۔ نسب کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ دودھ کے ایسے رشتے ہوں جب بھی دونوں کا جمع کرنا حرام ہے۔ مثلاً عورت اور اس کی رضاعی بہن یا خالہ پھوپھی وغیرہ۔

۴۔ **غیر مسلمہ سے نکاح:** مسلمان مرد کا نکاح کتابیہ یعنی یہودی و نصرانی عورت کے سوا مجوسیہ آتش پرست بت پرست آفتاب پرست غرض کسی کافرہ سے نہیں ہو سکتا اور مسلمان عورت کا نکاح مسلمان مرد کے سوا کسی اور مذہب والے سے نہیں ہو سکتا اگرچہ وہ اہل کتاب سے ہو۔ (عالمگیری وغیرہ)

یہودیہ اور نصرانیہ سے مسلمان کا نکاح ہو سکتا ہے بایں معنی کہ نکاح کر لیں تو ہو جائے گا۔ یعنی اس میں جماع زمانہ ہو گا و طی حرام نہ کہلائے گی اور مسلمان قرار پائے گی مگر ایسا کرنے سے گریز کرنا چاہئے کیونکہ اس سے بہت سی برائیوں کا دروازہ کھلتا ہے۔ مثلاً اولاد پر اندیشہ کہ یہودیوں نصرانیوں کی عادت سیکھے۔ پھر یہ جواز اس وقت تک ہے جبکہ عورت اپنے مذہب یہودیت یا نصرانیت پر ہو اور اگر صرف نام کی یہودی یا نصرانی ہوں اور حقیقت میں دہریہ اور سوشلزم یا کمیونزم کا عقیدہ رکھتی ہوں جیسے آج کل کے نصاریٰ کا عموماً کوئی مذہب ہی نہیں تو ان سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور کر بھی لیا تو ایسی عورتوں سے نکاح اس حرام کو حلال نہیں کر سکتا۔

۵۔ **عورت کا کسی اور نکاح یا عدت میں ہونا:** قرآن کریم نے عقد نکاح کو محکم پیمان اور باہمی نبھاؤ کا مضبوط بندھن قرار دیا اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا کہ نکاح کی اس بندش کی گرہ شوہر کے ہاتھ میں ہے۔ تو جب تک شوہر طلاق نہ دے عورت بدستور اس کے

نکاح میں رہتی ہے اگرچہ تعلقات بظاہر قائم نہ ہوں۔ اور اگر یہ دوسرے کی عدت میں ہو جب بھی نہیں ہو سکتا۔ عدت خواہ طلاق کی ہو یا موت کی ہو۔ عدت میں نکاح قطعی حرام ہے بلکہ نکاح تو بری چیز ہے۔ قرآن کریم نے عدت میں صریح پیام کو بھی حرام فرمایا اور عدت گزرنے پر نکاح کر لینے کے وعدے کو بھی حرام فرمایا۔ صرف اس کی اجازت دی ہے کہ دل میں خیال رکھو یا کوئی ایسی پہلو دار بات کہو جس سے بعد عدت ارادہ نکاح کا اشارہ نکلتا ہو صاف صاف یہ ذکر نہ ہو کہ میں بعد عدت تجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں پھر پہلو دار بات بھی عدت وفات والی سے کہنا جائز ہے عدت طلاق والی سے وہ بھی جائز نہیں۔

عورت کسی کے نکاح میں ہے مگر شوہر نے چھوڑ رکھا ہے نہ نان نفقہ دیتا ہے نہ اس کی خبر گیری کرتا ہے نہ طلاق دیتا ہے۔ اس حالت میں بھی جب تک موت یا طلاق نہ ہو کسی اور سے نکاح حرام ہے اور حالات زمانہ کو آڑ بنا کر نکاح کرنا اور بھی برا۔ کیا یہ نکاح حرام نہ ہوگا تو وہ ہم آئندہ سے بچنے کے لیے قصداً حرام کاری کے کیا معنی؟

جس عورت کو زنا کا حمل ہے اس سے نکاح ہو سکتا ہے پھر اگر اس کا وہ حمل ہے تو وطی بھی کر سکتا ہے اور اگر دوسرے کا ہے تو جب تک بچہ پیدا نہ ہو لے وطی جائز نہیں اور جس عورت کا حمل ثابت النسب ہے اس سے کسی کا نکاح نہیں ہو سکتا۔

عورت کا شوہر برسوں سے غائب ہے کچھ پتہ نہیں کہ زندہ ہے یا مر گیا اور اب عورت اپنا دوسرا نکاح کرنا چاہتی ہے تو ہرگز نکاح نہیں کر سکتی۔ اس پر لازم ہے کہ صبر و انتظار کرے یہاں تک کہ اس کے شوہر کی ولادت کو ستر برس گزر جائیں۔ اس کے بعد اس کی موت کا حکم کیا جائے۔ اب عورت عدت گزار کر دوسرا عقد کر سکتی ہے۔ ضرورت اور جوانی کا عذر حرام کو حلال نہیں کر سکتا۔

۶۔ رضاعت: یعنی دودھ کا رشتہ عورت کا دودھ پینے سے ثابت ہوتا ہے اور دودھ پینے سے مراد یہی معروف طریقہ نہیں بلکہ حلق اور ناک میں پٹکا یا جب بھی یہی حکم ہے اور تھوڑا سا پیایا زیادہ بہر حال حرمت ثابت ہوگئی جبکہ اندر پہنچ جانا معلوم ہو۔ اور اگر چھاتی منہ میں لی مگر یہ نہیں معلوم کہ دودھ پیا تو حرمت ثابت نہیں۔ (جوہرہ نیرہ)

۱۔ مسئلہ: بچہ کو دودھ پلانا چھوڑ دیا گیا ہے مگر اس کو کسی عورت نے دودھ پلا دیا اگر ڈھائی برس کے اندر ہے تو رضاعت ثابت ہے ورنہ نہیں۔

۲۔ مسئلہ: بچہ نے جس عورت کا دودھ پیو وہ اس بچہ کی ماں ہو جائے گی اور اس کا شوہر (جس کی وطی سے بچہ پیدا ہوا جس کے عورت کو دودھ پلانا اس دودھ پینے والے بچے کا باپ

ہو جائے گا اور اس عورت کے تمام بچے اس کے بھائی بہن خواہ اسی شوہر سے ہوں یا دوسرے شوہر سے۔ اس کے دودھ پینے سے پہلے کے ہوں یا بعد کے یا ساتھ کے اور عورت کے بھائی اس کے ماموں اس کی بہن اس کی خالہ یونہی اس شوہر کی اولاد اس کے بھائی بہن اس کے بھائی اور اس کے چچا اس کی بہنیں اس کی پھوپھیاں۔ خواہ شوہر کی یہ اولاد اسی عورت سے یا دوسری سے۔ یونہی ہر ایک کے ماں باپ اس کے دادا دادی نانا نانی۔

۳۔ مسئلہ: جو نسب میں حرام ہے رضاع میں بھی حرام ہے ہاں کچھ مرد عورت میں کلا سے مستثنیٰ ہیں۔ وقت ضرورت علماء سے دریافت کریں۔ (بہار شریعت)

۴۔ مسئلہ: قدرت خداوندی سے کنواری لڑکی کے دودھ اتر آیا اور کسی بچہ نے اس کا دودھ پیا اور اس کا دودھ پی لیا یا مردہ عورت کا دودھ پی لیا جب بھی رضاعت ثابت ہوگئی۔ مکہ نو برس سے کم عمر لڑکی کا دودھ پیا تو رضاع نہیں۔

۵۔ مسئلہ: ایک عورت کا دو بچوں نے دودھ پیا اور ان میں ایک لڑکا ایک لڑکی ہے تو بھائی بہن ہیں اور ان میں نکاح حرام اگرچہ دونوں نے ایک وقت میں دودھ نہ پیا ہو بلکہ دونوں میں برسوں کا فاصلہ ہو۔ اگرچہ ایک کے وقت میں ایک شوہر کا دودھ تھا اور دوسرے کے وقت میں دوسرے کا۔ (درمختار)

۶۔ مسئلہ: جس عورت سے زنا کیا اور بچہ پیدا ہوا اس عورت کا دودھ جس لڑکی نے پیا وہ زانی پر حرام ہے۔ (درمختار)

۷۔ مسئلہ: پانی یا دوا میں عورت کا دودھ ملا کر پلایا تو اگر دودھ غالب ہے یا برابر تو رضاع ثابت ہے، مغلوب ہو تو نہیں۔ یونہی اگر بکری وغیر کسی جانور کے دودھ میں ملا کر دیا تو اگر یہ دودھ غالب ہے رضاع نہیں اور نہ ہے۔ (درمختار)

۸۔ مسئلہ: عورتوں کو چاہیے کہ بلا ضرورت ہر بچہ کو دودھ نہ پلا دیا کریں اور پلائیں تو خود بھی یاد رکھیں اور لوگوں سے یہ بات کہہ بھی دیں۔ عورت کو بغیر اجازت شوہر کسی بچہ کو دودھ پلانا مکروہ ہے البتہ اگر اس کے بلاک کا اندیشہ ہے تو کراہت نہیں۔ مگر میعاد کے اندر رضاعت بہر صورت ثابت ہو جائے گی۔ (رد المحتار)

۹۔ مسئلہ: بچہ کو دو برس تک دودھ پلایا جائے اس سے زیادہ کی اجازت نہیں۔ دودھ پینے والا بچہ لڑکا یا لڑکی۔ اور یہ جو بعض عوام میں مشہور ہے کہ لڑکی کو دو برس اور لڑکے کو ڈھائی برس تک پلانے میں صحیح نہیں۔ یہ حکم پلانے کا ہے اور نکاح حرام ہونے کے

لیے ڈھائی برس کا زمانہ ہے یعنی دو برس کے بعد اگرچہ دودھ پلانا حرام ہے مگر ڈھائی برس کے اندر اگر دودھ پلاوے گی تو حرمت نکاح ثابت ہو جائے گی اور اس کے بعد اگر پیا تو حرمت نکاح ثابت نہ ہوگا اگرچہ پلانا جائز نہیں۔ (بہار شریعت)

۱۰۔ مسنفہ: مدت پوری ہونے کے بعد بطور علاج بھی پینا یا پلانا جائز نہیں، دو برس کے اندر بچہ کا باپ اس کی ماں کو دودھ چھڑانے پر مجبور نہیں کر سکتا اور اس کے بعد کر سکتا ہے۔ (بہار شریعت)

طلاق

میاں بیوی کے ازدواجی تعلقات کو آئندہ کی زندگی میں توڑنے کا نام طلاق ہے۔ کیونکہ طلاق کا مطلب کھولنا اور توڑنا ہے لہذا نکاح کی پابندی سے میاں بیوی میں جو تعلق پیدا ہوا تھا اسے ختم کرنا طلاق ہے۔ اگر میاں بیوی میں خدا نخواستہ ایسے حالات پیدا ہو جائیں جن سے نباہ مشکل ہو جائے تو اس صورت میں عورت سے علیحدگی کا احسن طریقہ طلاق ہی ہے۔ اسلام نے طلاق کو اچھا فعل قرار نہیں دیا بلکہ بہت برا فعل قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ:

الطَّلَاقُ مَرْثِيٌّ فَامْسَاكُكُمْ
بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْوِيْعُهُمْ بِاِحْسَانٍ
طلاق دو مرتبہ ہے پھر یا تو اچھے طریقے سے
روکنا ہے یا احسان کے ساتھ چھوڑ دینا ہے
(بقرہ: ۲۲۹)

اس سے معلوم ہوا کہ اگر کسی صورت میں نباہ ممکن نہ رہے تو میاں بیوی کو نکاح توڑنے کا حق ہے مگر طلاق دینے سے پہلے طلاق کے نتائج پر بڑے تحمل سے غور کرنا چاہئے کیونکہ طلاق دے دینا تو بہت آسان ہے مگر اس کے اثرات سے دو چار ہونا سب سے بڑا صبر آزما کام ہے حضور ﷺ نے بھی اسے اچھا فعل قرار نہیں دیا۔ اور اس کی وضاحت کے متعلق چند احادیث حسب ذیل ہیں:

۱۔ حدیث: حضرت معاذ بن جبل کا بیان ہے کہ رسول اللہ نے مجھ سے فرمایا اے معاذ! اللہ تعالیٰ نے روئے زمین پر کوئی چیز ایسی پیدا نہیں کی جو اسے غلام آزاد کرنے سے پیاری ہو اور کوئی چیز روئے زمین پر اللہ تعالیٰ نے ایسی پیدا نہیں کی جو اسے طلاق سے زیادہ ناپسند ہو۔

(دارقطنی)

۲۔ حدیث: حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو حلال چیزوں میں سب سے ناپسند ہے۔ (ابوداؤد)

۳۔ حدیث: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تین چیزیں ایسی ہیں جن کا قصد بھی قصد ہے اور مذاق بھی قصد ہے۔ وہ نکاح، طلاق اور رجعت ہیں۔ (ترمذی، ابوداؤد)

۴۔ حدیث: حضرت امام مالکؒ کو یہ بات پہنچی کہ ایک آدمی نے حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو سوطلاقیں دیں۔ آپ کا میرے متعلق کیا حکم ہے؟ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا تین طلاقوں کے ساتھ وہ تم سے جدا ہوگئی اور ستانوں کے ساتھ تم نے اللہ کی آیتوں کا مذاق آرایا۔ (موطا امام مالک)

۵۔ حدیث: حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دیدی۔ حضرت نے رسول اللہ ﷺ سے ذکر کیا تو رسول اللہ اس بات سے ناراض ہوئے اور فرمایا ”اس سے رجوع کرے۔ پھر پاک ہونے تک اسے اپنے پاس رکھے۔ پھر حیض آئے اور پاک ہو جائے۔ اب اگر طلاق کا ارادہ ہے تو ہاتھ لگانے سے پہلے پاکی کی حالت میں طلاق دے۔ یہ وہ عدت ہے جس کا عورتوں کو طلاق دینے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ اس سے رجوع کرے اور پاکی یا حمل کی حالت میں طلاق دے۔“ (بخاری شریف)

۶۔ حدیث: حضرت ثوبانؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا۔ جو عورت بغیر کسی وجہ کے اپنے خاوند سے طلاق کا سوال کرے تو اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ (ابن ماجہ)

۷۔ حدیث: حضرت علیؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم نے فرمایا نہیں ہے طلاق نکاح سے پہلے اور نہیں ہے آزاد مگر ملکیت کے بعد اور نہیں ہے روزوں کا ملا لینا اور نہیں ہے تیسری احتلام کے بعد اور نہیں ہے رضاعت دودھ چھڑانے کے بعد اور نہیں ہے دن کی خاموشی رات تک۔ (شرح السنہ)

۸۔ حدیث: حضرت رکانہ بن عبد یزیدؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی حضرت سہیمہؓ کو طلاق بتے دی۔ پس نبی کریم ﷺ کو اس کی خبر دیتے ہوئے عرض گزار ہوئے کہ میرا ارادہ صرف ایک طلاق کا تھا۔ تو رسول اللہ نے وہ ان کی طرف لوٹا دیں چنانچہ دوسری طلاق

انہوں نے حضرت عمرؓ کے اور تیسری طلاق حضرت عثمانؓ کے زمانے میں دی۔ (ابوداؤد)

طلاق بائن ورجعی

کسی عورت کا طلاق دینے کے دو طریقے ہیں ایک طریقے کو بائن اور دوسرے کو رجعی کہا جاتا ہے۔ بائن طریقہ یہ ہے کہ یکدم عورت کو تین طلاق دے کر فارغ کر دیا اس طلاق کے بعد میاں بیوی کا کوئی تعلق نہ رہے گا بلکہ طلاق پر تعلق فوری ختم ہو جائے گا۔ یہ طریقہ اچھا تصور نہیں کیا جاتا۔ اس کے علاوہ جو دوسرا طریقہ ہے اسے رجعی کہا جاتا ہے۔ اسے ایک طلاق دی جائے اگر عورت حیض کی حالت میں ہو تو اس کے پاک ہونے تک انتظار کیا جائے پھر دوسرے طہر میں ایک اور طلاق دے دی جائے۔ اس صورت میں مرد کو یہ حق حاصل ہے کہ عدت گزرنے سے پہلے جب چاہے رجوع کر لے لیکن تیسرے طہر میں تیسری بار طلاق دینے کے بعد مرد کو رجوع کا حق نہ رہے گا اور طلاق مکمل طور پر ہو جائے گی۔ ایسی طلاق رجعی کہا جاتا ہے۔

اسلام میں شرعی نقطہ نظر سے طلاق دینا جائز ہے مگر بے وجہ شرعی ممنوع ہے اودا اگر وجہ شرعی ہو تو مباح بلکہ بعض صورتوں میں مستحب ہے مثلاً عورت اس کو یا اوروں کو ایذا دیتی ہے یا نماز نہیں پڑھتی ہے۔ اور بعض صورتوں میں طلاق دینا واجب ہے مثلاً شوہر نامرد یا بیجڑا ہے یا اس پر کسی نے جادو کا عمل کر دیا ہے کہ جماع کرنے پر قادر نہیں اور اس کے ازالے کی بھی کوئی صورت نظر نہیں آتی کہ ان صورتوں میں طلاق نہ دینا سخت تکلیف پہنچانا ہے۔

طلاق دینے کا اختیار فقط مرد کو ہے۔ جب مرد نے طلاق دے دی تو طلاق ہو جائے گی عورت کا اس میں کچھ اختیار نہیں۔ چاہے منظور کرے چاہے نہ کرے ہر طرح طلاق ہوگی۔ اور عورت اپنے مرد کو طلاق نہیں دے سکتی۔ مرد کو فقط تین طلاق دینے کا اختیار ہے اس سے زیادہ کا اختیار نہیں۔ تو اگر چار پانچ طلاق دیدیں تب بھی تین ہی طلاقیں ہوں گی۔

۱۔ طلاق کی صورتیں

شریعت کے اعتبار سے طلاق دینے کا جو طریقہ ہمیں حضور ﷺ کی تعلیمات سے ملتا ہے وہی درحقیقت بہتر اور عمدہ ہے۔ حضور ﷺ کے دور میں صحابہؓ نے اسی کو اپنایا اس طریقہ کے مطابق طلاق دینے کی تین صورتیں ہیں۔ احسن، حسن اور بدعی۔ ان کی وضاحت مندرجہ ذیل ہے:

۱۔ طلاق احسن: احسن طلاق دینے کا مطلب یہ ہے کہ مرد اپنی بیوی کو ایسے طہر یعنی حیض

آنے کے بعد پاک حالت میں جس میں اس نے اس سجماع نہ کیا ہو ایک طلاق دے۔ اور پھر اس کو عدت گزار جانے تک چھوڑے رکھے۔ ایسے طریقے کو احسن یعنی بہتر قرار دیا گیا ہے۔ طلاق احسن میں اس بات کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے کہ طلاق طہر میں ہو بشرطیکہ عورت مدخولہ ہو یعنی اس کے ساتھ علیحدگی گزری ہو اور طہر کے بعد عورت سے جماع نہ کیا ہو۔ اور طلاق میں رجعت کی گنجائش رکھی گئی ہو اور پھر عورت سے عدت کی مدت گزرنے تک علیحدگی اختیار کی ہو۔

طلاق احسن میں مرد کو عدت کے اندر رجوع کرنے کا اختیار باقی رہتا ہے۔ یا عدت گزار جانے کے بعد بھی وہ عورت اس شوہر کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے مگر اب شوہر کو اس عورت پر دو طلاقوں کا اختیار باقی رہے گا۔ اس لیے کہ آزاد منکوہہ عورت پر مرد کو تین طلاقوں کا اختیار حاصل ہے۔ تو جب وہ ایک طلاق دے چکا تو اب دو کا اختیار باقی ہے تو اب نکاح کے بعد اگر مرد نے اسے دو طلاقیں دے دیں تو بدوں حلالہ وہ عورت اس مرد کے نکاح میں دوبارہ نہیں آ سکتی۔

یہ طلاق دیگر اقسام طلاق کی نسبت قابل ترجیح اس لیے ہے کہ اس میں مرد کو بھی زیادہ نادم نہیں ہونا پڑتا اس لیے کہ وہ عدت کے اندر ہی رجوع کر سکتا ہے۔ نیز عورت کے حق میں بھی نقصان دہ نہیں کہ اس کی بھی عقل ٹھکانے آ جائے اور وہ اپنے خاوند کے ساتھ ہی وقت گزارے۔

۲۔ طلاق حسن: طلاق حسن طلاق دینے کا وہ طریقہ ہے جس میں خاوند اپنی مدخولہ بیوی کو ایسے طہر میں طلاق دے کہ جس میں اس سے صحبت نہ کی ہو۔ پھر دوسرے طہر میں دوسری اور تیسرے طہر میں تیسری طلاق دے یعنی تین طہروں میں تین طلاقیں دے۔

طلاق اگرچہ مباح ہے مگر اس کی اجازت انتہائی ناگزیر ضرورت کے وقت دی گئی ہے۔ تعلیم یہی ہے کہ حتی الوسع مصالحت ہی ہو جائے اس میں بھی شک نہیں کہ طلاق دینے کا اختیار بھی شوہر ہی کو حاصل ہے خواہ وہ بیک وقت ایک طلاق دے یا تین۔ مگر ظاہر ہے کہ جب وہ تین طلاقیں یکبارگی دے گا تو ممکن ہے کہ لوگ اس کی زیادتی تصور کریں اور کہیں کہ اگر وہ بیوی کو مہلت دیتا تو شاید وہ اپنے اصلاح کر لیتی۔

ایک طلاق دینے سے اس امر کی توثیق ہو جاتی ہے کہ عورت ناقابل اصلاح ہے۔ اس کا خاوند کے عقد میں رہنا از حد مشکل اور ناممکن ہے اس لیے اس سے چھٹکارا پانا ہی بہتر ہے نیز ہر طہر میں باوجود انتہائی جنسیاتی خواہش کے جب خاوند عورت کو طلاق دینے کو اس سے ازواجی تعلقات قائم رکھنے پر ترجیح دیتا ہے تو گویا اس سے عورت کے نشوز کی پوری پوری توثیق ہو جاتی

ہے۔ اگر زوجہ اس قابل ہو کہ زوجین کا رشتہ لوٹنے سے بچ جائے تو کوئی وجہ نہیں کہ پہلی ہی طلاق کے بعد رجعت نہ ہو جائے یا زیادہ سے زیادہ دوسری طلاق کے بعد نکاح کے ساتھ ساتھ خاوند ہی کے پاس رہتی۔

۳۔ طلاق بدعی: طلاق بدعی وہ طلاق ہے جس میں طلاق حسن یا کا طریقہ اختیار کیا ہو یعنی بدعی وہ طلاق ہے جس میں بیک وقت ایک سے زائد طلاقیں دے جائیں۔ یا عورت ایسے طہر میں طلاق دے دینا کہ جس میں عورت سے ہم بستری کی ہو۔ یا حیض کی حالت میں طلاق دے دینا۔ شرعی لحاظ سے طلاق دینے کی یہ صورت ناپسندیدہ ہے۔ اس صورت میں طلاق ہو جائے گی تو طلاق دینے والا گنہگار ہوگا کیونکہ اس نے وہ طریقہ اختیار نہ کیا جیسے اسلام میں کہا گیا ہے۔

رسول اکرم ﷺ نے حیض کی حالت میں طلاق دینے کو سخت ناپسند کیا ہے اگر کسی سے کوئی ایسی غلطی ہو جاتی تو حضور ﷺ فوراً رجوع کا حکم فرماتے۔ حیض کی حالت میں طلاق تو ہو جائے گی لیکن مرد گنہگار ہوگا۔

۲۔ اقسام طلاق

طلاق کے نافذ العمل ہونے کے لحاظ سے طلاق کی تین قسمیں ہیں یعنی رجعی، بائن اور مغلطہ۔ ان کی تفصیل حسب ذیل ہے:

اطلاق رجعی: وہ طلاق جس کی عدت کے دوران رجعت ہو سکے طلاق رجعی کہلاتی ہے رجعت اگر چہ دو طلاقیوں تک ہو سکتی ہے مگر ایک طلاق کے بعد کر لینا ہی مناسب ہے۔ رجعت کا مطلب دراصل نکاح باقی رکھنا ہے۔

قرآن پاک میں رجعت کو امساک سے تعبیر کیا گیا ہے اور امساک کے معنی باقی رکھنا یا روکنا ہے۔ قولہ تعالیٰ **وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغُوا أَجْلَهُمْ فَأُمِّسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ** (جب عورتوں کو طلاق دو اور ان کی عدت پوری ہونے کے قریب ہو تو خوبی کے ساتھ ان کو روک لو) طلاق رجعی کے بعد شوہر کے لیے مستحب ہے کہ وہ رجوع کر لے اسی لیے طلاق رجعی کی عدت میں رجعت بھی مشروع ہے لہذا شرع نے مرد کو اختیار دیا ہے کہ وہ عدت میں رجعت کر سکتا ہے بشرطیکہ عورت مدخولہ ہو البتہ غیر مدخولہ عورت تو فوراً بائن ہو جاتی ہے اور اس کی عدت بھی نہیں۔

رجعت کرنے میں عورت کی اجازت شرط ہے۔ رجعت کرنے میں عورت کی اجازت شرط ہے۔ رجعت کرنے میں عورت کی اجازت شرط ہے۔

ہے البتہ رجعت کے لیے ضروری ہے کہ عدت گزرنے سے پہلے ہو۔ اس لیے کہ عدت گزرا کے بعد عورت نکاح کی ملک میں نہیں رہے گی۔ رجعت کرتے وقت یہ کہنا ضروری ہے کہ تو میرا بیوی ہے جیسا کہ پہلے تھی۔ اس کے علاوہ رجعت دو گواہوں کے سامنے کی جائے اور عورت بھی باخبر کر دیا جائے کہ میں نے تجھ سے رجعت کر لی ہے۔ اس کے متعلق تفصیلی احکام بارہ رجعت میں بیان کیے جائیں گے۔

۲۔ طلاق بائن: طلاق بائن سے مراد ایسی طلاق ہے جس کے نتیجے میں عدت کی فرقہ واقع ہو جاتی ہے۔ مرد اور عورت کے درمیان رشتہ زوجیت منقطع ہو جاتا ہے۔ شوہر اپنی بیوی سے عدت کے دوران رجوع نہیں کر سکتا البتہ عدت کے بعد اگر فریقین باہم راضی ہوں تو از سر نو نکاح کر سکتے ہیں۔

امام محمدؒ کا قول ہے کہ جس شخص نے طلاق بائن دی اس نے سنت سے خطا کی۔ کیونکہ خلاص کرنے میں ایک صفت بڑھانے کی حاجت نہیں۔ طلاق بائن سے عورت اپنے خاوند کے نکاح سے نکل جاتی ہے۔ البتہ اسے اتنا حق دیا گیا ہے کہ وہ ایام عدت میں اس پر رجوع کر لے لے۔ بخلاف طلاق رجعی طلاق بائن کی صورت میں عقد نکاح کی تجدید کرنا پڑے گی۔ نکاح کے بغیر رجعت نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ حلت تیسری طلاق سے زائل ہوتی ہے اس لیے تیسری طلاق سے قبل عورت کو دوبارہ زوجیت میں لے آنا درست ہے۔

۳۔ طلاق مغلطہ: طلاق مغلطہ سے مراد ایسی طلاق ہے جس کے نتیجے میں مرد اس عورت سے اس وقت تک دوبارہ نکاح نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کی مطلقہ بیوی کسی دوسرے شخص سے نکاح کر کے بعد دخول طلاق حاصل نہ کرے یا وہ مرد فوت ہو جائے اس لیے کہ یہ طلاق وارث ہونے میں مذکورہ بالا دونوں طلاقوں (رجعی اور بائن) سے زیادہ سخت اور شدید ہے۔ اس لیے کہ اس طلاق کے بعد عورت خاوند کی ملک نکاح سے نکل جاتی ہے۔ حلت نکاح زائل ہو جاتی ہے اور دوسرے شوہر کے ساتھ نکاح کیے بغیر پہلے خاوند کے نکاح میں نہیں آ سکتی۔ بایں وجہ اس طلاق کے طلاق مغلطہ کہتے ہیں۔

آزاد عورت تین طلاقوں سے بائن ہو جاتی ہے جبکہ کنیز کے حق میں بیک وقت دو طلاقیں ہی طلاق مغلطہ کا حکم رکھتی ہیں۔ اس لیے طلاق کی اس قسم کو نہایت ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور ایسا شخص عند اللہ گنہگار ہے۔

حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ ان کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ

میں نے اپنی عورت کو تین طلاقیں دیں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ عورت تجھ سے بائٹہ ہوگئی اور تو نے اپنے رب کی نافرمانی کی۔

حضرت عبادہ بن صامتؓ سے روایت ہے کہ ان کے باپ نے اپنی بیوی کو ہزار طلاقیں دیں حضرت عبادہؓ حضور نبی کریم ﷺ کے پاس حاضر ہوئے اور آپ سے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ تین طلاق سے بائٹہ ہوگئی اور نو سو ننانوے زیادتی اور ظلم ہے اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اس پر عذاب پر عذاب کرے اور اگر چاہے تو بخش دے۔

اس طلاق کو شرعی حکم یہ ہے کہ اس سے عورت مرد پر حرام ہو جائے گی اور شوہر سابق کے پاس دوبارہ آنے کی ایک ہی صورت ہے جسے اصطلاح فقہ میں حلالہ کہتے ہیں اور اس کی صورت یہ ہے کہ عورت عدت گزارنے کے بعد دوسرے خاوند سے نکاح کرے۔ خاوند طہی کے بعد اسے طلاق دے۔ اس طلاق کی عدت گزارنے کے بعد عورت پہلے خاوند سے نکاح کر سکتی ہے اس کا ثبوت قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں ہے:

قَاتِنَ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَسْكِبَ زَوْجًا غَيْرَهُ

یعنی جب مرد عورت کو تیسری طلاق (یا تینوں طلاقیں بیک وقت دیدے) تو وہ اس کے لیے اس وقت تک حلال نہیں ہوگی جب تک کہ دوسرے خاوند کے ساتھ نکاح نہ کر لے۔

۳۔ تفویض طلاق

طلاق کے اختیار کو اگر مرد اپنی بیوی کے سپرد کر دے تو اس کا یہ فعل تفویض طلاق کہلائے گا۔ چنانچہ عورت کا مرد سے نکاح کے وقت یہ شرط کرنا کہ وہ طلاق کی مختار ہے شرعاً صحیح ہے اس طرح شوہر کا اپنی زوجہ کو قیام نکاح کے دوران حق طلاق تفویض کرنا بھی جائز ہوتا ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جب مرد نے اپنی عورت کو اس کام کا مالک کیا۔ پھر کوئی بات پوری ہونے سے پہلے دونوں متفرق ہو گئے تو پھر عورت کو اختیار نہیں ہے۔ (طبرانی)

تفویض طلاق کے متعلق چند مسائل حسب ذیل ہیں:

۱۔ **مسئلہ:** عورت سے کہا تجھے اختیار ہے یا تیرا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے اور اس سے مقصود طلاق کا اختیار دینا ہے تو عورت اس مجلس میں اپنے کو طلاق دے سکتی ہے اگرچہ وہ مجلس کتنی ہی طویل ہو اور مجلس بدلنے کے بعد کچھ نہیں کر سکتی اور اگر عورت وہاں موجود نہ تھی یا

موجود تھی مگر سنا نہیں اور اسے اختیار انہی لفظوں سے دیا تو جس مجلس میں اسے اس کا علم ہوا اس کا اعتبار ہے۔ ہاں اگر شوہر نے کوئی وقت مقرر کر دیا تھا مثلاً آج اسے اختیار ہے اور وقت گزرنے کے بعد اسے علم ہوا تو اب کچھ نہیں کر سکتی اور اگر ان لفظوں سے شوہر نے طلاق کی نیت ہی نہ کی تو کچھ نہیں کہ یہ کنایہ ہیں اور کنایہ میں بے نیت طلاق نہیں۔ ہاں اگر غضب کی حالت میں کہا یا اس وقت طلاق کی بات چیت تھی تو اب نیت نہیں دیکھی جائے گی۔ اور اگر عورت نے ابھی کچھ نہ کہا تھا کہ شوہر نے اپنا کلام واپس لیا تو جس مجلس کے اندر واپس نہ ہوگا یعنی بعد واپسی شوہر بھی عورت اپنے کو طلاق دے سکتی ہے۔ اور شوہر اسے منع بھی نہیں کر سکتا۔ اور اگر شوہر نے یہ لفظ کہے کہ تو اپنے کو طلاق دیدے یا تجھے اپنی طلاق کا اختیار ہے جب بھی یہی سب احکام ہیں مگر اس صورت میں عورت نے طلاق دیدی تو رجعی پڑے گی۔ اور مرد کہتا ہے میں نے ایک کی نیت کی تھی تو ایک بھی واقع نہ ہوگی اور اگر شوہر نے تین کی نیت کی یا یہ کہا کہ تو اپنے کو تین طلاقیں دے لے۔ عورت نے ایک دی تو ایک پڑے گی اور اگر کہا تو چاہے تو اپنے کو تین طلاقیں دے۔ عورت نے ایک دی۔ یا کہا تو اگر چاہے تو اپنے کو ایک طلاق دے عورت نے تین دیں تو دونوں صورتوں میں کچھ نہیں مگر پہلی صورت میں اگر عورت نے کہا میں نے اپنے کو طلاق دی ایک اور ایک اور ایک تو تین پڑیں گی۔

۲۔ **مسئلہ:** اگر زوجہ نے بوقت نکاح شوہر سے حق طلاق حاصل کر لیا ہو یا وہ نکاح کے بعد اس حق کی مالک بن گئی ہو تو وہ اس حق کو استعمال کر کے خود کو طلاق دے کر رشتہ زوجیت قطع کر سکتی ہے اور اس طلاق کا اس طرح اعتبار کیا جائے گا جیسا کہ شوہر نے زوجہ کو وہ طلاق خود دی ہو۔

۳۔ **مسئلہ:** تفویض یا تملیک طلاق کے بعد شوہر زوجہ کے اس حق کو فسخ نہیں کر سکتا کیونکہ تفویض کے بعد زوجہ اس اختیار کی بنفسہ مالک ہو جاتی ہے خواہ اس حق کو استعمال کرے یا نہ کرے اور جب چاہے کرے۔ البتہ اگر تفویض طلاق معین مدت کے لیے ہو اور وہ مدت گزر جائے تو عورت کا حق باطل اور بے اثر ہو جائے گا۔

۴۔ **مسئلہ:** شوہر کے اپنی زوجہ کو حق طلاق تفویض کرنے کی صورت میں خود اس کا حق طلاق ساقط نہیں ہوتا۔ چنانچہ اگر شوہر نے اپنی زوجہ کو حق طلاق تفویض کر دیا اور پھر خود اس کو طلاق بائن دے دی تو عورت کا اختیار باطل اور غیر نافذ ہوگا۔

۵۔ **مسئلہ:** تفویض طلاق دراصل خیار طلاق ہے اور خیار دینا ایک فعل کے کرنے یا نہ

کرنے کا مالک کرنا ہوتا ہے کیونکہ مخیر (جس کو اختیار دیا گیا) اس فعل میں اپنی رائے سے تصرف کر سکتا ہے۔ لہذا اگر شوہر اپنی زوجہ کو یہ اختیار دیتا ہے کہ خود کو طلاق دے کر اس مرد کے رشتہ زوجیت سے علیحدہ کر سکتی ہے اور ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ عورت مالک ہو کر صاحب تصرف ہے جس کا منشا یہ ہے کہ مرد کی اس ملکیت میں عورت بھی تصرف کر سکتی ہے۔

۲۔ طلاق صریح

وہ طلاق جو واضح طور پر ایسے الفاظ میں دی جائے جو صرف عورت کو طلاق دینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں طلاق صریح کہلاتی ہے جیسا کہ میں نے تجھے طلاق دی، تجھے طلاق ہے۔ تو مطلقہ ہے تو طالق ہے۔ میں تجھے طلاق دیتا ہوں۔ ان سب الفاظ کی ادائیگی سے طلاق دینے کا مطلب لیا جائے گا۔ غرضیکہ صاف صاف طلاق دینے والے الفاظ کہہ دینے جن سے طلاق دینے کے سوا اور کوئی معنی نہیں نکل سکتے ایسی طلاق صریح کہلاتی ہے۔

۱۔ مسئلہ: طلاق صریح میں خواہ طلاق دینے کی نیت کی ہو یا نہ کی ہو زبان سے طلاق دینے کے واضح طور پر الفاظ نکالتے ہی طلاق ہو جائے گی مگر اس طرح صرف ایک رجعی طلاق واقع ہوگی یعنی عدت ختم ہونے تک عورت کو رکھنے یا نہ رکھنے کا اختیار ہوگا۔

۲۔ مسئلہ: طلاق کے بگڑے ہوئے الفاظ مثلاً طلاغ، طلاغ، طلاک، تلاک، تلاکھ، تلاکھ، تلاخ، تلاخ، طلاق، طلاق، بلکہ توتلے کی زبان سے تلات یہ سب صریح کے الفاظ ہیں۔ ان سب سے ایک طلاق ہوگی اگرچہ نیت نہ ہو یا نیت کچھ اور ہو۔ طلاق کہا اور نیت طلاق ہو تو ایک رجعی ہوگی۔

۳۔ مسئلہ: لفظ طلاق غلط طور پر استعمال کرنے میں عالم جاہل برابر ہیں بہر حال طلاق ہو جائے گی۔ اگرچہ وہ کہے کہ میں نے دھمکانے کے لیے غلط طور پر ادا کیا طلاق مقصود نہ تھی ورنہ صحیح طور پر بولتا۔ ہاں اگر لوگوں سے پہلے کہہ دیا تھا کہ میں دھمکانے کے لیے غلط بولوں گا طلاق مقصود نہ ہوگی تو اب اس کا کہا مان لیا جائے گا۔ (درمختار)

۴۔ مسئلہ: کسی نے پوچھا تو نے اپنی عورت کو طلاق دیدی اس نے کہا ہاں یا کیوں نہیں تو طلاق ہوگئی اگرچہ طلاق دینے کی نیت سے نہ کہا ہو۔ مگر جبکہ ایسی سخت آواز اور ایسے لہجے سے کہا جس سے انکار سمجھا جاتا ہو تو نہیں۔ کسی نے کہا تیری عورت پر طلاق نہیں؟ کہا کیوں نہیں یا کہا کیوں تو طلاق ہوگئی اور اگر کہا نہیں یا ہاں تو نہیں (فتاویٰ رضویہ)

۵۔ مسئلہ: عورت سے کہا اے عورت! طلاق دے گی! اے عورت! اے طلاق شدہ!

اے طلاق یافتہ اے طلاق کردہ طلاق ہو گئی۔ اگرچہ کہے میرا مقصود گالی دینا تھا۔ طلاق دینے نہ تھا اور اگر یہ کہے کہ میرا مقصود یہ تھا کہ وہ پہلے شوہر کی مطلقہ ہے اور حقیقت میں وہ ایسی ہی ہے یعنی شوہر اول کی مطلقہ ہے تو دیا بیٹا اس کا قول مان لیا جائے گا اور اگر وہ عورت پہلے کسی کی منکوحہ تھی ہی نہیں یا تھی مگر اس نے طلاق نہ دی تھی بلکہ مر گیا ہو تو یہ تاویل نہیں مانی جائے گی یونہی اگر کہا تیرے شوہر نے تجھے طلاق دی تو بھی وہی حکم ہے۔ (فتویٰ عالمگیری)

۶۔ مسئلہ: اپنی عورت سے کہا تو مجھ پر حرام ہے تو ایک بائن طلاق ہوگی اگرچہ نیت نہ کی ہو اور اگر وہ اس وقت کی عورت نہ ہو تو یمین ہے۔ حائث ہونے پر کفارہ واجب یونہی اگر یہ کہا کہ میں تجھ پر حرام ہوں۔ اور طلاق کی نیت کی تو واقع ہو گئی اور اگر صرف یہ کہا کہ میں حرام ہوں تو واقع نہ ہوگی۔ (درمختار)

۵۔ اضافت

اضافت کا مطلب اضافہ کرنا ہے یعنی طلاق کے الفاظ کے ساتھ ایسے الفاظ کا اضافہ ہو جس سے مقصد واضح ہو کر عورت ہی کو طلاق سمجھی جائے جسے طلاق دی جا رہی ہے۔ اضافت سے متعلق چند مسائل حسب ذیل ہیں:

۱۔ مسئلہ: طلاق میں اضافت ضرور ہونی چاہیے بغیر اضافت طلاق واقع نہ ہوگی خواہ حاضر کے صیغے سے بیان کرے مثلاً تجھے طلاق ہے یا اشارے کے ساتھ مثلاً اسے یا اس کا نام لے کر کہے کہ فلانی کو طلاق ہے یا اس کے جسم و بدن یا روح کی طرف نسبت کرے یا اس کے کسی ایسے عضو کی طرف نسبت کرے جو کل کے قائم مقام تصور کیا جاتا ہو مثلاً گردن یا سر یا ہر جز و شائع کی طرف نسبت کرے مثلاً نصف تہائی چوتھائی وغیرہ یہاں تک کہ اگر کہا کہ تیرے ہزار حصوں میں سے ایک حصہ کو طلاق ہے تو طلاق ہو جائے گی۔ (درمختار)

۲۔ مسئلہ: جسم کے کسی معمولی حصے کو کہنا کہ اس کو طلاق ہے تو اس طرح طلاق واقع نہیں ہوتی جیسا کہ سر یا گردن پر ہاتھ رکھ کر کہا تیرے اس سر یا اس گردن کو طلاق تو واقع نہ ہوگی۔ اور اگر ہاتھ نہ رکھا اور یوں کہا کہ اس سر کو طلاق اور عورت کے سر کی طرف اشارہ کیا تو واقع ہو جائے گی۔ البتہ اگر صرف ہاتھ یا انگلی یا ناخن یا پاؤں یا بال یا ناک یا پنڈلی یا ران یا پیٹھ یا پیٹ یا زبان یا کان یا منہ یا ٹھوڑی یا دانت یا سینہ کو کہا کہ اسے طلاق ہے تو واقع نہ ہوگی۔ (جوہرہ درمختار)

۳۔ مسئلہ : جزو طلاق بھی پوری طلاق ہے۔ اگر ایک طلاق کا ہزارواں حصہ ہو مثلاً کہا تجھے آدمی یا چوتھائی طلاق ہے تو پوری ایک طلاق پڑے گی کہ طلاق کے حصے نہیں ہو سکتے۔ اگر چند اجزاء ذکر کیے جن کا مجموعہ ایک سے زیادہ نہ ہو تو ایک ہوگی اور ایک سے زیادہ ہو تو دوسری بھی پڑ جائے گی۔ مثلاً ایک طلاق کا نصف اور اس کی تہائی اور چوتھائی کا نصف اور تہائی اور چوتھائی کا مجموعہ ایک سے زیادہ ہے لہذا دو واقع ہوئیں اور اگر اجزاء کا مجموعہ دو سے زیادہ ہے تو تین ہوں گی یونہی ڈیرھ میں دو اور ڈھائی میں تین اور اگر وہ طلاق کے تین نصف کہے تو تین ہوں گی اور ایک طلاق کے تین نصف میں دو۔ اور اگر کہا ایک سے دو تک تو ایک اور ایک سے تین تک تو دو۔ (در مختار وغیرہ)

۴۔ مسئلہ : صریح طلاق میں کسی مقام کی طرف نسبت کر کے کہنا کہ تجھے یہاں سے وہاں تک طلاق ہے تو اس طرح طلاق ہو جاتی ہے اگر یوں کہا جائے کہ تجھے یہاں سے فلاں ملک تک طلاق ہے تو ایک رجعی طلاق ہوگی۔ اگر یہ کہا کہ تجھے فلاں جتنی لمبی اور چوڑی ہے تو اس طرح طلاق بائن واقع ہوگی۔

۵۔ مسئلہ : انگلیوں سے اشارہ کر کے کہا کہ تجھے اتنی طلاقیں تو ایک دو تین جتنی انگلیوں سے اشارہ کیا اتنی طلاقیں ہوئیں یعنی جتنی انگلیاں اشارہ کے وقت کھلی ہوں۔ ان کا اعتبار ہے بند کا اعتبار نہیں اور اگر وہ کہتا ہے کہ میری مراد بند انگلیاں یا ہتھیلی تھی تو یہ قول دیا نسا معتبر ہو گا قضاء معتبر نہیں۔ اور اگر تین انگلیوں سے اشارہ کر کے کہا تجھے اس کی مثل طلاق اور نیت تین طلاق کی ہو تو تین ورنہ ایک بائن اور اگر اشارہ کر کے کہا تجھے اتنی اور نیت طلاق ہے اور لفظ طلاق نہ بولا جب بھی طلاق ہو جائے گی۔ (در مختار زرد المختار)

۶۔ مسئلہ : طلاق میں اضافت زمانی سے بھی طلاق ہو جاتی ہے اگر کسی شخص نے کہا کہ تجھے کل کے روز طلاق ہے تو اسے کل ہوتے ہی طلاق ہو جائے گی۔ اگر کوئی وقت زمانی میں وقت کا نام بھی کہے جیسا کہ فلاں تاریخ کو اتنے بجے یا فلاں دن کو دو پہر یا سہ پہر سے اس طرح وہ وقت آنے پر طلاق ہو جائے گی۔

۶۔ غیر مدخولہ کو طلاق

نکاح کرنے کے بعد جس عورت کے ساتھ خلوت میں سویا نہ جائے اسے غیر مدخولہ کہا جاتا ہے غیر مدخولہ کو طلاق دینے سے طلاق ہو جائے گی۔

۱۔ **مسئلہ** : غیر مدخولہ کو کہا کہ تجھے تین طلاقیں تو تین ہوں گی اور اگر کہا تجھے طلاق' تجھے طلاق' تجھے طلاق' یا کہا تجھے طلاق' طلاق' طلاق' یا کہا تجھے طلاق ہے ایک اور ایک اور ایک تو ان دونوں صورتوں ایک ایک بائن واقع ہوگی باقی لغو و بیکار ہیں یعنی چند لفظوں سے واقع کرنے میں صرف پہلے لفظ سے واقع ہوگی اور باقی کے لیے محل نہ رہے گی اور موطوہ میں بہر حال تین واقع ہوں گی۔ کہا تجھے تین طلاقیں الگ الگ تو ایک ہوگی۔ یونہی اگر کہا تجھے طلاقیں اس طلاق کے ساتھ جو میں تمہیں دوں پھر ایک طلاق دی تو ایک ہی ہوگی۔ (در مختار مسئلہ ۲:- غیر مدخولہ کو طلاق دینے سے صرف طلاق بائن تصور کی جاتی ہے اور ایسی عورت کے لیے طلاق کی عدت بھی کچھ نہیں ہے۔ طلاق ملنے کے بعد فوراً دوسرے مرد سے نکاح کر سکتی ہے اور ایسی عورت کو ایک طلاق دینے کے بعد اب تیسری طلاق بھی دینے کا اختیار نہیں، اگر دیوے گا تو نہ ہوگی البتہ اگر پہلی ہی دفعہ یوں کہہ دے کہ تجھ کو دو طلاق یا تین طلاق' تو جتنی دے ہیں سب پڑ گئیں اور اگر یوں کہا کہ تجھ کو طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے تب بھی ایسی عورت کو ایک ہی طلاق واقع ہوگی۔ (ہدایہ)

۷۔ طلاق کنایہ

الفاظ کی ادائیگی کے لحاظ سے طلاق کی دوسری قسم طلاق کنایہ ہے طلاق کنایہ سے مراد طلاق کے ایسے الفاظ ہیں جن سے طلاق کا ہونا ظاہر نہ ہو مگر ان سے طلاق کا مفہوم نکل سکتا ہو اس کے علاوہ دوسرے معنی بھی مراد لیے جاسکتے ہوں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ اگر کوئی اپنی بیوی کو یوں کہے کہ میں نے تجھ کو دور کیا تو اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ میں نے تجھ کو طلاق دے دی۔ دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ طلاق تو نہیں دی لیکن اب تجھ کو اپنی پاس نہ رکھوں گا۔ ہمیشہ اپنی میسر میں پڑی رہ تیری خبر نہ لوگا۔ یا یوں کہے مجھ سے تیرا کچھ واسطہ نہیں مجھ سے تیرا کچھ مطلب نہیں تو مجھ سے جدا ہوگئی۔ میں نے تجھ کو الگ کیا جدا کر دیا میرے گھر سے چلی جا۔ نکل جا ہٹ دور ہوئے اپنے ماں باپ کے سر جا کے بیٹھ اپنے گھر جا میرا تیرا نباہ نہ ہوگا اسی طرح کی اور لفظ جن میں دونوں مطلب نکل سکتے ہیں ایسی طلاق کو کنایہ کہتے ہیں۔

۱۔ **مسئلہ** : کنایہ سے طلاق واقع ہونے میں یہ شرط ہے کہ نیت طلاق کی ہو یا حالت بتاتی ہو کہ طلاق مراد ہے یعنی پیشتر طلاق کا ذکر تھا یا غصہ میں کہا۔ کنایہ کے الفاظ تین طرح کے ہیں۔ بعض میں سوال رد کرنے کا احتمال ہے بعض میں گالی کا احتمال ہے اور بعض میں نہ یہ

ہے نہ وہ ہے بلکہ جواب کے لئے متعین ہیں اگر رد کا احتمال ہے تو مطلقاً ہر حال میں نیت کی حاجت ہے بغیر نیت طلاق نہیں اور جن میں گالی کا احتمال ہے ان سے طلاق ہونا خوشی اور غصب میں نیت پر موقوف ہے اور طلاق کا ذکر تھا تو نیت کی ضرورت نہیں۔ (در مختار)

۲۔ مسئلہ: کتایہ کے الفاظ جن سے طلاق مراد لیے جاتے ہیں حسب ذیل ہیں:

جا، نکل، چل، روانہ ہوا، کھڑی ہو، پردہ کر دو، پٹہ اوڑھ، نقاب ڈال، سرک، جگہ چھوڑ، گھر خالی کر دو، ہو، چل دو، اے خالی، اے بری، اے جدا، تو جدا ہے، تو مجھ سے جدا ہے، میں نے تجھے بے قید کیا، میں نے تجھ سے مفارقت کی، رستہ ناپ اپنی راہ لے، کالا منہ کہ چال دکھا، چلتی بن، چلتی نظر آ، دفع ہو، والی نے عین ہو، زونو چکر ہو، پنجر خالی کر، ہٹ کے سر، اپنی صورت گما، بستر اٹھا، اپنا سو جھتا دیکھ، اپنی گھڑی باندھ، اپنی نجاست الگ پھیلا، تشریف لے جائے، تشریف کاٹو، کرا لے جائے، جہاں سینگ سائے جا، اپنا مانگ کھا، بہت ہو چکی اب مہربانی فرمائے، اے بے علاقہ، منہ چھپا، جہنم میں جا، چولھے میں جا، بھاڑ میں پڑ، میرے پاس سے چل، اپنی مراد پر فتح مند ہو، میں نے نکاح فسخ کیا، تو مجھ پر مثل مردار، سوز، شراب کے سے (نہ مثل بھنگ یا افیون یا مال فلاں یا زوجہ فلاں کے) تو مثل میری ماں یا بہن یا بیٹی کے ہے (اور یوں کہا کہ تو بہن بیٹی ہے تو گناہ کے سوا کچھ نہیں) تو خلاص ہے تیری گلو خلاصی ہوئی، تو خالق ہوئی، حلال خدا یا حلال مسلماناں یا ہر حلال مجھ پر حرام، تو میرے ساتھ حرام میں ہے، میں نے تجھے تیرے ہاتھ بیچا، اگرچہ کسی عوض کا ذکر نہ آئے، اگرچہ عورت نے یہ نہ کہا کہ میں نے خریدا میں تجھ سے باز آیا۔ میں تجھ سے درگزر، تو میرے کام کی نہیں، میرے مطلب کی نہیں۔ میرے مصرف کی نہیں، مجھے تجھ پر کوئی راہ نہیں، کچھ قابو نہیں، ملک نہیں، میں نے تیری راہ خالی کر دی، تو میری ملک سے نکل گئی، میں نے تجھ سے خلا کیا، اپنے میسے بیٹھ، تیری باگ ڈھیلی کی، تیری رسی چھوڑ دی، تیری لگام اتاری، اپنے رفیقوں سے جا مل، مجھے تجھ پر کچھ اختیار نہیں، میں تجھ سے لادعوئی ہوں، تجھ پر کچھ دعویٰ نہیں، خاوند تلاش کر، میں تجھ سے جدا ہوں یا ہوا۔ (فقط میں جدا ہوں یا ہوا کافی نہیں، اگرچہ بہ نیت طلاق کہا) میں نے تجھے جدا کر دیا۔ میں نے تجھ سے جدائی کی، تو خود مختار ہے، تو آزاد ہے، مجھ میں تجھ میں نکاح نہیں، مجھ میں تجھ میں نکاح باقی نہ رہا، میں نے تجھے تیرے گھر والوں یا باپ یا ماں یا خاوندوں کو دیا۔ یا خود تجھ کو دیا۔ (اور تیرے بھائی یا ماموں یا چچا یا کسی (اجنبی کو) دینا کہا تو کچھ نہیں) مجھ میں تجھ میں کچھ معاملہ نہ رہا یا نہیں، میں

تیرے نکاح سے بیزار ہوں، بری ہوں، مجھ سے دور ہو، مجھے صورت نہ دکھا، کنارے ہو، تو نے مجھ سے نجات پائی۔ الگ ہو۔ میں نے تیرا پاؤں کھول دیا، میں نے تجھے آزاد کیا، آزاد ہو جا، تیری بند کٹی، تو بے قید ہے، میں تجھ سے بری ہوں۔ اپنا نکاح کر جس سے چاہے نکاح کر لے، میرے لیے تجھ پر نکاح نہیں، میں نے تیرا نکاح فسخ کیا وغیرہ سب کنایہ کے الفاظ ہیں۔

۸۔ رجعت

نکاح کا وہ تعلق جو طلاق رجعی کی صورت میں معطل ہو جاتا ہے اسے بحال کر لینے کو رجعت کہا جاتا ہے یعنی اگر کوئی شخص اپنی عورت کو ایک یا دو طلاق رجعی دے چکا ہو تو عدت ختم ہونے سے پہلے اسے یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اس سے رجوع کر لے خواہ وہ راضی ہو یا نہ ہو کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ:

پھر جب وہ اپنی عدت کو پہنچنے لگیں تو انہیں معروف طریقے سے روک لو یا نہیں احسن طریقے سے چھوڑ دو۔ اور اپنے لوگوں میں کے آدمیوں کو گواہ بنا لو اور اللہ کے لیے صحیح شہادت دو۔ یہ اس کو نصیحت کی جاتی ہے جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لئے بہتر صورت پیدا کر دے گا۔

فَاِذَا بَلَغَتِ اَجَلَهَا فَاَمْسِكُوهُنَّ
بِمَعْرُوفٍ اَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
وَاَشْهَدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَاَقِيمُوا
الشَّاهَادَةَ لِلّٰهِ ذٰلِكُمْ يُوعَظُ
بِهٖ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۗ وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ
مَخْرَجًا. (طلاق: ۲)

(طلاق: ۲)

اللہ کے اس حکم سے معلوم ہوا کہ امساک یعنی روکنے سے مراد رجوع کرنا ہے اور اگر عدت کا زمانہ ختم ہو جائے تو پھر شوہر کو رجوع کرنے کا اختیار باقی نہیں رہتا اور زوجہ سے شوہر کا رشتہ ازواج منقطع ہو جاتا ہے۔ چونکہ عدت گزر جانے کے سبب ملکیت نکاح ساقط ہو جاتی ہے اور جو شے ساقط ہو جائے پھر لوٹ کر نہیں آ سکتی۔ البتہ فریقین بعدہ باہمی رضامندی سے دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں۔ رجوع کرنے یعنی روکنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی بیوی کو صاف صاف لفظوں میں کہہ دے کہ میں تجھے رکھ لیتا ہوں۔ یا یہ کہہ دے کہ میں نے تجھ سے رجوع کر لیا کسی اور سے جس سے اسے خبر مل جائے کہہ دے کہ میں نے اپنی بیوی کو رکھ لیا تو اس طرح رجوع ہو جائے گا۔

رجعت کے لیے کسی معاوضے کی ضرورت نہیں کیونکہ رجعت کے ذریعہ اسی چیز کو جو

پہلے سے موجود ہے (یعنی نکاح) آئندہ برقرار رکھا جاتا ہے لہذا اس کے لیے معاوضہ کی ضرورت نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رجوع کرنے کے لیے عورت کی رضامندی بھی ضروری ہے حضرت امام ابو حنیفہ کے نزدیک مرد کا اپنی بیوی سے عدت کے اندر جماع کر لینا رجوع کرنے کا حکم رکھتا ہے۔

بہر حال رجوع کرنے کی مستحسن صورت یہ ہے کہ مرد رجوع کرنے پر دو گواہ بنا لے۔ یہی ابن مسعود کا قول ہے کیونکہ جب ان سے ایسے شخص کے بارے میں فتویٰ لیا گیا جس نے اپنی بیوی سے مجامعت کر لی تو حضرت ابن مسعود نے فرمایا کہ اس شخص نے طلاق دینے اور رجوع کرنے دونوں کاموں میں سنت کی خلاف ورزی کی ہے کیونکہ مسنون طریقہ یہ تھا کہ پہلے دو گواہوں کی موجودگی میں وہ زبانی رجوع کرتا پھر مجامعت کرتا۔

شوہر کا اپنی زوجہ کو ایک یا دو طلاق بائن دینے سے رشتہ زوجیت ختم ہو جائے گا ایسے ہی طلاق رجعی کی جب عدت گزر جاتی ہے تو اس سے بھی رشتہ زوجیت ختم ہو جائے گا اور دونوں صورتوں میں رجعت نہیں ہو سکتی۔ اس کا تفصیلاً حکم یہ ہے کہ طلاق قبل دخول طلاق بالعوض یعنی خلع اور تین طلاق اپنے اندر طلاق بائن کا حکم رکھتی ہیں اور مرد عدت کے دوران رجوع نہیں کر سکتا۔ اسی طرح رجعی طلاق عدت گزر جانے کے بعد بائن ہو جاتی ہے اور مرد بعد ازاں عورت سے رجوع نہیں کر سکتا البتہ فریقین باہمی رضامندی سے دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں۔

اگر کوئی شخص اپنی زوجہ کو بیک وقت ایک کلمہ سے طلاق دے یا متفرق کلمات سے تین مرتبہ طلاق طلاق کہے تو اس وقت تین طلاق بائن (مغلظہ) واقع ہو جائیں گی اور وہ اپنی زوجہ سے رجوع نہ کر سکے گا۔ الا یہ کہ وہ عورت دوسرے مرد سے نکاح کرے اور اس سے طلاق مل جائے یا نکاح فسخ ہو جائے یا وہ مرجائے۔ ایسی صورت میں عدت ختم ہو جانے پر فریقین باہمی رضامندی سے نکاح جدید کر سکتے ہیں۔

اگر زوجہ غیر مدخولہ ہو یعنی اس سے صحبت نہ ہوئی ہو اور اس کو ایک کلمہ سے تین طلاقیں دی جائیں تو تینوں طلاقیں ایک ساتھ واقع ہوگی اور وہ عورت بدوں حلالہ اس مرد سے دوبارہ نکاح نہ کر سکے گا۔

البتہ اگر تین طلاقیں فرداً فرداً دی گئیں تو پہلی طلاق سے وہ زوجہ بائن ہو جائے گی۔ باقی دو طلاقیں بے اثر رہیں گی۔ اس صورت میں حلالہ کے بغیر مرد و عورت باہم نکاح جدید کر سکتے ہیں۔ یہ امر مسلمہ ہے کہ غیر مدخولہ زوجہ ایک طلاق سے بائن ہو جاتی ہے کیونکہ غیر مدخولہ عورت کے لیے کوئی عدت نہیں ہوتی۔

رجعت اس وقت ہے کہ جب تک وہ پچھلے حیض سے پاک نہ ہوئی ہو۔ اس کے بعد رجعت نہیں ہو سکتی۔ جب تیسرے حیض کا خون دس دن کے بعد بند ہو جائے تو عدت گزر جانے کے باعث رجوع کا وقت جاتا رہا۔ اگرچہ عورت نے تا حال غسل نہ کیا ہو اور اگر دس دن سے کم میں خون بند ہو جائے تو جب تک غسل نہ کر لے یا ایک نماز کا کامل وقت نہ گزر جائے رجوع کا وقت ختم نہ ہوگا کیونکہ حیض کی مدت زیادہ سے زیادہ دس دن ہے لہذا جب پوری مدت گزر کر بند ہو گا تو عورت حیض سے فارغ ہوگئی اور اس کی عدت گزر گئی اور رجوع کا وقت جاتا رہا اور دس دن سے کم کی صورت میں اس بات کا احتمال ہے کہ خون دوبارہ آجائے گا اس لیے ضروری ہے کہ اس کا بند ہونا غسل کی حقیقت سے یا پاک عورتوں کے احکام میں سے کسی حکم کے لزوم سے پختہ ہو جائے لیکن عورت اگر اہل کتاب میں سے ہو تو اس کے حق میں چونکہ خون کے انقطاع پر کسی اور نشانی کی توقع نہیں ہو سکتی لہذا اس کے حق میں صرف خون کے بند ہونے پر اکتفا کیا جائے گا۔

جو شخص اپنی بیوی کو طلاق دے جبکہ وہ حاملہ ہو یا اس نے بچہ جنا اور مرد نے اسے طلاق دے دی اور کہا کہ میں نے اس سے مباشرت نہیں کی تھی تو اسے رجوع کا حق حاصل ہے۔ اور اس کے اس قول کا کوئی اعتبار نہیں کہ ”میں نے مباشرت نہیں کی تھی“ کیونکہ حمل جب اتنی مدت میں ظاہر ہوا کہ اس کا اس خاوند سے ہونا تصور میں آسکے تو وہ اسی کا حمل شمار ہوگا۔

۹۔ طلاق غیر موثرہ

بعض افراد کی دی ہوئی طلاق مؤثر نہیں یعنی ان کے طلاق واقع نہ ہوگی۔ وہ افراد حسب ذیل ہیں:

۱۔ **نابالغ کی طلاق:** نابالغ کی طلاق بالاتفاق واقع نہیں ہوتی اگرچہ وہ قریب البلوغ ہو۔ اگر لڑکے نے صغریٰ کی حالت میں طلاق دی اور بلوغ کے بعد اس سابق طلاق کو بحال رکھا تب بھی وہ (سابق) طلاق واقع نہ ہوگی کیونکہ وہ ابتدا ہی سے طلاق دینے کا اہل نہ تھا البتہ وہ از سر نو طلاق دے سکتا ہے۔

۲۔ **پاگل کی طلاق:** دیوانگی یا پاگل پن میں دی ہوئی طلاق واقع نہ ہوگی کیونکہ طلاق دیتے وقت عقل کا ہونا ضروری ہے پاگل یا مجنون اس شخص کو کہتے ہیں جس کی عقل زائل ہو چکی ہو۔ فقہاء کے نزدیک مجنون اس شخص کو کہتے ہیں جس کی قوت تمیز جنون کے سبب مختل ہو جائے، اچھے اور برے میں فرق نہ کر سکے اور اپنے افعال کے انجام کو سمجھنے کی قوت نہ رہے خواہ پیدائشی طور

پر یا کسی آفت یا عارضہ کی بنا پر ہوا ہو۔

۳۔ **معتوہ کی طلاق**: معتوہ یعنی جس کی عقل کام نہ کرے اس کے طلاق دینے سے بھی طلاق مؤثر نہیں ہوتی۔ معتوہ (مغلوب العقل) کا لفظ عتہ سے مشتق ہے اس کے لغوی معنی اختلال عقل کے ہیں، اصطلاحاً معتوہ اس شخص کو کہتے ہیں۔ جو بے عقل ہو بے ربط باتیں کرتا ہو جو منہ میں اے بک جائے۔

۴۔ **مدہوش کی طلاق**: مدہوشی کی حالت میں بھی دی ہوئی طلاق واقع نہ ہوگی مدہوش کا لفظ ”دہش“ سے مشتق ہے یعنی وہ شخص جس کی عقل جاتی رہے۔ فقہی اصطلاح میں مدہوش وہ شخص کہلاتا ہے جو کسی صدمہ، مصیبت یا اچانک حادثہ و غمناک واقعہ یا خوفناک خبر کے معلوم ہونے کے سبب عقل کھو بیٹھے۔

مدہوش کا ذہن ماؤف ہو جاتا ہے اور قوت فکر زائل ہو جاتی ہے اس لیے وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے وقتی طور پر محروم ہونے کے سبب اپنے قول و فعل پر اختیار نہیں رکھتا۔ بنا بریں مدہوش کی طلاق بالاتفاق واقع نہیں ہوتی۔

۵۔ **مغشی کی طلاق**: حالت غشی میں دی گئی طلاق واقع نہ ہوگی۔ مغشی کا لفظ غشی سے مشتق ہے جو محرک اور حسی قوتوں کے تعطل کا نام ہے۔ غشی ایک بے اختیار نیند کے مانند ہے جو بالعموم ضعف قلب کے سبب طاری ہوتی ہے۔ چونکہ ایسی حالت میں انسان کا دل و دماغ اپنے قابو میں نہیں ہوتا اس لیے اس شخص کا احکام شرع کا مکلف قرار نہیں دیا جاسکتا۔ بنا بریں مغشی کی طلاق بالاتفاق واقع نہیں ہوتی۔

۶۔ **مخمی علیہ کی طلاق**: ایسی مرض جس سے عقل مغلوب ہو کر درست کام نہ کرے تو اس حالت میں بھی دی ہوئی طلاق واقع نہ ہوگی جیسا کہ بعض اوقات کسی مرض کے سبب دیوانوں جیسی حالت ہو جاتی ہے۔ مثلاً سرسام۔ چنانچہ سرسام زدہ شخص کی طلاق بالاتفاق واقع نہیں ہوتی کیونکہ میرسم (جس شخص کو سرسام ہو گیا ہو) کو صحیح العقل قرار نہیں دیا جاسکتا بلکہ اس وقت اس کی مثال ایک مجنون یا معتوہ غیر مسلسل کی سی ہے۔ اسی طرح بعض اوقات قلب و دماغ پر ایسی کیفیت وارد ہوتی ہے کہ قوت مدد اپنا کام چھوڑ دیتی ہے۔ ایسے شخص کو فقہی اصطلاح میں مخمی علیہ کہا جاتا ہے۔ ایسے شخص کی دی ہوئی طلاق بھی واقع نہیں ہوتی۔

۷۔ **خوابیدہ کی طلاق**: سوئے ہوئے کی طلاق واقع نہیں ہوتی کیونکہ سوتے وقت کئی ہوئی بات قابل عمل نہیں ہوتی اس لیے اگر کوئی شخص اپنی عورت کو نیند کی حالت میں طلاق

دیدے تو وہ طلاق واقع نہ ہوگی کیونکہ شرعاً سوینوالے کی بات معتبر تصور نہیں کی جاتی۔

۱۰۔ خلع

خلع کا لفظ خلع سے ماخوذ ہے۔ خلع کے لغوی معنی ایک شے سے دوسری شے نکالنے کے ہیں۔ اصطلاحاً خلع کے معنی باہر نکالنے یا اتارنے کے آتے ہیں۔ چونکہ خلع میں عورت مرد کے رشتہ زوجیت سے باہر آ جاتی ہے اس لیے شرعاً خلع کا مفہوم یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی سے مال کر ملک نکاح سے دستبردار ہو جائے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ:

وَلَا يَجِزُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا
اتَّيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا
أَلَّا يُفِيئَا حَدُودَ اللَّهِ فَإِنْ نَفِئْتُمَا
أَلَّا يُفِيئَا حَدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْهِمَا فِي مَا افْتَدَتْ بِهِ مِنْ تِلْكَ
حُدُودِ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوا هَاجٍ وَمَنْ
يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ
الظَّالِمُونَ ۝

اور یہ تمہارے لیے درست نہیں کہ جو تم
عورتوں کو مہر کی صورت میں دیا ہے اس سے کچھ
لو۔ اگر میاں بیوی کو خوف ہو کہ وہ اللہ کے حدود
قائم نہ رکھ سکیں گے تو ان پر کوئی گناہ نہیں عورت
کچھ دے کر علیحدگی حاصل کر لے۔ یہ اللہ کی
حدیں ہیں ان سے تجاوز نہ کرنا پھر جو حدوں سے
باہر نکلیں گے وہی ظالموں میں سے ہوں گے
(البقرہ ۲۲۹)

اللہ تعالیٰ کے اس حکم سے معلوم ہوا کہ جب شوہر اور بیوی میں باہمی جھگڑا ہو (اور صلح کی صورت نہ ہو) اور دونوں کو خوف ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی حدود پر قائم نہیں رہ سکیں گے تو عورت بے عوض مال اپنی جان کو شوہر سے فدویہ ادا کر کے اپنے شوہر سے خلع حاصل کر سکتی ہے۔

حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ حضرت ثابت بن قیسؓ کی زوجہ حبیبہ بنت سہل حضور نبی کریمؐ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کی یا رسول اللہ! میں ثابت بن قیسؓ کے نیک برتاؤ اور خوبی دین میں کچھ عیب نہیں رکھتی۔ مگر مجھے ایمان کے ساتھ نفاق رکھنا ناگوار ہے۔ تو رسول اللہؐ نے فرمایا کیا تو اس کو اس کا باغ (جو مہر میں لیا ہوا تھا) واپس کر دے گی۔ اس نے عرض کیا جی ہاں! آپ نے ثابت بن قیسؓ کو بلا کر فرمایا کہ تو اپنا باغ قبول کر لے اور اس کو طلاق دے دے۔ (بخاری شریف)

میاں بیوی میں گھریلو تنازعے کا سبب صرف عورت ہی کی طرف سے نہیں ہوتا بلکہ مرد کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے جس سے عورت کا دلی سکون ختم ہو جائے اور اس کا زندگی گزارنا محال

ہو جائے اور اسے محسوس ہو کہ اب خاوند سے کسی طرح چھٹکارا حاصل کر لینا ہی بہتر ہے تو ایسی صورت اسلام نے اس ناپسندیدہ شوہر سے گلو خلاصی کے لیے خلع کا حق دیا ہے مگر طلاق اور خلع کے اختیارات نہایت ناگزیر صورت میں آخری چارہ کار سمجھتے ہوئے استعمال کرنے کی اجازت دی ہے تو ناگزیر صورت یہی ہے کہ زوجین کے لیے رشتہ ازدواج ایک مصیبت بن جائے تو ایسی صورت میں میاں بیوی کا سلسلہ مناکحت میں ایک دوسرے کے ساتھ بندھے رہنا نہ صرف فطری تقاضوں کے منافی ہے بلکہ انصاف کا خون ہے۔ لہذا زوجین کے مابین مصالحت کی کوئی صورت نہ ہو اور ازدواجی زندگی شوہر اور بیوی دونوں کے لیے انتہائی تلخیوں اور پریشانیوں سے دوچار ہو جائے اور زیادتی بھی مرد کی طرف سے ہو۔ نہ تو وہ حقوق زوجیت ادا کرے اور نہ ہی طلاق دے الٹا بیوی کو تنگ کرے۔ تو ایسی صورت میں جبکہ نکاح کا مقصد ہی فوت ہو جائے اور حدود اللہ کے ٹوٹنے کا اندیشہ ہو تو عورت کی طرف سے مطالبہ اور کچھ مال کی پیشکش پر زوجین کو تفریق کر لینے کی اجازت ہے۔

۱۔ **مسئلہ:** اگر شوہر کی طرف سے زیادتی ہو تو خلع پر مطلقاً عوض لینا مکروہ ہے اور اگر عورت کی طرف سے ہو تو جتنا مہر دیا ہے اس سے زیادہ لینا مکروہ۔ پھر بھی اگر زیادہ لے لے گا تو قضاء جائز ہے۔ جو چیز مہر ہو سکتی ہے وہ بدل خلع بھی ہو سکتی ہے اور جو چیز مہر نہیں ہو سکتی وہ بھی بدل خلع ہو سکتی ہے مثلاً دس درہم سے کم کو بدل خلع کر سکتے ہیں مگر مہر نہیں کر سکتے۔ (درمختار)

۲۔ **مسئلہ:** مرد نے کہا میں نے تجھ سے خلع کیا عورت نے کہا میں نے قبول کیا تو خلع ہو گیا البتہ اگر عورت نے اسی جگہ جواب نہ دیا۔ وہاں سے کھڑی ہو گئی ہو یا عورت نے قبول ہی نہیں کیا تو کچھ نہیں ہوا۔ لیکن عورت اگر اپنی جگہ بیٹھی رہی اور مرد یہ کہہ کر کھڑا ہوا اور عورت نے اس کے اٹھنے کے بعد قبول کیا تب بھی خلع ہو گیا۔ (درمختار)

۳۔ **مسئلہ:** خلع عورت کی جانب میں اپنے کو مال کے بدلے میں چھڑانا ہے تو اگر عورت کی جانب سے ابتدا ہوئی مگر ابھی شوہر نے قبول نہیں کیا تو عورت رجوع کر سکتی ہے اور اپنے لیے اختیار بھی لے سکتی ہے اور یہاں تین دن سے زیادہ کا بھی اختیار لے سکتی ہے بخلاف بیع کے کہ بیع میں تین دن سے زیادہ کا اختیار نہیں اور دونوں میں سے ایک کی مجلس بدلنے کے بعد عورت کا کلام باطل ہو جائے گا۔ خلع چونکہ معاوضہ ہے لہذا یہ شرط ہے کہ عورت کا قبول اس لفظ کے معنی سمجھ کر ہو بغیر معنی سمجھے اگر محض لفظ بول دے گی تو خلع نہ ہوگا (درمختار)

۴۔ **مسئلہ:** چونکہ شوہر کی جانب سے خلع طلاق ہے لہذا شوہر کا عاقل بالغ ہونا شرط ہے۔

تابالغ یا مجنون خلع نہیں کر سکتا کہ اہل طلاق نہیں اور یہ بھی شرط ہے کہ عورت نے قبول کر لیا روپے کا ذکر نہ مرد نے کیا نہ عورت نے۔ تب بھی جو حق مرد کا عورت پر ہے اور جو حق عورت کا مرد پر ہے سب معاف ہوا۔ اگر مرد کے ذمے مہربانی ہو تو وہ بھی معاف ہو گیا اور اگر عورت پاچکی ہے تو خیراب اس کا پھیرنا واجب نہیں۔ البتہ عدت کے ختم ہونے تک روٹی کپڑا اور رہنے کا گھر دینا پڑے گا۔ ہاں اگر عورت نے کہہ دیا ہو کہ عدت کا روٹی کپڑا اور رہنے کا گھر بھی تجھ سے نہ لوں گی تو خلع ہو سکتا ہے۔ (در مختار زردالمختار)

۵۔ مسئلہ: مرد نے فقط اتنا کہا میں نے تجھ سے خلع کیا اور عورت نے قبول کیا روپے کا ذکر نہ مرد نے کیا نہ عورت نے۔ تب بھی جو حق مرد کا عورت پر اور جو حق عورت کا مرد پر ہے سب معاف ہوا۔ اگر مرد کے ذمے مہربانی ہو تو وہ بھی معاف ہو گیا اور اگر عورت پاچکی ہے تو خیراب اس کا پھیرنا واجب نہیں۔ البتہ عدت کے ختم ہونے تک روٹی کپڑا اور رہنے کا گھر عورت پاچکی ہے تو خیراب اس کا پھیرنا واجب نہیں۔ البتہ عدت کے ختم ہونے تک روٹی کپڑا اور رہنے کا گھر بھی تجھ سے نہ لوں گی تو وہ بھی معاف ہو گیا۔ (فتاویٰ عالمگیری)

۶۔ مسئلہ: اگر ایک عورت خلع کرنے پر راضی نہ ہو لیکن اس کا شوہر اسے ڈانٹ ڈپٹ کر زبردستی خلع کرنے پر راضی کرے تو اس طرح طلاق ہو جائے گی۔ اور مرد کے ذمے جو واجب الاوائتھا وہ اسے لازمی ادا کرنا پڑے گا۔

۷۔ مسئلہ: شوہر نے کہا میں نے تجھ سے اتنے پر خلع کیا عورت نے جواب میں کہا ہاں تو اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ جب تک یہ نہ کہے کہ میں راضی ہوئی یا جائز کیا۔ یہ کہا تو صحیح ہو گیا۔ یونہی اگر عورت نے کہا کہ مجھے ہزار روپیہ کے بدلے میں طلاق دیدے تو مرد نے کہا ہاں تو یہ بھی کچھ نہیں اور اگر عورت نے کہا مجھ کو ہزار روپے کے بدلے میں طلاق ہے۔ شوہر نے کہا ہاں تو ہو گئی۔ (عالمگیری)

۸۔ مسئلہ: نکاح کی وجہ سے جتنے حقوق ایک دوسرے پر تھے وہ خلع سے ساقط ہو جاتے ہیں اور جو حقوق کہ نکاح کے علاوہ ہیں وہ ساقط نہ ہوں گے۔ عدت کا نفقہ اگرچہ نکاح ہے حقوق سے ہے مگر یہ ساقط نہ ہوگا ہاں اگر اس کے ساقط ہونے کی شرط کر دی گئی تو یہ بھی ساقط ہو جائے گا۔ یونہی عورت کے بچہ ہو تو اس کا نفقہ اور دودھ پلانے کے مصارف ساقط نہ ہوں گے اور اگر ان کے ساقط ہونے کی بھی شرط ہے اور اس کے لیے کوئی وقت معین کر دیا ہے تو

ساقط ہو جائیں گے ورنہ نہیں اور بصورت وقت معین کرنے کے اگر اس وقت سے پیشتر بچے کا انتقال ہو گیا تو باقی مدت میں جو صرف ہوتا وہ عورت سے شوہر لے سکتا ہے اور اگر یہ ٹھہرا ہے کہ عورت اپنے مال سے دس برس تک بچے کی پرورش کرے گی تو بچے کے کپڑے کا عورت مطالبہ کر سکتی ہے اور اگر بچے کا کھانا کپڑا دونوں ٹھہرے ہیں تو کپڑے کا مطالبہ بھی نہیں کر سکتی اگرچہ یہ معین نہ کیا ہو کہ کس قسم کا کپڑا پہنائے گی اور بچہ کو چھوڑ کر عورت بھاگ گئی تو باقی نفقہ کی قیمت شوہر وصول کر سکتا ہے۔ اور اگر یہ ٹھہرا ہے کہ بلوغ تک اپنے پاس رکھے گی تو لڑکی میں ایسی شرط ہو سکتی ہے لڑکے میں نہیں۔ (عالمگیری)

۱۱۔ ظہار

خاندان کا اپنی بیوی کو کسی دائمی حرام الزکاح عورت مثلاً ماں بہن خالہ یا پھوپھی سے تشبیہ دینا ظہار کہلاتا ہے۔ ایسے ہی اپنی بیوی کے کسی عضو کو بھی کسی دائمی حرام عورت کے کسی عضو سے تشبیہ دینا بھی ظہار ہے بشرطیکہ یہ عضو ایسا ہو جس سے سارا جسم مراد لیا جائے اس کے متعلق ارشاد باری تعالیٰ یہ ہے کہ:

الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مَّن
نِّسَابِهِمْ مَّا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِنَّ
أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا إِلَىٰ وِلْدَانِهِمْ ذَوُو
أَرْحَامِهِمْ لَيَقُولُونَ مُنكَوٰمَاتٍ مِّنَ الْقَوْلِ
وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ غَفُورٌ

(مجادلہ: ۲)

تم میں سے جو لوگ اپنی عورتوں سے ظہار کرتے ہوئے انہیں ماں کہہ بیٹھیں وہ ان کی مائیں نہیں ہیں ان کی مائیں صرف وہی ہیں جنہوں نے انہیں جنم دیا ہے اور بیشک ایک غیر معقول بات کہتے ہیں۔ اور یہ بات جھوٹ ہے اور بیشک اللہ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ (مجادلہ: ۲)

لفظ ظہار کی اصل ظہر ہے ظہر عربی میں پیٹھ کو کہتے ہیں۔ یہ ایک فقہی اصطلاح ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ مرد اپنی زوجہ کو اپنی ماں کی پیٹھ سے تشبیہ دے۔ اسلام میں ایسی تشبیہ دینے کو حرام اس لیے قرار دیا گیا ہے کہ پیٹھ پر سواری کی جاتی ہے۔ عورت ایک طرح سے مرد کی سواری ہے تو اس سواری کو ایسی عورت کے ساتھ تشبیہ دی گئی جو دائمی حرام ہے۔ شرعی طور پر ظہار کے معنی میں والدہ کے سوا دیگر محرمات یعنی بہنیں خالہ پھوپھی وغیرہ خواہ نسبی ہوں یا رضاعی سے بھی تشبیہ دینا ظہار ہوگا۔

ظہار کا رکن تشبیہ ہے اگر تشبیہ ہو تو ظہار نہ ہوگا مثلاً کوئی اپنی زوجہ سے

کہے تو میری ماں ہے تو یہ ظہار نہیں اگر ماں کے مثل کہے تو ظہار ہوگا۔ ظہار کے واقع ہونے کے لیے خاوند کا مسلمان ہونا ضروری ہے کیونکہ ظہار کے لیے اسلام، عقل اور بالغ ہونا شرط ہے اس لیے نابالغ، ممنون، مدہوش، ذہن بیمار یا سونیا لے نے ظہار کے الفاظ کہے تو یہ ظہار نہ ہوگا۔ البتہ ہنسی مذاق یا نشے کی حالت میں ظہار کا لفظ نکل گیا تو ظہار ہوگا۔ جس عورت سے ظہار کیا گیا ہو اس کا منکوحہ بیوی ہونا ضروری ہے۔ کثیر سے ظہار نہیں ہوگا۔

ظہار کا حکم یہ ہے کہ جب تک کفارہ ادا نہ کر لے اس وقت تک اپنی عورت کے ساتھ میاں بیوی والے تعلقات قائم کرنا درست نہیں۔ ظہار سے نکاح تو ختم نہیں ہوتا بلکہ باقی رہتا ہے مگر ظہار سے صحبت اور بوس و کنار حرام ہو جاتا ہے۔

۱۔ ظہار کا کفارہ: ظہار کا کفارہ غلام آزاد کرنا یا دو ماہ کے پے در پے روزے رکھنا یا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ:

وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے ظہار کرتے ہیں پھر وہی بات کرنا چاہیں جس پر اتنی بڑی بات کہہ چکے تو ان پر لازم ہے کہ وہ ایک غلام آزاد کریں۔ پیشتر اس کے کہ وہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں اللہ تعالیٰ تمہیں یہ نصیحت فرماتا ہے اور تمہارے کاموں سے خبردار ہے جسے غلام نہ ملے تو وہ پے در پے دو ماہ کے روزے رکھے قبل اس کے کہ وہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں۔ جو یہ بھی نہ کر سکے تو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ یہ اس لیے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو۔ یہ اللہ کی حدود ہیں اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ
ثُمَّ يَعُوذُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ
رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَآتَا
ذٰلِكَ تُوَعِّظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ وَمَن لَّمْ يَجِدْ
فِي سِيَارِهِ شَهْرِيْنٍ مَّتَابِعِيْنَ
مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَآتَا فَمَن لَّمْ
يَسْتَطِعْ فَرَطَمَاهُ سِتِّيْنًا
مِّسْكِيْنًا ذٰلِكَ لَتُوَعِّظُوا بِاللَّهِ وَ
رَسُوْلِهِ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ
لِيُكْفِرَ بِئِنَّ عَذَابَ الْيَوْمِ

ظہار کی صورت میں کفارہ ادا کیے بغیر عورت سے ملاپ نہیں کرنا چاہئے اگر کسی شخص نے کفارہ ادا کرنے سے پہلے اپنی عورت سے جنسی ملاپ کر لیا تو اسے توبہ کرنی چاہئے اور اللہ سے استغفار کرنا چاہئے اور دوبارہ کفارہ ادا کیے بغیر عورت سے وطی نہ کرے۔

ظہار کے کفارہ میں غلام آزاد کرنے پر کوئی پابندی نہیں ہے کہ غلام ایسا ہو یا ایسا نہ ہو۔

چنانچہ غلام کافر ہو خواہ مسلمان نہ ہو یا مادہ بالغ ہو یا نابالغ بلکہ شیر خوار بچہ ہی کیا جائے آزاد کرنے سے کفارہ ادا ہو جائے گا۔ غلام پر قدرت نہ ہونے کی صورت میں ظہار کرنے والے کو اجازت ہے کہ وہ دو ماہ کے پے در پے روزے رکھ کر کفارہ ادا کرے۔ ظہار کرنے والے جس شخص میں نہ غلام آزاد کرنے کی طاقت ہو اور نہ روزے رکھنے کی تو اسے ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا چاہیے یہ کھانا صبح و شام کا ہونا چاہیے اگر ایک مسکین کو ساٹھ دن تک کھانا کھلا دیا تو بھی کفارہ ادا ہو جائے گا۔

ظہار کا کفارہ دینے والے کی اجازت سے دوسرا شخص بھی اس کی طرف سے کفارہ ادا کر سکتا ہے اس لیے کہ اس صورت میں یہ قرض لینے کا معاملہ ہو جائے گا جس کی شرعی طور پر اجازت ہے اگر کسی نے دو ظہار کیے تو اس کے بدل میں دو ہی کفارے ادا کرنے پڑیں گے۔

۱۲۔ ایلاء

اپنی بیوی سے صحبت نہ کرنے کی قسم کھانے کو ایلاء کہا جاتا ہے مگر شرط یہ ہے کہ چار ماہ کی مدت سے کم نہ ہو اس کی وضاحت قرآن کریم نے یوں فرمائی ہے:

لَّذِينَ يُؤْتُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ
تَرَبُّصًا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَإِنْ قَامُوا
فَإِنَّ اللَّهَ عَفْوٌ رَحِيمٌ ۝ وَإِنْ
عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ
عَلِيمٌ۔ (البقرہ: ۲۲۶، ۲۲۷)

جو لوگ اپنی عورتوں کے پاس جانے کی قسم کھالیں
ان کو چار مہینے انتظار کرنا چاہیے اگر (اس عرصے
میں قسم سے) رجوع کر لیں تو خدا بخشنے والا
مہربان ہے اور اگر طلاق کا ارادہ کر لیں تو بھی اللہ
سنتا اور جانتا ہے۔ (البقرہ: ۲۲۷، ۲۲۸)

فرمان الہی سے معلوم ہوا کہ جو شخص اپنی بیوی سے کہے کہ اللہ کی قسم! میں تیرے قریب نہ جاؤں گا یا یوں کہے کہ اللہ کی قسم! چار ماہ تک تجھ سے صحبت نہیں کروں گا۔ یا یہ کہے کہ اللہ کی قسم! میں تیرے ساتھ نہیں سوؤں گا۔ اس طرح کے الفاظ جن سے بیوی سے صحبت نہ کرنے کی قسم کھائی جائے ایلاء کہلائے گا۔ پس اگر وہ چار مہینے کے اندر وطی کرے تو اس کی قسم ٹوٹ گئی اور اس پر کفارہ یحییٰ واجب ہو گیا کیونکہ کفارہ قسم ٹورنے کا موجب اور نتیجہ ہے اور ایلاء ساقط ہو گیا کیونکہ قسم حث (توڑنے) سے جاتی رہتی ہے اور اگر وہ چار ماہ عورت کے قریب نہ گیا تو یہ مدت گزرنے پر وہ ایک طلاق سے اس سے جدا (بائن) ہو جائے گی۔

جدائی کی صورت میں اگر اس شخص نے چار ماہ کی قسم کھائی تھی تو قسم ساقط ہو گئی کیونکہ وہ

اس مدت کے ساتھ مشروط و مقید تھی اور اگر اس نے ہمیشہ کی قسم کھائی تھی تو وہ باقی ہے کیونکہ قسم مطلق تھی اور حث نہیں پایا گیا کہ وہ اس سے رفع ہو جاتی۔ لیکن یہ آدمی اگر پھر اس سے نکاح کرنا چاہے تو نکاح سے قبل طلاق مکرر نہیں ہوگی کیونکہ جب عورت بائن ہو چکی تو مرد کی طرف سے اس کے حق کو روکنا نہ پایا گیا۔

ہمیشہ کی قسم کی صورت میں اگر مرد نے پھر اس عورت سے نکاح کر لیا تو ایلاء پھر لوٹ آئے گا اب اگر وہ چار ماہ کے اندر اس سے مباشرت کرے تو کفارہ یمین آئے گا ورنہ اس مدت کے گزرنے پر عورت پر دوسری طلاق واقع ہو جائے گی کیونکہ قسم مطلق تھی لہذا وہ ابھی باقی ہے اور نکاح سے عورت کا حق مرد پر ثابت ہو گیا جس کے روکنے کی وجہ سے ظلم متحقق ہو گیا۔ اور وہ طلاق بائن سے زائل ہوگا اور یہ دوسرا ایلاء اس وقت سے معتبر ہوگا جبکہ دوسری مرتبہ نکاح ہوا ہے اب اگر مرد نے پھر تیسری مرتبہ اس سے نکاح کر لیا تو ایلاء پھر لوٹ آئے گا جو چار ماہ کی مدت کے گزرنے سے ایک اور طلاق کی صورت میں ظاہر ہوگا بشرطیکہ وہ اب بھی اس کے قریب نہ جائے۔ اب عورت کو طلاق مغلظہ ہوگئی اگر وہ کسی دوسرے شخص سے نکاح مباشرت طلاق اور عدت کے بعد پھر پہلے خاوند سے نکاح کر لے تو اب اس ایلاء کی وجہ سے طلاق واقع نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ وہ اس پہلے نکاح کی ملک کے ساتھ مقید تھا۔

اگر مرد نے چار ماہ سے کم کے لیے قسم کھائی تو یہ ایلاء نہیں ہے کیونکہ ابن ابی شیبہ نے حضرت ابن عباسؓ سے روایت کی ہے کہ چار ماہ کیمدت سے مقید کیا ہے تو باقی تین ماہ وہ بلا روک ٹوک اپنی بیوی سے مل سکتا ہے۔ ایک ماہ کی رکاوٹ سے حکم طلاق ثابت نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے کہے کہ واللہ میں تجھ سے دو ماہ اور اس کے بعد دو ماہ نہیں ملوں گا تو وہ ایلاء کرنے والا (مولی) ہے کیونکہ اس نے حرف جمع کے ساتھ دو مدتوں کو جمع کیا ہے۔ اور یونہی ہے جیسے وہ چار ماہ کا لفظ بولتا۔

ایلاء کو اگر کسی شرط کے ساتھ معلق کیا جائے تو بھی صحیح ہے ایلاء ہو جائے گا یعنی اگر شوہر نے حج روزہ صدقہ غلام آزاد کرنا یا طلاق کی قسم کھائی تو وہ ایلاء کرنے والا ہوگا مثلاً بیوی سے یوں کہا کہ اگر میں تجھ سے قربت کروں تو مجھ پر حج کرنا لازم ہوگا یا ایک ماہ کے روزے واجب ہیں یا ایک سو روپیہ صدقہ کرنا لازم ہے یا غلام آزاد کرنا یا بیوی کو طلاق دینا لازم ہوگا۔ چونکہ ان تمام امور میں مرد کو مشق اٹھانا پڑے گی اس لیے یہ قربت کو مانع ہوں گے اسی لیے فقہاء نے فرمایا کہ ایلاء کی تعلیق معمولی ہے کام سے نہیں ہو سکتی۔ مثلاً یوں کہا کہ اگر میں تجھ سے قربت کروں تو

مجھ پر دو رکعت نفل واجب ہوں گے یا ایک دن کا روزہ لازم ہوگا۔ چونکہ اس قسم کے افعال باعث مشقت نہیں ہیں اور قربت کو مانع نہیں ہوں گے لہذا ان سے ایلاء نہیں ہوگا۔

۱۳۔ لعان

ایک دوسرے پر لعنت کرنے کو لعان کہا جاتا ہے۔ شرعی لحاظ سے میاں بیوی میں سے ہر ایک کی جانب سے دوسرے پر تہمت لگانے کی صورت میں قسم کے ساتھ اللہ کی لعنت اور غضب کی شہادت دینا لعان کہلاتا ہے۔ لعان مرد کے حق میں زنا وغیرہ کی تہمت لگانے کے قائم مقام اور عورت کے حق میں زنا کی سزا کے قائم مقام ہوتا ہے۔ لعان کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ:

اور جو لوگ اپنی عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگائیں اور خود ان کے سوا ان کے گواہ نہ ہوں تو ہر ایک کی شہادت یہ ہے کہ پہلے تو چار بار خدا کی قسم کھائے کہ بے شک وہ سچا ہے۔ اور پانچویں (بار) یہ (کہے) کہ اگر وہ جھوٹا ہو تو اس پر خدا کی لعنت۔ اور عورت سے سزا کو یہ بات ٹال سکتی ہے کہ وہ پہلے چار بار خدا کی قسم کھائے کہ بیشک یہ جھوٹا ہے اور پانچویں (دفعہ) یوں (کہے) کہ اگر یہ سچا ہو تو مجھ پر خدا کا غضب (نازل) ہو۔

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ۝ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ۝ وَيَذَرُونَ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ۝ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ۝

(نور: ۶۹)

اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے معلوم ہوا کہ جب کوئی اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگائے یا لڑکا پیدا ہونے پر یہ کہے کہ یہ لڑکا میرا نہیں ہے کیا معلوم کس کا ہے؟ تو اس کا حکم یہ ہے کہ وہ عورت حاکم کے پاس اپنا مسئلہ پیش کرے تو حاکم دونوں سے قسم لے۔ پہلے شوہر سے حلفا کہلائے کہ میں اللہ کو حاضر ناظر گواہ کر کے کہتا ہوں کہ جو تہمت میں نے اپنی بیوی پر لگائی ہے میں اس میں سچا ہوں۔ چار دفعہ یہی تکرار کرے۔ پھر پانچویں دفعہ کہے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو خدا مجھ پر لعنت کرے۔ اس کے بعد عورت حاکم کے سامنے یوں کہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر سمجھتے ہوئے کہتی ہوں کہ اس نے جو تہمت مجھ پر لگائی ہے اس میں یہ جھوٹا ہے اور پانچویں مرتبہ یوں کہے کہ اگر یہ اس تہمت لگانے میں سچا ہے تو مجھ پر اللہ تعالیٰ لعنت کرے۔ جب دونوں قسم کھالیں تو حاکم

دونوں میں علیحدگی کا حکم دے گا۔ اور اس طرح ایک طلاق بائن واقع ہو جائے گی۔ اس طرح قسمیں اٹھا کر لعنت کے اظہار کو لعان کہا جاتا ہے۔

عورت کو کہنا کہ تو زانیہ ہے یا کہنا کہ میں نے تجھ زنا کرتے دیکھا ہے یا تو نے زنا کیا ہے لعان ثابت کرنے کے صریح الفاظ ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر قسم کے الفاظ کہنے سے لعان نہ ہوگا۔ لعان کے معاملے میں مندرجہ ذیل شرائط پائی جائیں تو سمجھیں کہ لعان ہے ورنہ نہیں۔

(۱) نکاح صحیح نہ نکاح فاسد میں عورت پر تہمت لگانے سے لعان نہیں ہوتا۔

(۲) لعان کے وقت زوجیت قائم ہو و دخول ہوا ہو یا نہ ہوا ہو۔

(۳) دونوں آزاد ہوں۔

(۴) دونوں عاقل ہوں۔

(۵) دونوں بالغ ہوں۔

(۶) دونوں مسلمان ہوں۔

(۷) دونوں میں سے کوئی گونگانہ ہو۔

(۸) ان میں سے کسی پر حد قذف نہ لگی ہو۔

(۹) مرد نے اپنے اس قول پر گواہ پیش نہ کیے ہوں۔

(۱۰) عورت زنا سے انکار کرتی ہو اور اپنے کو پارسا کہتی ہو۔

(۱۱) صریح زنا کی تہمت لگائی ہو یا اپنے نکاح سے پیدا شدہ بچے کو کہے کہ یہ میرا نہیں ہے یا عورت کا وہ بچہ جو دوسرے خاوند سے ہو اس کے متعلق یہ کہنا کہ اس کا نہیں۔

(۱۲) تہمت دار الاسلام میں لگائی گئی ہو۔

(۱۳) عورت قاضی کے پاس اس کا مطالبہ کرے۔

(۱۴) شوہر تہمت لگانے کا اقرار کرے یا دو گواہوں سے اس کی تہمت ثابت ہو۔

تہمت لگانے کے بعد اگر مرد لعان کرنے سے انکار کرے تو اسے قید کر دیا جائے گا۔ حتیٰ کہ وہ لعان کرے یا جھوٹ کا اقرار کرے۔ جھوٹ کا اقرار کرنے پر اس پر حد قذف لگائی جائے گی۔ جو نص قرآنی کے مطابق ۸۰ کوڑے ہیں۔ اگر مرد نے لعان کیا اور اس نے لعان کے مذکورہ الفاظ ادا کر دیے تو پھر عورت کو بھی لعان کے الفاظ ادا کرنے واجب ہوں گے اگر وہ انکار کرے تو اسے قید کر دیا جائے گا۔ یہاں تک کہ لعان کا اقرار کرے اور اگر اس نے مرد کی تصدیق کی۔ مثلاً یوں کہا کہ مرد نے سچ کہا تو عورت پر زنا کی حد نہیں لگے گی البتہ اگر اس نے خود اقرار کیا

کہ میں نے زنا کیا تو پھر بشرط اقرار زنا اس پر حد زنا قائم ہوگی۔
 اگر دونوں میاں بیوی لعان کریں تو پھر دونوں کے درمیان تفریق کرائی جائے گی اور
 اس تفریق سے عورت مطلقہ بائنہ ہو جائے گی اگر قاضی نے تفریق نہ کی تو یہ عورت کو طلاق دے
 سکتا ہے۔ ایلا یا ظہار کر سکتا ہے۔ دونوں میں سے کوئی مر جائے تو دوسرا اس کا ترکہ پائے گا اور
 لعان کے بعد اگر دونوں علیحدہ نہ بھی ہونا چاہیں تو پھر بھی ان میں تفریق کر دی جائے گی۔
 لعان کے بعد اگر تفریق ہوگئی تو اس عدت کا نفقہ اور سکنی (رہنے کا مکان) خاوند کے
 ذمہ ہوگا اور اس عدت میں جو بچہ پیدا ہوگا وہ بھی اسی شوہر ہی پر ہوگا۔ اگر شوہر نے اس بچہ کی نسبت
 جو اس کے نکاح میں پیدا ہوا یہ کہا کہ یہ میرا نہیں اور لعان ہوا۔ تو قاضی یا حاکم اسلام اس بچے کا
 نسب شوہر سے منقطع کر کے عورت کی طرف منتسب کر دے گا۔

۱۲۔ عدت

عدت شریعت کی مقرر کردہ مدت ہے جو عورت کو مرد کا اپنے اوپر حق ختم ہونے کے بعد
 گزارتی پڑتی ہے بشرطیکہ مرد نے اس سے صحبت کرنے کے بعد طلاق دی ہو یا مر گیا ہو۔ اس کے
 متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ
 ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ
 يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ
 إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
 اور طلاق والی عورتیں تین حیض تک اپنے آپ کو
 روکے رہیں۔ اور اگر وہ خدا اور روز قیامت پر
 ایمان رکھتی ہیں تو ان کو جائز نہیں کہ خدا نے جو
 کچھ ان کے شکم میں پیدا کیا ہے۔ اس کو
 چھپائیں۔ (بقرہ: ۲۲۸)

جب کسی عورت کا نکاح، طلاق، خلع یا شوہر کے مر جانے کی وجہ سے ٹوٹ جائے تو
 شریعت کے مطابق اسے ایک مدت تک اپنے گھر میں رہنا پڑے گا۔ اس مدت میں نہ وہ کہیں جا
 سکتی ہے اور نہ کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے۔ ایسی مدت کے گزارنے کو عدت کہا جاتا ہے۔

۱۔ مسئلہ: جب مرد اپنی بیوی کو بائن یا دجعی طلاق دے دے یا طلاق کے بغیر ان میں
 جدائی یعنی فرقت واقع ہو جائے اور وہ عورت آزاد ہو اور اسے حیض بھی آتا ہو تو اس کی مدت
 تین حیض ہے۔ بلا طلاق فرقت واقع ہونے کی کئی صورتیں ہیں مثلاً ایلاء، لعان، خلع، غیر کفو
 میں نکاح ہو جانا اور خیاب بلوغ، غیرہ یا قہر ہے کہ علیحدگی چاہے بلا طلاق ہو تو وہ بھی عدت کے

سلسلے میں طلاق ہی کی طرح خیال کی جائے گی۔ بعض فقہاء نے تین حیض کی مدت کو تین ماہ قرار دیا ہے لیکن جسے حیض آتا ہو تو اسے تین حیض مکمل آنے تک عدت گزارنی چاہیے۔

۲۔ **مسئلہ:** اگر عورت کو نابالغی کے باعث یا کبیرا لسن ہونے کی وجہ سے حیض نہ آتا ہو تو اس کی عدت تین ماہ ہے کیونکہ ارشاد الہی ہے کہ تمہاری عورتوں میں جو حیض سے ناامید ہوں اور تم کو شک ہو تو ان کی عدت کی مدت تین مہینے ہے اور یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور اسی طرح وہ عورت جو عمر کے حساب سے تو بالغ ہو چکی ہے لیکن اسے حیض نہیں آتا اس کی عدت بھی تین ماہ ہے۔ اگر کسی لڑکی کو طلاق مل گئی اس نے مہینوں کے حساب سے عدت شروع کی۔ پھر عدت کے اندر ہی ایک یا دو مہینے کے بعد حیض آ گیا تو اب پورے تین حیض آنے تک بیٹھی رہے۔ جب تک تین حیض پورے نہ ہوں عدت ختم نہ ہوگی۔ (در مختار)

۳۔ **مسئلہ:** اگر کسی نے حیض کے زمانہ میں طلاق دے دی تو جس حیض میں طلاق دی ہے اس حیض کا کچھ اعتبار نہیں ہے اس کو چھوڑ کر تین حیض اور پورے کرے (عالمگیری)

۴۔ **مسئلہ:** اگر عورت حاملہ ہو تو اس کی عدت یہ ہے کہ اس کے ہاں بچہ پیدا ہو جائے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اگر عورت کو حمل ہو تو ان پر خرچ کرو یہاں تک کہ وہ بچے کو جنم دے دیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کو حمل ہے اور اسی زمانہ میں طلاق مل گئی تو بچہ پیدا ہونے تک بیٹھی رہے یہی اس کی عدت ہے جب بچہ پیدا ہو گیا تو عدت ختم ہوگئی اور طلاق ملنے کے بعد تھوڑی ہی دیر میں اگر بچہ پیدا ہو گیا تو اسی وقت عدت کی مدت ختم ہو جائے گی۔

۵۔ **مسئلہ:** طلاق کی عدت اس عورت پر ہے جس کو صحبت کے بعد طلاق ملی ہو یا صحبت تو ابھی نہیں ہوئی مگر میاں بیوی میں تنہائی و یکجائی ہو چکی ہے تب طلاق ملی چاہے وہی تنہائی ہوئی ہو جس سے پورا مہر دلایا جاتا ہے یا وہی تنہائی ہوئی ہو جس سے پورا مہر واجب نہیں ہوتا بہر حال عدت بیٹھنا واجب ہے اور اگر بالکل کسی قسم کی تنہائی نہ ہوئی ہو تو عدت واجب نہیں (عالمگیری)

۶۔ **مسئلہ:** کسی نے بے قاعدہ نکاح کر لیا جیسے کسی عورت سے نکاح کیا تھا۔ پھر معلوم ہوا کہ اس کا شوہر ابھی زندہ ہے اور اس نے طلاق نہیں دی۔ یا معلوم ہوا کہ اس مرد عورت نے بچپن میں ایک عورت کا دودھ پیا ہے تو اس کا حکم یہ ہے کہ اگر اس سے صحبت کر لی تو عدت میں بیٹھنا پڑے گی۔ جس وقت سے مرد نے توبہ کر کے جدائی اختیار کی اسی وقت سے عدت شروع ہوگی اور اگر صحبت نہیں ہونے پائی تو عدت واجب نہیں بلکہ ایسی عورت سے اگر خوب تنہائی

و یکجائی بھی ہو چکی تب بھی عدت واجب نہیں۔ (در مختار)۔

۷۔ **مسئلہ:** اگر طلاق دینے کے بعد مرد نے عدت کے اندر دھوکہ میں اس سے صحبت کر لی تو اب دو عدتیں واجب ہو گئیں۔ (ہدایہ)

۸۔ **مسئلہ:** جس عورت سے نکاح فاسد کیا گیا ہو یعنی نکاح بلا گواہ یا ایک بہن کی عدت میں دوسری سے نکاح یا چوتھی عورت کی عدت میں پانچویں سے نکاح یا جس عورت سے شہرہ میں مباشرت کی گئی ہو (یعنی اسے ایسے مرد کے ساتھ خلوت میں جمع کیا گیا جو دراصل اس کا خاوند نہ تھا اور مباشرت ہو گئی) ان دونوں قسم کی عورتوں کی عدت تفریق اور موت دونوں صورتوں میں حیض کے حساب سے ہے کیونکہ ان کی عدت حق نکاح کو پورا کرنے کی خاطر نہیں بلکہ اس لیے ہے کہ ان کے پیٹ کا حمل سے خالی ہونا بطور یقین معلوم ہو جائے اور یہ چیز حیض سے ہی معلوم ہوتی ہے۔

۹۔ **مسئلہ:** اگر ایک کبیر السن حیض سے مایوس عورت کو طلاق ملی اور اس نے تین ماہ کے حساب سے عدت گزارنا شروع کی مگر اس دوران میں اسے خون آ گیا تو اس کی گذشتہ عدت کا لعدم ہے اور اس پر از سر نو تین حیض کے حساب سے عدت واجب ہے۔ خون آنے سے مراد یہ ہے کہ ماہواری سے مایوسی سے قبل جو اس کی عدت تھی اس کے مطابق خون آیا ہو کیونکہ ماہواری ایام کا دوبارہ شروع ہو جانا یا اس (مایوسی) کو صحیح روایت کے مطابق باطل کر دیتا ہے۔ اب نئے سرے سے ماہواری کے شروع ہو جانے سے ظاہر ہو گیا کہ اس عورت کے حق میں مہینے حیض کا قائم مقام نہیں رہے۔ اگر مطلقہ عورت کو دو حیض آ چکے تھے اور پھر یہ سلسلہ بوجہ کبر سنی کے بند ہو گیا تو اب وہ مہینوں کے حساب سے ساری عدت از سر نو گزارے گی تاکہ بدل (مہینے) اور مبدل منہ (حیض) میں جمع کرنے سے احتراز ہو سکے۔

۱۰۔ **مسئلہ:** جب ام ولد (یعنی وہ لونڈی جس کے ہاں آقا سے اولاد پیدا ہو جائے) کا آقا فوت ہو جائے یا وہ اسے آزاد کر دے تو اس کی عدت تین حیض ہے اور اگر ام ولد کو بوجہ کبر سنی کے حیض نہ آتا ہو تو اس کی عدت تین ماہ ہے جیسا کہ نکاح میں بھی یہی حکم ہے کہ ایسی منکوحہ کی عدت تین ماہ ہے۔

۱۱۔ **مسئلہ:** اگر مرد بیوی کو حالت حیض میں طلاق دے دے تو گویہ فعل ناجائز ہے، لیکن طلاق واقع ہو جائے گی اور عورت اس حیض کو عدت میں شمار نہ کرے گی جس میں اسے طلاق ہوئی ہے کیونکہ عدت کا شمار پورا ہونے تک تین حیض کے لیے اس سے کم نہیں ہو سکتا۔

۱۲۔ **مسئلہ:** خاوند کی وفات کی صورت میں آزاد عورت کی عدت چار ماہ دس دن ہے کیونکہ ارشاد خداوندی ہے کہ تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں تو ان کی عورتیں چار ماہ دس دن تک انتظار کریں۔ اس سے معلوم ہوا کہ بیوہ کی عدت چار ماہ دس دن ہے۔ بیوہ عورت شوہر کے ساتھ جس گھر میں رہا کرتی تھی اسی گھر میں رہنا چاہئے۔ باہر نکلنا درست نہیں البتہ اگر کوئی غریب عورت ہے جس کے پاس گزارہ کے قابل خرچ نہیں اس نے کھانے پکانے وغیرہ کی نوکری کر رکھی ہے اس کو جانا اور نکلنا درست ہے لیکن باقی وقت اپنے گھر ہی رہا کرے چاہے صحبت ہو چکی ہو یا نہ ہو اور چاہے کسی قسم کی تنہائی و یکجائی ہوئی ہو یا نہ ہو۔ اور چاہے حیض آتا ہو یا نہ آتا ہو سب کا ایک حکم ہے۔ البتہ اگر وہ عورت پیٹ سے تھی اس حالت میں شوہر مرنا تو بچہ ہونے تک عدت بیٹھے۔ اب مہینوں کا اعتبار نہیں۔ مرنے سے کچھ دیر بعد بچہ پیدا ہو گیا تب عدت بھی ختم ہو گئی۔ (عالمگیری)

۱۳۔ **مسئلہ:** کسی نے اپنی بیماری میں طلاق بائن دے دی اور طلاق کی عدت کے دوران میں وہ مر گیا تو (طلاق یا موت) جس عدت میں زیادہ دن لگیں گے وہ عدت پوری کرے اور اگر بیماری میں طلاق رجعی دی ہے اور ابھی عدت طلاق کی نہ گزری تھی کہ شوہر مر گیا تو اس عورت پر وفات کی عدت لازم ہے۔ (در مختار)

۱۴۔ **مسئلہ:** عورت اپنے شوہر کی اجازت سے والدین کے گھر گئی اس کے پیچھے اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو اس پر فرض ہے کہ اپنے شوہر کی خبر مرگ سنتے ہی فوراً اس کے گھر یعنی جہاں وہ رہتا تھا چلی جائے اور ختم عدت تک وہیں رہے۔

۱۵۔ **مسئلہ:** کسی نے بے قاعدہ نکاح کر لیا تھا جیسا بے گواہوں کے نکاح کر لیا یا بہنوئی سے نکاح ہو گیا اور اس کی بہن بھی اب تک اس کے نکاح میں ہے پھر وہ شوہر مر گیا تو ایسی عورت جس کا نکاح صحیح نہیں ہوا چار مہینے دس دن عدت نہ بیٹھے بلکہ تین حیض تک عدت بیٹھے حیض نہ آتا ہو تو تین مہینے اور حمل سے ہو تو بچہ ہونے تک بیٹھے۔ (ہدایہ)

۱۶۔ **مسئلہ:** اگر کسی کامیاں چاند کی پہلی تاریخ کو مرایا پہلی تاریخ کو طلاق ملی تو چاند کے حساب سے عدت کے مہینے پورے کرے اور اگر پہلی تاریخ کو نہیں مرایا پہلی تاریخ کو طلاق نہیں ملی تو ہر مہینہ تیس تیس دن کا لگا کر عدت پوری کرے۔ چاہے انتیس کا چاند ہو یا تیس کا۔ (عالمگیری)

۱۷۔ **مسئلہ:** کسی کامیاں مر گیا مگر اس کی خبر نہیں ملی۔ چار مہینے دس گزر چکنے کے بعد خبر آئی

تو اس کی عدت پوری ہو چکی۔ اسی طرح اگر طلاق کی خبر مدت عدت گزرنے پر ملی تو اس کی بھی عدت پوری ہوگئی (ہدایہ و درمختار) البتہ اگر کچھ ایام باقی ہوں تو وہ پورے کرے۔

۱۸۔ **مسئلہ:** کسی عورت کو طلاق مل جائے یا اس کا شوہر مر جائے تو (دونوں صورتوں میں) اگر شوہر کے گھر میں بیوہ کے ساتھ رہنے والا کوئی محرم نہ ہو تو دیور وغیرہ جس سے نکاح جائز ہے اپنی عزت و عصمت کے خطرہ سے اس کے ساتھ نہ رہے اور اکیلی بھی نہ رہے بلکہ اپنے باپ کے گھر جا کر عدت گزارے۔ یہ درست ہے۔ (شامی)

۱۹۔ **مسئلہ:** طلاق میں عدت طلاق کے بعد ہی سے شروع ہو جاتی ہے اور وفات میں خاوند کی وفات کے ساتھ ہی اس کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ اگر بیوی کو طلاق یا خاوند کی وفات کا علم نہ ہو حتیٰ کہ عدت کی مدت گزر گئی تو اب اس کی عدت گزر چکی ہے کیونکہ وجود عدت کا سبب طلاق یا وفات ہے۔ پس عدت کی ابتداء کا اعتبار اس وقت سے ہوگا جب سے کہ سبب کا وجود پایا گیا ہے۔

۲۰۔ **مسئلہ:** جو بیمار مرض الموت میں اپنی بیوی کو طلاق مغلظہ یا بائنا دیدے اسے فقہ کی اصطلاح میں فراری مریض کہتے ہیں۔ جب بیوی کی عدت میں ہی وہ فوت ہو جائے تو ائمہ حنفیہ کے اتفاق سے عورت وارث ہوگی۔ ہاں اس عورت کی عدت کی مقدار میں حنفیہ کا اختلاف ہے۔ سوطرفین کے نزدیک اس عورت کی عدت ابعد الاجلیین ہے یعنی تین حیض یا چار ماہ دس دن میں سے جو مدت زیادہ طویل ہوگی وہی اس کی عدت ہے۔

۲۱۔ **مسئلہ:** اگر نکاح مرد کی وجہ سے ٹوٹا تو عورت عدت میں روٹی، کپڑا اور مکان کی حقدار ہے اور اگر عورت کی وجہ سے ٹوٹا جیسے سوتیلے لڑکے سے پھنس گئی یا جوانی کی خواہش سے اسے ہاتھ لگایا اس لیے مرد نے طلاق دے دی یا بدین کافر ہوگئی اور اسلام سے پھر گئی اس لیے نکاح ٹوٹ گیا تو ان سب صورتوں میں عدت کے اندر س کو روٹی، کپڑا نہ ملے گا البتہ رہنے کا گھر ملے گا۔ ہاں اگر وہ خود ہی چلی جائے پھر نہ دیا جائے گا۔

۲۲۔ **مسئلہ:** رجعی اور بائن یا مغلظہ طلاق میں عورت کے لیے اس گھر سے نکلنا (دن کو یا رات کو) جائز نہیں جس میں فرقت کے وقت وہ تھی اور بیوہ دن کو گھر سے باہر رہ سکتی ہے اور رات کو کچھ حصہ بھی حسب ضرورت باہر گزار سکتی ہے لیکن وہ اپنے گھر کے علاوہ کہیں اور رات نہیں گزار سکتی۔

بیوہ عورت کے خروج کے جائز ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس کا نان و نفقہ کسی پر واجب نہیں

لہذا وہ دن کو طلب معاش میں گھر سے باہر جاسکتی ہے اور بعض دفعہ رات گئے تک اسے باہر رہنا پڑتا ہے۔ مطلقہ کا یہ حال نہیں ہے کیونکہ اس کا نفقہ مقرر ہے جو اس کے خاوند کے مال سے اسے برابر ملتا رہتا ہے۔

۲۳۔ **مسئلہ:** اگر زوجین میں طلاق بائن سے یا طلاق ثلاثہ سے فرقت واقع ہوگئی ہو تو اس گھر میں عدت گزارنے کے لیے ان دونوں کے درمیان ایک آڑ کا ہونا ضروری ہے پھر وہ وہیں رہ کر عدت گزار سکتی ہے کیونکہ مرد حرمت کا قائل ہے اور حرام سے پرہیز کرے گا لیکن اگر وہ فاسق ہو اور عورت کو اس سے خدشہ ہو تو وہ وہاں سے نکل سکتی ہے کیونکہ یہ ایک عذر ہے اور جس دوسرے گھر میں جا کر وہ عدت گزارے پھر وہاں سے نہ نکلے اور بہتر تو یہ ہے کہ مرد وہاں سے نکل جائے۔ اور عدت گزارنے تک اسے وہاں رہنے دے۔

۲۴۔ **مسئلہ:** اور اگر عدت میں زوجین کسی قابل اعتبار عورت کو اپنے درمیان مقرر کر لیں جو انہیں جدا رکھنے پر قادر ہو تو یہ بہت اچھا ہے اور اگر وہ دونوں تنگی منزل کے باعث وہاں نہ رہ سکیں تو عورت وہاں سے چلی جائے اور بہتر یہی ہے کہ مرد نکل جائے۔

۲۵۔ **مسئلہ:** جب عورت اپنے خاوند کے ساتھ حج یا عمرہ کے لیے مکہ مکرمہ کو روانہ ہوئی پھر اس نے اسے راستہ میں طلاق ثلاثہ دے دی یا فوت ہو گیا اور یہ واقعہ کسی شہر میں پیش نہیں آیا تو اگر اس عورت اور اس کے شہر کے درمیان تین دن کی مسافت سے کم فاصلہ ہو تو وہ اپنے شہر کو لوٹ آئے۔ کیونکہ یہ خروج ابتدائی طور پر نہیں ہے بلکہ معنوی لحاظ سے ایک نقصان کی تلافی ہے۔

اگر طلاق یا خاوند کی وفات کے مقام اور اپنے وطن میں تین دن کی مسافت ہو تو اگر وہ چاہے تو گھر واپس آ جائے اور چاہے تو سفر جاری رکھے۔ خواہ اس کے ساتھ کوئی ولی ہو یا نہ ہو اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ جب اس کی منزل مقصود کی طرف بھی تین دن کی مسافت باقی ہو (یا زیادہ کی) تو یہ حکم ہے کیونکہ اس مقام پر ٹھہرے رہنا آگے جانے سے زیادہ خوفناک ہے۔ لیکن پھر بھی واپس آنا ہی بہتر ہے تاکہ وہ خاوند کے گھر رہے۔

۱۵۔ عورت کا نفقہ

منکوٰۃ بیوی کی ضروریات زندگی کھانا پینا لباس اور رہائش وغیرہ کو نفقہ کہا جاتا ہے یعنی بیوی کے تمام جائز اخراجات کا مہیا کرنا مرد کے ذمے ہے۔ عورت خواہ کتنی مالدار کیوں نہ ہو عورت

کا ہر طرح کا خرچ اور رہنے کے گھر دینا مرد پر واجب ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ :-

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِوْنُهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا وِجْرًا
وَسَعْيًا۔ (بقرہ: ۲۳۳)

اور دودھ پلانے والی ماؤں کا کھانا اور کپڑا دستور
کے مطابق باپ کے ذمے ہوگا۔ کسی شخص کو اس
کی حیثیت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی۔
(البقرہ: ۲۳۳)

مزید ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ
مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَقْرَبُوا
لِضُرَّتِهِنَّ وَأَرْحَامَكُنَّ
وَالَّذِينَ هُنَّ أُولَاتُ
حَمَلٍ فَإِنَّكُمْ عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ
حَمْلَهُنَّ ۖ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ
فَأُولَهُنَّ أَجْرَهُنَّ ۖ وَإِنَّمَا
بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاوَزْتُمُ
فَسَرِّضْنَ لَهُنَّ الْآخِرَى ۗ

(الطلاق: ۶)

(مطلقہ) عورتوں کو (ایام عدت میں) اپنے
مقدور کے مطابق وہیں رکھو جہاں خود رہتے ہو
اور ان کو تنگ کرنے کے لیے تکلیف نہ دو اور اگر
حمل سے ہوں تو بچہ جنم تک ان کا خرچ دیتے
رہو پھر اگر وہ بچے کو تمہارے کہنے سے دودھ
پلائیں تو ان کو ان کی اجرت دو۔ اور (بچے کے
بارے میں) پسندیدہ طریق سے موافقت رکھو
اور اگر باہم ضد (اور نا اتفاق) کرو گے تو (بچے
کو) اس کے (باپ کے) کہنے سے کوئی اور
عورت دودھ پلائے گی۔ (الطلاق: ۶)

عورت کے نفقہ یعنی اخراجات دینے کے بارے میں حضور ﷺ کے ارشادات مندرجہ

ذیل ہیں:

۱۔ حدیث: حضرت سمرہ بن جندبؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب تم
میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ مال عطا فرمائے تو خرچ کی ابتدا اپنی جان اور اپنے گھر والوں سے
کرے۔ (مسلم شریف)

۲۔ حدیث: حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ حضرت ہند بنت عتبہ عرض گزار ہوئیں بیشک
حضرت ابوسفیانؓ بخیل آدی ہیں جو اتنا خرچ نہیں دیتے کہ میری اولاد کے لیے کافی ہو
سوائے اس کے جو انہیں بتائے بغیر میں خود لے لوں۔ فرمایا تم اپنا لے سکتی ہو جو دستور کے
مطابق تمہاری اولاد کے لیے کافی ہو۔ (بخاری شریف)

۳۔ حدیث: حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ آدی کے

گنہگار ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ جس کا کھانا اس کے ذمے ہو اسے کھانے کو دے۔ (مسلم شریف)

۴۔ حدیث: حضرت سعد بن ابی وقاصؓ سے مروی ہے کہ حضور سرور کائنات ﷺ ارشاد فرمایا کہ جو کچھ تو خرچ کرے گا وہ تیرے لیے صدقہ ہے یہاں تک کہ وہ لقمہ جو بی بی کے منہ میں اٹھا کر دے دے۔ (بخاری شریف)

۵۔ حدیث: حضرت عمرو بن شعیبؓ بن ابیہ بن جدہؓ سے روایت ہے کہ ایک شخص حضور اقدس ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ میرے پاس مال ہے اور میرے مال کی میرے والد کو حاجت ہے۔ فرمایا تو اور تیرا مال تیرے باپ کے لیے ہیں تمہاری اولاد تمہاری عمدہ کمائی سے ہیں اپنی اولاد کی کمائی کھاؤ (ابوداؤد)

۶۔ حدیث: حضرت ابو مسعود انصاریؓ سے مروی ہے کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان جو کچھ اپنے اہل پر خرچ کرے اور نیت ثواب کی ہو تو یہ اس کے لیے صدقہ ہے۔ (بخاری شریف)

عورت اور اولاد کے نفقہ کے بارے میں شرعی مسائل مندرجہ ذیل ہیں:

۱۔ مسئلہ: بیوی مسلم ہو یا کافر اس کا نان و نفقہ خاوند کے ذمہ واجب ہے جبکہ وہ اپنے نفس کو خاوند کے گھر میں اس کے سپرد کر دے۔ تو بیوی کا خرچ لباس اور رہائش کی ذمہ دار کو خاوند پر پڑ جاتی ہے۔ عقد نکاح کے بعد ہی نان و نفقہ کی ذمہ داری خاوند پر ہے۔ چاہے ابھی زوجہ خاوند کے گھر میں منتقل نہ ہوئی ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ بیوی کا نفقہ خاوند پر واجب ہے۔

۲۔ مسئلہ: زوجین دونوں مالدار ہوں تو مالدار (یہاں) کا نفقہ واجب ہے اور اگر دونوں تنگ دست ہوں تو تنگ دستی کا نفقہ واجب ہے۔ اور اگر زوجہ تنگ دست ہو مگر خاوند مالدار ہو تو اس کا نفقہ دولت مندوں کے نفقہ سے کم ہوگا۔ مگر تنگ دستوں کے نفقہ سے زائد۔ امام کرخیؒ نے فرمایا ہے کہ نفقہ میں خاوند کے حال کا اعتبار ہے۔

۳۔ مسئلہ: اگر عورت مہر وصول ہونے تک اپنے نفس کو خاوند کے سپرد کرنے سے انکار کر دے تو بھی وہ نفقہ کی حقدار ہے کیونکہ اس نے ایک حق کی خاطر اپنے آپ کو خاوند سے روکا ہے لہذا اس رکاوٹ کا سبب خود خاوند کی جانب سے ہے۔ پس گویا کہ عورت نے اپنے آپ کو مرد کے سپرد کر دیا ہے۔

۴۔ مسئلہ: عورت خاوند کے گھر سے اس کی اجازت کے بغیر چلی جائے تو جب تک

واپس نہ آئے اس کا نفقہ خاوند پر واجب نہیں کیونکہ اس صورت میں عورت نے اپنے نفس کو خود خاوند سے روک لیا ہے اور جب خاوند کے ہاں واپس آ جائے گی تو اس کے گھر رہنے کی پابندی کو قبول کر کے آئے گی لہذا نفقہ واجب ہوگا۔

۵۔ **مسئلہ:** اگر زوجہ نابالغ ہو کہ اس سے خاوند تمتع حاصل نہیں کر سکتا تو چاہے وہ خاوند کے گھر میں ہو یا نہ اس کا نفقہ خاوند پر واجب نہیں۔ کیونکہ تمتع کا امتناع عورت کی حالت کے باعث ہے اور نفقہ کو واجب کرنے والا احتباس وہ ہے جو نکاح کے باعث ثابت شدہ حق مقصود (مباشرت) کا وسیلہ ہو اور نابالغ کی صورت میں وہ موجود نہیں لیکن عورت اگر بیمار ہو اور مرض کے باعث مباشرت ممکن نہ ہو تو اس کا نفقہ واجب ہے۔

۶۔ **مسئلہ:** اگر خاوند نابالغ ہو جو مباشرت پر قادر نہیں اور عورت بالغ ہو تو عورت کو نابالغ کے مال میں سے نفقہ دلوا یا جائے گا۔ کیونکہ عورت کی طرف سے سپردگی ثابت ہو چکی ہے اور بجز مرد کی طرف سے ہے لہذا وہ مقطوع الاعضاء اور نامرد کی مانند ہوا کہ ان پر بھی زوجہ کا نفقہ واجب ہوتا ہے۔

۷۔ **مسئلہ:** اگر عورت قرض ادا نہ کرنے کے باعث قید ہو جائے تو اس کا نفقہ خاوند پر واجب نہیں ہے کیونکہ خاوند کے گھر رہنے کی شرط کا پورا نہ ہونا عورت کی جانب سے ہے کہ اس نے قرض ادا نہ کیا جس کی وجہ سے وہ مجبوس ہو گئی لیکن اگر عورت قرض کی ادائیگی سے عاجز ہو تو بھی اس میں مرد کا تو قصور نہیں لہذا پھر بھی اس سے نفقہ کا مطالبہ نہیں کیا جاسکتا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص زبردستی سے عورت کو نکال کر لے جائے تو اس کا نفقہ مرد پر واجب رہے گا۔ اس صورت میں چونکہ عورت کا قصور نہیں اور اس پر جبر ہوا ہے لہذا نفقہ واجب ہے۔

۸۔ **مسئلہ:** اگر عورت خاوند کے گھر میں بیمار ہو جائے تو اس کا نفقہ مرد پر واجب ہے۔ امام ابو یوسفؒ نے فرمایا ہے کہ جب عورت نے اپنا نفس خاوند کے سپرد کر دیا پھر بیمار ہو گئی تو سپردگی ثابت ہو جانے کے باعث نفقہ واجب ہے لیکن اگر وہ پہلے بیمار ہوئی پھر اس نے اپنے آپ کو خاوند کے سپرد کر دیا تو نفقہ واجب نہیں کیونکہ سپردگی نہیں ہوئی۔

۹۔ **مسئلہ:** عورت حج کے لیے گئی اور شوہر ساتھ نہ ہو تو نفقہ واجب نہیں اگرچہ محرم کے ساتھ گئی ہو۔ اگرچہ حج فرض ہو اگرچہ شوہر کے مکان پر رہتی تھی۔ اور اگر شوہر کے ہمراہ ہے تو نفقہ واجب ہے حج فرض ہو یا نفل مگر سفر کے مطابق نفقہ واجب نہیں بلکہ حضر کا نفقہ واجب ہے لہذا اگر ایہ وغیرہ مصارف سفر شوہر پر واجب نہیں۔ (جو ہر خانہ)

۱۰۔ **مسئلہ:** شوہر کے مکان میں رہتی ہے مگر اس کے قابو میں نہیں آتی، تو نفقہ ساقط نہیں اور اگر جس مکان میں رہتی ہے وہ عورت کی ملکیت ہے اور شوہر کا آنا وہاں بند کر دیا تو نفقہ نہیں پائے گی۔ ہاں اگر اس نے شوہر سے کہا کہ مجھے مکان میں لے چلو یا میرے لیے کرائے پر کوئی مکان لے دو اور شوہر نہ لے گیا تو قصور شوہر کا ہے لہذا نفقہ کی مستحق ہے۔ یونہی اگر شوہر نے پر ایسا مکان غصب کر لیا ہے اس میں رہتا ہے عورت وہاں رہنے سے انکار کرتی ہے تو نفقہ کی مستحق ہے (عالمگیری)

۱۱۔ **مسئلہ:** دولت مند خاوند پر عورت کے خادم کا اتنا نفقہ واجب ہے جتنا تنگ دست آدمی پر اپنی بیوی کا نفقہ لازم ہے اور اس کی حد یہ ہے کہ کم از کم اس کی تمام ضروریات پوری کرے دے۔ خاوند کے مالدار ہونے کی شرط جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب خاوند تنگ دست ہو تو اس پر نوکر کا خرچ واجب نہیں۔

۱۲۔ **مسئلہ:** جب قاضی نے عورت کے لیے تنگ دستی کا نفقہ مقرر کر دیا پھر خاوند مالدار ہو گیا اور عورت اس سے جھگڑ کر پھر عدالت سے رجوع کرے قاضی اب اس کا فراخ دستی کا نفقہ مقرر کر دے گا۔ کیونکہ فراخی اور تنگ دستی کے حالات سے نفقہ بدل جاتا ہے اور قاضی نے پہلے جس نفقہ کا فیصلہ کیا تھا وہ بحالت مجبوری تھا اصل واجب نفقہ وہ نہیں تھا لہذا جب خاوند کا حال بدل جائے تو عورت اصل نفقہ کا مطالبہ کرنے کا حق رکھتی ہے۔

۱۳۔ **مسئلہ:** نفقی کا ایک جز و سکنی ہے یعنی رہنے کا مکان کہ شوہر جو مکان رہنے کے لیے دے وہ خالی ہو یعنی شوہر کے متعلقین وہاں نہ رہیں اور اگر اس مکان میں شوہر کے متعلقین رہتے ہوں اور عورت نے اس کو اختیار کر لیا کہ سب کے ساتھ رہے تب بھی کوئی مضائقہ نہیں جیسا کہ عام طور پر ہمارے اطراف و بلاد میں دستور ہے۔ ہاں یہ لحاظ ضروری ہے کہ شوہر کے رشتہ دار اسے ناحق ایذا نہ دیں۔ (در مختار و المختار)

۱۴۔ **مسئلہ:** عورت اپنی سوت یا شوہر کے متعلقین کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تو اگر مکان میں کوئی ایسا دالان اس کو دیدے جس میں دروازہ ہو اور عورت اسے بند کر سکتی ہو کہ اس کا سامان محفوظ رہے تو اب دوسرا مکان طلب کرنے سے اختیار نہیں۔ بشرطیکہ شوہر کے رشتہ دار عورت کو تکلیف نہ پہنچاتے ہوں عورت تنہا مکان چاہتی ہے اور شوہر مالدار ہے تو ایسا مکان دے جس میں لٹیرین، غسل خانہ، باورچی خانہ وغیرہ ضروریات کی چیزیں علیحدہ ہوں۔

۱۵۔ **مسئلہ:** نابالغ اولاد کا نفقہ باپ پر واجب ہے جبکہ اولاد کی ملک میں مال نہ ہو اور

بالغ بیٹا اگر اپاہج یا مجنون نابینا ہو کمانے سے عاجز ہو اور اس کے پاس مال نہ ہو تو اس کا نفقہ بھی باپ پر ہے اور لڑکی جبکہ مال نہ رکھتی ہو اور شادی شدہ بھی نہ ہو تو اس کا نفقہ بہر حال باپ پر ہے اگرچہ اس کے اعضاء سلامت ہوں اور لڑکی جب جوان ہو گئی اور اس کی شادی کر دی تو اب شوہر پر نفقہ ہے باپ سبکدوش ہو گیا۔ (عالمگیری)

۱۶۔ **مسئلہ:** عورت کے والدین ہر ہفتہ میں ایک بار اپنی لڑکی کے یہاں آسکتے ہیں شوہر منع نہیں کر سکتا۔ ہاں اگر رات وہاں رہنا چاہتے ہوں تو شوہر کو منع کرنے کا اختیار ہے۔ یونہی عورت اپنے والدین کے یہاں ہر ہفتہ میں ایک بار جا سکتی ہے مگر رات بغیر اجازت اپنے شوہر کے وہاں نہیں رہ سکتی اور غیروں کے یہاں جانے اور ان کی عیادت کرنے یا شادی وغیرہ تقریبوں کی شرکت سے منع کر دے عورت بغیر اجازت جائے گی تو گناہگار ہوگی اور اجازت سے گئی اور وہاں پر وہ کا خیال نہ رکھا اور شوہر کو یہ بات معلوم ہے تو گناہگار ہوگی۔ (در مختار)

۱۷۔ **مسئلہ:** جس کام میں شوہر کی حق تلفی نہ ہوتی ہو نہ اس میں کوئی نقصان ہو۔ اگر عورت گھر میں وہ کام کر لیا کرے جیسے کپڑا سینا پرونا کاڑھنا یا ایسے ہی اور وہ سے کام جن کے لیے گھر سے باہر نہ جانا پڑے تو ایسے کاموں سے منع کرنے کی حاجت نہیں خصوصاً جبکہ شوہر گھر نہ کہ ان کاموں سے جی بہلتا رہے گا اور بے کار بیٹھے گی تو دوسو سے اور خطرے پیدا ہوں گے لایعنی اور فضول باتوں میں مشغول ہوگی۔ (روالمختار)

۱۸۔ **مسئلہ:** اگر باپ مفلس ہے تو کمائے اور بچوں کو کھلائے اور کمانے سے بھی عاجز ہے مثلاً اپاہج ہے تو دادا کے ذمہ نفقہ ہے کہ خود باپ کا نفقہ بھی اس صورت میں اسی کے ذمہ ہے۔ کسی شخص کے مثلاً دو بیٹے ہیں ایک فقط مالک نصاب ہے اور دوسرا بہت مالدار ہے تو نفقہ دونوں پر برابر ہے۔ (در مختار)

۱۹۔ **مسئلہ:** ماں کا نفقہ بھی بیٹے پر ہے اگرچہ اپاہج نہ ہو اگرچہ بیٹا نادار ہو یعنی جبکہ وہ بیوہ ہو اگر نکاح کر لیا ہے تو اس کا نفقہ شوہر پر ہے اگر اس کے باپ کے نکاح میں ہے۔ باپ اور ماں دونوں محتاج ہوں تو دونوں کا نفقہ بیٹے پر ہے۔ (در مختار روالمختار)

۲۰۔ **مسئلہ:** باپ اگر تنگ دست ہو اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں اور یہ بچے محتاج ہوں اور بڑا بیٹا مالدار ہے تو باپ اور اس کی سب اولاد کا نفقہ اس پر واجب ہے۔ (عالمگیری)

۲۱۔ **مسئلہ**: بیٹا اگر ماں باپ دونوں کو نفقہ نہیں دے سکتا ہے مگر ایک کو دے سکتا ہے تو ماں زیادہ مستحق ہے اور اگر والدین میں سے کسی کو پورا نفقہ نہ دے سکتا ہو تو دونوں کو اپنے ساتھ کھلائے۔ جو خود کھاتا پیتا پہنتا ہو اسی میں سے انہیں بھی کھلائے اور پہنائے۔

۲۲۔ **مسئلہ**: باپ بیٹا دونوں ناوار ہیں مگر بیٹا کمانے والا ہے تو بیٹے کو حکم دیا جائے گا کہ باپ کو بھی ہمراہ لے لے لیے جبکہ تنہا ہو اور اگر بال بچوں والا ہے تو مجبور کیا جائے گا کہ باپ کو بھی ہمراہ لے لے۔ (عالمگیری)

۲۳۔ **مسئلہ**: جو رشتہ دار محارم ہوں (یعنی وہ کہ ان سے نکاح ہمیشہ کیلئے حرام ہے) ان کو بھی نفقہ واجب ہے جبکہ وہ حاجت مند ہوں یا نابالغ یا عورت اور رشتہ دار بالغ مرد ہو تو یہ بھی شرط ہے کہ وہ کمانے سے عاجز ہو مثلاً دیوانہ ہے یا اس پر فالج گرا ہے یا اپاہج ہے یا نابینا اور اگر یہ عاجز نہ ہو تو واجب نہیں اگر چہ محتاج ہو اور عورت میں بالغ نابالغ کی قید نہیں بلکہ اگر کمانے پر قادر ہے جب بھی نفقہ واجب ہے۔ ہاں اگر وہ کوئی کام کرتی ہے جس سے اس کا خرچ چلتا ہے تو اب اس کا نفقہ رشتہ دار پر فرض نہیں۔ یونہی اندھا وغیرہ بھی کمانا ہو تو اب کسی اور پر اس کا نفقہ فرض نہیں۔ (ردالمحتار)

۱۶۔ ثبوت نسب

نسب کا ثبوت تو اصل اولاد کو جننے والی کی سچائی ہے لیکن جس عورت کا خاوند ہو جب اس کے گھر اولاد ہوگی تو وہ اسی خاوند کی کہلائے گی۔ کسی کی اولاد کو خواہ مخواہ حرام کا کہہ دینا جائز نہیں اس کیلئے شریعت نے چند اصول وضع فرمائے ہیں (اگر ان کے مطابق بچہ یا بچی ہوگی تو وہ حلال اولاد ہوگی ورنہ حرام اور اسے فقہ میں ثبوت نسب کہا جاتا ہے۔

۱۔ **مسئلہ**: حمل کی مدت کم سے کم چھ مہینے ہے اور زیادہ سے زیادہ دو سال۔ لہذا جو عورت طلاق رجعی کی عدت میں ہے اور عدت پوری ہونے کا اقرار نہ کیا ہو اور بچہ پیدا ہوا تو نسب ثابت ہے اور اگر عدت پوری ہونے کا اقرار کیا اور وہ مدت اتنی ہے کہ اس میں عدت پوری ہو سکتی ہے اور وقت اقرار سے چھ مہینے کے اندر بچہ پیدا ہوا جب بھی نسب ثابت ہے کہ بچہ پیدا ہونے سے معلوم ہوا کہ عورت کا اقرار غلط تھا اور ان دونوں صورتوں میں ولادت سے ثابت ہوا کہ شوہر نے رجعت کر لی ہے جبکہ وقت طلاق سے پورے دو برس یا زیادہ میں بچہ پیدا ہوا اور دو برس سے کم میں پیدا ہوا تو رجعت ثابت نہ ہوگی۔ ممکن ہے کہ طلاق دینے سے پہلے کا

حاصل ہو۔ اور اگر وقت اقرار سے چھ مہینے پر بچہ پیدا ہوا تو نسب ثابت نہیں۔ یونہی اگر طلاق بائن یا موت کی عدت پوری ہونے کا عورت نے اقرار کیا اور وقت اقرار سے چھ مہینے سے کم میں بچہ پیدا ہوا تو نسب ثابت ہے ورنہ نہیں۔ (درمختار)

۲۔ **مسئلہ:** جس عورت کو بائن طلاق دی اور وقت طلاق سے دو برس کے اندر بچہ پیدا ہوا تو نسب ثابت ہے اور دو برس کے بعد پیدا ہوا تو نہیں مگر جب کہ شوہر اس بچے کی نسبت کہے کہ یہ میرا ہے یا ایک بچہ دو برس کے اندر پیدا ہوا اور دوسرا بعد میں تو دونوں کا نسب ثابت ہو جائے گا۔ (درمختار)

۳۔ **مسئلہ:** نکاح کے بعد چھ مہینے سے کم میں بچہ پیدا ہوا تو وہ حرامی ہے اور چھ مہینے یا زیادہ میں پیدا ہوا تو وہ شوہر کا ہے اس پر شبہ کرنا گناہ ہے البتہ اگر شوہر انکار کرے تو لعان کا حکم ہوگا۔ نکاح ہو گیا لیکن ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی کہ بچہ پیدا ہو گیا تو وہ شوہر ہی کا ہے حرامی نہیں۔ اگر شوہر کا نہ ہو تو انکار کرے اور انکار کرنے پر لعان کا حکم ہوگا۔ (عالمگیری)

۱۔ پرورش اولاد

پرورش اولاد کو حصانت کہا جاتا ہے اور اس کا حق صرف عورتوں کو ہے لہذا جب میاں بیوی میں جدائی ہو گئی اور طلاق مل گئی تو جو بچہ اس وقت گود میں ہوگا۔ اس کی پرورش کا حق ماں کو ہوگا کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ ایک عورت کو طلاق ہو گئی اور اس کے خاوند نے بچے پر قبضہ کرنا چاہا تو اس نے حضور سے شکایت کی کہ یا رسول اللہ! میرا یہ بچہ میرے پیٹ میں رہا۔ میری گود میں پلا اور میرے پستان سے دودھ پیتا رہا۔ اب اس کا باپ کہتا ہے کہ وہ اسے مجھ سے چھین لے گا تو حضور نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب تک تو اور نکاح نہ کر لے تو ہی اس کی زیادہ حقدار ہے۔ (ابوداؤد)

اس سے معلوم ہوا کہ بچے کی پرورش کی زیادہ حقدار اس کی ماں ہی ہے کیونکہ ماں بچے پر اوروں سے زیادہ شفیق اور پرورش پر زیادہ قادر ہے لہذا بچہ کو اس کے حوالے کرنا اس کے حق میں زیادہ مفید ہے۔

۱۔ **مسئلہ:** اگر بچے کی ماں نے نکاح کر لیا یا مرگئی یا بچہ کو لینے سے انکار کر دیا تو پرورش کا حق نانی اور پر نانی کو ہے۔ ان کے بعد دادی اور پردادی کو یہ بھی نہ ہوں تو سگی بہنوں کا حق ہے مگر نانی بچے کی پرورش کیلئے دادی سے زیادہ بہتر ہے گو اس کا رشتہ دادی سے بعید ہے یونکہ پرورش کی ولایت ماؤں کی طرف سے حاصل کی جاتی ہے اس لیے کہ ان میں شفقت

زیادہ ہوتی ہے۔

۲۔ **مسئلہ** اگر بچے کی نانی موجود نہ ہو تو دادی کا حق بہنوں سے زیادہ ہے کیونکہ وہ بھی ماؤں میں سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے دادی کی میراث ہمراہ ملتی ہے اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اوپر کا خون اور نسل ہونے کے باعث اس کی شفقت بہنوں سے زیادہ ہوتی ہے۔

۳۔ **مسئلہ** اگر دادی بھی موجود نہ ہو تو بہنیں پھوپھی اور خالہ سے زیادہ اقرب اور بہتر ہیں کیونکہ وہ بچے کے والدین کی بیٹیاں ہیں اور یہی وجہ ہے کہ انہیں میراث میں پھوپھی اور خالہ پر مقدم کیا جاتا ہے ایک روایت کے مطابق خالہ صرف ماں شریک بہن سے بہتر ہے کیونکہ حضورؐ نے ارشاد فرمایا کہ خالہ بھی ماں ہے۔

۴۔ **مسئلہ** بہنوں میں سگی بہن دوسروں سے مقدم ہے کیونکہ وہ زیادہ شفیق ہے۔ پھر ماں شریک بہن اور پھر باپ شریک بہن۔ وجہ یہ ہے کہ بہنوں کا حق حصانت ماں کی وجہ سے ہے اس لیے اخیافی بہنوں کو علانی پر مقدم کیا جائے گا پھر خالائیں پھوپھیوں سے زیادہ حصانت کی حقدار ہیں کیونکہ اس معاملے میں ماں کی قرابت کو ترجیح دی جاتی ہے اور سگی خالہ سوتلی سے اقرب ہے۔ یعنی جس کا رشتہ دونوں طرف سے ہو وہ صرف ماں کی قرابت والی سے اور صرف ماں کی قرابت والی باپ کی قرابت والی سے بہتر ہے۔ پھر پھوپھیوں میں بھی وہی ترتیب ہے جو بہنوں اور خالائوں میں گزری۔ اور ان عورتوں میں سے جس نے بھی نکاح کر لیا اس کا حق حصانت ساقط ہو جائے گا۔

۵۔ **مسئلہ** اگر ماں نے کسی ایسے مرد سے نکاح کر لیا جو بچہ کا رشتہ دار نہیں تو اب اس کو بچہ کی پرورش کا حق نہیں رہا البتہ اگر اسی بچہ کے کسی ایسے رشتہ دار سے نکاح کیا جس سے (بچی کا) نکاح درست نہیں ہوتا جیسے اس کے چچا سے نکاح کر لیا تو ماں کا پرورش کا حق باقی ہے۔ (فتاویٰ ہندیہ)

۶۔ **مسئلہ** ماں اور نانی لڑکے کی پرورش کی اس وقت تک زیادہ حقدار ہیں جب تک کہ وہ اپنے آپ کھانا کھانے پانی پینے لباس پہننے اور طہارت کرنے لگے یعنی بچہ دوسروں سے مستغنی ہو جائے اور بچے کو پورا استغناء اسی وقت حاصل ہوتا ہے جب تک وہ از خود طہارت کرنے لگے۔ استغناء کی وجہ یہ ہے کہ جب لڑکا دوسروں کا محتاج نہ رہے گا تو اب سیکھنے اور مردوں کے اخلاق سیکھنے کیلئے باپ کا محتاج ہوتا ہے اور باپ اس کی تادیب و تہذیب پر زیادہ قادر ہوتا ہے اس لیے فقہاء نے کہا ہے کہ بچہ جب تک سات برس کا نہ ہو اس کی پرورش کا حق

اس کی ماں کو رہتا ہے اور اس کے بعد زبردستی باپ اس کو لے سکتا ہے۔ (درمختار)

۷۔ **مسئلہ:** ماں اور نانی لڑکی کی پرورش کی اس وقت تک زیادہ حقدار ہیں جب تک کہ اسے ماہواری نہ آنے لگے۔ کیونکہ لڑکی دوسروں سے مستغنی ہونے کے بعد اس چیز کی محتاج ہوتی ہے کہ عورتوں کے آداب اور امور خانہ داری کی معرفت حاصل کرے اور عورت اس پر زیادہ قادر ہوتی ہے مگر بلوغت کے بعد وہ حفاظت اور بچاؤ کی زیادہ محتاج ہے اور باپ اس پر زیادہ قوی اور ہدایت یافتہ ہوتا ہے اس لیے جب لڑکی حد بلوغت کو پہنچ جائے تو حفاظت و صیانت کی ضرورت کے پیش نظر اسے باپ کے سپرد دیا جائے گا۔ (درمختار)

۸۔ **مسئلہ:** ماں اور نانی کے علاوہ اگر دوسرے پرورش کنندہ ہوں تو وہ لڑکی کے اس وقت تک زیادہ حقدار ہیں جب تک کہ وہ حد بلوغت کو نہ پہنچ جائے کیونکہ اس کے بعد بھی اگر اسے پرورش کنندہ کے پاس رہنے دیں تو اس میں ایک قسم کا استحدام یعنی خدمت لینا پایا جاتا ہے اور پرورش کرنے والی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ لڑکی سے خدمت لے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ لڑکی سے ملازمت یا کسی اور قسم کی خدمت نہیں کروا سکتی۔ (ہدایہ)

۹۔ **مسئلہ:** دوران پرورش ماں اگر مفت پرورش کرنا نہیں چاہتی اور باپ اجرت دے سکتا ہے تو اجرت دے اور تنگ دست ہے تو ماں کے بعد جن کو حق پرورش ہے اگر ان میں سے کوئی مفت پرورش کرے تو اس کی پرورش میں دیا جائے بشرطیکہ بچے کے غیر محرم سے اس نے نکاح نہ کیا ہو اور ماں سے کہہ دیا جائے کہ یا مفت پرورش کر یا بچہ فلاں کو دیدے مگر ماں اگر بچے کو دیکھنا چاہے یا اسکی دیکھ بھال کرنا چاہے تو منع نہیں کر سکتے اور اگر کوئی دوسری عورت ایسی نہ ہو جس کو حق پرورش ہے مگر کوئی اجنبی شخص یا رشتے دار مرد مفت پرورش کرنا چاہتا ہے تو ماں ہی کو دیں گے اگر چہ اس نے اجنبی سے نکاح کیا ہو اگر چہ اجرت مانگتی ہو۔ (درمختار ردالمحتار)

۱۰۔ **مسئلہ:** جس کیلئے حق پرورش ہے اگر وہ انکار کرے اور کوئی دوسری نہ ہو جو پرورش کرے تو پرورش کرنے پر مجبور کی جائے گی یوں ہی اگر بچہ کی ماں دودھ پلانے سے انکار کرے اور بچہ دوسری عورت کا دودھ نہ لیتا ہو یا مفت کوئی دودھ نہ پلاتی ہو اور بچے یا اس کے باپ کے پاس مال نہیں تو ماں دودھ پلانے پر مجبور کی جائے گی۔ (درالمختار)

۱۱۔ **مسئلہ:** ماں کی پرورش میں بچہ ہو اور وہ اس کے باپ کے نکاح یا عدت میں ہو تو پرورش کا معاوضہ نہیں پائے گی ورنہ اس کا بھی حق لے سکتی ہے اور دودھ پلانے کی اجرت اور بچہ کا نفقہ بھی او اگر اس کے پاس رہنے کا مکان نہ ہو تو یہ بھی اور بچے کے خادم کی ضرورت ہو تو

یہ بھی اور یہ سب اخراجات اگر بچے کا مال ہو تو اس سے دیے جائیں ورنہ جس پر بچے کا نفقہ ہو اسی کے ذمے یہ سب چیزیں ہیں۔ (در مختار)

۱۸۔ ترک زینت یعنی سوگ

عورت کا اپنے آپ کو زینت دینا یعنی سنوارنا اچھا لباس اور زیورات پہننا وغیرہ جب کسی مدت کیلئے چھوڑ دیا جائے تو اسے سوگ کہا جائے گا۔ جس عورت کا مرد فوت ہو جائے تو اس کیلئے ضروری ہے کہ جب چار ماہ دس دن کی عدت پوری کرے۔ تو وہ اس عدت کے دوران اپنے مرد کی جدائی میں گھر سے نہ نکلے اور نہ دوسرا نکاح کرے اور نہ کچھ بناؤ سزا کرے کیونکہ ایسا کرنے اس کیلئے حرام ہے اس لیے روزمرہ کے عام لباس میں رہنے اور زینت کو ترک رکھنے کا نام سوگ ہے۔ اس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ارشادات مندرجہ ذیل ہیں:

۱۔ **حدیث:** حضرت ام المومنین ام حبیبہ اور ام المومنین حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہما سے مروی ہے ”حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہے اسے یہ حلال نہیں کہ کسی میت پر تین راتوں سے زیادہ سوگ کرے مگر شوہر پر کہ چار مہینے دس دن سوگ کرے۔“

۲۔ **حدیث:** حضرت ام المومنین ام سلمہ سے مروی ہے کہ ایک عورت نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ میری بیٹی کے شوہر کی وفات ہو گئی ہے (یعنی وہ عدت میں ہے) اور اس کی آنکھیں دکھتی ہیں کیا اسے سرمہ لگائیں؟ ارشاد فرمایا نہیں، دو یا تین بار یہی کہا کہ نہیں پھر فرمایا کہ یہ تو یہی چار مہینے دس دن ہیں اور جاہلیت میں تو ایک سال گزرنے پر مینگی پھینکا کرتی تھی۔ (بخاری شریف)

۳۔ **حدیث:** حضرت ام عطیہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی عورت کسی میت پر تین دن سے زیادہ سوگ نہ کرے مگر شوہر پر چار مہینے دس دن سوگ کرے اور رنگا ہوا کپڑا نہ پہنے مگر وہ کپڑا کہ بننے سے پہلے اس کا سوت جگہ جگہ باندھ کر رنگتے ہیں اور سرمہ نہ لگائے اور نہ خوشبو چھوئے مگر جب حیض سے پاک ہو تو تھوڑا سا عود استعمال کر سکتی ہے اور مہندی نہ لگائے۔ (ابوداؤد)

۴۔ **حدیث:** حضرت ام سلمہ سے روایت ہے کہ جب میرے شوہر حضرت ابو سلمہ کی وفات ہوئی تو حضور میرے پاس تشریف لائے۔ اس وقت میں نے مصر (ایلوہ) لگا رکھا تھا۔ فرمایا

ام سلمہؓ یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کی کہ یہ ایلوہ ہے اس میں خوشبو نہیں۔ فرمایا اس سے چہرے میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے اور لگانا ہے تو رات کو لگایا کرو اور دن میں صاف کر ڈالا کرو اور خوشبو اور مہندی سے ہال نہ سنوارو۔ میں نے عرض کی تو کنگھا کرنے کیلئے کیا چیز سر پر لگاؤں فرمایا ”پیری کے پتے سر پر تھوپ لیا کرو۔ پھر کنگھا کرو۔“ (نسائی شریف)

۵۔ حدیث: حضرت ام المومنین حضرت ام سلمہؓ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت کا شوہر مر گیا ہے وہ نہ کسی قسم کا رنگا ہوا کپڑا نہ پہنے اور نہ گیرو کارنگا ہوا اور نہ زیور پہنے اور نہ مہندی لگائے اور نہ سرمہ۔ (ابوداؤد)

ان احادیث کی روشنی میں سوگ کے متعلق چند شرعی مسائل حسب ذیل ہیں:

۱۔ مسئلہ: دوران عدت سوگ یہ ہے کہ نہ زینت کی چیزیں پہنے یعنی زیورات نہ پہنے عمدہ قسم کے کپڑے نہ پہنے بلکہ سادہ کپڑے پہنے سرمہ نہ لگائے خوشبو نہ لگائے اور نہ ہی مہندی لگائے۔ غرضیکہ اپنے آپ کو سجانے والا کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے اس کی کشش اور روپ میں اضافہ ہو۔ (درمختار)

۲۔ مسئلہ: عدت کے دوران کسی اور سے نکاح نہ کرنا سوگ میں شامل ہے اور نہ ہی رشتہ دیکھنا چاہیے اور نہ ہی رشتہ کرنے کا پیغام بھیجنا چاہیے کیونکہ عدت کے دوران نکاح کرنا اور نکاح کا پیغام دینا حرام ہے۔ (فتاویٰ عالمگیری)

۳۔ مسئلہ: موت کی عدت میں اگر بقدر کفایت مال ہو تو عورت کو گھر سے باہر جانا درست نہیں اگر اسے اپنے گزارے کیلئے محنت مزدوری کیلئے گھر سے باہر جانا پڑے تو اس کی اجازت ہے مگر رات کو گھر پر رہنا ضروری ہے۔ ایک صورت یہ بھی ہے کہ خرچ بھی موجود ہے مگر باہر جانا اس غرض سے ضروری ہے کہ نہ جانے سے نقصان ہوگا مثلاً زراعت کو دیکھ بھال والا کوئی نہیں اور نہ ہی کوئی اور ہے جس کے ذمے یہ کام لگایا جائے اس کیلئے بھی جاسکتی ہے مگر رات کو اسی گھر پر رہنا ہوگا۔ (درمختار)

۴۔ مسئلہ: جو عورت طلاق رجعی یا طلاق بائن کی عدت میں ہو یا خلع کی عدت میں ہو تو ایسی عورت کو بھی دوران عدت گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں۔ اگر اپنے میکے عدت پوری کر رہی ہو تو وہاں اس کی پابندی کرے اور کسی غرض سے باہر نہ جائے تا بالغ لڑکی پر سوگ واجب نہیں۔ البتہ تا بالغ لڑکی طلاق رجعی کی عدت میں شوہر کی اجازت سے باہر جاسکتی ہے بغیر اجازت نہیں جاسکتی۔ ایسے ہی نکاح فاسدہ کی عدت میں نکلنے کی اجازت سے مگر شوہر منع کر

سکتا ہے۔ (فتاویٰ عالمگیری)

۵۔ **مسئلہ:** جس مکان میں عدت گزارنا واجب ہے اس کو چھوڑ نہیں سکتی مگر اس وقت کہ اسے کوئی نکال دے مثلاً طلاق کی عدت میں شوہر نے گھر میں اس کو نکال دیا یا کرائے کا مکان ہے اور عدت عدت وقات ہے۔ مالک مکان کہتا ہے کہ کرایہ دے یا مکان خالی کر اور اس کے پاس کرایہ نہیں ہے یا وہ مکان شوہر کا ہے مگر اس کے حصہ میں جتنا پہنچتا ہے وہ قابل سکونت نہیں اور درٹا اپنے حصے میں اسے رہنے نہیں دیتے یا کرایہ مانگتے ہیں اور اس کے پاس کرایہ نہیں یا مکان گر رہا ہے یا گرنے کا خوف ہو یا چوروں کا خوف ہو یا مال تلف ہو جانے کا اندیشہ ہو یا آبادی کے کنارے مکان ہے اور مال وغیرہ کا اندیشہ ہے تو ان صورتوں میں مکان بدل سکتی ہے اور اگر کرائے کا مکان ہو اور کرایہ دے سکتی ہے یا ورنہ کرایہ دے کر رہ سکتی ہے تو اسی میں رہنا لازم ہے اور اگر حصہ اتنا ہے کہ اس کے رہنے کے لیے کافی ہے تو اسی میں رہے اور دیگر ورنہ شوہر جن سے پردہ فرض ہے ان سے پردہ کرے اور اگر اس مکان میں نہ چور کا خوف ہے نہ پڑوسیوں کا مگر اس میں کوئی اور نہیں ہے اور تنہا رہنے کا خوف کرتی ہے اگر خوف زیادہ ہو تو مکان بدلنے کی اجازت ہے ورنہ نہیں اور طلاق بائن کی عدت ہے اور شوہر فاسق ہے اور کوئی وہاں ایسا نہیں کہ اگر اس کی نیت بد ہو جائے تو روک سکے ایسی حالت میں مکان بدل دے۔ (عالمگیری درمختار)

۶۔ **مسئلہ:** اگر کسی عورت کا خاوند سفر کے دوران انتقال کر جائے اور عورت بھی ساتھ ہو تو اس عورت کو چاہیے کہ اپنے سفر کو پورا کرے اور واپس اپنے گھر آ کر عدت پوری کرنے اور وہ عرصہ سوگ میں گزارے۔ (درمختار)

حقوق العباد بہترین بیوی

اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں کا حاکم بنایا ہے اور مرد کو بڑی فضیلت دی ہے اس لیے ہر عورت کا فرض ہے کہ وہ اپنے خاوند کا حکم مانے اور ہر شرعی مسئلے میں اس کی تابعداری کرے بلکہ عورت کیلئے اپنے خاوند کو راضی رکھنا بہت بڑی نیکی اور ثواب ہے۔ اس لیے بہترین بیوی وہ ہے جو ہر لحاظ سے خاوند کی اطاعت گزار اور اللہ کا خوف رکھنے والی ہو جو تمام حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کرنے والی ہو اچھی بیوی وہ ہے جو خود تکلیف اٹھا کر اپنے شوہر کو ہمیشہ آرام پہنچانے کی کوشش میں رہے۔ اور جو اپنے شوہر سے اس کی آمدنی سے زیادہ مطالبہ نہ کرے اور جو مل جائے اس پر صبر و قناعت کے ساتھ زندگی گزارے۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ رزق پہنچا دے اس پر راضی رہے اور کبھی مفلسی اور تنگ دستی کا گلہ شکوہ نہ کرے نیک سیرت وہ بیوی ہے جو اپنے شوہر کے سوا کسی اجنبی مرد پر نگاہ نہ ڈالے۔ اور کسی غیر مرد کی نگاہ کو اپنے اوپر پڑنے نہ دے۔ یعنی شرعی پردے کی پابندی کرے اور اپنے خاوند کی عزت و ناموس کی حفاظت کرے اور مشکل وقت میں اپنی جانی و مالی قربانی کے ساتھ اپنی وفاداری کا ثبوت دے۔ شوہر کے مال مکان اور سامان اور خود اپنی ذات کو شوہر کی امانت سمجھ کر ہر چیز کی حفاظت و نگہبانی کرتی رہے۔ بہترین بیوی کی خوبیوں میں یہ بھی شامل ہے کہ اسے اسلام کی بنیادی تعلیم سے مکمل واقفیت حاصل ہو حقوق اللہ اور حقوق العباد کو احسن طریقے سے سرانجام دے۔ غرضیکہ بہترین بیوی وہ ہے جس سے مرد کو سکھ چھین اور دلی سکون حاصل ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورتوں پر جو فوقیت دے رکھی ہے اس کی بنا پر عورت کیلئے اپنے خاوند کی ہر جائز مطالبے میں اطاعت ضروری ہے۔ کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ:

الْبِجَالِ تَوَّاهُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا
فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَ
بِمَا أَلْفَعُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ قَالِصِّحْتِ
فَإِنَّ حِفْظَ الْغَيْبِ بِمَا
حَفِظَ اللَّهُ ، وَ لِي تَعْلَمُونَ

مرد عورتوں پر حاکم ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک کو
دوسرے پر فضیلت دی ہے اور اس وجہ سے کہ
مردوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں۔ پس نیک
فرمانبردار عورتیں خاوند کی عدم موجودگی میں اپنی
حفاظت اور نگہداشت رکھنے والیاں ہیں اور جن

عورتوں کی نافرمانی کا اندیشہ ہوتا نہیں سمجھاؤ اور ان سے الگ سوؤ اور انہیں مار کی سزا دو۔ پھر اگر وہ تمہارے حکم میں آجائیں تو ان پر کوئی راستہ تلاش نہ کرو۔ بیشک اللہ بڑا بلند اور بڑی بڑائی والا ہے۔ (سورہ نساء: ۱۳۴)

لُتُوْرَهُنَّ فَيَطُوْنَهُنَّ وَاللهُ جُوْدٌ
هَنِيْفٌ الْمَصَاحِيْبُ وَاصْرِكُوْهُنَّ
فَاِنْ اَطَعْتِكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ
سَبِيْلًا اِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيْمًا كَبِيْرًا ۝
(نساء: ۱۳۴)

اس آیت میں مرد کی فضیلت کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ مرد اپنی کمائی سے عورت کی ہر لحاظ سے کفالت کرتا ہے اور اس پر بے دریغ اپنی دولت خرچ کرتا ہے اسے بیرونی طاقتوں کے ظلم و ستم سے بچاتا ہے اس لیے اسے برتری حاصل ہے۔

عورتیں وراثت میں انسانی جنس ہی سے پیدا کی گئی ہیں اور مردوں کی دلجوئی کیلئے بنائی گئی ہیں تاکہ مردوں کو ان سے محبت اور سکون حاصل ہو۔

اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہاری جنس سے بیویاں بنائیں تاکہ تم ان سے آرام پاؤ اور تم میں محبت و مہربانی پیدا کی۔

وَمِنْ اٰيٰتِهٖ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ
اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْا اِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ

(سورہ روم: ۲۱)

اچھی بیوی کی خوبیوں اور خصوصیات کے متعلق حضور کے ارشادات حسب ذیل ہیں:

۱۔ حدیث: حضرت ام المومنین ام سلمہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت اس حال میں مری کہ شوہر راضی تھا وہ جنت میں داخل ہوگی۔ (ترمذی شریف)

۲۔ حدیث: حضرت عبداللہ بن ابی اوفیؓ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو حکم کرتا کہ غیر خدا کیلئے سجدہ کرے تو حکم دیتا کہ عورت اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ قسم ہے اس کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے عورت اپنے پروردگار کا حق ادا نہ کرے گی جب تک شوہر کے کل حق ادا نہ کرے۔ (ابن ماجہ و مسند امام احمد)

۳۔ حدیث: حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”اگر آدمی کا آدمی کیلئے سجدہ کرنا درست ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے کہ اس کا اس کے ذمہ بہت بڑا حق ہے۔ قسم ہے اس کی جس کے قبضہ قدرت میں جان ہے اگر قدم سے سر تک شوہر کے تمام جسم میں زخم ہوں جن سے پیپ اور کچ لہو بہتا ہو پھر عورت اسے چالے تو بھی حق شوہر ادا نہ کیا۔“ (مسند امام احمد)

۴۔ حدیث: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ”شوہر نے عورت کو بلایا اس نے انکار کر دیا اور غصہ میں اس نے رات گزاری تو صبح تک اس عورت پر فرشتے لعنت بھیجتے رہے اور دوسری روایت میں ہے کہ جب تک شوہر اس سے راضی نہ ہو اللہ عزوجل اس عورت سے ناراض رہتا ہے۔“ (مسلم شریف)

۵۔ حدیث: حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت جب پانچوں نمازیں پڑھے اور ماہ رمضان کے روزے رکھے اور اپنی عفت کی محافظت کرے اور شوہر کی اطاعت کرے تو جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو۔ (حلیۃ الاولیاء ابو نعیم)

۶۔ حدیث: حضرت معاذؓ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت جب اپنے شوہر کو دنیا میں ایذا دیتی ہے تو حور عین کہتی ہے خدا تجھے قتل کرے اسے ایذا نہ دے یہ تو تیرے پاس مہمان ہے عنقریب تجھ سے جدا ہو کر ہمارے پاس آئے گا۔ (ترمذی شریف)

۷۔ حدیث: حضرت تمیم داریؓ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عورت پر شوہر کا حق یہ ہے کہ اس کے بچھونے کو نہ چھوڑے اور اس کی قسم کو سچا کرے اور بغیر اس کی اجازت کے باہر نہ جائے اور ایسے شخص کو مکان میں آنے نہ دے جس کا آنا شوہر کو پسند نہ ہو۔ (طبرانی)

۸۔ حدیث: حضرت معاذؓ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کوئی عورت اس وقت تک ایمان کا مزہ نہ پائے گی جب تک کہ وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہ کرے۔ (طبرانی)

۹۔ حدیث: حضرت میمونہؓ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو عورت خدا کی اطاعت کرے اور شوہر کا حق ادا کرے اور اسے نیک کام کی یاد دلائے اور اپنی عصمت اور اس کے مال میں خیانت نہ کرے تو اس کے اور شہیدوں کے درمیان جنت میں ایک درجہ کا فرق ہوگا پھر اس کا شوہر با ایمان نیک خو ہے تو جنت میں وہ اس کی بی بی ہے ورنہ شہداء میں سے کوئی اس کا شوہر ہوگا۔ (طبرانی)

۱۰۔ حدیث: حضرت علیؓ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اے عورتو! خدا سے ڈرو اور شوہر کی رضا مندی کی تلاش میں رہو۔ اس لیے کہ عورت کو اگر معلوم ہوتا کہ شوہر کا کیا حق ہے تو جب تک اس کے پاس گھانا گھاس نہ رہتا یہ کھڑی رہتی۔ (حلیۃ ابو نعیم)

۱۱۔ **حدیث:** حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ حضورؐ نے فرمایا ہے کہ شوہر کا حق عورت پر یہ ہے کہ اپنے نفس کو اس سے نہ روکے اور فرض کے علاوہ کسی دن بغیر اس کی اجازت کے روزہ نہ رکھے اگر ایسا کیا یعنی بغیر اجازت روزہ رکھ لیا تو شوہر کو ثواب اور اجازت کے بغیر اس کا کوئی عمل مقبول نہیں اگر عورت نے کر لیا تو شوہر کو ثواب ہے اور عورت پر گناہ اور بغیر اجازت اس کے گھر سے نہ جائے اگر ایسا کیا تو جب تک توبہ نہ کرے اللہ اور فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں۔ عرض کی گئی اگرچہ شوہر ظالم ہو، فرمایا اگرچہ ظالم ہو۔ (ابن عساکر) ان احادیث سے معلوم ہوا کہ عورت پر شوہر کے بہت حقوق ہیں اور ہر عورت کو چاہیے کہ انہیں بخوبی انجام دے۔

۱۔ اچھی عورت کی خوبیاں

عورت کو اپنے گھر میں اچھا ماحول پیدا کرنے کیلئے اور خوشگوار زندگی گزارنے کیلئے مندرجہ ذیل اچھے اوصاف کو اپنانا چاہیے:

۱۔ **مزاج شناسی:** خاوند کے مزاج کو پہچاننے سے بے شمار تلخیوں کا ازالہ ہو جاتا ہے اس لیے ہر عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے مزاج کو پہچان لے اور بغور دیکھتی رہے کہ اس کے شوہر کو کیا چیزیں اور کون کون سی باتیں ناپسند ہیں اور وہ کن کن باتوں سے خوش ہوتا ہے اور کون کون سی باتوں سے ناراض ہوتا ہے۔ اٹھنے، بیٹھنے، سونے، جاگنے، پہننے، اوڑھنے اور بات چیت میں اس کی عادت اور اس کا ذوق کیا اور کیسا ہے۔ خوب اچھی طرح شوہر کا مزاج پہچان لینے کے بعد عورت کو لازم ہے کہ وہ ہر کام شوہر کے مزاج کے مطابق کرے۔ خواہ شوہر کا طرز عمل اور اس کا طریق صحیح ہو یا غلط، عورت کو پسند ہو یا ناپسند۔ لیکن شوہر کی مرضی کیلئے عورت وہی کام کرے جو شوہر کے مزاج کے مطابق ہو۔ ہرگز ہرگز شوہر کے مزاج کے خلاف نہ کوئی بات کرے نہ کوئی کام۔ اور شوہر کے گھر میں قدم رکھتے ہی اپنے اوپر یہ لازم کر لے کہ وہ ہر وقت اور ہر حال میں اپنے شوہر کا دل اپنے ہاتھ میں لیے رہے اور اس کے اشاروں پر چلتی رہے۔ اگر شوہر حکم دے کہ دن بھر دھوپ میں کھڑی رہو یا رات بھر جاگتی ہوئی مجھے پنکھا جھلتی رہو تو عورت کیلئے دنیا اور آخرت کی بھلائی اسی میں ہے کہ تھوڑی تکلیف اٹھا کر اور صبر کر کے اس حکم پر بھی عمل کرے اور کسی وقت اور کسی حال میں بھی شوہر کے حکم کی نافرمانی نہ کرے۔

۲۔ **غصے اور طعنہ زنی سے اجتناب:** اچھی عورت کی ایک خوبی یہ بھی

ہے کہ وہ ہمیشہ طعنہ زنی سے اجتناب کرے اس لیے شوہر کو کبھی جلی کٹی باتیں نہ سنائے۔ نہ کبھی اس کے سامنے غصہ میں چلا چلا کر بولے نہ اس کی باتوں کا کڑوا ٹیکھا جواب دے۔ نہ کبھی اس کو طعنہ دے نہ کو سنے دے نہ اس کی لائی ہوئی چیزوں میں عیب نکالے نہ شوہر کے مکان و سامان وغیرہ کو حقیر بتائے نہ شوہر کے ماں باپ یا اس کے خاندان یا اس کی شکل و صورت کے بارے میں کوئی ایسی بات کہے جس سے شوہر کے دل کو ٹھیس لگے۔ اور خواہ مخواہ اس کو سن کر برا لگے۔ اس قسم کی باتوں سے شوہر کا دل دکھ جاتا ہے اور رفتہ رفتہ شوہر کو بیوی سے نفرت ہونے لگتی ہے جس کا انجام لڑائی جھگڑے کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہاں تک کہ میاں بیوی میں زبردست بگاڑ ہو جاتا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یا تو طلاق کی نوبت آ جاتی ہے یا بیوی اپنے میکہ میں بیٹھ رہنے پر مجبور ہو جاتی ہے اور اپنی بھاد جوں کے طعنے سن سن کر کوفت اور ٹھٹھن کی بھٹی میں جلتی رہتی ہے۔ میکہ اور سسرال والوں کے دونوں خاندانوں میں بھی اس طرح اختلاف کی آگ بھڑک اٹھتی ہے کہ کبھی کورٹ کچہری کی نوبت آ جاتی ہے اور کبھی مار پیٹ ہو کر مقدمات کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ میاں بیوی کی زندگی جہنم بن جاتی ہے اور دونوں خاندان لڑ بھڑ کر تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔

اگر شوہر کو عورت کی کسی بات پر غصہ آ جائے تو عورت کو لازم ہے کہ اس وقت خاموش ہو جائے اور اس وقت ہرگز کوئی ایسی بات نہ بولے جس سے شوہر کا غصہ اور زیادہ بڑھ جائے۔ اگر عورت کی طرف سے کوئی قصور ہو جائے اور شوہر غصہ میں بھر کر عورت کو برا بھلا کہہ دے اور ناراض ہو جائے تو عورت کو چاہیے کہ خود روٹھ کر اور گال پھلا کر نہ بیٹھ جائے بلکہ عورت کو لازم ہے کہ فوراً ہی عاجزی اور خوشامد کر کے شوہر سے معافی مانگے اور ہاتھ جوڑ کر پاؤں پکڑ کر جس طرح وہ مان لے اسے منالے اگر عورت کا کوئی قصور نہ ہو بلکہ شوہر ہی کا قصور ہو پھر بھی عورت کو تن کر اور منہ بگاڑ کر بیٹھ رہنا نہیں چاہیے بلکہ شوہر کے سامنے عاجزی اور انکساری ظاہر کر کے شوہر کو خوش کر لینا چاہیے کیونکہ شوہر کا حق بہت بڑا ہے۔ اس کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ اپنے شوہر سے معافی تلافی کرانے میں عورت کی کوئی ذلت نہیں ہے۔ بلکہ یہ عورت کیلئے عزت اور فخر کی بات ہے کہ وہ معافی مانگ کر اپنے شوہر کو راضی کر لے۔

عورت کو لازم ہے کہ اپنے شوہر کی صورت و سیرت پر نہ طعنہ مارے نہ کبھی شوہر کی تحقیر اور اس کی ناشکری کرے اور ہرگز ہرگز کبھی بھول کر بھی اس قسم کی جلی کٹی بولیاں نہ بولے کہ ہائے اللہ! میں بھی اس گھر میں سکھی نہیں رہی۔ ہائے ہائے! میری تو جارہی ہر مصیبت ہی میں گتی۔ اس

اجڑے گھر میں آ کر میں نے کیا دیکھا۔ میرے ماں باپ نے مجھے بھاڑ میں جھونک دیا کہ مجھے اس گھر میں بیاہ دیا۔ مجھ نگوڑی کو اس گھر میں کبھی آرام نصیب نہیں ہوا۔ ہائے میں کس کم ظرف سے بیاہی گئی۔ اس گھر میں تو ہمیشہ الوہی بولتا رہا۔ اس قسم کے طعنوں اور کوسنوں سے شوہر کی دل شکنی یقینی طور پر ہوگی جو میاں بیوی کے نازک تعلقات کی گردن پر چھری پھیر دینے کے برابر ہے۔ ظاہر ہے شوہر اس قسم کے طعنوں اور کوسنوں کو سن سن کر عورت سے بیزار ہو جائے گا اور محبت کی جگہ نفرت و عداوت کا ایک ایسا خطرناک طوفان اٹھ کھڑا ہوگا کہ میاں بیوی کے خوشگوار تعلقات کی ناؤ ڈوب جائے گی جس پر تمام عمر پچھتا نا پڑے گا۔ مگر افسوس کہ عورتوں کی یہ عادت بلکہ فطرت بن گئی ہے کہ وہ شوہروں کو طعنے اور کوسنے دیتی ہی رہتی ہیں اور اپنی دنیا و آخرت کو تباہ و برباد کرتی رہتی ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں عورتوں کو بکثرت دیکھا۔ یہ سن کر صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ! اس کی کیا وجہ ہے کہ عورتیں بکثرت جہنم میں نظر آئیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ عورتوں میں اپنی بری خصلتوں کی وجہ سے ایک تو ایسی ہے کہ عورتیں اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی رہتی ہیں۔ چنانچہ تم عمر بھر ان عورتوں کے ساتھ اچھے سلوک کرتے رہو لیکن اگر کبھی ایک ذرا سی کمی تمہاری طرف سے دیکھ لیں گی تو یہی کہیں گی کہ میں نے کبھی تم سے کوئی بھلائی دیکھی ہی نہیں۔ (بخاری شریف)

۳۔ خرچ میں قناعت و سلیقہ شعاری: عورت کو چاہیے کہ شوہر کی آمدنی سے زیادہ خرچ نہ مانگے بلکہ جو کچھ ملے اس پر صبر و شکر کے ساتھ اپنا گھر سمجھ کر اسی خوشی کے ساتھ زندگی بسر کرے۔ اگر کوئی زیور یا کپڑا یا سامان پسند آ جائے تو شوہر کی مالی حالت ایسی نہیں ہے کہ وہ اس کو لاسکے تو کبھی ہرگز ہرگز شوہر سے اس کی فرمائش نہ کرے اور اپنی پسند کی چیزیں نہ ملنے پر کبھی کوئی شکوہ شکایت نہ کرے نہ غصہ سے منہ پھلائے۔ نہ طعنہ مارے نہ افسوس ظاہر کرے بلکہ بہترین طریقہ یہ ہے کہ عورت شوہر سے کسی چیز کی فرمائش ہی نہ کرے کیونکہ بار بار کی فرمائشوں سے عورت کا وزن شوہر کی نگاہ میں گھٹ جاتا ہے۔ ہاں اگر شوہر خود ہی پوچھے کہ میں تمہارے لیے کیا لاؤں تو عورت کو چاہیے کہ شوہر کی مالی حیثیت دیکھ کر اپنی پسند کی چیز طلب کرے اور جب شوہر کوئی چیز لائے تو وہ پسند آئے یا نہ پسند آئے مگر عورت کو ہمیشہ یہی چاہیے کہ وہ اس پر خوشی کا اظہار کرے۔ ایسا کرنے سے شوہر کا دل بڑھ جائے گا۔ اس کا حوصلہ بلند ہو جائے گا اور اگر عورت نے شوہر کی لائی ہوئی چیز کو ٹھکرا دیا اور اس میں عیب نکالا یا اس کو حقیر سمجھا تو اس سے شوہر کا دل ٹوٹ جائے گا۔ جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ شوہر کے دل میں بیوی کی طرف سے نفرت پیدا ہو

جائے گی اور آگے چل کر لڑائی جھگڑے کا بازار گرم ہو جائے گا۔ اور میاں بیوی کی شادمانی و مسرت کی زندگی خاک میں مل جائے گی۔

ہر بیوی کا یہ بھی فرض ہے کہ وہ اپنے شوہر کی آمدنی اور گھر کے اخراجات کو ہمیشہ مد نظر رکھے اور گھر کا خرچ اس طرح چلائے کہ عزت و آبرو سے زندگی بسر ہوتی رہے اگر شوہر کی آمدنی کم ہو تو ہرگز ہرگز شوہر پر بے جا فرمائشوں کا بوجھ نہ ڈالے اس لیے کہ اگر عورت نے شوہر کو مجبور کیا اور شوہر نے بیوی کی محبت میں قرض کا بوجھ اپنے سر پر اٹھالیا اور خدا نہ کرے اس قرض کا ادا کرنا دشوار ہو گیا تو گھریلو زندگی میں پریشانیوں کا سامنا ہو جائے گا اور میاں بیوی دونوں کی زندگی تنگ ہو جائے گی اس لیے ہر عورت پر لازم ہے کہ صبر و قناعت کے ساتھ جو کچھ بھی ملے خدا کا شکر ادا کرے اور شوہر کی جتنی آمدنی ہو اسی کے مطابق خرچ کرے اور گھر کے اخراجات کو ہرگز ہرگز آمدنی سے نہ بڑھنے دے۔

عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر سے اس کی آمدنی اور خرچ کا حساب نہ لیا کرے کیونکہ شوہروں کے خرچ پر عورتوں کے روک ٹوک لگانے سے عموماً شوہروں کو چڑ پیدا ہوتی ہے اور شوہروں پر غیرت سوار ہو جاتی ہے کہ میری بیوی ہو کر مجھ پر حکومت جتاتی ہے اور میری آمدنی و خرچ کا مجھ سے حساب طلب کرتی ہے۔ اس چڑ کا انجام یہ ہوتا ہے کہ رفتہ رفتہ میاں بیوی کے دلوں میں اختلاف پیدا ہو جایا کرتا ہے اسی طرح عورت کو چاہیے کہ اپنے شوہر کے کہیں آنے جانے پر روک ٹوک نہ کرے نہ شوہر کے چال چلن پر شبہ اور بدگمانی کرے کہ اس سے میاں بیوی کے تعلقات میں فساد و خرابی پیدا ہو جاتی ہے اور خواہ مخواہ شوہر کے دل میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔

۴۔ دیگر گھر والوں کی تابعداری: جب تک ساس اور سرسزندہ ہیں عورت کے لیے ضروری ہے کہ ان دونوں کی بھی تابعداری اور خدمت گزاری کرتی رہے اور جہاں تک ممکن ہو ان دونوں کو راضی اور خوش رکھے ورنہ یاد رکھو کہ شوہر ان دونوں کا بیٹا ہے۔ اگر ان دونوں نے اپنے ڈانٹ ڈپٹ کر چانپ چڑھا دی تو یقیناً شوہر عورت سے ناراض ہو جائے گا اور میاں بیوی کے نسبتاً تعلقات تہس نہس ہو جائیں گے۔ اسی طرح اپنے جیٹھوں دیوروں اور نندوں بھادجوں کے ساتھ بھی خوش اخلاقی برتے اور ان سبھوں کی دلجوئی میں لگی رہے اور کبھی ہرگز ہرگز ان میں سے کسی کو ناراض نہ کرے۔ ورنہ دھیان رہے کہ ان لوگوں سے بگاڑ کا نتیجہ میاں بیوی کے تعلقات کی خرابی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ عورت کے سسرال میں ساس اور خسر سے الگ تھلک رہنے کی ہرگز کبھی کوشش نہ کرے بلکہ مل جل کر رہنے میں بھلائی ہے۔ کیونکہ ساس اور

اور سر سے بگاڑ اور جھگڑے کی جڑ یہی ہے۔ یہ خود سوچنے کی بات ہے کہ ماں باپ نے لڑکے کو پالا پوسا اور اس امید پر اس کی شادی کی کہ بڑھاپے میں ہم کو بیٹے اور اس کی دلہن سے سہارا اور آرام ملے گا لیکن دلہن نے گھر میں قدم رکھتے ہی اس بات کی کوشش شروع کر دی کہ بیٹا اپنے ماں باپ سے الگ تھلگ ہو جائے تو تم خود ہی سوچو کہ دلہن کی اس حرکت سے ماں باپ کو کس قدر غصہ آئے گا اور کتنی جھلاہٹ پیدا ہوگی اس لیے گھر میں طرح طرح کی بدگمانیاں اور قسم قسم کے فتنہ و فساد شروع ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ میاں بیوی کے دلوں میں پھوٹ پیدا ہو جاتی ہے اور جھگڑے تکرار کی نوبت آ جاتی ہے۔ پھر پورے گھر والوں کی زندگی تلخ اور تعلقات درہم برہم ہو جاتے ہیں لہذا بہتری اسی میں ہے کہ ساس اور خسر کی زندگی میں ہرگز ہرگز کبھی عورت کو الگ رہنے کا خیال بھی نہیں کرنا چاہیے ہاں اگر ساس خسر خود ہی اپنی خوشی سے بیٹے کو اپنے سے الگ کر دیں تو پھر الگ رہنے میں کوئی حرج نہیں لیکن الگ رہنے کی صورت میں بھی الفت و محبت اور میل جول رکھنا انتہائی ضروری ہے تاکہ ہر مشکل میں پورے کنبے کو ایک دوسرے کی امداد کا سہارا ملتا رہے اور اتفاق و اتحاد کے ساتھ پورے کنبے کی زندگی جنت کا نمونہ بنی رہے۔

گھر کے اندر ساس، نندیں یا جھٹانی، دیورانی یا کوئی دوسری دو عورتیں آپس میں چپکے چپکے باتیں کر رہی ہوں تو عورت کو چاہیے کہ ایسے وقت میں ان کے قریب نہ جائے اور نہ یہ جستجو کرے کہ وہ آپس میں کیا باتیں کر رہی ہیں اور بلاوجہ یہ بدگمانی بھی نہ کرے کہ کچھ میرے ہی متعلق باتیں کر رہی ہوں گی۔ اس سے خواہ مخواہ دل میں ایک دوسرے کی طرف سے کینہ پیدا ہو جاتا ہے جو بہت بڑا گناہ ہونے کے ساتھ ساتھ بڑے فساد ہونے کا سبب بن جایا کرتا ہے۔

۵۔ قابل مذمت باتوں سے اجتناب: عورت کو اگر سسرال میں کوئی تکلیف ہو یا کوئی بات ناگوار گزرے تو عورت کو لازم ہے کہ ہرگز ہرگز میکہ میں آکر چغلی نہ کھائے کیونکہ سسرال کی چھوٹی چھوٹی سی باتوں کی شکایت میکہ میں آکر ماں باپ سے کرنا یہ بہت ہی خراب اور بری بات ہے۔ سسرال والوں کی عورت کی اس حرکت سے بے حد تکلیف پہنچتی ہے یہاں تک کہ دونوں گھروں میں بگاڑ اور لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں جس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ عورت شوہر کی نظروں میں بھی قابل نفرت ہو جاتی ہے اور پھر میاں بیوی کی زندگی لڑائی جھگڑوں سے جہنم کا نمونہ بن جاتی ہے۔

۶۔ گھریلو کام میں دلچسپی لینا: عورت کے فرائض میں یہ بھی ہے کہ اگر شوہر غریب ہو اور گھریلو کام کاج کیلئے نوکرانی رکھنے کی طاقت نہ ہو تو اپنے گھر کا کام کاج خود کر

لیا کرے اس میں ہرگز ہرگز نہ عورت کی کوئی ذلت ہے نہ شرم۔ بخاری شریف کی بہت سی روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ خود رسول اللہ کی مقدس صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا بھی یہی معمول تھا کہ وہ اپنے گھر کا سارا کام کاج خود اپنے ہاتھوں سے کیا کرتی تھیں۔ کنویں سے پانی بھر کر اور اپنی مقدس پیٹھ پر مشک لاد کر پانی لایا کرتی تھیں۔ خود ہی چکی چلا کر آٹا بھی پیس لیتی تھیں۔ اسی وجہ سے ان کے مبارک ہاتھوں میں کبھی کبھی چھالے پڑ جاتے تھے۔ اسی طرح امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیقؓ کی صاحبزادی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے متعلق بھی روایت ہے کہ وہ اپنے غریب شوہر حضرت زبیرؓ کے یہاں اپنے گھر کا سارا کام کاج اپنے ہاتھوں سے کر لیا کرتی تھیں۔ یہاں تک کہ اونٹ کو کھلانے کیلئے باغوں میں سے کھجوروں کی گٹھلیاں چن چن کر اپنے سر پر لاتی تھیں اور گھوڑے کے لیے گھاس چارہ بھی لاتی تھیں اور گھوڑے کو مالش بھی کرتی تھیں۔

۷۔ **زینت کا خیال رکھنا:** عورت کو چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے اپنے بدن اور کپڑوں کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھے۔ میلی کچلی اور پھو ہڑ نہ بنی رہے بلکہ اپنے شوہر کی مرضی اور مزاج کے مطابق بناؤ سنگار بھی کرتی رہے۔ کم سے کم ہاتھ پاؤں میں مہندی کنگھی چوٹی سرے کا جل وغیرہ کا اہتمام کرتی رہے۔ بال بکھرے اور میلے کھیلے نہ رکھے کہ عورت کی ناشائستگی عام طور پر شوہروں کی نفرت کا باعث ہوا کرتی ہے۔ خدانہ کرے کہ شوہر عورت کے پھو ہڑ پن کی وجہ سے متنفر ہو جائے اور دوسری عورتوں کی طرف تاک جھانک شروع کر دے تو پھر عورت کی زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی اور پھر اس کو عمر بھر رونے دھونے اور سر پینے کے سوا کوئی چارہ کار نہیں رہ جائے گا۔

عورت کیلئے یہ بات بھی خاص طور پر قابل لحاظ ہے کہ جب تک شوہر ساس اور خسر وغیرہ نہ کھاپی لیں خود نہ کھائے بلکہ سب کو کھلا پلا کر خود سب سے آخر میں کھائے۔ عورت کی اس اداسے شوہر اور اس کے سب گھر والوں کے دل میں عورت کی قدر و منزلت اور محبت بڑھ جائے گی۔

۸۔ **خاوند کا ادب کرنا:** بیوی کو لازم ہے کہ ہمیشہ اٹھتے بیٹھتے بات چیت میں ہر حالت میں شوہر کے سامنے باادب رہے اور اس کے اعزاز و اکرام کا خیال رکھے۔ شوہر جب کبھی بھی باہر سے گھر آئے تو عورت کو چاہیے کہ سب کام چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہو اور شوہر کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اس کی مزاج پر سی کرے اور فوراً ہی اس کے آرام و راحت کا انتظام کر دے اور اس کے ساتھ دلجوئی کی باتیں کرے اور ہرگز ہرگز ایسی کوئی بات نہ سنائے نہ کوئی ایسا سوال کرے جس سے اس کا دل پریشان ہو۔

۲۔ اچھا خاوند

اچھا خاوند وہ ہوتا ہے جو اللہ کی حدود میں رہ کر اپنی بیوی کے حقوق کو بڑی خوبی کے سرانجام دے۔ شریعت نے عورت کو جو جائز حقوق عطا کیے ہیں ان کی حق تلفی نہ کرے اپنی بیوی کے حقوق کی ادائیگی اور اس سے اچھا سلوک کرنا اچھے خاوند کا وصف ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نہ طرح مردوں کے حقوق پورا کرنا عورتوں کے ذمہ لگایا ہے اسی طرح عورتوں کے بھی کچھ حقوق جن کا ادا کرنا مردوں کا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

دَعَا شَرُّهُنَّ بِالنِّكَاحِ بِرِجَالٍ
كَرِهْتُهُنَّ وَمُوهِنًا قَعَسَىٰ أَنْ تُكْرَهُنَّ
شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا
كَثِيرًا ۝ (نساء: ۱۹)

اور عورتوں کے ساتھ اچھے طریقوں سے زندگی
کر و پھر اگر تم ان سے نفرت کرو تو شاید تمہیں
چیز پسند نہ آئے اور اللہ نے اس میں بہت
رکھی ہو۔ (النساء: ۱۹)

اس فرمان خداوندی میں یہی تاکید کی گئی ہے کہ عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جا۔
خاوند پر بیوی کے حقوق حسب ذیل ہیں:

۱۔ **حسن سلوک:** مردوں کو چاہیے کہ اپنی بیویوں سے حسن سلوک سے پیش آئیں ان
عقل کی کمزوری کو مد نظر رکھتے ہوئے ان سے مہربانی کا سلوک کریں اور ان کے دکھ درد کو دور کر
اور اللہ تعالیٰ نے ان کے حقوق کی عظمت میں فرمایا ہے:-

وَآخِذْنَ مِنْكُمْ مِّيثَاقًا غَلِيظًا. (نساء: ۲۱)
وہ تم سے پختہ عہد لے چکی ہیں۔ (النساء: ۲۱)

اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر اسی بات کو بڑے احسن انداز میں بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ:
هُنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ
لَهُنَّ ۝

عورتیں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم عورتوں
لباس ہو۔

عورت سے اچھے سلوک کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ سب
سے زیادہ کامل ایمان والا شخص وہ ہے جو سب سے زیادہ بااخلاق ہو اور تم میں بہتر وہ ہے جس
سلوک اپنی اہلیہ کے ساتھ سب سے اچھا ہو۔ (ترمذی)

بدکردار عورت کی اصلاح کیلئے اگرچہ اسے مارنا جائز ہے لیکن بلاوجہ بیوی کو مارنا اور ستا
درست نہیں کیونکہ جو شخص بلاوجہ عورت کو مارتا رہے وہ اس امر کا جواز بن جاتا ہے کہ وہ خود اچھا
نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی سے بلاوجہ بدسلوکی کرنے سے منع فرمایا ہے۔

حضرت ایاس بن عبد اللہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی بیویوں کو نہ مارا کرو۔ (اس کے بعد) حضرت عمرؓ آپؐ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ عورتیں اپنے شوہروں پر غالب ہو گئی ہیں۔ ان کی جرات و دلیری بڑھ گئی ہے۔ (یہ سن کر) آپؐ نے بیویوں کو مارنے کی اجازت عطا فرمادی اس کے بعد بہت سی عورتیں ازواج مطہرات کے پاس جمع ہوئیں اور اپنے خاوندوں کی شکایتیں کیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہؓ سے فرمایا۔ ”محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے پاس بہت سی عورتیں اپنے شوہروں کی شکایت کرنے آئی ہیں تم میں سے وہ شخص اچھا نہیں ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بد سلوکی کرے۔“ (ابوداؤد)

اگر بیوی نافرمان ہو۔ خاوند کی اجازت کے بغیر جہاں چاہے چلی جائے، بد زبانی کرتی ہو اور گفتگو میں خاوند کے مقام کو مد نظر نہ رکھتے ہوئے بد اخلاقی کرتی ہے۔ بات بات پر گالی نکالتی ہے تو اس صورت میں اسے زبانی کلامی سمجھانا چاہیے۔ اگر وہ نصیحت کرنے سے باز نہ آئے تو کچھ دنوں تک اس کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا چھوڑ دے اگر پھر بھی باز نہ آئے تو پھر اسے مار کر سمجھانا چاہیے مگر غلاموں کی طرح عورت کو نہیں مارنا چاہیے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ”اہل ایمان میں سب سے کامل ایمان والا وہ ہے جس کی عادت سب سے اچھی ہو اور اپنے گھر والوں پر سب سے زیادہ مہربان ہو۔“ (ترمذی)

اپنی بیوی اور اہل و عیال کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عادت قرار دیا ہے اور اچھی عادت اہل ایمان کا خاصہ ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص نے اپنی بیوی کی بد خلقی پر صبر کیا، اللہ تعالیٰ اسے مصائب پر حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کے اجر کے برابر اجر دے گا اور جس عورت نے خاوند کی بد خلقی پر صبر کیا اللہ تعالیٰ اسے فرعون کی بیوی آسیہ کے ثواب کے مثل ثواب عطا فرمائے گا۔

ایک سے زائد بیویوں میں عدل رکھنا: اگر کسی کے پاس دو یا اس سے زیادہ بیویاں ہوں تو اس پر فرض ہے کہ تمام بیویوں کے درمیان عدل اور برابری کا سلوک اور بناؤ کرے۔ کھانے پینے مکان سامان روشنی بناؤ سنگار کی چیزوں غرض تمام معاملات میں برابری ہے۔ اسی طرح ہر بیوی کے پاس رات گزارنے کی باری مقرر کرنے میں بھی برابری کا خیال رکھئے۔ یاد رکھو کہ اگر کسی نے اپنی تمام بیویوں کے ساتھ یکساں اور برابر سلوک نہیں کیا تو وہ

حق العباد میں گرفتار اور عذاب جہنم کا حقدار ہوگا۔

حدیث شریف میں ہے کہ جس شخص کے پاس دو بیویاں ہوں اور اس نے ان کے درمیان عدل اور برابری کا برتاؤ نہیں کیا تو وہ قیامت کے دن میدان محشر میں اس حالت میں اٹھایا جائے گا کہ اس کا آدھا بدن مفلوج (فالج لگا ہوا) ہوگا۔ (ترمذی)

۳۔ بیوی کے اخراجات مہیا کرنا: ہر خاوند کا یہ بنیادی فرض ہے کہ وہ اپنی بیوی کے اخراجات مہیا کرے یعنی اپنی بیوی کے کھانے پینے پہننے رہنے اور دوسری ضروریات زندگی کا اپنی حیثیت کے مطابق اور اپنی طاقت بھر انتظام کرے۔ اور ہر وقت اس کا خیال رکھے کہ یہ اللہ کی بندی میرے نکاح کے بندھن میں بندھی ہوئی ہے۔ یہ اپنے ماں باپ بھائی بہن اور تمام عزیز واقارب سے جدا ہو کر صرف میری ہو کر رہ گئی ہے اور میری زندگی کے دکھ سکھ میں برابری کی شریک ہے اس لیے اس کی زندگی کی تمام ضروریات کا انتظام کرنا میرا فرض ہے کیونکہ بیوی تمام نفقہ ہر لحاظ سے اس کے ذمے ہے اس لیے مرد کے فرائض میں یہ بات شامل ہے کہ وہ محنت کے اپنے بیوی بچوں کیلئے حلال روزی کمائے اور انہیں کھلائے یہی وجہ ہے کہ رزق حلال کمانے عبادت کا درجہ دیا گیا ہے۔

حضرت حکیم بن معاویہ قشیریؒ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! شوہر پر بیوی کا کیا حق ہے تو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو کھاوے اس کو بھوکھلا اور جب تو پہنے تو اس کو بھی پہنا۔ اس کے منہ پر نہ مارا اس کو برانہ کہہ اور اس سے علیحدگی اختیار نہ کر۔ مگر گھر کے اندر لگا چاہے تو کر سکتا ہے۔ (ابوداؤد)

اس حدیث میں یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ بیوی کے لباس خوراک رہائش اور دیگر ضروریات زندگی کی تمام تر ذمہ داری مرد پر ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ نبی اکرمؐ نے اپنے مشہور خطبہ حجۃ الوداع میں مردوں کو ان کے اس فریضہ کی طرف بدیہی الفاظ میں فرمایا کہ تم عورتوں کے بارے میں خوف خدا دل میں رکھو تم نے انہیں اللہ کی امان کے ذریعہ حاصل کیا ہے ان کا کھانا پینا اور ان کی پوشاک دستور کے مطابق تمہارے ذمے لازم ہے۔ (مسلم)

یاد رکھو کہ جو مرد اپنی لاپرواہی سے اپنی بیویوں کے نان و نفقہ اور اخراجات زندگی کا انتظام نہیں کرتے وہ بہت بڑے گنہگار حقوق العباد میں گرفتار اور قہر قہار و عذاب نار کے سزاوار ہیں۔ عورت اگر بچا رہ جائے تو شوہر کا یہ اخلاقی فریضہ ہے کہ عورت کی غم خواری اور تیمارداری میں ہرگز ہرگز کوئی کوتاہی نہ کرے۔ بلکہ اپنی دلداری و دلجوئی اور بھاگ دوڑ سے عورت کے دل پر

یہ نقش بٹھا دے کہ میرے شوہر کو مجھ سے بے حد محبت ہے اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ عورت شوہر کے اس احسان کو یاد رکھے گی اور وہ بھی شوہر کی خدمت گزاری میں اپنی جان لڑا دے گی۔

۴۔ **بیوی کے جذبات کا خیال رکھنا:** میاں بیوی کی خوشگوار زندگی بسر ہونے کے لیے جس طرح عورتوں کو مردوں کے جذبات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے اسی طرح مردوں کو بھی لازم ہے کہ عورتوں کے جذبات کا خیال رکھیں ورنہ جس طرح مرد کی ناراضگی سے عورت کی زندگی جہنم بن جاتی ہے اسی طرح عورت کی ناراضگی بھی مردوں کے لیے وبال جان ہو جاتی ہے اس لیے مرد کو لازم ہے کہ عورت کی صورت و سیرت پر طعنہ نہ مارے۔ اور عورت کے میکہ والوں پر بھی طعنہ زنی اور نکتہ چینی نہ کرے نہ عورت کے ماں باپ اور عزیز واقارب کو عورت کے سامنے برا بھلا کہے کیونکہ ان باتوں سے عورت کے دل میں مرد کی طرف سے نفرت کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان ناچاکی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور پھر دونوں کی زندگی دن رات کی جلن اور گھٹن سے تلخ بلکہ عذاب جان بن جاتی ہے۔

عورت کی ایک فطرت یہ ہے کہ وہ شدت جذبات سے مغلوب ہوتی ہے اس لیے اگر اس سے ہر کام سختی سے لیا جائے گا تو وہ اکڑ جائے گی اور اس شدت جذبات کے تحت گھر ویران کر ڈالے گی۔ اس لیے عورتوں کے سلسلے میں اعتدال سے تعلقات رکھے جائیں۔ اس کی فطرت کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ ہے:-

حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے تم سے ہرگز سیدھی نہ ہوگی ایک راہ پر پس اگر تم اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو کچی ہی کی حالت میں فائدہ اٹھا لو اور اگر تم اسے سیدھا کرنے لگ گئے تو تم اسے توڑ ڈالو گے اور اس کا ٹوٹا طلاق ہے۔ (مسلم شریف)

شوہر کو یہ بھی چاہیے کہ سفر میں جاتے وقت اپنی بیوی سے انتہائی پیار و محبت کے ساتھ ہنسی خوشی سے ملاقات کر کے مکان سے نکلے اور سفر سے واپس ہو کر کچھ نہ کچھ سامان بیوی کے لیے ضرور لائے۔ کچھ نہ ہو تو کچھ کھٹا میٹھا ہی لیتا آئے اور بیوی سے یہ کہے کہ یہ خاص تمہارے ہی لیے میں لایا ہوں۔ شوہر کی اس ادا سے عورت کا دل بڑھ جائے گا اور وہ اس خیال سے بہت ہی خوش اور مگن رہے گی کہ میرے شوہر کو مجھ سے ایسی محبت ہے کہ وہ میری نظروں سے غائب رہنے کے بعد بھی مجھے یاد رکھتا ہے اور اس کو میرا خیال لگا رہتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس سے بیوی اپنے شوہر کے ساتھ کس قدر زیادہ محبت کرنے لگے گی۔

شوہر کو چاہیے کہ بیوی کے سامنے آئے تو میلے پیلے گندے کپڑوں میں نہ آئے بلکہ بدن اور لباس و بستر وغیرہ کی صفائی ستھرائی کا خاص طور خیال رکھے کیونکہ شوہر جس طرح یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی بناؤ سنگار کے ساتھ رہے اسی طرح عورت بھی یہ چاہتی ہے کہ میرا شوہر میلا کچھلا نہ رہے۔ لہذا میاں بیوی دونوں کو ہمیشہ ایک دوسرے کے جذبات و احساسات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے سخت نفرت تھی کہ آدمی میلا کچھلا بنا رہے اور اس کے بال الجھے رہیں۔ اس حدیث پر میاں بیوی دونوں کو عمل کرنا چاہیے۔

۵۔ اختلاف سے اجتناب کرنا: مرد بلاشبہ عورت پر حاکم ہے لہذا مرد کو یہ حق حاصل ہے کہ بیوی پر اپنا حکم چلائے۔ مگر پھر مرد کیلئے یہ ضروری ہے کہ اپنی بیوی سے کسی ایسے کام کی فرمائش نہ کرے جو اس کی طاقت سے باہر ہو۔ یا وہ کام جو اس کو انتہائی ناپسند ہو۔ کیونکہ اگرچہ عورت جبراً قہراً وہ کام کر دے گی۔ مگر اس کے دل میں ناگواری ضرور پیدا ہو جائے گی جس سے میاں بیوی کی خوش مزاجی کی زندگی میں کچھ نہ کچھ تلخی ضرور پیدا ہو جائے گی جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ رفتہ رفتہ میاں بیوی میں اختلاف پیدا ہو جائے گا۔

شوہر کو چاہیے کہ معمولی بے بنیاد باتوں پر اپنی بیوی کی طرف سے بدگمانی نہ کرے بلکہ اس معاملہ میں ہمیشہ احتیاط اور سمجھداری سے کام لے یا اور کھو معمولی شبہات کی بنا پر بیوی کے اوپر اہتمام لگانا یا بدگمانی کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔

حدیث شریف میں ہے کہ ایک دیہاتی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو کر کہا کہ میری بیوی کے شکم سے ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو کالا ہے اور میرا ہم شکل نہیں ہے۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے۔ دیہاتی کی بات سن کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ”کیا تیرے پاس کچھ اونٹ ہیں؟“ اس نے عرض کیا کہ میرے پاس بہت زیادہ اونٹ ہیں۔ آپ نے فرمایا ”تمہارے اونٹ کس رنگ کے ہیں؟“ اس نے کہا کہ سرخ رنگ کے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ کیا ”ان میں کچھ خاکی بھی ہیں یا نہیں؟“ اس نے کہا کہ جی ہاں! کچھ اونٹ خاکی رنگ کے بھی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ”تم بتاؤ کہ سرخ اونٹوں کی نسل میں خاکی رنگ کے اونٹ کیسے اور کہاں سے پیدا ہو گئے؟“ دیہاتی نے جواب دیا کہ میرے سرخ رنگ کے اونٹوں کے باپ داداؤں میں کلائی خاکی رنگ کا اونٹ رہا ہوگا اس کی رگ نے اس کو اپنے رنگ میں کھینچ لیا ہو گا اس لیے سرخ اونٹوں کا بچہ خاکی رنگ کا ہو گیا۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ”ممکن ہے تمہارے باپ داداؤں میں بھی کوئی کالے رنگ کا ہوا ہو اور اس کی رگ نے تمہارے

بچے کو کھینچ کر اپنے رنگ کا بنا لیا ہو اور یہ بچہ اس کا ہم شکل ہو گیا۔“ (بخاری ج ۲)

اس حدیث سے صاف ظاہر ہے کہ محض اتنی سی بات پر کہ بچہ اپنے باپ کا ہم شکل نہیں ہے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس دیہاتی کو اس کی اجازت نہیں دی کہ وہ اپنے اس بچے کے بارے میں یہ کہہ سکے کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے۔ لہذا اس حدیث سے ثابت ہوا کہ محض شبہ کی بنا پر اپنی بیوی کے اوپر الزام لگا دینا جائز نہیں ہے بلکہ بہت بڑا گناہ ہے۔

اگر میاں بیوی میں کوئی اختلاف یا کشیدگی پیدا ہو جائے تو شوہر پر لازم ہے کہ طلاق دینے میں ہرگز ہرگز جلدی نہ کرے بلکہ اپنے غصہ کو ضبط کرے اور غصہ اتر جانے کے بعد ٹھنڈے دماغ سے سوچ بچار کر اور لوگوں سے مشورہ لے کر یہ غور کرے کہ کیا میاں بیوی میں نباہ کی کوئی صورت ہو سکتی ہے یا نہیں۔ اگر بناؤ اور نباہ کی کوئی شکل نظر آئے تو ہرگز ہرگز طلاق نہ دے۔ کیونکہ طلاق کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حلال چیزوں میں سب سے زیادہ خدا کے نزدیک ناپسندیدہ چیز طلاق ہے۔ اگر خدا نخواستہ ایسی سخت ضرورت پیش آ جائے کہ طلاق دینے کے سوا کوئی چارہ نہ رہے تو ایسی صورت میں طلاق دینے کی اجازت ہے۔ ورنہ طلاق کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔

بعض جاہل ذرا ذرا سی باتوں پر اپنی بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں اور پھر پچھتاتے ہیں اور عالموں کے پاس جھوٹ بول بول کر مسئلہ پوچھتے بھرتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ غصہ میں طلاق دی تھی کبھی کہتے ہیں کہ نے طلاق دینے کی نیت نہیں تھی۔ غصہ میں بلا اختیار طلاق کا لفظ منہ سے نکل گیا۔ کبھی کہتے ہیں کہ عورت ماہواری کی حالت میں تھی۔ کبھی کہتے ہیں کہ میں طلاق دی مگر بیوی نے طلاق لی نہیں۔ حالانکہ ان گواروں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان سب صورتوں میں طلاق ہو جاتی ہے اور بعض تو ایسے بد نصیب ہیں کہ تین طلاق دے کر جھوٹ بولتے ہیں کہ میں نے ایک ہی بار کہا تھا اور یہ کہہ کر بیوی کو رکھ لیتے ہیں اور عمر بھر زناء کاری کے گناہ میں پڑے رہتے ہیں۔ ان ظالموں کو اس کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ تین طلاق کے بعد عورت بیوی نہیں رہ جاتی بلکہ وہ ایک ایسی اجنبی عورت ہو جاتی ہے کہ بغیر حلالہ کرانے اس سے دوبارہ نکاح بھی نہیں ہو سکتا۔

۶۔ **اعتماد اور بھروسہ:** اعتماد اور بھروسہ اچھے تعلقات کا پیش خیمہ ہے اس لیے شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی پر اعتماد اور بھروسہ کرے اور گھریلو معاملات اس کے سپرد کر دے تاکہ بیوی اپنی حیثیت کو بچانے اور اس کا وقار اس میں خود اعتمادی پیدا کرے اور وہ نہایت ہی دلچسپی اور خوشی کے ساتھ گھریلو معاملات کے انتظام کو سنبھالے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے

کہ ”عورت اپنے شوہر کے گھر کی نگران اور محافظ ہے اور اس معاملہ میں عورت سے قیامت میں خداوند قدوس پوچھ گچھ فرمائیں گئیں۔“

بیوی پر اعتماد کرنے سے یہ فائدہ ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو گھر کے انتظامی معاملات میں ایک شعبہ کی ذمہ دار خیال کرے گی اور شوہر کو بڑی حد تک گھریلو بھکیروں سے نجات مل جائے گی اور سکون و اطمینان کی زندگی نصیب ہوگی۔

مرد کو چاہیے کہ کبھی بھی اپنی عورت کے سامنے کسی دوسری عورت کے حسن و جمال یا اس کی خوبیوں کا ذکر نہ کرے ورنہ بیوی کو فوراً ہی بدگمانی اور یہ شبہ ہو جائے گا کہ شاید میرے شوہر کا اس عورت سے کوئی ساٹھ گانٹھ ہے یا کم سے کم قلبی لگاؤ ہے اور یہ خیال عورت کے دل کا ایک ایسا کانٹا ہے کہ عورت کو ایک لمحہ کیلئے بھی صبر و قرار نصیب نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھو کہ جس طرح کوئی شوہر اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کی بیوی کا کسی دوسرے مرد سے ساز باز ہو اسی طرح کوئی عورت بھی کبھی اس بات کی تاب نہیں لا سکتی کہ اس کے شوہر کا کسی دوسری عورت سے تعلق ہو بلکہ تجربہ شاہد ہے کہ اس معاملہ میں عورت کے جذبات مرد کے جذبات سے کہیں زیادہ بڑھ چڑھ کر ہوا کرتے ہیں لہذا اس معاملہ میں شوہر کو لازم ہے کہ بہت زیادہ احتیاط رکھے ورنہ بدگمانیوں کا طوفان میاں بیوی کی خوشگوار زندگی کو تباہ و برباد کر دے گا۔

عورت کا اس کے شوہر پر ایک حق یہ بھی ہے کہ شوہر عورت کے بستر کی راز والی باتوں کو دوسروں کے سامنے نہ بیان کرے بلکہ اس کو راز بنا کر اپنے دل ہی میں رکھے کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خدا کے نزدیک بدترین شخص وہ ہے جو اپنی بیوی کے پاس جائے پھر اس کے پردہ کی باتوں کو لوگوں پر ظاہر کرے اور اپنی بیوی کو دوسروں کی نگاہوں میں رسوا کرے۔ (مسلم شریف)

۳۔ خدمت والدین

خاندانی زندگی میں والدین کا مقام بڑا بلند ہے ان کے بغیر خاندانی زندگی ناممکن ہے۔ والدین اپنی اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ کی انمول نعمت ہیں۔ اولاد کو جو محبت الفت اور اخلاص والدین سے میسر آتا ہے اور کسی سے نہیں آ سکتا۔ کیونکہ ان کی محبت و شفقت بالکل بے لوث ہوتی ہے اور والدین کی دلی تمنا ہوتی ہے کہ ان کی اولاد دنیاوی زندگی میں بلند مقام حاصل کرے اس لیے اولاد کے سکھ کے لیے انھیں ہزات خود بیشمار دکھ بھی برداشت کرنے پڑتے ہیں۔

اس لحاظ سے والدین کا درجہ بہت ہی بلند و بالا ہے اور وہ بے حد قابل احترام ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے والدین کی اطاعت و خدمت کو ضروری قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کی بہت تاکید فرمائی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ :

لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ تَقِيًّا وَالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا (البقرہ: ۸۳)

اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ (البقرہ: ۸۳)

ایک اور مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ :

وَالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبُلُغَنَّ
عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا
فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍ وَلَا تَنْهَرْهُمَا
وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَ
اخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلِيلِ مِنَ
الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا
كَمَا رَبَّيْتَنِی صَغِيرًا

والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچیں تو انہیں اُف تک نہ کہو نہ ہی انہیں جھڑک کر جواب دو بلکہ ان سے احترام کے ساتھ بات کرو اور نرمی و رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہو اور دعا کیا کرو کہ پروردگار! ان پر رحم کر جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا۔

(بنی اسرائیل: ۲۳ تا ۲۴)

(بنی اسرائیل: ۲۳ تا ۲۴)

ان آیات میں یہ بتا گیا ہے کہ والدین سے اچھا سلوک کرو اور اس کے ساتھ یہ حکم دیا گیا ہے۔ کہ ان کے سامنے اُف تک کہنا جائز نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہو کہ والدین کو جھڑکنے کا تو تصور تک نہیں کیا جاسکتا اور صرف یہی کافی نہیں کہ اُف تک نہ کریں اور جھڑکنے سے احتراز کریں بلکہ والدین سے قولاً کریم یعنی ادب سے بات کرنے کا حکم ہے۔

ایک اور مقام پر ارشاد ہوا :

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ
حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَ
فِصَالَهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي
وَلِوَالِدَيْكَ إِلَى الْمَصِيرِ هَ وَإِنِ
جَاهَدَكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي
مَّا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا
تَطِعْهُمَا وَاصْبِرْ لِحُكْمِ اللَّهِ

اور ہم نے انسان کو تاکید کی کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو اس کی ماں نے اس کو بے حد مشکل اٹھا کر پیٹ میں رکھا اور دو سال میں اس کا دودھ چھڑایا کہ وہ میرا اور اپنے ماں باپ کا احسان مانے میرے پاس لوٹ کر آنا ہے اگر وہ دونوں تجھ کو اس پر مجبور کریں کہ میرے ساتھ اس کو شریک کر جس کو تو نہیں جانتا تو ان کا کہنا نہ مان اور دنیا میں

الدُّنْيَا مَعْرُوفًا (لقمان: ۱۵) ان کے ساتھ اچھائی کر۔ (لقمان: ۱۵)

اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ ماں حسن سلوک کی زیادہ مستحق ہے کیونکہ ماں تکلیف اٹھا کر نو مہینے بچے کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے اس کے بعد ناقابل برداشت تکلیف اٹھا کر اسے جنتی ہے اپنا دودھ پلاتی ہے پھر پرورش کے مراحل برداشت کرتی ہے معلوم ہوا کہ جب ماں اولاد کے لیے ہر طرح کی تکالیف برداشت کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا مقام بلند کر رکھا ہے۔

والدین کے ساتھ حسن سلوک کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ارشادات حسب ذیل ہیں۔

۱۔ والدین سے اچھا سلوک: والدین سے اچھا سلوک کرنا اولاد کا اولین فریضہ ہے حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا۔ خدا کے نزدیک کونسا کام زیادہ پسندیدہ ہے؟ آپ نے فرمایا وقت پر نماز ادا کرنا۔ میں نے پوچھا پھر کونسا کام؟ آپ نے فرمایا ”والدین کے ساتھ بھلائی کرنا۔“ میں نے کہا پھر کونسا؟ آپ نے فرمایا ”اللہ کے راستہ میں جہاد کرنا۔“ (بخاری شریف)

حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی اکرمؐ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ میرے اچھے سلوک کا کون زیادہ مستحق ہے؟ آپ نے فرمایا ”تیری ماں“ اس نے پوچھا پھر کون؟ آپ نے فرمایا ”تیری ماں“۔ اس نے پوچھا پھر کون؟ آپ نے فرمایا ”تمہاری ماں“ اس نے پوچھا پھر کون؟ آپ نے فرمایا ”تمہارا باپ“ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا ”تیری ماں پھر تیری ماں پھر تیرا باپ پھر تیرا قریبی عزیز پھر اس کے بعد رشتہ دار۔“ (بخاری و مسلم) سب سے زیادہ عزت اور اچھے سلوک کی حقدار والدہ ہے اس کے بعد والد اور پھر درجہ بدرجہ دوسرے رشتہ دار۔ لہذا اولاد کو چاہیے کہ والدہ کا از حد احترام کرے۔

حضرت عبداللہ بن عمرؓ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص جہاد میں شریک ہونے کی اجازت حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوا آپ نے اس سے پوچھا کیا تمہارے والدین زندہ ہیں اس نے کہا ہاں! آپ نے فرمایا ان ہی کی خدمت میں رہ کر جہاد کر۔ (بخاری و مسلم)

حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ ایک ایسے شخص کا مجلس نبوی (کے قریب) سے گزر رہا تھا جس کا جسم دبلا پتلا تھا اس کو دیکھ کر حاضرین نے کہا، کاش یہ جسم اللہ کی رہ میں (یعنی جہاد میں) دبلا ہوتا۔ یہ سن کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شاید اپنے بوڑھے ماں باپ پر محنت کرتا ہوا

اور ان کی خدمت میں لگنے اور ان کے لیے روزی کمانے کی وجہ سے دبلا ہو گیا ہو۔ اگر ایسا ہے تو وہ فی سبیل اللہ ہے (پھر فرمایا کہ) شاید وہ چھوٹے بچوں پر محنت کرتا ہو۔ یعنی ان کی خدمت پرورش اور ان کے لیے رزق مہیا کرنے میں دبلا ہو گیا ہو۔ اگر ایسا ہے تو فی سبیل اللہ ہے (پھر فرمایا کہ) شاید وہ اپنے نفس پر محنت کرتا ہو اور اپنی جان کے لیے محنت کر کے روزی کمانا ہوتا کہ اپنے نفس کو لوگوں سے بے نیاز کر دے (اور مخلوق سے سوال نہ کرنا پڑے) اگر ایسا ہے تو وہ بھی فی سبیل اللہ ہے۔ (بیہقی)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ”جس شخص نے اس حال میں صبح کی کہ اس کے والدین اس سے راضی ہوں اس کے لیے جنت کے دو دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جو اسی حالت میں شام کرتا ہے اس کے لیے بھی اسی طرح کے دو دروازے کھول دیئے جاتے ہیں۔ اگر والدین میں سے ایک زندہ ہو تو ایک دروازہ کھولا جاتا ہے اگر چہ والدین زیادتی کریں۔ اگر چہ وہ زیادتی کریں اور جس نے اس حال میں صبح کی کہ اس کے والدین اس پر ناراض ہوں تو اس کے لیے جہنم کے دو دروازے کھل جاتے ہیں۔ اگر والدین میں سے ایک ہو تو ایک دروازہ کھلتا ہے اگر چہ وہ زیادتی کریں۔“

طبرانی کی ایک روایت ہے کہ والدین کی اطاعت میں اللہ کی اطاعت ہے اور والد یا والدین کی نافرمانی میں اللہ کی نافرمانی ہے۔

حضرت ابو درداءؓ کہتے ہیں کہ میں نے بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فرماتے سنا ہے کہ ”باپ بہشت کے بہترین دروازوں میں سے ہے اب تو چاہے تو اس دروازہ کی حفاظت کر اور چاہے کھودے۔“ (ابن ماجہ)

اس حدیث میں باپ کو جنت کا دروازہ کہا گیا ہے یعنی باپ کی خدمت اولاد کو بہشت کا حقدار بنادیتی ہے اس لیے اولاد کو اس دروازے کی حفاظت کی تاکید کی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ باپ کی خدمت کی جائے اور اس سے عمدہ سلوک کیا جائے تاکہ اللہ راضی ہو اور جنت میں داخل ہونا واجب ہو جائے۔

حضرت عبداللہ بن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہؐ نے فرمایا ”پروردگار کی رضا مندی باپ کی رضا مندی میں ہے اور پروردگار کی ناخوشی باپ کی ناخوشی میں ہے۔“ (ترمذی شریف)

۲۔ **والحین کو گالی دینے کی ممانعت:** دین اسلام نے والدین کے احترام کو اس حد تک ملحوظ خاطر رکھا ہے کہ کسی کے والدین کو بھی گالی دینے کی اجازت نہیں دی۔ یعنی

دوسروں کے والدین کی بھی عزت کی جائے اور انھیں بھی احترام کی نگاہ سے دیکھا جائے۔ ماں باپ کو گالی دینا گناہ کبیرہ ہے اور اس کی سزا جہنم ہوگی۔ اس لیے ماں باپ کو گالی دینا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ صحابہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا آدمی اپنے ماں باپ کو گالی دے سکتا ہے؟ آپؐ نے فرمایا کوئی شخص کسی کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے اور وہ اس کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے۔ (بخاری شریف)

۳۔ والدین کی نافرمانی کی مذمت: والدین کی نافرمانی بہت بڑی چیز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت مذمت فرمائی ہے حضرت عبداللہ بن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں نہ تو وہ شخص داخل ہوگا جو بہت زیادہ احسان جتانے والا ہو نہ وہ شخص جو ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا ہو۔ اور نہ شراب پینے والا۔ (نسائی)

اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا جنت میں داخل نہ ہو گا۔ یعنی ماں باپ کی نافرمانی آخرت میں جنت سے محرومی کا باعث بنے گی اس لیے والدین کا ہر جائز حکم ماننا چاہئے۔

ایک روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا ”اے موسیٰ! جس نے والدین کی فرمانبرداری کی اور میری نافرمانی کی میں نے اسے نیکیوں میں لکھا ہے اور جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے مگر میرا فرمانبردار ہوتا ہے میں نے اسے نافرمانوں میں لکھ دیا ہے۔“

حضرت عبدالرحمن بن ابی بکرؓ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ بتاؤں؟“ ہم نے کہا ہاں یا رسول اللہ! آپؐ نے فرمایا ”خدا کا شریک ٹھہرانا اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔“ (بخاری)

فرمان نبوی ہے کہ جنت کی خوشبو پانچ سو سال کے سفر کی دوری سے پائی جاتی ہے مگر والدین کا نافرمان اور قطع رحمی کرنے والا اس خوشبو کو نہیں پائے گا۔

والدین کو محبت کی نظر سے دیکھنا بھی ثواب ہے۔ حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والی اولاد جب بھی رحمت کی نظر سے ماں باپ کو دیکھے تو ہر نظر کے عوض اللہ جل شانہ اس کیلئے مقبول حج کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔“ صحابہؓ نے عرض کیا اگرچہ روزانہ سو بار اسی طرح دیکھے۔ فرمایا ”ہاں! اللہ بہت بڑا ہے اور بہت پاک ہے۔“ (بیہقی)

۴۔ مرحوم والدین کی بہتری: ماں باپ کے وصال کے بعد ان کیلئے حسن

۴۔ حقوق اولاد

اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت اولاد بھی ہے اور اولاد کو بڑی خوش بختی سمجھا جاتا ہے مگر اولاد کا نیک ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ نیک اولاد والدین کی زندگی کا بڑا قیمتی سرمایہ ہے جہاں اللہ نے اولاد پر والدین کی خدمت کا فرض عائد کیا ہے وہاں اولاد پر کچھ حقوق بھی والدین کے ذمے لگائے ہیں تاکہ فطری تقاضے قائم رہیں اور کسی فریق کی حق تلفی نہ ہو۔

ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ! نیکی کس سے کروں؟ فرمایا ”اپنے ماں باپ سے کرو۔“ اس نے کہا وہ تو فوت ہو چکے۔ فرمایا ”پھر اولاد سے کرو کیونکہ جس طرح ماں باپ کے حقوق ہیں اسی طرح اولاد کے بھی تو حقوق ہیں اولاد کے حقوق میں سے ایک یہ ہے کہ اس کی بد خوئی کی وجہ سے ضروری نہیں کہ اسے عاق ہی کیا جائے“ اور فرمایا کہ ”خدا رحمت کرے اس باپ پر جو اپنے بیٹے کو نافرمانی کی راہ پر نہیں چلنے دیتا۔“
اولاد کے حقوق کی تفصیل حسب ذیل ہے:

۱۔ **پیدائش کی اسلامی رسم:** مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہونے والے بچے کے کانوں میں سب سے پہلے اذان دی جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے کیونکہ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود حضرت حسن بن علیؑ کے کان میں نماز والی اذان دی جب حضرت فاطمہؑ کے ہاں ان کی ولادت ہوئی۔ (ترمذی ابوداؤد)
ابویعلیٰ کی ایک روایت میں ہے کہ ایک موقع پر حضور اکرم نے فرمایا ”جس کے گھر بچہ پیدا ہو اور وہ اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر کہے وہ بچہ ام الصبیان بیماری سے محفوظ رہے گا۔“

حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر اقامت پڑھنے کی تعلیم وترغیب دی ہے اور اس کی برکت بیان فرمائی ہے۔ (کنز العمال)
۲۔ **تحنیک:** اذان کے بعد بچے کے منہ میں میٹھی چیز ڈالنا بھی سنت ہے جسے تحنیک کہا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کھجور چبا کر بچے کے منہ میں لگادی جاتی یا تالو پر مل کر دی جاتی اس بارے میں حضرت عائشہ صدیقہؓ فرماتی ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نومولود بچوں کو لایا جاتا تو آپ ان کے حق میں برکت کی دعا فرماتے اور ان کے

تالو میں کھجور چبا کر لگا دیتے۔ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں مسلمانوں کے ہاں جو سب سے پہلا بچہ پیدا ہوا وہ حضرت عبداللہ بن زبیرؓ تھے۔ حضرت اسماءؓ روایت کرتی ہیں کہ جب ابن زبیر پیدا ہوئے تو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں دیا گیا۔ آپؐ نے خرما منگوا یا اسے چبا کر اپنا لعاب وہن بچہ کے منہ میں ڈالا اور خرما تالو میں ملا۔ نیز خیر و برکت کی دعادی۔

۳۔ عقیقہ: بچہ پیدا ہونے کے ساتویں روز بچے کے سر کے بالوں کو منڈا کر چاندی کے برابر تول کر اس چاندی کو صدقہ و خیرات کر دینا چاہیے اور اس کے بعد بچے کی طرف سے عقیقہ کیا جائے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ”بچہ اپنے عقیقہ کے بدلے میں گروی رکھا ہوا ہے ساتویں روز اس کی طرف سے کوئی جانور ذبح کیا جائے اور اسی دن اس کا نام رکھا جائے اور اس کے بالوں کو منڈ دیا جائے۔“

حضرت سلمان بن عامرؓ روایت کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بیٹے کیلئے عقیقہ ہے۔ سو اس کی طرف سے جانور کی قربانی دو اور گندگی صاف کرو۔ سر کے بالوں کو مند و ادو۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسنؓ کے عقیقہ میں ایک بکری ذبح کی اور ”فرمایا اے فاطمہ! اس کا سر مند و ادو اور اس کے بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کر دو۔“ سو انہوں نے بالوں کا وزن کیا تو وہ ایک درہم کے برابر یا کچھ کم نکلے جس کے برابر چاندی صدقہ کر دی گئی۔

حضرت عمرو بن شعیبؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”جس گھر میں بچہ پیدا ہوا اور وہ اس کے عقیقہ کے طور پر قربانی کرنا چاہے تو عقیقہ کی قربانی لڑکے کے لیے دو بکریاں اور دختر کیلئے ایک بکری ہے۔“ (ابوداؤد)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عقیقہ اس جانور کو کہتے ہیں جو نوزائیدہ بچے کی طرف سے خدا کے شکر یہ میں ذبح کیا جاتا ہے لڑکے کی جانب سے دو جانور اور لڑکی کی طرف سے ایک ہے۔ اگر کسی وجہ سے ساتویں دن عقیقہ نہ ہو سکے تو چودھویں یا اکیس تاریخ یا جب ممکن ہو کر دینا چاہیے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عقیقہ ساتویں چودھویں یا اکیسویں روز کیا جائے۔

۴۔ اچھا نام رکھنا: بچے کا اچھا سا نام رکھنا بھی والدین کا فرض ہے کیونکہ فرمان معطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ”آپنی سب سے پہلی بیٹی کو لاء کو جو تخلص دیتا ہے وہ اس کا نام ہے“

لہذا نام اچھا رکھنا چاہیے کیونکہ تم قیامت کے دن اپنے باپ کے ناموں سے پکارے جاؤ گے۔ اس لیے تم اچھا سا نام رکھو۔ (ترمذی)

حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمہارے سب سے پیارے نام عبداللہ عبدالرحمن اور اس جیسے ہیں۔“ (صحیح مسلم) ایک دوسری حدیث میں فرمایا۔ نبیوں کے ناموں پر نام رکھا کرو۔ (سنن ابوداؤد) البتہ غلط قسم کے نام نہیں رکھنے چاہئیں۔

بچے کا ختنہ کرنا بھی سنت ہے کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتویں روز حضرت حسن اور حضرت حسینؑ کا ختنہ کروایا۔

۵۔ رضاعت: بچے کو شیر خوارگی کے زمانہ میں دودھ پلانا بھی ضروری ہے کیونکہ ارشاد الہی ہے کہ:-

جو باپ چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد پوری مدت رضاعت تک دودھ پیئے۔ تو مائیں اپنے بچوں کو کمال دو سال دودھ پلائیں۔ اس صورت میں اس کے باپ کو معروف طریقے سے انہیں کھانا کپڑا دینا ہوگا۔ (البقرہ: ۲۳۳)

وَلَوْلَا ذَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُمْ
حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَهُ
الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ
وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (البقرہ: ۲۳۳)

اسلام نے یہ بھی اجازت دی ہے کہ والدہ کے علاوہ دوسری عورت بھی بچہ کو دودھ پلا سکتی ہے اور رضاعی ماں کا درجہ بھی تقریباً حقیقی ماں کے برابر ہے۔ ماں بیماری اور نقاہت کی صورت میں بچے کی عام دودھ سے نشوونما کر سکتی ہے۔ بہر حال مقصد بچے کو معینہ عرصہ تک دودھ پلانا ہے تاکہ اس کی مناسب نشوونما ہو۔

مندرجہ بالا آیت کی رو سے شیر خوارگی کی مدت دو سال ہے اگر بچہ خدا نخواستہ ماں اور باپ دونوں سے محروم ہو جائے تو اس کے ورثاء کو دودھ پلانے کا انتظام کرنا چاہیے۔

بچوں کو ہر دم گود میں نہ لیے رہو بلکہ جب تک وہ بیٹھنے کے قابل نہ ہوں پالنے میں زیادہ تر سلائے رکھو اور جب وہ بیٹھنے کے قابل ہوں تو ان کو رفتہ رفتہ مسندوں اور تکیوں کا سہارا دیکر بٹھانے کی کوشش کرو۔ ہر دم گود میں لیے رہنے سے بچے کمزور ہو جایا کرتے ہیں اور وہ گود میں رہنے کی عادت پڑ جانے سے بہت دیر میں چلتے اور بیٹھتے ہیں۔

۶۔ تعلیم و تربیت: اولاد کی صالح خطوط پر پرورش کے ساتھ انہیں تعلیم سے آراستہ

کرنا بھی والدین کا فرض ہے کیونکہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔

حضرت ایوب بن موسیٰ بواسطہ اپنے والد اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”اچھی تعلیم و تربیت سے زیادہ ایک باپ کا اپنی اولاد کیلئے کوئی عطیہ نہیں ہے۔“ (ترمذی)

علم وہ دولت ہے کہ جس سے انسان کی صلاحیتیں اجاگر ہوتی ہیں۔ لہذا والدین پر فرض ہے کہ وہ خود علم حاصل کریں اور اپنی اولاد کو بھی دولت علم سے مالا مال کریں۔ والدہ کی گود بچے کی پہلی اور بہترین درس گاہ ہے۔ جہاں انسانی سیرت سنورتی ہے کیونکہ بچے کا سب سے زیادہ رابطہ ماں کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ ماں اور اس کے ماحول کا اثر قبول کرتا ہے لہذا والدہ کو بچے کی ابتدائی تعلیم کی طرف خصوصی توجہ دینی چاہئے یہی وجہ ہے کہ اسلام میں علم کو بڑی اہمیت دی گئی ہے تعلیم کی قدر و قیمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے ظاہر ہوتی ہے کہ بدر کے قیدیوں کا فدیہ مقرر کرتے ہوئے فرمایا کہ ”جو قیدی پڑھے لکھے ہیں وہ مسلمانوں کے دس دس بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں تو انہیں آزاد کر دیا جائے گا۔“

تعلیم و تربیت پر خاص طور پر توجہ کریں اور تربیت کا دھیان رکھیں۔ کیونکہ بچے سادہ ورق کے مانند ہوتے ہیں۔ سادہ کاغذ پر جو نقش و نگار بنائے جائیں وہ بن جاتے ہیں اور بچوں بچیوں کا سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے اس لیے ماں کی تعلیم و تربیت کا بچوں پر بہت گہرا اثر پڑتا ہے۔ لہذا ہر ماں کا فرض منصبی ہے کہ بچوں کو اسلامی تہذیب و تمدن کے سانچے میں ڈھال کر ان کی بہترین تربیت کرے۔ اگر ماں اپنے اس فرض کو ادا نہ کرے گی تو گنہگار ہوگی۔

بچے جب کچھ بولنے لگیں تو ماں کو چاہئے کہ انہیں بار بار اللہ و رسول کا نام سنائے ان کے سامنے بار بار کلمہ پڑھے یہاں تک کہ وہ کلمہ پڑھنا سیکھ جائیں۔

جب بچے بچیاں تعلیم کے قابل ہو جائیں تو سب سے پہلے ان کو قرآن شریف اور دینیات کی تعلیم دلائیں۔

جب بچہ یا بچی سات برس کے ہو جائیں تو ان کو طہارت اور وضو و غسل کا طریقہ سکھائیں اور نماز کی تعلیم دے کر ان کو نمازی بنائیں۔ پاکی و ناپاکی حلال و حرام اور فرض و سنت وغیرہ کے مسائل ان کو بتائیں۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد ہے کہ ”جب بچہ سات سال کا ہو جائے۔ تو اسے نماز پڑھنے کا حکم دو جب دس برس کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو اسے مار کر نماز پڑھاؤ اور اسے

الگ سلایا کرو۔“ (ابوداؤد)

اس ارشاد گرامی کے پیش نظر والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو سات سال کی عمر تک نما اور اخلاق کے بنیادی اصول سکھائیں۔

عام طور پر والدین کی تربیت کا عکس ان کی اولاد پر مرتب ہوتا ہے۔ حضرت فاطمہؑ کی شخصیت سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کتنی بے مثال تربیت کی تھی۔ حضرت عائشہؓ سے مروی ہے کہ حضرت فاطمہ الزہراءؑ سب عورتوں سے بڑھ کر دانا تھیں، انداز کلام حسن اخلاق اور وقار و متانت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا ان کا کوئی ثانی نہ تھا۔

۷۔ **بچوں سے شفقت کرنا:** صالح تربیت کے ساتھ اولاد سے شفقت سے پیشتر آنا بھی والدین کیلئے ضروری ہے کیونکہ اولاد پر رحم کرنا مسلمان ہونے کی نشانی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک دن ایک دیہاتی آپؐ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ بچوں کو پیار کرتے ہوئے دیکھ کر پوچھا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو چومتے اور پیار کرتے ہیں ہم تو ایسا نہیں کرتے تو آپؐ نے فرمایا کہ ”میں اس پر قادر ہوں کہ تیرے دل کو اللہ تعالیٰ نے پتھر بنا دیا ہے۔“

پیار کرتے وقت ہر ایک سے ایک جیسا پیار کریں اور بچہ چھوٹا ہو تو اسے بوسہ دینا سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسنؑ کو چوما کرتے تھے۔ ایک دن اقرع بن حابس نے عرض کیا کہ میرے دس بچے ہیں لیکن میں نے ان میں سے کسی کو کبھی بوسہ نہیں دیا۔ فرمایا ”جو ان پر رحم نہیں کرتا (اسے یاد ہے کہ) خود اس پر بھی رحم نہیں کیا جائے گا۔“

ایک مرتبہ آپؐ منبر پر تشریف فرما تھے کہ حضرت حسنؑ اوندھے منہ گر پڑے آپؐ نے فوراً منبر سے اتر کر ان کو گود میں اٹھالیا اور یہ آیت پڑھی۔ ”تمہارے اموال اور اولاد بس تمہارے لیے فتنہ ہیں۔“ (یعنی اولاد بھی ایک آزمائش ہے)۔ (تغابن: ۵)

ایک مرتبہ حضور نماز ادا کر رہے تھے۔ سجدہ میں گئے تو حضرت حسینؑ نے اپنا پاؤں آپؐ کی گردن پر رکھ دیا۔ آپؐ نے حالت سجدہ میں اس قدر توقف کیا کہ صحابہؓ سمجھے غالباً وحی آگئی ہے جو سجدہ میں اتنی دیر کر دی ہے۔ نماز سے فارغ ہوئے تو صحابہؓ نے پوچھا کہ حضور! وحی آئی ہے کیا؟ فرمایا ”نہیں! بلکہ حسینؑ نے مجھے اونٹ جو بنا لیا تھا اور مجھے اچھا نہ لگا کہ اسے اپنے سے جدا کر دوں۔“

۸۔ اولاد میں عدل و انصاف: اولاد کو کچھ دیتے وقت یا سلوک کرتے وقت بھی والدین کو چاہیے کہ عدل و انصاف کو مد نظر رکھیں۔ اسلام میں چھوٹے بڑے لڑکے اور لڑکی کے حقوق یکساں ہیں۔ اسلام لڑکوں کے ساتھ لڑکیوں کے مقابلہ میں ترجیحی سلوک کو روا نہیں رکھتا۔ لڑکے اور لڑکیوں کا جو حصہ وراثت میں مقرر ہے انہیں دینا چاہیے کیونکہ اسی سے انصاف کا تقاضا پورا ہوتا ہے۔ اولاد میں سے کسی کو کوئی چیز دے دینا۔ اور دوسرے کو محروم رکھنا جائز نہیں بلکہ ایسا کرنا ظلم ہوگا جو خلاف اسلام ہے۔

ایک مرتبہ ایک صحابی نے اپنے ایک بیٹے کو ایک غلام دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرض کرنے لگا۔ آپ اس کی گواہی دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ”کیا دوسرے بچوں کو بھی ایک ایک غلام دیا ہے؟“ اس نے عرض کیا نہیں۔ آپ نے فرمایا ”میں اس ظلم کا گواہ نہیں بننا چاہتا۔“

اولاد سے ناانصافی کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بہن بھائیوں میں عداوت اور دشمنی کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں جس سے سکون ختم ہو جاتا ہے۔

۹۔ اولاد کی شادی کرنا: والدین کا فرض ہے کہ جب بچے جوان ہو جائیں تو ان کی شادی کر دیں لیکن شادی میں لڑکے اور لڑکی کی رضامند ہونا ضروری ہے کیونکہ اسلام میں زبردستی نہیں۔

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عورت کا اس وقت تک نکاح نہ کیا جائے جب تک اس کی اجازت حاصل نہ کر لی جائے۔ اسی طرح کنواری عورت کا نکاح نہ کیا جائے جب تک اس سے دریافت نہ کیا جائے۔ غرض کہ اسلام نے شادی میں مرد اور عورت کا حق ایک جیسا رکھا ہے لیکن لڑکے کیلئے مزید بالادستی یہ رکھی ہے کہ اگر وہ لڑکی کو ایک نظر دیکھے بھی لے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔

حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جس گھر میں بچہ پیدا ہوا اسے اچھا نام دے۔ اس کی تربیت کرے۔ جب بالغ ہو جائے اس کی شادی کرے۔ اگر بالغ ہونے پر اس کی شادی نہ کی اور وہ گناہ میں پڑ گیا تو اس گناہ میں اس کا باپ بھی شریک ہوگا۔ (بیہقی)

اسی طرح لڑکی کے بارے میں حضرت عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب لڑکی بارہ برس کی ہو جائے (عرب میں یہ بلوغت کی عمر تھی) اور اس کے سر میں شادی نہ کرے تو اب اس لڑکی کے کوئی گناہ ہو گیا تو اس گناہ کی ذمہ داری ماں اور باپ

کی ہوگی۔ (بیہقی)

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

(۱) بچہ جب ایک ہفتہ کو ہو جائے تو اس کا عقیقہ کرو اور نام رکھو اور اسے پاک کرو۔

(۲) چھ سال کا ہو جائے تو اسے آداب کی تعلیم دو۔

(۳) نو سال کا ہو جائے تو اس کا بستر علیحدہ کر دو۔

(۴) تیرہ سال کا ہو جائے تو نماز نہ پڑھنے پر اسے سزا دو (مارو پیٹو)۔

(۵) سولہ سال کا ہو جائے تو اس کی شادی کرو۔ تب اس کا ہاتھ پکڑ کر کہو کہ لو بیٹا! میں نے

تجھے (پالا پوسا) ادب و تہذیب سے آراستہ کیا۔ جن چیزوں کی تعلیم لازمی تھی وہ تجھے دلوائی

اور اب تیرا نکاح بھی کر دیا۔ پس اب اس دنیا میں تیرے فتنے سے اور آخرت میں تیرے

عذاب سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں۔

۱۰۔ اخلاقی تربیت: ہر ماں باپ کو یہ جان لینا چاہیے کہ بچپن میں جو اچھی یا بُری عادتیں

بچوں میں پختہ ہو جاتی ہیں وہ عمر بھر نہیں چھوٹی ہیں اس لیے ماں باپ کو لازم ہے کہ بچوں کو بچپن ہی

میں اچھی عادتیں سکھائیں اور بُری عادتوں سے بچائیں۔ جو لوگ یہ کہہ کر کہ ابھی بچہ ہے بڑا ہوگا

تو ٹھیک ہو جائے گا بچوں کو شرارتوں اور غلط عادتوں سے نہیں روکتے وہ لوگ درحقیقت بچوں کے

مستقبل کو خراب کرتے ہیں اور بڑے ہونے کے بعد بچوں کے بُرے اخلاق اور گندی عادتوں پر

روتے اور ماتم کرتے ہیں اس لیے نہایت ضروری ہے کہ بچپن ہی میں اگر بچوں کی کوئی شرارت یا

بُری عادت دیکھیں تو اس پر روک ٹوک کرتے رہیں بلکہ سختی کے ساتھ ڈانٹتے پھٹکارتے رہیں اور

طرح طرح سے بُری عادتوں کی بُرائیوں کو بچوں کے سامنے ظاہر کر کے بچوں کو ان خراب عادتوں

سے نفرت دلاتے رہیں اور بچوں کی خوبیوں اور اچھی اچھی عادتوں پر شاباش شاباش کہہ کر ان کا

من بڑھائیں بلکہ کچھ انعام دے کر ان کا حوصلہ بلند کریں۔ اس سے قبل بچوں کے حقوق کے

بیان میں بچوں کیلئے بہت سی مفید باتیں ہم لکھ چکے ہیں اب اس سے کچھ زائد باتیں بھی ہم لکھتے

ہیں۔ ماں باپ پر لازم ہے کہ ان باتوں کا خاص طور پر دھیان رکھیں تاکہ بچوں اور بچیوں کا

مستقبل روشن اور شاندار بن جائے۔

خراب لڑکوں اور لڑکیوں کی صحبت ان کے ساتھ کھیلنے سے بچوں کو روکیں اور کھیل تماشوں

کے دیکھنے سے ناچ، گانے، سینما، تھیٹر وغیرہ کی لغویات سے بچوں اور بچیوں کو خاص طور پر

بچائیں۔ بچوں کو اسلامی آداب و اخلاق اور دین و مذہب کی باتیں سکھائیں۔ اچھی باتوں کی

رغبت دلائیں اور بری باتوں سے نفرت دلائیں۔

اگر بچہ کہیں سے کسی کی کوئی چیز اٹھالائے اگرچہ کتنی ہی چھوٹی چیز کیوں نہ ہو اس پر سب گھر والے خفا ہو جائیں اور سب گھر والے بچے کو چور چور کہہ کر شرم دلائیں۔ بچے کو مجبور کریں کہ وہ فوراً اس چیز کو جہاں سے وہ لایا ہے اسی جگہ اس کو رکھ کر آئے۔ پھر چوری سے نفرت دلانے کے لیے اس کا ہاتھ دھلائیں اور کان پکڑ کر اس سے توبہ کرائیں تاکہ بچے کے ذہن میں اچھی طرح یہ بات جم جائے کہ پرانی چیز لینا یہ چوری ہے اور چوری بہت ہی برا کام ہے۔

غصہ کرنا اور بات بات پر روٹھ کر منہ پھلانا بہت زیادہ اور بہت زور سے ہنسنا، خواہ مخواہ بھائی بہنوں سے لڑنا جھگڑنا، چغلی کرنا، گالی بکنا، ان حرکتوں پر لڑکوں اور خاص کر لڑکیوں کو بہت زیادہ تنبیہ کریں۔ ان بری عادتوں کا پڑ جانا عمر بھر کیلئے رسوائی کا سامان ہے۔ چلا کر بولنے اور جواب دینے سے ہمیشہ بچوں کو روکیں۔ خاص کر بچیوں کو تو خوب ڈانٹ پھینکار کریں۔ ورنہ بڑی ہونے کے بعد بھی یہی عادت پڑی رہے گی تو میسے اور سسرال دونوں جگہ سب کی نظروں میں ذلیل و خوار بنی رہے گی۔ منہ پھٹ اور بد تمیز کہلائے گی۔ بچے غصہ میں اگر کوئی چیز توڑیں پھوڑیں یا کسی کو مار بیٹھیں تو بہت زیادہ ڈانٹیں بلکہ مناسب سزا دیں تاکہ بچے پھر ایسا نہ کریں اس موقع پر لاڈ پیار نہ کریں۔

بچوں کو بچپن ہی سے اس بات کی عادت ڈالیں کہ وہ اپنا کام خود اپنے ہاتھ سے کریں۔ وہ اپنا بچھونا خود اپنے ہاتھ سے بچھائیں اور صبح کو خود اپنے ہاتھ سے اپنا بستر لپیٹ کر اس کی جگہ پر رکھیں، اپنے کپڑوں اپنی ضروریات کی اشیاء خود سنبھال کر رکھیں۔ لڑکیوں کو برتن دھونے اور کھانے پکانے گھروں اور سامان کی صفائی ستھرائی، سجاوٹ، کپڑا دھونے، کپڑا رنگنے، سینے پر وٹنے کا سب کام ماں کو لازم ہے کہ بچپن ہی سے سکھانا شروع کر دے اور لڑکیوں کو محنت مشقت اٹھانے کی عادت پڑ جائے اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ بچوں اور بچیوں کو کھانے، پہننے اور لوگوں سے ملنے ملانے، محفل میں اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھانا ماں باپ کیلئے ضروری ہے۔

بچوں سے کوئی محنت کا کام لیا کریں مثلاً لڑکوں کے لیے لازم ہے کہ وہ کچھ دور دوڑ لیا کریں اور لڑکیاں چرخہ چلائیں یا چکی پیس لیں تاکہ ان کی تندرستی ٹھیک رہے بچوں کے سامنے زیادہ کھانے کی برائی بیان کرتے رہو اور ہر وقت کھاتے پیتے رہنے سے بھی بچوں کو نفرت دلاتے رہیں۔ مثلاً یوں کہا کریں کہ جو زیادہ کھاتا ہے وہ جنگلی اور بدو ہوتا ہے اور ہر وقت کھاتے پیتے رہنا یہ بندروں کی عادت ہے۔

بچوں کی ہر ضد پوری مت کرو کہ اس سے بچوں کا مزاج بگڑ جاتا ہے۔ وہ ضدی ہو جاتے ہیں اور یہ عادت عمر بھر نہیں چھوٹی۔

لڑکوں اور لڑکیوں کو ضرور کوئی ایسا ہنر سکھا دیں جس سے ضرورت کے وقت وہ کچھ کما کر بسر اوقات کر سکیں۔ مثلاً سلائی کا طریقہ یا موزہ بنیانا سویٹر بننا یا رسی بننا یا چرخہ کا تنا۔ خبردار! خبردار! ان ہنر کی باتوں کو سکھانے میں شرم و عار محسوس نہ کریں۔ لڑکیوں کو لباس اور زیور سے آراستہ اور بناؤ سنگار کے ساتھ رکھیں تاکہ لوگ رغبت کے ساتھ نکاح کا پیغام دیں۔ ہاں اس کا خیال رکھیں کہ وہ زیورات پہن کر باہر نہ نکلیں کہ چوروں ڈاکوؤں سے جان کا خطرہ ہے۔ بچیوں کو بالا خانوں پر نہ رہنے دیں کہ اس میں بے حیائی کا خطرہ ہے۔

بچے اور بچیاں کوئی کام چھپ چھپا کر کریں تو ان کی روک ٹوک کریں کہ یہ اچھی عادت نہیں بعض عورتیں اپنے بچوں کو مٹھائی کثرت سے کھلایا کرتی ہیں۔ یہ سخت مضر ہے مٹھائی کھانے سے دانت خراب اور معدہ کمزور اور بکثرت صفر اوی بیماریاں اور پھوڑے پھنسی کا روگ بچوں کو لگ جاتا ہے۔ مٹھائیوں کی جگہ گلوکوز کے بسکٹ بچوں کیلئے اچھی غذا ہے۔ نیا میوہ نیا پھل پہلے بچوں کو کھلائیں پھر خود کھائیں کہ بچے بھی تازہ پھل ہیں نئے پھل کو نیا پھل دینا اچھا ہے۔

۵۔ رشتہ داروں کے حقوق

رشتہ داروں سے ہمیشہ اچھا سلوک کرنا چاہئے کیونکہ اللہ کو یہی پسند ہے کہ عزیز واقارب کی عزت کی جائے اور ان کے ساتھ ہمدردی اور شفقت کا رویہ اختیار کیا جائے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ:

اے نبی! آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے کوئی مزدوری نہیں مانگتا۔ البتہ یہ چاہتا ہوں کہ تم رشتہ داری کی محبت کو قائم رکھو۔ (الشوری: ۲۳)

قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا
إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ
(الشوری: ۲۳)

اسلام نے اولاد اور والدین کے بعد دوسرے خوئی رشتہ داروں کے درجہ بدرجہ حقوق کو ملحوظ رکھنے کی بڑی تاکید کی ہے۔ اہل قرابت کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے کا بڑا درجہ ہے۔ لہذا رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرنا چاہئے۔ ان کی ضروریات کو مد نظر رکھنا چاہئے کمزور مالی حالت میں ان کی مالی امداد کرنی چاہئے۔ ان سے ہمیشہ محبت و مروت سے پیش آنا چاہئے۔ ان سے ملنے رہنا چاہئے۔ بیماری کی حالت میں عزیز واقارب کی تیمارداری میں دل و جان سے توجہ دینی

چاہیے۔ ترکہ میں رشتہ داروں کو ان کا حصہ دینا چاہیے غرضیکہ ہر لحاظ سے ان کے دکھ درد اور خوشی میں شامل رہنا چاہیے۔

حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”جسے اس کی خواہش ہو کہ اس کے رزق میں کشادگی کی جائے اور عمر میں زیادتی ہو تو وہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔“ (بخاری شریف)

ابوالشیخ ابن حبان اور بیہقی کی روایت ہے یا رسول اللہ! سب سے بہترین انسان کون ہے؟ صحابہ کرام نے سوال کیا۔ آپ نے فرمایا ”رب سے زیادہ ڈرنے والا۔ زیادہ صلہ رحمی کرنا والا اور نیکیوں کا حکم دینے والا برائیوں سے روکنے والا۔“

ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں اس چیز کی خبر نہ دوں جس سے اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے اور درجات بلند کرتا ہے؟ صحابہؓ نے عرض کیا ضرور بتلائے یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا جو تم سے اعراض کرے اس سے درگزر کرو جس نے تم پر ظلم کیا اسے معاف کر دو۔ جس نے تم کو محروم کیا اسے عطا کرو اور جس نے تعلقات ختم کیے اس سے تعلقات استوار کرو۔ (طبرانی)

ابن حبان اور حاکم کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا۔ اور کہا کہ میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، توبہ کی کوئی صورت بتلائیے۔ آپ نے پوچھا تیری ماں زندہ ہے؟ کہا نہیں، آپ نے پھر فرمایا تمہاری خالہ زندہ ہے؟ عرض کی ہاں یا رسول اللہ نے فرمایا جاؤ اس کی خدمت کرو۔ (یہی صلہ رحمی ہے)

رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلقات قائم رکھنا اور ان کے حقوق ادا کرنے کو صلہ رحمی کہا جاتا ہے۔ کتاب و سنت میں صلہ رحمی کی تاکید اور قطع تعلق کی مذمت کی گئی ہے۔

حضرت ابو بکرؓ سے روایت ہے کہ نبی اکرمؐ نے فرمایا ”تم لوگ اپنے نسیبوں کو یاد رکھو جس سے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہو۔ کیونکہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا خاندان میں محبت مال میں کثرت اور عمر میں برکت پیدا کرتا ہے۔“ (ترمذی)

اس حدیث میں صلہ رحمی کا یہ اجر بتایا گیا ہے کہ صلہ رحمی سے مال و دولت میں فراخی اور عمر میں زیادتی ہوتی ہے کیونکہ صلہ رحمی دو طرح کی ہے۔ ایک یہ کہ ضرورت مند رشتہ داروں کی مالی امداد کی جائے۔ دوسری یہ کہ خدا کی دی ہوئی عمر بچھڑے۔ ان کی خدمت میں حصہ لیا جائے۔

ترمذی کی ایک روایت ہے کہ ان لوگوں کی طرح نہ بنو جو کہتے ہیں کہ ہم لوگ ہمارے ساتھ

بھلائی کریں گے تو ہم بھی بھلائی کریں گے اور اگر وہ ہم پر زیادتی کریں گے تو ہم بھی زیادتی کریں گے۔ بلکہ تم اس بات کے عادی بنو کہ اگر لوگ تمہارے ساتھ بھلائی کریں تو بھلائی کرو اور اگر وہ زیادتی کریں تو تم زیادتی نہ کرو۔

حضرت عبداللہ بن عمرؓ کہتے ہیں کہ نبی اکرمؐ نے فرمایا ”رشتہ داری کا برتاؤ برتنے والا وہ نہیں ہے جو رشتہ داروں کا بدلہ دے بلکہ وہ ہے جو ٹوٹے ہوئے رشتہ کو جوڑے۔“ (بخاری)

طبرانی کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو! میں تم کو دنیا اور آخرت کی بہترین عادتیں بتلاتا ہوں تم تعلقات منقطع کرنے والے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرتے رہو۔ جو تم کو محروم رکھے اسے دیتے رہو اور جو زیادتی کرے اسے معاف کرتے رہو۔

حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم رحمن سے نکلا ہے۔ لہذا خدا نے اس کو کہہ دیا ہے جو تجھے جوڑے گا میں اس سے لگاؤ رکھوں گا اور جو تجھے توڑے گا میں اسے چھوڑوں گا۔ (بخاری شریف)

طبرانی کی روایت ہے جھوٹ، قطع رحمی اور خیانت کا مرتکب اس لائق ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی عذاب دے اور آخرت میں بھی سزا کا مستحق گردانے اور سب اعمال سے جلدی اجر صلہ رحمی کا ملتا ہے اگرچہ اس گھر کے لوگ گنہگار ہوتے ہیں مگر صلہ رحمی کی وجہ سے ان کا مال بھی خوب بڑھتا ہے اور ان کی اولاد بھی بکثرت ہوتی ہے۔

رشتہ داروں کے بعض لوگ امیر اور بعض غریب اور محتاج ہوتے ہیں امیر لوگوں کی دولت، عزت اور مقام اللہ کا عطا کردہ ہے لہذا اللہ چاہتا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی دولت سے اس کی مخلوق کی بہتری کیلئے خرچ کی جائے اور مصرف کی بہترین صورت غریب اور محتاج عزیز واقارب پر خرچ کرنا ہے۔ رشتہ داروں کی مالی امداد خفیہ طریقے سے کرنی چاہیے تاکہ سفید پوشی کا بھرم قائم رہے۔ رشتہ داروں کی مالی امداد کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ :-

اے نبی! آپ فرما دیجئے کہ فائدہ کی جو چیز تم خرچ کرو تو وہ ماں باپ، قرابت والوں اور یتیموں اور غریبوں کو دو۔ (البقرہ: ۱۳۶)

قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ۔
(البقرہ: ۱۳۶)

فائدہ کی جو چیز بھی تم خرچ کرو تو وہ ماں باپ اور رشتہ داروں کیلئے ہے۔ (البقرہ: ۳۶)

قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ۔ (البقرہ: ۳۶)

پیشک اللہ تعالیٰ انصاف اور حسن سلوک اور

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ

وَأَيْتَاءَ ذِي الْقُرْبَىٰ - (النحل)

قرابتداروں کو دینے کا حکم کرتا ہے۔ (النحل)

وَلَا يَأْتِلِ أَوْلُو الْفَصْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةَ أَنْ يَأْتُوتُوا أَوْلِيَ الْقُرْبَىٰ

جو لوگ تم میں زیادہ کشائش والے ہیں وہ

وَالْمَسَاكِينَ - (النور)

قرابتداروں اور محتاجوں کو نہ دینے کی قسم نہ

کھائیں۔ (النور)

حضرت سلیمان بن عامر روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا ”مسکین پر صدقہ کرنا ایک اجر ہے اور رشتہ دار کو صدقہ دینا دوسرے اجر کا سبب ہوتا ہے۔ ایک صدقہ کا ثواب اور دوسرا صلہ رحمی کا۔“ (ترمذی)

حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا میرے پاس ایک دینار ہے (میں اس کا کیا کروں) نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے اوپر خرچ کرو تو اس نے کہا کہ ایک دینار اور بھی ہے تو آپ نے فرمایا ”اپنی اولاد پر خرچ کرو“۔ سائل نے کہا کہ دو دینار اس کے علاوہ بھی ہے۔ تو آپ نے فرمایا ”رشتہ داروں پر خرچ کرو“ تو وہ کہنے لگا کہ تین سے ایک اور زیادہ بھی ہے تو آپ نے فرمایا ”اس کو اپنے خادم پر خرچ کرو۔“ یہ سن کر اس نے کہا کہ ایک اور بھی ہے۔ تب سرکار نے فرمایا ”اب تمہیں اختیار ہے اور تم بہتر جان سکتے ہو۔“ (ابوداؤد نسائی)

صحیحین کی روایت ہے ام المومنین حضرت میمونہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیے بغیر اپنی لونڈی آزاد کر دی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہاں تشریف لائے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ! آپ کو معلوم ہے کہ میں نے اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا ہے؟ آپ نے فرمایا ”واقعی؟“ عرض کی جی ہاں! آپ نے فرمایا ”اگر تم وہ لونڈی اپنے خالہ زاد کو دے دیتیں تو تمہیں بہت زیادہ ثواب ملتا۔“

احسان کا مطلب نیکی اور بھلائی کرنا ہے۔ رشتہ داروں کا یہ حق ہے کہ ان کے ساتھ زندگی کے ہر شعبے میں احسان کیا جائے۔ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر اس کی یوں تاکید کی گئی ہے۔

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ

اللہ ہی کی عبادت کرو اور کسی چیز کو اس کا شریک نہ

سَيِّئًا وَبِأَوْلِيَاءِ الدِّينِ إِحْسَانًا

بناؤ اور ماں باپ اور قرابتداروں سے نیک سلوک

وَبِذِي الْقُرْبَىٰ -

کرو۔ (البقرہ)

وَأَبِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ

تو قرابت دار کو اس کا حق دے دے۔

وَأَبِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ

تم قرابتداروں کے حق کو ادا کرو۔

وَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي

الْقُرْبَى - (البقرہ)

ہے۔ (البقرہ)

طبرانی کی روایت ہے کہ سب سے بہترین صدقہ کینہ پرور رشتہ دار کو کچھ دینا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا بھی یہی مطلب ہے کہ جو رشتہ دار تجھ سے تعلق منقطع کرے تو اس سے تعلق جوڑ لو۔

رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا کتنا بڑا اجر و ثواب ہے اور دنیا و آخرت میں اس کے فوائد و منافع کس قدر زیادہ ہیں اور رشتہ داروں کے ساتھ بد سلوکی اور ان سے تعلق کاٹ لینے کا گناہ کتنا بھیانک اور خوفناک ہے اور دونوں جہاں میں اس کا نقصان اور وبال کس قدر زیادہ خطرناک ہے اس لیے ہر مسلمان مرد و عورت پر لازم ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرے اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ اور نیک سلوک کرنے کا خاص طور پر دھیان رکھے۔ یاد رکھو کہ شریعت کے احکام پر عمل کرنا یہی مسلمان کیلئے دونوں جہاں میں صلاح و فلاح کا سامان ہے۔ شریعت کچھوڑ کر کبھی بھی کوئی مسلمان دروں جہاں میں پنپ نہیں سکتا۔

جو لوگ ذرا ذرا سی باتوں پر اپنی بہنوں، بیٹیوں، پھوپھیوں، خالائوں، ماموں، چچاؤں، بھتیجوں اور بھانجوں وغیرہ سے یہ کہہ کر قطع تعلق کر لیتے ہیں کہ آج سے میں تیرا رشتہ دار نہیں اور اب بھی میرا رشتہ دار نہیں اور پھر سلام، کلام، ملنا جلنا بند کر دیتے ہیں یہاں تک کہ رشتہ داروں کی شادی غمی کی تقریبات میں شامل نہیں ہوتے بلکہ اپنے قریبی رشتہ داروں کے جنازہ اور کفن و دفن میں بھی شریک نہیں ہوتے۔ ان تمام بُری سوچوں کو بالائے طاق رکھ کر رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنا چاہیے تاکہ اللہ اور اس کا حبیب راضی رہے۔

۶۔ ہمسایہ سے حسن سلوک

انسانی زندگی میں والدین اور رشتہ داروں کے بعد سب سے زیادہ قریبی تعلق ہمسایوں سے ہوتا ہے کیونکہ وہ قریب میں رہتے ہیں وہ دکھ تکلیف کے وقت ان رشتہ داروں کی نسبت جلد پہنچ جانے والا ہوتا ہے جو رشتہ دار دور ہوتے ہیں۔ ہمسائے کا لفظی مطلب ہی یہ ہے کہ اتنا قریب کہ دونوں کا سایہ ایک ہو جائے اس لیے جہاں جو بھی رہتا ہے اس کے دائیں بائیں، آمنے سامنے رہنے والے ہمسایہ کہلاتے ہیں۔ اسلام میں ہمدردی اور اخوت کے پیش نظر ہمسایہ سے اچھے سلوک کی تلقین کی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ:

marfat.com

اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ ماں باپ اور قرہبی رشتہ داروں اور قیہموں اور محتاجوں اور رشتہ دار ہمسایوں اور اجنبی ہمسایوں اور پاس بیٹھنے والوں اور مسافروں اور جو لوگ تمہاری ملکیت میں ہوں سب کے ساتھ احسان کرو کیونکہ اللہ مشکبر اور شیخی مارنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ (نساء: ۳۶)

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا
وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي
الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَ
الْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَ
الصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ
وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا
يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَلًا فَخُورًا

ہمسائیہ تین طرح کا ہوتا ہے۔ ایک رشتہ دار ہمسائیہ دوسرا اجنبی ہمسائیہ اور تیسرے عارضی ہمسائیہ ان تینوں سے ایک جیسا حسن سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہمسائیہ نہ صرف ساتھ والی دیوار کے ساتھ رہنے والا ہوتا ہے بلکہ چالیس گھر تک رہنے والا ہمسائیہ کہلاتا ہے۔ ہمسائیہ کے حقوق مندرجہ ذیل ہیں۔

۱۔ حقوق کی تفصیل: ہمسائیہ کے حقوق کیا ہیں؟ اس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ”جانتے ہو کہ ہمسائیہ کے حقوق کیا ہیں؟“ پھر آپ نے خود ہی ان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ”ہمسائیہ کا حق یہ ہے کہ اگر اسے مدد کی ضرورت ہو تو اس کی مدد کی جائے۔ اگر وہ کچھ قرض یا ادھار مانگے تو اسے دو۔ اگر وہ غریب ہو تو اس کی حاجت روائی کرو اور بیمار ہو تو اس کی تیمارداری کرو اور اگر مر جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جاؤ اپنے گھر کی دیوار اتنی اونچی نہ لے جاؤ کہ اس کے گھر میں ہوا کی آمد و رفت بند ہو جائے۔ اگر اسے کوئی خوشی نصیب ہو تو اس کی مسرت و شادمانی میں شریک ہو کر اسے مبارکباد دو اور اگر اس پر کوئی مصیبت پڑ جائے تو اس کے رنج و غم میں بھی شریک رہو۔ اگر کوئی میوہ ترکاری اپنے ہاں لاؤ تو اس کے ہاں بھی بچھو اور ایسا نہ کر سکو تو یہ بات ان سے پوشیدہ رکھو۔ اپنے بچوں کو اس چیز کی اجازت نہ دیں کہ وہ باہر ہمسائے کے دروازے کے سامنے جا کر ان کے بچوں کو تنگ کریں کہ اس سے خواہ مخواہ بڑوں کے درمیان رنجش پیدا ہونے کا امکان ہے آپ کے باور چچی خانہ کا دھواں ہمسائے کی پریشانی کا باعث نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں اگر اسے بھی کھانے کی کوئی چیز بھیجتے رہو تو ایک اچھی بات ہے۔“ (معجم کبیر)

اس حدیث کی روشنی میں ہمسائیہ کے حقوق کا خلاصہ یہ ہے کہ اسے دیکھتے ہی سلام کریں۔ اس سے طویل گفتگو نہ کریں۔ اس سے اکثر مانگتے نہ رہیں مرض میں اس کی عیادت کریں۔ مصیبت میں اسے تسلی دیں۔ اگر ہاں سے یہاں موٹا ہو جائے تو اس کے ساتھ رہیں۔ خوشی میں

اسے مبارکباد کہیں اور اس کی خوشی میں برابر کے شریک رہیں۔ اس کی غلطیوں سے درگزر کریں چھت سے اس کے گھر نہ جھانکیں۔ اس کے گھر کے صحن میں مٹی نہ پھینکیں۔ اس کے گھر کے راستہ کو تنگ نہ کریں وہ گھر کی طرف جو کچھ لے جا رہا ہو اسے نہ گھوریں۔ اس کے عیوب کی پردہ پوشی کریں۔ جب اسے کوئی مصیبت لاحق ہو تو اس کی مدد کریں اس کی عدم موجودگی میں اس کے گھر کی دیکھ بھال سے غافل نہ ہوں۔ اس کی غیبت نہ سنیں۔ اس کی عزت کا خیال رکھیں اس کی اولاد سے نرمی سے گفتگو کریں۔ جن دینی اور دنیاوی امور سے وہ ناواقف ہوں ان میں اس کی راہنمائی کریں گویا ہر طرح سے ہمسایہ گیری کے لحاظ کو مد نظر رکھیں۔

۲۔ **ہمسایہ کی دلجوئی:** ہمسایہ یا پڑوسی وہ ہے جو قریب میں رہتا ہو۔ حدیث پاک میں ہمسایہ کی تعریف یوں کی گئی ہے۔

الذات اربعین دار اجار۔ چالیس گھروں تک ہمسایہ ہے۔ (طبرانی)

سنن ابوداؤد میں ہے کہ ہمسائیگی کا حق چالیس گھروں تک ہے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے پیچھے دائیں بائیں کی طرف اشارہ کیا۔ یعنی ہمسائیگی کا حق ہر طرف ہے۔ زہریؒ کہتے ہیں کہ چالیس گھروں سے مراد چالیس آگے کے چالیس پچھواڑ کے اور چالیس بائیں طرف اور چالیس دائیں طرف کے گھر ہوتے ہیں اور فرمایا کہ ہمسایہ کا حق فقط اسی چیز تک محدود نہیں کہ اسے ایذا نہ پہنچائیں اور ستایا نہ کریں بلکہ یہ کہ اس کے ساتھ نیکی کریں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ہمسایہ وہ ہے کہ ”جس کا ایک حق ہوتا ہے اور وہ ہے کافر ہمسایہ اور ایک ہمسایہ وہ ہے جس کا دوسرا حق ہے اور وہ ہے مسلمان ہمسایہ۔ اور ایک ہمسایہ وہ ہوتا ہے جس کے حقوق تین گنا ہوتے ہیں اور یہ وہ ہمسایہ ہے جو قرابتدار بھی ہوتا ہے۔“ فرمان نبویؐ ہے کہ ”عورت“ گھر اور گھوڑے میں برکت اور نحوست ہے۔ عورت کی برکت تھوڑا مہر آسان نکاح اور اس کا حسن خلق والا ہونا ہے۔ اس کی نحوست بھاری مہر مشکل نکاح اور بد خلقی ہے گھر کی برکت اس کا کھلا ہونا اور اس کے ہمسایوں کا اچھا ہونا ہے اور اس کی نحوست اس کا تنگ ہونا اور اس کے ہمسایوں کا برا ہونا ہے۔ گھوڑے کی برکت اس کی فرمانبرداری اور اچھی عادتیں ہیں اور اس کی نحوست اس کی بری عادتیں اور سوار نہ ہونے دینا ہے۔“

ہمسایہ کا حق صرف یہ نہیں کہ آپ اس سے اس کی تکلیفیں دور کریں بلکہ ایسی چیزیں بھی اس سے دور کرنی چاہئیں کہ جن سے اسے دکھ پہنچنے کا احتمال ہو۔ ہمسایہ سے دکھ دور کرنا اسے دکھ دینے والی چیزوں سے دور رکھنے کے علاوہ کچھ اور بھی حقوق ہیں اس سے نرمی اور حسن سلوک سے

چش آئے اس سے نیکی اور بھلائی کرتا رہے۔

ابن المقفع سے کسی نے کہا کہ تمہارا ہمسایہ سواری کے قرض کی وجہ سے اپنا گھر بیچ رہا ہے ابن المقفع اس شخص کی دیوار کے سایہ میں بیٹھتا تھا اس نے یہ سن کر کہا کہ اگر اس نے تگدستی کی وجہ سے اپنا گھر بیچ دیا تو گویا میں نے اس کی دیوار کے سایہ کی عزت نہیں کی۔ چنانچہ اس کے پاس رقم بھیجی اور کہلا بھیجا کہ گھر نہ بیجو۔

۳۔ ہمسایہ کی ضرورت کا پورا خیال کرنا: ہمسایہ کی جائز

ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر ممکن طریقے سے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اگر اپنا معمولی نقصان بھی ہوتا ہو تو پھر جذبہ ایثار و مد نظر رکھتے ہوئے ہمسایہ کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اپنے پڑوسی کو دیوار میں لکڑی گاڑنے سے منع نہ کرے پھر حضرت ابو ہریرہ فرمایا کرتے کیا بات ہے کہ میں تمہیں اس بات سے اعراض کرتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ میں ضرور بالضرور یہ مسئلہ تمہاری گردنوں پر دے ماروں گا۔ (مسلم شریف)

کھانے پینے کی چیزوں میں ہمسایوں کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ کوئی ہمسایہ بھوکا نہ رہے اس بات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے احسن طریقے سے سمجھایا ہے کہ سالن پکاتے وقت تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال لو تاکہ ہمسایہ کی ضرورت بھی پوری ہو جائے۔

حضرت ابو ذر سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”اے ابو ذر جب شور باپکاؤ تو پانی زیادہ ڈالا کر اور اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھو۔“ (مسلم شریف)

طرائی کی ایک روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”وہ کامل مومن نہیں جو خود آسودہ حال ہو اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو۔“

ہمسایہ کی ضرورت کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”اگر تمہارا ہمسایہ تمہارے تنور میں روٹی پکانا چاہے تو تمہارے پاس اپنا سامان ایک دن یا نصف دن کیلئے رکھنا چاہے تو اسے منع نہ کرو۔“

۴۔ ہمسایہ سے اچھا سلوک کرنا: ہمسایہ سے حسن سلوک سے پیش آنا

اسلامی اخلاق کا لازمی حصہ ہے کیونکہ دوسروں سے اچھا سلوک ہی انسانی عظمت کا مظہر ہے۔ حضرت انسؓ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے بندہ اس وقت تک پورا مومن نہیں ہوتا جب تک اپنے بھائی کے لیے

بھی اس چیز کو پسند نہ کرے جس کو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ (بخاری)

اس حدیث میں بلند اخلاقی کا ایک عام اصول بیان کیا گیا ہے کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی چیز ہی دوسروں کے لیے پسند کرو یعنی اگر تم یہ توقع رکھتے ہو کہ تمہارے ہمسائے تمہارے ساتھ اچھا سلوک کریں تو تمہیں بھی چاہیے کہ تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ حضرت ابو شریح خزاعیؓ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور قیامت پر یقین رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے (بخاری شریف) حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ پڑوسیوں کا یہ بنیادی حق ہے کہ ان کے ساتھ اچھا اور نیک سلوک کیا جائے۔

۵۔ ستانے اور دل آزاری کی ممانعت: اپنے ہمسایوں کو ستانا درست نہیں اس لیے اپنے پڑوسیوں کو بلا وجہ گالیاں دینا یا تنگ کرنا یا آوازیں کسنا یا بلا وجہ نفرت کرنا جائز اور خلاف اسلام ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مندرجہ بالا الفاظ سے ہمسایہ ستانے سے منع فرمایا ہے۔

حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”جو شخص اللہ اور قیامت پر یقین رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو نہ ستائے۔“ (بخاری شریف)

اللہ کے نیک بندوں کا ہمیشہ سے یہی طرز عمل ہوتا ہے کہ وہ کسی کو ستاتے نہیں بلکہ اگر کوئی انہیں ستائے تو صبر کرتے ہیں اور اپنے آرام کو قربان کر کے دوسروں کو راحت پہنچاتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بزرگ چوہوں کی وجہ سے بہت پریشان رہتے تھے۔ کسی نے کہا کہ آپ بلی کیوں نہیں رکھ لیتے (کہ یہ کم بخت آپ کے گھر سے بھاگ جائیں) بزرگ نے جواب دیا کہ بلی اس لیے نہیں رکھتا کہ اس سے ڈر کر چوہے ہمسایہ کے گھر میں جا گھسیں گے تو اس کو اس مطلب تو یہ ہوا کہ جس چیز کو میں اپنے لیے پسند نہیں کرتا اسے ہمسایہ کے لیے بھی پسند کرتا ہوں۔

۶۔ ہمسایوں کی ایذا رسانی کی ممانعت: ہمسایوں کو مارنا پٹینا یا کسی اور طریقے سے دکھ اور تکلیف پہنچانا گناہ ہے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمسایوں کو ایذا رسانی سے منع فرمایا ہے۔

حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”خدا کی قسم وہ مومن نہیں خدا کی قسم وہ مومن نہیں۔“ صحابہؓ نے عرض کیا کون یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا ”جس کی ایذا رسانی سے اس کا پڑوسی مومن نہ ہو۔“ (بخاری شریف)

اس حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ کسی ہمسایہ کو ایذا نہ دی جائے بلکہ حقیقت میں اہل ایمان وہی ہیں جن کے پڑوسی ان سے راضی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمسایوں کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔

ایک اور حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن درویش ہمسایہ اپنے امیر ہمسایہ سے الجھے گا اور خدا سے فریاد کریگا کہ اے پروردگار! اس سے مواخذہ کیا جائے کہ یہ میرے ساتھ نیکی کرنے سے کیوں گریز کرتا رہا اور اس کے گھر کا دروازہ مجھ پر ہمیشہ بند کیوں رہا۔

ایک اور روایت میں حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کیا کہ فلاں عورت زیادہ نماز پڑھتی ہے اور صدقہ خیرات کرتی ہے اور زیادہ روزے رکھتی ہے لیکن وہ اپنے ہمسائے کو زبان سے تکلیف پہنچاتی ہے تو آپؐ نے فرمایا ”وہ عورت جہنمی ہے۔“ (ترغیب)

ایک روایت میں ہے کہ ایک آدمی نے حضرت ابن مسعودؓ سے آ کر کہا کہ میرا ایک ہمسایہ ہے جو مجھے تکلیف دیتا ہے گالیاں دیتا ہے اور تنگ کرتا ہے۔ آپؐ نے یہ سن کر فرمایا جاؤ اگر وہ تمہارے متعلق اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو تم اس کے بارے میں اللہ کی اطاعت کرو۔

ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے ہمسائے کا شکوہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا صبر کر تیسری یا چوتھی بار آپؐ نے فرمایا اپنا سامان راستہ میں پھینک دے راوی کہتے ہیں کہ لوگوں نے جب اس کے سامان کو باہر راستہ پر پڑا دیکھا تو پوچھا کیا بات ہے اس نے کہا مجھے ہمسایہ ستاتا ہے۔ لوگ وہاں سے گزرتے رہے پوچھتے رہے اور کہتے رہے اللہ تعالیٰ اس ہمسایہ پر لعنت کرے۔ جب اس نے یہ بات سنی تو آیا اور اسے کہا کہ اپنا سامان واپس لے آؤ بخدا میں پھر تمہیں کبھی تکلیف نہ دوں گا۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اپنے پڑوسی اور ہمسایہ کو تکلیف پہنچانا حرام ہے اور جو پڑوسی کو تکلیف پہنچاتا ہے تو وہ گویا خدا اور رسول کو تکلیف پہنچاتا ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ”جس نے اپنے پڑوسی کو ایذا پہنچائی اس نے مجھے تکلیف دی اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے خدا کو تکلیف دی اور جس نے اپنے پڑوسی سے لڑائی کی اس نے مجھ سے لڑائی کی اور جس نے مجھ سے لڑائی کی اس نے خدا سے لڑائی کی۔“ (ترغیب)

اس سے معلوم ہوا کہ پڑوسی کو ستانا حرام ہے پڑوسی کو ستانے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ آپؐ نے فرمایا ”وہ بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کا پڑوسی اس کی ایذاؤں سے امن میں

نہ ہو۔“ (مسند امام احمد)

ہمسایہ کے حقوق کی ادائیگی بڑی اہم ہے کیونکہ ہمسائیوں کا تعلق رشتہ داروں کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا اظہار یوں فرمایا ہے۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جبریل پڑوسی کے حقوق کے بارے میں تاکید کرتے رہے یہاں تک کہ میں نے گمان کیا وہ اسے وراثت میں شریک کر دیں گے۔ (بخاری و مسلم)

اپنے ہمسائیوں سے نیک سلوک کرنا اللہ کی دوستی کی علامت ہے کیونکہ اللہ کے نیک بندے رضائے الہی کے پیش نظر ہمیشہ ہر ایک سے اچھا سلوک کرتے ہیں لہذا اللہ کے بندوں کی پہچان کا ایک نمایاں وصف یہ ہے کہ اللہ کے دوست وہی ہیں جو دوسروں کو اپنے دوست بناتے ہیں۔ ایسے ہی بہترین پڑوسی وہ ہے جسے تمام ہمسائے اچھا سمجھیں۔

حضرت عبداللہ بن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین دوست خدا کے نزدیک وہ ہیں جو اپنے دوستوں کیلئے بہترین ہیں اور بہترین پڑوسی خدا کے نزدیک وہ ہیں جو اپنے پڑوسیوں کے حق میں بہتر ہیں۔ (ترمذی)۔

۷۔ ہمسایہ کی رائے کی اہمیت: اسلام نے اچھائی اور برائی کو پرکھنے کیلئے ہمسایہ کی رائے کو بڑی اہمیت دی ہے کہ جس قدر قریبی ہمسایہ اپنے ہمسائے کے بارے میں علم رکھتا ہے دوسرا آدمی نہیں رکھ سکتا۔

حضرت ابن مسعودؓ کہتے ہیں ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ! مجھے کیونکر معلوم ہو کہ میں نے اب اچھا کام کیا ہے اور اب برا؟ آپ نے فرمایا جب تم پڑوسیوں کو کہتے سنو کہ تم نے اچھا کام کیا ہے تو تم سمجھ لو کہ تم نے اچھا کام کیا ہے اور جب تم انہیں کہتے سنو کہ تم نے برا کام کیا ہے تو سمجھ لو کہ تم نے برا کام کیا ہے۔ (ابن ماجہ)

اس حدیث میں ایک عام اصول بیان کیا گیا ہے کہ جب ہم نے کسی کے بارے میں جاننا ہو کہ وہ آدمی کیسا ہے تو اس کے ہمسائیوں سے دریافت کرنا چاہئے۔ اگر ہمسائیوں کی رائے اس کے حق میں ہو تو سمجھے کہ وہ آدمی اخلاق اور کردار کے لحاظ سے اچھا ہے۔ اگر ان کی رائے برعکس ہو تو سمجھ لینا چاہئے کہ آدمی اچھا نہیں۔ اس کو پرکھنے کا معیار ہمسائیوں کی رائے پر موقوف کر دیا گیا ہے۔

۸۔ ہمسایہ کی عزت کی حفاظت: اپنے ہمسائیوں کی عزت اور ناموس

کی حفاظت کرنا فرض ہے اس لیے ہمسایہ کی بیوی کے نام کو مقدم سمجھنا چاہیے۔ دوسرے کی بیوی کی عزت پر ہاتھ ڈالنا بہت بڑا جرم ہے کیونکہ برائی جس جگہ بھی کی جائے برائی ہوگی لیکن اگر اس جگہ پر گناہ کیا جائے جہاں لازمی طور پر نیکی کرنی چاہیے تھی تو ظاہر ہے کہ اس گناہ اور برائی کا درجہ عام گناہوں اور برائیوں سے زیادہ ہوگا۔ بد قسمت انسان اگر کسی پڑوسی کی چوری کرے تو بہت برا کرے گا۔ ایسی حرکات بہت شرمناک ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت مذمت کی ہے لہذا ہمسایہ کی بیوی پر نہ خود دست درازی کرے اور نہ کسی اور کو کرنے دے۔

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ! سب سے بڑا گناہ کیا ہے آپ نے فرمایا ”اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا جب کہ اس نے تجھے پیدا کیا ہے۔“ اس نے عرض کیا پھر کونسا گناہ ہے؟ فرمایا ”تو اپنی اولاد کو اس خوف سے قتل کرے کہ وہ تیرے کھانے میں شریک ہوگی۔“ اس نے کہا پھر کونسا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”اپنے پڑوسی کی بیوی سے بدکاری کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔“

ایسے ہی ایک مرتبہ آپ نے ایک سوال کے جواب میں فرمایا کہ زنا حرام ہے۔ خدا اور رسول نے اس کو حرام کیا ہے لیکن دس بدکاریوں سے بڑھ کر بدکاری یہ ہے کہ کوئی اپنے پڑوسی کی بیوی سے بدکاری کرے۔ چوری حرام ہے خدا اور رسول نے اس کو حرام کیا ہے لیکن دس گھروں میں چوری کرنے سے بڑھ کر یہ ہے کہ کوئی اپنے پڑوسی کے گھر سے کچھ چالے۔

۷۔ یتیموں پر شفقت

یتیم کا مطلب ہے اکیلے اور تنہا رہ جانا۔ اس لیے ایسی اولاد جن کے سر سے باپ کی شفقت کا سایہ اٹھ جاتا ہے وہ یتیم کہلاتی ہے۔ اولاد کیلئے باپ کا سایہ ایک انمول نعمت ہے جس کا بدل نہیں کیونکہ بچوں کی صحیح تربیت اور پرورش کیلئے والدین کی آغوش محبت ضروری ہے چونکہ اولاد کا جو درد والدین کو ہوتا ہے کسی اور کو نہیں ہو سکتا اس لیے جو بچہ اپنے بچپن میں باپ کے سایہ شفقت سے محروم ہو جائے یتیم کہلاتا ہے۔ لڑکے کیلئے یتیمی کا عرصہ باپ مرنے سے بالغ ہونے تک اور لڑکی کیلئے شادی ہونے تک ہے۔

(۱) پس یتیم پر دباؤ نہ ڈالو۔ (الضحیٰ: ۹)

(۱) فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ (الضحیٰ: ۹)

(۲) اے محبوب! لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ

(۲) وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ

مَا أَنْفَقْتُ مِنْ خَيْرٍ قَلِيلًا إِلَّا الَّذِي جَاءَ بِهَا مِنْ عِنْدِي قُلْ إِنِّي خَشِيتُ لِلرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

کرو۔ لیکن ماں باپ اور قریب کے رشتہ داروں اور
قیموں اور متاجوں اور مسافروں کو دو اور جو بھلائی تم
کر گے خدا اس کو جانتا ہے۔ (البقرہ: ۲۱۵)

(۳) دنیا اور آخرت کے کام سوچ کر کرو۔ اور آپ
سے قیموں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں۔
آپ فرمائیے کہ ان کی اصلاح کرنا بہتر ہے اور تم
اگر ان کا خرچ دینے میں ملا لو تو وہ تمہارے بھائی
ہیں اور خدا خوب جانتا ہے کہ خرابی کرنی والا کون
ہے؟ اور اصلاح کرنے والا کون؟ اور اگر خدا چاہتا
تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا۔ بیشک خدا غالب
اور حکمت والا ہے۔ (البقرہ: ۲۳۰)

(۵) اور اگر تم کو اس بات کا خوف ہو کہ یتیم لڑکوں
کے ساتھ انصاف نہ کر سکو گے تو ان کے سوا جو
عورتیں تمہیں پسند ہوں دو دو یا تین تین یا چار چار
سے نکاح کر لو۔ اور اگر اس بات کا ڈر ہو کہ برابر
سلوک نہ کر سکو گے تو ایک عورت کافی ہے یا کنیریں
جن کے تم مالک ہو۔ اس سے تم بے انصافی سے بچ
جاؤ گے۔ (نساء: ۳)

(۵) اور قیموں کا مال ان کے حوالے کر دو اور ان
کے پاکیزہ مال کو اپنے بڑے مال سے نہ بدلو۔ اور
نہ ان کا مال اپنے مال میں ملا کر کھاؤ۔ کہ یہ بڑا سخت
گناہ ہے۔ (نساء: ۲)

(۶) بیشک جو لوگ ظلم کر کے قیموں کا مال کھاتے
ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ ڈالتے ہیں اور
عقرب وہ دوزخ میں ڈالے جائیں
گے۔ (نساء: ۱۰)

وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ
وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ
خَيْرٍ فَنَالَ اللَّهُ بِهِ عَلَيْهِمْ (بقرہ: ۲۱۵)
(۳) فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ
عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ
خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَارْحَمُوا أَوْلِيَاءَهُمْ
وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ
وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْتَبْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ
عَزِيمٌ حَكِيمٌ ۝

(بقرہ: ۲۲۰)

(۳) وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي
الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ
النِّسَاءِ مَثَلِي وَثَلْتِ وَرُبِعٌ فَإِنْ
خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ
مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ
أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۚ

(نساء: ۳)

(۵) وَاتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا
تَتَبَدَّلُوا الْخَيْرَاتِ بِالطَّيِّبِ وَلَا
تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ
إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ۝ (نساء: ۲)
(۶) إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ
الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي
بُطُونِهِمْ تَارًا وَسَيَصْلُونَ
سَعِيرًا ۚ (نساء: ۱۰)

قیموں سے حسن سلوک اور شفقت کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مندرجہ ذیل ہیں:-

۱۔ **حدیث:** حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہؐ نے فرمایا ”مسلمانوں کا بہترین گھر وہ ہے جس گھر میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ نیکی کی جاتی ہو اور مسلمانوں کا بُرا گھر وہ ہے جس میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ بُرا سلوک کیا جاتا ہو۔“ (ابن ماجہ)

۲۔ **حدیث:** حضرت ابو امامہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے تو اللہ تعالیٰ ہر اس بال کے بدلے جس پر اس کا ہاتھ پھیرا نیکیاں لکھ دیتا ہے اور جو کسی یتیم لڑکی یا لڑکے کے ساتھ اچھا سلوک کرے جو اس کے پاس ہو تو میں اور وہ جنت میں اس طرح ہوں گے۔ (آپ نے اپنی دو انگلیاں کر دکھائیں) (ترمذی)

۳۔ **حدیث:** حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی قسارتِ قلبی کی شکایت کی آپ نے فرمایا ”یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو اور مسکین کو کھانا کھاؤ۔“ (احمد)

۴۔ **حدیث:** حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے کھانے اور پینے میں یتیم کو شامل کرے تو اللہ تعالیٰ اس کیلئے جنت واجب فرما دیتا ہے مگر جبکہ ایسا گناہ کرے جو بخشنا نہ جائے اور جو تین بیٹیوں یا تین بہنوں کی پرورش کرے انہیں ادب سکھائے اور ان پر شفقت رکھے یہاں تک کہ انہیں ضرورت نہ رہے تو اللہ تعالیٰ اس کیلئے جنت واجب فرما دیتا ہے۔ ایک شخص عرض گزار ہوا کہ یا رسول اللہ! اگر دو ہوں؟ فرمایا اگر چہ دو ہوں۔ یہاں تک کہ لوگ عرض گزار ہوئے کہ اگر ایک ہو؟ فرمایا اگر چہ ایک ہو۔ اللہ تعالیٰ جس کی دو پیاری چیزیں چھین لے اس کیلئے جنت واجب ہوگی۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ! دو پیاری چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا کہ دو آنکھیں۔ (شرح السنہ)

۵۔ **حدیث:** حضرت سہل بن سعدؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ”میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا خواہ یتیم اپنا ہو یا غیر جنت میں اس طرح ہوں گے“ اور اپنی شہادت والی درمیانی انگشت مبارک سے اشارہ فرمایا اور ان کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ رکھا۔ (بخاری شریف)

۶۔ **حدیث:** حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”چار شخص ایسے ہیں کہ یہ اللہ کا عدل ہوگا کہ انہیں جنت میں داخل نہ کرے اور نہ ہی انہیں جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے دے“

شرابی سو د خوار، ناحق یتیموں کا مال کھانے والا اور والدین کا نافرمان۔“ (مستدرک حاکم)

۷۔ **حدیث:** حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر! میں تجھے کمزور سمجھتا ہوں اور میں تیرے لئے وہی کچھ پسند کرتا ہوں جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں۔ کبھی دو پر حکمران نہ بن اور مال یتیم کو اچھانہ سمجھ۔ (مسلم شریف)

۸۔ **حدیث:** حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھے اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ دنیا میں بھیجا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا جو یتیم پر رحم کرے اور نرمی سے گفتگو کرے۔ (طبرانی)

قرآن و حدیث سے یہ واضح ہوا کہ یتیموں کے حقوق تین طرح کے ہیں ایک تو ان سے حسن سلوک کیا جائے اور دوسرے ان کی کفالت کی جائے اور تیسرے ان کے مال کی حفاظت کی جائے ان کی تفصیل حسب ذیل ہے:

۱۔ **حسن سلوک:** یتیموں سے اچھا سلوک کرنا چاہیے تاکہ وہ اپنے مرحوم والد کی شفقت کا نعم البدل محسوس کریں۔ کیونکہ والدین کے دل میں اولاد کیلئے فطری طور پر ایک ایسا پیارا اور محبت بھرا جذبہ ہوتا ہے جس سے اولاد فرحت اور راحت محسوس کرتی ہے۔ اس لیے یتیموں سے ایسا مشفقانہ رویہ اختیار کرنا چاہیے کہ جس شفقت سے وہ اپنے آپ کو محروم سمجھتے ہوں انہیں وہ میسر رہے۔ اس لیے یتیم کو گود میں لینا، ان کا بوسہ لینا، ان کے سر پر دست شفقت پھیرنا، انہیں بات بات پر جھڑکی نہ دینا، اگر ان سے کوئی غلطی یا نقصان ہو جائے تو انہیں محبت بھرے لہجے سے سمجھانا سب حسن سلوک کے زمرے میں شمار ہوگا۔

۲۔ **بہتر کفالت:** یتیموں کا دوسرا حق یہ ہے کہ ان کی بہتر طریقے سے پرورش کی جائے اپنی اولاد اور ان میں ذرا فرق نہ رکھا جائے۔ پھر کفالت کے ساتھ ان کی تعلیم و تربیت کی طرف خصوصی توجہ دی جائے۔ انہیں اپنی حیثیت کے مطابق لکھایا پڑھایا جائے اور ان کی تعلیم کے اخراجات برداشت کیے جائیں تعلیم کے ساتھ ہی انہیں اچھے اخلاق و آداب بھی سکھائے جائیں تاکہ وہ جوان ہو کر معاشرے کے اچھے فرد بن سکیں جو ان ہونے پر ان کی شادی کا بندوبست بھی کیا جائے اور بالخصوص اگر یتیم بچیاں ہوں تو وقت پر ان کی شادی کر دی جائے۔

۳۔ **مال کی حفاظت:** یتیموں کے سرپرست کے مال کو ایسے خرچ کرے جیسے وہ اپنی اولاد کے مال کو ان کے یتیم ہونے کی صورت میں ان کے سرپرست سے خرچ کرنے کی امید رکھتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ اے داؤد! یتیم کیلئے مہربان باپ کی طرح اور مفلس بیوہ کیلئے مہربان شوہر کی طرح ہو جا اور جان لے کر جیسا بوئے گا ویسا ہی کانٹے کا یعنی تو جیسا کرے گا ویسا ہی تجھ سے کیا جائے گا۔ کیونکہ آخر ایک دن مرنا ہے۔ تیری اولاد کو یتیم اور بیوی کو بیوہ ہونا ہے۔

صحیح ابن حبان میں روایت ہے کہ ان باتوں میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرو بن حزمؓ کے توسط سے یمن والوں کو جو احکام بھیجے تھے ان میں یہ بھی تھا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے بڑا گناہ اللہ کا شریک ٹھہرانا، ناحق کسی مومن کو قتل کرنا۔ جنگ کے دن میدان جنگ سے جہاد فی سبیل اللہ سے فرار و الدین کی نافرمانی، پاکباز عورتوں پر اتہام لگانا، جادو سیکھنا، سود کھانا اور یتیم کا مال کھانا ہے۔

بخاری و مسلم وغیرہ میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ”سات مہلک باتوں سے بچو“۔ صحابہ کرامؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) وہ کونسی ہیں؟ آپ نے فرمایا ”اللہ کے ساتھ شریک بنانا، جادو، ناحق کسی کو قتل کرنا، سود کھانا اور یتیم کا مال کھانا وغیرہ“۔

مسلم کی روایت سے معراج شریف کی حدیث میں ہے، پس میں اچانک ایسے آدمیوں کے پاس آیا جن پر کچھ لوگ مقرر تھے جو ان کی داڑھیاں نوچ رہے تھے اور کچھ لوگ جہنم کے پتھر لا کر ان کے منہ میں ڈال رہے تھے جو ان کے پیچھے سے نکل رہے تھے۔ میں نے کہا سے جبریل! یہ کون ہیں؟ جبریلؑ نے کہا جو لوگ ناحق یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ کھا رہے ہیں پس اس کے سوا اور کچھ نہیں (یہ وہی لوگ ہیں)۔ (مکاشفۃ القلوب)

۸۔ جانوروں کے حقوق

انسانوں کی طرح جانور بھی ایک مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں انسانوں کے فائدے اور عزت کیلئے پیدا فرمایا ہے بلکہ جانور تو ایسے ہیں کہ جن کا انسانی زندگی میں خاص دخل ہے ان سے کئی قسم کی حیوانی خوراک حاصل ہوتی ہے یا ان سے بار برداری کا کام لیا جاتا ہے پھر کھیتی باڑی کا دار و مدار کسی حد تک پالتو جانوروں پر ہے۔ جانور خواہ کیسی نوعیت کا ہو اس پر رحم کرنا چاہیے کیونکہ اسلام نے ہمیں یہی درس دیا ہے۔ اللہ رحمن ہے اس لیے وہ چاہتا ہے کہ انسان بھی اپنے ماتحتوں پر جذبہ رحم کا اظہار فرمائے۔ جانوروں پر رحم کرنے کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات حسب ذیل ہیں: marfat.com

۱۔ جانوروں پر رحم کرنا: پالتوں جانور جیسے اونٹ، تیل، گائے، بھینس، بھیڑ، بکری، گھوڑا، ٹیگر وغیرہ کی خوراک کا بندوبست کرنا جانور رکھنے والے کے ذمے ہے لہذا جانوروں کی ضرورت کے وقت گھاس اور پانی پلانا فرض ہے۔

۱۔ حدیث: حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اکرمؐ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی مسماں درخت لگائے یا کھیتی اگائے اور اس سے کسی انسان کو خوراک حاصل ہو یا پرندہ دانہ چنے یا کوئی جانور چارہ حاصل کرے تو اس کیلئے یہ صدقہ بن جائے گا۔ (بخاری و مسلم)

۲۔ حدیث: حضرت عبداللہ بن جعفرؓ روایت کرتے ہیں ایک مرتبہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کے باغ میں تشریف لے گئے۔ وہاں ایک اونٹ آپؐ کو دیکھ کر بلبلائے لگا۔ اس نے درد بھری آواز نکالی اور اس کی آنکھوں میں آنسو آگئے آپ نے اس کی دست شفقت پھیرا تو اونٹ خاموش ہو گیا۔ آپ نے دریافت کیا اونٹ کس کا ہے؟ ایک انصاری نے عرض کیا میرا ہے۔ آپ نے فرمایا تم اس بیچارے جانور کے بارے میں اللہ سے نہیں ڈرتے جس نے تمہیں اس کا مالک بنایا ہے اس نے شکایت کی ہے کہ تم اسے بھوکا رکھتے ہو زیادہ کام لے کر اسے دکھ دیتے ہو۔ (سنن ابوداؤد)

۳۔ حدیث: ایک صحابیؓ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ میں نے خاص اپنے اونٹوں کیلئے پانی کے جو حوض بنائے ہیں ان پر بھولے بھٹکے اونٹ بھی آ جاتے ہیں۔ اگر میں ان کو پانی پلا دوں تو کیا مجھ کو اس پر ثواب ملے گا تو آپ نے فرمایا کہ پیاسے ذی حیات کے ساتھ سلوک کرنے پر ثواب ملتا ہے۔ (ابن ماجہ)

۴۔ حدیث: حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص سفر پر جا رہا تھا اسے شدت کی پیاس لگی۔ راستہ میں ایک کنواں ملا اس نے اس میں اتر کر پانی پیا۔ باہر نکل کر دیکھا ایک کتا ہے اس کی زبان باہر نکلی ہوئی ہے۔ پیاس کے مارے کچھڑ چاٹ رہا ہے اس نے خیال کیا کہ کتے کو بھی ویسی ہی تکلیف ہے جیسے مجھے تھی۔ وہ ترس کھا کر پھر کنویں میں اتر اپنے چمڑے کے موزہ میں پانی بھر لایا اور کتے کے منہ سے لگایا۔ اللہ کریم نے اس کی نیکی کو پسند کیا اور اس کی بخشش کا فیصلہ کر دیا۔ میں نے دریافت کیا کیا جانوروں کو پانی پلانے کا بھی ہمیں اجر ملتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ”ہاں ہر جگہ تر رکھنے والے جانور کو پانی پلانے پر اجر ملے گا۔“ (مسلم شریف)

۵۔ حدیث: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک

بدچلن عورت اس عمل پر بخش دی گئی کہ وہ ایک کنویں کے قریب سے گزری اس نے دیکھا کہ ایک کتابوں زبان نکالے ہوئے ہے کہ گویا پیاس سے مرہی جائے گا۔ اس نے اپنا چہرہ کا موزہ پاؤں سے نکالا اس کو اپنے سر کی اوڑھنی سے باندھا اور یوں پانی نکال کر اسے پلایا۔ وہ عورت اس عمل نیک سے بخش دی گئی۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا جانوروں کو کھلانے پلانے میں بھی ثواب ہے؟ آپ نے فرمایا ”ہاں! ہر ذی حس جانور کو کھلانے پلانے کا اجر ہے۔“ (بخاری شریف)

۲۔ **پرندوں پر رحم کرنا:** پرندوں کے بچوں کو گھونسلوں سے نکال لینا یا پرندوں کو پتھروں میں بند کر دینا اور بلا ضرورت ان پرندوں کے ماں باپ اور جوڑے کو دکھ پہنچانا بہت بڑی بے رحمی اور ظلم ہے جو کسی مسلمان کیلئے جائز نہیں۔

حضرت ام کرزہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ فرما رہے تھے پرندوں کو ان کے گھونسلوں میں رہنے دو۔ (ابوداؤد)

معلوم ہوا ہے کہ پرندوں کو گھونسلوں سے اور ان کے رہنے سہنے کی جگہ سے ہٹانا اور آڑا نا درست نہیں ہے۔

بعض لوگ کسی جاندار کو باندھ کر لٹکا دیتے ہیں اور اس پر غلیل یا بندوق سے نشانہ بازی کی مشق کرتے ہیں۔ یہ بھی اعلیٰ درجہ کی بے رحمی اور ظلم ہے جو ہر مسلمان کیلئے حرام ہے۔

حضرت فاروق اعظمؓ کے بیٹے جناب عبداللہؓ نے قریش کے چند نوجوانوں کو دیکھا کہ انہوں نے تختہ مشق بنانے کیلئے ایک پرندہ کو لٹکا رکھا ہے اور اس پر تیر مار رہے ہیں۔ پرندہ کے مالک نے یہ شرط لگا رکھی تھی کہ جو تیر خطا گیا وہ اس کا ہوگا۔ نوجوان انہیں دیکھ کر ادھر ادھر ہو گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرؓ نے فرمایا جس شخص نے ایسا کیا اس پر اللہ نے لعنت کی جس نے تختہ مشق بنانے کیلئے کسی جاندار کو پکڑا اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔

حضرت انسؓ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازی وغیرہ کیلئے جانوروں کو باندھنے کی ممانعت فرمائی ہے۔ (بخاری و مسلم)

زمانہ جاہلیت میں عربوں میں جانوروں کی لڑائی کا بہت رواج تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فعل قبیح کی ممانعت فرمادی۔

حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں میں لڑائی کرانے سے منع فرمایا ہے۔ (Marfat.com)

مرغ بازی، بٹیر بازی اور مینڈھے لڑانا اسی طرح کسی اور جانور کا لڑانا سب اس ممانعت میں داخل ہیں اور حرام ہیں۔ یہاں تک کہ بچوں کو کھیلنے کیلئے پرندہ دینا بھی منع ہے۔ اس سے پرندہ کو ایذا پہنچتی ہے۔ اس ضمن میں ایک مشہور حدیث ہے کہ کوئی شخص کبیل میں کسی مادہ پرندہ اور اس کے بچوں کو لپیٹ کر حضورؐ کی خدمت میں لایا۔ جب اس نے کبیل کھولا تو مادہ بچوں پر گر پڑی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹتے ہوئے فرمایا کہ اس کے بچوں کی وجہ سے اس کو کس دکھ دیا ہے۔ انہیں واپس جا کر چھوڑ دو۔

۳۔ جانوروں پر تشدد کی ممانعت: اونٹ، گھوڑے، گدھے یقینی سواری کے جانور ہیں لیکن اس میں بھی ان کی راحت کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کے جانوروں کے ساتھ ظلم کرنے سے سختی سے منع فرمایا ہے۔

حضرت عبداللہ بن عباسؓ فرماتے ہیں کہ میں حج کے موقعہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا کہ آپ نے پیچھے سے اونٹوں کو مارنے اور ہانکنے کی آواز سنی لہذا آپ نے (پیچھے مڑ کر) لوگوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ”اے لوگو! آرام سے کام لو۔ کیونکہ سواری کا دوڑانا نیکی کا کام نہیں ہے۔“

معلوم ہوا کہ جانوروں کو بلا ضرورت دوڑانا اور خواہ مخواہ ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کر کے جانور کو پریشان کرنا (جیسا کہ تانگہ والے اور نیل گاڑی والے کیا کرتے ہیں) منع اور نادرست ہے۔

بعض اوقات ہم جانوروں کو قابو میں رکھنے کیلئے ظالمانہ رویہ رکھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سختی سے روکا ہے۔ اس طرح اونٹ کے گلے میں تانت ڈالنا بھی منع ہے کیونکہ اس سے اونٹ کو تکلیف ہوتی ہے۔

حضرت ابو بئیر انصاریؓ سے روایت ہے کہ میں ایک سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اس سفر میں ایک یہ واقعہ پیش آیا کہ آپ نے (قافلہ والوں میں اعلان کرنے کیلئے ایک قاصد بھیجا) جو یہ منادی کر دے کہ کسی اونٹ کے گلے میں تانت بندھا ہوا نہ ہو۔

چونکہ تانت سخت ہوتا ہے اور بسا اوقات کھال کاٹ کر اس کا گوشت میں گڑ جانے کا امکان ہوتا ہے اس لیے اس کے باندھنے سے منع فرمایا ہے۔

المختصر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کی ایذا رسانی ہر طریقے سے منع فرمائی ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ ایک سفر کے دوران راستہ میں چیونٹیوں کی کثرت تھی ہم نے انہیں آگ لگا دی۔ یہ دیکھ کر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگ پیدا کرنے والے اللہ کے سوا کسی کو سزاوار نہیں کہ وہ کسی جاندار کو آگ کا عذاب دے۔ (ابوداؤد)

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم ہرا بھرا جنگل ہونے کے زمانہ میں سفر کرو تو اونٹوں کو ان کا حق زمین سے دیا کرو (یعنی تھوڑی دیر ان کو اس جگہ پر چرنے کیلئے چھوڑ دیا کرو) اور جب قحط سالی میں سفر کرو تو ان پر سفر جلدی سے طے کر لیا کرو۔

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ ہم جب کسی منزل پر اترتے تھے تو نماز نہیں پڑھتے تھے جب تک کجاووں کو کھول نہیں لیتے تھے۔

مندرجہ بالا احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ جانوروں کی تکلیف کا احساس ہونا چاہیے اور ہر ذریعہ سے انہیں آرام پہنچانا چاہیے۔ منزل پر پہنچ کر ان کے چارہ کا بندوبست کرنا چاہیے اور ان کی طاقت اور استطاعت کے مطابق ان سے کام لینا چاہئے۔

۴۔ **اچھی طرح ذبح کرنے کا حکم:** جن جانوروں کو ذبح کرنا ہو یا موذی ہونے کی وجہ سے قتل کرنا ہو تو مسلمان کیلئے لازم ہے کہ اس کو تیز ہتھیار سے بہت جلد ذبح یا قتل کر دے۔ کسی جانور کو تڑپا تڑپا کر یا بھوکا پیاسا رکھ کر مار ڈالنا یہ بھی بہت بڑی بے رحمی ہے جو ہرگز ہرگز اسلام میں جائز نہیں ہے۔

جن جانوروں کا گوشت کھانا حرام ہے جب تک وہ ایذا نہ پہنچائیں بلا ضرورت ان کو قتل کرنا منع ہے جن جانوروں کا گوشت حلال ہے ان کو بھی جبکہ کھانے کیلئے نہ ہو بلکہ محض تفریح کے لیے بلا ضرورت قتل کرنا منع ہے۔ جیسا کہ بعض شکاری لوگ کھانے یا کوئی فائدہ اٹھانے کیلئے نہیں شکار کرتے بلکہ شکار کھلتے ہیں یعنی محض کھیل کود کے طور پر جانوروں کا خون کر کے ان کو ضائع کر دیتے ہیں یہ شریعت میں جائز نہیں ہے۔

حضرت شداد بن اوسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے ساتھ احسان کرنے کو ضروری قرار دیا ہے سو جب تم (کسی مجرم کو) قتل کیا کرو تو اچھے طریقے سے قتل کیا کرو اور جب تم کسی جانور کو ذبح کیا کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کیا کرو۔ اس میں یہ بھی شامل ہے کہ تم میں سے جو شخص بھی اس کام کا کرنے والا ہو وہ اپنے چاقو کو تیز کر دیا کرے اور اپنے ذبیحہ کو راجت ڈالے۔

اس کا اہتمام ہونا چاہیے کہ جانور کو ذبح کرنے کا چاقو کند نہ ہو اور ذبح کرنے سے پہلے جانور کو بھوکا پیاسا نہ رکھا جائے۔ جیسا کہ اکثر قصاب کرتے ہیں۔ یہ سب امور ایذا رسانی کے زمرہ میں آتے ہیں اور ان کی ممانعت فرمائی گئی ہے۔

بے ضرورت اور بے کار مارنا بھی منع ہے وہ جانور جو نہ موذی ہے اور نہ اس کا گوشت کھایا جاتا ہے تو اس کا مارنا بالکل جائز نہیں بلکہ فضول ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص کسی چڑیا کو یا اس سے بڑے جانور کو اس کے حق کے خلاف قتل کرے تو اللہ تعالیٰ اس قتل کے متعلق باز پرس فرمائیں گے۔ عرض کیا گیا کہ اس کا حق کیا ہے؟ فرمایا حق یہ ہے کہ اس کو کھانے کیلئے ذبح کرے اور اس کا سر جدا کر کے پھینک نہ دے۔

۹۔ ملازموں کے حقوق

اسلام نے مالک اور ملازم میں اخوت ہمدردی اور اعتدال کو فروغ دینے کا درس دیا ہے۔ یہ نظام فطرت ہے کہ کوئی حاکم ہے اور کوئی اس کا ماتحت، کوئی مالک ہے اور کوئی نوکر، لیکن دونوں میں حقوق کیا ایک حد ہے تاکہ کسی کی حق تلفی نہ ہو اس لیے ملازمتوں اور نوکروں سے نرمی کا سلوک کرنا چاہیے اس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات حسب ذیل ہیں:

۱۔ حدیث: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانا اور پہننا مملوک کا حق ہے اور اسے طاقت سے باہر کام کی تکلیف نہ دی جائے۔ (مسلم شریف)

۲۔ حدیث: حضرت ابو ذرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے جس بھائی کو اللہ تعالیٰ تمہارا ماتحت کر دے یا جس کو اللہ تعالیٰ تمہارا مملوک بنا دے اسے وہی کھلاؤ جو تم کھاتے ہو اسے وہی پہناؤ جو تم پہنتے ہو اور ایسے کام کی تکلیف نہ دو جو اس پر غالب آجائے اگر غالب آنے والے کام کی تکلیف دو تو اس کی مدد کرو۔ (بخاری شریف)

۳۔ حدیث: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کیلئے اس کا خادم کھانا تیار کرنے پھر اسے لے آئے جس کی خاطر وہ گرمی اور دھواں برداشت کر چکا ہے تو اسے اپنے ساتھ بٹھا کر کھلانا چاہیے۔ اگر کھانا تھوڑا ہو تو ایک دو لقمے اس میں سے اس کے ہاتھ پر رکھ دے۔ (مسلم)

۴۔ حدیث: حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ ان کا خزانچی ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے فرمایا کیا لونڈی غلاموں کو ان کا کھانا دے دیا ہے؟ عرض گزار ہوا کہ نہیں۔ فرمایا کہ

جاؤ ان کا کھانا دو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ انسان کی بربادی کیلئے یہی گناہ کافی ہے کہ جن کی روزی اس کے ذمے ہو اسے روکے۔ دوسری روایت میں ہے کہ آدمی کے تباہ ہونے کیلئے یہی گناہ کافی ہے کہ جو روزی دی جاتی ہو اسے ضائع کر دے۔ (مسلم شریف)

۵۔ حدیث: حضرت رافع بن ملکیتؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غلام سے اچھا سلوک کرنا خوش بختی ہے اور بد خلقی سے پیش نا بد بختی ہے۔ (ابوداؤد)

۶۔ حدیث: حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے فرمایا کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوا یا رسول اللہ! ہم خادم کو کہاں تک معاف کر سکتے ہیں؟ آپ خاموش رہے دوبارہ یہی بات پوچھی تب بھی آپ خاموش رہے۔ جب تیسری مرتبہ پوچھا تو فرمایا روزانہ اس سے ۷۰ دفعہ درگزر کرو۔ (ابوداؤد)

۷۔ حدیث: حضرت ابوسعیدؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنے خادم کو پیٹے اور وہ اللہ کو یاد کرے تو اس سے اپنے ہاتھوں کو اٹھا لو۔ (ترمذی)

۸۔ حدیث: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ میں نے ابوالقاسم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے اپنے غلام پر تہمت لگائی اور وہ اس کے الزام سے بری ہو تو قیامت کے روز آقا کو کوڑے لگائے جائیں گے مگر جبکہ وہ اس کے کہنے کے مطابق ہو۔ (بخاری)

۹۔ حدیث: حضرت ابوبکر صدیقؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے غلام سے برا سلوک کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ (ترمذی ابن ماجہ)

اخلاق

۱۔ حسن اخلاق

اچھے اخلاق کو حسن اخلاق کہا جاتا ہے اور شریعت کے عائد کروہ فرائض اور حقوق کی ادائیگی کو اخلاق کہا جاتا ہے۔ اچھے معاشرے کے لیے اخلاق کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ اچھائی اخلاق ہی سے پہچانی جاتی ہے اس لیے اسلام نے حسن اخلاق پر بہت زور دیا ہے تاکہ ہر انسان کو دوسرے کے رویے سے سکون اور راحت ملے اور کسی قسم کی تلخی نہ ملے۔ اس چیز کے پیش نظر ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کے ہر پہلو میں خوش اخلاقی کو مد نظر رکھے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں اخلاقی تعلیمات پر بہت زور دیا گیا ہے۔ حسن اخلاق ہر انسان میں عظمت پیدا کرتا ہے اس لیے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنی ذات کو اور اولاد کو اس زیور سے آراستہ کرے۔

حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”میرے نزدیک تمہاری سب سے پسندیدہ چیز تمہارا اچھا اخلاق ہے“۔ (بخاری)

حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہیں جو اخلاقی لحاظ سے اچھے ہیں۔ (مسلم شریف)

حضرت عائشہ صدیقہؓ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ بیشک مومن اپنے حسن اخلاق سے راتوں کو قیام کرنے والے اور دنوں کو روزہ رکھنے والے کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ (ابوداؤد)

حضرت ابوذرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا ”اللہ سے ڈرو خواہ تم کسی جگہ پر ہو۔ برائی کے بعد نیکی کرو جو اسے مٹادے اور لوگوں سے اچھے اخلاق کے ساتھ برتاؤ کرو۔“ (احمد ترمذی دارمی)

حضرت نواس بن سمانؓ کا بیان ہے کہ میں نے نیکی اور گناہ کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو فرمایا۔ ”نیکی اخلاق ہے اور گناہ وہ ہے جو تمہارے سینے میں کھٹکے۔ اور لوگوں کا اس پر مطلع ہونا تمہیں ناپسند ہو۔“ (مسلم)

حضرت ابو درداءؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ مومن کی سب سے بھاری چیز جو قیامت کے روز میزان میں رکھی جائے گی وہ حسن اخلاق ہے اور اللہ تعالیٰ بخش کلامی کرنے والے بد اخلاق سے ناراض ہوتا ہے۔ (ترمذی)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ مومن بھولا بھالا اور باعزت ہوتا ہے اور فاسق چالاک اور بد خلق ہوتا ہے۔ (احمد ترمذی، ابوداؤد)

حضرت معاذؓ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آخری وصیت جو فرمائی جبکہ میں نے رکاب میں پاؤں رکھا تو فرمایا اے معاذؓ! لوگوں کیلئے اپنے خلق کو سنوار لینا۔ (مالک)

۲۔ صدق

صدق یعنی سچائی اسلامی اخلاق کی بنیاد ہے کیونکہ عمل کی درستی کیلئے سچائی لازم ہے۔ صدق کا مطلب سچ بولنا ہے۔ سچائی میں انسانی دل اور زبان کا تعلق ہے لہذا دل اور زبان کا ایک جیسا ہونا ضروری ہے کیونکہ ان دونوں کے ایک ہونے ہی سے سچی بات زبان پر آئے گی۔ صدق نیک اعمال کی بنیاد ہے کیونکہ جس کے قول اور فعل میں سچائی ہوگی اس کا ہر عمل درست ہو گا۔ عموماً دیکھا گیا ہے کہ برائی دل میں جنم لیتی ہے اور جو سچ نہ بولے وہ جھوٹ بولنے کیلئے الٹی سیدھی باتیں سوچتا رہتا ہے جس سے اس کی زبان اور عمل میں برائی آ جاتی ہے اس لیے اپنے اعمال کو درست رکھنے کیلئے سچ کو اپنانا چاہیے۔ سچائی اللہ کے بندوں کا خاصا ہے۔ اس کے بغیر قرب الہی حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سچائی کو اپنانے کی بہت تاکید فرمائی ہے اور صدق کے متعلق آپ کی احادیث مندرجہ ذیل ہیں۔

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر سچائی لازم ہے کیونکہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ آدمی برابر سچ بولتا رہتا ہے اور سچائی کا متلاشی رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صدیق لکھ لیا جاتا ہے۔ اور جھوٹ سے پرہیز کرو۔ کیونکہ جھوٹ بدی کی طرف لے جاتا ہے اور بدی جہنم میں لے جاتی ہے۔ آدمی برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کذاب لکھ لیا جاتا ہے۔ (بخاری شریف)

حضرت ام کلثومؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی جھوٹا

نہیں ہے جو لوگوں کے درمیان صلح کرائے، بھلائی کی باتیں کہے اور بھلائی کی باتیں آگے پہنچائے۔ (مسلم)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کا کوئی لفظ کہہ دیتا ہے جس کو اس نے اہمیت نہیں دی ہوتی لیکن اس کے باعث اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند کر دیتا ہے اور بندہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ایک لفظ کہہ دیتا ہے جس کی اسے پروا نہیں ہوتی لیکن وہ اسے جہنم میں لے جاتا ہے۔ (بخاری شریف)

حضرت ابو درداءؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامیاب ہونے کے لیے اپنے دل کو ایمان کیلئے مخصوص کر دیا اور اپنے دل کو اطاعت والا بنایا اور اپنی زبان کو نرم بولنے والی اور اپنے نفس کو اطمینان والا اور اپنی سوچ کو سیدھے راستے پر چلنے والی اور اپنے کانوں کو حق بات سننے والی اور اپنی آنکھ کو حق دیکھنے والی، کان قیف اور آنکھ راستہ اس چیز کا ہیں جو دل نگاہ میں رکھتا ہے اور وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے دل کو نگاہ رکھنے والا بنایا۔ (احمد بیہقی)

حضرت براء بن عازبؓ نے غزوہ حنین کے روز فرمایا کہ ابوسفیان بن حارثؓ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر کی لگام تھامی ہوئی تھی جب مشرکین نے آپؐ کو زورے میں لیا تو آپؐ نیچے اتر آئے اور فرمانے لگے۔ نبی میں ہوں یہ جھوٹ نہیں میں ہی عبدالمطلب کا بیٹا ہوں۔ راوی کا بیان ہے کہ اس روز کسی شخص کو آپؐ سے زیادہ بہادر نہیں دیکھا گیا۔ (بخاری)

۱۔ حفاظت زبان: حضرت عقبہ بن عامرؓ کا بیان ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوا کہ نجات کس چیز میں ہے؟ فرمایا کہ اپنی زبان قبضے میں رکھو۔ تمہارے لیے تمہارا گھر کافی رہے اور اپنی خطاؤں پر رویا کرو۔ (احمد ترمذی)

حضرت ابوسعید خدریؓ نے مرفوعاً فرمایا کہ جب آدمی کیلئے صبح ہوتی ہے تو تمام اعضاء زبان کی خوشامد کرتے اور کہتے ہیں کہ ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرنا کیونکہ ہم تیرے ساتھ ہیں اگر تو سیدھی رہے تو ہم بھی سیدھے رہیں گے اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ (ترمذی)

حضرت انسؓ نے فرمایا کہ صحابہ کرامؓ میں سے ایک وفات پا گئے تو ایک شخص نے کہا آپ کو جنت مبارک ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کیا معلوم کہ اس نے کوئی بے کار بات کی ہو یا ایسی چیز میں بخل کیا ہو جو کم نہیں ہوتی۔ (ترمذی)

حضرت سفیان بن عبد اللہ ثقفیؓ کا بیان ہے کہ میں عرض گزار ہوا یا رسول اللہ! سب

سے خوفناک چیز کیا ہے جن سے آپ مجھے ڈراتے ہیں؟ راوی کا بیان ہے کہ آپ نے اپنی زبان مبارک پکڑ کر فرمایا ”یہ“۔ (ترمذی)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جب کوئی کہے کہ لوگ ہلاک ہو گئے تو ان سب سے زیادہ ہلاک ہونے والا وہی ہے۔ (مسلم)

حضرت علی بن حسینؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے اسلام کی خوبیوں سے بے کار باتوں کا چھوڑ دینا ہے۔ (مالک احمد)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ کونسی چیز لوگوں کو کثرت سے جنت میں داخل کرے گی؟ وہ اللہ کا تقویٰ اور خوش خلقی ہے۔ کیا تم جانتے ہو کہ کونسی چیز لوگوں کو کثرت سے جہنم میں داخل کرے گی؟ وہ دو خالی چیزیں منہ اور شرمگاہ ہیں۔ (ترمذی)

حضرت بہل بن سعدؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جو مجھے اس کی ضمانت دے جو دونوں جبروں کے درمیان ہے اور اس کی ضمانت دے جو دونوں ٹانگوں کے درمیان ہے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ (بخاری)

اسلم سے روایت ہے کہ حضرت عمرؓ ایک روز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وہ اپنی زبان کو کھینچ رہے تھے۔ حضرت عمرؓ نے کہا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرمائے۔ ٹھہریے! حضرت ابو بکرؓ نے ان سے فرمایا کہ یہ مجھے ہلاکت کی جگہوں میں پہنچا دیتی ہے۔ (موطا امام مالک)

۳۔ امانت

امانت کی حفاظت کر کے اسے امانت والے کے پاس پہنچا دینا بہت اچھا اخلاقی وصف ہے کیونکہ امانت پر دنیاوی معاملات کا بہت زیادہ دارومدار ہے۔ اس لیے پروردگار نے امانت کی حفاظت اور ادائیگی پر بہت زور دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ بیشک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں امانت والوں کے سپرد کر دو۔ (نساء: ۵۸)

اس سے معلوم ہوا کہ امانت کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے اگر کسی سے امانت ضائع ہو جائے تو اس کیلئے اسے پورا کرنا ضروری ہے امانت ادا کرنے کے بارے میں مزید ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ پس اگر تم میں سے بعض نے بعض کو امین جانا تو چاہیے کہ وہ شخص جس کو امین جانا گیا

ہے اس کی امانت ادا کرے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرے۔ (البقرہ: ۲۸۳)

امانت کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مندرجہ ذیل ہیں:

حضرت عبادہ بن صامتؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تم مجھے اپنی چھ چیزوں کی ضمانت دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔

(۱) جب بات کرو تو سچ بولو۔

(۲) جب وعدہ کرو تو پورا کرو۔

(۳) جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو اسے ادا کرو۔

(۴) اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔

(۵) اپنی نگاہیں نیچی رکھو اور

(۶) اپنے ہاتھ روکے رکھو۔ (بیہقی، احمد)

حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جب تم

میں چار باتیں ہوں تو دنیا میں باقی چیزیں نہ ملنے کا کوئی مضائقہ نہیں۔ امانت کی حفاظت بات کی سچائی اخلاق کی خوبی اور خوراک کی پاکیزگی۔ (احمد، بیہقی)

حضرت امام مالکؒ سے روایت ہے کہ مجھے یہ بات پہنچی کہ لقمان حکیم سے کہا گیا کہ ہم

جو دیکھتے ہیں اس مقام پر آپ کو کس چیز نے پہنچایا؟ فرمایا کہ سچی بات کرنے، امانت ادا کرنے اور بے کار گفتگو چھوڑ دینے۔ (موطا امام مالک)

حضرت حذیفہ بن یمانؓ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے دو

حدیثیں بیان فرمائیں۔ میں ان میں سے ایک کو دیکھ چکا ہوں اور دوسری کا انتظار ہے۔ ہم سے

بیان فرمایا ”امانت لوگوں کے دلوں کے درمیان نازل ہوئی۔ پھر قرآن نازل ہوا۔ پس لوگوں

نے کچھ قرآن سے جانا اور کچھ سنت سے معلوم ہوا“ پھر ہم سے امانت کا اٹھ جانا بیان فرمایا۔ آپ

نے ارشاد فرمایا ”آدمی سوئے گا اس کے دل سے امانت نکال لی جائے گی تو اس کا معمولی سا اثر

باقی رہے گا پھر سوئے گا تو اس کے دل سے امانت نکال لی جائے گی تو آبلہ کی مثل رہ جائے گا۔

جیسا کہ تو اپنے پاؤں پر چنگاری لڑھکائے تو اس سے چھالا پڑ جائے وہ ابھرا ہوا نظر آتا ہے لیکن

اس کے اندر کچھ نہیں پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریاں لے کر اپنے پاؤں مبارک پر

لڑھکائیں۔ فرمایا۔ (لوگوں کی حالت یوں ہوگی کہ) خرید و فروخت کریں گے لیکن کوئی امانت کی

ادائیگی کرنے والا نہ ہوگا۔ یہاں تک کہ کہا جائے گا کہ فلاں قبیلے میں ایک امانت دار شخص ہے

(اسی طرح) ایک آدمی کے بارے میں کہا جائے گا کہ وہ کس قدر مضبوط ہوشیار اور عقلمند ہے لیکن اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہ ہوگا۔ (حضرت حذیفہؓ فرماتے ہیں کہ) مجھ پر ایسا وقت بھی آیا کہ میں یہ پروا نہیں کرتا تھا کہ میں کس قسم کے آدمی سے خرید و فروخت کر رہا ہوں۔ (کیونکہ) اگر وہ مسلمان ہے تو اپنی دینداری کے سبب مجھے ضرور واپس کر دے گا اور اگر عیسائی یا یہودی ہے تو اس کا حکمران میرا حق مجھے واپس پہنچا دے گا۔ لیکن آج تو میں فلاں فلاں کے سوا کسی کے ساتھ خرید و فروخت نہیں کرتا۔ (مسلم شریف)

حضرت عبدالرحمن بن قراڈ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز وضو فرما رہے تھے تو آپ کے اصحاب وضو کے پانی کو ملنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ عرض گزار ہوئے کہ اللہ اور اس کے رسولؐ سے محبت رکھتے ہوئے۔ نبی کریمؐ نے فرمایا۔ جس کو یہ چیز اچھی لگتی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسولؐ سے محبت کرے یا اللہ اور اس کا رسولؐ اس سے محبت کریں تو جب بات کرے تو سچ بولے۔ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو ادا کرے اور جب کسی کا ہمسایہ بنے تو حسن سلوک کرے۔ (بیہقی)

حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص کوئی بات کہے پھر وہ چلا جائے تو اس کی بات امانت ہے۔ (ترمذی ابوداؤد)

حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ مسلمان امانت دار خازن جو اس بات کو پورا کرتا ہے جس کا اسے حکم دیا گیا اسے دل کی خوشی سے کامل اور پوری مقدار میں دیتا ہے تو یہ بھی صدقہ دینے والوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ (بخاری)

حضرت جابر بن عبد اللہؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی کوئی بات کرے پھر ادھر ادھر دیکھے تو وہ امانت ہے۔ (ترمذی ابوداؤد)

۴۔ حیاء

حیاء ایک فطری جوہر ہے جو ہر انسان میں قدرتی طور پر ہوتا ہے مگر نیک صحبت اور نیک اعمال اس حیاء کو پروان چڑھاتے ہیں اور یہ ایسا وصف ہے جو انسان کو برائیوں سے روکتا ہے۔ اور ایمان میں حسن و جمال پیدا کرتا ہے حیاء دار آدمی کے کردار میں دوسروں کا احترام پیدا ہو جاتا ہے اور وہ کسی کے حقوق کو اپنے لیے استعمال کرتے ہو اڑرتا ہے اور اسی بنا پر غیر اخلاقی حرکات کرتے ہوئے اس کا ضمیر اسے ملامت کرنے لگتا ہے اور اس حیاء کے وصف کی بنا پر وہ ہر قسم کی

برائی اور غیر اخلاقی حرکات سے بچ جاتا ہے اس لیے یہ ایک ایسی خوبی ہے جو انسان کو فضائل اور محاسن کے زیور سے آراستہ کرتی ہے۔ خصوصاً عورت کیلئے حیا تو ایک انمول زیور ہے۔ کیونکہ حیا ہی اس کے کردار کا آئینہ ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وصف کو بہت اچھا قرار دیا ہے۔

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”نہیں ہوتی کسی چیز میں بے حیائی مگر اسے داغدار کر دیتی ہے اور نہیں ہوتی کسی چیز میں حیا مگر اسے زینت بخشتی ہے۔“ (ترمذی)

حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کے پاس سے گزرے جو اپنے بھائی کو حیا کی نصیحت کر رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ”فرمایا کہ حیا ایمان کا ایک حصہ ہے۔“ (بخاری)

حضرت عمران بن حصینؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”حیا نہیں لاتی مگر بھلائی“ اور ایک روایت میں ہے۔ ”حیا ساری ہی بھلائی ہے۔“ (مسلم)

حضرت ابن مسعودؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”پہلی نبوت کی باتوں سے لوگوں کو ملی وہ یہ ہے کہ جب تجھے حیا نہ رہے تو جو چاہے کر۔“ (بخاری)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا ”حیا ایمان سے ہے اور ایمان جنت سے ہے۔“ (ترمذی)

حضرت زید بن طلحہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”ہر دین کا ایک خلق ہوتا ہے اور اسلام کا خلق حیا ہے۔“ (موطا امام مالک)

حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حیا اور ایمان دونوں کو ایک دوسرے سے ملا دیا گیا ہے۔ جب ان میں سے ایک کو اٹھالیا جاتا ہے تو دوسری چیز بھی اٹھ جاتی ہے“ حضرت ابن عباسؓ کی روایت میں ہے کہ جب ان میں سے ایک چیز چھین لی جاتی ہے تو دوسری بھی اس کے پیچھے چلی جاتی ہے۔“ (بیہقی فی شعب الایمان)

۵۔ تواضع

تواضع کا مطلب عاجزی اور انکساری ہے اپنی ذات اور حیثیت کو دوسروں سے کم درجہ سمجھتے ہوئے ان کی عزت اور تعظیم کرنا اور اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دینا تواضع و انکساری

کہلاتا ہے تو اضع اخلاقی لحاظ سے بہت اچھی خوبی ہے کیونکہ جو شخص اپنی حیثیت کو دوسروں سے کم سمجھے گا... ہمیشہ کبر، غرور، خرافہ اور گھمنڈ سے بچا رہے گا اور عاجزی کی بنا پر اسے عزت و عظمت حاصل ہوگی تو اضع کی عادت سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کا وصف یہی بتایا ہے۔ (ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ”رحمن کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں اور جب نادان لوگ ان سے نادانی کی باتیں کرتے ہیں تو ان کو سلام کہہ دیتے ہیں۔“ (الفرقان) غرضیکہ اللہ کی معرفت کو پانے کیلئے تو اضع بہت ضروری ہے کیونکہ اپنی عادات میں عاجزی پیدا کرنے والا راہ ہدایت پر گامزن رہنے میں جلدی کامیاب ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود بہت متواضع تھے اور انہوں نے انکساری اختیار کرنے کی بہت تاکید کی ہے۔

حضرت عیاض بن حمار مجاشعیؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی فرمائی ہے کہ تم تو اضع اختیار کرو۔ یہاں تک کہ کوئی دوسرے پر فخر نہ کرے اور نہ کوئی دوسرے پر ظلم کرے۔“ (مسلم شریف)

حضرت عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”مجھے اتنا نہ بڑھانا جتنا کہ نصاریٰ نے حضرت عیسیٰ بن مریمؑ کو بڑھایا۔ کیونکہ میں تو اس کا بندہ ہوں لہذا اس کا بندہ اور اس کا رسول کہا کرو۔“ (بخاری شریف)

حضرت انسؓ کا بیان ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہا اے ساری مخلوق سے بہتر! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”وہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔“ (مسلم شریف)

حضرت ابو ہریرہؓ نے فرمایا ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا آدمی زیادہ معزز ہے؟ فرمایا کہ ”اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو زیادہ متقی ہو۔“ عرض گزار ہوئے کہ ہم اس کے متعلق نہیں پوچھتے۔ فرمایا تو لوگوں میں سب سے زیادہ معزز حضرت یوسف نبی اللہ ابن نبی اللہ ابن نبی اللہ خلیل اللہ ہیں۔ عرض گزار ہوئے کہ ہم اس بارے میں نہیں پوچھتے۔ فرمایا تو قبائل عرب کے متعلق پوچھتے ہو؟ عرض کی ہاں! فرمایا جو تم میں دور جاہلیت کے اندر بہتر تھے وہی دور اسلام میں بہتر ہیں جبکہ دین کی سوجھ بوجھ حاصل کر لیں۔ (بخاری شریف)

حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”معزز ولد معزز ولد معزز تو یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم ہیں۔“ (علیہم السلام) (بخاری شریف)

حضرت مطرف بن عبد اللہ بن شخیر کا بیان ہے کہ میں نبی عامر کے وفد کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ ہم عرض گزار ہوئے کہ آپ ہمارے سید (سردار) ہیں۔ فرمایا ”سید تو اللہ تعالیٰ ہے“۔ ہم عرض گزار ہوئے کہ آپ ہم میں بڑی بزرگی اور عطا والے ہیں۔ فرمایا ”اپنی بات کرو یا کوئی اور بات کرو۔ مبادا شیطان تمہیں بے لگام کر دے“۔ (ابوداؤد)

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ اپنے آباؤ اجداد پر فخر کرنے سے باز رہیں جو مر چکے۔ بیشک وہ جہنم کے کونٹے ہیں یا اللہ تعالیٰ کیلئے بالکل آسان ہے کہ وہ گبریلہ ہو جائیں جو نجاست کو اپنی ناک سے دھکیلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تم سے جاہلیت کا غرور اور آباؤ اجداد پر فخر کرنا دور فرما دیا ہے۔ اب خواہ کوئی مومن پرہیزگار ہو یا فاسق بد بخت سب حضرت آدم کی اولاد ہیں اور حضرت آدم مٹی سے بنائے گئے تھے۔ (ترمذی)

ابوداؤد

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ مال سے کچھ کم نہیں کرتا۔ کسی کو معاف کر دینے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت ہی بڑھتی ہے اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے سامنے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے رفعت عطا فرماتا ہے۔ (مسلم شریف)

۶۔ عفو و درگزر

کسی شخص کے ظلم زیادتی اور ایذا رسانی کے جواب میں اس سے بدلہ یا انتقام لینے کی بجائے اسے معاف کر دینا عفو کہلاتا ہے اور انتقام کی پیروی نہ کرنے کو درگزر کہا جاتا ہے۔ عفو و درگزر اخلاق حسنہ میں نہایت بہترین اوصاف ہیں۔ دوسروں کی خطاؤں سے درگزر کرنا اللہ تعالیٰ کا شیوہ ہے اور ہر کسی کی زیادتی کو معاف کر دینا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف نبوت سے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ایسے لوگوں کی زیادتیوں کو بھی معاف فرما دیا جنہوں نے حضور کو ساری عمر دکھ پہنچانے میں کسی قسم کی کسر نہ اٹھا رکھی تھی اور آپ نے کبھی کسی سے انتقام نہ لیا لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں عفو کیا اخلاقی خوبی کو اپنانا چاہیے اور اگر کسی سے زیادتی ہو جائے تو اس سے درگزر کرنا چاہیے۔ اس طرح لوگوں کی نظر میں تمہارا وقار بڑھ جائے گا اور اللہ مہربان ہو کر خطاؤں کو معاف کر دے گا۔

حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ دینا مال کے اندر کی نہیں کرتا اور بندہ کی درگزر اور معافی سے سوائے عزت کے اللہ تعالیٰ کچھ اور زیادہ نہیں کرتا اور جو

شخص تو واضح کرتا ہے اللہ اس کے درجے بلند کرتا ہے۔ (مسلم)

حضرت ابن مسعودؓ کہتے ہیں کہ گویا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ رہا ہوں۔ آپ انبیاء میں سے کسی نبی کا تذکرہ کر رہے تھے کہ ان کی قوم نے ان کو مارا یہاں تک کہ ان کو زخمی کر دیا اور وہ اس حالت میں خون کو اپنے چہرے سے صاف کر رہے تھے اور فرما رہے تھے اے اللہ میری قوم کی مغفرت فرما اس لیے کہ یہ جانتے نہیں ہیں۔ (مسلم)

حضرت ابن عباسؓ سے: رَادِقِعٌ بِاللَّحْيِ هِيَ أَحْسَنُ کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں: بھلائی سے مراد غصہ کے وقت مبر اور برائی کے بدلہ میں معافی ہے۔ اگر لوگ ایسا کریں تو خدا انہیں محفوظ رکھے ان کے دشمن کو نیچا کرے گویا کہ وہ ان کا مخلص قریبی دوست ہے۔ (بخاری)

حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جا رہا تھا اور آپ پر موٹے کناروں والی نجرانی چادر تھی۔ ایک اعرابی آیا اور اس نے چادر سے پکڑ کر آپ کو اپنی طرف زور سے کھینچا۔ میں نے دیکھا کہ شدت کے ساتھ کھینچنے کی وجہ سے آپ کی گردن پر نشان پڑ چکے تھے پھر کہا اے محمد! اللہ تعالیٰ کے اس مال میں سے جو آپ کے پاس ہے میرے لیے حکم دیں۔ آپ نے اس کی طرف دیکھا تو مسکرا پڑے اور پھر اسے کچھ عطا کرنے کا حکم دیا۔ (بخاری)

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کو ہاتھ سے نہیں مارا، نہ کسی عورت کو اور نہ ہی کسی خادم کو۔ مگر آپ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد فرماتے رہے اور اگر کبھی آپ کو کسی سے گزند پہنچی تو آپ نے اس سے بدلہ نہیں لیا البتہ اگر اللہ تعالیٰ کے محارم میں سے کسی کی بے حرمتی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کیلئے بدلہ لیتے۔ (مسلم)

۷۔ احسان

نیک کاموں کو اس طرح کیا جائے کہ ان میں حسن اور رعنائی پیدا ہو جانے کو احسان کہا جاتا ہے۔ احسان دراصل وہ نیک عمل ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے نیک بندوں کو بہت پسند آجائے۔ اس لیے اعمال کو عمدہ، خوشنما اور دل پسند طریقے سے کرنا ہی احسان ہے۔ دوسروں سے اچھا سلوک کرنا، خوش خلقی سے پیش آنا، دوسروں کے حق سے زیادہ دینا اور خود کم لینا، سب احسان میں شامل ہیں۔ ہماری زندگی کے ہر پہلو میں احسان کا جذبہ شامل نظر آتا ہے۔ گھر والوں سے اچھا سلوک کرنا احسان میں شامل ہے۔ ایسے ہی حاجت مندوں کو مال سے امداد کرنا، کسے رخصت

آدمی کی لڑکی کی شادی کر دینا کسی کو قرض معاف کر دینا احسان کہلائے گا۔ کسی کو مصیبت سے نجات دلانا اور قصور وار سے درگزر کرنا بھی احسان ہے۔ احسان سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا وصف ہے کہ اس سے باہمی خلوص، محبت، اخوت اور بھائی چارے کی فضاء پروان چڑھتی ہے۔ ایک دوسرے کیلئے ایثار اور قربانی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں حتیٰ کہ دشمن بھی دوست بن جاتے ہیں۔ احسان کرنے کے بعد اسے جتنا اخلاقی تقاضوں کے خلاف ہے۔ کیونکہ نیکی کرنے کے بعد جتانے سے اس کا اجر کم ہو جاتا ہے۔ غرضیکہ احسان اللہ اور اس کے محبوب کو بہت پسند ہے اس لیے زندگی کے ہر شعبے میں اسے اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیواؤں اور محتاجوں پر خرچ کرنے والا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے۔ راوی کہتے ہیں میرے خیال ہے کہ آپؐ نے فرمایا، اس شخص کی طرح ہے جو (عبادت کیلئے) کھڑا ہونے میں سستی نہیں کرتا اور اس روزہ دار کی طرح ہے جو افطار نہیں کرتا۔ (مسلم)

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دو لڑکیوں کی پرورش کرے یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائیں تو وہ شخص اور میں قیامت کے دن ان دو انگلیوں کی طرح (قرب قریب) آئیں گے۔ (یہ فرما کر) آپؐ نے اپنی انگلیوں کو ملایا۔ (مسلم)

حضرت ابو شریح خویلد بن عمرو خزاعیؓ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ! بیشک میں دو کمزوروں یعنی یتیم اور عورت کے حق کے بارے میں ڈراتا ہوں۔ (نسائی)

حضرت مصعب بن سعد بن ابی وقاصؓ فرماتے ہیں حضرت سعدؓ کا خیال تھا کہ انہیں نچلے درجے والوں پر فضیلت حاصل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں مدد اور رزق کمزور لوگوں کی بدولت ہی تو دی جاتی ہے۔ (بخاری)

حضرت ابو درداء عومیرؓ سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپؐ نے فرمایا مجھے کمزور لوگوں میں تلاش کرو۔ بیشک کمزور لوگوں کے سبب تمہاری مدد کی جاتی ہے اور تمہیں رزق دیا جاتا ہے۔ (ابوداؤد)

حضرت اہل بن سعدؓ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "میں اور یتیم کا کفیل جنت میں اس طرح ہوں گے۔" آپؐ نے انگشت شہادت اور درمیانی انگلی سے اشارہ کیا اور دونوں انگلیوں کے درمیان کچھ لٹکایا رکھا۔ (بخاری)

۸۔ سخاوت

سخاوت سے مراد اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کیلئے خرچ کرنا ہے اسے انفاق فی سبیل اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ سخاوت اللہ کو بہت پسند ہے کیونکہ سخاوت کی عادت بہت ہی اچھی صفت ہے بلکہ اللہ کے خاص بندوں کی پہچان ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کرتے ہیں اور ان کا یہی وصف ان کے ہدایت یافتہ ہونے کی دلیل ہے۔ سخاوت کا اجر دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں تو بہت زیادہ ملے گا۔ دنیا میں سخاوت کے اجر کی صورت یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی راہ میں دینے والوں کے مال میں اضافہ ہوتا ہے ان کے رزق کے ذرائع فراخ ہو جاتے ہیں۔ مال کے علاوہ علم اور جان کی بھی سخاوت ہے۔ علم کی سخاوت یہ ہے کہ رضائے الہی کیلئے دینی علم کو پھیلایا جائے۔ اور جان کی سخاوت یہ ہے کہ اللہ کی خاطر دوسرے دینی بھائیوں کی قوت اور طاقت سے مدد کی جائے۔ بہر کیف سخاوت اسلام کے معاشی نظام میں ریزہ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت تاکید فرمائی ہے۔

حضرت ابو امامہ بن عثمانؓ سے روایت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”اے انسان! زائد مال خرچ کرنا تیرے لیے بہتر ہے۔ اس کا روکنا تیرے لیے بُرا ہے۔ بقدر ضرورت روکنے پر تجھے ملامت نہیں کی جائے گی۔ مال خرچ کرنے کی ابتداء اپنے گھر والوں سے کر اور اوپر والا ہاتھ نچلے ہاتھ سے بہتر ہے۔“ (مسلم)

حضرت اسماءؓ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”بے حساب خرچ کرو اللہ تعالیٰ تمہیں بے حساب عطا فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے سے گریز نہ کرو ورنہ اللہ تعالیٰ تم پر روک کرے گا۔ جہاں تک ممکن ہو خیرات کرو۔“ (متفق علیہ)

حضرت ابو ذرؓ روایت کرتے ہیں کہ میں رسول اللہؐ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ دیوار کعبہ کے سائے میں بیٹھے تھے۔ جب آپ نے مجھے دیکھا تو فرمایا ”رب کعبہ کی قسم! وہ لوگ خسارے میں ہیں۔“ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں وہ کون لوگ ہیں تو آپ نے فرمایا ”وہ بہت زیادہ مال رکھنے والے جو اپنے مالوں کو اس طرح اور اس طرح یعنی دائیں بائیں آگے اور پیچھے خرچ کرتے ہیں اور ایسے بہت کم ہیں۔“ (متفق علیہ)

حضرت ابن مسعودؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہؐ نے فرمایا ”تم میں سے کس کو اپنے مال کی بہ نسبت اپنے مال کا مال زیادہ محبوب ہے؟“ صحابہ کرامؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہم

میں سے ہر ایک کو اپنا ہی مال زیادہ محبوب ہے۔ آپ نے فرمایا ”اس کا مال تو وہ ہے جو آگے بچھڑا دیا اور وارث کا مال وہ ہے جو پیچھے چھوڑا۔ (یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہ کیا)“ (بخاری)

حضرت ابن مسعودؓ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”دو قسم کے آدمیوں پر شک جائز ہے۔ ایک وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا اور اسے صحیح راستے میں خرچ پر قدرت دی اور دوسرا وہ شخص جسے علم و حکمت عطا فرمائی تو وہ اس کے ساتھ فیصلہ کرتا اور اس کو تعلیم دیتا ہے۔“ (بخاری و مسلم)

حضرت عدی بن حاتمؓ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”(جہنم کی) آگ سے بچو اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے (کے صدقہ) سے ہی ہو۔“ (بخاری)

حضرت جابر فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کے سوال پر ”لا“ (یعنی نہیں) نہیں فرمایا۔ (مسلم شریف)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اکرمؐ نے فرمایا ”ہر صبح جب بندگان خدا ن بیدار ہوتے ہیں تو دو فرشتے اترتے ہیں ان میں سے ایک کہتا ہے یا اللہ خرچ کرنے والے کو اس کو بدل عطا فرما اور دوسرا کہتا ہے یا اللہ! بخیل کا مال تباہ و برباد کر دے۔“ (بخاری)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے انسان! خرچ کرنا کہ تجھ پر خرچ کیا جائے۔“ (بخاری)

حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاصؓ فرماتے ہیں ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کونسا اسلام بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا ”کھانا کھلانا واقف اور ناواقف (سب) کو سلام کہنا۔“ (مسلم شریف)

حضرت اسماء بنت ابوبکر صدیقہؓ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا مال نہ روکو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی رکاوٹ ہو جائے گی۔ ایک روایت میں ہے خرچ کرو گن گن کر نہ رکھو۔ اللہ تعالیٰ بھی تم سے حساب کرے گا اور مال محفوظ نہ رکھو اللہ تعالیٰ بھی تم سے روک رکھے گا۔ (یعنی خرچ کرنے کی بجائے جمع کر کے محفوظ نہ رکھو) (مسلم شریف)

۹۔ ایثار

دوسرے کی ضرورت کو اپنی ذاتی ضرورت پر ترجیح دینے کو ایثار کہا جاتا ہے یعنی اپنی ضروریات کو پس پشت ڈال کر دوسرے کی ضرورت کو پورا کر دینا اور حقیقت بہت بڑی فیاضی اور

قربانی ہوتی ہے اور ایسے فعل کا درجہ اللہ کے ہاں بہت بلند اور بڑا ہے کیونکہ ایثار میں انسان دوسروں کو اپنے سے بہتر سمجھتا ہے۔ خود بھوکا رہ کر دوسروں کو کھلاتا ہے خود تکلیف اٹھا کر دوسروں کو آرام پہنچاتا ہے۔ خود تواضع اختیار کر کے دوسرے کی عزت افزائی کرتا ہے۔ خود قناعت کر کے رضائے الٰہی کی خاطر مال و دولت کو نچھاور کرتا ہے۔ غرضیکہ ہر لحاظ سے وہ ایسا کام سرانجام دینے کی کوشش کرتا ہے جس سے دوسرے کا حق ادا ہو جائے تاکہ اللہ راضی ہو۔ یہ وصف اللہ کے خاص بندوں یعنی انبیاء میں بہت زیادہ ہوتا ہے اور ان کی زندگیوں میں قدم قدم پر ایثار کی روشن مثالیں ہیں جو ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ ایثار کی اہمیت اور فضیلت کے پیش نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایثار کو اپنانے کی بے پناہ تاکید فرمائی ہے۔

حضرت ابو موسیٰ سے روایت ہے کہ رسول اکرمؐ نے فرمایا اشعری قبیلہ کے لوگوں کی یہ عادت ہے کہ جب جنگ میں ان کا زادراہ ختم ہو جاتا ہے یا مدینہ طیبہ میں ان کے اہل و عیال کی خوراک کم رہ جاتی ہے تو جو کچھ ان کے پاس ہوتا ہے اسے ایک کپڑے میں جمع کرتے ہیں پھر ایک برتن میں باہم تقسیم کر لیتے ہیں پس یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ (مسلم شریف)

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک شخص آئیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا میں سخت مشقت میں ہوں۔ آپ نے اپنی ایک زوجہ مطہرہ کی طرف پیغام بھیجا تو انہوں نے عرض کیا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا میرے پاس صرف پانی ہے۔ آپ نے دوسری کی طرف پیغام بھیجا انہوں نے بھی اسی طرح کا پیغام عرض کیا یہاں تک کہ تمام ازواج مطہرات نے یہی جواب دیا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو رسول برحق بنایا ہمارے پاس صرف پانی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے (صحابہ کرام سے) فرمایا کون شخص آج رات اس کی مہمان نوازی کرتا ہے؟ ایک انصاری نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں کرتا ہوں۔ پس وہ اپنی قیام گاہ کی طرف گیا اور بیوی سے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کی عزت کرنا۔

ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ تمہارے پاس کچھ ہے؟ انہوں نے عرض کیا نہیں صرف بچوں کی خوراک ہے۔ انصاری نے کہا بچوں کو کسی چیز کے ساتھ بہلائے رکھنا جب شام کو کھانا مانگیں تو سلا دینا اور جب مہمان داخل ہو تو چراغ بجھا دینا اور اسے یہ باور کرانا کہ ہم بھی کھارے ہیں۔ چنانچہ وہ بیٹھ گئے مہمان نے کھانا کھایا لیکن یہ دونوں رات بھر جھوٹے رہے۔ صبح کے وقت بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا آج رات تم نے اپنے

مہمان سے، جو سلوک کیا اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہوا۔ (بخاری شریف)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو آدمیوں کا کھانا تین کو کافی ہے اور تین کا کھانا چار کو کفایت کرتا ہے۔ (مسلم شریف)

حضرت سہل بن سعدؓ فرماتے ہیں کہ ایک عورت ایک بنی ہوئی چادر لے کر آنحضرتؐ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا میں نے اپنے ہاتھ سے بنا ہے تاکہ آپؐ کو پہناؤں۔ نبی اکرمؐ نے اس کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے اسے لے لیا پھر ہمارے پاس تشریف لائے تو وہی چادر پہن رکھی تھی۔ ایک آدمی نے عرض کیا یہ کس قدر خوبصورت ہے مجھے عنایت فرمائیے آپؐ نے فرمایا ہاں۔ آپؐ مجلس میں تشریف فرما رہے پھر واپس تشریف لے گئے اس کو لپیٹا اور اس آدمی کی طرف بھیج دیا۔ صحابہ کرامؓ نے کہا اس آدمی کو کہا تو نے اچھا نہیں کیا آنحضرتؐ نے ضرورتاً اسے پہنا بھی تھا پھر تو نے مانگ لی۔ حالانکہ تجھے معلوم ہے کہ آپؐ سائل (کے سوال) کو رد نہیں فرماتے اس نے کہا اللہ کی قسم! میں نے اسے پہننے کیلئے نہیں مانگا بلکہ اپنے کفن کیلئے مانگا ہے۔ حضرت سہلؓ فرماتے ہیں کہ چنانچہ وہ چادر اس کا کفن بنی۔ (بخاری شریف)

حضرت ابوسعید خدریؓ فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر کے دوران آنحضرتؐ کی خدمت میں حاضر تھے کہ ایک آدمی اپنی سواری پر آیا اس نے دائیں بائیں دیکھنا شروع کر دیا۔ رسول اکرمؐ نے فرمایا جس کے پاس زائد سواری ہو وہ اس شخص کو دے جس کے پاس سواری نہیں اور جس کے پاس زائد زاد راہ ہو وہ اس آدمی کو دے جس کے پاس زاد راہ نہیں آپؐ نے مختلف اقسام کے مال کا ذکر فرمایا۔ یہاں تک کہ ہم نے خیال کیا کہ زائد چیزیں ہمارا کوئی حق نہیں۔ (مسلم شریف)

۱۰۔ قناعت

رزق حاصل کرنے کیلئے محنت کرنے سے جو مل جائے اس پر اکتفا کر لینے کو قناعت کہا جاتا ہے۔ قناعت کی عادت اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ قناعت انسان میں سکون اور اطمینان قلبی پیدا کرتی ہے۔ قناعت لالچ کی ضد ہے۔ لالچ انسان کو ہمیشہ پریشانی میں مبتلا کرتا ہے۔ قناعت ایک نہ ایک دن انسان کو مالدار بنا دیتی ہے۔ کیونکہ قناعت میں اللہ کی مدد شامل حال رہتی ہے اور اس سے اضافہ رزق ہو جاتا ہے اس لیے رزق کے سلسلے میں جو پروردگار کی رحمت سے مل جائے اسے راضی خوشی قبول کرنا چاہیے۔ اور کبھی اللہ کا گلہ شکوہ نہ کرنا چاہیے۔ اس طرح زندگی انشاء اللہ بہت سکھ اور سکون کے ساتھ بسر ہوگی۔ اور کبھی مالی پریشانی نہ ہوگی۔ یعنی جتنا کماؤ اتنا کھاؤ کے رسول

پر چلنے سے کبھی کمی واقع نہ ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قناعت کا بہترین عملی نمونہ ہے۔
حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ وہ جو کی روٹیاں اور بودار چربی لے کر نبی کریم صلی
اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اپنی زرہ
ایک یہودی کے پاس رہن رکھی ہوئی تھی اور اس سے اپنے گھر والوں کیلئے جو لیے تھے اور میں نے
آپؐ کو فرماتے ہوئے سنا کہ آل محمدؐ نے اس حال میں شام نہیں کی کہ ان کے پاس ایک صاع
گندم یا ایک صاع کوئی غلہ ہو جبکہ آپؐ کی نوازاواج مطہرات تھیں۔ (بخاری)

حضرت عائشہ صدیقہ کا بیان ہے کہ آل محمدؐ نے کبھی متواتر دو روز جو کی روٹی پیٹ بھر کر
نہیں کھائی۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی۔ (مسلم شریف)
حضرت ابو طلحہؓ نے فرمایا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھوک کی شکایت کی
اور اپنے پیٹوں پر سے ایک ایک پتھر اٹھایا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شکم مبارک
سے دو پتھر اٹھائے۔ (ترمذی)

حضرت عمرو بن شعیبؓ ان کے والد ماجد ان کے جد امجد سے روایت کرتے ہیں کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”دو عادتیں جس کے اندر ہوں تو اللہ تعالیٰ اسے شاکر و صابر لکھ
لیتا ہے۔ جو دینی لحاظ سے اسے دیکھے جو اس سے بڑھ کر ہو۔ اور دنیاوی لحاظ سے اسے دیکھے جو
اس سے کمتر ہو۔“ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے اس پر فضیلت دی تو اللہ
تعالیٰ اسے شاکر و صابر لکھ لیتا ہے اور جو دینی لحاظ سے اس شخص کی طرف دیکھے جو اس سے کمتر ہو
اور دنیاوی لحاظ سے اس شخص کی طرف دیکھے جو اس سے بڑھ کر ہو اور اس پر افسوس کرے جو اسے
حاصل نہیں ہو تو اللہ تعالیٰ اسے شاکر و صابر نہیں لکھے گا۔ (ترمذی)

سعید مقبری نے حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت کی ہے کہ وہ ایک قوم کے پاس سے
گزرے جن کے پاس بھنی ہوئی بجرئی رکھی تھی۔ انہوں نے آپؐ کو کھانے کیلئے بلایا تو آپؐ نے
انکار کر دیا اور فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اور آپؐ نے شکر یہ ہو کر
جوئی روٹی نہیں کھائی۔ (بخاری)

حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”جو اپنی
بھوک یا احتیاج کو لوگوں سے چھپائے تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے کہ اسے ایک سال کی حلال
روزی عطا فرمائے۔ (بیہقی)

حضرت محمود بن لبیدؓ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”جو اپنی

چیزوں کو ناپسند کرتا ہے۔ وہ موت کو ناپسند کرتا ہے جبکہ موت مومن کیلئے فتنہ سے بہتر ہے دوسرے مال کی کمی کو ناپسند کرتا ہے جبکہ مال کی کمی میں حساب کی آسانی ہے۔ (احمد)

حضرت ابو ہاشم بن عقبہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کرتے ہوئے مجھ سے فرمایا تمام مال میں سے تمہیں ایک خادم اور ایک گھوڑا جہاد کیلئے کافی ہے۔ (احمد ترمذی نسائی ابن ماجہ)

حضرت قتادہ بن نعمان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے سے محبت کرے تو اسے دنیا سے بچاتا ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنے بیمار کو پانی سے بچاتا ہے۔ (احمد ترمذی)

حضرت ابو امامہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے رب نے میرے لیے مکہ مکرمہ کی سنگستان کو سونا بنا دینے کیلئے فرمایا۔ میں عرض گزار ہوا کہ اے رب! ایسا نہ کر بلکہ میں ایک روز بھوکا رہوں اور ایک روز شکم سیر۔ تاکہ جس روز بھوکا رہوں تو تیرے حضور عاجزی پیش کروں اور تیرا ذکر کروں۔ جس روز شکم سیر ہوں تو تیری حمد و ثنائیاں کروں اور تیرا شکر ادا کروں۔ (احمد ترمذی)

حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”دنیا مومن کا قید خانہ اور قحط ہے۔ جب وہ دنیا سے جدا ہوتا ہے تو قید خانے اور قحط سے جدا ہو جاتا ہے۔“ (شرح السنہ)

حضرت معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں یمن کی طرف بھیجا تو فرمایا۔ ”عیش پسندی سے بچنا کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بندے عیش پسند نہیں ہوا کرتے۔“ (احمد)

۱۔ رحم و شفقت

مخلوق خدا پر رحم کرنا اخلاق حسنہ کا لازمی حصہ ہے۔ اللہ چونکہ رحمن ہے اس لیے وہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے بھی آپس میں رحم کریں کیونکہ مخلوق کے ساتھ مہربانی کرنا اور شفقت سے پیش آنا اور چھوٹوں پر رحم کرنا اخلاقی لحاظ سے بہت عمدہ عادت ہے۔ دنیا و آخرت میں رحم کا بے پناہ اجر ہے۔ رحم اور شفقت کی بہت سی صورتیں ہیں۔ رحم کی پہلی صورت تو یہ ہے کہ عام انسانوں پر ترس کھانا کسی غریب یا کمزور یا ضرورت مند پر شفقت کی نظر کرنا ہے۔ دوسری صورت چھوٹے

بچوں پر رحم کرنا اور ان سے شفقت کا سلوک کرنا ہے۔ رحم کی تیسری صورت جانوروں پر رحم کرنا ہے۔ رحم کرنے سے مسلمانوں میں ہمدردی، محبت اور اعانت کے اوصاف نشوونما پاتے ہیں۔ اسلام نے جس رحمدلی کا درس دیا ہے وہ صرف مسلمانوں کی حد تک نہیں بلکہ اس کا دائرہ بہت وسیع ہے اور اس رحم کے دائرے میں ہر انسان شامل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود بڑے رحم دل تھے اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے رحم کرنے کی بہت تاکید کی ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمروؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”رحم کرنے والوں پر رحمت بھی رحم فرماتا ہے لہذا تم زمین والوں پر رحم کرو کہ آسمان والا تم پر رحم فرمائے۔“ (ابو داؤد ترمذی)

حضرت جریر بن عبداللہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں فرمائے گا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔“ (مسلم)

حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”وہ ہم میں سے نہیں ہو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے اور نیک باتوں کا حکم نہ دے اور بری باتوں سے نہ روکے۔“ (ترمذی)

روایت ہے کہ میرے پاس ایک عورت مانگنے آئی جس کے ساتھ اس کی بیٹیاں تھیں۔ مجھے ایک کھجور کے سوا کچھ نہ ملا تو میں نے وہی اسے دیدی۔ اس نے وہ دونوں بیٹیوں کو تقسیم کر کے دیدی اور خود اس میں سے نہ کھایا۔ پھر وہ کھڑی ہوئی اور چلی گئی۔ پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شریف لائے اور میں نے آپ کو بتایا تو فرمایا۔ جو ان لڑکیوں کے ذریعے آزما گیا اور وہ ان کے ساتھ نکلی کرے تو وہ اس کیلئے جہنم سے آڑ ہوں گی۔ (بخاری)

حضرت ابو ہریرہؓ کا بیان ہے کہ میں نے ابوالقاسم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تو سچے اور تصدیق کیے گئے تھے کہ رحمت نہیں نکالی جاتی مگر بد بخت آدمی سے۔ (احمد ترمذی)

حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ ایک اعرابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نہ ہو کر عرض گزار ہوا۔ کیا آپ بچوں کو بوسہ دیتے ہیں جبکہ ہم تو بوسہ نہیں دیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”میرے کیا اختیار میں ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل سے شفقت نکال دی ہے۔“ (مسلم)

حضرت ابو موسیٰؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی تعظیم کا حق ہے کہ بوسہ مسلمان اور فرماؤں جلانے والے کی عزت کی جائے جبکہ وہ اس میں

زیادتی نہ کرے۔ اور نہ اس سے دور رہے۔ نیز انصاف کرنے والے حکمران کی۔ (ابوداؤد: بہقی)
حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”وہی نوجوان
کسی بوڑھے کی اس کی عمر کے باعث عزت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کیلئے ایسا شیخہ مقرر فرمادیتا ہے
جو بڑھاپے میں اس کی عزت کرے۔“ (ترمذی)

حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”آدمی کا اپنے
بیٹے کو ادب سکھانا ایک صاع خیرات کرنے سے بہتر ہے۔“ (ترمذی)
ایوب بن موسیٰ ان کے والد جاجد ان کے جد امجد سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم نے ”فرمایا کسی باپ نے اپنے بیٹے کو اچھا ادب سکھانے سے بڑھ کر کوئی عطیہ نہیں
دیا۔“ (ترمذی شریف)

حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جس
کی بیٹی ہو اور وہ اسے زندہ درگور نہ کرے نہ اسے ذلیل کرے اور نہ اپنے بیٹے کو اس پر ترجیح دے
اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔“ (ابوداؤد)

حضرت جناب کا بیان ہے کہ ایک اعرابی آیا۔ اس نے اپنے اونٹ کو بٹھایا اور اس
گھٹنا باندھا۔ پھر مسجد میں داخل ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی۔ جب سلام
پھیر دیا تو اپنی سواری کے پاس آیا اسے کھولا اور پھر سوار ہو گیا اور پکارا۔ اے اللہ! مجھ پر اور محمد
مصطفیٰؐ پر رحم فرما اور ہماری رحمت میں کسی کو شریک نہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم
کیا کہتے ہو کہ یہ زیادہ بے خبر ہے یا اس کا اونٹ؟ کیا تم نے سنا جو اس نے کہا تھا؟ لوگ عرض گزار
ہوئے کیوں نہیں۔ (ابوداؤد)

۱۲۔ اخوت

دینی برادری اور بھائی چارے کو اخوت کہا جاتا ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے ہر مسلمان
دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، یعنی کلمہ طیبہ پڑھنے سے اسلامی برادری میں شامل ہونے کا اعلان
کے بعد وہ انسان پہلے سے موجود مسلمانوں کا بھائی بن جاتا ہے۔ خواہ مسلمان ہونے والا کسی قوم
سے تعلق رکھتا ہو کیونکہ اسلام میں شامل ہونے کے لیے رنگ، نسل، امارت، غربت، حاکم یا محکوم
ہونے کا کوئی دخل نہیں۔ اسلامی اخوت کا رشتہ بہت مضبوط ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
مدینہ طیبہ میں پہنچنے کے بعد سب سے پہلا جو کام کیا تھا وہ یہی اخوت کا رشتہ قائم کیا تھا تا کہ آپس

میں مسلمانوں کا اتحاد اور اتفاق پیدا ہو جائے۔ اخوت مسلمان کے دلوں میں ہمدردی اور محبت پیدا کرتی ہے جس کی بنا پر مصیبت کے وقت ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے کام آتا ہے۔ خصوصاً اخوت کے ذریعے ایک دوسرے کی اصلاح بھی ہوتی ہے۔ اس لیے اخوت اسلام ہر لحاظ سے بڑھی اہمیت اور فضیلت کی حامل ہے۔

حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ بنی کریمؐ نے فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے نہ اس پر ظلم کرے اور نہ اسے (دشمن کے) سپرد کرے جو شخص اپنے (مسلمان) بھائی کی ضرورت پوری کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت برآری فرماتا ہے اور جو شخص کسی مسلمان سے سختی دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کی سختیوں سے ایک سختی دور فرمائے گا۔ اور جو آدمی کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ (بخاری و مسلم)

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے۔ (متفق علیہ)

حضرت ابو موسیٰؓ سے روایت ہے کہ رسول اکرمؐ نے فرمایا ”مومن (دوسرے) مومن کے لیے مکان کی مثل ہے جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے“ (بیان فرماتے ہوئے) آپ نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالیں۔ (مسلم)

حضرت نعمان بن بشیرؓ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باہمی محبت رحمت اور شفقت میں مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں جب کسی ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم بے خوابی اور بخار کی سی کیفیت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ (بخاری)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے رسول اکرمؐ نے فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے نہ وہ اس کی خیانت کرے نہ اسے جھوٹ بولے اور نہ اسے رسوا کرے۔ ہر مسلمان کی عزت مال اور خون دوسرے پر حرام ہیں۔ تقویٰ یہاں ہے (دل کی طرف اشارہ فرمایا) کسی آدمی کے لیے اتنی بدائی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقارت کی نگاہ سے دیکھے۔ (ترمذی)

۱۳۔ میانہ روی

ہر کام میں توازن اور تناسب سے چلنے کو میانہ روی کہا جاتا ہے۔ میانہ روی کے لیے اعتدال کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔ کسی عمل یا کام میں تمیز چیریں ظاہر ہیں۔ پستی درمیان اور

بلند۔ ابتدا یعنی پستی اور انتہا یعنی بلندی ہمیشہ قائم نہیں رہتیں ان دونوں کا درمیانی راستہ اعتدال ہے۔ اعتدال ہمیشہ قائم رہتا ہے اعتدال تقاضائے فطرت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ہر بنائی ہوئی چیز میں اعتدال ہے اور اس کا رخا نہ حیات کا نظام میانہ روی پر ہی قائم دائم ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے لیے بھی اعتدال کی راہ پسند فرمائی ہے کیونکہ اعتدال سے ہر کام میں استحکام پیدا ہوتا ہے۔ دینا و آخرت کی بھلائی حاصل ہوتی ہے۔ خوشحالی اور سکون کی دولت ہمیشہ میسر رہتی ہے۔ اعتدال سے بیشمار تکالیف سے نجات ملتی ہے اس لیے زندگی کے ہر کام میں میانہ روی کو اپنانا چاہیے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ یہی ہے اور اس راستے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان کے لیے پسند فرمایا ہے۔

حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک سیرت خوشی خلق اور میانہ روی نبوت کا پچیسواں حصہ ہے۔ (ابوداؤد)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی کریمؐ نے فرمایا دین آسان ہے اور جو شخص سختی (کی راہ) اختیار کرتا ہے مغلوب ہو جاتا ہے۔ پس سیدھی راہ چلو میانہ روی اختیار کرو خوش رہو۔ صبح و شام اور رات کے کچھ حصہ میں (عبادت کے ذریعے) مدد مانگو۔ (بخاری)

حضرت جابر بن سمرہؓ سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نمازیں پڑھا کرتا تھا آپؐ کی نماز بھی درمیانی ہوتی اور خطبہ بھی درمیانی ہوتا۔ (مسلم)

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ فرمایا تکلف کرنے والے ہلاک ہوئے۔ (مسلم)

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے تو دو ستونوں کے درمیان ایک رسی بندھی ہوئی دیکھی آپؐ نے پوچھا یہ رسی کیسی ہے؟ صحابہؓ نے عرض کیا یہ رسی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی ہے جب وہ (عبادت کرتے کرتے) تھک جاتی ہیں تو اس کے ساتھ ٹیک لگاتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کھول دو۔ تم ہشاش بشاش ہو کر نماز پڑھا کرو جب تھک جاؤ تو آرام کرو۔ (بخاری)

حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لانے (ان وقت) ان کے پاس ایک عورت تھی۔ آپؐ نے فرمایا یہ عورت کون ہے؟ ام المومنینؓ نے عرض کیا یہ فلاں عورت ہے جس کی نماز کا چر چار ہوتا ہے۔ آپؐ نے فرمایا ”رک جاؤ“ حسب طاقت عبادت کرو۔ اللہ کی قسم! اللہ تعالیٰ نہیں تھکتا لیکن تم تھک جاؤ گی اور نبی اکرمؐ کو عبادت

سب سے زیادہ پسند تھی جسے کرنے والا ہمیشہ کرے۔ (بخاری و مسلم)

حضرت وہب بن عبداللہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمانؓ اور ابوالدرداء رضی اللہ عنہما کے درمیان بھائی چارہ قائم فرمایا۔ (ایک مرتبہ) حضرت سلمانؓ حضرت ابودرداءؓ کے ہاں گئے تو ام الدرداء کو پھٹے پڑانے کپڑوں میں دیکھا۔ فرمایا یہ کیا حالت ہے؟ ام الدرداءؓ نے جواب دیا بھائی! ابودرداءؓ کو دنیا کی کچھ حاجت نہیں (پھر جب) ابودرداءؓ آئے تو ان (سلمان) کے لیے کھانا تیار کیا اور فرمایا کھائیے میں روزہ دار ہوں۔ حضرت سلمانؓ نے فرمایا جب تک تم نہیں کھاؤ گے۔ میں نہیں کھاؤں گا۔ چنانچہ انھوں نے بھی کھایا۔ جب رات ہوئی ابودرداءؓ عبادت کے لیے چل پڑھے حضرت سلمانؓ نے فرمایا سو جاؤ وہ سو گئے پھر اٹھ کر چل دیے سلمانؓ نے کہا سو جاؤ۔ رات کا آخری حصہ ہوا تو حضرت سلمانؓ نے فرمایا اب اٹھو۔ چنانچہ دونوں نے اکٹھے نماز ادا کی۔ حضرت سلمانؓ نے فرمایا بیشک تمہارے پروردگار کا تم پر حق ہے تمہارے نفس کا تم پر حق ہے تمہارے گھر والوں کا تم پر حق ہے۔ لہذا ہر حقدار کو اس کا حق دو۔ حضرت ابودرداءؓ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاجر ہو کر سارے واقعہ عرض کیا تو آپؐ نے فرمایا سلمانؓ نے سچ کہا۔ (بخاری)

حضرت ابن مسعودؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو! کوئی چیز ایسی نہیں جو تمہیں جنت سے قریب اور دوزخ سے دور کرے مگر وہی چیز جن کا تمہیں حکم دیا گیا ہے اور کوئی چیز ایسی نہیں جو تمہیں دوزخ سے قریب اور جنت سے دور کر دے مگر وہی چیزیں جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے۔ بیشک روح الامین اور دوسری روایت میں ہے کہ روح القدس نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ کوئی شخص اپنا رزق پورا کیے بغیر نہیں مرتا۔ آگاہ ہو جاؤ اور اللہ سے ذرہ اور تلاش رزق میں درمیانی راستہ اختیار کرو اور رزق کی تاخیر تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ اس کو اللہ کی نافرمانی سے حاصل کرنے لگو۔ کیونکہ جو اللہ کے پاس ہے وہ نہیں حاصل کیا جاسکتا۔ مگر اس کی اطاعت سے۔ (بیہقی شرح السنہ)

۱۲۔ صبر

کسی چیز کی محرومی کی تکلیف کو برداشت کرنا صبر کہلاتا ہے۔ زندگی کے شب و روز میں قدم قدم پر مصائب اور رکاوٹیں ہیں اور ان مشکلات میں راہ حق پر قائم رہنے کے لیے ثابت قدمی، تقامت جرات اور دل کو مضبوط رکھنا صبر ہے۔ صبر کرنے سے بہت سی دیگر خوبیاں بھی پیدا ہو

جاتی ہیں۔ ایمان اور توکل میں استقامت پیدا ہوتی ہیں۔ صبر نیک اعمال کا منبع ہے صبر کا تقاضا ہے کہ کامیابی کے لیے مناسب وقت کا انتظار کیا جائے اور بقیماری کا اظہار نہ کیا جائے اور جن فرائض کی ادائیگی ذمے ہو ان کو ہمیشہ ادا کیا جائے اور اللہ پر ہر دم بھروسہ رکھا جائے۔ کہ وہ اس کیلئے بہتر کرے گا۔ صبر سے مشکلات میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ صبر سے اطمینان پیدا ہوتا ہے۔ صبر کا اجر بے پناہ ہے۔ صبر گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد اور توفیق ہمیشہ صبر کرنے والوں کے ساتھ رہتی ہے۔ اس سے معلوم ہو کہ صبر ہر لحاظ سے فائدہ بخش ہے اور اسے اپنانا چاہئے۔

حضرت صہیبؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”مومن کے کاموں پر تعجب ہے کہ اس کے ہر کام میں بھلائی ہے اور یہ بات مومن کے سوا کسی دوسرے کو حاصل نہیں اگر اسے خوشی پہنچے اور شکر ادا کرے تو اس کے لیے بھلائی ہے اور اگر اس کو تکلیف پہنچے اور صبر کرے تو اس کے لیے بھلائی ہے۔“ (مسلم)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاقو، مومن بہتر ہے اور اللہ تعالیٰ کو ضعیف مومن سے زیادہ پسند ہے۔ اور بھلائی میں حرص کرو جو تمہیں نفع دے۔ اور اللہ سے مدد مانگو اور عاجز نہ بنو۔ اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو یہ نہ کہو کہ میں ایسا کرتا تو یوں ہو جاتا۔ بلکہ یوں کہو کہ جو اللہ تعالیٰ نے مقدر کیا اور جو ان کے چاہا کیا کیونکہ اگر کا لفظ شیطان کے کام کو کھولتا ہے۔ (مسلم)

جب سعد بن مالکؓ ابو سعید خدریؓ سے روایت ہے کہ انصار کے کچھ لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگا آپ نے انہیں عطا فرمایا۔ پھر مانگا آپ نے دے دیا۔ یہاں تک کہ آپ کے پاس جو مال تھا ختم ہو گیا۔ جب آپ اپنے دست مبارک سے سب مال دے چکے تو ان سے فرمایا میرے پاس جو مال ہوتا ہے اسے تم سے روک کر جمع نہیں کرتا۔ جو دست سوال دراز کرنے سے بچتا ہے اللہ اس کو بچاتا ہے اور جو مستغنی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے غنی کر دیتا ہے اور جو صبر کی سعی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے صبر کی توفیق عطا فرماتا ہے اور کوئی شخص صبر سے بہتر اور وسیع تر عطیہ نہیں دیا گیا (بخاری۔ مسلم)

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کے پاس سے گزرے وہ ایک قبر کے قریب رو رہی تھی۔ آپ نے فرمایا ”خدا سے ڈرو اور صبر کرو۔“ اس نے کہا آپ اپنا کام کریں کیونکہ آپ کو میری طرح مصیبت کا سامنا نہیں ہوا۔ عورت نے آپ کو پہچانا

نہیں تھا۔ اسے بتایا گیا کہ آپؐ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ (سن کر) وہ در اقدس پر حاضر ہوئی۔ وہاں کوئی دربان نہ تھا۔ اس نے عرض کیا میں نے آپؐ کو پہنچانا نہیں تھا اس لیے معذرت خواہ ہوں آپؐ نے فرمایا۔ صبر تو پہلے صدمہ کے وقت ہوتا ہے (بخاری و مسلم) مسلم شریف میں ہے کہ وہ اپنے بچے کی قبر پر روہی رہی تھی۔

حضرت صہیب بن ستانؓ سے روایت ہے کہ نبی اکرمؐ نے فرمایا ”مومن کس قدر اچھا ہے اس کے جملہ امور خیر و برکت کا باعث ہیں اور یہ بات صرف ایمان والوں کو ہی حاصل ہے اگر اسے باعث مسرت بات پہنچے تو شکر کرتا ہے اور یہ اس کیلئے بہتر ہے اور اگر اسے کوئی ضرر رساں بات پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے یہ بھی اس کے حق میں بہتر ہے۔“ (مسلم)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میرے ہاں بندہ مومن کیلئے جب میں اس کے دنیوی محبوب کو لے لیتا ہوں۔ تو اس مومن کیلئے جنت کے سوا کوئی بدلہ نہیں۔ (بخاری)

حضرت عائشہؓ سے روایت ہے انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے طاعون کے بارے میں پوچھا۔ آپؐ نے فرمایا ایک عذاب تھا اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا بھیجتا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اسے ایمانداروں کیلئے رحمت بنا دیا ہے اب جو شخص طاعون میں مبتلا ہو ”صبر اور طلب ثواب کی نیت سے اپنے شہر ہی میں ٹھہرا رہے اور یقین رکھتا ہو کہ اسے وہی تکلیف پہنچے گی جو اللہ تعالیٰ نے اس کیلئے لکھ دی۔ ایسے آدمی کو شہید کا ثواب ملے گا۔ (بخاری)

حضرت انسؓ سے روایت ہے رسول اکرمؐ نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں کسی بندے کو اس کی دو محبوب چیزوں میں مبتلا کر دوں اور وہ ان پر صبر کرے تو میں ان کے عوض اسے جنت عطا کروں گا۔ دو چیزوں سے مراد آنکھیں ہیں یعنی وہ (ناپینا ہو کر صبر کرے)۔ (بخاری)

حضرت عطاء بن ابی رباح سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں مجھے حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کیا تمہیں جتنی عورت نہ دکھاؤں۔ میں نے کہا ہاں کیوں نہیں۔ فرمایا یہ سیاہ فام عورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے جس کی وجہ سے میں بے پردہ ہو جاتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے میرے لیے دعا کیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”اگر صبر کو سکو تو تمہارے لیے جنت ہے اور اگر چاہو تو میں تمہاری صحت کیلئے اللہ تعالیٰ سے دعا کروں۔ اس نے کہا میں صبر کرتی ہوں پھر عرض کیا میں بے پردہ ہو جاتی ہوں اس کیلئے دعا کیجئے۔“ آپؐ نے اس کیلئے دعا فرمائی۔ (بخاری و مسلم)

۱۵۔ توکل

انسانی زندگی کوشش اور تدابیر کا حسین امتزاج ہے۔ کوشش اور تدبیر کا انعام تو ملتا ہے مگر تدبیر انسانی تقدیر میں آسانی تو پیدا کر سکتی ہے لیکن بدل نہیں سکتی اس لیے اپنی تدابیر کے انجام کو اللہ کے سپرد کر دینا توکل کہلاتا ہے۔ توکل درحقیقت دلی جذبے کی ایک کیفیت کا نام ہے جس کی بناء پر انسان اپنے مالی وسائل اور دیگر ضروریات زندگی کیلئے اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے اور جو شخص اللہ پر حد سے زیادہ بھروسہ کر لیتا ہے تو اللہ اس کی کفایت کرنے لگتا ہے۔ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے اور اس کی رحمت سے یہ کارخانہ حیات سرگرم عمل ہے۔ لہذا فضل الہی پر دل کی گہرائیوں سے بھروسہ کر لینے سے توکل پیدا ہو جاتا ہے۔ توکل کی راہ بہت عمدہ ہے اور یہ اللہ کے خاص بندوں کا راستہ ہے کیونکہ جو شخص سچے دل سے اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے اللہ اسے کسی چیز کی کمی نہیں رہنے دیتا۔ توکل کی راہ بظاہر تو بڑی مشکل ہے مگر اللہ کے جن بندوں نے یہ راستہ اختیار کیا اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر نعمت سے نوازا۔ توکل کی حقیقت کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مندرجہ ذیل ہیں:

حضرت عمرؓ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اگر تم اللہ تعالیٰ پر اسی طرح بھروسہ کرو جیسے بھروسہ کرنے کا حق ہے تو تمہیں پرندوں کی طرح روزی دی جائے کہ صبح کو بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو سیر ہو کر واپس آتے ہیں۔ (بن ماجہ)

حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ میری امت کے ستر ہزار افراد حساب کے بغیر جنت میں داخل ہوں گے۔ وہ نہ جاہلانہ جھاڑ پھونک کرتے ہوں گے اور نہ شگون لیتے ہوں گے بلکہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہوں گے۔ (متفق علیہ)

حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز باہر تشریف لائے اور فرمایا مجھ پر امتیں پیش کی گئیں تو میرے سامنے سے ایک نبی گزرے جن کے ساتھ ایک آدمی تھا دوسرے نبی کے ساتھ دو آدمی تھے۔ ایک نبی کے ساتھ پوری جماعت تھی۔ ایک نبی کے ساتھ ایک بھی آدمی نہیں تھا۔ پھر ایک بہت بڑی جماعت دیکھی جو حد نظر تک تھی مجھے آرزو ہوئی کہ یہ میری امت ہو۔ مجھ سے کہا گیا کہ یہ حضرت موسیٰ اپنی قوم میں ہیں۔ پھر مجھ سے کہا گیا کہ دیکھئے میں نے ایک بہت بڑی جماعت دیکھی جو آسمان کے کناروں تک پھیلی ہوئی تھی۔ مجھ سے کہا گیا کہ ادھر بھی دیکھئے میں نے آسمان کے کناروں تک بہت بڑی جماعت دیکھی۔ کہا گیا کہ

یہ آپ کی امت ہے اور ان کے ساتھ ستر ہزار افراد ہیں جو ان کے آگے آگے بغیر حساب جنت میں داخل ہونگے وہ شگون نہیں لیتے۔ جاہلانہ جھاڑ پھونک نہیں کرتے اور داغ نہیں لگواتے بلکہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں حضرت عکاشہ بن مھسنؓ کھڑے ہو کر عرض گزار ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے مجھے ان میں شامل فرمائے کہا اے اللہ! اسے ان میں شامل فرمائے۔ پھر دوسرا آدمی اٹھ کر عرض گزار ہوا اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے کہ مجھے بھی ان میں شامل فرمائے۔ فرمایا کہ عکاشہ تم پر سبقت لے گئے۔ (متفق علیہ)

حضرت ابو ذرؓ سے روایت ہے کہ نبی کریمؐ نے فرمایا ”دنیا میں زہد یہ نہیں کہ حلال کو اپنے اوپر حرام کر لیا جائے اور نہ یہ کہ مال ضائع کیا جائے بلکہ دنیا میں زہد یہ ہے کہ جو تیرے قبضے میں ہے اس پر اس سے زیادہ بھروسہ نہ کر جو اللہ کے قبضے میں ہے اور تو مصیبت میں ثواب حاصل کر جبکہ وہ تجھے پہنچے اور ادھر راغب ہو کہ کاش! وہ تیرے لیے باقی رکھی جاتی“ (ترمذی ابن ماجہ)

حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ ایک روز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا کہ فرمایا اے لڑکے! اللہ کے حقوق کی حفاظت کرو کہ وہ تمہارے حقوق کی حفاظت کرے گا۔ تم اسے سامنے پاؤ گے اور جب کچھ مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو اور جب مدد درکار ہو تو اللہ سے مدد لو اور جان لو کہ تمام امت اگر اس بات پر تل جائے کہ کسی چیز کے ساتھ تمہیں نفع پہنچانا ہے۔ تو نفع نہیں پہنچا سکیں گے مگر وہی جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے اور اگر سارے تمہیں کسی چیز کے ساتھ نقصان پہنچانے پر تل جائیں تو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے مگر وہی جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے قلم اٹھا لیے گئے اور دفتر خشک ہو چکے ہیں۔ (احمد ترمذی)

حضرت ابو برداءؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رزق بندے کو اس طرح تلاش کرتا ہے جیسے اس کی موت اسے تلاش کرتی ہے۔ (ابو نعیم فی الحلیۃ)

حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آیت پڑھائی: بیشک میں بہت رزق دینے والا طاقت والا اور قدرت والا ہوں (۵۸:۵۱)۔ (ترمذی ابو داؤد)

حضرت انسؓ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں دو بھائی تھے ایک ان میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتا اور دوسرا دستکاری کرتا تھا۔ دستکاری کرنے والے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے بھائی کی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا شاید تمہیں اسی کی وجہ سے روزی دی جاتی ہو۔ (ترمذی)

حضرت عمرو بن العاصؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ

فرماتا ہے کہ اگر میرے بندے میری اطاعت کریں تو میں رات کو ان پر بارش برسائوں اور دن میں ان پر سورج طلوع کرتا ہوں اور انہیں گرج کی آواز نہ سناؤں۔ (مسند امام احمد)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ ایک آدمی اپنے گھر والوں کے پاس گیا جب ان کی احتیاج دیکھی تو لوگوں کی طرف باہر نکل گیا۔ جب اس کی بیوی نے یہ بات دیکھی تو انھی چکی رکھی اور تنور کو گرم کیا اور کہا اے اللہ! ہمیں رزق دے اس نے دیکھا کہ چکی کا احاطہ آٹے سے بھرا ہوا ہے اور تنور کی طرف گئی تو وہ بھی بھرا ہوا تھا۔ خاوند واپس آیا تو کہا میرے بعد تمہیں کوئی چیز ملی ہے؟ عورت نے کہا ہاں! ہمارے رب کی طرف سے۔ وہ چکی کی طرف گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا تو فرمایا اگر تم اسے نہ اٹھاتے تو دو قیامت تک گھومتی ہی رہتی۔ (مسند امام احمد)

۱۶۔ تدبیر

کسی چیز کے انجام اور نتیجے کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی عقل کو اعلیٰ ترین صورت میں استعمال کرنے کو تدبیر کہا جاتا ہے تاکہ جس کام کا جو مقصد پیش نظر ہو وہ احسن طریقے سے حاصل ہو جائے۔ تدبیر اور تفکر اعلیٰ ترین عادات سے ہیں تدبیر سے قرب الہی پیدا ہوتا ہے اگر لیے مسلمان کی توجہ اس امر کی طرف سے مبذول کرائی گئی ہے تاکہ ہر خاص و عام صفات الہی میں تدبیر کرے۔ کلام الہی پر غور و فکر کر کے اس کی حفاظت کو تسلیم کرے۔ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں پر غور و فکر کرے۔ انسانی نشات پر تدبیر کرے اور انسانی تاریخ پر غور و فکر کرے۔ غرضیکہ زندگی کے پہلو پر غور و فکر رکھتے ہوئے جو قدم بھی اٹھائے اس میں سمجھ اور عقل سے کام لے اور رضائے الہی کے تقاضوں کو پورا کرے اس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مندرجہ ذیل ہیں:

حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد القیس کے سردار سے فرمایا تم میں دو عادتیں ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے یعنی بردباری اور وقار (بخاری)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”مومن ایک سوراخ سے دو دفعہ نہیں ڈسا جاتا۔“ (مسلم)

حضرت سہل بن سعدؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”اٹھینان اللہ کی طرف سے اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے۔“ (ترمذی)

حضرت ابو سعیدؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”برو بار نہیں ہوتا مگر لغزشوں والا اور حکیم نہیں ہوتا مگر تجربوں والا۔“ (احمد ترمذی)

حضرت عبداللہ بن مسرجؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”خوش خلقی، تدبر اور میانہ روی نبوت کا چوبیسواں حصہ ہے۔“ (ترمذی)

حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”آدمی نمازی، روزہ، زکوٰۃ دینے والا اور حج و عمرہ کرنے والا ہوتا ہے یہاں تک کہ آپ نے سارے نیک کام گناہے لیکن قیامت میں اسے اس کی عقل کے مطابق ہی جزا دی جائے گی۔“ (نبیہتی)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے عقل کو پیدا کیا تو اس سے فرمایا کھڑی ہو جائے۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ پھر اس سے فرمایا پیٹھ پھیر، اس نے پیٹھ پھیر لی۔ پھر اس سے فرمایا ادھر منہ کر، اس نے ادھر منہ کر لیا۔ پھر اس سے فرمایا بیٹھ جا، وہ بیٹھ گئی پھر اس سے فرمایا میں نے کوئی مخلوق تجھ سے بہتر، افضل اور خوبصورت پیدا نہیں کی، میں تیرے سبب لوں گا، تیرے سبب دوں گا، تیرے سبب پہچانا جاؤں گا، تیرے سبب ناراض ہوں گا، تیرے سبب ثواب ہوگا اور تجھ پر ہی عذاب ہوگا، بعض علماء نے اس میں کلام کیا ہے۔ (نبیہتی)

۱۔ خدمت خلق

اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی کے پیش نظر مخلوق کی مدد اور معاونت کرنا خدمت خلق ہے جسے مخلوق خدا کے حقوق کو اچھے طریقے سے ادا کرنا ہی دراصل خدمت خلق ہے۔ اسلام نے خدمت خلق پر بہت زور دیا ہے بھوکے کو کھانا کھلانا، رفاہ عامہ کے کام کرنا، پیاسے کو پانی پلانا، ساجوں کی ضروریات پوری کرنا، ضرورت مندوں کو کپڑے پہنانا، کسی کو بازار سے سودا سلف لا کر، یا کسی کی بیماری میں خدمت کرنا، غرضیکہ ہر وہ کام جس سے دوسرے کی بھلائی مقصود ہو، خدمت خلق ہے۔ خدمت خلق سے بیشمار فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ خدمت خلق انسان کے گناہوں کا فارہ بن جاتی ہے۔ خدمت خلق سے انسان کی عاقبت سنور جاتی ہے اور خاص کر اللہ بہت راضی ہوتا ہے۔ خدمت خلق کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مندرجہ ذیل ہیں:

حضرت جریر بن عبداللہؓ سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کی

حضرت تمیم بن اوس دارمیؓ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیر خیر خواہی کا نام ہے۔ ہم نے پوچھا کس کیلئے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی کتاب اس کے رسول اور ائمہ سلام اور عام مسلمانوں کیلئے۔ (مسلم)

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تم میں سے کوئی اس قدر وقت تک (کابل) مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے (مسلمان) بھائی کیلئے وہ چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ (بخاری و مسلم)

حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن دیر کی طرف سے ہمیشہ کشادگی و وسعت میں رہتا ہے جب تک کہ حرام خون نہ گرائے۔ (بخاری)

حضرت ابو موسیٰؓ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہمارا مساجد یا بازاروں سے تیر لے کر گزرے تو اسے چاہئے کہ اس کے پیکان (انگلے تیز حصے) روک لے یا ہاتھ میں کر لے۔ کہیں اس سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچ جائے۔ (مسلم)

حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے نہ وہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ اسے دوسرے کے حوالے کرتا ہے جو شخص اپنے (مسلمان) بھائی کی حاجت بر آری میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری کرتا ہے۔ جو شخص کسی مسلمان

سے تکلیف دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کی قیامت کی تکالیف دور کرتا ہے۔ جو آدمی کسی مسلمان کی ستر پوشی کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس پر پردہ پوشی فرمائے گا۔ (مسلم)

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کر خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ! مظلوم کی مدد تو میں کروں لیکن ظالم کی مدد کیسے کروں؟ آپؐ نے فرمایا اسے ظلم سے روک دے یہی اس کی مدد ہے۔ (بخاری)

۱۸۔ خاموشی

فضول اور بیجا باتوں سے اجتناب کرنا خاموشی کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو بولنے کی طاقت دی ہے اسے استعمال کرنے کیلئے شریعت نے حدود مقرر کی ہیں کہ قوت گویائی سے اللہ کی حمد و ثنا کی جائے۔ ضرورت کے مطابق زندگی میں لین دین کی بات کی جائے غرضیکہ زبان کو نیکی اور اچھائی کیلئے استعمال کیا جائے اور زبان سے بری باتیں نہ نکالی جائیں اور نہ کوئی ایسی بات کہ جائے جس سے دوسرے کی دل آزاری ہو۔ کیونکہ جو فضول یا بے ضرورت بات

زبان سے نکالی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے اسے انسان کے اعمال نامہ میں لکھ لیتے ہیں اور قیامت کے روز ان بڑے الفاظ کی بنا پر انسان کو سزا دی جائے گی اور سزا سے بچنے کیلئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی کو ترجیح دی ہے اور اس بات کی ترغیب دی کہ فضول باتوں کی بجائے خاموشی اختیار کر لینا بہتر ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ضرورت کے مطابق بھی بات چیت نہ کی جائے بلکہ ضرورت کے مطابق بات چیت کر کے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کیونکہ زبان کی قوت گویائی اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں سے ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمروؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ (احمد ترمذی، دارمی، بیہقی)

عمران بن حطان کا بیان ہے کہ میں حضرت ابو ذرؓ کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہیں ایک سیاہ کبیل لپیٹے ہوئے مسجد میں تنہا بیٹھے ہوئے پایا میں عرض گزار ہوا کہ اے ابو ذرؓ یہ تنہائی کیسی؟ فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ برے ساتھی سے تنہائی بہتر ہے اچھا ساتھی تنہائی سے بہتر ہے۔ اچھی بات کہنا خاموشی سے بہتر ہے اور خاموش رہنا بری بات کہنے سے بہتر ہے۔ (بیہقی)

حضرت عمران بن حصینؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”آدمی کا خاموشی پر قائم رہنا ساٹھ سال کی عبادت سے بہتر ہے۔“ (بیہقی)

حضرت ابو ذرؓ نے فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا پھر لمبی حدیث بیان کرتے ہوئے کہا کہ میں عرض گزار ہوا یا رسول اللہ! مجھے وصیت فرمائیے۔ فرمایا ”میں تمہیں اللہ کا تقویٰ اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں کیونکہ تمہارے کاموں کو زینت دے گا۔“ میں عرض گزار ہوا کہ اور زیادہ۔ فرمایا ”قرآن مجید کی تلاوت اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کو اپنے اوپر لازم کر لو تو آسمانوں میں تمہارا چرچا اور زمین میں تمہارے لیے نور ہو گا۔“ عرض گزار ہوا کہ اور زیادہ۔ فرمایا کہ لمبی خاموشی کو اپنے اوپر لازم کر لو کیونکہ یہ شیطان کو بھگانے والی اور دینی کاموں میں تمہاری مددگار ہوگی میں ”عرض گزار ہوا کہ اور زیادہ فرمایا ”کہ زیادہ ہنسنے سے بچنا کیونکہ یہ دل کو مردہ کرتا اور چہرے کے نور کو دور کر دیتا ہے۔“ عرض گزار ہوا کہ اور زیادہ فرمایا ”حق بات کہنا اگرچہ وہ کڑوی ہو۔“ عرض گزار ہوا کہ اور زیادہ۔ فرمایا ”اللہ کے کاموں میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈرنا۔“ عرض گزار ہوا کہ اور زیادہ۔ فرمایا ”وہ برائی تمہیں لوگوں سے روکے جس کو تم جانتے ہو کہ تمہارے اہل بیت موجود ہے۔“ (بیہقی)

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”اے ابوورداء! کیا میں تمہیں ایسی دو عادتیں نہ بتاؤں جو پیٹھ پر ہلکی اور میزان میں بھاری ہیں؟“ میں عرض گزار ہوا کہ کیوں نہیں فرمایا ”لمبی خاموشی اور حسن اخلاق۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ مخلوق نے ان جیسا کوئی عمل نہیں کیا۔“ (بیہقی)

۱۹۔ نرمی

نرمی بھی اچھے اخلاق کا لازمی حصہ ہے نرمی سے مراد گفتگو اور رویے میں نرمی۔ نرمی سے آپس میں مروت اور محبت پیدا ہوتی ہے جس سے تعلقات کی راہ ہموار رہتی ہے اور روزمرہ کی زندگی کے راہ درسم میں آسانی پیدا ہوتی ہے اور عملی زندگی میں راحت اور سکون کا ذریعہ بنتا ہے یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں معاملات اور بات چیت میں سخت گیری کی بجائے نرمی کا درس دیا ہے اللہ کے نیک بندوں نے نرمی کو عملی طور پر اپنایا اور دوسروں کو تاکید فرمائی کہ وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں نرم لہجہ اور رویہ اختیار کریں۔

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ شخص نہ بتاؤں جو آگ پر حرام ہوتا ہے اور آگ اس پر حرام ہوتی ہے۔ وہ شخص نرم طبیعت، نرم زبان گھل مل کر رہنے والا اور درگزر کرنے والا ہے۔ روایت کیا اسے احمد اور ترمذی نے اور کہا کہ یہ حدیث حسن غریب ہے۔

حضرت عائشہ صدیقہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والا ہے نرمی کو پسند کرتا ہے نرمی پر دیتا ہے جو سختی پر نہیں دیتا اور نہ نرمی کے سوا کسی اور بات پر دیتا ہے۔ (مسلم)

حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ”تم پر نرمی لازم ہے اور سختی و فحش گوئی سے بچ۔ نہیں ہوگی نرمی کسی چیز میں مگر اسے زینت بخشے گی اور جس چیز سے اسے دور کر دیا جائے اسے عیب ناک کر دیتی ہے۔“ (مسلم)

حضرت جریرؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نرمی سے محروم رکھا گیا وہ بھلائی سے محروم رکھا گیا۔ (مسلم)

حضرت عائشہ صدیقہؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو نرمی سے کچھ حصہ دیا گیا اسے دنیا اور آخرت کی بھلائی سے حصہ دیا گیا اور جو نرمی سے محروم رکھا گیا وہ

دنیا اور آخرت کی بھلائی سے محروم رکھا گیا۔ (شرح السنہ)۔
 مکحول سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ مومن تکمیل والے
 اونٹ کی طرح نرم دل ہوتا ہے۔ اگر اسے کھینچا جائے تو کھینچ آتا ہے اور پتھر پر بھی بٹھایا جائے تو
 بیٹھ جاتا ہے۔ (ترمذی)۔

حضرت حارثہ بن وہب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ سخت
 دل اور سخت کلام کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ کہا کہ ”الجواظ“ سے مراد گندے لفظ
 بولنے والا ہے۔ (ابوداؤد)

۲۰۔ پردہ پوشی

اللہ ستار العیوب ہے یعنی وہ لوگوں کے عیبوں کو اپنی رحمت سے ڈھانپنے رکھتا ہے اس
 لیے وہ مخلوق سے بھی چاہتا ہے کہ اگر کوئی کسی شخص میں کم عقلی والا فعل دیکھے تو اس پر پردہ ڈال
 دے اور اللہ کے حضور اس کی اصلاح کی دعا کرے اس طرح معاشرہ میں محبت اور الفت کو فروغ
 ملے گا اس کے برعکس اگر کوئی کسی دوسرے کے عیب نہ چھپائے گا تو کل کو وہ بھی اس کے عیب
 تلاش کر کے اس کی تشہیر کرے گا جس سے بے سکونی اور بد امنی پیدا ہوگی جو اسلامی معاشرہ کو تباہ و
 برباد کرے گی اس لیے پردہ پوشی کی عادت کو اپنانا چاہیے البتہ اگر کسی شخص کی برائی اس حد تک پہنچ
 چکی ہو کہ دوسرے بھی زد میں آسکتے ہوں تو لوگوں کو اس کی برائی سے مطلع کر دینے میں کوئی حرج
 نہیں تا کہ دوسرے لوگ اس کی برائی سے بچ جائیں۔ پردہ پوشی کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ
 وسلم کے ارشادات مندرجہ ذیل ہیں:

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”میری تمام
 امت عافیت سے رہے گی سوائے علانیہ گناہ کرنے والوں کے اور یہ بھی اعلان کرنا ہے کہ
 آدمی رات کو ایک کام کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس پر پردہ ڈالا ہے لیکن صبح کے وقت وہ کہے
 کہ اے فلاں! رات میں نے فلاں کام کیا۔ حالانکہ رات کو اس کے رب نے پردہ ڈالے رکھا
 لیکن صبح کو اس نے اپنے رب کا پردہ ہٹا دیا۔“

حضرت عقبہ بن عامر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”جس نے
 کسی کا پوشیدہ عیب دیکھ کر چھپایا یہ ایسا ہے گویا اس نے زندہ درگور لڑکی کو زندہ کیا۔“ (ترمذی)
 حضرت عبد اللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے نہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے اور جو اپنے بھائی کی حاجت پوری کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری کرتا ہے اور جو کسی مسلمان کی تکلیف دور کرے تو اللہ تعالیٰ قیامت کی تکلیفوں میں سے اس کی ایک تکلیف دور فرمائے گا اور جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ (مسلم شریف)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ دنیا میں کسی کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ (مسلم شریف)

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا (اپنے عیب کا) اظہار کرنے والوں کے علاوہ میری تمام امت کیلئے معافی ہے۔ اظہار کی صورت یہ ہے کہ کوئی شخص رات کو ایک عمل کرتا ہے پھر صبح کے وقت جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی پردہ پوشی فرمائی کہتا ہے میں نے گزشتہ رات فلاں فلاں کام کیا حالانکہ رات کے وقت اس کے رب نے پردہ ڈالا تھا لیکن بوقت صبح وہ اللہ تعالیٰ کے پردہ کو چاک کر دیتا ہے۔ (بخاری و مسلم)

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ ان کے پاس ایک آدمی لایا گیا اس کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ فلاں شخص ہے جس کی داڑھی سے شراب کے قطرے گر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہم کو بحسب سے منع کیا گیا ہے البتہ اگر کوئی بات ہمارے سامنے ظاہر ہو جائے تو ہم گرفت کریں گے۔

۲۱۔ جھوٹ

بات کرتے ہوئے کسی حقیقت کو چھپا کر غلط بیانی کرنے کو جھوٹ کہا جاتا ہے جھوٹ بہت بُرا فعل ہے جس شخص میں یہ بری عادت پائی جائے وہ اللہ کے نزدیک بہت برا ہے کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ بیشک اللہ تعالیٰ جھوٹے کو راہ ہدایت نہیں دکھاتا۔ (سورہ زمر: ۱) جھوٹ سے بے شمار برائیاں جنم لیتی ہیں اس لیے اس سے منع کیا گیا ہے جھوٹ بولنے سے کسی قسم کا فائدہ نہیں ہوتا بلکہ دین و دنیا کا نقصان ہی ہوتا ہے۔ جھوٹ بولنے سے اللہ کی رحمت سے دوری ہو جاتی ہے اور اللہ کی لعنت پڑتی ہے۔ جھوٹ بولنے والے کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ جھوٹ بولنے والے کی روزی میں برکت ختم ہو جاتی ہے۔ جھوٹ سے نفاق پیدا ہوتا ہے گویا کہ جھوٹ ام النجاست ہے۔ جھوٹ ہر صورت میں جھوٹ ہی رہتا ہے خواہ مذاق کے طور پر ہی کیوں نہ بولا جائے یا کسی بچے کو

ڈرانے یا بہلانے کیلئے ہی کیوں نہ جھوٹی باتیں سنائیں جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کی بہت مذمت فرمائی ہے اس لیے جھوٹ سے ہر ممکن طریقے سے بچنا چاہیے۔

بہز بن حکیم ان کے والد ماجدان کے جد امجد سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اس کیلئے خرابی ہے جو جھوٹی بات کرے کہ اس کے ذریعے لوگ ہنسیں، اس کیلئے خرابی ہے اس کیلئے خرابی ہے۔“ (احمد ترمذی، ابوداؤد دارمی)

حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا: ”جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی بدبو کے باعث فرشتہ اس سے ایک میل پرے ہٹ جاتا ہے۔“ (ترمذی)

حضرت سفیان بن اسید حضرمیؒ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا یہ بڑی خیانت ہے کہ تم اپنے بھائی سے کوئی بات کہو اور وہ تمہیں سچا جانتا ہو اور تم جھوٹ بول رہے ہو۔ (ابوداؤد)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا آدمی ایک لفظ کہتا ہے اور لوگوں کو ہنسانے کیلئے کہتا ہے تو اس کے باعث وہ اتنا نیچے جا گرتا ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ ہے اور زبان کے ذریعے آدمی قدموں کی نسبت زیادہ پھسل جاتا ہے۔ (بیہقی)

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جو جھوٹ کو چھوڑ دے جبکہ وہ غلطی پر ہو تو اس کیلئے جنت کے کنارے پر مکان بنایا جائے گا اور جو حق پر ہوتے ہوئے جھگڑے کو چھوڑ دے تو اس کیلئے جنت کے درمیان مکان بنایا جائے گا اور جس کا اخلاق اچھا ہو اس کیلئے جنت کے بالائی حصے میں مکان بنایا جائے گا۔“ (ترمذی)

حضرت بلال بن حارثؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”آدمی ایک بھلائی کا لفظ منہ سے نکالتا ہے اور اس کی قدر و قیمت نہیں جانتا تو اس کے باعث اللہ تعالیٰ اس کیلئے قیامت تک کی رضا مندی لکھ دیتا ہے ایک آدمی برا لفظ منہ سے نکالتا ہے اور اس کی حقیقت کو نہیں جانتا تو اس کے باعث اللہ تعالیٰ اس کیلئے ملاقات کے دن تک کی ناراضگی لکھ دیتا ہے۔“ (ابن ماجہ)

حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جس نے اپنے بھائی سے کافی کہا تو دونوں میں سے ایک کی طرف لوٹے گا۔“ (بخاری شریف)

ان ہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جس نے کسی کے کفر یا دعویٰ کیا یا اللہ کا دشمن کہا اور وہ ایسا نہ ہو تو کہنے والے پر لوٹے گا۔“ (مسلم)

حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا کہ شیطان آدمی کی صورت اختیار کر کے لوگوں کے پاس آتا ہے اور انہیں جھوٹی حدیث سناتا ہے۔ لوگ متفرق ہو جاتے ہیں تو ان میں سے ایک آدمی کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایک آدمی سے خود سنا جس کو میں چہرے سے پہچانتا ہوں اگرچہ اس کا نام نہیں جانتا جو یوں حدیث بیان کرتا ہے۔ (مسلم)

صفوان بن سلیمؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی کہ کبر مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں! عرض کی گئی کہ کیا مومن نجیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں! عرض کی گئی کہ کیا مومن کذاب ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں۔ (مالک بیہقی)

۲۲۔ وعدہ خلافی

وعدہ کرنے کے بعد اسے پورا کرنا اسلام کی اخلاقی تعلیمات کا لازمی جزو ہے کیونکہ اسلامی نقطہ نظر سے اس امر کو ضروری قرار دیا گیا ہے کہ جس شخص کے ساتھ وعدہ کیا جائے اسے پورا کیا جائے ایسا کرنے سے بھائی چارے کو فروغ ملتا ہے اور وعدہ خلافی سے نفرت جنم لیتی ہے اس لیے وعدہ خلافی سے منع کیا گیا ہے۔ وعدہ خلافی بھی ایک طرح کا جھوٹ ہے اور گناہ کبیرہ میں شمار ہوتی ہے۔ اس لیے اس سے بچنا بہت ضروری ہے اللہ تعالیٰ نے وعدہ پورا کرنے کی بہت تاکید کی ہے کیونکہ وعدہ کے بارے میں آخرت میں باز پرس ہوگی۔ وعدہ کے متعلق یہ بھی تاکید کی گئی ہے کہ انسان جب وعدہ کرے تو انشاء اللہ کہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مرضی کے بغیر کوئی شخص وعدہ پورا نہیں کر سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وعدہ کی پابندی پر بہت زور دیا ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاصؓ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار خصلتیں جس شخص میں ہوں وہ پکا منافق ہے اور جس میں ان میں سے ایک عادت ہو اس میں منافقت کی ایک علامت ہے یہاں تک کہ اسے چھوڑ دے۔

(۱) جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔

(۲) بات کرے تو جھوٹ بولے۔

(۳) وعدہ کرے تو پورا نہ کرے۔

(۴) جب جھگڑے تو گالی گلوچ کرے۔ (بخاری شریف)

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ حضرت عبداللہ بن عمرو اور حضرت انسؓ کا بیان ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر وعدہ شکن کیلئے قیامت کے دن ایک جھنڈا ہوگا کہا جائے گا یہ

فلاں شخص کی عہد شکنی (کا جھنڈا) ہے۔ (مسلم شریف)

حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہؐ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ میں قیامت کے دن تین آدمیوں سے جھگڑا کروں گا۔ وہ شخص جس نے میرے نام پر وعدہ کر کے توڑ دیا۔ وہ آدمی جس نے کسی آزاد آدمی کو بیچا۔ اور اس کی قیمت کھا گیا۔ تیسرا وہ شخص جس نے کسی کو اجرت پر رکھا (مزدور بنایا) اور اس سے پورا کام لیا لیکن اس کو مزدوری نہ دی۔ (بخاری)

حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر عہد شکن کیلئے قیامت کے دن اس کی سرین کے پاس ایک جھنڈا ہوگا جو اس کی وعدہ خلافی کے مطابق بلند کیا جائے گا۔ خبردار! امیر عام سے بڑھ کر وعدہ خلاف کوئی نہیں۔ (مسلم شریف)

حضرت علیؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان عہد شکنی اور وعدہ خلافی کرے اس پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے اور اس کا نہ کوئی فرض قبول ہوگا نہ نفل۔ (بخاری)

کسی شخص کو کوئی چیز تحفے کے طور پر دے دینا یا کسی کے ہاتھ فروخت کر دینا یا صدقہ خیرات کے طور پر دے دینا بھی ایک طرح کا وعدہ ہے کیونکہ کوئی چیز دینے یا فروخت کرنے کے بعد اسے واپس لینا درست نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع فرمایا ہے۔

حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے بے کو واپس کرتا ہے وہ اس کتے کی طرح ہے جو اپنی قے کو واپس لیتا ہے۔ (بخاری شریف)

حضرت عمر بن خطابؓ فرماتے ہیں۔ میں نے ایک گھوڑا اللہ تعالیٰ کی راہ میں سواری کیلئے دیا تو جس کے پاس تھا اس نے اسے ضائع کر دیا۔ میں نے اسے خریدنے کا ارادہ کیا۔ میرا خیال تھا کہ وہ اسے سستے داموں بیچ دے گا۔ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ نے فرمایا اسے نہ خریدو اور نہ ہی اپنے صدقہ میں لوٹو اگرچہ وہ تمہیں ایک درہم میں دے کیونکہ صدقہ کو واپس لینے والے چائے چائے والے کی طرح ہے۔ (مسلم شریف)

۲۳ - حلالہ

اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی نعمتوں سے مالا مال کر دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے بے پناہ رزق کشادہ کر دیتا ہے اور بر لحاظ سے آسودہ حال کر دیتا ہے۔ آئے دن اس کے ہر کام میں توفیق ہوتی ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ کی عنایت پر اپنے دل میں یہ بات پیدا نہ کرنا کہ اس کی نعمتیں چھین جائیں۔

دوسرے کو کھاتا پیتا دیکھ کر اپنے دل کو جلانا حسد کہلاتا ہے۔ حسد کا جذبہ بہت ہی برا ہے اور ایسا کرنے رضائے الہی کی خلاف ورزی ہے کہ جسے اللہ دینا چاہ رہا ہے اس کے متعلق یہ خیال کرنا کہ اسے نہ ملے۔ ایسا کرنا اللہ تعالیٰ کو قطعاً پسند نہیں۔ حسد بہت خبیث عادت ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بے پناہ مذمت کی ہے۔

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب حسد سے بچو کیونکہ حسد نیکیوں کو ایسے کھاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو۔ (ابوداؤد)

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ قریب ہے کہ تنگ دستی کفر ہو جائے اور قریب ہے کہ حسد تقدیر پر غالب آجائے۔ (بیہقی)

حضرت زبیرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پہلی امتوں کی بیماریوں سے حسد اور بغض کی بیماری تم میں بھی سرایت کر گئی ہے حالانکہ یہ مونڈنے والی ہے میں یہ نہیں کہتا کہ سر مونڈے والی بلکہ دین مونڈنے والی بیماریاں ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ تم لوگ اس وقت تک جنت میں داخل نہ ہو گے جب تک کہ مومن نہ بن جاؤ گے اور تم اس وقت تک مومن نہ بن سکو گے جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو گے کیا میں تمہیں وہ کام نہ بتاؤں کہ جب تک تم اس کو کرتے رہو گے تو ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو گے وہ کام یہ ہے کہ تم آپس میں سلام کا چرچا کیا کرو۔ (کنز العمال)

حضرت ضمیرہ بن ثعلبہؓ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ”لوگ اس وقت تک ہمیشہ خیریت اور اچھی حالت میں رہیں گے جب تک کہ ایک دوسرے پر حسد نہیں کریں گے۔“ (کنز العمال)

حضرت عبداللہ بن بسرؓ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد کرنے والے اور چغلی کھانے والے اور کاہن (نجومی) مجھ کو ان لوگوں سے اور ان لوگوں کو مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ (کنز العمال)

حضرت امام غزالیؒ نے فرمایا ہے کہ حسد قلب کی بیماریوں میں سے ایک بہت بڑی بیماری ہے اور اس کا علاج یہ ہے کہ حسد کرنے والا ٹھنڈے دل سے یہ سوچ لے کہ میرے حسد کرنے سے ہرگز ہرگز کسی کی دولت و نعمت برباد نہیں ہو سکتی اور میں جس پر حسد کر رہا ہوں میرے حسد سے اس کا کچھ بھی نہیں بگڑ سکتا بلکہ میرے حسد کا نقصان دین و دنیا میں مجھ کو ہی پہنچ رہا ہے کہ میں خواہ مخواہ دل کی جلن میں مبتلا ہوں اور ہر وقت حسد کی آگ میں جلتا رہتا ہوں اور میری

نیکیاں برباد ہو رہی ہیں اور میں جس پر حسد کر رہا ہوں میری نیکیاں قیامت میں اس کو مل جائیں گی۔ پھر یہ بھی سوچے کہ میں جس پر حسد کر رہا ہوں اس کو خداوند کریم نے یہ نعمتیں دی ہیں اور میں اس پر ناراض ہو کر حسد میں جل رہا ہوں تو میں گویا خداوند تعالیٰ کے فعل پر اعتراض کر کے اپنا دین و ایمان خراب کر رہا ہوں۔ یہ سوچ کر پھر اپنے دل میں اس خیال کو جمائے کہ اللہ تعالیٰ علیم و حکیم ہے جو شخص جس چیز کا اہل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہی چیز عطا فرماتا ہے میں جس پر حسد کر رہا ہوں اللہ کے نزدیک چونکہ وہ ان نعمتوں کا اہل تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں اور میں چونکہ ان نعمتوں کا اہل نہیں تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے نہیں دیں۔ اس طرح حسد کا مرض دل سے نکل جائے گا اور حاسد کو حسد کی جلن سے نجات مل جائے گی۔ (احیاء العلوم)

۲۴۔ ریا کاری

کوئی کام خاص کر نیک عمل دوسروں کے دکھاوے اور شہرت کیلئے کرنا ریا کاری ہے۔ کیونکہ نیک کاموں میں اخلاص نیت کو ہونا ضروری ہے یعنی ہر نیک عمل اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کیلئے کیا جائے مگر جب نیک اعمال کے پیش نظر کوئی ذاتی اور نفسانی غرض ہوگی تو وہ نیک اعمال ریا کاری کا شکار ہو جائیں گے اور اصل مقصد سے دور ہو جائیں گے کیونکہ بعض لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ دین و دنیا کا جو کام بھی کرتے ہیں اس میں دنیا کے دوسرے لوگوں کیلئے دکھلاوا موجود ہوتا ہے۔ ایسا کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بالکل پسند نہیں کیا بلکہ ریا کاری کو شیطانی اعمال قرار دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

اور وہ لوگ جو اپنے مالوں کو لوگوں کو دکھاوے کیلئے
خارج کرتے ہیں اور ایمان نہیں لاتے اللہ پر اور نہ
قیامت پر اور جس کا ساتھی شیطان ہو تو وہ کتنا برا
ساتھی ہے۔ (النساء: ۵)

كَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِيَاءَ
النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا
كَسَاءً قَرِينًا. (النساء، ۵۴)

حضرت جنیدؒ سے روایت ہے کہ نبی کریمؐ نے فرمایا جو سنا نے کیلئے کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ سناوا کرے گا اور جو دکھاوا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ دکھاوا کرے گا۔

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن کو شریک کیا جائے اور ایسے جملہ شرکاء سے میں بے نیاز ہوں بلکہ جو اپنے عمل میں کسی کو میرے ساتھ شریک کرے تو میں اسے اور جس کو شریک کیا دونوں کو چھوڑ دیتا ہوں۔ دوسری

روایت میں ہے کہ میں اس سے لا تعلق ہوں وہ اسی کیلئے ہے جس کیلئے کیا۔ (مسلم)

حضرت ابو ذرؓ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی کہ اس کے متعلق کیا ارشاد ہے جو نیکی کا کام کرے اور اس کے باعث لوگ اس کی تعریف کریں؟ دوسرے روایت میں ہے کہ اس کے باعث لوگ اس سے محبت کریں فرمایا کہ یہ مومن کو جلد ملنے والا خوشخبری ہے۔ (مسلم)

حضرت ابو سعید فضالہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس لوگ قیامت کے روز جمع ہوں گے جس میں شک نہیں تو ایک منادی کرنے والا ندا کرے گا جس نے شرک کیا کسی کام میں جو اس نے اللہ کیلئے کیا ہو تو اس کا ثواب خدا کے سوا اسی سے طلب کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ شرک کیے جانے والے تمام شرکاء سے بے نیاز ہے۔ (احمد)

حضرت شداد بن اوسؓ سے مروی ہے کہ وہ رونے لگے تو لوگوں نے ان سے کہا کہ کونسی چیز آپؐ کو رلاتی ہے تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بات فرماتے ہوئے سنا تھا اسی کو یاد کر کے رورہا ہوں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ مجھ کو اپنی امت پر شرک اور چھپی ہوئی شہوت کا خوف ہے تو میں نے عرض کیا کہ رسول اللہ! کیا آپؐ کی امت آپؐ کے بعد شرک کرے گی؟ تو آپؐ نے فرمایا کہ ہاں! لیکن سن لو کہ وہ سورج یا چاند اور پتھر اور بت کی عبادت نہیں کریں گے لیکن وہ اپنے عملوں میں ریا کاری کریں گے اور چھپی ہوئی شہوت یہ ہے کہ ان میں سے ایک آدمی صبح کو روزہ دار رہے گا پھر اس کی شہوتوں میں سے کوئی شہوت اس کے ساتھ آ جائے گی تو وہ روزہ چھوڑ دے گا۔ (احمد بیہقی)

حضرت شداد بن اوسؓ سے روایت ہے کہ جس نے ریا کاری کرتے ہوئے نماز پڑھی تو یقیناً اس نے شرک کا کام کیا اور جس نے ریا کاری سے روزہ رکھا اس نے بیشک شرک کا کام کیا اور جس نے ریا کاری کرتے ہوئے صدقہ دیا اس نے بلاشبہ شرک کا کام کیا۔ (احمد)

حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ آخری زمانے میں کچھ ایسے لوگ نکلیں گے جو دنیا کو دین کے ذریعے طلب کریں گے وہ لوگوں کیلئے بھینٹ کی کھال پہنیں گے۔ اپنی نرم دلی ظاہر کرنے کیلئے ان کی زبانیں شکر سے زیادہ میٹھی ہوں گی اور ان کے دل بھینٹیوں کے دل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان (ریا کاروں) سے فرمائے گا کہ کیا یہ لوگ میرے مہلت دینے سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ کیا یہ لوگ مجھ پر جری ہو گئے ہیں؟ تو مجھ کو میری ہی قسم ہے کہ میں ضرور ضرور ان لوگوں پر ایسا فتنہ بھیجوں گا جو عقلمند آدمی کو حیرانی میں ڈال دے گا۔ (احمد)

حضرت محمود بن لبید سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ جس چیز کا تم لوگوں پر خوف ہے وہ چھوٹا شرک ہے۔ تو لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! چھوٹا شرک کیا ہے؟ تو فرمایا کہ ریا کاری اور بیہمتی میں یہ بھی ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے گا تو ریا کاروں سے فرمائے گا کہ تم لوگ اس کے پاس جاؤ جس کو تم دنیا میں اپنا عمل دکھا کر کیا کرتے تھے۔ پھر تم دیکھ لو کہ کیا تم اس کے پاس کوئی جزا اور بھلائی پاتے ہو۔ (احمد بیہقی)

حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس اس حال میں تشریف لائے کہ ہم لوگ دجال کا تذکرہ کر رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ کیا میں تم لوگوں کو اس چیز کی خبر نہ دوں جو میرے نزدیک دجال سے بھی زیادہ خوفناک ہے تو ہم لوگوں نے عرض کیا کہ کیوں نہیں یا رسول اللہ! ضرور ہم لوگوں کو خبر دیجئے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ چھپا ہوا شرک ہے اور وہ یہ ہے کہ آدمی نماز پڑھنے کھڑا ہو تو وہ یہ دیکھ کر اپنی نماز زیادہ لمبی کر دے کہ کوئی آدمی اسے دیکھ رہا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن جس آدمی کا سب سے پہلے فیصلہ ہوگا یہ وہ شخص ہوگا جو شہید ہوا تھا اسے لایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کی پہچان کرائے گا وہ پہچان لے گا (اعتراف کرے گا) اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے ان میں کیا عمل کیا۔ وہ کہے گا میں تیرے راستے میں لڑا حتیٰ کہ شہید ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا بلکہ تو اس لیے لڑا کہ تجھے بہادر کہا جائے چنانچہ تجھے کہا گیا ہے پھر اس کے بارے میں حکم دیا جائے گا اور اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جائے گا۔ ایک شخص وہ ہوگا جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا اور پڑھا۔ اسے لاکر نعمتیں یاد دلانی جائیں گی۔ وہ انہیں معلوم کر لے گا اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے اس میں کیا عمل کیا۔ وہ عرض کرے گا میں نے علم حاصل کیا دوسروں کو سکھایا اور تیری راہ میں قرآن پڑھا اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا تو نے تو صرف اس لیے علم حاصل کیا کہ تجھے عالم کہا جائے۔ اور قرآن پڑھا تا کہ تجھے قاری کہا جائے پھر حکم الہی سے اسے گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جائے گا ایک شخص وہ ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ نے فراخی عطا فرمائی اور طرح طرح کا مال دیا۔ اسے لایا جائے گا اللہ تعالیٰ اسے (عطا کی گئی) نعمتیں یاد دلانے گا۔ وہ معلوم کر لے گا اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے ان میں کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا جس جگہ مال کا خرچ کرنا تجھے پسند ہے میں نے تیری رضا کیلئے ایسی ہر جگہ پر خرچ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا بلکہ تیرا مطلب یہ تھا کہ تجھے سخی کہا جائے۔ پھر اس کے بارے میں حکم دیا جائے گا کہ اسے

گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا دیا جائے۔ (مسلم)

۲۵۔ ظلم

ظلم کا مطلب ناجائز سختی اور زیادتی کرنا ہے۔ اسلام نے مخلوق خدا کے ساتھ ظلم کی بجائے رحم کا درس دیا ہے۔ ظالم دوسرے پر بلا وجہ سختی کرتا ہے اور اس کی حق تلفی کرتا ہے اس لیے اس سے منع کیا گیا ہے اور اسے گناہ کبیرہ قرار دیا گیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والے کو بالکل پسند نہیں کرتا اور نہ ہی ظالموں کو نجات دے گا۔ قیامت کے روز ظالموں کا نہ تو کوئی دوست ہوگا اور نہ ہی کوئی مددگار۔

صابروں کو آزمانے کیلئے اللہ تعالیٰ ظالموں کو ڈھیل دے دیتا ہے مگر جب کسی کا ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے تو اللہ اسے فوراً اپنی گرفت میں لے لیتا ہے اور اسے میست و نابود کر دیتا ہے گویا کہ ظلم کرنے والوں کیلئے دنیا میں بھی ہلاکت اور بربادی ہے اور آخرت میں بھی ان کیلئے دردناک عذاب ہے اس لیے ظلم سے ہر ممکن طریقے سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حضور صلی نے اس گناہ کبیرہ سے بچنے کیلئے بہت تاکید کی ہے ظلم کی مذمت کے متعلق آپ کے کچھ ارشادات حسب ذیل ہیں:

حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”ظلم قیامت کے روز اندھیرا ہوگا۔“ (مسلم شریف)

حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ نبی کریمؐ جب حجر کے پاس سے گزرے تو فرمایا نہ داخل ہونا ان لوگوں کے گھروں میں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ مبادا تمہیں بھی وہی عذاب پہنچے جو انہیں پہنچا تھا۔ پھر آپ نے سر کو جھکا لیا تیری سے چلنے لگے اور وادی سے گزر گئے۔ (بخاری)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے بھائی پر ظلم کیا ہو آبروریزی کر کے یا کسی اور طرح تو اس روز سے پہلے اس سے معاف کرا لے جبکہ اس کے پاس دینار ہوگا نہ درہم۔ اگر اس کے پاس نیک اعمال ہوئے تو اس ظلم کے برابر اس سے لے لیے جائیں گے اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہوئیں تو مظلوم کے گناہ لے کر اس پر ڈال دیے جائیں گے۔ (بخاری)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ عرض گزار ہوئے کہ ہم میں سے مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم و دینار اور مال و

متاع نہ ہو پھر فرمایا ”میری امت میں سے مفلس وہ ہے جو قیامت کے روز نماز، روزے اور زکوٰۃ کے ساتھ آئے گا۔ لیکن اس کو گالی دی ہوگی، اس پر تہمت لگائی ہوگی، اس کا مال کھایا ہوگا اس کا خون بہایا ہوگا اور اس کو پینا ہوگا۔ پس اس کی نیکیوں میں سے اسے اور اسے دی جائیں گی اگر اس کی نیکیاں سب کے حقوق پورے ہونے سے پہلے ختم ہو گئیں تو باقی لوگوں کے گناہ لے کر اس پر ڈال دیے جائیں گے۔ پھر اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔“ (مسلم)

حضرت ابو موسیٰؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہؐ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا ہے یہاں تک کہ جب پکڑتا ہے تو چھوڑتا نہیں۔ پھر یہ آیت تلاوت کی جس کا ترجمہ ہے ”تمہارے رب کی پکڑ اسی طرح کی ہے جبکہ اس نے بستی والوں کو پکڑا اور وہ ظالم تھے۔“ (مسلم)

حضرت اسماء بنت عمیسؓ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہؐ کو فرماتے ہوئے سنا ”ابندہ وہ بندہ ہے جو اپنے آپ کو اونچا سمجھے، اکڑ دکھائے اور خدائے بزرگ و برتر کو بھول جائے، بُرا بندہ وہ بندہ ہے جو ظلم و زیادتی کرے اور خدائے جبار و اعلیٰ کو بھول جائے۔ لہو و لعب میں پھنسا رہے اور قبروں کو اور گل جانے کو بھول جائے۔ بُرا بندہ وہ بندہ ہے جو غرور کرے اور حد سے بڑھ جائے اور اپنی ابتداء و انتہا کو بھول جائے۔ بُرا بندہ وہ ہے جو دنیا کو دین کے ذریعے دھوکا دے۔ بُرا بندہ وہ ہے جو دین کو شبہات سے بگاڑے۔ بُرا بندہ وہ ہے جس کو طمع کھینچتی پھرے۔ بُرا بندہ وہ ہے جس کو نفسانی خواہش گمراہ کرے۔ بُرا بندہ وہ ہے جس کو خواہشات ذلیل کر دیں۔ (ترمذی)

حضرت عائشہ صدیقہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہؐ نے فرمایا گناہوں کے دفتر تین قسم کے ہیں۔ ایک دفتر والوں کو نہیں بخشے گا۔ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہے بیشک اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے (۴: ۴۸)

دوسرے دفتر والوں کو اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑے گا جنہوں نے بندوں پر ظلم کیا ہوگا یہاں تک کہ ایک کا دوسرے سے بدلہ لیا جائے گا۔ تیسرا جس کی اللہ تعالیٰ کو پروا نہیں کہ وہ بندوں کا ظلم ہے اور وہ بندوں اور اللہ کے درمیان ہے پس یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی پر ہے کہ چاہے اسے عذاب دے اور چاہے تو اس سے درگزر کرے۔ (بیہقی)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک آدمی کو کہتے ہوئے سنا۔ ظالم نہیں نقصان کرتا مگر اپنی جان کا۔ حضرت ابو ہریرہؓ نے فرمایا کیوں نہیں خدا کی قسم! ظالم کے ظلم کے باعث تو بیریں بھی اپنے گھوسلوں میں دبی ہو کر مرنے لگی ہیں۔ (بیہقی)

حضرت علیؑ سے روایت ہے کہ رسول اللہؐ نے فرمایا۔ مظلوم کی بددعا سے بچو کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنا حق مانگتا ہے اور اللہ تعالیٰ کسی حقدار کو اس کا حق لینے سے نہیں روکتا۔ (بیہقی)

حضرت اوس بن شریکؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جو ظالم کے ساتھ اسے تقویت دینے کیلئے اور یہ جانتے ہوئے کہ وہ ظالم ہے تو اسلام سے نکل گیا۔ (بیہقی)

حضرت ابن مسعودؓ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی۔ ”جو ایمان لائے اور وہ اپنے ایمانوں میں ظلم کو نہیں ملاتے۔“ (۸۲:۶) تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحابؓ اس پر بہت شپٹائے اور عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ! ہم میں سے کون ہے جو اپنی جان پر ظلم نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بات یوں نہیں ہے۔ کیا تم لقمان کا قول نہیں سنتے کہ اپنے بیٹے سے کہا: اے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کر۔ بیشک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ (۱۳:۳۱) اور اس روایت میں وہ بات نہیں جو تمہارا خیال ہے بلکہ وہ بات ہے جو لقمان نے اپنے بیٹے سے کہی تھی۔ (متفق علیہ)

۲۶۔ غیبت

کسی کو غائبانہ طور پر بُرا کہنا جبکہ اس میں بُرائی نہ ہو غیبت کہلاتی ہے ایسے ہی کسی کی پیٹھ پیچھے بُرائی یا عیب بیان کرنا غیبت ہے۔ یہ عادت اچھی نہیں کیونکہ ایسا کرنے سے دلوں میں بغض اور کینہ جنم لیتا ہے۔ پروردگار عالم غیبت سے سختی سے منع فرماتا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ”ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو۔ کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے تو یہ تمہیں گورانہ ہوگا“ اس کا مطلب یہ ہے کہ خاندان، حسب نسب لباس، رہائش، اقوال و افعال، چال ڈھال، گفتگو غرضیکہ انسان میں ظاہری یا باطنی طور پر عیب نکالنا جس سے انسان کو دلی دکھ ہو غیبت کے زمرے میں شامل ہے اس لیے غیبت کے گناہ سے ہر مسلمان مرد عورت اور چھوٹے بڑے کو بچنا چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت سے بچنے کے لیے مختلف انداز میں بہت تاکید فرمائی ہے۔

حضرت زینقہؓ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ”چغزل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔“ (مسلم)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے

ہو کہ غیبت کیا ہے؟ لوگ عرض گزار ہوئے کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا ”اپنے بھائی کا ایسا ذکر کرنا جو اسے ناپسند ہو۔“ عرض کی گئی کہ اگر وہ بُرائی میرے بھائی میں موجود ہو جو میں کہہ رہا ہوں؟ فرمایا ”جو تم کہہ رہے ہو اگر اس میں وہ بُرائی ہے تو غیبت ہوئی اور جو تم کہہ رہے ہو اگر وہ اس میں نہیں تو یہ اس پر بہتان ہے۔“ (مسلم)

حضرت ابو ہریرہؓ سے ایک اور روایت میں ہے کہ جب تم اپنے بھائی کی وہ بات کہو جو اس میں ہے تو تم نے اس کی غیبت کی اور جب وہ بات کہی جو اس میں نہیں تو تم نے اس پر بہتان باندھا۔ (مسلم)

حضرت عبدالرحمن بن غنم اور حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”اللہ کے بندوں میں سے بہترین وہ ہیں کہ جب انہیں دیکھا جائے تو اللہ یاد آجائے۔ اور اللہ کے بندوں میں سے بُرے وہ ہیں جو چغلی کے لیے چلنے والے دوستوں میں جدائی ڈالنے والے اور پاکباز لوگوں کے عیبوب ڈھونڈنے والے ہیں۔“ (بیہقی)

حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ دو آدمیوں نے ظہر یا عصر کی نماز پڑھی اور دونوں روزہ دار تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا ”اپنا وضو اور اپنی نماز دہراؤ اور اپنے اس روزے کے بدلے کسی اور دن کا روزہ رکھنا۔“ عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ یہ کیوں؟ فرمایا کہ ”تم نے فلاں کی غیبت کی ہے۔“ (بیہقی)

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا غیبت کا کفارہ یہ ہے کہ جس کی غیبت کی ہے اس کے لیے استغفار کرے اور کہے کہ اللہ! ہمیں اور اسے بخش دے۔ (بیہقی)

حضرت ابو سعید اور حضرت جابر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا غیبت زنا سے بھی سخت ہے لوگ عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ غیبت زنا سے سخت تر کس طرح ہے؟ فرمایا کہ زانی اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے لیکن غیبت کرنے والے کو معاف نہیں کیا جاتا جب تک وہ معاف نہ کرے جس کی غیبت کی ہے۔ (بیہقی)

۲۷۔ بخل

مال اور وسائل کے ہوتے ہوئے ضرورت کے مطابق نہ خرچ کرنا بخل ہے اور بخیل وہ شخص ہوتا ہے جو مال کو جمع کرتا جاتا ہے مگر خرچ نہیں کرتا۔ بخل بہت بڑی اخلاقی بُرائی ہے کیونکہ اس سے اور بُرائیاں جنم لیتی ہیں۔ بعض عذاب بدو پانچ اور تک نظری جیسی بُرائیاں اس وجہ سے پیدا

ہوتی ہیں۔ اور خاص کر جو حقوق اس کے ذمے واجب الادا ہوتے ہیں وہ انھیں بھی ادا نہیں کرتا اور دولت کو جمع رکھتا ہے۔ قیامت کے روز وہی دولت اس کے لیے عذاب کا باعث بنے گی۔ کیونکہ ارشاد الہی ہے کہ جو لوگ بخل کرتے ہیں اس چیز سے جو اللہ نے انھیں دی ہے ہرگز وہ اپنے لیے اسے اچھا نہ سمجھیں۔ عنقریب ان کے گلے میں طوق پہنایا جائے گا اس چیز سے جو انھوں نے بخل کے ذریعے جمع کی ہوگی۔“ (آل عمران)

بخیل اللہ کے نزدیک بدترین انسان ہے قاروان بڑا مالدار تھا لیکن بخیل ہونے کی وجہ سے زمیں میں دھنسا دیا گیا اور اس کا سارا مال تباہ و برباد ہو گیا بخیل انسان طرح طرح کی مصیبتوں میں پھنسا رہتا ہے۔ سب کچھ ہونے کے باوجود اسے اچھا کھانا پینا میسر نہیں آتا اس لیے ہر کوئی اسے ذلیل و خوار جانتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ ہر کسی کو بخل سے بچنے کی توفیق فرمائے۔ بخیل کی مذمت کے بارے میں حضور صلی اللہ کے ارشادات حسب ذیل ہیں :

حضرت ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخیل اور صدق کرنے والے کی مثال ان دو آدمیوں کی سی ہے جن کے جسم پر لوہے کی زرہیں ہیں۔ ان کے ہاتھ چھاتیوں اور گردنوں کے ساتھ باندھ دیے گئے پس صدقہ کرنے والا جب صدقہ کرتا ہے تو اس کے ہاتھ کھل جاتے ہیں اور بخیل جب صدقہ کا ارادہ کرتا ہے تو زرہ سکڑ جاتی ہے اور اس کے حلقے اپنی اپنی جگہ تک ہو جاتے ہیں۔ (بخاری شریف)

حضرت ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخیل شخص اللہ تعالیٰ سے قریب، جنت سے قریب اور لوگوں کے قریب اور دوزخ سے دور ہے جبکہ بخیل اللہ سے دور، جنت سے دور اور بندگان خدا سے دور ہے اور دوزخ سے قریب ہے حتیٰ جاہل اللہ کو عابد بخیل سے زیادہ محبوب ہے۔ (ترمذی)

حضرت ابو بکر صدیقؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں مکار بخیل اور احسان جتانے والے داخل نہ ہوں گے۔

حضرت ابو سعیدؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو خصلتیں ایک مرد مومن میں جمع نہیں ہوتی۔ بخل اور بد خلقی۔ (ترمذی)

حضرت ابن عباسؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے میں تمہیں لوگوں میں سے بدتر آدمی کا پتہ نہ دوں؟ لوگوں نے عرض کیا بتائیں تو آپ نے فرمایا جس سے اللہ کے نام پر کچھ مانگا جائے اور وہ اس کو نہ دے۔ (احمد)

حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ اس امت کے اگلے لوگ یقین اور زہد کی وجہ سے نجات پا جائیں گے اور اس کے امت کے پچھلے لوگ بخل اور حرص کی وجہ سے ہلاک ہونگے۔ (کنز العمال)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اکرمؐ نے فرمایا کہ جب بندے صبح کرتے ہیں تو دو فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک کہتا ہے کہ اے اللہ! اپنی راہ میں خرچ کرنے والے واس کا اجر فرما اور دوسرا کہتا ہے کہ اے اللہ! بخل کے مال کو تلف فرما دے۔ (بخاری)

۲۸۔ تکبر

دوسروں کو حقیر سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو سب سے بڑا اور انہی تصور کرنا تکبر ہے۔ سب سے بڑا اللہ تعالیٰ ہے کیونکہ یہ صرف اس کی خوبی ہے کہ وہ کبیر ہے۔ اس لیے انسان میں تکبر کا پایا جاتا شان کبر یائی کے منافی ہے اس لیے اسلام میں تکبر سے منع کیا گیا ہے۔ یہی جذبہ شیطان میں پیدا ہوا اور اس نے تکبر کی بنا پر حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا اس لیے یاد رکھو کہ تکبر شیطان و عسف ہے اور اسے اختیار کرنے سے انسان دین و دنیا میں ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔

سورہ نساء میں ارشاد الہی ہے کہ ”اللہ غرور کرنے والے اور تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا“ سورہ زمر میں ہے کہ ”کیا جہنم متکبروں کا ٹھکانا نہیں“ اس سے معلوم ہوا کہ تکبر بہت بُرا فعل ہے لہذا اسے ہر ممکن طریقے سے دور کر کے عاجزی اختیار کرنی چاہیے۔ تکبر کی خدمت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مندرجہ ذیل ہیں :

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہؐ نے فرمایا ”اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بڑائی میری چادر ہے اور عظمت میری ازار ہے۔ جو ان میں سے کوئی چیز مجھ سے چھینے گا تو اسے جہنم میں داخل کروں گا۔“ دوسری روایت میں ہے کہ اسے جہنم میں پھینک دوں گا۔ (مسلم)

حضرت عمرؓ نے فرمایا جب وہ منبر پر تھے۔ اس وقت تو شیخ اختیار فرمایا یہ تکبر میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو اللہ کے لیے تو شیخ اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم فرمادیتا ہے۔ وہ اگر فی نفس چھوٹا ہو لیکن لوگوں کی نگاہوں میں بڑا ہو جاتا ہے اور جو تکبر کرے تو اللہ تعالیٰ اسے فرمادیتا ہے۔ وہ لوگوں کی نگاہوں میں چھوٹا ہو جاتا ہے۔ اور جو کبھی کہے یہاں تک کہ وہ لوگوں کی نظر میں آتے اور تذکرے میں ذمیل ہوتا ہے۔ (بخاری)

حضرت حارث بن ہشامؓ نے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں

تمہیں اہل جنت کے بارے میں بتاؤں؟ ہر کمزور جس کو کمزور سمجھا جائے لیکن اگر وہ اللہ کے بھروسے پر قسم کھائے تو وہ اسے سچا کرے۔ کیا میں تمہیں جہنمیوں کے متعلق نہ بتاؤں؟ ہر بے زبان بدکار اور متکبر۔ (مسلم)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تین آدمی ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز کلام نہیں فرمائے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا۔ دوسری روایت میں ہے کہ ان کی طرف نظر نہیں فرمائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے یعنی بوڑھا زانی، جھوٹا بادشاہ اور مفلس متکبر۔ (مسلم)

حضرت عمرو بن شعیبؓ ان کے والد ان کے جد امجد سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ متکبرین کو آدمیوں کی شکل میں چیونٹیوں کی طرح قیامت کے روز جمع کیا جائے گا۔ ذلت ان پر ہر طرف سے چھائے گی اور انہیں جہنم کے اس قید خانے کی طرف ہانکا جائے گا۔ ان کے اوپر آگ ہی آگ ہوگی۔ وہ طیتہ النخال نامی جہنمیوں کی گندگیوں کا نچوڑ پلائے جائیں گے۔ (ترمذی)

حضرت سلمہ بن اکوعؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”آدمیٰ ابراہیمؑ کے ساتھ جاتا رہتا ہے یہاں تک کہ اسے متکبرین میں لکھ لیا جاتا ہے اور پھر ان کے انجام تک پہنچ جاتا ہے۔“ (ترمذی)

۲۹۔ لالچ

دنیا کی ہر چیز خصوصاً مال و دولت کو ضرورت سے بہت زیادہ حاصل کرنے کی خواہش رکھنے کو لالچ کہا جاتا ہے۔ کھانے پینے، رہائش، اہل و عیال غرضیکہ جتنی بھی اہم ضروریات ہیں ان کے لیے رزق حلال سے دولت حاصل کرنا لالچ نہیں۔ کیونکہ شریعت نے مال و دولت حاصل کرنے کی ایک حد مقرر کی ہے۔ اس حد کو بلائے طاق رکھ کر ہر وقت یہی تمنا کرتے رہنا کہ زیادہ سے زیادہ دولت حاصل لوں۔ یہ خواہش لالچ میں آئے گی۔ ایسا کرنا عاقبت کے لیے درست نہیں کیونکہ زیادہ لالچ انسان کو یاد الہی سے غافل کر دیتی ہے۔ حرص و لالچ انسان کو بے شمار مصائب میں مبتلا کرتا ہے کیونکہ لالچی شخص کسی مقام پر بھی مطمئن نہیں ہوتا۔ لالچ بے شمار گناہوں کا سرچشمہ ہے۔ اس لیے یہ بہت ہی بڑی خصلت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انداز میں لالچ کو تقویٰ کی حد تک کم کرنے کی ترغیب دی ہے۔

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے اور اس کی دو چیزیں جوان رہتی ہیں مال کی حرص اور عمر کی حرص۔ (بخاری شریف)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بوڑھے کا دل دو چیزوں میں ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ دنیا کی محبت اور لمبی عمر ہیں۔ (مسلم)

حضرت ابو سعید خدریؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے ایک لکڑی گاڑی اور دوسری لکڑی اس کے پہلو میں اور تیسری دور۔ فرمایا جانتے ہو یہ کیا ہے؟ لوگ عرض گزرا ہوئے کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ انسان ہے اور یہ انسان کی موت ہے یہ میرے خیال میں یہ امید ہے وہ امید کی طرف دوڑتا ہے لیکن امید سے پہلے موت آتی ہے۔ (شرح السنہ)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کا عذر ختم کر دیا جس کی موت ہٹادی یہاں تک کہ عمر ساٹھ سال تک پہنچ گئی۔ (بخاری)

حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آدمی کے لیے مال سے بھری ہوئی دو وادیاں ہوں تو تیسری تلاش کرے گا اور آدمی کے پیٹ کو نہیں بھرتی مگر مٹی اور توبہ کرنے والے کی اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرماتا ہے۔ (مسلم)

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ نبی کریمؐ نے فرمایا یہ آدمی ہے اور یہ اس کی موت ہے "پھر دست مبارک کو گدی کے پاس رکھا پھر دراز کیا اور فرمایا یہ اس کی امید ہے۔" (ترمذی)

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ نبی کریمؐ نے خطوط کھینچے اور فرمایا "یہ امید ہے اور یہ اس کی موت ہے۔ آدمی اس حالت میں ہوتا ہے کہ اسے قریب والا خط آلیتا ہے۔" (بخاری)

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "وہ چکنی اور پھسلا دینے والی وہ چیز ہے کہ جس پر علماء کے قدم ٹھہر نہیں سکتے وہ لالچ ہے۔" (کنز العمال)

حضرت ابوامامہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرتبے کے لحاظ سے قیامت کے روز سب انسانوں سے بدتر وہ بندہ ہوگا جس نے دنیا کی خاطر اپنی عاقبت برباد کر لی۔ (ابن ماجہ)

لالچ کا علاج صبر اور قناعت ہے یعنی جو کچھ کمانے سے میسر آ جائے اس پر اللہ کا شکر ادا کرے کیونکہ اللہ کے بندوں نے ہمیشہ قناعت ہی سے کام لیا ہے اور لالچ کو اللہ کی رضا کے تابع کیا ہے اگر کوئی انسان اس ارشاد کے مطابق یہ سوچ پیدا کرے کہ انسان جب ماں کے پیٹ میں

رہتا ہے اس وقت فرشتہ خدا کے حکم سے انسان کی چار چیزیں لکھ دیتا ہے۔ انسان کی عمر، انسان کی روزی، انسان کی نیک نصیبی، انسان کی بے نصیبی، یہی انسان کا نوشتہ تقدیر ہے۔ لاکھ سو مارو ملے گا جو تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے۔ اس کے بعد یہ سمجھ کر کہ خدا کی رضا اور اس کی عطا پر راضی ہو جاؤ اور یہ کہہ کر لالچ کے قلعے کو ڈھا دو کہ جو میری تقدیر میں تھا وہ مجھے ملا اور جو میری تقدیر میں ہر گاہ ہوا آئندہ ملے گا اور اگر کچھ کمی کی وجہ سے قلب میں تکلیف ہو اور نفس ادھر ادھر لپکے تو صبر کر کے نفس کی لگام کھینچ لو۔ اس طرح رفتہ رفتہ قلب میں قناعت پیدا ہو جائے گی۔ اور لالچ شرعی حد تک محدود ہو جائے گا۔

۳۰۔ دھوکہ بازی

دھوکہ اور فریب سے دوسرے کا حق تلف ہوتا ہے اس لیے اسلام میں دھوکہ بازی کو قطعاً حرام اور گناہ کبیرہ قرار دیا ہے جس کی سزا جہنم کا عذاب عظیم ہوگا۔ اصلی چیز کو نقلی کے ساتھ ملا کر فروخت کرنا اسلامی اقدار کے بالکل منافی ہے۔ دھوکہ اور فریب بھی ایک طرح کا جھوٹ ہی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ”سچ کو جھوٹ سے نہ ملاؤ اور جان بوجھ کر حق کو نہ چھپاؤ۔“ (بقرہ) مزید ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو۔ تم آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ۔ غرض کہ دھوکہ بازی سے کسی چیز کا حاصل کرنا سخت گناہ ہے اس لیے زندگی کے کسی شعبے میں بھی دھوکے کا راست اختیار نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی مول لینا کہاں کی دانش مندی ہے۔ دھوکہ بازی سراسر اللہ کو ناراض کرنے والا فعل ہے اس لیے ہر ممکن کوشش کر کے دھوکہ بازی سے اجتناب کرنا چاہیے۔

حضرت ابن مسعود سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو ہمارے ساتھ دھوکہ بازی کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے اور مکر و دھوکہ بازی جہنم میں سے ہے۔ (کنز العمال)

امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیقؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا۔ تین شخص جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ ۱۔ دھوکہ باز، ۲۔ بخیل، ۳۔ احسان جتانے والا۔ (کنز العمال)

امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیقؓ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان کو ضرر پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ ضرور اس کو ضرر پہنچائے گا اور جو مسلمانوں کو مشقت میں ڈالے اللہ تعالیٰ اس کو مشقت میں ڈالے گا۔ (کنز العمال)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "مسلمان عزیز و محترم ہے مگر فاسق اور دھوکہ باز مکار اور بد بخت ہے"۔ (اخلاق محمدیہ)

حضرت ابو ہریرہؓ کا بیان ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کسی کی بیوی یا غلام کو (دھوکہ دیا اور) خراب کیا وہ ہم میں سے نہیں۔ (ابوداؤد)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول کریمؐ نے فرمایا "جس نے ہم پر ہتھیارا اٹھایا وہ ہم میں سے نہیں اور جس نے ہمیں دھوکہ دیا وہ بھی ہم میں سے نہیں۔" (ابوداؤد)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اکرمؐ غلہ کے ایک ڈھیر کے پاس سے گزرے تو اپنا ہاتھ اس میں ڈالا آپؐ کی انگلیاں تر ہو گئیں۔ آپؐ نے فرمایا "اے غلہ والے یہ کیا ہے؟" اس نے عرض کیا یا رسول اللہ! اس پر بارش ہو گئی ہے۔ آپؐ نے فرمایا "تو نے اسے غلہ کے اوپر کیوں نہیں کیا تا کہ لوگ اسے دیکھتے جس نے ہمیں دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔" (مسلم شریف)

حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوکہ بازی سے منع فرمایا۔ (بخاری شریف)

حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے بارگاہ نبویؐ میں عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے خرید و فروخت میں دھوکہ دیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے سوہا کروا سے کہہ دو کہ دھوکہ بازی نہ ہو۔ (مسلم شریف)

۳۱۔ مذمت لغت

لعنت کا مطلب اللہ کی رحمت سے دوری ہے اس لیے جو شخص کسی دوسرے پر لعنت کرتا ہے تو گویا کہ وہ ایک خانقہ سے دوسرے کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری کی بددعا کرتا ہے اور دوسروں کے لیے بددعا کرتا تو اچھا نہیں اس لیے دوسروں پر لعن طعن کرنے سے منع کیا گیا ہے کیونکہ جس کے اوپر لعنت کی جاتی ہے اسے اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے اور لعنت کرنے والے پر لعنت کی جاتی ہے۔ جس سے لعنت کرنے والا اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا تو اسی طرح لعنت کرنے والا کسی نہ کسی صورت میں نقصان میں ہی طرف جاتا ہے اس لیے دوسروں کو لعنت کرنے سے منع کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد ہے شمار میں لعنت کرنے کی مذمت کی گئی ہے تا کہ لوگ اس لعنت سے اجتناب کریں۔

حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ ایک آدمی کی چادر آڑائی تو اس نے ہوا

پر لعنت کی۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ اس پر لعنت نہ کرو کیونکہ یہ تو حکم کی پابند ہے۔ اور جو کسی چیز پر لعنت کرے اور وہ اس کی مستحق نہ ہو تو لعنت اس پر لوٹتی ہے۔ (ترمذی، ابوداؤد)

حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سچے کے لیے مناسب نہیں کہ بہت لعنت کرنے والا بنے۔ (مسلم)

حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا مومن لعنت کرنے والا نہیں ہوتا۔ ایک اور روایت ہے ”مومن کے لیے مناسب نہیں کہ وہ لعنت کرنے والا بنے“۔ (ترمذی)

حضرت ابوداؤدؓ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا بہت لعنت کرنے والا قیامت کے روز نہ گواہ ہوں گے اور نہ شفاعت کرنے والے۔ (مسلم)

حضرت سمرہ بن جندبؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی لعنت اور اس کے غضب کے ساتھ کسی پر لعنت نہ کیا کرو اور نہ جہنم کے ساتھ۔ ایک اور روایت میں ولا بالنار ہے۔ (ترمذی، ابوداؤد)

حضرت ابوداؤدؓ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب آدمی کسی چیز پر لعنت کرتا ہے تو لعنت آسمان کی طرف چڑھتی ہے تو اس کے سامنے آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ پھر وہ زمین کی طرف اترتی ہے تو اس کے دروازے بھی اس کے سامنے بند کر دیے جاتے ہیں۔ پھر وہ دائیں بائیں پھرتی ہے جب کوئی ٹھکانا نہیں پاتی تو اس شخص کی طرف لوٹتی جس پر یہ لعنت کی گئی تھی۔ اگر وہ اس کا اہل ہو تو اس پر پڑتی ہے ورنہ اپنے کہنے والے کی طرف لوٹتی ہے۔ (ابوداؤد)

حضرت عائشہ صدیقہؓ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکرؓ کے پاس سے گزرے جو اپنے کسی غلام کو لعنت ملامت کر رہے تھے ان کی جانب متوجہ ہو کر آپؐ نے فرمایا ”صدیق ہو کر لعنت ملامت کرنا خدا کی قسم یہ نہیں ہو سکتا۔“ پس اس روز حضرت ابو بکرؓ نے اپنے بعض غلام آزاد کر دے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہار گاہ میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوئے کہ آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ (بیہقی)

حضرت عائشہ صدیقہؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یہ پسند نہیں کہ کسی کی نقان اتاروں اگرچہ مجھے اتنا کچھ ملے۔ (ترمذی)

خالد بن معدان نے حضرت معاذؓ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے بھائی کو کسی گناہ کی وجہ سے ملامت کرے تو اس وقت تک وہ نہیں مریگا۔ جیسا کہ اس

گناہ کو کرنے لے جبکہ اس نے توبہ کر لی ہو۔ (ترمذی)

۳۲۔ بعض و کینہ

کسی کے خلاف دل میں انتقامی جذبہ رکھا جبکہ وہ تصور وار نہ ہو۔ بغض اور کینہ کہلاتا ہے۔ ایسے ہی کسی دشمنی اور عداوت کا دل میں دیر پا رکھنا بھی بغض وہ کینہ کہلاتا ہے بغض اور کینہ ایسی بد اخلاقی بیماری ہے کہ اس سے دین اور ایمان خراب ہو جاتا ہے اور نیکی برباد ہو جاتی ہے۔ بغض اور کینے سے دل کی پاکیزگی قائم نہیں ہوتی جس سے نیک اعمال میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے اس لیے اللہ سے دعا مانگنی چاہئے کہ اللہ تعالیٰ دل کو بغض سے پاک رکھے اور خود پروردگار عالم نے فرمایا ہے کہ ”اے مومنو! یوں مجھ سے دعا مانگو کہ اے ہمارے پروردگار! ہم کو اور ہمارے بھائیوں کو جو ہم سے پہلے صاحب ایمان ہوئے معاف کر اور ہمارے دلوں میں بغض اور کینہ پیدا نہ ہونے دے اے ہمارے رب بیشک تو نرمی والا ہے“ (سورہ حشر) حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بُرائی سے بچنے کی تاکید فرمائی ہے۔

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے دروازے پیر اور جمعرات کے روز کھولے جاتے ہیں پس ہر ایک آدمی کو بخش دیا جاتا ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے ماسوائے اس شخص کے جس کا اپنے بھائی کے ساتھ کینہ ہو۔ کہا جاتا ہے کہ ان دونوں کو صلح کرنے تک رہنے دو۔

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کے اعمال ہر ہفتے میں دو دفعہ پیش کیے جاتے ہیں یعنی پیر اور جمعرات کے روز پس ہر مومن بندے کو بخش دیا جاتا ہے ماسوائے اس آدمی کے جس کا اپنے بھائی کے ساتھ کینہ ہو پس کہا جاتا ہے ان دونوں کو چھوڑ دو یہاں تک کہ مل جائیں۔ (مسلم شریف)

حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”شب بُرات میں اللہ تعالیٰ تمام بخشش مانگنے والوں کی مغفرت فرمادیتا ہے۔ اور رحمت طلب کرنے والوں پر رحمت نازل فرمادیتا ہے لیکن کینہ رکھنے والے کے معاملہ کو موخر اور ملتوی فرمادیتا ہے۔“ (کنز العمال)

حضرت واثلہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا اپنے بھائی کو مصیبت میں مبتلا دیکھ کر خوشی کا اظہار نہ کرو مبادا اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے اور تمہیں مبتلا کر دے۔ (ترمذی شریف)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اپنے بھائی کو تین دن سے زیادہ چھوڑے۔ جس نے تین دن سے زیادہ چھوڑا اور مر گیا تو جہنم میں داخل ہوا۔ (احمد، ابوداؤد)

حضرت ابو خراش سلمیؓ سے روایت ہے کہ انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا 'جس نے اپنے بھائی کو سال بھر چھوڑے رکھا تو یہ اس کا خون بہانے کی طرح ہے۔' (احمد، ابوداؤد)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ دوسرے مومن کو تین دن سے زیادہ چھوڑے رہے اگر تین دن گزر جائیں اور اس سے ملاقات ہو تو سلام کرے۔ اگر وہ جواب دے تو ثواب میں دونوں شریک ہو گئے اور اگر جواب نہ دے تو وہ گناہ لے کر لوٹا اور یہ مسلمان چھوڑنے کے گناہ سے نکل گیا۔ (ابوداؤد)

حضرت عائشہ صدیقہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے مناسب نہیں کہ تین دن سے زیادہ دوسرے مسلمان کو چھوڑے رہے جب اسے ملے تو تین دفعہ تک سلام کرے اگر وہ ہر دفعہ جواب نہ دے تو گناہ لے کر لوٹا۔ (ابوداؤد)

۳۳۔ عیب جوئی

دوسروں کی بُرائیوں کی تلاش کرنے کی عیب جوئی کہا جاتا ہے۔ بہت بڑی عادت ہے اکثر دیکھا گیا ہے کہ بد اعتمادی کے نتیجے میں باطنی طور پر آدمی بدگمانی میں مبتلا ہو جاتا ہے اور ظاہری طور تجسس کرنے لگتا ہے لیکن اسلام معاشرہ کے ظاہر اور باطن دونوں کو پاک صاف رکھنا چاہتا ہے۔ اس لیے بدگمانی کی ممانعت کے ساتھ تجسس کی بھی ممانعت کر دی گئی ہے اکثر ایک چیز دوسری کا سبب بنتی ہے۔

لوگوں کی حرمت کو تجسس کے ذریعے زائل کرنا اور ان کی مخفی باتوں کے پیچھے پڑنا ہرگز جائز نہیں اگرچہ وہ ذاتی طور پر گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ جب تک وہ اسے چھپاتے رہیں۔ اور کھلے بندوں گناہ کا ارتکاب نہ کریں۔

حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدگمانی سے بچو کیونکہ بدگمانی نہایت جھوٹی بات ہے 'نہ عیب تلاش کرو نہ جاسوسی کرو نہ حرص کرو اور نہ ایک دوسرے سے حسد کرو نہ باہم بغض رکھو اور نہ دشمنی کرو۔ اللہ کے بندو! بھائی بھائی بن جاؤ جیسا کہ

اس نے تم کو حکم دیا ہے مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ نہ اس پر ظلم کرے اور نہ اسے ذلیل و رسوا کرے۔ سینہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے (دو مرتبہ) فرمایا ”تقویٰ یہاں ہے کسی انسان کے لیے اتنی بڑائی ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے۔ ہر مسلمان کا خون اس کی عزت اور مال دوسرے مسلمان پر حرام ہے اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں، صورتوں اور اعمال کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے۔“ ایک روایت میں ہے نہ ایک دوسرے سے حسد کرو نہ بغض رکھو نہ جاسوسی کرو نہ عیب جوئی کرو اور نہ دھوکہ دو۔ اللہ کے بندو! بھائی بھائی بن جاؤ۔ ایک روایت میں ہے نہ قطع تعلق کرو نہ ایک دوسرے سے دشمنی رکھو نہ بغض رکھو اور نہ ایک دوسرے سے حسد کرو۔ اللہ کے بندو! بھائی بھائی بن جاؤ۔ ایک روایت میں ہے ایک دوسرے کو نہ چھوڑو اور تم میں سے کوئی دوسرے بھائی کے سودے پر سودا نہ کرے۔ (مسلم شریف)

حضرت معاویہؓ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اگر تو مسلمان کی عیب جوئی کرے گا تو ان کو فساد میں مبتلا کرے گا۔ اور فرمایا قریب ہے کہ تو ان کو فساد میں مبتلا کرے۔ (ابوداؤد)

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ فرماتے ہیں ان کے پاس ایک آدمی لایا گیا اس کے بارے میں بتایا گیا یہ فلاں شخص ہے جس کی داڑھی سے شراب کے قطرے گر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہم کو بھس مٹے منع کیا گیا ہے البتہ کوئی بات اگر ہمارے سامنے ظاہر ہو جائے تو ہم گرفت کریں گے۔ (ابوداؤد)

۳۴۔ خیانت

امانت میں خیانت بھی ایک بُرا اخلاقی جرم ہے بغیر مالک کی اجازت کے کسی کی چیز کو اپنے تصرف میں لے آنا خیانت ہے یہ بھی ایک طرح کی چوری ہے کیونکہ جو حق واجب الادابو سے ایمانداری سے ادا کرنا خیانت ہے ایسے ہی ہر حقہ ارکان حق ادا نہ کرنا خیانت ہے ایسے ہی میاں کے ذمے جو حقوق بیوی سے متعلق واجب الادابو تھے ہیں ان کا غلط استعمال خیانت ہے۔ خیانت جسم کے ہر عضو سے ہو سکتی ہے۔ لہذا اول۔ زبان ہاتھ پاؤں کو احکام الہی کے خلاف استعمال کرنا بھی خیانت ہے۔ کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ تمہاری آنکھوں کی خیانت اور سینے میں چھپے ہوئے راز کو جانتا ہے۔ (المومن) ایک اور مقام پر ارشاد ہوا کہ اے ایمان والو اللہ! اور اس کے رسول کی خیانت نہ کرو اور نہ آپ کی امانتوں میں جان بوجھ کر خیانت کرو۔ (الانفال) اللہ کے

حبیب کی خیانت یہ ہے کہ جو فریضہ مسلمانوں کے ذمے لگایا گیا ہے اسے صحیح طریقے سے ادا نہ کیا جائے گویا کہ خیانت کی خواہ کوئی صورت ہو وہ نہایت ہی بڑی ہے۔ اس لیے خیانت سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔

حضرت ابو امامہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ مومن ہر قسم کی خصلتوں پر پیدا کیا جاتا ہے ماسوائے خیانت اور جھوٹ کے۔ (احمد بیہقی)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی تین نشانیاں ہیں۔ جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے جب وعدہ کرتا ہے تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے۔ (بخاری)

۳۵۔ بد گمانی

کسی کے بارے میں اچھا گمان نہ رکھنے کو بد گمانی کہا جاتا ہے۔ بغیر کسی تحقیق کے اپنے دل میں طرح طرح کے خیالات پیدا کرتے رہنا کوئی اچھی عادت نہیں۔ جہاں کہیں اشخاص کو دیکھا کہ وہ کوئی بات چیت کر رہے ہیں تو اپنے دل میں سوچ پیدا کر لینا کہ وہ میرے خلاف ہی کچھ کر رہے ہیں بد گمانی کے زمرے میں شمار ہوگا۔ یہ عادت بہت بری ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے گناہ قرار دیا ہے لہذا جب تک واضح دلیل سے کسی بات کا یقین نہ ہو جائے ہرگز ہرگز بے بنیاد گمان سے کوئی رائے قائم نہیں کرنی چاہیے کیونکہ حضورؐ نے بد گمانی سے منع فرمایا ہے۔

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بد گمانی سے بچ۔ کیونکہ بد گمانی سب سے جھوٹی بات ہے اور ایک دوسرے کی عیب جوئی نہ کرو۔ باتیں چھپ کر نہ سنو برتری نہ جتاؤ۔ حسد نہ کرو عداوت نہ رکھو اور پیٹھ پیچھے بُرائی نہ کرو اور اللہ کے بندو! آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ (بخاری شریف)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بد گمانی سے بچو کیونکہ بد گمانی سراسر جھوٹ ہے نہ جاسوسی کرو اور نہ کسی کو جاسوسی کرنے دو۔ (ابن ماجہ)

۳۶۔ مذمت جادو

اسلام میں جادو کرنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے اور اگر کسی منتر سے اسلام کی توجہ ہوتی ہو تو ایسا جادو کفر ہے کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ شیطانوں نے کفر کیا کہ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے

تھے۔ (بقرہ) اس سے معلوم ہوا کہ جادو کرنا، کروانا، سیکھنا اور سکھلانا سب حرام ہے لہذا جادو کے تعویذات اور عملیات کرنا سخت گناہ کبیرہ ہے اللہ ہر ایک کو ایسی بری حرکت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔

حضرت ابو ہریرہؓ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا ”سات مہلک چیزوں سے بچو“ صحابہ کرامؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! وہ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا ”کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک کرنا، جادو کرنا، اس نفس کو ناحق قتل کرنا جسے اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرایا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، لڑائی کے وقت بھاگ جانا، مومن پاکدامن غافل عورتوں پر تہمت لگانا“۔ (مسلم شریف)

عروہ بن زبیرؓ کا بیان ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہؓ نے فرمایا کہ نبی کریمؐ چند روز اسی حالت میں رہے کہ آپ کو خیال گزرتا کہ میں فلاں بیوی کے پاس سے آیا ہوں حالانکہ ان کے پاس سے نہ آئے ہوتے۔ حضرت عائشہؓ کا بیان ہے کہ ایک روز آپ نے مجھ سے فرمایا کہ اے عائشہ! جو بات میں پوچھنا چاہتا تھا وہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بتادی ہے یعنی میرے پاس دو آدمی آئے تو ان میں سے ایک میرے پیروں کے پاس بیٹھ گیا اور دوسرا میرے سر کے پاس۔ یعنی جو پیروں کے پاس تھا وہ اس سے کہنے لگا جو سر کے پاس تھا کہ اس آدمی کا کیا حال ہے؟ جواب دیا کہ اس پر جادو کیا گیا ہے۔ پوچھا کس نے جادو کیا ہے؟ کہا کہ لبید بن اعصم نے کیا ہے۔ پوچھا کہ کس چیز پر؟ جواب دیا کہ سر کے بالوں کو زکھجور کے چھلکے میں جو کنگھی اور کتان کے تار میں ہیں، انہیں ذروان کنویں میں ایک پتھر کے نیچے دبایا ہے پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس تشریف لے گئے تو آپ نے فرمایا کہ یہی کنواں ہے جو مجھے خواب میں دکھایا گیا ہے۔ اس کی کھجوریں ایسی ہیں جیسے شیطین کے سر اور اس کا پانی مہندی کے دھوون جیسا ہے۔ پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا تو وہ چیزیں نکال لی گئیں۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ میں عرض گزار ہوئی یا رسول اللہ! اس کے باوجود آپ نے اس بات کا چرچا کیوں نہیں فرمایا؟ پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا عطا فرمادی تو میں اسے ناپسند کرتا ہوں کہ لوگوں کی بُرائی کو شہرت دوں۔ حضرت صدیقہؓ فرماتی ہیں کہ لبید بن اعصم کا تعلق بنی زریق سے تھا جو یہودیوں کے حلیف تھے۔ (بخاری شریف)

حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے علم نجوم سیکھا اس نے جادو کا ایک حصہ سیکھا اسے جتنا زیادہ سیکھے گا اتنا ہی جادو کا علم بڑھے

گا۔ (ابوداؤد)

۳۷۔ دورخی

دورخا پن چغل خوری کی بدترین صورت ہے۔ دورنے پن کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص کو یہ کہنا کہ فلاں تمہارے خلاف ہے اور دوسری طرف دوسرے سے یہ کہنا کہ وہ تمہارے خلاف ہے اور یوں یوں کہتا ہے۔ اس طرح دو دوستوں میں بدگمانی پیدا کر کے ان میں لڑائی جھگڑا کروادینا ایسے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ایک شخص کے سامنے اگر آپ کی تعریف کر رہا ہے تو تھوڑی دیر کے بعد دوسرے کے سامنے بدتعریفی کرنے لگے گا۔ یہ ایک طرح کی منافقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا کرنے کو بہت بُرا فعل قرار دیا ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جب ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لے آئے ہیں اور جب خلوت میں شیطان صفت لوگوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ہم تو صرف مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے تھے۔ (البقرہ) غرضیکہ ایسے لوگ بہت خطرناک ہوتے ہیں اگر کسی شخص میں ایسی عادت ہو تو بھی اسے ترک کر دینا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دورخی کی بہت مذمت فرمائی ہے۔

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”تم قیامت میں سب سے بُرا دو منہ والے آدمی کو دیکھو گے جو ایک کے منہ پر کچھ کہتا ہے اور دوسرے کے منہ پر کچھ۔“ (مسلم)

حضرت عمارؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دنیا میں دو منہ والا ہو تو قیامت کے روز اس کی زبان آگ کی ہوگی۔ (دارمی)

حضرت عمارؓ سے ہی روایت ہے کہ رسول اکرمؐ نے فرمایا ہے کہ جس شخص میں دنیا میں دورخا پن ہوگا۔ قیامت کے دن اس کی دو زبانیں آگ کی ہوں گی۔ (ابوداؤد)

۳۸۔ مذمت فحش گوئی

زبان سے بُرے الفاظ یعنی گالی گلوچ کرنے کو فحش گوئی کہا جاتا ہے۔ فحش گوئی اچھے لوگوں کا کام نہیں کیونکہ گالی گلوچ شرعاً حرام اور گناہ ہے۔ بعض لوگ اسے بے تکلفی کی دلیل سمجھتے ہیں ان کا یہ خیال بالکل غلط ہے۔ فحش گوئی سے عام طور پر لڑائی جھگڑا جنم لیتا ہے اور بعض اوقات

خونریزی تک نوبت پہنچ جاتی ہے لہذا ایسی بُری عادت کو بالکل نہ اپنائیں۔ جو اپنے لئے اور دوسروں کیلئے نفرت پیدا کرنے کا ذریعہ بنے۔ اگر کوئی شخص فحش گوئی کرے تو اس کے جواب میں قطعاً گالی نہ دی جائے بلکہ صبر سے برداشت کرے اسے سمجھانے کی کوشش کی جائے کیونکہ اچھے لوگوں کی یہی علامت ہے کہ جب کوئی ان سے الجھنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے دامن کو بچا لیتے ہیں۔ فحش گوئی ہر حال میں بری ہے کیونکہ بد زبان دین و دنیا میں فحش گوئی کی بنا پر نیکیوں سے محروم رہتا ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہوئے انہیں اس بری عادت سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔

حضرت ابن مسعودؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”مومن طعنہ دینے والا لعنت کرنے والا فحش گو اور بے غیرت نہیں ہوتا“ (ترمذی) اور بیہوشی کی روایت میں فحش گو بے غیرت ہے۔

حضرت انسؓ اور حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا ”دو گالی گلو ج کرنے والوں میں مجرم پہل کرنے والا ہے۔ جب تک مظلوم زیادتی نہ کرے۔“ (مسلم)

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ”مسلمان دو گالی دینا فسق اور اسے قتل کرنا کفر ہے۔“ (بخاری شریف)

حضرت عائشہ صدیقہؓ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیٹھنے کی اجازت طلب کی۔ آپ نے فرمایا کہ اسے اجازت دے دو اور یہ خاندان کا نمبر آدمی ہے جب وہ بیٹھ گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خندہ پیشانی سے ملے اور کھل کر کلام فرمایا۔ جب وہ آدنی چلا گیا تو حضرت عائشہؓ عرض گزار ہوئیں۔ یا رسول اللہ! آپ نے تو ایسا فرمایا تھا پھر اس سے خندہ پیشانی سے ملے اور کھل کر کلام فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے مجھے فحش گوئیں کیا؟ بیشک قیامت میں مرتبے کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک آدمی وہ ہوگا جس کو اس کی برائی سے باعث لوگ چھوڑ دیں اور ایک روایت میں ہے کہ اس کی فحش گوئی سے باعث چھوڑ دیں۔ (مسلم شریف)

حضرت ابو ذرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کوئی آدمی دوسرے پر فسق یا لفرق نہ سمجھنے لگانے ورنہ اس پر لوقی ہے جبکہ اس کا ساتھی ایسا نہ ہو۔ (بخاری شریف)

۳۹۔ غصہ

شدت جذبات کے اظہار کا نام غصہ ہے۔ غصے کا جذبہ ہر انسان میں قدرتی طور پر موجود ہے مگر عام معمولات زندگی میں غصہ اچھی چیز نہیں۔ ایسے ہی بات بات پر غصہ کرنا اچھا نہیں۔ غصہ کرنے والا شخص بھائی چارے میں اچھا انسان ثابت نہیں ہوتا بلکہ غصے کی حالت میں بہت سے بنے ہوئے کام بھی بگڑ جاتے ہیں اور بعض اوقات تو غصہ ایمان پر بھی اثر انداز ہو جاتا ہے کیونکہ غصے کی حالت میں انسان اکثر اوقات اپنے آپ سے باہر ہو جاتا ہے اور عقل کے تقاضوں کو بھی پس پشت ڈال دیتا ہے اس طرح شیطان کو راہِ راست سے گمراہ کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ اس لیے غصہ کرنے سے منع فرمایا گیا ہے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بے پناہ مذمت کی ہے۔ تاکہ لوگ غصہ کو چھوڑ کر نرمی کا لہجہ اختیار کریں۔ کیونکہ نرمی سے جو بات بنتی ہے۔ وہ غصے سے نہیں بنتی۔

حضرت ابو ذرؓ سے روایت یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کسی کو غصہ آئے اور وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے۔ (اگر غصہ چلا جائے تو فبہا ورنہ لیٹ جائے) (ترمذی)

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے زبان کو روکا تو اللہ تعالیٰ اس کے عیوب پر پردہ ڈالے گا۔ جس نے غصہ کو روکا تو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس سے اپنے عذاب کو روک لے گا اور جس نے اللہ کیلئے عذر قبول کیا تو اللہ تعالیٰ اس کا عذر قبول فرمائے گا۔ (بیہقی)

حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بندے نے اللہ تعالیٰ کے نزدیک غصے کے گھونٹ سے افضل کوئی گھونٹ نہیں پیا۔ جس کو وہ رضائے الہی کے لیے پیئے۔ (احمد)

حضرت عطیہ بن عروہ سعدیؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "غصہ شیطان کی طرف سے ہے اور شیطان کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور پانی ہی آگ کو بجھاتا ہے لہذا جب تم میں کسی کو غصہ آئے تو وضو کر لیا کرے۔" (ابوداؤد)

بہز بن حکیم ان کے والد ماجد ان کے جد امجد سے روایت یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ ایمان کو ایسے خراب کر دیتا ہے جیسے ایلو اشہد کو خراب کر دیتا ہے۔ (بیہقی)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ

میں عرض گزار ہوا کہ مجھے وصیت فرمائیے۔ فرمایا کہ غصے میں نہ آیا کرو اور اسی کو بار بار دہرایا کہ غصے میں نہ آیا کرو۔ (بخاری)

سہل بن معاذ نے اپنے والد ماجد سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جو اپنے غصے کو پنی جائے حالانکہ وہ اس کے مطابق کرنے پر قدرت رکھتا ہو تو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اسے مخلوق کے سرداروں میں بلائے گا اور اسے اختیارات دے گا کہ جس حور کو چاہے پسند کر لے۔ (ترمذی ابوداؤد)

۴۰۔ مذمت خوشامد

کسی کی حد سے زیادہ تعریف کرنا جس کے لائق وہ نہ ہو۔ تاکہ تعریف کرنے والے سے کوئی کام نکالا جاسکے خوشامد کہلاتا ہے۔ خوشامد بھی ایک طرح کا جھوٹ ہے اس لیے یہ اخلاق کے تقاضے کے برعکس ہے کیونکہ بعض مرد اور عورتیں ایسی خوش فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ ان کی منہ پر تعریف کرنے سے وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک نفسیاتی مرض ہے جس سے بچنے کی بہت تاکید کی گئی ہے خوشامد کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ خوشامد کے ذریعے کسی نہ کسی طرح فائدہ حاصل کر لیا جائے اس سے دوسروں کی حق تلفی ہوگی اور دوسرے یہ کہ جس کی خوشامد کی جاتی ہے وہ احساس برتری کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس طرح خوشامد کرنے والا اور کروانے والا دونوں ہی اسلام کے اخلاقی تقاضے کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ جس سے دوسری بُرائیاں جنم لینے کا راستہ کھلتا ہے۔ اس لیے دوسرے کی حد سے زیادہ تعریف کرنے سے منع کیا گیا ہے اس کی مذمت کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات حسب ذیل ہیں:-

حضرت مقداد بن اسود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم بہت تعریف کرنے والوں کو دیکھو تو ان کے منہ میں مٹی ڈال دیا کرو۔ (مسلم شریف)

حضرت ابو بکر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک آدمی نے دوسرے کی تعریف کی۔ آپ نے تین دفعہ فرمایا۔ تم پر افسوس! تم نے اپنے بھائی کی گردن کاٹ دی۔ اگر تم میں سے کسی کو تعریف کرنی ہی پڑے تو کہے میں فلاں کو ایسا سمجھتا ہوں اور حساب لینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ جبکہ وہ اس کی نظر میں ایسا ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر کسی کی صفائی بیان نہ کرے۔ (بخاری شریف)

حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جب فاسق کی

تعریف کی جائے تو رب تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اور اس کا عرش بھی طے لگتا ہے۔ (بیہقی)
 حضرت عمرؓ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری ویسی تعریف
 کرو جیسا کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف میں مبالغہ کیا ہے۔ میں صرف ا
 کا بندہ اور رسول ہوں۔ (مشکوٰۃ شریف)

ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو دیکھا کہ ایک شخص نماز پڑھ
 ہے۔ آپؐ نے کسی سے پوچھا کہ یہ کون ہے تو اس نے اس کی بڑی مبالغہ آمیز تعریف شروع
 دی۔ تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو سنا کر مت کہو کہ اس طرح اس کو برباد ہی
 دو۔ (ادب المفرد)

کسب معاش

۱. تجارت

اشیاء کی خرید و فروخت کا نام تجارت ہے یہ نہایت ہی عمدہ پیشہ ہے اس کے ذریعے اسلامی معیشت کو بہت فروغ ملتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی میں اس کی یوں ترغیب دی گئی ہے۔

۱۔ **حدیث:** حضرت حذیفہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے زمانے کے ایک آدمی کے پاس فرشتہ اس کی روح قبض کرنے کیلئے آیا۔ اس سے کہا گیا کہ تو نے کوئی نیکی کی ہے؟ کہا میرے علم میں تو کوئی نہیں۔ کہا گیا کہ پھر غور کر، کہا کہ میرے علم میں ایسی کوئی چیز نہیں سوائے اس کے کہ میں لوگوں کے ساتھ تجارت کیا کرتا تھا تو مالدار آدمی کو ڈھیل دیتا اور تنگ دست سے درگزر کیا کرتا تھا پس اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میں داخل کر دیا۔ (مسلم شریف)

۲۔ **حدیث:** حضرت ابوسعیدؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ سچا اور امانتدار تاجر نبیوں، صدیقیوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ (ترمذی، دارمی)

۳۔ **حدیث:** حضرت ابو ہریرہؓ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قسم مال کے رواج کا باعث اور برکت کو مٹانے والی ہے۔ (بخاری شریف)

۴۔ **حدیث:** حضرت ابو ذرؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین شخص ایسے ہیں کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں فرمائے گا نہ ان کی طرف دیکھے گا نہ انہیں پاک کرے گا اور ان کیلئے دردناک عذاب ہے۔ حضرت ابو ذرؓ عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ! وہ محروم اور خسارہ پانے والے کون ہیں؟ فرمایا کہ ازار لٹکانے والا احسان جتانے والا اور جھوٹی قسم سے اپنے مال کو پھیلانے والا۔ (مسلم شریف)

۵۔ **حدیث:** حضرت قیس بن ابوزرہؓ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد

مبارک میں ہمیں ساسرہ کہا جاتا تھا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس سے گزرے تو آپ نے ہمارا اس سے اچھا نام لیتے ہوئے فرمایا اے تاجروں کے گروہ! تجارت فضول بات اور قسم کو بلا لیتی ہے تو تم اس میں صدقہ کو طایا لیا کرو۔ (ابوداؤد ترمذی)

۶۔ حدیث: حضرت ابو قتادہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجارت میں زیادہ قسم کھانے سے بچو کہ رواج ہو جاتا ہے پھر برکت کو ختم کر ڈالتی ہے۔ (مسلم شریف)

۷۔ حدیث: حضرت عبید بن رفاع نے اپنے والد ماجد سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تاجر قیامت کے روز نافرمان اٹھائے جائیں گے ماسوائے اس کے جس نے تقویٰ نیکی اور سچائی کو اختیار کیا۔ (ترمذی)

فروخت کرنے کو بیع کہا جاتا ہے مگر شرعی اصطلاح میں بیع سے مراد دو شخصوں کے درمیان مال کو زریا مال سے بدل لینا ہے۔ اسلامی تجارت کا تمام تر وار و مدار بیع پر ہے اس کے متعلق شرعی مسائل مندرجہ ذیل ہیں:

۱۔ مسئلہ: جب ایک شخص یہ کہے کہ فلاں چیز میں نے اتنی قیمت کے بدلے میں فروخت کر دی اور دوسرا یہ کہے کہ میں نے خرید لی تو یہ چیز بیع ہو گئی جس نے خریدی وہی اس کا مالک ہو گیا اب اگر فروخت کرنے والا یہ چاہے کہ میں فروخت نہ کروں تو یہ اسلامی معاہدہ کے خلاف ہوگا۔ فروخت کرنے والے کو چیز دینی پڑے گی اور لینے والے کو لینی پڑے گی۔ (جواہرہ نیرہ)

۲۔ مسئلہ: بیع کبھی قول سے ہوتی ہے اور کبھی فعل سے۔ اگر قول سے ہو تو اس کے ارکان ایجاب و قبول ہیں مثلاً ایک نے کہا میں نے بیچا دوسرے نے کہا میں نے خریدا اور فعل سے ہو تو چیز کا لینا اور دے دینا اس کے ارکان ہیں اور یہ فعل ایجاب و قبول کے قائم مقام ہو جاتا ہے۔ مثلاً ترکاری وغیرہ کی گڈیاں بنا کر اکثر بیچنے والے رکھ دیتے ہیں اور ظاہر کر دیتے ہیں کہ روپے روپے کی گڈی ہے۔ خریدار آتا ہے مقررہ قیمت دے دیتا ہے اور ایک گڈی اٹھا لیتا ہے۔ طرفین باہم کوئی بات نہیں کرتے مگر دونوں کے فعل ایجاب و قبول کے قائم مقام شمار ہوتے ہیں۔ شریعت میں اس قسم کی بیع کو بیع تعاطی کہتے ہیں۔

۳۔ مسئلہ: خریدنے اور بیچنے کے الفاظ کا کہنا ضروری نہیں اگر یہ مطلب کسی اور لفظ سے

بھی ادا ہوتا ہو تو تب بھی بیع ہو جائے گی یعنی اگر کوئی کسی سے دریافت کرے کہ یہ چیز کتنے کی دو گے؟ اس نے کہا اتنے کی اور جواب میں لینے والے نے کہا نہیں اتنے کی دے دو اور دینے والے نے اتنے دام قبول کر لیے تو بیع ہو جائے گی۔ (فتاویٰ عالمگیری)

۴۔ **مسئلہ:** اگر کوئی کسی چیز کی قیمت کر کے اتنی قیمت اس کے ہاتھ پر رکھے اور وہ چیز اٹھا لے اور اس نے خوشی سے وہ قیمت لے لی مگر نہ تو اس نے زبان سے کہا کہ میں نے اتنے داموں پر یہ چیز بیچی نہ اس نے کہا کہ میں نے خریدی تو اس طرح لین دین ہو جانے سے بھی چیز بک جاتی ہے اور بیع درست ہوگی۔ (در مختار)

۵۔ **مسئلہ:** جو چیز موجود ہی نہ ہو بلکہ اس کے موجود نہ ہونے کا اندیشہ ہو اس کی بیع نہیں ہو سکتی۔ مثلاً تھن میں جو دودھ ہے اس کی بیع جائز نہیں ہے کیونکہ ہو سکتا ہے اس میں سے دودھ نہ نکلے۔ (فتاویٰ عالمگیری)

۶۔ **مسئلہ:** جو چیز بیچی یا خریدی جائے اس کی قیمت صاف صاف اس طرح معلوم ہو کر نزاع اور جھگڑا نہ ہو اور اگر بات مجہول یعنی گول مول رہی کہ نزاع ہو سکتا ہے تو یہ بیع صحیح نہیں مثلاً اس ریوڑ میں سے ایک بکری بیچی اور یہ معلوم نہیں کہ کونسی بیچی یا کہا میں نے اس چیز کو واجی قیمت میں بیچا یا خریدار نے کہا کہ جو کچھ میری مٹھی میں ہے اس کے بدلے میں نے فلاں چیز خریدی اور معلوم نہیں کہ مٹھی میں ہے کیا تو یہ بیع درست نہ ہوئی۔ (بہار شریعت)

۷۔ **مسئلہ:** اگر کوئی بیچنے والا خریدنے والے سے یہ کہے کہ جاؤ یہ سامان لے جاؤ اگر پسند ہو تو اس کی اتنی قیمت دے دینا۔ لینے والا لے گیا اور اس نے لے جا کر چیز کو پسند کر لیا تو بیع صحیح ہو جائے گی۔ (در مختار)

۲۔ خیار یعنی اختیار

دو کاموں میں سے کسی اچھے کو پسند کرنے کو خیار کہا جاتا ہے۔ خرید و فروخت میں اس کی عام ضرورت پڑتی ہے۔ خیار سے مراد دراصل سوا طے کرنے کا اختیار ہے۔ اس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مندرجہ ذیل ہیں:

۱۔ **حدیث:** حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ بائع اور مشتری دونوں میں سے ہر ایک کو اپنے ساتھی پر اختیار ہے جب تک ایک دوسرے سے

جدانہ ہوں سوائے اختیار والی بیع کے۔ (بخاری شریف)

۲۔ حدیث: حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بائع اور مشتری نے سودا کر لیا تو ہر ایک کو ان دونوں سے اپنے سودے کا اختیار ہے جب تک جدانہ ہوں یا ان دونوں کا سودا اختیار والا ہو۔ جب ان کا سودا اختیار والا ہو تو اسی طرح واجب ہو گیا۔ (مسلم شریف)

۳۔ حدیث: حضرت حکیم بن حزامؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سودا کرنے والے دونوں کو اختیار ہے جب تک جدانہ ہوں۔ اگر دونوں نے سچائی اور صاف گوئی سے کام لیا تو ان کے سودے میں برکت ڈال دی جاتی ہے اور اگر انہوں نے چھپایا اور غلط بیانی کی تو ان کی تجارت سے برکت مٹا دی جاتی ہے۔ (بخاری شریف)

۴۔ حدیث: حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض گزار ہوا کہ تجارت میں مجھے دھوکا دیا جاتا ہے۔ فرمایا کہ جب تم سودا کرو تو کہہ دیا کرو دھوکا مناسب نہیں ہے پس وہ آدمی یہی کہہ دیا کرتا۔ (مسلم شریف)

۵۔ حدیث: حضرت عمر بن شعیبؓ کے والد ماجد نے ان کے جد امجد سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ بائع اور مشتری دونوں کو اختیار ہے جب تک جدا نہ ہوں مگر جب اختیار کی شرط کی ہو اور اس کیلئے جائز نہیں ہے کہ اپنے ساتھی سے اقالہ کے مطالبہ سے ڈرتا ہوا جدا ہو جائے۔ (ترمذی، ابوداؤد نسائی)

۶۔ حدیث: حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں جدانہ ہوں مگر رضامندی کے ساتھ۔ (ابوداؤد)

خيار سے متعلقہ شرعی مسائل مندرجہ ذیل ہیں:

۱۔ مسئلہ: بائع (بیچنے والا) اور مشتری (خریدنے والے) کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ قطعی طور پر بیع نہ کریں بلکہ عقد میں یعنی خرید و فروخت کے وقت یہ شرط کر دیں کہ اگر منظور نہ ہو یا چیز پسند نہ آئی تو بیع باقی نہ رہے گی۔ اسے خيار شرط کہتے ہیں اور اس کی ضرورت طرفین کو ہوا کرتی ہے کیونکہ کبھی بائع اپنی ناواقفیت سے کم داموں میں چیز بیچ دیتا ہے یا مشتری اپنی نادانی سے زیادہ داموں میں خرید لیتا ہے یا چیز کی اسے شناخت نہیں ہے۔ ضرورت ہے کہ دوسرے

سے مشورہ کر کے صحیح رائے قائم کرے اور اس وقت نہ خریدے تو چیز جاتی رہے گی یا بائع کو اندیشہ ہے کہ گاہک ہاتھ سے نکل جائے گا۔ ایسی صورت میں شرع مطہر نے دونوں کو یہ موقع دیا ہے کہ غور کر لیں۔ اگر نا منظور ہو تو خیاری کی بنا پر بیع کرنا منظور کر دیں۔ (بہار شریعت)

۲۔ **مسئلہ:** خیاری شرط بائع و مشتری دونوں اپنے اپنے لیے کریں یا صرف ایک کرے یا کسی اور کیلئے اس کی شرط کریں یہ سب صورتیں درست ہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عقد میں خیاری شرط کا ذکر نہ ہو مگر عقد کے بعد ایک نے دوسرے کو یا ہر ایک نے دوسرے کو یا کسی غیر کو خیاری دے دیا۔ عقد سے پہلے خیاری شرط نہیں ہو سکتا یعنی اگر پہلے خیاری کا ذکر آیا مگر عقد میں ذکر نہ آیا نہ بعد عقد اس کی شرط کی مثلاً بیع سے پہلے یہ کہہ دیا کہ جو بیع تم سے کروں گا اس میں میں نے تم کو خیاری دیا مگر عقد کے وقت بیع مطلق واقع ہوئی تو خیاری حاصل نہ ہوا۔ (در مختار)

۳۔ **مسئلہ:** خیاری کی مدت زیادہ سے زیادہ تین دن ہے۔ اس سے کم ہو سکتی ہے زیادہ نہیں۔ اگر کوئی ایسی چیز خریدی ہے جو جلد خراب ہو جانے والی ہے اور مشتری (خریدار) کو تین دن کا خیاری تھا تو اس سے کہا جائے گا کہ بیع کو فسخ کر دے یا بیع کو جائز کر دے اور اگر خراب ہونے والی چیز کسی نے بلا خیاری خریدی اور بغیر قبضہ کیے اور بغیر ثمن (قیمت جو طے پائی) ادا کیے چل دیا اور غائب ہو گیا تو بائع اس چیز کو دوسرے کے ہاتھ بیع کر سکتا ہے اور اس دوسرے خریدار کو یہ معلوم ہوتے ہوئے بھی خریدنا جائز ہے۔ (در مختار رد المحتار)

۴۔ **مسئلہ:** اگر خیاری کی کوئی مدت مقرر نہیں کی صرف اتنا کہا کہ مجھے خیاری ہے یا مدت مجہول ہے مثلاً چند دن کا خیاری ہے۔ یا ہمیشہ کیلئے خیاری رکھا تو ان سب صورتوں میں خیاری فاسد ہے۔ یہ اس صورت میں ہے کہ نفس عقد میں خیاری مذکور ہو اور تین دن کے اندر صاحب خیاری نے جائز نہ کیا ہو اور اگر تین دن کے اندر جائز کر دیا تو بیع صحیح ہوگی اور اگر عقد میں خیاری نہ تھا بعد عقد ایک نے دوسرے سے کہا تمہیں اختیار ہے تو اس مجلس تک خیاری ہے۔ مجلس ختم ہوگئی اور اس نے کچھ نہ کہا تو خیاری جاتا رہا اب کچھ نہیں کر سکتا۔ (فتاویٰ عالمگیری)

۵۔ **مسئلہ:** تین دن سے زیادہ کی مدت مقرر کی مگر ابھی تین دن پورے نہیں ہوئے تھے کہ صاحب خیاری نے بیع کو جائز کر دیا تو اب یہ بیع درست ہے اور اگر تین دن پورے ہو گئے اور جائز نہ کیا تو بیع فاسد ہوگئی۔ (عین الہدایہ)

۶۔ **مسئلہ:** مشتری نے بائع سے کہا کہ اگر تین دن تک رقم ادا نہ کروں تو تمہارا

تمہارے درمیان بیع نہیں یہ بھی خیار شرط کے حکم میں ہے یعنی اگر اس مدت تک رقم ادا کر دی بیع درست ہوگئی ورنہ جاتی رہی اور اگر تین دن سے زیادہ مدت ذکر کر کے یہی لفظ کہے اور تیس دن کے اندر رقم ادا کر دی تو بیع صحیح ہوگئی اور تین دن پورے ہو گئے تو بیع جاتی رہی۔ (در مختار)

۳۔ بے دیکھی چیز خریدنے کے اسلامی اصول

اسلامی شریعت کی رو سے بے دیکھی چیز کو خرید لینا درست ہے اور اسے فقہی طور پر خرید ردیت کہا جاتا ہے۔ بے دیکھی چیز خریدنے کے بعد خریدنے والے کو اختیار ہے کہ اگر چیز پسند نہ آئے تو رکھ لے ورنہ اسے واپس کر دے اگرچہ اس میں کوئی عیب نہ ہو۔ خیار ردیت کے متعلق شرعی مسائل مندرجہ ذیل ہیں:

۱۔ **مسئلہ:** بائع نے ایسی چیز بیچی جس کو اس نے دیکھا نہیں مثلاً اسے میراث میں کوئی شے ملی ہے اور بن دیکھے بیچ ڈالی تو بیع صحیح ہے مگر اس کو یہ اختیار نہیں کہ دیکھنے کے بعد بیع کو رد کر دے۔ (بہار شریعت)

۲۔ **مسئلہ:** خیار ردیت کیلئے کسی وقت کی حد شرعاً مقرر نہیں کہ اس کے گزرنے کے بعد خیار باقی نہ رہے بلکہ یہ خیار دیکھنے پر ہے جب دیکھے اور دیکھنے کے بعد فسخ کا حق اس وقت تک باقی رہتا ہے جب تک صراحتاً یا کسی اور طور پر رضامندی نہ پائی جائے۔ (در مختار)

۳۔ **مسئلہ:** کسی نے بے دیکھے اپنی چیز بیچ ڈالی تو اس بیچنے والے کو دیکھنے کے بعد پھیر لینے کا اختیار نہیں ہے۔ دیکھنے کے بعد اختیار فقط لینے والے کو ہوتا ہے۔ (در مختار)

۴۔ **مسئلہ:** بن دیکھے چیز خریدی ہے تو دیکھنے سے پہلے بھی اس کی بیع فسخ کر سکتا ہے کیونکہ یہ بیع مشتری (خریدنے والے) کے ذمہ لازم نہیں۔ (در مختار)

۵۔ **مسئلہ:** اگر مشتری نے بیع (خریدی ہوئی چیز) پر قبضہ کر لیا اور دیکھنے کے بعد اپنی رضامندی ظاہر کر دی یا اس میں کوئی عیب پیدا ہو گیا یا اس میں ایسا تصرف کرویا جو قابل فسخ نہیں ہے تو ان سب صورتوں میں خیار ردیت جاتا رہا اب بیع کو فسخ نہیں کر سکتا۔ (فتاویٰ عالمگیری)

۶۔ **مسئلہ:** بائع کہتا ہے کہ یہ چیز ویسی ہی ہے جیسی تو نے دیکھی تھی اس میں تغیر نہیں آتا۔

اور مشتری کہتا ہے آ گیا تو مشتری کو گواہ سے ثابت کرنا پڑے گا کہ تغیر آ گیا ہے گواہ پیش نہ کرے تو قسم کے ساتھ بائع کا قول معتبر ہوگا یہ اس صورت میں ہے کہ مشتری کے دیکھے کو زیادہ زمانہ نہ گزرا ہو اور معلوم ہوا کہ اتنے زمانہ میں عموماً ایسی چیز میں تغیر نہیں ہوتا اور اگر اتنا زیادہ زمانہ گزرا ہے کہ عادتاً تغیر ایسی چیز میں ہو ہی جاتا ہے مثلاً لوٹڈی جس کو دیکھے ہوئے بیس برس کا زمانہ گزر چکا ہے اور وہ اس وقت جوان تھی تو مشتری کی بات مانی جائے گی بائع کہتا ہے کہ خریدنے کے وقت تو نے دیکھ لیا تھا۔ مشتری کہتا ہے نہیں دیکھا تھا تو قسم کے ساتھ مشتری کی بات مانی جائے گی۔ (فتاویٰ عالمگیری)

۷۔ **مسئلہ:** دو شخصوں نے ایک چیز خریدی۔ دونوں نے اسے دیکھا نہیں تھا اب دیکھ کر ایک نے رضامندی ظاہر کی دوسرا واپس کرنا چاہتا ہے تو وہ تنہا واپس نہیں کر سکتا۔ دونوں متفق ہو کر واپس کرنا چاہیں تو واپس کر سکتے ہیں اور اگر ایک نے دیکھا تھا ایک نے نہیں تو جس نے دیکھا تھا دیکھ کر واپس کرنا چاہتا ہے جب بھی دونوں متفق ہو کر واپس کر سکتے ہیں اور اگر اس کے دیکھنے سے پہلے ہی دیکھنے والے نے کہہ دیا کہ میں راضی ہوں میں نے بیع کو نافذ کر دیا تو دوسرے کا اختیار باطل نہیں ہوگا مگر پوری بیع واپس کرنا ہوگی۔ (عالمگیری)

۸۔ **مسئلہ:** بہت زمانہ ہو گیا کہ کوئی چیز دیکھی تھی اب آج اس کو خرید لیا لیکن ابھی دیکھا نہیں۔ پھر جب گھرا کر دیکھا تو جیسی دیکھی ویسی ہی اس کو پایا تو اب دیکھنے کے بعد پھیر دینے کا اختیار نہیں ہے۔ ہاں اگر اتنے دنوں میں کچھ فرق ہو گیا ہو تو دیکھنے کے بعد اس کے لینے یا نہ لینے کا اختیار ہوگا۔ (فتاویٰ عالمگیری)

۴۔ سود یہ میں عیب نکل آنے کے مسائل

سودے میں عیب نکل آنے کو فقہی زبان میں خیار عیب کہا جاتا ہے اسلامی نقطہ نظر سے بیچنے والے پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ جب چیز کو فروخت کرے تو اس کا عیب خریدنے والے پر ظاہر کر دے۔ عیب نہ بتلانا اور دھوکے سے بیچ ڈالنا حرام اور گناہ ہے۔ حضور کے ارشادات میں عیب ظاہر کرنے کے بارے میں بہت تاکید فرمائی گئی ہے۔ چند احادیث مندرجہ ذیل ہیں:

۱۔ **حدیث:** حضرت عقبہ بن عامر سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور جب مسلمان اپنے بھائی کے ہاتھ کوئی

چیز بیچے جس میں عیب ہو تو جب تک بیان نہ کرے اسے بیچنا حلال نہیں۔ (ابن ماجہ)

۲۔ **حدیث:** حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ غلہ کی ڈھیری کے پاس سے گزرے تو آپؐ نے ہاتھ ڈال دیا۔ حضورؐ کی انگلیوں میں تری محسوس ہوئی تو ارشاد فرمایا اے غلہ والے! یہ کیا ہے؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ! اس پر بارش کا پانی پڑ گیا تھا۔ ارشاد فرمایا کہ تو نے بھیکے ہوئے کو اوپر کیوں نہیں کر دیا تاکہ لوگ دیکھ لیں جو دھوکا دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ (مسلم شریف)

۳۔ **حدیث:** حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عیب والی چیز کی بیع کی اور اس کو ظاہر نہ کیا وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ناراضی میں ہے یا فرمایا کہ ہمیشہ فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں۔ (ابن ماجہ)

۴۔ **حدیث:** حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نہ خود کو کوئی نقصان پہنچائے اور نہ کسی اور کو نقصان پہنچائے۔ جو دوسروں کو نقصان پہنچائے گا اللہ تعالیٰ اسے نقصان پہنچائے گا اور جو دوسروں کو مشقت میں ڈالے گا اللہ تعالیٰ اسے مشقت میں ڈالے گا۔ (بیہقی)

ان احادیث کی روشنی میں سودے میں عیب نکل آنے کے متعلق شرعی احکام مندرجہ ذیل ہیں:

۱۔ **مسئلہ:** خیار عیب کیلئے سودا طے کرتے وقت یہ کہنا ضروری نہیں کہ اگر سودے میں عیب ہوگا تو واپس کر دیں گے کہا ہو یا نہ کہا ہو بہر حال عیب معلوم ہونے پر مشتری کو واپس کرنے کا حق حاصل ہوگا۔ لہذا اگر مشتری کو نہ خریدنے سے پہلے عیب پر اطلاع تھی نہ وقت خریداری اس کے علم میں یہ بات آئی۔ بعد میں معلوم ہوا کہ اس میں عیب ہے، تھوڑا عیب ہو یا زیادہ، خیار عیب حاصل ہے کہ بیع کو لینا چاہے تو پورے دام واپس کر دینے چاہئیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ واپس نہ کرے بلکہ دام کم کر دے ہاں بائع خود قیمت کم کر دے تو اور بات ہے۔ (فتاویٰ عالمگیری)

۲۔ **مسئلہ:** عیب پر مشتری کو اطلاع قبضہ سے پہلے ہی ہوگئی تو مشتری بطور خود عقد کو فسخ کر سکتا ہے اس کی ضرورت نہیں کہ قاضی فسخ کا حکم دے تو فسخ ہو سکے بائع کے سامنے اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ میں نے عقد کو فسخ کر دیا یا رد کر دیا یا باطل کر دیا۔ بائع راضی ہو یا نہ ہو عقد فسخ ہو

جائے گا اور اگر بیع پر قبضہ کر چکا ہے تو بائع کی رضامندی یا قضائے قاضی کے بغیر عقد فسخ نہیں ہو سکتا۔ (ہدایہ عالمگیری)

۳۔ مسئلہ: مشتری نے بیع پر قبضہ کر لیا تھا پھر عیب معلوم ہوا اور بائع کی رضامندی سے عقد فسخ ہوا تو ان دونوں کے حق میں فسخ ہے مگر تیسرے کے حق میں یہ فسخ نہیں بلکہ بیع جدید ہے کہ اس فسخ کے بعد اگر بیع مکان یا زمین ہے تو شفعہ کرنے والے شفعہ کر سکتا ہے اور اگر قضائے قاضی سے فسخ ہوا تو سب کے حق میں فسخ ہی ہے۔ شفعہ کا حق نہیں پہنچے گا۔ (ہدایہ)

۴۔ مسئلہ: گائے، بھینس، بکری دودھ نہیں دیتی یا اپنا دودھ خود پی جاتی ہے یہ عیب ہے۔ اور جانور کا کم کھانا بھی عیب ہے۔ بیل کام کے وقت سو جاتا ہے یہ عیب ہے۔ گدھا خریدنا وہ ست چلتا ہے واپس نہیں کر سکتا مگر جبکہ تیز رفتاری کی شرط کر لی ہو۔ گدھے کا نہ بولنا عیب ہے۔ مرغ خریدنا جو بے وقت بولتا ہے واپس کر سکتا ہے۔ (فتاویٰ عالمگیری)

۵۔ مسئلہ: گھوڑا خریدنا دیکھا کہ اس کی عمر زیادہ ہے خیار عیب کی وجہ سے اسے واپس نہیں کر سکتا۔ ہاں اگر کم عمر کی شرط کر لی ہے تو واپس کر سکتا ہے۔ گائے خریدی وہ مشتری کے یہاں سے بھاگ کر بائع کے یہاں چلی جاتی ہے یہ عیب نہیں۔ (فتاویٰ عالمگیری)

۶۔ مسئلہ: موزے یا جوتے خریدے وہ اس کے پاؤں میں نہیں آئے واپس کر سکتا ہے اگرچہ خریدتے وقت یہ نہ کہا ہو کہ پہننے کیلئے خریدتا ہوں کیونکہ عادتاً ایک جوڑا جوتا یا موزہ پہننے کیلئے ہی خریداجاتا ہے جوتا خریداجو تنگ تھا۔ بائع نے کہہ دیا پہنو ٹھیک ہو جائے گا ایک دن پہنا مگر ٹھیک نہ ہوا اب واپس نہیں کر سکتا۔ (فتاویٰ عالمگیری)

۷۔ مسئلہ: بکری خریدی تو اس کے کان کٹے ہوئے ہیں یہ عیب ہے۔ یونہی قربانی کیلئے کوئی جانور خریدا جس کے کان کٹے ہوئے ہیں یا اس میں کوئی عیب ایسا ہے جس کی وجہ سے قربانی نہیں ہو سکتی اسے واپس کر سکتا ہے اور اگر قربانی کیلئے نہ ہو تو واپس نہیں کر سکتا مگر جبکہ عرف میں وہ عیب قرار دیا جائے۔ اگر بائع و مشتری میں اختلاف ہو مشتری کہتا ہے میں نے قربانی کیلئے خریدا ہے بائع انکار کرتا ہے اگر وہ زمانہ قربانی کا ہو اور مشتری اہل قربانی سے ہو تو مشتری کا قول معتبر ہے۔ (فتاویٰ خانہ)

۸۔ مسئلہ: غلہ خریدا اس میں سے کچھ کھا لیا بیع دیا پھر عیب پر مطلع ہوا۔ جو کھا چکا ہے اس کا نقصان لے اور باقی کو واپس کر سکتا ہے جو کھا چکا ہے اس کا نقصان نہیں لے سکتا۔

خریداً اس میں سے کچھ گوندھ کر روٹی پکائی تو معلوم ہوا کہ کڑوا ہے جو پکا چکا ہے اس کا نقصان لے سکتا ہے اور باقی کو واپس کر سکتا ہے۔ (فتاویٰ خانہ)

۹۔ **مسئلہ:** گیہوں وغیرہ غلہ خرید اس میں خاک ملی ہوئی نکلی، اگر خاک اتنی ہی ہے جتنی عادت ہو کرتی ہے تو واپس نہیں کر سکتا اور عادت سے زیادہ ہے تو کل واپس کر دے اور اگر گیہوں رکھنا چاہتا ہے تو خاک کو الگ کر کے واپس کرنا چاہتا ہے یہ نہیں کر سکتا۔ گیہوں میں کچھ خاک ملی تھی اڑ گئی اور وزن کم ہو گیا یا گیہوں میں نمی تھی خشک ہو کر وزن کم ہو گیا تو واپس نہیں کر سکتا۔ (فتاویٰ عالمگیری)

۱۰۔ **مسئلہ:** کپڑا خرید اسے قطع کرایا اور ابھی سلا نہیں اس میں عیب معلوم ہوا اسے واپس نہیں کر سکتا بلکہ نقصان لے سکتا ہے۔ ہاں اگر بائع قطع کیے ہوئے کو واپس لینے پر راضی ہے تو اب نقصان نہیں لے سکتا اور خرید کر بیچ کر دیا تو کچھ نہیں کر سکتا۔ اور اگر قطع کے بعد سل بھی گیا اور عیب معلوم ہوا تو نقصان لے سکتا ہے۔ ہاں اگر بائع قطع کیے ہوئے کو بجائے نقصان دینے کے واپس لینا چاہے تو واپس نہیں لے سکتا۔ کپڑا خرید کر اپنے نابائع بچے کیلئے قطع کرایا اور عیب معلوم ہوا تو نہ واپس کر سکتا ہے نہ نقصان لے سکتا ہے اور اگر بائع لڑکے کیلئے قطع کرایا تو نقصان لے سکتا ہے۔ (ہدایہ ردالمحتار)

۱۱۔ **مسئلہ:** کوئی چیز بیچ کی اور بائع نے کہہ دیا کہ میں ہر عیب سے بری الذمہ ہوں یہ بیچ صحیح ہے اور اس بیچ کے واپس کرنے کا حق باقی نہیں رہتا۔ یوں ہی اگر بائع نے کہہ دیا کہ لینا ہو تو لو اس میں سو طرح کے عیب ہیں یا یہ مٹی ہے یا اسے خوب دیکھ لو، کیسی بھی ہو میں واپس نہیں کروں گا۔ یہ عیب سے براءت ہے۔ جب ہر عیب سے براءت کر لے تو جو عیب وقت عقد موجود ہے یا عقد کے بعد قبضہ سے پہلے پیدا ہوا تو سب سے براءت ہو گئی۔ (درمختار ردالمحتار)

۱۲۔ **مسئلہ:** کوئی چیز خریدی اس کا کوئی خریدار آیا اس سے کہا اسے لے لو اس میں کوئی عیب نہیں ہے اور اتفاق سے اس نے نہیں خریدی پھر مشتری نے اس میں کوئی عیب دیکھا تو واپس کر سکتا ہے اور اس کا پہلے یہ کہنا کہ اس میں کوئی عیب نہیں ہے مضر نہیں کہ اس سے مقصود ترغیب ہے اور اگر اس نے کسی عیب کا نام لے کر کہا کہ یہ عیب اس میں نہیں ہے اور بعد میں وہی عیب اس میں موجود ملا تو واپس نہیں کر سکتا۔ ہاں اگر ایسے عیب کا نام لیا جو اس

دوران میں پیدا نہیں ہو سکتا جیسے انگلی کا زائد ہونا تو واپس کر سکتا ہے۔ (در مختار)

۵۔ بیع باطل و بیع فاسد

بیع باطل سے مراد ایسی فروخت ہے جو حقیقت میں فروخت نہ ہوئی ایسی بیع غیر معتبر ہوتی ہے کیونکہ ایسے بیع بیچنے والے نے نہ بیچا ہوتا ہے اور نہ خریدنے والے نے خریدا ہوتا ہے اور جو بیع ہوگئی ہو مگر اس میں خرابی آجاتے تو ایسی بیع کو فاسد بیع کہتے ہیں بیع باطل اور فاسد کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مندرجہ ذیل ہیں :

۱۔ حدیث: حضرت ابو مسعود انصاریؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت لینے اور زانیہ کی اجرت اور کاہن کی اجرت سے منع فرمایا۔ (مسلم شریف)

۲۔ حدیث: حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بیشک اللہ تعالیٰ نے شراب اور اس کے ثمن کو حرام کیا اور مردہ کو حرام کیا اور اس کے ثمن کو اور خنزیر کو اور اس کے ثمن کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ (ابن ماجہ)

۳۔ حدیث: حضرت رافع بن خدیجؓ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”کتے کا ثمن خبیث ہے اور زانیہ کی اجرت خبیث ہے اور پچھنا لگانے والے کی کمائی خبیث ہے (یعنی مکروہ ہے کیونکہ اس کی نجاست میں آلودہ ہونا پڑتا ہے اس کو حرام نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سچھے لگوائے اور اس کی اجرت عطا فرمائی ہے)۔ (مسلم شریف)

۴۔ حدیث: حضرت جابرؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ کے سال جبکہ آپ مکہ معظمہ میں تشریف فرما تھے، یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ اور اس کے رسول نے شراب مردار خنزیر اور بتوں کی بیع کو حرام قرار دیا۔ کسی نے عرض کی یا رسول اللہ! مردار کی چربی کے بارے میں کیا ارشاد ہے کیونکہ یا کشتیوں میں لگائی جاتی ہے اور کھال میں لگاتے ہیں اور لوگ چراغ میں جلاتے ہیں (یعنی کھانے کے علاوہ دوسرے طریق پر اس کا استعمال جائز ہے یا نہیں) فرمایا نہیں وہ حرام ہے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ یہودیوں کو قتل کرے۔ (اللہ تعالیٰ نے جب چہ یوں کو ان پر حرام فرمادیا تو انہوں نے پگھلا کر بیچ ڈالی اور اس کی قیمت کھالی)۔ (بخاری شریف) Marfat.com

۵۔ حدیث: حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے بارے میں دس شخصوں پر لعنت فرمائے۔ نچوڑنے والے پر، نچوڑوانے والے پر، پیچنے والے پر، اٹھانے والے پر، جس کے پاس اٹھا کر لائی گئی اس پر، پلانے والے پر، بیچنے والے پر، اس کا ثمن کھانے والے پر، خریدنے والے پر اور اس پر جس کے لیے خریدی گئی۔ (ترمذی، ابن ماجہ)

۶۔ حدیث: حضرت ابو جحیفہؓ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خون کے ثمن اور کتے کے ثمن اور زانیہ کی اجرت سے منع فرمایا اور سود کھانے والے، کھلانے والے اور بال گودنے والی، گودوانے والی، تصور بنانے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ (بخاری شریف)

۷۔ حدیث: حضرت ابن عمرؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے مزاہنہ سے منع فرمایا۔ مزاہنہ یہ کہ کھجور کا باغ ہو تو جو کھجوریں درخت میں ہیں ان کو خشک کھجوروں کے بدلے میں بیع کرے اور انگور کا باغ ہو تو درخت کے انگور کو مفتحی کے بدلے میں باپ سے بیع کرے اور کھیت میں جو غلہ ہے اسے غلہ کے بدلے میں ماپ سے بیچے۔ ان سب سے منع فرمایا ہے۔ (مسلم شریف)

۶۔ مکروہ بیع

اسلام میں بیع کی بعض صورتوں کو ناپسند کیا گیا ہے ایسی بیع کو مکروہ بیع کہا جاتا ہے۔

احادیث کے مطابق اس کی مختلف صورتیں مندرجہ ذیل ہیں:

۱۔ حدیث: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”خریدنے کے لیے قافلے سے جا کر نہ ملو اور کوئی دوسرے کے سودے پر سودا نہ کرے اور ملاوٹ نہ کیا کرو اور شہری دیہاتی کے لیے نہ بیچے اور اونٹنی یا بکری کا دودھ تھنوں میں نہ روکا کرو۔ جس نے کوئی ایسا جانور خرید لیا تو دو راستے ہیں کہ دوہنے کے بعد اگر اسے پسند کرے تو رکھ لے اور ناپسند کرے تو لوٹا دے اور ایک صاع کھجوریں بھی دے۔“ (مسلم شریف)

۲۔ حدیث: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قافلے سے آگے جا کر نہ ملو جو آگے جا کر ملا اور اس سے کوئی چیز خریدی تو جب بازار میں اس کا آقا آئے تو اسے اختیار ہوگا۔ (مسلم شریف)

۳۔ حدیث: حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "آگے جا کر مال نہ خریدو یہاں تک کہ وہ بازار میں اتار لیا جائے۔" (بخاری شریف)۔

۴۔ حدیث: حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اپنے بھائی کے سودے پر سواد نہ کرے اور نہ اپنے بھائی کے پیغام نکاح پر اپنا پیغام بھیجے مگر جبکہ وہ اسے اجازت دے۔ (مسلم شریف)

۵۔ حدیث: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص تم میں سے اپنے مسلمان بھائی کے سودے پر سواد نہ کرے۔ (مسلم شریف)

۶۔ حدیث: حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہری دیہاتی کے ہاتھوں فروخت نہ کرے لوگوں کو آزاد چھوڑ دو کیونکہ اللہ تعالیٰ بعض کے ذریعے بعض کو رزق دیتا ہے۔ (مسلم شریف)

۷۔ حدیث: حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو لباسوں اور دو قسم کے بیج سے منع فرمایا ہے یعنی تجارت میں ملامسہ اور منابذہ سے ملامسہ یہ کہ ایک آدمی رات یا دن میں دوسرے کو کپڑے کو ہاتھ لگاتا ہے اور اسے التما نہیں ہے مگر ہاتھ لگاتا ہے منابذہ ہے کہ ایک آدمی دوسرے کی طرف اپنا کپڑا پھینکتا ہے اور دوسرا اپنا کپڑا پھینکتا ہے اور یہ ان کی بغیر دیکھے اور بغیر رضا مندی کے تجارت ہوتی ہے اور دو لباسوں میں سے ایک اشحال الصحاء ہے کہ آدمی اپنے ایک کندھے پر ڈالے اور ایک حصہ بنگار کھے اس پر کپڑا نہ ہو اور دوسرا لباس ہے کہ بیٹھے ہوئے اپنے کپڑے میں یوں لپٹ جانا کہ اس کی شرمگاہ پر کچھ نہ ہو۔ (بخاری)

۱۔ شرعی مسائل: مکروہ بیع کے متعلق شرعی مسائل مندرجہ ذیل ہیں:

۱۔ مسئلہ: اذان جمعہ کے شروع سے ختم نماز تک بیع مکروہ تحریمی ہے اور اذان سے مراد پہلی اذان ہے کہ اسی وقت سعی واجب ہوتی ہے مگر وہ لوگ جن پر جمعہ واجب نہیں مثلاً عورتیں یا مریض ان کی بیع میں کراہت نہیں۔ (در مختار)

۲۔ مسئلہ: بخش مکروہ ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ بخش یہ ہے کہ بیع کی قیمت بڑھائے اور خود خریدنے کا ارادہ نہ رکھتا ہو اس سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کا ہب کو رغبت پیدا کرے اور وہ قیمت زیادہ لے لے کر خرید لے اور یہ درحقیقت خریدار کو

دھوکہ دینا ہے۔ جیسا کہ بعض دکانداروں کے یہاں اس قسم کے آدمی لگے رہتے ہیں۔ گاہک کو دیکھ کر چیز کے خریدار بن کر دام بڑھا دیا کرتے ہیں اور ان کی اس حرکت سے گاہک دھوکا کھا جاتے ہیں۔ گاہک کے سامنے بیع کی تعریف کرنا اور اس کیلئے اوصاف بیان کرنا جو موجود نہ ہوں تاکہ خریدار دھوکا کھا جائے یہ بھی بخش ہے۔ جس طرح ایسا کرنا بیع میں ممنوع ہے۔ نکاح اجارہ وغیرہ میں بھی ممنوع ہے اس کی ممانعت اس وقت ہے جب خریدار واجبی قیمت دینے کیلئے تیار ہے اور یہ دھوکا دے کر زیادہ کرنا چاہے اور اگر خریدار واجبی قیمت سے کم دے کر لینا چاہے اور ایک شخص غیر خریدار اس لیے دام بڑھا رہا ہے کہ اصلی قیمت تک خریدار پہنچ جائے یہ ممنوع نہیں کہ ایک مسلمان کو نفع پہنچاتا ہے بغیر اس کے کہ دوسرے کو نقصان پہنچائے۔ (ہدایہ در مختار فتح القدیر)

۳۔ مسئلہ: ایک شخص کے دام چکا لینے کے بعد دوسرے کو دام چکانا ممنوع ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ بائع و مشتری ایک کمن پر راضی ہو گئے۔ صرف ایجاب و قبول ہی بائع کو اٹھا کر دام دے دینا ہی باقی رہ گیا ہے دوسرا شخص دام بڑھا کر لینا چاہتا ہے یا دام اتنے ہی دے گا مگر دکاندار سے اس کا میل ہے یا یہ ذی وجاہت شخص ہے۔ دکاندار سے چھوڑ کر پہلے شخص کو نہیں دے گا اور۔ اگر اب تک دام طے نہیں ہوا ایک کمن پر دونوں کی رضامندی نہیں ہوئی ہے تو دوسرے کو دام چکانا منع نہیں جیسا کہ نیلام میں ہوتا ہے اس کو بیع من یزید کہتے ہیں یعنی بیچنے والا کہتا ہے کہ جو زیادہ دے وہ لے لے۔ اس قسم کی بیع حدیث سے ثابت ہے جس طرح بیع میں اس کی ممانعت ہے اجارے میں بھی ممنوع ہے۔ مثلاً کسی مزدور سے مزدوری طے ہونے کے بعد یا ملازم سے تنخواہ طے ہونے کے بعد دوسرے شخص کا مزدوری یا تنخواہ بڑھا کر یا اتنی ہی دے کر مقرر کرنا۔ یونہی نکاح میں ایک شخص کی منگنی ہو جانے کے بعد دوسرے کو پیغام دینا منع ہے خواہ مہر بڑھا کر نکاح کرنا چاہتا ہو یا اس کی عزت و وجاہت کے سامنے پہلے کو جواب دے دیا جائے گا بہر صورت پیغام دینا ممنوع ہے۔ جس طرح خریدار کیلئے یہ صورت ممنوع ہے بائع کیلئے بھی ممانعت ہے۔ مثلاً ایک دکاندار سے دام طے ہو گئے دوسرا کہتا ہے میں اس سے کم میں دوں گا یا وہ اس کا ملاقاتی ہے کہتا ہے میرے یہاں سے لو میں بھی اتنے ہی میں دوں گا یا اجارے میں ایک مزدور سے اجرت طے ہونے کے بعد دوسرا کہتا ہے کہ میں کم مزدوری لوں گا یا میں بھی اتنی ہی لوں گا یہ سب ممنوع ہیں۔ (ہدایہ فتح القدیر در مختار)

۴۔ مسئلہ: حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقی جلب سے ممانعت فرمائی یعنی باہر سے

تاجر جو غلہ لار ہے ہیں ان کے شہر میں پہنچنے سے قبل باہر جا کر خرید لینا۔ اس کی دو صورتیں ہیں ایک یہ کہ اہل شہر کو غلے کی ضرورت ہے اور یہ اس لیے ایسا کرتا ہے کہ غلہ ہمارے قبضے میں ہو گا نرخ زیادہ کر کے بیچیں گے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ غلہ لانے والے تاجر کو شہر کا نرخ غلط بتا کر خریدے مثلاً شہر میں پندرہ روپے میر کے گیہوں بکتے ہیں اس نے کہہ دیا اٹھارہ سیر روپے کے ہیں۔ دھوکہ دے کر خریدنا چاہتا ہے اور اگر یہ دونوں باتیں نہ ہوں تو ممانعت نہیں۔
(ہدایہ فتح)

۵۔ مسئلہ: جو شخص راستے پر خرید و فروخت کرتا ہے اگر راستہ کشادہ ہے کہ اس کے بیٹھنے سے راہ گیروں پر تنگی نہیں ہوتی تو حرج نہیں اور اگر گزرنے والوں کو اس کی وجہ سے تکلیف ہو جائے تو اس سے سودا خریدنا نہ چاہیے کہ گناہ پر مدد دینا ہے کیونکہ جب کوئی خریدے گا نہیں تو وہ بیٹھے گا کیوں۔ (عالمگیری)

۷۔ قرض

بوقت ضرورت اپنی جائز ضرورت کو پورا کرنے کیلئے قرض لے لینا اسلامی نقطہ نظر سے درست ہے کیونکہ بھائی چارے کے پیش نظر دوسرے مسلمان بھائیوں کے کام آنا ہر مسلمان کا اولین فرض ہے اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بوقت ضرورت دوسروں کو قرض دینے کی بہت ترغیب دی ہے اور قرض لینے والے پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ قرض کو جلد از جلد واپس کرنے کی کوشش کرے۔ قرض کے احکامات کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ارشادات مندرجہ ذیل ہیں:

۱۔ حدیث: حضرت عبداللہ بن ابی ربیعہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے بطور قرض چالیس ہزار درہم لیے۔ جب آپ کے پاس مال آیا تو ادا کرے دیئے اور دعا فرمائی اللہ تعالیٰ تمہارے اہل و عیال اور مال میں برکت دے۔ بے شک ادھار کا بدلہ شکر یہ ادا کرنا اور دعا کرنا ہے۔ (نسائی)

۲۔ حدیث: حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”جب تم میں سے کوئی کسی کو قرض دے اور مقروض اس کیلئے ہدیہ بھیجے یا جانور پر اسے سوار کرے تو سوار نہ ہو اور نہ وہ ہدیہ قبول کرے مگر جبکہ ان دونوں کے درمیان پہلے سے ایسا لین دین جاری ہو۔“ (ابن ماجہ بیہقی)

۳۔ **حدیث:** حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی کسی کو قرض دے تو اس کا ہدیہ نہ لے۔ (بخاری شریف)

۴۔ **حدیث:** حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا وہ اپنے نوکر سے کہتا کہ جب تمہارے پاس کوئی غریب آئے تو اس سے درگزر شاید اللہ تعالیٰ ہم سے درگزر فرمائے۔ فرمایا کہ جب اس نے وفات پائی تو اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا۔ (مسلم شریف)

۵۔ **حدیث:** حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرض کا تقاضا کیا اور تلخ کلامی کی۔ آپ کے اصحاب اس پر ٹوٹنے لگے تو فرمایا جانے دو کیونکہ حقدار کو بولنے کا حق ہے۔ اس کیلئے ایک اونٹ خریدو اور اسے دے دو۔ عرض گزار ہوئے کہ ہمیں نہیں ملتا مگر اس سے کمتر عمر والا۔ فرمایا کہ وہی خرید کر دے دو کیونکہ تم میں اچھا آدمی وہ ہے جو قرض ادا کرنے میں اچھا ہے۔ (بخاری شریف)

۶۔ **حدیث:** حضرت ابو موسیٰؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑا گناہ یہ ہے کہ جس کے ساتھ بندہ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ کبیرہ گناہوں کے بعد جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے کہ آدمی اس حالت میں مرے کہ اس پر قرض ہو اور ادا کرنے کیلئے مال نہ چھوڑے۔ (احمد ابو داؤد)

۷۔ **حدیث:** حضرت ثوبانؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جو اس حالت میں فوت ہوا کہ تکبر، خیانت اور قرض سے بچا ہوا تھا تو وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ (ترمذی ابن ماجہ)

۱۔ شرعی مسائل: قرض لینے اور دینے کے متعلق شرعی مسائل مندرجہ ذیل ہیں:

۱۔ **مسئلہ:** جو چیز قرض دی جائے یا لی جائے اس کا مثلی ہونا ضروری ہے یعنی ماپ کی چیز ہو یا تول کی ہو یا گنتی کی ہو مگر گنتی کی چیز میں شرط یہ ہے کہ اس کے افراد میں زیادہ تفاوت نہ ہو۔ جیسے انڈے، اخروٹ، بادام اور اگر گنتی کی چیز میں تفاوت زیادہ ہو جس کی وجہ سے قیمت میں اختلاف ہو جیسے آم، مروہ، ان کو قرض نہیں دے سکتے یونہی ہر قیمتی چیز جیسے جانور، مکان، زمین ان کو قرض دینا صحیح نہیں۔ (در مختار زردا مختار)

۲۔ **مسئلہ:** قرض کا حکم یہ ہے کہ جو چیز لی گئی ہے اس کی مثل ادا کی جائے لہذا جس کی

مثل نہیں قرض دینا صحیح نہیں۔ جس چیز کو قرض دینا لینا جائز نہیں اگر اس کو کسی نے قرض لیا اس پر قبضہ کرنے سے مالک ہو جائے گا مگر اس سے نفع اٹھانا حلال نہیں مگر اس کو بیع کرے گا تو بیع صحیح ہو جائے گی۔ اس کا حکم ویسا ہی ہے جیسے بیع فاسد میں بیع پر قبضہ کر لیا کہ واپس کرنا ضروری ہے مگر بیع کر دے گا تو بیع صحیح ہے۔ (در مختار ردالمحتار عالمگیری)

۳۔ مسئلہ: کرنسی نوٹ قرض لیے تھے مگر وہ چلنا بند ہو گئے تو وہی کرنسی اسی تعداد میں دینے سے قرض ادا نہ ہوگا بلکہ ان کی قیمت کا اعتبار ہے۔ (در مختار)

۴۔ مسئلہ: ایک شہر میں مثلاً غلہ قرض لیا اور دوسرے شہر میں قرض خواہ نے مطالبہ کیا تو جہاں قرض لیا تھا وہاں جو قیمت تھی وہ دیدی جائے۔ قرض دار اس پر مجبور نہیں کر سکتا کہ میں یہاں نہیں دوں گا وہاں چل کر وہ چیز لے لو۔ ایک شہر میں غلہ قرض لیا دوسرے شہر میں جہاں غلہ گراں ہے قرض خواہ اس سے غلے کا مطالبہ کرتا ہے تو قرض دار سے کہا جائے گا کہ اس بات کا ضامن دے دو کہ اپنے شہر میں جا کر غلہ ادا کروں گا۔ (در مختار)

۵۔ مسئلہ: ادائے قرض میں چیز کے سستے مہنگے ہونے کا اعتبار نہیں مثلاً دس سیر گیہوں قرض لیے تھے ان کی قیمت ایک روپیہ تھی اور ادا کرنے کے دن ایک روپیہ سے کم یا زیادہ ہے اس کا بالکل لحاظ نہیں کیا جائے گا بلکہ وہی دس سیر گیہوں دینے ہوں گے۔ (در مختار)

۶۔ مسئلہ: میوے قرض لیے مگر ابھی ادا نہیں کیے کہ یہ میوے ختم ہو چکے بازار میں ملتے نہیں۔ قرض خواہ کو انتظار کرنا پڑے گا کہ نئے پھل آ جائیں اس وقت قرض ادا کیا جائے اور اگر دونوں قیمت لینے دینے پر راضی ہو جائیں تو قیمت ادا کر دی جائے۔ (در مختار)

۷۔ مسئلہ: قرض دار نے قرض پر قبضہ کر لیا اس چیز کا مالک ہو گیا۔ فرض کر دو کہ ایک چیز قرض لی تھی اور ابھی خرچ نہیں کی ہے کہ اپنی چیز آ گئی مثلاً روپیہ قرض لیا تھا اور روپیہ آ گیا یا آنا قرض لیا تھا پکنے سے پہلے آنا پس کر آ گیا۔ اب قرض دار کو یہ اختیار ہے کہ اس کی چیز رہنے دے اور اپنی چیز سے قرض ادا کرے یا اس کی ہی چیز دیدے جس نے قرض دیا ہے وہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے جو چیز دی تھی وہ تمہارے پاس موجود ہے میں وہی لوں گا۔ (در مختار عالمگیری)

۸۔ مسئلہ: قرض کی چیز قرض دار کے پاس موجود ہے۔ قرض دار اس کو خود قرض خواہ کے ہاتھ بیع کرے یہ صحیح ہے کہ وہ مالک ہے اور قرض خواہ بیع کرے یہ صحیح نہیں کہ یہ مالک

نہیں۔ ایک شخص نے دوسرے شخص غلہ قرض لیا۔ قرض دار نے قرض خواہ سے روپے کے بدلے اس کو خرید لیا یعنی اس دین کو خریداجو اس کے ذمے ہے۔ مگر قرض خواہ نے روپے پر ابھی قبضہ نہیں کیا تھا کہ دونوں جدا ہو گئے بیع باطل ہو گئی۔ (درمختار)

۹۔ مسئلہ: قرض دار قرض ادا نہیں کرتا اگر قرض خواہ کو اس کی چیز اسی جنس کی جو قرض میں دی ہے مل جائے تو بغیر اجازت لیے لے سکتا ہے بلکہ زبردستی چھین لے جب بھی قرض ادا ہو جائے گا۔ دوسری جنس کی چیز بغیر اس کی اجازت کے نہیں لے سکتا۔ مثلاً روپیہ قرض لیا تھا تو روپیہ یا چاندی کی کوئی چیز ملے لے سکتا ہے اور اشرفی یا سونے کی چیز نہیں لے سکتا۔ (عالمگیری)

۸۔ بیع سلم

بیع سلم وہ بیع ہے جس میں مال خریدنے والا فروخت کرنے والے سے بھاؤ طے کر کے یہ وعدہ کرے کہ آپ کا فلاں سودا میں اتنے عرصے کے بعد لے لوں گا اور فروخت کرنے والا رقم کو قبول کر لے۔ اسلامی شریعت کی رو سے بیع کی چار صورتیں ہیں:

(۱) دونوں طرف عین ہو۔

(۲) یا دونوں طرف ثمن۔

(۳) یا ایک طرف عین اور دوسری طرف ثمن۔ اگر دونوں طرف عین ہو اس کو مقایضہ کہتے ہیں اور دونوں طرف ثمن ہو تو بیع صرف کہتے ہیں اور تیسری صورت میں یہ کہ ایک طرف عین ہو اور ایک طرف ثمن۔ اس کی دو صورتیں ہیں اگر بیع کا موجود ہونا ضروری ہو تو بیع مطلق ہے

(۴) ثمن کا فوراً دینا ضروری ہو تو بیع سلم ہے لہذا سلم میں جس کو خریداجاتا ہے وہ بائع کے ذمے دین ہے اور مشتری ثمن کو فی الحال ادا کرتا ہے جو روپیہ دیتا ہے اس کو رب السلم اور مسلم کہتے ہیں اور دوسرے کو مسلم الیہ اور بیع کو مسلم فیہ اور چمن کو رب السلم۔

بیع مطلق کے جوارکان ہیں وہ اس کے بھی ہیں اس کیلئے بھی ایجاب و قبول ضروری ہے۔ ایک کہے میں نے تجھ سے سلم کیا دوسرا کہے میں نے قبول کیا اور بیع کا لفظ بولنے سے بھی سلم کا انعقاد ہوتا ہے۔ اس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مندرجہ ذیل ہیں:

۱۔ حدیث: حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ میں

جلوہ گری ہوئی تو وہ لوگ پھلوں میں سال، دو سال اور تین سال کی بیج سلم کیا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ جو کسی چیز میں سلم کرے تو تول و وزن اور قیمت مقرر ہونی چاہیے۔ (مسلم شریف)

۲۔ حدیث: حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ماپ مدینہ منورہ والوں کی ہے اور تول مکہ مکرمہ والوں کی۔ (ابوداؤد نسائی)

۳۔ حدیث: حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماپنے اور تولنے والے سے فرمایا تمہارے سپرد دو ایسے کام کیے گئے ہیں جن دونوں کے باعث تم سے پہلی امتیں ہلاک ہوئیں۔ (ترمذی)

۴۔ حدیث: حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جو کسی چیز میں سلف کرے تو قبضہ کرنے سے پہلے اسے کسی دوسرے کی طرف نہ پھیرے۔ (ابن ماجہ)

بیج سلم اس چیز کی ہو سکتی ہے جس کی صفت کا انضباط ہو سکے اور اس کی مقدار معلوم ہو سکے وہ چیز گیلی ہو جیسے جو گیہوں یا وزنی جیسے لوہا، تانبا، پتیل یا عددی متقارب جیسے اخروٹ، انڈا، پیسہ، ناشپاتی، تارنگی، انجیر وغیرہ۔ خام اینٹ اور پختہ اینٹوں میں سلم صحیح ہے جبکہ سانچا مقرر ہو جائے۔ جیسے اس زمانے میں عموماً دس انچ طول اور پانچ انچ عرض کی ہوتی ہیں۔ یہ بیان بھی کافی ہے۔

زرعی چیز میں بھی سلم جائز ہے جیسے کپڑا۔ اس کیلئے ضروری ہے کہ طول و عرض معلوم ہو اور یہ کہ وہ سوتی یا نسری یا ریشمی یا مرکب اور کیسا بنا ہوا ہوگا مثلاً فلاں شہر کا فلاں کارخانہ کا فلاں شخص کا اس کی بناوٹ کیس ہوگی باریک ہوگا، موٹا ہوگا اس کا وزن کیا ہوگا جبکہ بیج میں وزن کا اعتبار ہوتا ہو یعنی بعض کپڑے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا وزن میں کم ہونا خوبی ہے اور بعض میں وزن کا زیادہ ہونا۔ (در مختار) بچھونے، چٹائیاں، دریاں، ٹاٹ، کبل جبکہ ان کا طول و عرض و صفت سب چیزوں کی وضاحت ہو جائے تو ان میں بھی سلم ہو سکتا ہے۔ سلم کے متعلق شرعی مسائل مندرجہ ذیل ہیں:

۱۔ مسئلہ: دودھ دہی میں بھی بیج سلم ہو سکتی ہے۔ ناپ یا وزن جس طرح سے چاہیں اس کی مقدار معین کر لیں۔ گھی، تیل میں بھی درست ہے۔ وزن سے یا ناپ سے بھوسے میں سلم درست ہے اس کی مقدار اور وزن سے مقرر کر میں جیسا کہ آج کل اکثر شہروں میں وزن کے

ساتھ بھس بکا کرتا ہے یا بوریوں کی ناپ مقرر ہو جبکہ اس سے تعین ہو جائے ورنہ جائز نہیں
(عالمگیری)

۲۔ مسئلہ: جواہرات میں سلم درست نہیں کہ یہ چیزیں عددی متفادات ہیں۔ ہاں چھو۔
موتی جو وزن سے فروخت ہوتے ہیں ان میں اگر وزن کے ساتھ سلم کیا جائے تو جائز ہے
گوشت کی نوع و صفت بیان کر دی ہو تو اس میں سلم جائز ہے۔ چربی اور دنبہ کی چکی میں
سلم درست ہے۔ (درمختار)

۳۔ مسئلہ: تیل میں سلم درست ہے جبکہ اس کی قسم بیان کر دی گئی ہو مثلاً تیل کا تیل
سرسوں کا تیل اور خوشبودار تیل میں بھی جائز ہے مگر اس میں بھی قسم بیان کرنا ضرور ہے۔
روغن گل، جمبیلی، جوہی وغیرہ۔ (عالمگیری)

۴۔ مسئلہ: پنیر اور مکھن میں سلم درست ہے جبکہ اس طرح بیان کر دیا گیا کہ اہل صنعت
کے نزدیک اشتباہ باقی نہ رہے۔ شہتیر، کڑیوں اور ساکھو، شیشم وغیرہ کے بنے ہوئے ساما
میں بھی درست ہے جبکہ لمبائی، چوڑائی اور موٹائی اور لکڑی کی قسم وغیرہ تمام وہ باتیں بیان
دی جائیں جن کے بیان نہ کرنے سے نزاع واقع ہو۔ (عالمگیری)

۵۔ مسئلہ: رب المسلم نے مسلم الیہ سے کہا اسے اپنی بوریوں میں تول کر رکھ دو یا اب
مکان میں تول کر علیحدہ کر کے رکھ دو۔ اس سے رب المسلم کا قبضہ نہیں ہوا یعنی جبکہ بوریوں
میں رب المسلم کی عدم موجودگی میں بھرا ہو یا رب المسلم نے اپنی بوریاں دیں اور یہ کہہ کر چھو
گیا کہ ان میں بھر دو اس نے ناپ کر یا تول کر بھر دیا۔ اب بھی رب المسلم کا قبضہ نہیں ہوا کہ
اگر ہلاک ہوگا تو مسلم الیہ کا ہلاک ہوگا۔ رب المسلم سے کوئی تعلق نہ ہوگا اور اگر اس کی موجودگی
میں بوریوں میں غلہ بھرا گیا تو چاہے بوریاں اس کی ہوں یا مسلم الیہ کی رب المسلم قابض
گیا۔ اگر بوری میں رب المسلم کا غلہ موجود ہو اس میں سلم کا غلہ بھی مسلم الیہ نے ڈال دیا یا تو
رب المسلم کا قبضہ ہو گیا اور بیع مطلق میں اپنی بوریاں دیتا اور کہتا اس میں ناپ کر بھر دو اور وہ
بھر دیتا تو اس کا قبضہ ہو جاتا اس کی موجودگی میں بھرتا یا عدم موجودگی میں یونہی اگر رب المسلم
نے مسلم الیہ سے کہا اس کا آنا پورا دے اس نے پورا دیا تو آنا مسلم الیہ کا ہے۔ رب المسلم کا
نہیں اور بیع مطلق میں مشتری کا ہونا اور اس نے کہا اسے پانی میں پھینک دے اس نے
پھینک دیا تو مسلم الیہ کا نقصان ہوا، رب المسلم سے تعلق نہیں اور بیع مطلق میں مشتری کا

نقصان ہوتا۔ (ہدایہ فتح القدر)

۶۔ مسئلہ: زید نے عمرو سے ایک من گیہوں میں سلم کیا تھا جب میعاد پوری ہوئی تو عمرو نے کسی سے ایک من گیہوں خریدے تاکہ زید کو دے دے اور زید سے کہہ دیا کہ تم اس سے جا کر لے لو زید نے اس سے لے لیے تو زید کا مالکانہ قبضہ نہیں ہوا اور اگر عمرو یہ کہے کہ تم میرے نائب ہو کر وصول کرو پھر اپنے لیے قبضہ کرو اور زید ایک مرتبہ عمرو کیلئے ان کو تو لے پھر دوبارہ اپنے لیے تو لے اب سلم کی وصولی ہوگی اور اگر عمرو نے خرید انہیں بلکہ قرض لیا ہے اور زید سے کہہ دیا کہ جا کر اس سے سلم کے گیہوں لے لو تو اس کا لینا صحیح ہے یعنی قبضہ ہو جائے گا۔ (ہدایہ)

۷۔ مسئلہ: بیع سلم میں یہ شرط ٹھہری کہ فلاں جگہ وہ چیز دے گا۔ مسلم الیہ نے دوسری جگہ وہ چیز دیا اور کہا کہ یہاں سے وہاں تک کی مزدوری میں دوں گا رب السلم نے چیز لے لی یہ قبضہ درست ہے مگر مزدوری لینا جائز نہیں۔ مزدوری جو لے چکا ہے واپس کرے ہاں اگر اس کو پسند نہیں کرتا کہ مزدوری اپنے پاس سے خرچ کرے تو چیز واپس کر دے اور اس سے کہہ دے کہ جہاں پہنچانا ٹھہرا ہے وہ خود مزدوری کر کے یا جیسے چاہے پہنچائے۔ (عالمگیری) یہ طے ہوا کہ رب السلم کے مکان پر پہنچائے گا اور مسلم الیہ کو اپنے مکان کا پورا پتہ بتا دیا ہے تو درست ہے۔

۹۔ عاریت

ضرورت کے وقت کسی دوسرے سے کوئی چیز مانگ لینے کو عاریت کہا جاتا ہے۔ شریعت نے ایسا کرنے کو جائز قرار دیا ہے کہ کسی سے چیز مانگ لی جائے اور اس سے غرض پوری کرنے کے بعد اسے واپس کر دی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام رضہ ورت کے وقت اشیاء ریضہ لے لیا کرتے تھے اور پھر واپس لوٹا دیتے۔ عاریت شدہ چیز کا حکم امانت کی طرح ہے اس کی حفاظت کرنا اور اسے واپس کرنا عاریت لینے والے کا فرض ہے۔ عاریت کے متعلق چند احادیث مندرجہ ذیل ہیں۔

۱۔ حدیث: حضرت قتادہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت انس کو فرماتے ہوئے سنا کہ یہ مرتبہ مدینہ منورہ میں بیٹھ گیا ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طلحہ سے اس کا

گھوڑا عاریتہ لیا اس کا نام مندوب تھا آپ سوار ہوئے اور خبر معلوم کرنے کیلئے نکلے جب واپس لوٹے تو فرمایا ہم نے خوف والی کوئی بات نہیں دیکھی اور تحقیق کے دوران ہم نے اس گھوڑے کو کشادہ قدم پایا ہے۔ (بخاری شریف)

۲۔ حدیث: حضرت سائب بن یزید اپنے باپ سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ فرمایا کوئی شخص ہنسی ہنسی میں اپنے بھائی کی لاشی رکھنے کے قصد سے نہ لے شخص اپنے بھائی کی لاشی پکڑے وہ اس کو واپس کر دے۔ (ترمذی)

۳۔ حدیث: حضرت امیہ بن صفوان اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کے دن ان سے عاریتہ زرہیں لیں۔ صفوان نے کہا مجھ سے چھینتے ہو اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) فرمایا نہیں بلکہ عاریتہ لیتا ہوں کہ واپس کر دی جائیں گی۔ (ابوداؤد)

۴۔ حدیث: حضرت ابو امامہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فرماتے تھے عاریتہ لی ہوئی چیز واپس کی جائے۔ منجہ (دودھ پینے کیلئے کسی دوسرے شخص گائے بھینس وغیرہ دینا) کو واپس کیا جائے قرض ادا کیا جائے اور ضامن ضمانت بھرنے والا ہے۔ (ترمذی)

ان احادیث سے واضح ہوا کہ دوسرے شخص کو چیز کی منفعت کا بغیر عوض مالک کر دینا عاریت ہے۔ جس کی چیز ہے اسے معیر کہتے ہیں اور جس کو دی گئی مستعیر کہتے ہیں اور چیز کو مستعار کہتے ہیں عاریت کیلئے ایجاب و قبول ہونا ضروری ہے اگر کوئی فعل ایسا کیا جس سے قبول معلوم ہوتا ہو تو یہ فعل ہی قبول ہے مثلاً کسی سے کوئی چیز مانگی اس نے لا کر دے دی اور کچھ نہ کہہ عاریت ہوگئی اور اگر وہ شخص خاموش رہا کچھ نہیں بولا تو عاریت نہیں۔

عاریت کا حکم یہ ہے کہ چیز مستعیر کے پاس امانت ہوتی ہے اگر مستعیر نے تعدی نہیں کی ہے اور چیز ہلاک ہوگئی تو ضمان واجب نہیں اور اس کیلئے شرط یہ ہے کہ شے مستعار انتفاع کے قابل ہو اور عوض لینے کی اس میں شرط نہ ہو۔ اگر معاوضہ شرط ہو تو اجارہ ہو جائے گا اگرچہ عاریت ہی کا لفظ بولا ہو۔ منافع کی جہالت اس کو فاسد نہیں کرتی اور عین مستعار کی جہالت سے عاریت فاسد ہے۔ مثلاً ایک شخص سے سواری کیلئے گھوڑا مانگا اس نے کہا اصطلیل میں دو گھوڑے بندھے ہیں ان میں سے ایک لے لو۔ مستعیر ایک لے کر چلا گیا اگر ہلاک ہو گیا ضمان دینا ہوگا اور اگر مالک نے کہا کہ ان میں سے جو تو چاہے ایک لے لے تو ضمان نہیں۔ بغیر مانگے کسی نے کہہ دیا یہ

میرا گھوڑا ہے اس پر سواری کر لو یا غلام ہے اس سے خدمت لو یہ عاریت نہیں یعنی خرچہ مالک کو دینا ہوگا اس کے ذمہ نہیں۔

عاریت کے بعض الفاظ یہ ہیں:- میں نے یہ چیز عاریت دی۔ میں نے یہ زمین تمہیں کھانے کو دی یہ کپڑا پہننے کو دیا۔ یہ جانور سواری کو دیا۔ یہ مکان تمہیں رہنے کو دیا۔ یا ایک مہینے کیلئے رہنے کو دیا یا عمر بھر کیلئے دیا۔ یہ جانور تمہیں دیتا ہوں اس سے کام لینا اور کھانے کو دینا۔

۱۔ مسئلہ: جس طرح برتنے کی اجازت مالک نے دی ہو اسی طرح برتنا جائز ہے اس کے خلاف کرنا درست نہیں اگر خلاف کریگا تو جاتے رہنے پر تاوان دینا پڑے گا جیسے کسی نے اوڑھنے کو دوپٹہ دیا یہ اس کو بچھا کر لیٹ گئی اس لیے وہ خراب ہو گیا۔ یا چار پائی پر اتنے آدمی لد گئے کہ وہ ٹوٹ گئی یا شیشے کا برتن آگ پر رکھ دیا وہ ٹوٹ گیا یا اور کچھ ایسی خلاف بات کی تو تاوان دینا پڑے گا اسی طرح اگر چیز مانگ کر لائی اور یہ بد منتی کی کہ اب اس کو لوٹا کر نہ دوں گی بلکہ ہضم کر جاؤں گی تب بھی تاوان دینا پڑے گا۔ (در مختار)

۲۔ مسئلہ: مستعیر نے عاریت کو کرایہ پر دے دیا۔ یا رہن رکھ دیا اور چیز ہلاک ہو گئی۔ مالک مستعیر سے تاوان وصول کر سکتا ہے اور یہ کسی سے رجوع نہیں کر سکتا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مستاجر یا مرتہن سے تاوان وصول کرے پھر یہ مستعیر سے واپس لیں کیونکہ اسی کی وجہ سے یہ تاوان ان پر لازم آیا۔ یہ اس وقت ہے کہ مستاجر کو یہ معلوم نہ تھا کہ پرانی چیز کرایہ پر چلا رہا ہے اور اگر معلوم تھا تو تاوان کی واپسی نہیں ہو سکتی کیونکہ اس کو کسی نے دھوکا نہیں دیا ہے۔ (ہدایہ)

۳۔ مسئلہ: مستعیر نے عاریت کی چیز کرایہ پر دیدی اور چیز ہلاک ہو گئی اس کو تاوان دینا پڑا تو جو کچھ کرایہ میں وصول ہوا ہے اس کا مالک یہی ہے مگر اسے صدقہ کر دے۔ (عالمگیری)

۴۔ مسئلہ: زمین عاریت لی کہ اس میں مکان بنائے گا یا درخت لگائے گا یہ عاریت صحیح ہے اور مالک زمین کو اختیار ہے کہ جب چاہے اپنی زمین خالی کرالے۔ کیونکہ عاریت میں کوئی پابندی مالک پر لازم نہیں اور اگر مکان یا درخت کھود کر نکالنے میں زمین خراب ہو جانے کا اندیشہ ہو تو اس ملبہ کی جو مکان کھودنے کے بعد قیمت ہوگی یا درخت کے کاٹنے کے بعد جو قیمت ہوگی مالک زمین سے دلا دی جائے اور مالک مکان و درخت اپنے مکان و درخت کو بھنسے چھوڑ دے۔ مالک زمین نے مستعیر کیلئے کوئی مدت مقرر کر دی تھی مثلاً دس سال کے لیے یہ زمین مکان بنانے کو یا درخت لگانے کو عاریت دی اور مدت پوری ہونے سے پہلے

زمین واپس لینا چاہتا ہے اگرچہ یہ مکروہ اور وعدہ خلافی ہے مگر واپس لے سکتا ہے کیونکہ یہ عقد اس کے ذمہ قضاء لازم نہیں مگر اس عمارت اور درخت کی وجہ سے مستعیر کا جو کچھ نقصان ہو مالک زمین اس کو ادا کر دے یعنی کھڑی عمارت کی قیمت لگائی جائے اور ملکہ جدا کر دینے کے بعد جو قیمت ہو اس میں عمارت کی قیمت سے جو کمی ہو مالک زمین یہ رقم مستعیر کو دے۔ (در مختار)

۵۔ مسئلہ: عاریت دینے والا جب چاہے اپنی زمین واپس لے سکتا ہے جب یہ واپس لے سکتا ہے تو مالک کو عاریت ہو جائے گی۔ عاریت کی ایک مدت مقرر کر دی تھی مثلاً ایک ماہ کے لیے۔ چیز دی اور مالک مدت پوری ہونے سے قبل مطالبہ کر لے تو عاریت باطل ہوگئی۔ اگرچہ مالک کو ایسا کرنا مکروہ و ممنوع ہے کہ وعدہ خلافی ہے مگر واپس لینے میں اگر مستعیر کا نقصان ظاہر ہو تو چیز اس کے قبضہ سے نکال سکتا بلکہ چیز اس مدت تک مستعیر کے پاس بطور اجارہ رہے گی۔ مالک کو اجرت مثل ملے گی۔ مثلاً ایک شخص کی لونڈی کو بچہ کے دودھ پلانے کیلئے عاریت پر لیا۔ اور اندرون مدت رضاعت مالک لونڈی کو مانگتا ہے اور بچہ دوسری عورت کا دودھ نہیں لیتا۔ جب تک مدت پوری نہ ہو لونڈی نہیں لے سکتا۔ ہاں اس زمانہ کی واجبی اجرت وصول کر سکتا ہے۔ کیونکہ عاریت باطل ہوگئی جہاد کیلئے گھوڑا عاریت لیا تھا اور چار ماہ اس کی مدت تھی وہ مہینے کے بعد مالک اپنے گھوڑے کو واپس لینا چاہتا ہے۔ اگر اسلامی علاقہ میں سے مالک کو واپس دے دیا جائے گا اور اگر بلاد مشرق میں مطالبہ کرتا ہے ایسی جگہ کو نہ وہاں کرایہ پر گھوڑا مل سکتا ہے نہ خرید سکتا ہے تو مستعیر واپس دینے سے انکار کر سکتا ہے اور ایسی جگہ تک آنے کا کرایہ دے گا جہاں کرایہ پر گھوڑا ملتا ہو یا خریداجا سکتا ہو۔ (در مختار)

۱۰۔ ہبہ

اپنی کسی چیز کو بلا معاوضہ کسی دوسرے کی ملکیت میں دے دینے کا نام ہبہ ہے۔ ہبہ کرنے والے کو واہب کہا جاتا ہے اور جسے کوئی چیز ہبہ کی جاتی ہے اسے موہوب لہ کہا جاتا ہے۔ اسلام میں ہبہ کی بہت فضیلت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہبہ کی بہت تاکید فرمائی ہے۔ چند احادیث مندرجہ ذیل ہیں:

۱۔ حدیث: حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دوسروں کو چیزیں دیا کرو کیونکہ اس سے حسد دور ہو جاتا ہے۔ (ترمذی)

۲۔ حدیث: حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ

ہدیہ دیا کرو کیونکہ اس سے سینے کا کھوٹ دور ہو جاتا ہے اور پڑوس میں خواہ کوئی معمولی چیز ہی کیوں نہ ہو ہدیے کے طور پر بھیجا کرو خواہ وہ بکری کا پاپیہ ہی کیوں نہ ہو۔ (ترمذی)

۳۔ حدیث: حضرت میمونہ بنت حارثؓ روایت کرتی ہیں کہ انہوں نے ایک لوٹھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں آزاد کی اور اس کا تذکرہ نبی علیہ السلام سے کیا تو آپؐ نے فرمایا اگر تم اس کو اپنے ماموں کو دے دیتی تو زیادہ ثواب ملتا۔ (بخاری)

۴۔ حدیث: حضرت عائشہ صدیقہؓ عرض گزار ہوئیں کہ یا رسول اللہ! میرے دو پڑوسی ہیں ان میں سے کس کو ہدیہ دوں؟ آپؐ نے فرمایا جس کا دروازہ تم سے زیادہ قریب ہو۔ (بخاری)

۵۔ حدیث: حضرت ابو ذرؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم شور باپکاؤ تو اس میں پانی زیادہ ڈال کر اپنے پڑوسیوں کو ہدیہ کرو۔ (مسلم)

۶۔ حدیث: حضرت ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب کھانے کی کوئی چیز پیش کی جاتی تو آپؐ لانے والے سے دریافت فرماتے کہ یہ ہدیہ ہے یا صدقہ؟ اگر بتایا جاتا کہ یہ صدقہ ہے تو آپؐ مستحق صحابہؓ سے فرماتے تم کھا لو اور خود نہ کھاتے اور اگر کہا جاتا کہ ہدیہ ہے تو اپنا ہاتھ کھانے میں ڈالتے اور خود بھی صحابہؓ کے ساتھ تناول فرماتے۔ (مسلم شریف)

۷۔ حدیث: حضرت عائشہؓ روایت کرتی ہیں کہ جناب بریرہؓ (حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی آزاد شدہ باندی) کیلئے تین خصوصیات ہیں۔

(۱) ان کو آزاد کیا گیا۔

(۲) انہیں اپنے خاوند کے پاس رہنے کا اختیار دیا گیا۔

(۳) ان کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا حق ولا اس کیلئے ہے جو آزاد کرے۔

ایک مرتبہ سرکارِ دُعا حضرت عائشہؓ کے یہاں آئے تو ہانڈی میں گوشت پک رہا تھا۔ آپ کے سامنے روٹی اور گھر کا سالن پیش کیا گیا تو سرکار نے فرمایا کیا مجھے وہ ہانڈی نہیں دکھاؤ گی جس میں گوشت پک رہا ہے تو عرض کی گئی کیوں نہیں۔ ہانڈی میں وہ گوشت ہے جو جناب بریرہؓ کو صدقہ کیا گیا تھا اور آپؐ صدقہ نہیں کھاتے ہیں۔ اس وقت سرکار نے فرمایا

صدقہ تو بریرہ کیلئے ہے اور ہمارے لیے یہ ہدیہ ہے (بریرہ کی طرف سے) (بخاری شریف)
 ۸۔ حدیث: حضرت عائشہؓ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول فرما لیتے تو اس کے بدلہ میں کچھ عنایت فرماتے تھے۔ (بخاری)

۹۔ حدیث: حضرت ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے کراہ میں بلایا جائے تو میں دعوت قبول کر لوں اور اگر مجھے ہدیہ میں دی جائے تو اس کو شرف قبول بخشوں گا۔ (بخاری)

ہبہ کے متعلق شرعی مسائل مندرجہ ذیل ہیں:

۱۔ مسئلہ: ہبہ دو قسم ہے ایک تملیک دوسرا اسقاط۔ مثلاً جس پر مطالبہ تھا مطالبہ اسے ہبہ کرنا اس کو ساقط کرنا ہے۔ مدیون کے سوا دوسرے کو دینا ہبہ کرنا اس وقت صحیح ہے کہ قبضہ کا بھی اس کو حکم دے دیا ہو اور قبضہ کا حکم نہ دیا ہو تو صحیح نہیں۔ (بحر الرائق)

۲۔ مسئلہ: ہبہ کے بہت سے الفاظ ہیں مثلاً میں نے تجھے ہبہ کیا یہ چیز تمہیں کھانے کو دی یہ چیز میں نے فلاں کیلئے یا تیرے لیے کر دی میں نے یہ چیز تیرے نام کر دی میں نے اس چیز کا تجھے مالک کر دیا اگر قرینہ ہو تو ہبہ ہے ورنہ نہیں کیونکہ مالک کرنا بیع وغیرہ بہت چیزوں کو شامل ہے عمر بھر کیلئے یہ چیز دے دی اس گھوڑے پر سوار کر دیا یہ کپڑا پہننے کو دیا میرا یہ مکان تمہارے لیے عمر بھر رہنے کو ہے یہ درخت میں نے اپنے بیٹے کا نام لگایا ہے۔ (بہار شریعت)

۳۔ مسئلہ: ہبہ صحیح ہونے کی چند شرطیں ہیں۔ واہب کا عاقل ہونا بالغ ہونا مالک ہونا بالغ کا ہبہ صحیح نہیں اسی طرح غلام کا ہبہ کرنا بھی کہ یہ کسی چیز کا مالک ہی نہیں۔ جو چیز ہبہ کی جائے وہ موجود ہو اور قبضہ میں ہو۔ مشاع نہ ہو متمیز ہو مشغول نہ ہو۔ اس کے ارکان ایجاب و قبول ہیں اور اس کا حکم یہ ہے کہ ہبہ کرنے سے چیز موہوب لہ کی ملک ہو جاتی ہے اگرچہ یہ ملک لازم نہیں ہے اس میں خیار شرط صحیح نہیں۔ مثلاً ہبہ کیا اور موہوب لہ کیلئے تین دن کا اختیار دیا اور وہاں اگر جدائی سے پہلے اس سے ہبہ کو اختیار کر لیا تو ہبہ صحیح ہو گیا ورنہ نہیں اور اگر واہب نے اپنے لیے تین دن کا خیار رکھا ہے تو ہبہ صحیح ہے اور خیار باطل شرط فاسدہ سے ہبہ باطل نہیں ہوتا بلکہ خود شرطیں ہی باطل ہو جاتی ہیں۔ مثلاً ایک شخص کو اپنا غلام اس شرط پر ہبہ کیا کہ وہ غلام کو آزاد کر دے۔ ہبہ صحیح ہے اور شرط باطل ہے۔ (فتاویٰ عالمگیری)

۴۔ مسئلہ: بیہ کیلئے قبول ضروری ہے یعنی موہوب لہٰذا جب تک قبول نہ کرے اس کے حق میں بیہ نہیں ہوگا۔ اگرچہ واہب کے حق میں فقط ایجاب سے بیہ ہو جائے گا۔ بخلاف بیع کے کہ جب تک اس میں ایجاب و قبول دونوں نہ ہوں بائع و مشتری کسی کے حق میں بیع نہیں۔ اس کا حاصل یہ ہوا کہ مثلاً قسم کھائی تھی کہ یہ چیز فلاں کو بیہ کر دوں گا اس نے ایجاب کیا مگر اس نے قبول نہ کیا۔ قسم میں سچا ہو گیا اور اگر قسم کھاتا کہ اسے فلاں کے ہاتھ بیع کروں گا اور ایجاب کیا مگر اس نے قبول نہیں کیا عانت ہو گیا۔ قسم ٹوٹ گئی۔ بیہ کا قبول کرنا کبھی الفاظ سے ہوتا ہے اور کبھی فعل سے۔ مثلاً اس نے ایجاب کیا یعنی کہا میں نے یہ چیز تمہیں بیہ کر دی۔ اس نے بیہ تمام ہو گیا (بہار شریف)

۵۔ مسئلہ: بیہ تمام ہونے کیلئے قبضہ کی بھی ضرورت ہے بغیر اس کے بیہ تمام نہیں ہوتا۔ پھر اگر اسی مجلس میں قبضہ کرے تو واہب کی اجازت کی بھی ضرورت نہیں اور مجلس بدل جانے کے بعد قبضہ کرنا چاہتا ہے تو اجازت درکار ہے۔ ہاں اگر جس مجلس میں بیہ کیا ہے اس نے کہا دیا ہے کہ تم قبضہ کرو تو اب اجازت حاصل کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہی پہلی اجازت کافی ہے۔ (در مختار)

۶۔ مسئلہ: قبضہ پر قادر ہونا بھی قبضہ ہی کے حکم میں ہے مثلاً صندوق میں کپڑے ہیں اور کپڑے بیہ کر کے صندوق اسے دے دیا۔ اگر صندوق مقفل ہے قبضہ نہیں ہوا اور قفل کھلا ہوا ہے قبضہ ہو گیا یعنی بیہ تمام ہو گیا کہ قبضہ پر قادر ہو گیا۔ (بہار شریف)

۷۔ مسئلہ: ایک شخص نے ہنسی مذاق کے طور پر دوسرے سے چیز بیہ کرنے کو کہا مثلاً یار دوستوں میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مذاق میں کہتے ہیں مٹھائی کھلاؤ یا یہ چیز دے دو۔ مگر اس نے سچ سچ وہ بیہ کر دیا یہ صحیح ہے۔ کبھی اس طرح بھی بیہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ میں نے یہ چیز تم میں سے ایک کیلئے بیہ کر دی جس کا جی چاہے لے لے ان میں سے ایک نے لے لی بیہ درست ہو گیا وہ مالک ہو گیا۔ یا کہہ دیا میں نے اپنے باغ کے پھل کی اجازت دے دی ہے جو چاہے لے لے جو لے گا مالک ہو جائے گا۔ اور اگر ایسے شخص نے لیا جس کو واہب کے اس بیہ کی خبر نہیں پہنچی ہے اس کو لینا جائز نہیں۔ اور علم سے پہلے کھایا تو حرام ہو گیا۔ (فتاویٰ عالمگیری)

۸۔ مسئلہ: معدوم شے کا بیہ باطل ہے۔ قبضہ ہونے کے بعد بھی موہوب لہٰذا کی ایک نہیں

ہوگی۔ مثلاً کہا ان گیلہوں کا آٹا بہہ کر دیا۔ تلوں میں جو تیل سے بہہ گیا۔ دودھ میں جو گھی ہے بہہ گیا، لوٹھی کے پیٹ میں جو حمل ہے وہ بہہ گیا۔ ان صورتوں میں اگر آٹا پسا کر تلوں کو پلوا کر دودھ میں سے گھی نکال کر موہوب لہ کو دے بھی دے جب بھی اس کی ملک نہیں ہوگی، ہاں اب جدید بہہ کرے تو ہو سکتا ہے۔ (در مختار)

۹۔ مسئلہ: ایک شخص کو ایک چیز بہہ کی۔ موہوب لہ نے قبضہ نہیں کیا پھر اس شخص نے دوسرے کو وہی چیز بہہ کر دی اور دونوں سے قبضہ کرنے کو کہہ دیا۔ دونوں نے قبضہ کر لیا۔ تو چیز دوسرے موہوب لہ کی ہوگی پہلے کی نہیں اور اگر وہب نے پہلے موہوب لہ کو قبضہ کرنے کیلئے کہہ دیا اس نے قبضہ کر لیا تو یہ قبضہ باطل ہے۔ (فتاویٰ عالمگیری)

۱۰۔ مسئلہ: جو چیز بہہ کی ہے وہ پہلے ہی سے موہوب لہ کے قبضہ میں ہے تو ایجاب اور قبول کرتے ہی اس کی ملک ہوگئی۔ جدید قبضہ کی ضرورت نہیں۔ موہوب لہ کا وہ قبضہ قبضہ امانت ہو یا قبضہ ضمان۔ مثلاً اس کے پاس عاریت یا ودیعت کے طور پر ہے یا کرایہ پر ہے یا اس نے غصب کر رکھی ہے۔ اس کا قاعدہ کتاب البیوع میں بیان کیا گیا ہے کہ دو قبضے اگر ایک جنس کے ہوں یعنی دونوں قبضہ امانت ہوں یا دونوں قبضہ ضمان ہوں ان میں ایک دوسرے کے قائم مقام ہو جائے گا اگر دونوں دو جنس کے ہوں تو قبضہ ضمان قبضہ امانت کے قائم مقام ہو جائے گا اور قبضہ امانت قبضہ ضمان کے قائم مقام نہیں ہوگا۔ (در مختار)

۱۱۔ شرکت

دو یا دو سے زائد افراد کامل کر خرید و فروخت کرنا شرکت کہلاتا ہے۔ کاروباری شرکت معاہدہ ضروری ہے۔ ایک کہے کہ میں تیرے فلاں کام میں شریک ہوں اور دوسرا کہے کہ مجھے منظور ہے شرکت دو طرح کی ہے ایک جبری اور دوسری اختیاری۔ پہلی قسم کی شرکت میں مال بالکل ایک دوسرے سے ملا ہوتا ہے اور اسے علیحدہ کرنا مشکل ہوتا ہے جیسا کہ وراثت کی شرکت۔ جبکہ دوسری قسم کی شرکت میں مال ایک دوسرے کے ساتھ تو ہوتا ہے لیکن اسے علیحدہ کرنا آسان ہوتا ہے۔ شرکت کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مندرجہ ذیل ہیں:

۱۔ حدیث: حضرت عروہ بن ابوالجعد باریؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک دینار عطا فرمایا کہ آپ کیلئے ایک بکری خرید لائیں۔ انہوں نے آپ کیلئے دو بکریاں خرید لیں۔ جن میں سے ایک بکری ایک دینار میں بیچ دی۔ یوں بکری اور ایک

دینار لے کر حاضر بارگاہ ہوئے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کیلئے تجارت میں برکت کی دعا فرمائی لہذا وہ مٹی بھی خریدتے تو اس میں بھی نفع ہوتا۔ (بخاری)

۲۔ حدیث : زہرہ بن معبد سے روایت ہے کہ وہ اپنے جد امجد حضرت عبداللہ بن ہشامؓ کے ساتھ بازار کی طرف نکلا کرتے جو غلہ خریدا کرتے تھے۔ انہیں حضرت ابن عمرؓ اور حضرت ابن زبیرؓ ملا کرتے تو کہتے کہ ہمیں بھی شریک کر لیجئے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کیلئے برکت کی دعا فرمائی تھی۔ پس وہ انہیں شریک کر لیتے بعض اوقات وہ منافع میں ایک اونٹ کا بوجھ غلہ گھر بھیجا کرتے کیونکہ حضرت عبداللہ بن ہشامؓ کو لے کر ان کی والدہ ماجدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تھیں تو آپ نے ان کے سر پر دست مبارک پھیرا اور ان کیلئے دعائے برکت فرمائی تھی۔ (بخاری)

۳۔ حدیث : حضرت صہیبؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزوں میں برکت ہے۔ تجارت مقرر کر کے مضاربت اور تجارت کیلئے نہیں بلکہ اپنے کھانے کیلئے گندم اور جو کو ملا لینا۔ (ابن ماجہ)

۴۔ حدیث : حضرت ابو ہریرہؓ کا بیان ہے کہ انصار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے کہ کھجور کے درختوں کو ہمارے مہاجرین بھائیوں کے درمیان تقسیم کر دیجئے۔ فرمایا نہیں تمہارے لیے ہماری محنت کافی ہے لہذا ہم تمہارے بچلوں میں شریک ہو جاتے ہیں۔ انصار عرض گزار ہوئے کہ ہم نے سن لیا اور مان لیا۔ (بخاری)

۵۔ حدیث : حضرت ابو ہریرہؓ سے مرفوعاً روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دو ساتھیوں کے ساتھ تیسرا میں ہوتا ہوں۔ جب تک اپنے ایک ساتھی سے خیانت نہیں کرتا۔ جب کوئی ایک خیانت کرتا ہے تو میں دونوں کے درمیان سے نکل جاتا ہوں۔ (ابوداؤد)

۶۔ حدیث : حضرت حکیم بن حزامؓ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک دینار دے کر قربانی کا جانور خریدنے کیلئے بھیجا پس انہوں نے ایک دینار کا مینڈھا خرید لیا اور اسے دو دینار میں فروخت کر دیا۔ پس واپس گئے اور ایک دینار میں قربانی خرید لی۔ پتہ چلے کہ قربانی کا جانور اور ایک دینار لے کر حاضر بارگاہ ہوئے جو دوسرے دینار سے بچ گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دینار خیرات کر دیا اور ان کیلئے تجارت میں برکت کی دعا فرمائی۔ (ترمذی، ابوداؤد)

۷۔ **حدیث:** حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امانت ادا کرو۔ جس نے تمہیں امانت دار سمجھا اور جو تم سے خیانت کرے تو تم اس سے خیانت نہ کرو۔ (ترمذی، ابوداؤد، دارمی)

شرکت کے متعلق شرعی مسائل مندرجہ ذیل ہیں:

۱۔ **مسئلہ:** شرکت ملک میں ہر ایک اپنے حصہ میں تصرف کر سکتا ہے اور دوسرے کے حصہ میں بمنزلہ اجنبی ہے لہذا اپنا حصہ بیع کر سکتا ہے اس میں شریک سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں اسے اختیار ہے کہ شریک کے ہاتھ بیع کرے یا دوسرے کے ہاتھ۔ مگر شرکت اگر اس طرح ہوئی کہ اصل میں شرکت نہ تھی مگر دونوں نے اپنی چیزیں ملا دیں یا دونوں کی چیزیں مل گئیں اور غیر شریک کے ہاتھ بیچنا چاہتا ہے تو شریک سے اجازت لینا پڑے گی۔ یا اصل میں شرکت ہے مگر بیع کرنے میں شریک کو ضرر ہوتا ہے تو بغیر اجازت شریک غیر شریک کے ہاتھ بیع نہیں کر سکتا۔ مثلاً مکان یا درخت یا زراعت مشترک ہے تو بغیر اجازت بیع نہیں کر سکتا کہ مشتری تقسیم کرانا چاہے گا اور تقسیم میں شریک کا نقصان ہے۔ ہاں اگر زراعت تیار ہے یا درخت کاٹنے کے لائق ہو گیا اور پھل دار درخت نہیں ہے تو اب اجازت کی ضرورت نہیں کہ اب کٹوانے میں کسی کا نقصان نہیں۔ مشترک چیز اگر قابل تقسیم نہ ہو جیسے حمام، چکی، غلام، چوپایہ اس کی بیع بغیر اجازت بھی جائز ہے۔ (درمختار)

۲۔ **مسئلہ:** شرکت عقد میں ایجاب و قبول ضروری ہے خواہ لفظوں میں ہوں یا قرینہ سے ایسا سمجھا جاتا ہو۔ مثلاً ایک نے ایک ہزار روپے دیے اور کہا تم بھی اتنا نکالو اور کوئی چیز خریدو نفع جو کچھ ہوگا دونوں کا ہوگا۔ دوسرے نے روپے لے لیے تو اگرچہ قبول لفظاً نہیں مگر روپیہ لے لینا قبول کے قائم مقام ہے۔ (درمختار)

۳۔ **مسئلہ:** نفع میں کم و بیش کے ساتھ بھی شرکت ہو سکتی ہے مثلاً ایک کی ایک تہائی اور دوسرے کی دو تہائی۔ اور جو کچھ نقصان ہو گا وہ اس المال کے حساب سے ہوگا اس کے خلاف شرط کرنا باطل ہے۔ مثلاً دونوں کے روپے برابر ہیں اور شرط یہ کی کہ جو کچھ نقصان ہوگا اس کی تہائی فلاں کے ذمہ اور دو تہائیاں فلاں کے ذمہ۔ یہ شرط باطل ہے اور اس صورت میں دونوں کے ذمہ نقصان برابر ہوگا۔ (درمختار)

۴۔ **مسئلہ:** شرکت عقد کی چند قسمیں ہیں۔ شرکت بالمال، شرکت بالعمل، شرکت وجوہ

پھر ہر ایک دو قسم ہے۔ مفاوضہ اور عنان۔ یہ کل چھ قسمیں ہیں۔ شرکت مفاوضہ یہ ہے کہ ہر ایک دوسرے کا وکیل و کفیل ہو یعنی ہر ایک کا مطالبہ دوسرا وصول کر سکتا ہے اور ہر ایک پر جو مطالبہ ہوگا دوسرا اس کی طرف سے ضامن ہے اور شرکت مفاوضہ میں یہ ضرور ہے کہ دونوں کے مال برابر ہوں اور نفع میں دونوں برابر کے شریک ہوں اور تصرف و دین میں بھی مساوات ہو۔ لہذا آزاد و غلام میں اور نابالغ و بالغ میں اور مسلمان و کافر میں اور عاقل و مجنون میں اور دونوں بالغوں میں اور دو غلاموں میں شرکت مفاوضہ نہیں ہو سکتی۔

شرکت عنان یہ ہے کہ دو شخص کسی خاص نوع کی تجارت یا ہر قسم کی تجارت میں شرکت کریں۔ مگر ہر ایک دوسرے کا ضامن نہ ہو۔ صرف دونوں شریک آپس میں ایک دوسرے کے وکیل ہونگے لہذا شرکت عنان میں شرط یہ ہے کہ ہر ایک ایسا ہو جو دوسرے کو وکیل بنا سکے۔

شرکت عنان مرد و عورت کے درمیان، مسلم و کافر کے درمیان، بالغ اور نابالغ عاقل کے درمیان جب کہ نابالغ کو اس کے ولی نے اجازت دے دی ہو اور آزاد و غلام ماذون کے درمیان ہو سکتی ہے۔ (فتاویٰ عالمگیری)

۱۲۔ مضاربت

کسی کے ساتھ کاروبار میں رقم لگا کر نفع حاصل کرنے کو مضاربت کہا جاتا ہے۔ مضاربت ایک طرح کی شرکت ہے جو ایک طرف مال سے ہوتی ہے اور دوسری طرف محنت سے ہوتی ہے یعنی اگر کوئی شخص کسی کو رقم دے اور وہ اس سے تجارت کر کے نفع حاصل کرے تو رقم لگانے والا بھی نفع میں حصہ دار ہوگا۔ اس طرح منافع حاصل کرنے کو مضاربت کہتے ہیں۔ اسلام میں مضاربت کو جائز قرار دیا گیا ہے مگر اس کی چند شرائط ہیں جو حسب ذیل ہیں:

(۱) مضاربت میں لگنے والا مال چالو ہونا چاہئے۔

(۲) اس المال معلوم ہونا چاہئے۔

(۳) اس المال میں ہونا چاہئے قرض وغیرہ نہیں ہونا چاہئے۔

(۴) اس المال کو مضارب کے قبضے میں دینا ضروری ہے۔

(۵) نفع صرف مضاربت کرنے والوں میں تقسیم ہونا چاہئے۔

(۶) ہر ایک کا حصہ مقرر شدہ ہونا چاہیے۔

۱۔ **مسئلہ:** مضاربت میں ایک جانب سے مال ہو اور ایک جانب سے کام مال دینے والے کو رب المال اور کام کرنے والے کو مضارب اور مالک نے جو دیا ہے اسے اس المال کہتے ہیں اور اگر تمام نفع رب المال ہی کیلئے دینا قرار پایا تو اس کو ابضاع کہتے ہیں اور اگر کل کام کرنے والے کیلئے طے پایا تو قرض ہے۔ اس عقد کی لوگوں کو حاجت ہے کیونکہ انسان مختلف قسم کے ہیں۔ بعض مالدار ہیں اور بعض تہی دست۔ بعض مال والوں کو کام کرنے کا سلیقہ نہیں ہوتا۔ تجارت کے اصول و فروع سے نا واقف ہوتے ہیں اور بعض غریب کام کرنا جانتے ہیں مگر ان کے پاس روپیہ نہیں لہذا تجارت کیونکر کریں۔ اس عقد کی مشروعیت میں یہ مصلحت ہے کہ امیر و غریب دونوں کو فائدہ پہنچے۔ مال والے کو روپیہ دے کر اور غریب آدمی کو اس کے روپے سے کام کر کے۔

۲۔ **مسئلہ:** مضاربت کا حکم یہ ہے کہ جب مضارب کو مال دیا گیا اس وقت وہ امین ہے اور جب اس نے کام شروع کیا اب وہ وکیل ہے اور جب کچھ نفع ہوا تو اب شریک ہے اور رب المال کے حکم کے خلاف کیا تو غاصب ہے اور مضاربت فاسد ہوگئی تو وہ اجیر ہے اور اجارہ بھی فاسد۔ (درمختار)

۳۔ **مسئلہ:** مضاربت میں جو کچھ خسارہ ہوتا ہے وہ رب المال کا ہوتا ہے اگر یہ چاہے کہ خسارہ مضارب کو ہو مال والے کو نہ ہو تو اس کی صورت یہ ہے کہ کل روپیہ مضارب کو بطور قرض دے دے اور ایک روپیہ بطور شرکت عنان دے۔ یعنی اس کی طرف سے وہ کل روپے جو اس نے قرض میں دیے اور اس کا ایک روپیہ اور شرکت اس طرح کی کہ کام دونوں کریں گے اور نفع میں برابر کے شریک رہیں گے اور کام کرنے کے وقت تنہا وہی مستقرض کام کرتا رہا اس نے کچھ نہیں کیا اس میں حرج نہیں کیونکہ اگر رب المال کام نہ کرے تو شرکت باطل نہیں ہوتی۔ اب اگر تجارت میں نقصان ہوا تو ظاہر ہے کہ اس کا ایک ہی روپیہ ہے سارا مال تو مستقرض کا ہے اس کا خسارہ ہوا۔ رب المال کا کیا ایسا خسارہ ہوا۔ کیونکہ جو کچھ مستقرض کو دیا ہے وہ قرض ہے اس سے وصول کرے گا۔ (درمختار)

۴۔ **مسئلہ:** مضارب و رب المال میں مضاربت کی صحت و فساد میں اختلاف ہے۔ اس کی دو صورتیں ہیں۔ اگر مضارب فساد کا باعث ہے تو وہ رب المال کا قول معتبر اور رب المال

نے فساد کا دعویٰ کیا تو مضارب کا قول معتبر۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ عقود میں جو مدعی صحت ہے اس کا قول معتبر ہوتا ہے ہاں اگر رب المال یہ کہتا ہے کہ تمہارے لیے دس کم تہائی نفع شرط تھا۔ مضارب کہتا ہے تہائی نفع میرے لیے تھا۔ یہاں رب المال کا قول معتبر ہے حالانکہ اس کے طور پر مضاربت فاسد ہے اور مضارب کے طور پر صحیح ہے کیونکہ یہاں مضارب زیادت کا مدعی ہے اور رب المال اس سے منکر۔ (در مختار)

۱۳۔ کفالت یعنی ذمہ داری

تجارتی معاملات میں بعض اوقات فروخت کرنے والے کو پوری رقم وصول نہیں ہوتی وہ بقایا رقم کے سلسلے میں خریدنے والے سے کسی چیز یا شخص کی ضمانت طلب کر لیتا ہے ایسی ضمانت کو کفالت کہا جاتا ہے۔ جو شخص ضامن بنتا ہے اسے کفیل کہا جاتا ہے جو شخص ضمانت طلب کرتا ہے اس کو مکفول کہتے ہیں اور جس کے ذمے چیز کی ادائیگی ہوتی ہے اسے رسیل کہا جاتا ہے اور جس چیز کی کفالت یعنی ذمہ داری لی جاتی ہے اسے مکفول بہ کہا جاتا ہے۔ کفالت کے متعلق شرعی مسائل مندرجہ ذیل ہیں:

۱۔ **مسئلہ:** کفالت کیلئے الفاظ مخصوص ہیں جو بیان کیے جائیں گے اور اس کا رکن ایجاب قبول بول ہے یعنی ایک شخص الفاظ کفالت سے ایجاب کرے دوسرا قبول کرے تہا کفیل ہے کہہ دینے سے کفالت نہیں ہو سکتی جب تک مکفول لے یا اجنبی شخص نے قبول نہ کیا ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مکفول لے یا اجنبی نے کسی سے کہا کہ تم فلاں کی کفالت کر لو اس نے کفالت کر لی یہ کفالت صحیح ہے۔ قبول کی اس صورت میں ضرورت نہیں اور اگر کفیل نے کفالت کی اور مکفول لے وہاں موجود نہیں ہے کہ قبول یا رد کرتا تو یہ کفالت مکفول لے کی اجازت پر موقوف ہے جب خبر پہنچی اس نے قبول کر لی کفالت صحیح ہو گئی اور جب تک مکفول لے نے جائز نہ کی ہو کفیل کفالت سے دست بردار ہو سکتا ہے۔ (فتاویٰ عالمگیری)

۲۔ **مسئلہ:** کفالت ایسے الفاظ سے ہوتی ہے جن سے کفیل کا ذمہ دار ہونا سمجھا جاتا ہے مثلاً خود لفظ کفالت ضمانت۔ یہ مجھ پر ہے میری طرف سے ہے میں ذمہ دار ہوں۔ یہ مجھ پر ہے کہ اس کو تمہارے پاس لاؤں فلاں شخص میری پہچان کا ہے یہ کفالت بالنفس ہے تمہارا جو کچھ فلاں پر ہے میں دوں گا یہ کفالت نہیں بلکہ وعدہ ہے تمہارا جو فلاں پر ہے میں دوں گا میں ادا کروں گا۔ کفالت نہیں ہے۔

۳۔ **مسئلہ:** کفالت کا حکم یہ ہے کہ اصل کی طرف سے اس نے جس چیز کی کفالت کی ہے اس کا مطالبہ اس کے ذمہ لازم ہو گیا یعنی طالب کیلئے حق مطالبہ ثابت ہو گیا وہ جب چاہے اس سے مطالبہ کر سکتا ہے اس کو انکار کی گنجائش نہیں۔ یہ ضرور نہیں کہ اس سے مطالبہ اسی وقت کرے جب اصل سے مطالبہ کر سکے بلکہ اصل سے مطالبہ کر سکتا ہو جب بھی کفیل سے مطالبہ کر سکتا ہے اور اصل سے مطالبہ شروع کر دیا جب بھی کفیل سے مطالبہ کر سکتا ہے ہاں اگر اصل سے اس نے اپنا حق وصول کر لیا تو کفالت ختم ہو گئی۔ اب کفیل بری ہو گیا۔ مطالبہ نہیں ہو سکتا۔ (درمختار)

۴۔ **مسئلہ:** کفالت اس وقت صحیح ہے کہ جب وہ اپنے ذمہ لازم کرے یعنی کوئی ایسا لفظ کہے جس سے التزام سمجھا جاتا ہو مثلاً یہ کہ میرے ذمہ ہے یا مجھ پر ہے۔ میں ضامن ہوں میں کفالت کرتا ہوں اور اگر فقط یہ کہا کہ فلاں کے ذمہ جو تمہارا روپیہ ہے اس کو میں تمہیں دوں گا میں تسلیم کروں گا۔ میں وصول کروں گا اس کہنے سے کفیل نہیں ہوا۔ اور اگر ان الفاظ کو تعلق کے طور پر کہا کہ وہ نہیں دے گا تو میں دوں گا میں ادا کروں گا یوں کہنے سے کفیل ہو گیا۔ (رد المحتار)

۵۔ **مسئلہ:** اگر کسی وجہ سے اصل سے اس وقت مطالبہ نہ ہو سکتا ہو اور اس کی کسی کی کفالت کر لی کفالت صحیح ہے اور کفیل سے اسی وقت مطالبہ ہو گا مثلاً غلام مجبور (جس کو مالک نے خرید و فروخت کی ممانعت کر دی ہو) اس نے کسی کی چیز ہلاک کر دی یا اس پر قرض ہے اس سے مطالبہ آزاد ہونے کے بعد ہو گا مگر کسی نے اس کی کفالت کر لی تو کفیل سے ابھی مطالبہ ہو گا۔ یونہی مدیون کے متعلق قاضی نے مفلسی کا حکم دے دیا تو اس سے مطالبہ موخر ہو گیا مگر کفیل سے موخر نہیں ہو گا۔ (رد المحتار)

۶۔ **مسئلہ:** عورت کا نفقہ جو زن و شوہر کی باہمی رضامندی سے مقرر ہوا ہے یا قاضی نے اس کو مقرر کر دیا ہے اس کی کفالت بھی ہو سکتی ہے یا قاضی کے حکم سے نفقہ کیلئے عورت نے قرض لیا ہے عورت اس کا مطالبہ شوہر سے کرے گی۔ شوہر کی طرف سے کسی نے کفالت کی یہ کفالت بھی صحیح ہے۔ آئندہ کے نفقہ کی ضمانت بھی درست ہے۔ ایام گزشتہ کا نفقہ باقی ہے مگر اس کا تقریباً تراخی سے ہوانہ حکم قاضی سے اس کی ضمانت صحیح نہیں۔ (درمختار)

۱۴۔ حوالہ

قرضہ کو اپنے ذمہ سے دوسرے کے ذمہ منتقل کر دینا حوالہ کہلاتا ہے۔ بعض اوقات مقروض قرض ادا کرنے سے عاجز ہوتا ہے اور وہ کسی اور آدمی کو کہہ دیتا ہے کہ میرا قرض ادا کر دو۔

تیسرا آدمی قرض کی ادائیگی کا ذمہ خود لے لیتا ہے اس طرح قرض کی ادائیگی کی منتقلی حوالہ کہلاتی ہے۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوا ہے کہ مقروض نے خود بھی کسی سے قرضہ وصول کرنا ہوتا ہے اور جس سے اس نے قرضہ وصول کرنا ہوتا ہے اسے وہ کہہ دیتا ہے کہ میرے قرضے کی رقم فلاں شخص کو دے دو جس کا میں خود مقروض ہوں۔ وہ قرضہ ادا کرنے والا اس ذمہ داری کو قبول کر لیتا ہے جسے شرعی اعتبار سے حوالہ کہا جاتا ہے۔ مقروض کو محیل اور قرض واپس لینے والے کو محال کہا جاتا ہے اور جس پر حوالہ کیا جاتا ہے اس کو ممال علیہ کہا جاتا ہے اور قرض کو محال بہ کہا جاتا ہے۔ حوالہ کے ارکان ایجاب و قبول ہیں اور اس کی شرائط مندرجہ ذیل ہیں:

(۱)۔ محیل کا عاقل بالغ ہونا، مجنون یا نابالغ نے حوالہ کیا یہ صحیح نہیں اور نابالغ عاقل نے جو حوالہ کیا یہ اجازت ولی پر موقوف ہے۔ اس نے جائز کر دیا تو نافذ ہو جائے گا ورنہ نافذ نہ ہوگا محیل کا آزاد ہونا شرط نہیں اگر غلام یا ذون لہ ہے تو محال علیہ دین ادا کرنے کے بعد اس سے وصول کر سکتا ہے اور مجبور ہے تو جب تک آزاد نہ ہو اس سے وصول نہیں کیا جاسکتا۔ محیل اگر مرض الموت میں مبتلا ہے جب بھی حوالہ درست ہے یعنی صحت شرط نہیں۔ محیل کا راضی ہونا بھی شرط نہیں یعنی اگر مدیون نے خود حوالہ نہ کیا بلکہ محال علیہ نے دائن سے یہ کہہ دیا کہ فلاں شخص پر جو تمہارا دین ہے اس کو میں اپنے اوپر حوالہ کرتا ہوں۔ تم اس کو قبول کرو اس نے منظور کر لیا حوالہ صحیح ہو گیا اس کو دین ادا کرنا ہوگا مگر مدیون سے اس صورت میں وصول نہیں کر سکتا کہ یہ حوالہ اس کے حکم سے نہیں ہوا۔

(۲)۔ محال کا عاقل ہونا۔ مجنون یا نابالغ نے حوالہ قبول کر لیا صحیح نہ ہو اور نابالغ سمجھدار نے کیا تو اجازت ولی پر موقوف ہے جبکہ محال علیہ بہ نسبت محیل کے زیادہ مالدار ہو۔

(۳)۔ محال کا راضی ہونا، اگر محال یعنی دائن کو حوالہ قبول کرنے پر مجبور کیا گیا حوالہ صحیح نہ ہوا۔

(۴)۔ محال کا اسی مجلس میں قبول کرنا یعنی اگر مدیون نے حوالہ کر دیا اور دائن وہاں موجود نہیں ہے جب اس کو خبر پہنچی اس نے منظور کر لیا یہ حوالہ صحیح نہ ہوا۔ ہاں اگر مجلس حوالہ میں کسی نے اس کی طرف سے قبول کر لیا جب خبر پہنچی اس نے منظور کر لیا یہ حوالہ صحیح ہو گیا۔

(۵)۔ محال علیہ کا عاقل بالغ ہونا۔ سمجھدار بچہ نے حوالہ قبول کر لیا جب بھی صحیح نہیں اگرچہ اسے تجارت کی اجازت ہو۔ اگرچہ اس کے ولی نے بھی منظور کر لیا ہو۔

(۶)۔ محال علیہ کا قبول کرنا۔ یہ ضرور نہیں کہ اسی مجلس حوالہ ہی میں اس نے قبول کیا ہو بلکہ اگر

وہاں موجود نہیں ہے مگر جب خبر ملی اس نے منظور کر لیا صحیح ہو گیا یہ ضرور نہیں کہ محیل کا اس کے ذمہ دین ہو یا نہ ہو جب قبول کرے گا صحیح ہو جائے گا۔

(۷) جس چیز کا حوالہ کیا گیا ہو وہ دین لازم ہو۔ عین کا حوالہ یا دین غیر لازم مثلاً بدل کتابت کا حوالہ صحیح نہیں۔ خلاصہ یہ کہ جس دین کی کفالت نہیں ہو سکتی اس کا حوالہ بھی نہیں ہو سکتا۔

حوالہ کے متعلق چند شرعی مسائل مندرجہ ذیل ہیں:

۱- **مسئلہ:** جب حوالہ صحیح ہو گیا۔ محیل یعنی مدیون دین سے بری ہو گیا جب تک دین کے ہلاک ہونے کی صورت پیدا نہ ہو محیل کو دین سے کوئی تعلق نہ رہا۔ دائن کو حق نہ رہا کہ اس سے مطالبہ کرے اگر محیل مر جائے محال اس کے ترکہ سے دین وصول نہیں کر سکتا البتہ ورثاء سے کفیل لے سکتا ہے تاکہ دین ہلاک ہونے کی صورت میں ترکہ سے دین وصول ہو سکے۔ دائن محیل کو معاف کرنا چاہے معاف نہیں کر سکتا نہ دین اسے ہبہ کر سکتا ہے کہ اس کے ذمہ دین ہی نہ رہا۔ مشتری نے بائع کو ثمن کا حوالہ کسی دوسرے پر کر دیا بائع بیع کو روک نہیں سکتا۔ راہن نے مرتہن کو دوسرے پر حوالہ کر دیا۔ مرتہن راہن کو روکنے کا حقدار نہ رہا یعنی راہن واپس کرنا ہو گا۔ عورت نے مہر معجل کا مطالبہ کیا تھا شوہر نے حوالہ کر دیا عورت اپنے نفس کو نہیں روک سکتی۔ (در مختار رد المحتار)

۲- **مسئلہ:** محال علیہ نے محیل سے یہ مطالبہ کیا کہ تمہارے حکم سے میں نے تم پر جو دین تھا ادا کر دیا لہذا وہ رقم مجھے دے دو۔ محیل نے جواب میں یہ کہا کہ میں نے تم پر حوالہ اس لیے کیا تھا کہ میرا دین تمہارے ذمہ تھا لہذا میرے ذمہ مطالبہ نہیں رہا۔ اس صورت میں محال علیہ کا قول معتبر ہے کیونکہ محیل نے حوالہ کا اقرار کر لیا اور حوالہ کیلئے یہ ضرورت نہیں کہ محیل کا محال علیہ کے ذمہ باقی ہو۔ (در مختار)

۳- **مسئلہ:** محیل پر میعاد دین تھا اس کا حوالہ کر دیا اور محیل مر گیا تو محال علیہ پر اب بھی میعاد ہے۔ محیل کے مرنے سے میعاد ساقط نہ ہوگی اور محال علیہ مر گیا تو میعاد جاتی رہی۔ اگرچہ محیل زندہ ہو ہاں اگر محال علیہ مفلس مرا کچھ ترکہ اس نے نہیں چھوڑا تو محیل کی طرف دین رجوع کرے گا اور وہ میعاد بھی ہوگی جو پہلے تھی۔ (عالمگیری)

۴- **مسئلہ:** زید کے عمر پر ہزار روپے واجب الادا ہیں اور زید نے اپنے دائن کو عمر پر حوالہ کر دیا کہ ایک سال میں عمر اس کو روپے دیدے مگر زید نے خود سال کے اندر دین ادا کر

دیا تو عمرو سے اپنے روپے ابھی وصول کر سکتا ہے۔ (عالمگیری)

۵۔ مسئلہ: نابالغ کا کسی کے ذمہ دین تھا اس نے حوالہ کر دیا اور اس میں کوئی میعاد مقرر ہوئی اب نابالغ کے باپ یا وصی نے حوالہ قبول کر لیا یہ ناجائز ہے یعنی جبکہ نابالغ کو وہ دین میراث میں ملا ہو اور اگر باپ یا وصی نے اس نابالغ کیلئے کوئی عقد کیا ہو اس کا دین ہو تو اس میں میعاد مقرر کرنا جائز ہے۔ (عالمگیری)

۶۔ مسئلہ: محتال علیہ نے محتال لہ کو ادا کر دیا۔ یا محتال لہ نے محتال علیہ کو ہبہ کر دیا یا صدقہ کر دیا یا محتال لہ مرگیا اور محتال علیہ اس کا وارث ہے تو محیل سے وصول کر سکتا ہے اور اگر محتال لہ نے محتال علیہ کو دین سے بری کر دیا تو بری ہو گیا اور محیل سے وصول نہیں کر سکتا اور اگر محتال لہ نے یہ کہہ دیا کہ میں نے دین تمہارے لیے چھوڑ دیا تو محیل سے وصول کر سکتا ہے۔ (عالمگیری)

مسئلہ ۷:۔ مدیون نے ایسے شخص پر حوالہ کیا جس پر مدیون کا دین نہیں ہے اور کسی اجنبی شخص نے محتال علیہ کی طرف سے دین ادا کر دیا تو محتال علیہ محیل سے وصول کر سکتا ہے اور اگر محیل کا محتال علیہ پر دین تھا اور حوالہ کر دیا اور اجنبی نے محیل کی طرف سے دین ادا کر دیا تو محیل محتال علیہ سے اپنا دین وصول کر سکتا ہے اور اگر محیل یہ کہتا ہے کہ اس نے میری طرف سے دین ادا کیا ہے اور محتال علیہ کہتا ہے میری طرف سے ادا کیا ہے اور فضولی نے ادا کے وقت کچھ ظاہر نہیں کیا تھا تو اس فضولی سے دریافت کیا جائے کہ کس کی طرف سے ادا کیا تھا جو وہ کہے اس کا اعتبار کیا جائے اور اگر وہ فضولی مرگیا یا اس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ اس سے دریافت ہو سکے تو محتال علیہ کی طرف سے دین ادا کرنا قرار دیا جائے۔ (خانہ)

۱۵۔ رہن

قرض لینے کیلئے ضمانت کے طور پر اپنی کوئی چیز قرض دینے والے کے حوالے کر دینے کو رہن کہا جاتا ہے۔ رہن بھی اسلامی شریعت کی رو سے جائز اور درست ہے کیونکہ رہن دوسرے کی چیز کو صرف اپنے قبضے میں اس لیے رکھا جاتا ہے تاکہ اپنا حق وصول کرنے میں آسانی رہے۔ رہن کو گروی بھی کہا جاتا ہے۔ چیز رکھنے والے کو رہن اور جس کے پاس پیر رکھی جاتی ہے اسے مرہن کہا جاتا ہے۔ رہن کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مندرجہ ذیل ہیں:

marfat.com

۱۔ حدیث : حضرت سعید بن مسیبؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہؐ نے فرمایا۔ رہن رکھی ہوئی چیز رہن رکھنے والے کا نفع بند نہیں کرتی۔ اس چیز کا نفع اور تاوان اسی کیلئے ہے۔ (مشکوٰۃ)

۲۔ حدیث : حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہؐ نے فرمایا خرچ خوراک کے بدلے سواری کی جاسکتی ہے جبکہ وہ جانور رہن رکھا ہوا ہو اور خرچ کے مویشی کا دودھ پیا جاسکتا ہے جبکہ وہ مرہون ہو۔ خرچ سوار ہونے والے اور دودھ پینے والے پر ہے۔ (بخاری شریف)

۳۔ حدیث : حضرت عائشہ صدیقہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہؐ نے وفات پائی جبکہ آپؐ کی زرہ ایک یہودی کے پاس تیس صاع جو کے بدلے رہن رکھی ہوئی تھی۔ (بخاری) رہن کے متعلق شرعی مسائل مندرجہ ذیل ہیں:

۱۔ مسئلہ : رہن جس حق کے مقابلہ میں رکھا جاتا ہے وہ دین (یعنی واجب فی الذمہ) ہو عین کے مقابل رہن رکھنا صحیح نہیں ظاہر اوباطن دونوں طرح واجب ہو جیسے بیع کا ثمن اور قرض یا ظاہر اواجب ہو جیسے غلام کو بیچا اور وہ حقیقت میں آزاد یا سرکہ بیچا اور وہ حقیقت میں شراب تھی اور ان کے ثمن کے مقابل میں کوئی چیز رہن رکھی۔ یہ ثمن بظاہر واجب ہے۔ مگر واقع میں نہ بیع ہے نہ ثمن۔ اگر حقیقتاً دین نہ ہو حکماً دین ہو تو اس کے مقابل میں بھی رہن صحیح ہے جیسے اعیان مضمونہ بنفسہا یعنی جہاں مثل یا قیمت سے تاوان دینا پڑے جیسے منصوب شے کو غاصب پر واجب یہ ہے کہ جو چیز غصب کی ہے بعینہ وہی چیز مالک کو دے اور وہ نہ ہو تو مثل یا قیمت تاوان دے۔ جہاں ضمان واجب نہ ہو جیسے ودیعت اور امانت کی دوسری صورتیں ان میں رہن درست نہیں۔ اسی طرح اعیان مضمونہ بغیر ہا کے مقابل میں بھی رہن صحیح نہیں جیسے بیع کہ جب تک یہ بائع کے قبضہ میں ہے اگر ہلاک ہوگئی تو اس کے مقابل میں مشتری سے بائع کا ثمن ساقط ہو جائے گا مشتری کے پاس بائع کوئی چیز رہن رکھے صحیح نہیں۔ (در مختار رد المحتار)

۲۔ مسئلہ : عقد رہن ایجاب وقبول سے منعقد ہوتا ہے مثلاً مدیون نے کہا کہ تمہارا جو کچھ میرے ذمہ ہے اس کے مقابلہ میں یہ چیز تمہارے پاس رہن رکھی یا یہ کہے کہ اس چیز کو رہن رکھ لو دوسرا کہے میں نے قبول کیا۔ بغیر ایجاب وقبول کے الفاظ بولنے کے بھی بطور تعاطی رہن ہو سکتا ہے جس طرح بیع تعاطی سے ہو جاتی ہے۔ (ہدایہ رد المحتار)

۳۔ **مسئلہ:** ایجاب و قبول سے عقد رہن ہو جاتا ہے مگر لازم نہیں ہوتا جب تک مرتہن شے مرہون پر قبضہ نہ کر لے لہذا قبضہ سے پہلے راہن کو اختیار رہتا ہے کہ چیز دے یا نہ دے اور جب مرتہن نے قبضہ کر لیا تو پکا معاملہ ہو گیا اب راہن کو بغیر اس کا حق ادا کیے چیز واپس لینے کا حق نہیں رہتا۔ (ہدایہ)

۴۔ **مسئلہ:** رہن کی شرائط حسب ذیل ہیں:

(۱) راہن و مرتہن عاقل ہوں یعنی نابالغ بچہ اور مجنون کارہن رکھنا صحیح نہیں۔ بلوغ اس کیلئے شرط نہیں۔ نابالغ بچہ جو عاقل ہو اس کا رہن رکھنا صحیح ہے۔

(۲) رہن کسی شرط پر معلق نہ ہونے اس کی اضافت وقت کی طرف ہو۔

(۳) جس چیز کو رہن رکھا وہ قابل بیع ہو یعنی وقت عقد موجود ہو۔ مال مطلق متقوم

مملوک معلوم مقدر و تسلیم ہو لہذا جو چیز وقت عقد موجود ہی نہ ہو یا اس کے وجود و عدم

دونوں کا احتمال ہو اس کا رہن جائز نہیں۔ مثلاً درخت میں جو پھل اس سال آئیں گے یا

بکریوں کے اس سال جو بچے پیدا ہونگے یا اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے ان سب کا رہن

نہیں ہو سکتا۔ مردار اور خون کو رہن نہیں رکھ سکتے کہ یہ مال نہیں۔ حرم و احرام کے شکار

بھی مردار ہیں مال نہیں۔ آزاد کو رہن نہیں رکھ سکتا کہ مال نہیں۔ مدبر و ام ولد کا رہن

جائز نہیں۔ دونوں راہن و مرتہن میں اگر کوئی مسلم ہو تو شراب و خنزیر کو رہن نہیں رکھ سکتے۔

اموال مباحہ مثلاً شکار اور جنگل کی لکڑی اور گھاس چونکہ یہ مملوک نہیں ان کا رہن بھی

ناجائز ہے۔ (عالمگیری)

۵۔ **مسئلہ:** دو چیزیں رہن رکھی ہیں ان میں سے ایک ہلاک ہوگئی اور ایک باقی ہے۔ اور

جو ہلاک ہوگئی اس تنہا کی قیمت دین سے زائد ہے تو یہ نہیں ہوگا کہ دین ساقط ہو جائے بلکہ

دین کو ان دونوں کی قیمتوں پر تقسیم کیا جائے جو حصہ اس ہلاک شدہ کے مقابل آئے وہ ساقط

اور جو باقی کے مقابل ہے وہ باقی ہے یونہی مکان رہن رکھا اور وہ گر گیا تو دین کو عمارت اور

زمین کی قیمت پر تقسیم کیا جائے۔ جو حصہ عمارت کے مقابل ہے ساقط اور جو زمین کے مقابل

ہے۔ باقی ہے۔ (فتاویٰ عالمگیری)

۶۔ **مسئلہ:** رہن نسخ ہونے کے بعد بھی مرتہن کو یہ اختیار ہے کہ جب تک اپنا مطالبہ

وصول نہ کر لے یا معاف نہ کر دے مرہون شے اپنے قبضہ میں رکھے راہن کو واپس نہ دے

یعنی محض زبان سے کہہ دینے سے کہ رہن فسخ کیا۔ رہن فسخ نہیں ہوتا بلکہ باقی رہتا ہے جب تک مرہون کو واپس نہ کر دے۔ جب رہن فسخ نہیں ہوا تو اب بھی چیز کو روک سکتا ہے۔ باقی دین یا قبضہ دونوں میں سے ایک جاتا رہے مثلاً دین وصول پایا یا معاف کر دیا کہ اب دین باقی نہ رہا۔ یا راہن کے قبضہ میں دید یا تو اب رہن جاتا رہے گا۔ (در مختار رد المحتار)

۷۔ **مسئلہ:** مرہون شے جب تک مرہن کے ہاتھ میں ہے راہن اسے بیچ نہیں کر سکتا۔ مرہن جب تک دین وصول نہ کر لے اس کو اختیار ہے کہ بیچنے نہ دے اور اگر مدیون نے کچھ دین ادا کیا ہے کچھ باقی ہے اب بھی راہن مرہن سے چیز واپس نہیں لے سکتا۔ جب تک کل دین ادا نہ کر دے۔ اور جب دین بیاق کر دیا تو مرہن سے کہا جائے گا کہ رہن واپس دو کیونکہ اب اسے روکنے کا حق باقی نہ رہا۔ (ہدایہ)

۸۔ **مسئلہ:** مرہن کیلئے اگر راہن نے انتفاع کی اجازت دیدی ہے تو اس کی دو صورتیں ہیں یہ اجازت رہن میں شرط ہے یعنی قرض ہی اس طرح دیا ہے کہ وہ اپنی چیز اس کے پاس رہن رکھے اور یہ اس سے نفع اٹھائے۔ جیسا کہ عموماً اس زمانہ میں مکان یا زمین اسی طور پر رکھتے ہیں یہ ناجائز اور سود ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ شرط نہ ہو یعنی عقد رہن ہو جانے کے بعد راہن نے اجازت دی ہے کہ مرہن نفع اٹھائے یہ صورت جائز ہے۔ اصل حکم یہی ہے جس کا ذکر ہوا مگر آج کل عام حالت یہ ہے کہ روپیہ قرض دے کر اپنے پاس چیز اسی مقصد سے رہن رکھتے ہیں کہ نفع اٹھائیں اور یہ اس درجہ معروف و مشہور ہے کہ مشروط کی حد میں داخل ہے۔ لہذا اس سے بچنا ہی چاہیے۔ (در مختار رد المحتار)

۱۶۔ لقطہ (گری ہوئی چیز اٹھانے) کے احکام

ایسی چیز جو کہیں گری ہوئی ہو اسے اٹھانے کو لقطہ کہتے ہیں۔ شریعت نے گری ہوئے مال کو اس نیت سے اٹھالینے کو درست قرار دیا ہے کہ اس کے مالک کو تلاش کر کے اسے پہنچا دیا جائے تاکہ گری ہوئی چیز ضائع نہ ہو۔ اگر دل میں مالک کو نہ دینے کی نیت ہو تو گری ہوئی چیز کو اٹھانا درست نہیں۔ گری ہوئی چیز کو اٹھانے کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مندرجہ ذیل ہیں:

۱۔ **حدیث:** حضرت زید بن خالد سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر لقطہ کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا اس کے برتن اور اس کے

سر بندھن کو پہچان لو۔ پھر ایک سال تک اس کی تشہیر کرو۔ اگر اس کا مالک آجائے تو خیر ورنہ تمہیں اس کا اختیار ہے۔ عرض گزار ہوا کہ گمشدہ بکری؟ فرمایا وہ تمہارے لیے یا تمہارے بھائی کیلئے یا بھئی کیلئے ہے۔ عرض کی کہ گمشدہ اونٹ؟ فرمایا کہ تمہیں اس سے کیا سروکار وہ اپنا مشکیزہ اور بچاؤ رکھتا ہے۔ پانی پیئے گا اور درختوں کے پتے کھائے گا یہاں تک کہ اس کا مالک اس سے آٹے گا۔ (بخاری شریف)

۲۔ حدیث: حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے کہ حضرت علیؓ کو ایک دینار ملا۔ وہ اسے حضرت فاطمہؓ کے پاس لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق دریافت کیا تو رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ اللہ کا رزق ہے۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کھایا نیز حضرت علیؓ اور حضرت فاطمہؓ نے۔ اس کے بعد ایک عورت دینار کو تلاش کرتی ہوئی آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علیؓ! دینار ادا کرو۔ (ابوداؤد)

۳۔ حدیث: حضرت جبارودؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مسلمان کی گمشدہ چیز آگ کی چنگاری ہے۔ (دارمی)

۴۔ حدیث: حضرت عیاض بن حمارؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو گری ہوئی چیز پائے تو ایک یا دو معتبر آدمیوں کو گواہ بنالے۔ نہ اس چیز کو چھپائے اور نہ اسے غائب کرے۔ اگر اس کا مالک آجائے تو اس کے سپرد کر دے ورنہ وہ خدا کا مال ہے جس کو چاہے دے۔ (احمد ابوداؤد دارمی)

۵۔ حدیث: حضرت جابرؓ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں لانگھی کوڑا رسی اور ان جھمکی چیزوں کی اجازت مرحمت فرمائی کہ آدمی ایسی چیز پڑی ہوئی پائے تو اس سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ (ابوداؤد)

۶۔ حدیث: حضرت عبدالرحمن بن عثمانؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجیوں کی گری ہوئی چیز و انھانے سے منع فرمایا ہے۔ (مسلم شریف)

نقطہ کے متعلق شرعی مسائل مندرجہ ذیل ہیں:

۱۔ مسئلہ: پڑا ہوا مال کہیں ملا اور یہ خیال ہو کہ میں اس کے مالک کو تلاش کر کے دے دوں گا تو اٹھایا مستحب ہے اور اگر اندیشہ ہو کہ شاید میں خود ہی رکھ لوں گا اور مالک کو نہ تلاش کروں تو چھوڑ دینا بہتر ہے اور اگر ظن غالب ہو کہ مالک کو نہ دوں گا تو اٹھانا جائز ہے اور

اپنے لیے اٹھانا حرام ہے اور اس صورت میں بمنزلہ غصب کیے ہے اور اگر یہ ظن غالب ہو کہ میں نہ اٹھاؤں گا تو یہ چیز ضائع ہو جائے گی تو اٹھالینا ضروری ہے لیکن اگر نہ اٹھائے اور ضائع ہو جائے تو اس پر تاوان نہیں۔ (در مختار زردا مختار)

۲۔ **مسئلہ:** لفظ کو اپنے تصرف میں لانے کیلئے اٹھایا۔ پھر نادوم ہوا کہ مجھے ایسا کرنا نہ چاہیے اور جہاں سے لایا وہیں رکھ آیا تو بری الذمہ نہ ہوگا یعنی اگر ضائع ہو گیا تو تاوان دینا پڑے گا بلکہ اب اس پر لازم ہے کہ مالک کو تلاش کرے اور اس کے حوالہ کر دے اور اگر مالک کو دینے کے لیے لایا تھا پھر جہاں سے لایا تھا رکھ آیا تو پھر تاوان نہیں۔ (در مختار)

۳۔ **مسئلہ:** لفظ ملتقط کے ہاتھ میں امانت ہے یعنی تلف ہو جائے تو اس پر تاوان نہیں بشرطیکہ اٹھانے کے وقت کسی کو گواہ بنا دے یعنی لوگوں سے کہہ دے کہ اگر کوئی شخص اپنی گمشدہ چیز تلاش کرتا آئے تو میرے پاس بھیج دینا۔ اور گواہ نہ کیا تو تلف ہونے کی صورت میں تاوان دینا پڑے گا مگر جبکہ وہاں کوئی نہ ہو اور گواہ بنانے کا موقع نہ ملایا اندیشہ ہو کہ گواہ بنائے تو ظالم چھین لے گا تو ضمان نہیں۔ (بار شریعت)

۴۔ **مسئلہ:** پڑا مال اٹھا لایا اور اس کے پاس سے ضائع ہو گیا اب مالک آیا اور چیز کا مطالبہ کرتا ہے اور تاوان مانگتا ہے۔ کہتا ہے کہ تم نے بدعتی سے اپنے تصرف میں لانے کیلئے اٹھایا تھا لہذا تم پر تاوان ہے یہ جواب دیتا ہے کہ میں نے اپنے لیے نہیں اٹھایا تھا بلکہ اس نیت سے لیا تھا کہ مالک کو دوں گا تو محض اس کے کہنے سے ضمان سے بری نہیں جب تک بصورت امکان گواہ نہ کرے۔ (ہدایہ)

۵۔ **مسئلہ:** دو شخصوں نے لفظ کو اٹھایا تو دونوں پر تشہیر لازم ہے اور لفظ کے جمع احکام دونوں پر ہیں اور اگر دونوں جا رہے تھے ایک نے کوئی چیز دیکھی اس نے دوسرے سے کہا اٹھا لاؤ اس نے اپنے لیے اٹھائی تو یہ ذمہ دار ہے اور لفظ کے احکام اس پر ہیں حکم دینے والے پر نہیں۔ (بہار شریعت)

۶۔ **مسئلہ:** ملتقط پر تشہیر لازم ہے یعنی بازاروں اور شارع عام اور مساجد میں اتنے زمانہ تک اعلان کرے کہ ظن غالب ہو جائے کہ مالک اب تلاش نہ کرتا ہوگا۔ یہ مدت پوری ہونے کے بعد اسے اختیار ہے کہ لفظ کی حفاظت کرے یا کسی مسکین پر تصدق کر دے۔ مسکین کو دینے کے بعد اگر مالک آ گیا تو اسے اختیار ہے کہ صدقہ کو جائز کر دے یا نہ کرے۔ اگر

جائزہ کر دیا تو اب پائے گا اور جائزہ نہ کیا تو اگر وہ چیز موجود ہے تو اپنی چیز لے لے اور ہلاک ہو گئی تو تاوان لے گا۔ یہ اختیار ہے کہ ملنقط سے تاوان لے یا مسکین سے۔ جس سے بھی وہ لے گا وہ دوسرے سے رجوع نہیں کر سکتا۔ (فتاویٰ عالمگیری)

۷۔ **مسئلہ:** نکاح میں چھوہارے لٹائے جاتے ہیں ایک کے دامن میں گرے تھے اور دوسرے نے اٹھا لیے اس کی دو صورتیں ہیں جس کے دامن میں گرے تھے اگر اس نے اسی غرض سے دامن پھیلایا تھا تو دوسرے کو لینا جائز نہیں ورنہ جائز ہے۔ (فتاویٰ عالمگیری)

۸۔ **مسئلہ:** شادیوں میں روپے پیسے لٹانے کیلئے جس کو دیے وہ خود لٹائے دوسرے کو لٹانے کیلئے نہیں دے سکتا۔ اور کچھ بچا کر اپنے لیے رکھ لے یا گرا ہوا خود اٹھا لے یہ جائز نہیں اور شکر چھوہارے لٹانے کو دیے تو بچا کر کچھ رکھ سکتا ہے اور دوسرے کو بھی لٹانے کیلئے دے سکتا ہے اور دوسرے نے لٹائے تو اب وہ بھی لوٹ سکتا ہے۔ (خانہ)

۹۔ **مسئلہ:** بھیت کٹ جانے کے بعد کچھ بالیاں گری پڑی رہ جاتی ہیں اگر کاشتکار نے چھوڑ دی ہیں کہ جس کا جی چاہے اٹھا لے جائے تو لے جانے میں حرج نہیں مگر مالک کی ملک اب بھی باقی ہے اور چاہے تو لے سکتا ہے مگر جمع کرنے کے بعد اس سے لے لینا دناعت ہے اور اگر کاشتکار نے چند خاص لوگوں سے کہہ دیا ہے کہ چاہے لے جائے تو اب جمع کرنے والوں کا ہو گیا۔ (بحر الرائق)

۱۰۔ **مسئلہ:** مجموعہ اور مساجد میں اکثر جوتے بدل جاتے ہیں ان کو کام میں لانا جائز نہیں ہاں اگر یہ کسی فقیر کو اگر چہ اپنی اولاد کو تصدیق کر دے پھر وہ اسے بہہ کر دے تو تصرف میں لاسکتا ہے۔ یا اس کا اچھا جوتا کوئی لے گیا اور اپنا خراب چھوڑ گیا کہ دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے قصداً ایسا کیا ہے۔ دھوکے سے نہیں ہوا ہے تو جب یہ شخص خراب جوتا اٹھا لیا اس کو بہن سکتا ہے کہ یہ اس کا عوض ہے۔ (بحر الرائق)

۷۔ ا۔ وکالت

کام کرنے کے اعتبار سے ہر انسان کی صلاحیت قدرے مختلف ہے بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ فہم و فراست عطا کر رکھی ہے وہ کام کو بڑے احسن طریقے سے سرانجام دینے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ چنانچہ اپنے کسی کام کو دوسرے کے سپرد کر دینا تا کہ وہ کر دے۔ وکالت کہلاتا ہے۔ وکالت کا لغوی مطلب سپرد کر دینا ہے مگر شرعاً اس کا مطلب ہے کہ جس کام کو آدمی

خود کر سکتا ہو اسے دوسرے سے کروایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواز میں اصحاب کہف کے واقعہ میں خود فرمایا ہے کہ :-

فَاتَّبِعُونَا أَعَدَّكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ
إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرُوا يَوْمَ آتَاكُمْ
طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّمَّنْهُ
وَلْيَتَلَطَّفُوا وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا۔

اپنے میں سے کسی کو یہ روپیہ دے کر شہر بھیجنا وہ دیکھے
کہ نفیس کھانا کونسا ہے تو اس میں سے کھانا لے
آئے اور آہستہ آہستہ آئے جائے اور تمہارا حال
کسی کو نہ بتائے۔ (الکہف: ۱۹)

اس آیت میں اصحاب کہف کا ایک آدمی کو مقرر کر کے شہر میں بھیجنا اسے اپنا وکیل بنانے کی دلیل ہے اسی طرح وکالت کے جواز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ ہے:

حضرت جابرؓ کا بیان ہے کہ میں نے خیبر کی طرف جانے کا ارادہ کیا تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ سلام کیا اور عرض گزار ہوا کہ میں خیبر کی طرف جانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ فرمایا کہ جب تم میرے وکیل کے پاس پہنچو تو اس سے پندرہ وسق کھجوریں لے لینا۔ اگر وہ تم سے نشانی طلب کرے تو اس کے حلق پر ہاتھ رکھ دینا۔ (ابوداؤد)

پس معلوم ہوا کہ اسلامی نقطہ نظر سے دوسرے کو اپنا وکیل بنانا جائز اور درست ہے۔ اس لیے خرید و فروخت، معاملات نکاح، معاملات تجارت و کاروبار میں دوسروں کو وکیل بنایا جاسکتا ہے۔ وکیل بنانے والے کو موکل کہا جاتا ہے۔ وکیل اور موکل کا عاقل بالغ ہونا ضروری ہے وکالت کے متعلق شرعی مسائل مندرجہ ذیل ہیں:

۱۔ **مسئلہ:** یہ کہہ دیا کہ میں نے تجھے فلاں کام کرنے کا وکیل کیا یا میں یہ چاہتا ہوں کہ تم میری یہ چیز بیچ دو یا میری خوشی یہ ہے کہ تم یہ کام کر دو۔ یہ سب صورتیں توکیل کی ہیں۔ وکیل کا قبول کرنا صحت وکالت کیلئے ضروری نہیں۔ یعنی اس نے وکیل بنایا اور وکیل نے کچھ نہیں کہا۔ یہ بھی نہیں کہ میں نے قبول کیا اور اس کام کو کر دیا تو موکل پر لازم ہوگا۔ ہاں اگر وکیل نے رد کر دیا تو وکالت نہیں ہوئی۔ فرض کرو ایک شخص نے کہا تھا کہ میری یہ چیز بیچ دو۔ اس نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد پھر بیچ کر دی تو یہ بیچ موکل پر لازم نہ ہوئی کہ یہ اس کا وکیل نہیں بلکہ فضولی ہے۔ (عالمگیری)

۲۔ **مسئلہ:** وکیل بنانے کیلئے وکیل کو علم ہو جانا اگرچہ شرط نہیں ہے مگر وہ وکیل اس وقت ہوگا جب اسے علم ہو جائے کہ اگر غلام ہو پھینچے یا زوجه کو طلاق دینے کا وکیل کیا اور وکیل کو ابھی

علم نہیں ہوا ہے۔ بطور خود اس وکیل نے غلام کو بیچ دیا۔ یا اس کی بی بی کو طلاق دیدی نہ بیع جائز ہوئی نہ طلاق۔ (عالمگیری)

۳۔ **مسئلہ:** ایک شخص نے خریدنے کیلئے دوسرے کو وکیل کیا۔ خریدنے سے پہلے یا بعد میں وکیل کو زرمن دے دیا کہ اسے ادا کر کے بیچ لاؤ۔ وکیل نے روپیہ ضائع کر دیا اور وکیل خود تنگ دست ہے اپنے پاس سے اس وقت روپیہ نہیں دے سکتا اس صورت میں بائع کو اختیار ہے کہ بیع کو روک لے اس پر قبضہ نہ دے جب تک ثمن وصول نہ کرے مگر موکل سے ثمن کا مطالبہ نہیں کر سکتا اور فرض کرو کہ موکل نہ ثمن دیتا ہے نہ بیع پر قبضہ لیتا ہے تو قاضی ان دونوں کی رضامندی سے چیز کو بیع کر دے گا۔ (بحر الرائق)

۴۔ **مسئلہ:** وکیل سے چیز خریدی ہے موکل ثمن کا مطالبہ کرتا ہے۔ مشتری انکار کر سکتا ہے۔ کہہ سکتا ہے کہ میں نے تم سے نہیں خریدی۔ جس سے خریدی اس کو دام دوں گا مگر مشتری نے موکل کو دیدیا تو دینا صحیح ہے اگرچہ وکیل نے منع کر دیا ہو کہہ دیا ہو کہ مجھی کو دینا، موکل کو نہ دینا وکیل کے سامنے موکل کو دے یا اس کی غیبت میں ثمن ادا ہو جائے گا وکیل دوبارہ مطالبہ نہیں کر سکتا۔ (ہدایہ)

۵۔ **مسئلہ:** موکل نے یہ کہا کہ جو چیز مناسب سمجھو میرے لیے خرید لو یہ خریداری کی وکالت عامہ ہے۔ جو کچھ بھی خریدے گا موکل انکار نہیں کر سکتا۔ یونہی اگر یہ کہہ دیا کہ میرے لیے جو کچھ چاہو خرید لو۔ یہ کپڑے کے متعلق وکالت عامہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کسی خاص چیز کی خریداری کیلئے وکیل کیا ہو مثلاً یہ گائے یہ بکری یہ گھوڑا خرید دو۔ اس صورت کا حکم یہ ہے کہ وہی معین چیز جس کی خریداری کا وکیل کیا ہے خرید سکتا ہے اس کے سوا دوسری چیز نہیں خرید سکتا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ نہ تمیم ہے نہ تخصیص مثلاً یہ کہہ دیا کہ میرے لیے ایک گائے خرید دو اس کا حکم یہ ہے کہ اگر جہالت تھوڑی سی ہو تو وکیل درست ہے اور جہالت فاحشہ ہو تو وکیل باطل۔ (در مختار)

۶۔ **مسئلہ:** جب خریدنے کا وکیل کیا جائے تو ضرور ہے کہ اس چیز کی جنس و صفت یا جنس و ثمن بیان کر دیا جائے تاکہ جہالت میں کمی پیدا ہو جائے اگر ایسا لفظ ذکر کیا جس کے نیچے کئی جنسیں شامل ہیں مثلاً کہہ دیا جو پاپیہ خرید لاؤ یہ تکمیل صحیح نہیں اگرچہ ثمن بیان کر دیا گیا ہو۔ کیونکہ اس ثمن میں مختلف جنسوں کی اشیاء خرید سکتے ہیں اور اگر وہ لفظ اسے جس کے نیچے کئی

نویس ہیں تو نوع بیان کرے یا ثمن بیان کرے اور نوع یا ثمن بیان کرنے کے بعد وصف یعنی اعلیٰ اوسط ادنیٰ بیان کرنا ضرور نہیں۔ (ہدایہ)

۷۔ **مسئلہ:** وکیل کو یہ اختیار ہے کہ جب تک موکل سے ثمن نہ وصول کر لے چیز اپنے قبضہ میں رکھے موکل کو نہ دے خواہ وکیل نے ثمن اپنے پاس سے بائع کو دیدیا ہو۔ یہ اگر صورت میں ہے کہ ثمن موجل نہ ہو اور اگر ثمن موجل ہو یعنی ادا کی کوئی میعاد مقرر ہو تو موکل کے حق میں بھی موجل ہو گیا یعنی جب تک میعاد پوری نہ ہو موکل سے مطالبہ نہیں کر سکتا۔ اگر بیع میں ثمن موجل نہ تھا۔ بیع کے بعد بائع نے ثمن کیلئے کوئی میعاد مقرر کر دی تو موکل پر موجل نہ ہوگا یعنی وکیل اسی وقت اس سے مطالبہ کر سکتا ہے۔ (بحر الرائق)

۸۔ **مسئلہ:** خرید و فروخت و اجارہ و بیع سلم و بیع صرف کا وکیل ان لوگوں کے ساتھ عقد نہیں کر سکتا جن کے حق میں اس کی گواہی مقبول نہیں اگرچہ واجبی قیمت کے ساتھ عقد کیا ہو۔ ہاں اگر موکل نے اس کی اجازت دیدی ہو کہہ دیا ہو کہ جس کے ساتھ تم چاہو عقد کرو تو ان لوگوں سے واجبی قیمت پر عقد کر سکتا ہے اور اگر موکل نے عام اجازت نہیں دی ہے اور واجبی قیمت سے زیادہ پر ان لوگوں کے ہاتھ چیز بیچ کی تو جائز ہے۔ (در مختار)

۹۔ **مسئلہ:** بعض باتوں میں وکیل اس کام کے کرنے پر مجبور کیا جائے گا انکار نہیں کر سکتا۔ (۱) ایک چیز معین شخص کو دینے کیلئے وکیل کیا تھا کہ یہ چیز فلاں کو دے آؤ اور موکل غائب ہو گیا۔ وکیل کو اسے دینا لازم ہے۔

(۲) مدعی کی طلب علیہ نے وکیل اور مدعا علیہ غائب ہو گیا وکیل کو پیروی کرنی لازم ہے۔ (۳) ایک چیز رہن رکھی ہے اور عقد رہن کے اندر یا بعد میں راہن نے وکیل کو بیع شرط کر دی۔ اس صورت میں وکیل کو بیع شرط کے طریقہ پر راہن ادا کرنا ضروری ہے۔

(۴) جو وکیل اجرت پر کام کرتے ہوں جیسے دلال آڑھتی وہ کام کرنے پر مجبور ہیں انکار نہیں کر سکتے۔ (در مختار)

۱۸۔ شفعہ

شفعہ ایک طرح کا شرعی حق ہے جو خریداری میں فروخت ہونے والی چیز سے قریبی تعلق رکھنے کی بنا پر حاصل ہوتا ہے یعنی دو آدمی ایک زمین میں شریک ہیں ایک شریک اپنے حصے

کی جائیداد کو بیچنا چاہتا ہے تو دوسرے شریک کو حق پہنچتا ہے کہ وہی خریدے اس کی اجازت کے بغیر کسی اور کو وہ جائیداد خریدنے کا حق حاصل نہیں جو قیمت اس چیز کی اجنبی لگا رہا ہو اتنی قیمت دے کر وہ خرید سکتا ہے۔ اس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مندرجہ ذیل ہیں:

۱۔ حدیث: حضرت جابرؓ نے فرمایا کہ رسول اللہؐ نے ہر اس چیز میں شفعہ کا فیصلہ فرمایا جو تقسیم نہ کی گئی ہو۔ جب حدود قائم ہو جائیں اور راستے بدل جائیں تو شفعہ نہ رہا۔ (بخاری)

۲۔ حدیث: حضرت سعید بن حریت کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جو تم میں سے گھریا زمین بیچے وہ اسی ثائق ہے کہ اسے برکت نہ دی جائے مگر جبکہ وہ رقم اسی کی مثل میں لگائے۔ (ابن ماجہ دارمی)

۳۔ حدیث: حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ہمسایہ اپنے شفعہ کا زیادہ اختیار رکھتا ہے اور وہ غائب ہو تو اس کا انتظار کیا جائے جبکہ دونوں کا راستہ ایک ہو۔ (احمد ترمذی ابو داؤد ابن ماجہ دارمی)

۴۔ حدیث: حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”ساجھی شفعہ کا مستحق ہے اور شفعہ ہر چیز میں ہے۔“ (ترمذی)

۵۔ حدیث: حضرت عثمانؓ نے فرمایا کہ جب زمین میں حدود واقع ہو جائیں تو اس میں شفعہ نہیں۔ نیز کنویں اور کھجور کے درخت میں شفعہ نہیں۔ (مالک)

۶۔ حدیث: حضرت ابو رافع سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”ہمسایہ نزدیکی کے باعث زیادہ حقدار ہے۔“ (بخاری)

۷۔ حدیث: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”ہمسایہ ہمسائے کو اپنی دیوار میں لکڑی گاڑنے سے منع نہ کرے۔“ (بخاری)

۸۔ حدیث: حضرت جابرؓ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مشترک چیز میں شفعہ کا فیصلہ فرمایا جب تک تقسیم نہ کر لی جائے خواہ مکان ہو یا باغ اس کا بیچنا جائز نہیں جب تک ساجھی اجازت نہ دے اگر وہ چاہے خود لے اور چاہے چھوڑ دے۔ جب فروخت کر دی جائے اور وہ اجازت نہ دے تو وہی زیادہ حقدار ہے۔ (مسلم)

شفعہ کی شرائط حسب ذیل ہیں: marfat.com

(۱)۔ جائیداد کا انتقال عقد معاوضہ کے ذریعے سے ہو یعنی بیع یا معنی بیع میں ہو۔ معنی بیع مثلاً جائیداد کو بدل صلح قرار دیا یعنی اس کو دے کر صلح کی ہو اور انتقال میں یہ دونوں باتیں نہ ہوں تو شفعہ نہیں ہو سکتا۔ بہہ بشرط العوض میں اگر دونوں جانب سے تقابض بدلیں ہو گیا تو شفعہ ہو سکتا ہے۔ بہہ صدقہ میراث و وصیت کی رو سے جائیداد حاصل ہوئی تو اس پر شفعہ نہیں ہو سکتا۔ اور اگر بہہ میں شرط نہ تھی مگر موہوب لہ نے عوض دے دیا مثلاً زید نے عمرو کو ایک مکان بہہ کر دیا اور عمرو نے زید کو اس کے عوض میں مکان بہہ کر دیا تو دونوں میں سے کسی پر شفعہ نہیں ہو سکتا۔ (عالمگیری)

(۲)۔ بیع عقار یعنی جائیداد غیر منقولہ ہو منقولات میں شفعہ نہیں ہو سکتا۔

(۳)۔ بائع کی ملک زائل ہو گئی لہذا اگر بائع کو خیار شرط ہو تو شفعہ نہیں ہو سکتا۔ جب وہ اپنا خیار ساقط کر دیگا تب ہو سکے گے۔ اور مشتری کو خیار ہو تو شفعہ ہو سکتا ہے۔

(۴)۔ بائع کا حق بھی زائل ہو گیا ہو یعنی بیع کے واپس لینے کا اسے حق نہ ہو لہذا مشتری نے بیع فاسد کے ذریعہ سے جائیداد بیچی تو شفعہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں اگر مشتری نے اس جائیداد کو بیع صحیح کے ذریعہ فروخت کر ڈالا تو اب شفعہ ہو سکتا ہے اور اس شفعہ کو اگر بیع ثانی پر بنا کر کرے تو بیع ثانی کا جو کچھ ثمن ہے اس کے ساتھ لے گا۔ اور اگر بیع اول پر بنا کر کرے تو مشتری کے قبضہ کرنے کے دن جو اس کی قیمت تھی وہ دینی ہوگی۔

(۵)۔ جس جائیداد کے ذریعہ سے اس جائیداد پر شفعہ کرنے کا حق حاصل ہوا ہے وہ اس وقت شفعہ کے ملک میں ہو۔ یعنی جبکہ مشتری نے اس شفعہ والی جائیداد کو خرید لیا لہذا اگر وہ مکان شفعہ کے کرایہ میں ہو یا عاریت کے طور پر اس میں رہتا ہے تو شفعہ نہیں کر سکتا۔ یا اس مکان کو اس نے پہلے ہی بیع کر دیا ہے تو اب شفعہ نہیں کر سکتا۔

(۶)۔ شفعہ نے اس بیع سے صراحتاً رضامندی ظاہر نہ کی ہو۔

۱۔ مسئلہ: شفعہ کے چند اسباب مجتمع ہو جائیں تو ان میں ترتیب کا لحاظ رکھا جائے گا جو سبب قوی ہو اس کو مقدم کیا جائے۔ شفعہ کے تین اسباب ہیں۔

(الف) شفعہ کرنے والا شریک ہے۔ یا

(ب) خلیفہ ہے یا

(ج) جار ملاحق۔ شریک وہ ہے کہ خود بیع میں اس کی شرکت ہو مثلاً ایک مکان دو شخصوں میں مشترک ہے ایک شریک نے بیع کی تو دوسرے شریک کو شفعہ پہنچتا ہے۔

خلیط کا یہ مطلب ہے کہ خود بیع میں شرکت نہیں ہے اس کا حصہ بائع کے حصہ سے ممتاز ہے۔ مگر حق بیع میں شرکت ہے۔ مثلاً دونوں مکانوں کا ایک ہی راستہ ہے اور راستہ بھی خاص ہے۔ یا دونوں کے کھیت میں ایک نالی سے پانی آتا ہے۔ جار ملاحق یہ ہے کہ اس کے مکان کی پچھت دوسرے کے مکان میں ہو۔ ان سب میں مقدم شریک ہے پھر خلیط اور جار ملاحق کا مرتبہ سب سے آخر میں ہے۔ (ہدایہ در مختار)

۲۔ مسئلہ: بیع میں شرکت کی دو صورتیں ہیں یہ پوری بیع میں شرکت ہے مثلاً پورا مکان دو شخصوں میں مشترک ہو۔ دوم یہ کہ بعض بیع میں شرکت ہو یعنی مکان کا ایک جز مشترک ہے اور باقی میں شرکت نہیں مثلاً پردہ کی دیوار دونوں کی ہو اور ایک نے اپنا مکان بیع کر دیا تو پردہ کی دیوار جو مشترک ہے اس کی بیع بھی ہوگئی یہ شخص شریک کی حیثیت سے شفعہ کرے گا لہذا دوسرے شفیعوں پر مقدم ہوگا۔ مگر جو شخص پورے مکان میں شریک ہے وہ اس شریک پر بھی مقدم ہوگا۔ (در مختار عالمگیری)

۳۔ مسئلہ: باپ کا مکان تھا اس کے مرنے کے بعد بیٹوں کو ملا اور ان میں سے کوئی لڑکا مر گیا اور اس نے اپنے بیٹے وارث چھوڑے ان میں سے کسی نے اپنا حصہ بیع کیا تو اس کے بھائی اور چچا سب شفعہ کر سکتے ہیں۔ بھائیوں کو چچا پر ترجیح نہیں ہے۔ (عالمگیری)

مسئلہ ۴:۔ مکان کے دو پڑوسی ہیں ایک موجود ہے دوسرا غائب ہے۔ موجود نے شفعہ کا دعویٰ کیا مگر قاضی ایسے شفعہ کا قائل نہ تھا اس نے دعویٰ کو خارج کر دیا کہ شفعہ کا تجھے حق نہیں ہے پھر وہ غائب آیا اور اس نے دوسرے قاضی کے پاس دعویٰ کیا جس کے مذہب میں پڑوسی کیلئے بھی شفعہ ہے۔ یہ قاضی پورا مکان اسی شفعہ کرنے والے کو دلوائے گا۔ (بدائع)

۱۹۔ اجرت

کسی کی محنت مزدوری کر کے اس کا عوضانہ لینے کو اجرت کہا جاتا ہے۔ شریعت میں اس کا نام اجارہ ہے۔ اجارہ میں کسی شخص سے کوئی کام کروایا جاتا ہے اور اس کے عوض میں اسے مال دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس طرح کرنے کو جائز قرار دیا ہے کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ:

قَالَتْ اِحْدَاهُمَا يَا بَيْتِ اسْتَا جِرَّةً
 اِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَا جَرْتِ الْقَوِيُّ
 الْاَمِينُ۔ (القصص: ۲۶)

ایک لڑکی بولی کہ ابا ان کو نو کر رکھ لیجئے کیونکہ بہتر نو کر
 جو آپ رکھیں وہ ہے (جو) تو انا اور امانت دار (ہو)
 (القصص: ۲۶)

نیز ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ:

اَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ
 يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرْدَتْ اَنْ
 اَغْرِبَهَا وَاَنَّ وَاوَاءَهُمْ مَلِكٌ
 يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا۔
 (الکہف: ۷۹)

(وہ جو) کشتی تھی غریب لوگوں کی تھی جو دریا میں
 محنت کر کے (یعنی کشتیاں چلا کر گزارہ) کرتے
 تھے اور ان کے سامنے ایک بادشاہ تھا۔ جو ہر ایک
 کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا تو میں نے چاہا کہ اسے
 عیب دار کر دوں (تاکہ وہ اسے غصب نہ کر
 سکے) (الکہف: ۷۹)

اجرت کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات حسب ذیل ہیں:

۱۔ حدیث: حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 مزدور کو پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری دے دیا کرو۔ (ابن ماجہ)

۲۔ حدیث: حضرت عبداللہ بن مغفلؓ سے روایت ہے کہ ثابت بن ضحاکؓ نے کہا ہے
 شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاحمت سے منع کیا ہے اور اجارے کا حکم دیا ہے اور فرمایا کہ
 اس میں کچھ مضائقہ نہیں۔ (مسلم شریف)

۳۔ حدیث: حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہا کہ بیشک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
 سینگی لگوانی اور سینگی لگانے والے کو اس کی مزدوری دی اور ناک میں دوا ڈالی۔ (بخاری
 شریف)

۴۔ حدیث: حضرت ابو ہریرہؓ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں فرمایا "اللہ تعالیٰ
 نے کوئی نبی نہیں بھیجا مگر اس نے بکریاں چرائی ہیں۔" آپ کے صحابہؓ نے کہا آپ نے بھی
 چرائی ہیں فرمایا ہاں میں چند قیراط کے عوض مکہ والوں کو بکریاں چرایا کرتا تھا۔ (بخاری)

۵۔ حدیث: حضرت ابن عباس کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اصحاب کا
 گزر ایک بستی کے پاس سے ہوا جن کے کسی آدمی کو بچھو یا سانپ نے ڈس لیا تھا۔ پس بستی

والوں میں سے ایک آدمی نے ان سے آ کر کہا کہ کیا آپ میں کوئی دم کرنے والا ہے کیونکہ بستی کے ایک آدمی کو بچھو یا سانپ نے ڈس لیا ہے۔ ان میں سے ایک آدمی چلا گیا اور چند بکریوں کی شرط پر سورہ فاتحہ پڑھ دی۔ تو وہ تندرست ہو گیا۔ چنانچہ وہ بکریاں لے کر اپنے ساتھیوں میں آگئے ساتھیوں نے اسے ناپسند کیا اور کہا کہ آپ نے اللہ کی کتاب پر اجرت لے لی۔ یہاں تک کہ مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ! انہوں نے اللہ کی کتاب پر مزدوری لی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جن چیزوں پر تم اجرت لیتے ہو ان میں سب سے زیادہ حقہ اللہ کی کتاب ہے۔ (بخاری)

۶۔ **حدیث:** حضرت عتبہ بن نذر کا بیان ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے تو آپ نے سورہ طسم پڑھی۔ جب ذکر موسیٰ تک پہنچے تو فرمایا بے شک موسیٰ علیہ السلام نے آٹھ یا دس برس اپنے آپ کو مزدوری پر لگائے رکھا کہ شرمگاہ کی حفاظت ہو اور پیٹ کیلئے کھانا ملتا رہے۔ (احمد ابن ماجہ)

اجارہ کے ارکان ایجاب و قبول ہیں خواہ اس میں اجارہ کا لفظ استعمال ہو یا کوئی اور لفظ ہو جس سے اجارہ کا مفہوم ظاہر ہو۔ مثال کے طور پر ایک شخص نے ایک مکان کچھ رقم پر کرائے پر دیا دوسرے نے اسے قبول کر لیا تو یہ اجارہ ہوگا۔ اجارہ کی ضروری شرائط مندرجہ ذیل ہیں:

(۱) **عقل ہونا:** یعنی مجنون اور نابالغ بچہ نے اجارہ کیا وہ منعقد ہی نہ ہوگا بلوغ اس کے لیے شرط نہیں یعنی نابالغ عاقل نے اپنے نفس کے متعلق اجارہ کیا یا مال کے متعلق کیا اگر وہ ماذون ہے یعنی اس کے ولی نے اسے اجازت دیدی ہے تو اجارہ منعقد ہے اور اگر ماذون نہیں ہے تو ولی کی اجازت پر موقوف ہے۔ جائز کر دے گا جائز ہو جائے گا اور اگر نابالغ نے بغیر اجازت ولی کام کرنے پر اجارہ کیا اور اس کام کو کر لیا مثلاً کسی کی مزدوری چار آنے روزانہ پر کی تو اب ولی کی اجازت درکار نہیں بلکہ اجرت کا یہ مستحق ہو گیا۔

(۲) **ملک و ولایت:** یعنی اجارہ کرنے والا مالک یا ولی ہو اور اجارہ کرنے کا اسے اختیار حاصل ہو۔ فضولی نے جو اجارہ کیا وہ مالک یا ولی کی اجازت پر موقوف ہوگا اور وکیل نے عقد اجارہ کیا یہ جائز ہے۔

(۳) **مستاجر:** مستاجر کو وہ چیز سپرد کروینا جبکہ اس چیز کے منافع پر اجارہ ہو۔

(۴) **اجرت:** اجرت کا معلوم ہونا۔

(۵) **منفعت** : منفعت کا معلوم ہونا اور ان دونوں کو اس طرح بیان کر دیا ہو کہ نزاع کا احتمال نہ رہے اگر یہ کہہ دیا کہ ان دو مکانوں میں سے ایک کو کرایہ پر دیا یا دو غلاموں میں سے ایک کو مزدوری پر دیا یہ اجارہ صحیح نہیں۔

(۶) جہاں اجارہ کا تعلق وقت سے ہو وہاں مدت بیان کرنا مثلاً مکان کرایہ پر لیا تو یہ بتانا ضرور ہے کہ اتنے دنوں کے لیے لیا۔ یہ بیان کرنا ضروری نہیں کہ اس میں کیا کام کرے گا۔

(۷) جانور کرایہ پر لیا اس میں وقت بیان کرنا ہوگا یا جگہ مثلاً گھنٹہ بھر سواری لے گا یا فلاں جگہ تک جائے گا اور کام بھی بیان کرنا ہوگا۔ اس سے کون سا کام لیا جائے گا۔ مثلاً بوجھ لادنے کیلئے یا سواری کیلئے۔

(۸) وہ کام ایسا ہو کہ اس کا استیفا قدرت میں ہو۔ اگر حقیقتہً مقدر نہ ہو مثلاً غلام کو اجارہ پر دیا اور وہ بھاگا ہوا ہے یا شرعاً غیر مقدر ہو مثلاً گناہ کی باتوں پر اجرہ۔ یہ دونوں اجارے صحیح نہیں۔

(۹) وہ عمل جس کے لیے اجارہ ہو اس شخص پر فرض و واجب نہ ہو۔

(۱۰) **منفعت مقصود ہو۔**

(۱۱) اسی جنس کی منفعت اجرت نہ ہو۔

(۱۲) اجارہ میں ایسی شرط نہ ہو جو مقتضائے عقد کے خلاف ہو۔

منفعت حاصل کرنے پر قادر ہونے سے اجرت واجب ہو جاتی ہے اگرچہ منفعت حاصل نہ کی ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ مثلاً مکان کرایہ دار کو سپرد کر دیا جائے اس طرح کہ مالک مکان کے متاع و سامان سے خالی ہو اور اس میں رہنے سے کوئی مانع نہ ہو اس کی جانب سے نہ اجنبی کی جانب سے۔ اس صورت میں اگر وہ نہ رہے اور بے کار مکان کو خالی چھوڑ دے تو اجرت واجب ہوگی۔ لہذا اگر مکان سپرد ہی نہ کیا یا سپرد کیا مگر اس میں خود مالک مکان کا سامان و اسباب ہے یا مدت کے گزر جانے کے بعد سپرد کیا یا مدت ہی میں سپرد کیا مگر اسے کوئی عذر ہے یا اس کو عذر بھی نہیں مگر حکومت کی جانب سے رہنے کی ممانعت ہے یا غاصب نے اسے غصب کر لیا۔ یا وہ اجارہ ہی فاسد ہے ان سب صورتوں میں مالک مکان اجرت کا مستحق نہیں۔ مکان کرایہ پر دیا اور قبضہ بھی دے دیا مگر ایک کوٹھڑی میں مالک نے اپنا سامان رکھوایا ایک کوٹھڑی مالک نے مستاجر

سے خالی کرائی تو کرایہ میں سے اس کے کرایہ کی مقدار کم کر دی جائے گی۔ مستاجر نے کرایہ دے دیا ہے اور اندرون مدت اجارہ توڑ دیا گیا تو باقی زمانہ کا کرایہ واپس کرنا ہوگا۔ (فتاویٰ عالمگیری)

درزی، دھوبی، سنار وغیرہ ہم جب ان کاریگروں نے کام کر لیا اور مالک کو چیز سپرد کر دی اجرت لینے کے مستحق ہو گئے۔ یہی حکم ہر اس کام کرنے والے کا ہے جس کے کام کا اس شے میں کوئی اثر ہو جیسے رنگریز کہ اس نے کپڑا رنگ کر مالک کو دے دیا اجرت کا مستحق ہو گیا اور اگر ان لوگوں نے کام تو کیا مگر ابھی تک چیز مالک کو سپرد نہیں کی اجرت کے مستحق نہ ہوئے لہذا اگر ان کے یہاں چیز ضائع ہو گئی اجرت نہیں پائیں گے اگرچہ چیز کا ان کو تاوان بھی نہیں دینا پڑے گا اور اگر کام کا کوئی اثر اس چیز میں نہیں ہوتا جیسے حمال کہ چیز کو یہاں سے اٹھا کر وہاں لے گیا۔ یہ اجرت کے اس وقت مستحق ہوں گے جب انہوں نے کام کر لیا اس کی ضرورت نہیں کہ مالک کو سپرد کر دیں۔ جب استحقاق ہو۔ لہذا پہنچا دینے کے بعد اگر چیز ضائع ہو گئی اجرت واجب ہے۔ (درمختار) بلکہ اگر حمال نے پہنچا یا نہ ہو راستہ ہی میں اجرت مانگتا ہے تو یہاں تک کی جتنی اجرت حساب سے ہو لے سکتا ہے مگر جہاں تک ٹھہرا ہے اس پر وہاں تک پہنچانا لازم ہے اور پہنچانے پر باقی اجرت کا مستحق ہے۔ (عالمگیری)

آداب

۱۔ کھانے کے آداب

کھانا پینا انسان کی بنیادی ضروریات میں سے ہے کیونکہ کھانا کھانے کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ کھانے کو اسلامی آداب کے مطابق کھانے سے ثواب ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کھانے کے آداب مندرجہ ذیل ہیں:

(۱) کھانا کھانے سے پہلے دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھونا سنت ہے کلی کر لینا بھی بہتر

ہے کھانے سے پہلے ہاتھ دھو کر پونچھے نہ جائیں اور کھانے کے بعد دھو کر رومال یا تولیہ سے پونچھ لیں کہ کھانے کا اثر چکنائی وغیرہ لگی نہ رہے۔ حضرت عبداللہ عباسؓ سے روایت ہے کہ حضورؐ نے فرمایا ہے کہ کھانے سے پہلے اور بعد میں وضو کرنا یعنی ہاتھ منہ دھونا محتاجی کو دور کرتا ہے۔ (طبرانی)

(۲) کھانا کھانے کا ایک ادب یہ ہے کہ کھانا بیٹھ کر کھایا جائے اور بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ

کھانے کے وقت الٹا پاؤں بچھا دیں۔ اور سیدھے پاؤں کا گھٹنا کھڑا رکھیں یا سرین پر بیٹھ جائیں

اور دونوں گھٹنے کھڑے رکھیں یا دوزانو بیٹھیں۔ تینوں طریقوں میں سے جس طرح چاہیں بیٹھ

جائیں اور کھانا کھائیں۔ حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجور

کھاتے دیکھا تو حضورؐ زمین پر اس طرح بیٹھے تھے کہ دونوں گھٹنے کھڑے تھے۔ (مسلم شریف)

(۳) کھانا شروع کرتے وقت بسم اللہ شریف پڑھنی چاہیے اور بسم اللہ اونچی آواز سے پڑھی

جائے تاکہ دوسروں کو بھی یاد آ جائے۔ حضرت ابو ایوبؓ نے فرمایا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم

کی خدمت میں تھے تو کھانا پیش کیا گیا ہم نے ایسا کھانا نہیں کھایا جو اس سے زیادہ برکت والا ہو۔

شروع میں ہم نے کھایا تو آخر تک اس میں برکت کم نہ ہوئی۔ ہم عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ!

یہ کیوں فرمایا کہ جب ہم کھانے لگیں تو اس پر بسم اللہ پڑھیں۔ پھر ایسا شخص کھانے آ بیٹھا جس نے

بسم اللہ نہ پڑھی تو اس کے ساتھ شیطان نے کھایا۔ (شرح السنہ)

(۴) اگر شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائیں تو کھانے کے دوران جب بسم اللہ یاد آئے اس وقت پڑھ لیں کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی کھائے اور اپنے کھانے پر اللہ کا ذکر کرنا بھول جائے تو کہے بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ (ترمذی ابو داؤد)

(۵) روٹی پر کوئی چیز نہ رکھی جائے کیونکہ بعض لوگ روٹی پر سالن کا برتن یا کوئی اور چیز رکھ لیتے ہیں ایسا کرنا خلاف ادب ہے کیونکہ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ روٹی کا احترام کرو۔ کیونکہ یہ جب کسی قوم سے بھاگی ہے تو لوٹ کر نہیں آئی یعنی ناشکری کی وجہ سے رزق میں کمی ہو جاتی ہے ایسے ہی ہاتھ کو روٹی سے نہ پونچھیں۔

(۶) کھانا دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے۔ تین انگلیوں سے کھانا سنت ہے بلا عذر چار یا پانچ انگلیوں سے نہ کھائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دائیں ہاتھ سے کھائے دائیں ہاتھ سے پیئے دائیں ہاتھ سے لیں دائیں سے دیں کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے بائیں سے پیتا ہے بائیں سے لیتا ہے بائیں سے دیتا ہے۔ (ابن ماجہ)

ایک اور حدیث میں حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”تم میں سے کوئی اپنے بائیں ہاتھ سے نہ کھائے اور نہ اس کے ساتھ پیئے کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا اور اسی کے ساتھ پیتا ہے۔“ (مسلم شریف)

(۷) کھاتے وقت ٹیک لگانا خلاف سنت ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھاتے وقت ٹیک لگانے سے منع فرمایا ہے۔ ٹیک لگا کر یا لیٹ کر کھانے سے غذا باآسانی معدے میں نہیں پہنچ پاتی اور صحت کیلئے نقصان دہ ثابت ہوتی ہے لہذا اس طبی نقصان کو مد نظر رکھتے ہوئے ٹیک لگا کر یا لیٹ کر کھانا منع ہے۔ حضرت ابو جحیفہ وہب بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ ٹیک لگا کر نہ کھائیں۔ (بخاری شریف)

(۸) جب کھانا کھانے کیلئے بیٹھا جائے تو اس وقت جوتا اتار دینا چاہیے کیونکہ دسترخواں پر جوتے سمیت بیٹھنا خلاف سنت ہے اکثر بزرگان دین کا یہ معمول رہا ہے کہ کھانے سے پہلے زمین پر چٹائی بچھاتے۔ جوتے اتار کر قبلہ رو ہو کر سنت کے مطابق بیٹھ کر کھانا تناول فرماتے جوتے اتار کر کھانے سے اللہ سے قربت کو ملحوظ خاطر رکھنا مراد ہے اور جوتے اتار کر کھانے سے سکون میسر

آتا ہے۔ حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کھانا سامنے رکھ دیا جائے تو اپنے جوتے اتار لیا کرو کیونکہ یہ تمہارے پیروں کیلئے راحت بخش ہے۔ (مشکوٰۃ)

(۹) کھانا کھانے کے آداب میں سے ہے کہ کھانے کا آغاز نمک (نمکین چیز) سے کیا جائے اور نمک ہی پر کھانا ختم کیا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیؓ سے فرمایا کہ علیؓ اپنے کھانے کا آغاز نمک سے کرو اور نمک ہی پر اس کو ختم کرو کیونکہ نمک ستر بیماریوں کیلئے شفا ہے ان امراض میں جنون، جذام، برص، درد شکم اور داڑھ کا درد بھی شامل ہے۔

(۱۰) کھانے میں عیب نہیں نکالنا چاہیے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عیب نکاتے سے منع فرمایا ہے ایسا کرنے میں یہ مصلحت پوشیدہ ہے کہ جب کوئی کھانے میں عیب نکالے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جس نے کھانا تیار کیا ہے اس کا دراصل نقص اور کوتاہی ظاہر ہوگی تو اس طرح پکانے والوں کے دل میں کھانے والوں کے خلاف نفرت اور بغض پیدا ہوگا کہ ایک گھر والوں نے کھانا پکا کر دیا اور دوسرے ان کی عیب جوئی ہوئی۔ اس طرح گھر کا نظام بہتر ہونے کے بجائے بگڑے گا لہذا اگر کھانا بد مزہ ہو تو دل چاہے تو کھالیں ورنہ اسے چھوڑ دیں مگر اسے برانہ کہیں اور نہ ہی پکانے والے کو برا بھلا کہیں۔

(۱۱) دسترخواں پر جب دوسرے لوگ بھی کھارے ہوں تو اس وقت چاہیے کہ اپنے سامنے سے کھایا جائے دوسروں کے آگے سے کھانے پینے کا سامان اپنی طرف کھینچ کر کھانا خلاف ادب ہے البتہ اگر پھل وغیرہ کسی محفل میں ادھر ادھر پڑے ہوں تو انہیں حاصل کر کے کھانا درست ہے۔ جب کچھ آدمی ایک برتن میں مل کر کھارے ہوں تو اس وقت جو سامان آپ کے سامنے ہے اس سے کھائیں۔ ایسے ہی جب بڑے برتن میں کوئی چیز پڑی ہو جو سب کیلئے ہو تو اس کے اوپر سے نہ لیں بلکہ ایک کنارے کی طرف سے ضرورت کے مطابق ڈالیں۔

(۱۲) کھانا برتن کے کناروں سے کھانا چاہیے اور میان سے نہ کھائیں اس طرح جو سامان بیچ جائے گا وہ صفائی کی حالت ہی میں رہے گا اس طرح برتن بھی زیادہ گند نہیں ہوگا اس کے علاوہ بیچ میں کھانے سے انسانی حرص اور لالچ زیادہ بیدار ہوگا اس لیے حضور نے برتن کے بیچ سے کھانے کو منع فرمایا۔ ایسے ہی روٹی کو بھی کنارے ہی سے کھانا شروع کریں۔ بیچ سے نہ کھائیں روٹی کو چھری سے کاٹنا نہیں چاہیے۔ برتن یا کوئی چیز جو کھانے کی نہ ہو اسے روٹی پر رکھنا نہیں چاہیے۔ ایسے ہی اپنے ہاتھوں کو روٹی سے نہ پونچھیں۔

(۱۳) کھانا ختم کرنے پر برتن کو انگلی سے صاف کر کے انگلی کو چاٹ لینا چاہیے اگر دوسری انگلیوں پر بھی سالن لگا ہو تو انہیں بھی چاٹ لے اگر کھانا ختم کرنے پر بچا ہوا سالن زیادہ ہو تو اسے محفوظ طریقہ سے رکھ لینا چاہیے اور اگر اسے گرانا ہی ہو تو ایسی جگہ پر رکھ دیں جہاں سے پرندے وغیرہ کھا جائیں۔ حضرت نبیؐ سے روایت ہے کہ رسول اللہؐ نے فرمایا کہ جو کھانا کھانے کے بعد برتن کو چاٹ لے برتن اس کے حق میں دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے دوزخ کی آگ سے محفوظ کرے جس طرح تو نے مجھے شیطان سے نجات دی ہے۔

(۱۴) کھانے سے فارغ ہونے پر اپنے دونوں ہاتھوں کو دھونا چاہیے اور دھو کر تو لیے سے خشک کر لینا چاہیے۔ ہاتھ دھوتے وقت اپنے دانتوں سے پچی ہوئی غذا کو نکال دیں اگر کوئی ریزہ یا غذا زبان سے لگی ہو تو اسے نکلنے میں کوئی مضائقہ نہیں۔ ہاتھوں کو دھوتے وقت صابن وغیرہ لگائیں تاکہ چکنائی اچھی طرح سے اتر جائے۔ کسی بزرگ آدمی کے ہاتھ دھلانے میں ثواب ہے اس لیے اگر کوئی عالم دین یا شیخ طریقت بوڑھے ہوں تو ان کے ہاتھ دھلا دیں۔

(۱۵) جب کسی شخص کے سامنے کھانا پیش کیا جائے اور اسے بھوک ہو تو اسے کھا لینا چاہئے اس وقت یہ جھوٹ نہیں بولنا چاہئے کہ مجھے ضرورت نہیں یا میں کھا کر آیا ہوں۔ حضرت اسماء بنت یزید نے فرمایا کہ نبی کریمؐ کے حضور کھانا پیش کیا گیا آپ نے ہمارے سامنے رکھ دیا ہم عرض گزار ہوئے کہ ہمیں تو خواہش نہیں ہے۔ فرمایا کہ بھوک اور جھوٹ کو جمع نہ کرو۔ (مشکوٰۃ)

(۱۶) جب چند حضرات مل کر کھٹھے کھا رہے ہوں تو اس وقت آہستہ آہستہ ان کا ساتھ دیں تاکہ سارے آدمی کھانے سے فارغ ہو جائیں اس لیے کھانے سے پہلے ہاتھ نہیں کھینچنا چاہیے۔ حضرت جعفر بن محمدؒ سے روایت ہے کہ ان کے والد ماجد نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسب لوگوں کے ساتھ کھانا کھاتے تو ان سے آخر میں کھانا بند کرتے۔ (بیہقی فی شعب الایمان)

(۱۷) حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانے سے فارغ ہوتے تو یہ دعا فرماتے۔ (ترمذی شریف):

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ۔

(تمام تعریف اس ذات کیلئے جس نے ہمیں کھانا کھلایا پانی پلایا اور ہمیں مسلمان بنایا)

Marfat.com

۲۔ پینے کے آداب

اسلام میں پینے کے آداب بھی مقرر ہیں۔ پانی یا دیگر کسی مشروب کو اسلامی آداب کے مطابق پیا جائے گا تو بے پناہ ثواب ہوگا اس لیے کسی چیز کو پیتے وقت اسلامی آداب کو مد نظر رکھنا چاہیے کیونکہ اس طرح بہت سے فوائد بھی حاصل ہوں گے۔ پینے کے چند آداب مندرجہ ذیل ہیں:

(۱) پانی یا کوئی اور چیز پینے کا اسلامی طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے بیٹھ جائیں پھر پینے والی چیز کے گلاس یا برتن کو دائیں ہاتھ میں پکڑیں۔ پھر اسے منہ کے قریب لا کر بسم اللہ شریف پڑھیں پھر برتن کو منہ لگا کر چسکی سے پینا شروع کر دیں۔ پینے کے دوران تین مرتبہ برتن کو اپنے منہ سے ہٹا کر سانس لیں اور پینے کے اختتام پر اللہ کا شکر ادا کریں اور الحمد للہ کہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی سنت طریقہ سے پینا چاہیے کیونکہ اس کا بے حد ثواب ہے۔

(۲) شریعت نے کھانے پینے کیلئے دایاں ہاتھ مقرر فرمایا ہے اس لیے ہمیشہ دائیں ہاتھ سے برتن کو پکڑ کر پینا چاہیے۔ اگر کوئی مجبوری ہو تو پھر بائیں ہاتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ حضرت عمرؓ سے روایت ہے کہ حضورؐ نے فرمایا کہ جب کوئی کھانا کھائے تو دائیں ہاتھ سے کھائے اور جب پانی پیئے تو دائیں ہاتھ سے پیئے کیونکہ بائیں ہاتھ سے کھانا پینا شیطان کا طریقہ ہے۔ (مسلم شریف)

(۳) اسلام نے ہمیں سب سے پہلا درس یہی دیا ہے کہ جو کام بھی کریں اس کے شروع میں اللہ کا نام لیں۔ کیونکہ جو چیز اللہ کے نام سے شروع کی جائے گی اللہ کی رضا اس میں شامل حال ہو جاتی ہے۔ اس لیے جب بھی پانی یا کوئی اور مشروب پیئیں تو گھونٹ بھرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں اور فراغت پر الحمد للہ کہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا۔ حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اونٹ کی طرح ایک سانس میں مت پیو بلکہ دو یا تین مرتبہ کر کے کسی چیز کو پیو اور جب پیئے لگتو بسم اللہ پڑھو اور جب پی لو تو الحمد للہ کہا کرو۔ (ترمذی)

(۴) پیتے وقت تین بار سانس لینا چاہیے یعنی پانی تین سانس میں ٹھہر ٹھہر کر پینا چاہیے اس سے پانی ضرورت کے مطابق پیا جاتا ہے اور پیٹ پر یکدم بوجھ نہیں پڑتا۔ طبی نقطہ نظر سے یکدم پیٹ میں پانی ڈال لینا بسا اوقات نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ جب سانس لیں تو گلاس یا برتن کو منہ سے ہٹا کر ایک طرف کر لیں تاکہ گندی سانس پانی کو نہ لگے۔ حضرت انسؓ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیتے ہوئے تین مرتبہ سانس لیا کرتے تھے یہ زیادہ سیر کرنے والا اور زیادہ صحت

بخش اور زود ہضم ہے۔ (مسلم شریف)

(۵) پینے کی چیز میں پھونک نہیں ماری چاہیے۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن میں سانس لینے اور پھونک مارنے سے منع فرمایا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پھونک مارنے سے اندر کی گندی سانس کے جراثیم پینے والی چیز میں مل جائیں گے کیونکہ جو سانس اندر سے باہر آتی ہے وہ جسم کی گندگی کثافتوں کو لے کر باہر آتی ہے۔ پھونک مارنے سے وہی کثافت پانی یا پینے والی چیز میں شامل ہو کر دوبارہ اندر چلی جائے گی جو صحت کیلئے نقصان دہ ہوگا۔ پھونک مارنے سے منہ کا تھوک بھی مشروب میں گرنے کا اندیشہ ہوتا ہے جو سلیقے کے خلاف ہے اس لیے پینے کی چیز میں پھونک مارنے سے منع کیا گیا ہے۔

(۶) پانی پینے کیلئے مشکیزے یا بڑے برتن یعنی گھڑا ڈول یا جگ وغیرہ کو منہ سے لگا لینا خلاف ادب ہے کیونکہ ایسا کرنے سے تمام پانی کو منہ لگ جائے گا اس کے علاوہ ایسا کرنے سے یہ بات معلوم نہیں رہے گی کہ پانی کتنا پیا ہے اور یہ بھی پتہ نہیں چل سکتا کہ مشکیزے یا گھڑے میں کوئی نقصان وہ چیز تو نہیں۔ ان وجوہات کی بنا پر حضور نے مشکیزہ کو منہ لگا کر پانی پینے سے منع فرمایا ہے۔

(۷) پانی ہمیشہ بیٹھ کر پینا چاہیے کیونکہ بیٹھ کر پینے کے بے شمار طبی فوائد ہیں اس کے برعکس کھڑے ہو کر پینے سے بیماری لگتی ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر پینے کی تاکید کی ہے اور کھڑے ہو کر پینے سے منع فرمایا ہے۔ حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پینے سے منع فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص کھڑے ہو کر نہ پیئے اور جو بھول کر پی لے وہ تھے کر لے۔ (مسلم شریف)

(۸) آب زمزم کھڑے ہو کر پینا چاہیے کیونکہ اس کا کھڑے ہو کر پینا سنت ہے البتہ اگر کہیں بیٹھ کر پینا پڑ جائے تو اس میں کچھ ہرج نہیں مکہ میں مسجد حرام کے وسیع احاطہ میں آب زمزم کولروں میں پڑا ہوا مل جاتا ہے اور جہاں آدمی بیٹھا ہوتا ہے وہاں کولر سے ڈال کر بیٹھ کر پی لیا جائے تو اس میں کوئی خلاف ادب بات نہیں۔ حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ میں نے حضور نبی کریم ساقی کوٹر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آب زمزم پیش کیا تو آپ نے اسے کھڑے ہو کر پیا۔ (بخاری شریف)

(۹) پینے کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ پانی پیتے وقت برتن کے اندر سانس نہ لیں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ آپ پانی پیتے وقت سانس برتن کے باہر لیتے بلکہ برتن کو اپنے منہ مبارک کے آگے سے ہٹا کر ذرا ایک طرف کر لیتے کیونکہ جو سانس ہم اندر سے نکالتے ہیں وہ گندا ہوتا ہے اور اس میں جراثیم ہوتے ہیں اس لیے اگر برتن میں سانس لیں گے تو وہ پینے والی چیز میں شامل ہو جائیں گے اس لیے حضور نے پانی پیتے وقت برتن کے اندر سانس لینے سے منع فرمایا ہے۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن میں سانس لینے اور اس میں پھونکنے سے منع فرمایا ہے۔ (ابوداؤد ابن ماجہ)

(۱۰) حضور صلی اللہ علیہ وسلم پانی پینے کیلئے پیالہ استعمال کیا کرتے تھے اس لیے پیالے میں پانی پینا سنت ہے آپ کے دور میں کھانے پینے میں پیالے کثرت سے استعمال کیے جاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیالہ موٹی لکڑی کا بنا ہوا تھا۔ حضور کے وصال کے بعد یہ پیالہ حضرت انسؓ کے پاس تھا۔

(۱۱) گرمیوں میں ٹھنڈا پانی جو طبیعت کے موافق ہو پنی لینا عین سنت ہے کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہؓ سے روایت ہے کہ حضور تاجدار مدینہ ساقی کوٹر صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام پانیوں میں بیٹھا اور ٹھنڈا پانی زیادہ پسند تھا۔ (ترمذی)

۳۔ سونے کے آداب

اسلامی طریقے سے سونے میں بڑی عافیت اور راحت ہے۔ اللہ والوں نے غیند کو موت کو چھوٹی بہن قرار دیا ہے اس لیے جب سوئیں تو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر سوئیں اور جب اٹھیں تو اس کا شکر ادا کریں کہ اس نے پھر دوبارہ زندگی بخشی۔ اسلامی طریقے سے سونے کا بڑا درجہ ہے۔ سونے کے چند آداب مندرجہ ذیل ہیں:

(۱) رات کو سونے کا سب سے بہتر وقت عشاء کی نماز پڑھ کر سونا ہے اس لیے شام کے فوراً بعد نہیں سونا چاہیے کہ کہیں عشاء کی نماز قضا نہ ہو جائے۔ سونے سے پہلے وضو ہو تو بہت بہتر ہے اگر وضو نہ ہو تو پہلے وضو کر لیں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ با وضو سونے کی تاکید فرمائی ہے۔

(۲) سونے سے پہلے کھانے پینے کی اشیاء کو ڈھانپ دینا چاہیے تاکہ اشیاء خراب نہ ہونے پائیں۔ حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رات کو

جب تم سونے لگو تو چراغوں کو بجھا دو اور دروازے بند کر لیا کرو اور مشکیزہ کا منہ باندھ دیا کرو اور کھانے پینے کی چیز کو ڈھانپ کر رکھ لیا کرو۔

(۳) سونے سے پہلے چراغ کو بجھا دینا چاہیے کیونکہ پرانے وقتوں میں تیل سے چراغ جلائے جاتے تھے جو باہر سے ننگے ہوتے تھے اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے سے قبل چراغوں کو بجھانے کی تاکید فرمائی ہے۔ حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ ایک چوہا بچی کو گھسیٹتا ہوا آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسے چٹائی پر ڈال دیا۔ جس پر آپؐ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک درہم کے برابر جگہ جلا دی۔ فرمایا کہ جب تم سونے لگو تو اپنے چراغوں کو بجھا دیا کرو کیونکہ شیطان انہیں ایسے ہی کام بھاتا ہے تاکہ تمہیں جلا دیں۔ (ابوداؤد)

(۴) سوتے وقت جلتی آگ کو بجھا دینا چاہئے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ سوتے ہوئے اس سے کسی طریقے سے نقصان پہنچ جائے اس لیے انگلیٹھی جلا کر نہیں سونا چاہئے۔ نہ گیس وغیرہ کا بیٹر جلتا ہوا چھوڑ کر سونا چاہئے کیونکہ جلتی آگ خطرے سے خالی نہیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے کہ سوتے وقت جلتی آگ نہ رہنے دیں بلکہ اسے بجھا دیں۔

(۵) سونے سے پہلے گھر کا دروازہ بند کر لینا چاہئے۔ اگر باہر سے آنے والے دروازے زیادہ ہوں ہو تو ہر ایک کو اچھی طرح چیک کریں اگر کوئی کھلا ہو تو اسے ضرور بند کر لیں دروازہ کھلا رہنے سے چور اور غیر لوگوں کے آنے کا خطرہ ہوتا ہے اس لیے دروازہ بند کرنا ضروری ہے یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کے شر سے محفوظ رہنے کیلئے سونے سے پہلے دروازوں کو بند کرنے کی تاکید فرمائی ہے۔

(۶) سونے سے پہلے بستر کو اچھی طرح جھاڑنا چاہئے کیونکہ بستر کو جھاڑنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حضور سونے سے پہلے بستر کو جھاڑا کرتے تھے تاکہ اگر کوئی موزی کیڑا مکوڑا ستر پر ہو تو وہ بستر سے دور ہو جائے۔ اگر سونے سے پہلے خود بستر کو نہ جھاڑا بلکہ کسی اور نے جھاڑ کر تجا دیا تو وہ بھی درست ہے۔

(۷) ایسا مکان جس کی چھت پر پردہ کیلئے چار دیواری نہ ہو اس پر سونے سے گریز کرنا چاہئے کیونکہ چار دیواری نہ ہونے سے ایک تو پردہ نہیں ہوتا اور دوسرے رات کو جب کوئی اچانک ٹھٹھے تو اس کے گرنے کا خطرہ ہوتا ہے اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلی چھتوں پر سونے سے منع فرمایا ہے۔

(۸) سوتے وقت پیٹ کے بل یعنی الٹا ہو کر نہیں سونا چاہئے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ کے بل لیٹنے سے منع فرمایا ہے۔ پیٹ کے بل لیٹنا اخلاقی اقدار کے خلاف ہے اور دوسرے کہ شیطانی شر کا خدشہ ہوتا ہے۔ تیسرے یہ کہ طبی نقطہ نظر سے پیٹ کے بل لیٹنے سے کھانا اچھی طرح ہضم نہیں ہوتا۔ چھوٹا یہ کہ پیٹ کے بل لیٹنے والا غیر مہذب معلوم ہوتا ہے۔ پانچواں یہ کہ پیٹ کے بل لیٹنے سے سترنگا ہونے کا ڈر ہوتا ہے اس لیے الٹا پیٹ کے بل سونا منع ہے۔

حضرت ابی ذرؓ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے اور میں پیٹ کے بل لیٹا ہوا تھا۔ آپؐ نے پائے اقدس سے ٹھوکر لگائی اور فرمایا اے جناب! یہ جہنمیوں کا لیٹنا ہے۔ (ابن ماجہ)

(۹) دن کے ابتدائی حصہ میں سونا یا مغرب و عشاء کے درمیان سونا مکروہ ہے اور حدیث شریف میں آیا کہ جو شخص عصر کے بعد سوئے اور اس کی عقل جاتی رہے تو وہ اپنے ہی کو ملامت کرے ایسے ہی قرآن پاک اور دیگر مذہبی کتابوں کی سمت پاؤں کرنا ناجائز ہے۔ ہاں اگر قرآن پاک اور مقدس طغرے وغیرہ اونچی جگہ ہوں تو اس سمت پاؤں کرنے میں مضائقہ نہیں۔

(۱۰) سوتے وقت یاد خدا میں مشغول ہو۔ جہلیل (لا الہ الا اللہ) و تسبیح (سبحان اللہ) و تحمید (الحمد للہ) اور آیتہ الکرسی چاروں قل ایک ایک بار پڑھ کر سو جائے کہ جس حالت پر انسان سوتا ہے اسی پر اٹھتا ہے اور جس حالت پر مرتا ہے قیامت کے دن اسی پر اٹھے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہؓ سے مروی ہے کہ نبی کریم رؤف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر لیٹتے تو اپنے ہاتھوں پر پھونک مارتے اور قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ اور قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ (دونوں سورتیں پوری) پڑھتے اور ہاتھوں کو اپنے جسم اطہر پر مل لیتے۔ (ابن ماجہ)

(۱۱) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کے متعلق حضرت حذیفہؓ سے مروی ہے۔ فرمایا کہ حضور نبی کریم رؤف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو بستر پر تشریف لے جاتے تو اپنا ہاتھ مبارک رخسار کے نیچے رکھتے اور پڑھتے اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ اَمُوتُ وَاَحْيٰى (اے اللہ! میں تیرے نام کے ساتھ ہی مرتا اور جیتا ہوں یعنی سونا اور جاگتا ہوں) اور جب نیند سے بیدار ہوتے تو پڑھتے: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَحْيَاْنَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ۔

(تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کیلئے ہیں جس نے ہمیں مارنے کے بعد زندہ کیا اور اسی کی طرف لوٹ کر

جانا ہے)۔ (بخاری)

۴۔ چلنے پھرنے کے آداب

چلنا پھرنا انسانی معمولات میں سے ہے۔ ہر شخص کو خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا جوان ہو یا بزرگ کسی نہ کسی ضرورت کی خاطر گھر سے باہر جانا پڑتا ہے۔ چلنے پھرنے کو تقاضائے فطرت کے مطابق رکھنے کیلئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیروکاروں کو چند آداب سکھائے ہیں تاکہ چلنے پھرنے میں انسانی وقار اور حسن معاشرت قائم رہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق چلنے پھرنے کے چند آداب مندرجہ ذیل ہیں۔

(۱) چلنے کا پہلا ادب یہ ہے کہ ہمیشہ درمیانی چال سے چلنا چاہیے نہ زیادہ سست اور نہ زیادہ تیز رفتار سے چلنا چاہیے اور راستے پر خیال رکھنا چاہیے کہ قدم کہاں رکھا جا رہا ہے کیونکہ بسا اوقات راستہ بچا بچا ہوتا ہے اگر اس پر خیال نہ رکھا جائے تو گرنے کا خطرہ لاحق ہو جائے گا۔

(۲) چال میں متانت اور سنجیدگی ہونی چاہیے۔ عاجزی اور انکساری کے ساتھ قدم اٹھانے چاہئیں۔ اکڑ کر چلنا غرور اور تکبر کی علامت ہے اس لیے اکڑ کر چلنے سے منع فرمایا گیا ہے کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ لوگوں کی طرف سے اپنا رخ نہ پھیرو اور زمین میں اکڑ کر نہ چلو بے شک اللہ تعالیٰ کو شیخی مارنا اور فخر کرنا پسند نہیں۔ (لقمان: ۱۸) حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک شخص دھاری دار چادر پہن کر گردن اٹھائے ہوئے چل رہا تھا تو زمین میں دھنسا دیا گیا اور قیامت تک زمین میں دھنستا چلا جائے گا۔ (بخاری شریف)

(۳) ہمیشہ جوتے پہن کر چلنا چاہیے کیونکہ ننگے پاؤں چلنے سے کوئی چیز پاؤں میں لگنے کا ڈر ہوتا ہے۔ جوتا پہننے سے انسان کانٹے ٹکڑے اور دوسری تکلیف دہ چیزوں سے محفوظ رہتا ہے اور موذی جانوروں سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتا پہننے کی بہت تاکید فرمائی ہے۔

(۴) چلتے وقت راستے کا حق بھی ادا کرنا چاہیے اس لیے راستوں میں آوارہ بیٹھنا مناسب نہیں۔ راستے کے حق کے بارے میں حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راستوں میں بیٹھنے سے بچا کرو۔ لوگ عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ! ہمیں اسکی جگہوں پر بیٹھنے سے سوائی چارہ نہیں کیونکہ وہاں ہم کھٹلو کرتے ہیں۔ فرمایا کہ جب تم

نے ضروری بیٹھنا ہی ہو تو پھر راستے کا حق ادا کیا کر۔ عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ! راستے کا حق کیا ہے؟ فرمایا کہ نگاہ نیچی رکھنا ہاتھ روکنا، سلام کا جواب دینا۔ نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا۔ (مشکوٰۃ)

(۵) چلتے وقت کپڑے کو لٹکانا نہیں چاہیے تاکہ چلنے میں دشواری پیدا نہ ہو اور نہ ہی کوئی تکلیف دہ چیز ہاتھ میں رکھنی چاہیے۔ اس لیے ہاتھ میں کوئی تیز آلہ یا لمبی چھتری نہیں رکھنی چاہیے اگر بوقت ضرورت اس قسم کی چیز رکھنی پڑے تو اسے بڑی احتیاط سے رکھنا چاہیے۔ ایسے ہی عورت کو ایسا زیور پہن کر نہیں چلنا چاہیے جس سے جھنکار پیدا ہوتی ہو تاکہ راستے میں گزرنے والوں کے خیالات منتشر نہ ہوں۔

(۶) بازار گلی کوچے گویا کہ ہر جگہ عورتوں کو مردوں کے ساتھ مل جل کر نہیں چلنا چاہیے۔ بلکہ مردوں کو راستے میں ایک طرف ہو کر چلنا چاہیے اور جن بازاروں میں بھیڑ زیادہ ہو وہاں عورتوں میں گھسنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت ابوسعید انصاریؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جبکہ آپ مسجد سے باہر تھے اور راستے میں مرد اور عورتیں مل جل گئے تھے آپ نے عورتوں سے فرمایا کہ تم پیچھے ہٹ جاؤ کیونکہ تمہارے لیے رستے کے درمیان میں چلنا درست نہیں بلکہ ایک جانب ہو کر چلا کرو۔ پس عورتیں دیواروں کے ساتھ ہو کر چلنے لگیں۔ یہاں تک کہ بعض اوقات ان کا کپڑا دیوار کے ساتھ اٹک جاتا۔ (ابوداؤد)

(۷) جب چند افراد مل جل کر چل رہے ہوں تو سب کے ساتھ ہو کر چلنا چاہئے سب سے آگے امتیازی ہو کر چلنے سے پرہیز کریں کیونکہ ایسا کرنے سے دل میں غرور جنم لیتا ہے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب بھی آپ ساتھیوں کے ساتھ چلتے تو ان میں اپنی امتیازی شان ظاہر نہ ہونے دیتے البتہ صحابہ کرامؓ آپ کے احترام کی بنا پر آپ کے پیچھے پیچھے چلتے۔

(۸) عورتوں کو ایسا زیور پہن کر نہیں چلنا چاہیے جس سے وہ آنے جانے والوں کی نظروں کا مرکز بنیں اس لیے عورتوں کو بڑے سلیقے سے چلنا چاہیے اس کے علاوہ عورتوں کو اس امر کی بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ وہ پھیلنے والی خوشبو لگا کر باہر نہ جائیں۔

(۹) بازار میں چلتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ آپ بازار میں یہ دعا پڑھتے لہذا ہمیں بھی بازار میں یہ دعا پڑھنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ برائیوں سے محفوظ رکھے۔

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ تَحْوِیَ هَذِهِ السُّوْقِ وَتَحْوِیَ مَا فِیْهَا
وَ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَ شَرِّ مَا فِیْهَا اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ
اَنْ اُصِیْبَ بِهَا یَمِیْنًا فَاجِرَةً اَوْ صَفَقَةً خَاسِرَةً۔

خدا کے نام سے (بازار میں داخل ہوتا ہوں) خدایا! میں تجھ سے اس بازار کی بھلائی اور جو کچھ اس میں ہے اس کی بھلائی چاہتا ہوں اور اس بازار کے شر سے اور جو کچھ اس میں ہے اس کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ خدیا! تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ یہاں میں جھوٹی قسم کھا بیٹھوں یا خسارے کا کوئی سودا کر بیٹھوں۔

(۱۰) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چال مبارک بہت دلکش تھی۔ اس لیے آپ کی اتباع میں اسے اپنانا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی خوبصورت نہیں دیکھا آپ کے چہرہ مبارک چمکتا ہوا سورج محسوس ہوتا اور میں نے آپ سے زیادہ تیز چلنے والا کوئی نہیں دیکھا گویا کہ آپ کیلئے زمین سمٹتی جاتی ہم اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتے تھے مگر حضور ہمیشہ بے تکلف چلتے تھے۔ (ترمذی)

(۱۱) دو عورتوں کے درمیان سے گزرنا منع ہے کیونکہ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کو دو عورتوں کے درمیان سے چلنے سے منع فرمایا۔ (ابوداؤد)

۵۔ آداب مجلس

چند آدمیوں کے مل کر بیٹھنے کو مجلس کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مل کر بیٹھنے کے آداب بھی سکھائے ہیں جنہیں آداب مجلس کہا جاتا ہے۔ آداب مجلس سے ایک دوسرے کا احترام پیدا ہوتا ہے جس سے معاشرے میں اخوت اور محبت فروغ پاتی ہے۔ مجلس کے چند آداب مندرجہ ذیل ہیں:

(۱) مجلس میں جہاں جگہ مل جائے وہیں بیٹھ جائیں۔ پاک اور صاف جگہ پر بیٹھیں اور آسانی سے بیٹھیں۔ کسی ایسی جگہ پر نہ بیٹھیں جہاں پر جسم کو تکلیف پہنچنے یا گرنے کا خطرہ ہو۔ گھر میں یا باہر جہاں پر بیٹھیں کوشش کریں کہ کعبہ کی طرف پیٹھ کر کے نہ بیٹھیں اگر کسی مجلس میں جائیں تو جہاں جگہ مل جائے آرام سے بیٹھیں۔ مجلس میں گھسنے کی کوشش نہ کریں۔ حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تو ہم میں سے ہر ایک جہاں بند پاتا وہاں بیٹھ جاتا۔ (ابوداؤد)

(۲) عام حالات میں کسی شخص کو مجلس سے اٹھا کر اس کی جگہ پر خود بیٹھ جانا آداب مجلس کے خلاف ہے کیونکہ ایسا کرنے میں فوقیت اور خود پسندی کا اظہار ہوتا ہے اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم میں سے کوئی دوسرے کو اٹھا کر اس کی جگہ پر نہ بیٹھے البتہ جگہ بنا لو تو اسے دے دو۔ (ابوداؤد)

(۳) اگر کوئی شخص مجلس میں بیٹھ کر کسی ضرورت سے خود اٹھ کر چلا جائے تو واپس آنے کے بعد وہی اس جگہ پر بیٹھنے کا حقدار ہے۔ دوسرے کو اس کی جگہ پر نہیں بیٹھنا چاہیے کیونکہ وہ پہلے سے قابض ہو چکا تھا اور اس کا یہ حق عارضی طور پر اٹھنے سے ختم نہیں ہوتا ہاں اگر یہ معلوم ہو جائے کہ وہ شخص اب واپس نہیں آئے گا تو پھر بے تکلف اس کی جگہ پر بیٹھ سکتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص کسی کام کیلئے اپنی جگہ چھوڑ کر جائے اور پھر وہ واپس آئے تو وہی اس جگہ کا زیادہ مستحق ہے۔ (ترمذی)

(۴) اگر مجلس میں دو شخص باہم مل کر بیٹھے ہوں تو ان کی اجازت کے بغیر نہیں الگ نہ کیا جائے اور نہ ان میں تیسرا شخص آ کر گھس کر بیٹھے کہ ان میں جدائی ہو جائے کیونکہ جو شخص بھی کسی کے قریب بیٹھتا ہے وہ آپس کے بے تکلفی یا محبت کے باعث بیٹھتا ہے اور انہیں الگ کرنے سے ان کو دلی تکلیف ہوگی اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جدا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمروؓ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دو بیٹھے ہوئے آدمیوں کو جدامت کرو صرف اس صورت میں کہ وہ اجازت دے دیں۔ (ابوداؤد)

(۵) مجلس میں بیٹھنے کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ جب کوئی بیٹھنے والا آئے اور آپ اسے قریب میں جگہ دینے کیلئے تھوڑا سا سرک جائیں یعنی خود کو اکٹھا کر لیں اور آنے والے کیلئے جگہ بنا دیں ایسا کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اسی طرح کیا کرتے تھے۔

(۶) مجلس میں بیٹھ کر دو آدمی آپس میں چپکے چپکے کانوں میں باتیں نہ کریں کیونکہ سرگوشی بدگمانی پیدا ہوتی ہے اس لیے اس سے منع فرمایا گیا ہے۔ سرگوشی سے دوسروں کے دلوں میں یہ بد اعتمادی پیدا ہوتی ہے کہ شاید وہ ہمارے خلاف ہی کوئی بات کر رہے ہیں اور یہ احساس بھی اٹھتا

ہے کہ سرگوشی کرنے والوں نے ہمیں اپنی راز کی باتوں میں شریک کرنے کے قابل نہ سمجھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تم تین ہو تو دو تیسرے کو چھوڑ کر کاٹنا پھوسی نہ کریں تاکہ تیسرا رنجیدہ نہ ہو۔ اگر زیادہ ہوں تو ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ (مسلم شریف)

(۷) اگر کچھ لوگ کسی محفل میں حلقہ باندھ کر بیٹھے ہوں تو کسی شخص کو اس کے درمیان میں نہیں بیٹھنا چاہیے کیونکہ درمیان میں بیٹھنے کی وجہ سے کچھ لوگوں کی طرف اس کا منہ ہوگا اور کچھ لوگوں کی طرف اس کی پیٹھ ہوگی جو ایک طرح کی بدتمیزی ہے اور آداب کے خلاف ہے۔ صوفیاء کا اس بارے میں یہی طرز عمل ہے کہ وہ مجلس کے وسط میں کبھی نہ بیٹھتے بلکہ ایک طرف ہو کر بیٹھنے کی کوشش کرتے۔ حضرت حذیفہ کا قول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص حلقے کے درمیان بیٹھے وہ ملعون ہے۔ (ترمذی)

(۸) مجلس میں پھلانگنے سے گریز کرنا چاہیے کیونکہ پھلانگنے سے پہلے سے بیٹھے ہوئے حضرات کو تکلیف اور دشواری ہوگی۔ مساجد میں عموماً لوگ بعد میں آگے پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خاص کر عیدین اور جمعہ کی نماز کے وقت لوگ پھلانگتے ہوئے آگے چلے جاتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ حضرت معاذ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جمعہ کے دن لوگوں کی گردنوں کو پھلانگنا وہ جہنمیوں کیلئے مل بنا دیا گیا۔

(۹) مجلس میں کسی امتیازی جگہ پر بیٹھنے سے پرہیز کیجئے کسی کے یہاں جائیں تو وہاں بھی اس کی معزز جگہ پر بیٹھنے کی کوشش نہ کیجئے۔ ہاں اگر وہ خود ہی اصرار کرے تو بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں اور مجلس میں ہمیشہ ادب سے بیٹھیں۔ پاؤں پھیلا کر یا پنڈلیاں کھول کر نہ بیٹھیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ مجلس میں یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس معزز جگہ میں نہیں تو اس سے جس قدر قریب جگہ ہو وہاں بیٹھیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ صدر نشین کے پاس جگہ بہت تنگ ہو جاتی ہے اور لوگوں کو وہاں سے ذرا سرکے اور دوسروں کیلئے جگہ بنانے کیلئے کہا جائے تو وہ برامانتے ہیں۔

(۱۰) اچھی مجلس وہی ہوتی ہے جس میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کیا جائے۔ اچھی باتیں کی جائیں۔ وعظ و تلقین کی جائے اللہ کے اسماء کا ذکر کیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا جائے اور کسی قسم کی خلاف ادب یا بری بات نہ کی جائے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا جب کچھ لوگ مجلس کا عقاد کرتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کے ذکر اور

بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود بھیجے بغیر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں تو ان کیلئے باعث نقصان ہے اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو ان کو عذاب دے اور چاہے تو بخش دے۔ (ترمذی)

(۱۱) انسانی اخلاق و کردار پر دوسروں کی صحبت کا بہت برا اثر پڑتا ہے اس لیے بیٹھتے وقت اچھے لوگوں کو مد نظر رکھیں تاکہ ان کے پاس بیٹھنے سے اچھائی پیدا ہو۔

۶۔ آداب لباس

لباس قدرت کا بہترین عطیہ ہے جس سے انسان اپنا جسم ڈھانپتا ہے اور اظہار زینت بھی کرتا ہے جسم کو ڈھانپنا انسانی فطرت میں شامل ہے کیونکہ موسیٰ اثرات سے جسم کو بچانے کیلئے لباس ہی کام آتا ہے۔ سردی، گرمی اور بارش سے بچنے کیلئے لباس پہننے بغیر گزارہ نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ لباس ہر لحاظ سے جسم کیلئے ضروری ہے۔ لباس استعمال کرنے کے چند آداب مندرجہ ذیل ہیں:

(۱) کپڑا پہننے کا پہلا ادب یہ ہے کہ کپڑے کو دائیں جانب سے پہنا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب قمیص یا کرتہ پہنتے تو پہلے دائیں آستین میں بازو ڈالیں پھر بائیں آستین میں بازو ڈالتے پھر قمیص کو گلہ مبارک میں پہن لیتے۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ جب بھی قمیص کرتہ شروانی یا کوٹ یا بنیان پہنتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی طریقہ سے پہنیں۔ ایسے ہی جب شلوار یا پاجامہ وغیرہ ڈالیں تو پہلے دائیں پانچھ میں پیر ڈالیے پھر بائیں پانچھ میں پیر ڈالیں۔ قمیص یا شلوار اتارتے وقت الٹا یعنی بائیں طرف سے اتارنا شروع کریں پھر دائیں طرف سے اتاریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ کار تھا۔ حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اکرمؐ نے ارشاد فرمایا لباس پہنتے وقت نیز وضو کرتے وقت دائیں جانب سے ابتدا کرو۔ (ترمذی)

(۲) کپڑا پہننے سے پہلے جھاڑنا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ ہمیشہ جس کپڑے کو پہنتے تو اسے پہلے جھاڑ لیتے لہذا ہمیں کپڑا استعمال کرنے سے پہلے اسے جھاڑ لینا چاہیے۔ جھاڑنے کی مصلحت اور حکمت یہ ہے کہ اگر اس میں کوئی تکلیف دینے والی چیز یا موذی جانور ہوگا تو وہ نکل جائے گا اور کپڑا پہننے والا آنے والی پریشانی سے محفوظ رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے سے پہلے بستر جھاڑنے کی تاکید فرمائی ہے جس سے یہ بات اخذ ہوتی ہے کہ

جو کپڑا بھی استعمال میں لایا جائے اسے جھاڑ لینا بہتر ہے۔

(۳) شلوار یا تہ بند کو ٹخنوں سے اونچا رکھنا اس لیے ضروری ہے کہ اسلام سے پہلے عربوں میں جو شخص امیر اور مغرور ہوتا وہ اپنے تہ بند کو زمین پر لٹکا کر چلتا تا کہ اس کا غرور اور امارت ظاہر ہو یعنی تہ بند لٹکانا تکبر اور غرور کی علامت تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غرور و تکبر کو ختم کرنے کیلئے شلوار یا تہ بند کو لٹکانے سے منع کر دیا۔

(۴) مردوں کیلئے ریشمی لباس پہننا منع ہے کیونکہ ریشم پہننے سے زیب و زینت کا اظہار ہوتا ہے اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کیلئے ریشم کا استعمال منع فرمایا ہے اگر کسی نے اپنے بچے کو ریشم کے کپڑے پہنائے تو اس کا گناہ بچے پر نہیں بلکہ پہنانے والے پر ہوگا۔ حضرت انسؓ سے روایت یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دنیا میں ریشمی لباس پہنا وہ آخرت میں یہ لباس نہیں پہنے گا۔ (بخاری شریف)

(۵) نیا لباس پہنتے وقت اللہ کی تعریف کرنی چاہیے اور اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لہذا اپنا کپڑا پہنتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے کوئی ایک دعا پڑھیں۔ کپڑا پہنتے وقت کی دعا ایک طرح کی اللہ سے توفیق مانگنے کی التجا ہے کہ اے اللہ! تو مجھے توفیق دے کہ جو لباس تو نے مجھے مہیا کیا ہے میں اسے پہن کر تیری عبادت کروں۔ ایک دعا یہ ہے حضرت ابو سعید خدریؓ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی نیا کپڑا، عمامہ، قمیص یا چادر پہنتے تو اس طرح دعا پڑھتے:

اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كَمَا
كَسَوْتَنِيهِ أَسْأَلُكَ خَيْرَهُ
وَمَا صُنِيعَ لَهُ وَأَعُوذُ بِكَ
مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِيعَ
لَهُ ۖ

اے اللہ سب تعریفیں تیرے لیے ہیں جیسے تو نے
مجھے یہ پہنایا میں تجھ سے اس کی بھلائی مانگتا ہوں
اور اس کی بھلائی جس کیلئے بنایا گیا میں اس کی برائی
سے تیری پناہ لیتا ہوں اور اس کی برائی سے جس
کے لیے بنایا گیا۔ (ترمذی، ابوداؤد)

(۶) ایسا لباس جس پر جانداروں کی تصاویر بنی ہوں اس کا استعمال منع ہے لہذا کپڑا بنانے والوں کو اس امر کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ وہ کپڑے پر جانداروں کی تصاویر کے پرنٹ نہ لگائیں۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تصاویر سے منع فرمایا ہے۔ تصاویر اللہ تعالیٰ سے توجہ ہٹانے کا باعث بنتی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہؓ سے روایت ہے کہ میرے گھر میں ایک ایسا کپڑا

تھا جس پر چڑیوں کی تصاویر بنی ہوئی تھیں۔ جب کوئی شخص اندر آتا تو اس پر نظر پڑتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ! اسے الٹا کر دو کیونکہ جب میں داخل ہوتا ہوں تو دنیا یاد آتی ہے اور ہمارے پاس ایک ایسی چادر تھی جس پر (بیل بوٹوں کے) نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ تم اس کو پہنتے تھے اور ہم نے اسے کاٹا نہیں۔ (نسائی شریف)

(۷) کپڑے بنانے اور خریدنے میں اسراف سے بچنا ضروری ہے کیونکہ اسراف اللہ کو پسند نہیں کپڑوں کے سلسلہ میں اسراف دو طرح کا ہے ایک یہ کہ قیمتی سے قیمتی کپڑا خریدنے کی لگن میں رہنا اور دوسرا یہ کہ ضرورت سے زائد کپڑے بنانا۔ لہذا لباس خریدتے وقت میانہ روی اختیار کرنی چاہیے اور نہ ہی ضرورت سے بہت زائد کپڑے بنانے چاہئیں۔ ضرورت کیلئے چند کپڑوں کے جوڑے بنا کر رکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ روپیہ پیسہ ہوتے ہوئے کنجوسی کرنا بھی درست نہیں کیونکہ ایسا کرنے سے اللہ کی نعمت کا شکر ادا نہیں ہوگا۔ لہذا حیثیت کے مطابق کپڑے بنانا عین شریعت کے مطابق ہے۔

(۸) حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو شوخ اور سرخ رنگ کر کپڑے پہننے سے منع فرمایا ہے کیونکہ رنگ کی تیزی اور شوخی مزاج میں شوخی اور ضد کے اسباب پیدا کرتی ہے جو مردوں کیلئے عملی زندگی میں بہتر اور اچھی نہیں البتہ ایسا کپڑا جس میں کہیں کہیں سرخ رنگ ملا ہو تو اسے اسے پہن سکتے ہیں۔ صاحب شرع بزرگوں نے بھی سرخ رنگ کو پسند نہیں کیا۔ میرے بزرگ بھی سرخ رنگ پہننے کو پسند نہیں کرتے لہذا مکمل سرخ لباس مرد کو نہیں پہننا چاہیے اگر صرف سرخ رنگ کی دھاریاں بنی ہوئی ہوں تو پہن سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے فرمایا کہ ایک آدمی گزرا اور اس کے کپڑے سرخ تھے اس نے سلام کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جواب نہ دیا۔ (ابوداؤد ترمذی)

(۹) مسلمانوں کیلئے شکل لباس اور زندگی کے دوسرے شعبوں میں غیر مسلموں کی مشابہت اختیار کرنا منع ہے کیونکہ مسلمان کی ایک اپنی تہذیب ہے جس میں زندگی کے ہر طرح کے اصول ہیں اور لباس کی خاص وضع قطع ہے۔ جس سے انسانی ستر اچھی طرح چھپ جاتا ہے۔ جو ہر لحاظ سے غیر مسلموں سے بہتر ہے لہذا اس بہتر اسلامی لباس کو چھوڑ کر غیر مسلموں کا لباس پہننا درست نہیں بلکہ قابل مذمت ہے۔

(۱۰) لباس پہننے خریدنے اور بنانے میں ہمیشہ اعتدال اور میانہ روی اختیار کرنی چاہیے۔

(۲) رفع حاجت یعنی پیشاب پاخانہ سے فارغ ہونے کیلئے باپردہ انتظام کا ہونا ضروری ہے اس لیے رفع حاجت کسی چار دیواری کے اندر کریں تو بہت بہتر ہے۔ گھر، مساجد و دفاتر اور دیگر مقامات پر اس مقصد کیلئے بیت الخلاء بنے ہوتے ہیں اس لیے رفع حاجت کے لیے انہیں استعمال میں لانا زیادہ اچھا ہے۔ اگر باہر کسی جگہ پر رفع حاجت کیلئے جائیں تو وہاں بھی آڑ وغیرہ تلاش کر لیں اس مقصد کیلئے کسی فصل یا کسی پودے یا کسی دیوار وغیرہ کی آڑ مل جائے تو زیادہ مناسب ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع حاجت کیلئے آڑ کی اوٹ میں جانے کی تاکید فرمائی ہے۔ اس لیے باپردہ مقام پر رفع حاجت سے فارغ ہونا سنت ہے۔

(۳) قبلہ ہمارے لیے ایک مقدس مقام ہے لہذا اس کی تعظیم و احترام کے پیش نظر رفع حاجت کے وقت اس کی طرف منہ نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت امام شافعیؒ کے نزدیک رفع حاجت کے وقت قبلہ کی طرف منہ کرنا جنگل میں تو حرام ہے لیکن آبادی میں نہیں کیونکہ بیچ میں دیوار حائل ہو جاتی ہے لیکن حضرت امام اعظمؒ کا یہ کہنا ہے کہ قبلہ کی طرف منہ اور پشت کرنے کی ممانعت کا حکم مطلقاً ہے۔ اس میں جنگل اور آبادی کی کوئی تمیز نہیں اس لیے سنت طریقہ یہی ہے کہ رفع حاجت کے وقت قبلہ کی طرف منہ نہ کریں۔

(۴) رفع حاجت کے وقت جس طرح قبلہ کی طرف منہ کرنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے ایسے ہی رفع حاجت کے وقت قبلہ کی طرف پشت کرنا بھی منع ہے۔ مدینہ شریف میں قبلہ جنوب کی جانب ہے اس لیے وہاں جنوب کی جانب رفع حاجت کے وقت منہ نہ کریں اور نہ پیٹھ۔ اس لیے اپنے مکانوں میں جب بیت الخلاء بنائیں تو اس کا خاص طور پر خیال رکھیں کہ بیت الخلاء کے پاٹ کا منہ قبلہ کی طرف نہ رکھیں اور اس کے ساتھ ہی چھوٹے بچوں کو رفع حاجت کے وقت یہ تلقین فرمائیں کہ وہ قبلہ کی طرف منہ نہ کریں اور نہ پشت۔

(۵) حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوراخ میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا ہے کیونکہ سوراخ میں کوئی نہ کوئی جانور ہوتا ہے جسے پیشاب کی وجہ سے تکلیف ہوگی ہو سکتا ہے کہ وہ سوراخ سے باہر نکل آئے۔ خدا نخواستہ اگر وہ موذی ہو اور یکدم ڈس لے تو اس طرح ایسی تکلیف برداشت کرنا پڑے گی جس کا ازالہ بمشکل ہوگا۔ اس طرح انسانی حفاظت اور جانوروں کے حقوق کو مد نظر رکھتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تاکید فرمائی ہے کہ سوراخ میں کبھی بھول کر بھی پیشاب نہ کریں۔

(۶) نرم جگہ پر پیشاب کرنا سنت ہے کیونکہ نرم جگہ سے پیشاب کے چھینٹے نہیں آڑتے جس سے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نرم جگہ پر پیشاب کرنے کی تاکید فرمائی ہے ایک زمانہ تھا کہ زمین کچی ہوتی تھی اب جبکہ شہروں میں نرم جگہ نہیں رہی بلکہ اس کی بجائے پختہ بیت الخلاء ہیں جہاں پیشاب کرنے کی جگہ پختہ ہوتی ہے لہذا وہاں پیشاب اس طرح کریں کہ پیشاب کے چھینٹے نہ پڑیں۔

(۷) پیشاب اور پاخانے کی طہارت کیلئے لوٹے کا استعمال سنت ہے لوٹا ایک ایسا برتن ہے جس سے طہارت کرنے میں آسانی اور پاکیزگی رہتی ہے اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے کہ لوٹے سے استنجاء کریں۔ لوٹے کو سفر میں اپنے ساتھ لے جانا بھی سنت ہے اور بیشتر صوفیاء کا معمول رہا ہے کہ وہ اپنے ساتھ لوٹا ضرور رکھتے تھے۔ لوٹا استعمال کرتے ہوئے لوٹے کی پاکیزگی کا بھی خیال رکھیں۔ اسے اس طرح استعمال کریں کہ اس پر پیشاب کے چھینٹے نہ لگیں۔

(۸) استنجاء کرتے وقت اپنے پوشیدہ مقام کو بائیں ہاتھ سے دھوئیں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود کھانا کھانے اور کوئی پاک کام کرنے کیلئے دایاں ہاتھ استعمال فرماتے البتہ طہارت اور گھٹیا کام کیلئے بائیں ہاتھ استعمال فرماتے۔ اگر کوئی معذوری یا مجبوری ہو تو پھر دایاں بھی استعمال کر سکتے ہیں مگر عذر ختم ہونے کے ساتھ ہی اس کا جواز ختم ہو جائے گا۔ حضرت عائشہؓ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا اور پاک کاموں کو داہنے ہاتھ سے کرتے البتہ طہارت اور گھٹیا کام بائیں ہاتھ سے کرتے تھے۔ (ابوداؤد)

(۹) پیشاب یا پاخانہ کرتے ہوئے بات کرنا، کلمہ، کلام پڑھنا، انگٹھی یا کوئی متبرک چیز اپنے ساتھ رکھنا منع ہے۔ حضرت انسؓ روایت کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء تشریف لے جاتے تو اپنی انگٹھی اتار لیا کرتے تھے۔ (ابوداؤد)

اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے وقت انگٹھی اتار دیا کرتے تھے کیونکہ اس پر محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کندہ تھا اس سے ثابت ہوا کہ بیت الخلاء میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اللہ کا نام لکھا ہو یا قرآن لے کر داخل نہیں ہونا چاہیے۔

(۱۰) حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں پاخانہ کرنے سے منع کیا ہے کیونکہ اس سے دوسرے لوگوں کو تکلیف ہوگی اور کپڑے بھی ناپاک ہوں گے۔ نہر ندی دریا، گھاٹ اور پارک

کے کنارے پر بھی پاخانہ نہ کریں۔ مسجد میں یا مسجد کی چھت پر پاخانہ کرنا حرام ہے بلکہ ایسا کرنے والا بہت ہی گنہگار ہوگا۔ ایسے ہی قبرستان میں پاخانہ کرنا حرام ہے۔ حضرت ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنت و نفرت کی دو باتوں سے بچو۔ لوگوں نے سوال کیا یا رسول اللہ! وہ باتیں کون سی ہیں؟ آپ نے فرمایا راستہ اور سایہ دار درخت کے نیچے پیشاب اور پاخانہ کرنا۔ (مسلم)

(۱۱) اللہ سے پناہ حاصل کرنا سنت ہے۔ بیت الخلاء میں شیطان بڑے عجیب قسم کے وسوسے ڈالتا ہے اور طرح طرح کے گندے خیالات پیدا کرتا ہے لہذا ان سے بچنے کے لیے بیت الخلاء میں داخل ہو کر اللہ کی پناہ میں آنے کیلئے یہ دعا پڑھنا ضروری ہے اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تاکید فرمائی ہے کہ بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھیں۔ حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی یہی دعا پڑھا کرتے تھے۔ (مسلم)

”اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبَيْثِ وَالْخَبَائِثِ“

(اے اللہ! میں خبیث جنیوں اور جنات سے تیری پناہ مانگتا ہوں)

۸۔ آداب ملاقات

آپس کی ملاقات انسانی زندگی کا ایک لازمی جزو ہے کیونکہ ہر شخص کو روزانہ اپنوں اور بیگانوں سے ملاقات کا واسطہ پڑتا ہے اگر ملاقات کے وقت اسلامی طرز عمل اختیار کیا جائے تو ملاقات ہی قابل ثواب عمل بن جائے گا اور نیکیوں میں اضافے کا سبب بنے گا اس لیے ملاقات کے اسلامی آداب کو اپنا چاہیے۔ ملاقات کے اسلامی آداب مندرجہ ذیل ہیں:

(۱) ملاقات کے وقت سب سے پہلے سلام کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ سلام کرنے میں پہل کریں کیونکہ اس کا ثواب زیادہ ہے البتہ سلام کے لیے ادھر ادھر کے الفاظ استعمال نہ کیجئے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے الفاظ ”السلام علیکم“ استعمال کیجئے۔ پھر موقع ہو تو مصافحہ کیجئے مزاج پوچھئے اور مناسب ہو تو گھر والوں کی خیریت بھی معلوم کیجئے۔ سلام کرنے کے الفاظ ”السلام علیکم“ بہت جامع ہیں۔ اس میں دین و دنیا کی تمام سلامتیاں اور ہر طرح کی خیر و عافیت شامل ہے یہ بھی خیال رکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصافحہ کرتے وقت اپنا ہاتھ فوراً چھڑانے کی کوشش نہ کرتے۔ انتظار فرماتے کہ دوسرا شخص خود ہی ہاتھ چھوڑ دے۔

(۲) ملاقات کے وقت محبت کا اظہار کرنا چاہیے اس لیے چہرے پر مسکراہٹ ہونی چاہیے کیونکہ چہرے کی مسکراہٹ دلی محبت کی دلیل ہے اور محبت سے تعلقات میں استحکام پیدا ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے اور نہ جنت میں داخل ہو گے جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرو گے۔ اور کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں کہ جب تم اس کو عمل میں لاؤ تو تم آپس میں محبت کرنے لگو۔ لہذا تم آپس میں سلام کو فروغ دو۔ (مسلم شریف)

(۳) ملاقات دو طرح کی ہے ایک اتفاقی اور دوسری خصوصی۔ اس لیے جب خاص طور پر کسی سے ملاقات کیلئے جائیں تو صاف ستھرا لباس پہن کر جائیں کیونکہ صفائی اسلامی تہذیب و تمدن کا لازمی حصہ ہے اس لیے لباس کو ہر ممکن صاف رکھنا چاہیے۔

(۴) ملاقات کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ جب کسی سے ملاقات کا ارادہ ہو تو پہلے اس سے وقت لے لیجئے۔ یونہی وقت بے وقت کسی کے یہاں جانا مناسب نہیں اس سے دوسروں کا وقت بھی خراب ہوتا ہے اور ملاقات کرنے والا بھی بعض اوقات نظروں سے گر جاتا ہے۔

(۵) ملاقات یا کسی اور کام کیلئے کسی کے گھر میں جانے کیلئے صاحب خانہ سے اجازت لینا بھی ضروری ہے اور اس کا اصلی مقصد یہ ہے کہ انسان بعض اوقات ایسی حالت میں ہوتا ہے کہ وہ اس حالت میں دوسروں سے ملنا پسند نہیں کرتا۔

(۶) خود اپنے گھر کے اندر بھی سلام کر کے اندر جانا چاہیے اس سے برکت کے علاوہ یہ فائدہ ہوگا کہ اگر گھر میں عورتیں بے تکلفی کی حالت میں ہوں گی یا اور کوئی ایسی ہی بات ہوگی تو گھر والے ہوشیار ہو جائیں۔

(۷) ملاقات کے وقت آتے یا جاتے ایسے فقرات نہ کہیں جن میں کوئی طعن چھپا ہو یا کسی کی تحقیر نکلتی ہو۔ بلکہ اچھے الفاظ استعمال کریں۔ طعن و تشنیع سے نفرت پیدا ہوتی ہے۔

(۸) کسی کے پاس جائے تو کام کی باتیں کیجئے۔ بے کار باتیں کر کے اس کا اور اپنا وقت ضائع نہ کیجئے ورنہ آپ کا لوگوں کے یہاں جانا اور بیٹھنا ان کو کھلنے لگے گا۔

(۹) جب کوئی ضرورت مند آپ سے ملنے آئے تو جہاں تک ممکن میں ہو اس کی ضرورت پوری کیجئے۔ سفارش کی درخواست کرے تو سفارش کر دیجئے اگر اس کی ضرورت پوری نہ کر سکیں تو

پیار بھرے انداز میں منع کر دیجئے خواہ مخواہ اس کو امیدوار نہ بنائے رکھیے۔

(۱۰) آپ کسی کے یہاں اپنی ضرورت سے جائیں تو مہذب انداز میں اپنی ضروریات بیان کر دیجئے پوری ہو جائے تو شکر یہ ادا کیجئے۔ نہ ہو سکے تو سلام کر کے خوش خوش لوٹ آئیں۔

(۱۱) آنے والا اگر محبوب و محترم اور دینی عظمت و شخصیت والا ہو تو اسے آتے دیکھ کر جوش محبت اور جوش عقیدت میں کھڑا ہو جانا بھی کمال ادب ہے۔ اس قسم کے موقعوں پر خوش آمدید کے الفاظ مثلاً مرحبا کہنے کی مثال بھی شریعت میں موجود ہے پھر اس سے انس بھی بڑھتا ہے۔

۹۔ آداب گفتگو

بولنے کا انداز انسانی شخصیت کا آئینہ ہے جتنی گفتگو اچھی ہوتی ہے اچھا انسان تصور کیا جاتا ہے۔ اسلام نے ہمیں گفتگو کرنے کے چند آداب سکھائے ہیں جن سے انسانی سیرت اور کردار میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔ آداب گفتگو مندرجہ ذیل ہیں:

(۱) گفتگو کا پہلا ادب یہ ہے کہ جو بات کی جائے وہ سچی ہو۔ کیونکہ اسلام کا سب سے بنیادی اور پہلا درس یہی ہے کہ زبان سے جو کچھ بولا جائے سچ بولا جائے۔ سچی بات ہمیشہ معقول اور بامعنی ہوتی ہے۔ حضور بذات خود ہمیشہ سچی بات ہی کہا کرتے تھے اور اسی بات کی تاکید اپنی امت کو بھی فرمائی ہے کہ وہ ہمیشہ سچائی کو اپنائیں۔

(۲) گفتگو کا دوسرا ادب یہ ہے کہ گفتگو کرتے ہوئے نرم لہجہ اختیار کریں کیونکہ نرم بات میں ہمدردی کے جذبات ہوتے ہیں جس سے گفتگو موثر ہو جاتی ہے۔ بات سننے والا نرم گفتگو کرنے والے کو پسند کرتا ہے اور جو کچھ کہہ رہا ہے اسے غور سے سنتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود انتہائی نرم دل اور ملائم طبیعت تھے اور آپ ہمیشہ نرم لہجے میں گفتگو فرماتے اور یہی ترغیب آپ نے ملت اسلامیہ کو دی کہ جب بھی بات چیت کریں تو نرم لہجہ اختیار کریں۔ چلا چلا کر زور زور سے باتیں کرنا خلاف سنت ہے۔ چھوٹوں کے ساتھ جب بات چیت کریں تو مشفقانہ انداز اختیار کریں اور جب بڑوں کے ساتھ گفتگو کریں تو مودبانہ لہجہ رکھیں۔ انشاء اللہ دونوں کے نزدیک معزز رہیں گے۔

(۳) بات عام فہم کرنی چاہیے تاکہ ہر کوئی سمجھ جائے۔ بعض لوگ عام محفلوں میں یادوستوں کی مجلس میں اپنی قابلیت اور ذاتی برتری کے اظہار کیلئے ایسے الفاظ میں بات کرتے ہیں جو عام حضرات کی سمجھ سے بالاتر ہوں تاکہ ان کی شخصیت نمایاں ہو۔ اسلام نے ایسے تکلفات میں پڑنے کی بجائے سادگی اختیار کرنے پر زور دیا ہے اس لیے اچھا انسان وہی ہے جو عام فہم بات کرے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی ترغیب دی ہے۔

(۴) بات چیت کرتے ہوئے اس بات کا خاص طور پر خیال رکھیں کہ کسی کو دکھ پہنچانے والی بات نہ کہیں کیونکہ کسی کا دل دکھانے سے اللہ ناراض ہوتا ہے اس لیے دکھ دینے والی باتوں سے بچنا چاہیے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ بات چیت کرتے ہوئے لعن طعن کرتے ہیں جسے سننے والا اپنی بے عزتی خیال کرتا ہے اور اس طرح اسکی دل آزاری ہوتی ہے۔ اس لیے اخلاقی نقطہ نظر سے لعن طعن کرنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ حضرت ابن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن طعنہ دینے والا لعنت کرنے والا فحش گو اور بے غیرت نہیں ہوتا۔ (ترمذی شریف)

(۵) عورتوں کو اگر کبھی مردوں سے بولنے کا اتفاق ہو تو صاف سیدھے اور کھرے لہجے میں بات کرنی چاہیے۔ لہجے میں کوئی نزاکت اور گھلاوٹ نہ پیدا کریں کہ سننے والا کوئی برا خیال دل میں لائے۔

(۶) اپنی گفتگو جھوٹ سے پاکیزہ رکھنا چاہیے نہ ہی ریا اور نفاق والی بات کرنی چاہیے کیونکہ نفاق عموماً نفرت کا باعث بنتا ہے لہذا ایسی گفتگو کا کیا فائدہ جو آپس میں جوڑنے کی بجائے جدا کرنے کا سبب پیدا کرے۔ بہتان اور افتراء والی گفتگو سے بھی بچیں۔ ایسے ہی اگر کسی مقام پر نامناسب گفتگو ہو رہی ہو تو اس سے بھی اجتناب کریں۔

(۷) گفتگو کا ایک ادب یہ ہے کہ ہمیشہ بات اچھی طرح کریں کیونکہ اچھی بات چپ رہنے سے افضل ہے اور چپ رہنا بے مقصد بات کرنے سے افضل ہے اس لیے اگر کوئی بُری باتیں کرتا ہو تو اسے اچھی باتوں کی ترغیب دینی چاہیے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اچھی بات کہنے کا درس دیا ہے۔ چنانچہ اساتذہ اور والدین کو چاہیے کہ بچوں کو اچھی بات کرنے کی ترغیب دیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اچھی

بات صدقہ ہے۔ (بخاری شریف)

(۸) فضول باتیں انتہائی نقصان دہ ہوتی ہیں کیونکہ ان سے گناہوں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ مگر انسان کو یہی گمان ہوتا ہے کہ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا مگر فضول باتوں کی بنا پر اس کا اعمال نامہ گناہوں سے بھر جاتا ہے۔ فضول بات وہ ہے جس سے دنیا اور آخرت کا کوئی فائدہ نہ ہو بلکہ دنیا اور آخرت کا نقصان ہو۔ فضول اور بیہودہ باتوں سے بچنے کیلئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بیشک اہل ایمان کیلئے فلاں ہے جو نماز میں عجز و نیاز کرتے ہیں اور جو بیہودہ باتوں سے منہ موڑ لیتے ہیں۔

(۹) اسلام میں لطیفہ بازی کی باتیں کرنا منع ہیں۔ کیونکہ ان میں مبالغہ اور جھوٹ شامل ہوتا ہے۔ بیہقی کی ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو بندہ محض اس لیے بات کرتا ہے کہ لوگوں کو ہنسائے تو اس بنا پر دوزخ کی اتنی گہرائی میں گرتا ہے جو آسمان و زمین کے درمیان فاصلے سے زیادہ ہے اور زبان کی وجہ سے جتنی لغزش ہوتی ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے جتنی قدم سے لغزش ہوتی ہے اس سے معلوم ہوا کہ لطیفے بازی مفت کے گناہ ہیں جو انسان اپنے ذمے خواہ مخواہ لے لیتا ہے جن کا کوئی فائدہ نہیں اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لطیفے بازی سے منع فرمایا ہے۔ حضرت ابو ثعلبہ شنیؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے قیامت میں میرا سب سے پیارا اور مجھ سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس کا اخلاق اچھا ہو۔ نیز میرا ناپسندیدہ اور مجھ سے بہت دور وہ ہوگا جس کا اخلاق بُرا ہو یعنی بہت بولنے والے منہ پھٹ اور گپیں ہانکنے والے۔ (بیہقی)

(۱۰) اپنی زبان کو گندی اور فحش باتوں سے بچانا سنت ہے لہذا زبان کی حفاظت ہر ایک کیلئے ضروری ہے۔ اس کی حفاظت سے اچھے اثرات نکلتے ہیں اگر اس کی حفاظت نہ کی جائے اور اسے غلط باتوں کیلئے استعمال کیا جائے تو اس سے فتنہ و فساد پیدا ہوتا ہے اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حفاظت کی بہت تاکید فرمائی ہے۔ حضرت سہل بن سعدؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”جو مجھے اس کی ضمانت دے جو دونوں جبروں کے درمیان ہے اور اس کی ضمانت دے جو دونوں ٹانگوں کے درمیان ہے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔“ (بخاری شریف)

(۱۱) بات چیت ضرورت کے مطابق کرنی چاہئے کیونکہ ضرورت کے بغیر ہر جگہ باتیں کرتے

رہنے سے ایک تو دماغی قوت کم ہوتی ہے اور دوسرے انسانی وقار مجروح ہوتا ہے اس لیے جن حضرات کو بلا ضرورت باتیں کرنے کی عادت ہو انہیں چاہیے کہ اس عادت کو ترک کر دیں کیونکہ باتوں کی شخص کو اسلامی معاشرے میں حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے لہذا جب بھی گفتگو کریں تو کسی کام کی گفتگو کریں۔ ایک عالم دین کا قول ہے کہ بات ہمیشہ سلیقے اور وقار سے کریں۔ جلدی اور تیزی سے نہ کریں۔ اس سے آدمی کی وقعت جاتی رہتی ہے لہذا جس سے بھی بات کریں۔ اس کی عمر مرتبے اور اس سے اپنے تعلق کا لحاظ رکھتے ہوئے بات کیجئے۔ ماں باپ، استاد اور دوسرے بڑوں سے دوستوں کی طرح گفتگو نہ کیجئے۔ اسی طرح چھوٹوں سے گفتگو کریں تو اپنے مرتبے کا لحاظ رکھتے ہوئے شفقت اور بڑے پن کی گفتگو کیجئے۔

۱۰۔ آداب سفر

سفر انسانی زندگی کا ایک لازمی جزو ہے۔ ہر شخص کو آئے دن سفر سے واسطہ ضرور پڑتا ہے سفر عموماً حصول علم، حصول رزق، فریضہ حج کی ادائیگی، سیروسیاحت اور جہاد تبلیغ اور تلاش حق کی خاطر کیا جاتا ہے۔ سفر خواہ کسی مقصد کیلئے ہو اس میں نیت کا نیک ہونا اور اسلامی آداب کو مد نظر رکھنا ضروری۔ سفر کے چند آداب مندرجہ ذیل ہیں:

(۱) تنہا سفر کرنا بہتر نہیں اگر کسی خطرناک راستے سے سفر کر رہے ہوں تو پھر تو بالکل اکیلے سفر نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اکیلے چلنے میں بہت سے خطرات ہوتے ہیں۔ مل کر دوسروں کے ساتھ سفر کرنے میں بہت سی باتوں کی سہولت اور آسانی رہتی ہے۔ سامان وغیرہ کی حفاظت میں ایک دوسرے کی مدد شامل حال رہتی ہے اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے سفر کرنے سے بچنے کی تاکید فرمائی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”تنہا سفر کرنے کے نقصان کا جیسے مجھے علم ہے اگر لوگوں کو بھی معلوم ہوتا تو کوئی شخص رات کو اکیلا سفر نہ کرتا۔“ (بخاری)

(۲) سفر شروع کرنے کا بہتر وقت صبح سویرے کا ہے کیونکہ صبح چلنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کیونکہ صبح چلنے سے مسافر کو خاصا فائدہ ہوتا ہے اگر مسافر پیدل سفر کر رہا ہے یا کسی سواری

پر سفر کر رہا ہے تو دھوپ تیز ہونے تک اس کا سفر کافی ختم ہو چکا ہوگا۔ دوپہر کو کسی مقام پر پہنچ کر آرام بھی کر سکتا ہے۔ ریل بس یا جہاز کا سفر ہو تو بھی سویرے چلنے سے انسان جلدی کسی مقام یا منزل پر پہنچ جائے گا جو اس کیلئے آسانی کا باعث ہوگا۔

(۳) اگر تین آدمی مل کر سفر کریں تو انہیں چاہیے کہ اپنے میں سے ایک آدمی کو امیر بنالیں۔ اس کی سہولت یہ ہوگی کہ سفر جب امیر کی رائے سے کیا جائے گا تو اختلاف پیدا نہیں ہوگا ورنہ ایک کی رائے کچھ ہوگی دوسرے کی کچھ۔ اس طرح سفر میں بد مزگی پیدا ہوگی۔ حضرت ابو سعید اور حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تین آدمی سفر پر روانہ ہوں تو وہ ایک کو امیر بنالیں۔ (مشکوٰۃ شریف)

(۴) ایک وقت تھا کہ بار برداری والے جانور یعنی گھوڑا، اونٹ، خچر، بیل وغیرہ ہی سفر کا ذریعہ تھے۔ بس، گاڑی، جہاز وغیرہ کی ایجاد سے قدیم ذریعہ سفر کم ہو چکا ہے مگر پیشتر ایسے علاقے ہوتے ہیں جہاں سفر کیلئے قدیم ذریعہ جانور ہی استعمال ہوتے ہیں۔ جانور پر سفر کرنے کی صورت میں ان کے آرام و آسائش کا خیال رکھنا چاہیے۔ یعنی سفر کی ایک مقدار طے کرنے کے بعد جانوروں کو پانی اور چارہ ڈالا جائے اور ان کی تھکاوٹ ختم کرنے کیلئے کسی مقام پر ٹھہرا دیا جائے۔ رات کو راستے سے تھوڑا ہٹ کر آرام کرنا چاہیے۔

(۵) عورت کیلئے اکیلے سفر کرنا اچھا نہیں بلکہ معاشرتی تقاضوں کے خلاف ہے اس لیے عورت کو ہمیشہ کسی محرم کے ساتھ سفر کرنا چاہیے۔ البتہ اگر سفر اندرون شہر ہو یا ایک آدھ دن کا سفر ہو تو اس صورت میں بصورت مجبوری اکیلے جانے میں کوئی حرج نہیں۔ البتہ طویل سفر پر عورت کو بالکل اکیلے نہیں جانا چاہیے بلکہ سفر میں خاوند بھائی، باپ یا بیٹے وغیرہ کا ہونا ضروری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اور قیامت پر ایمان رکھنے والی کسی عورت کیلئے جائز نہیں کہ وہ محرم کے بغیر ایک دن رات کی مسافت کا سفر اختیار کرے۔ (بخاری شریف)

(۶) سفر کے دوسرے ساتھیوں کی مدد کرنی چاہیے یعنی اگر کسی شخص کے پاس ایک چیز زائد ہو اور دوسرے کو اس کی ضرورت ہو تو اسے دے دینی چاہیے۔ سفر میں ذاتی ضرورت کیلئے پانی کا برتن اور جائے نماز وغیرہ لازماً ساتھ رکھنا چاہیے تاکہ استنجاء و وضو نماز اور پینے کے پانی میں تکلیف نہ ہو۔ سرزدیوں کے موسم میں اگر ضرورت کے مطابق ہلکا سا بستر بھی ساتھ رکھ لیا جائے تو اس میں

کوئی حرج نہیں۔

(۷) سفر کی ضرورت اور مقصد پورا ہونے پر گھر کو جلدی واپس آنا مستحب ہے کیونکہ بلا ضرورت آوارہ گردی سے کیا حاصل؟ کیونکہ سفر میں بہر حال تکلیف اور بے اطمینانی ہوتی ہے اس لیے اس سے جلد چھٹکارا حاصل کرنا ہی صحت کیلئے بہتر ہے اور واپسی پر گھر والوں کیلئے کچھ نہ کچھ لے کر آنا چاہیے۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب کوئی سفر سے آئے تو گھر والوں کیلئے کچھ نہ کچھ چیز ضرور لائے اگر کچھ نہ کر سکے تو جھولی میں پتھر ہی ڈال لے۔

(۸) سفر کے دوران جب رات چھا جائے تو یہ دعا پڑھنا سنت ہے۔ کیونکہ حضرت عبداللہ ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں تشریف لے جاتے اور رات چھا جاتی تو یہ پڑھتے۔

يَا اَرْضُ رِقِّي وَرَبِّكَ اللهُ - اَعُوذُ
بِاللهِ مِنْ شَرِّكَ وَشَرِّ مَا فِيكَ
وَشَرِّ مَا خَلِقَ فِيكَ وَشَرِّ مَا
يَدْبُ عَلَيْكَ - وَاَعُوذُ بِكَ مِنْ
شَرِّ اَسَدٍ وَاَسْوَدٍ وَمِنَ الْحَيَاةِ
وَالْعُقْرِبِ وَمِنْ سَاكِنِ الْبَلَدِ
وَمِنْ ذَا الدِّوَانِ وَمَا وُلْدًا ۝

اے زمین! میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ میں تیری شر سے نیز جو کچھ تجھ میں ہے اور جو کچھ تجھ میں پیدا کیا گیا اور جو چیزیں تجھ پر چلتی ہیں سب کی شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں اور میں تیرے سبب شیر سانپ، بچھو شہر میں رہنے والوں، ابلیس اور اس کی اولاد سے پناہ چاہتا ہوں۔ (ابوداؤد)

(۹) سفر کے دوران جب اونچی جگہ آئے تو اللہ اکبر کہنا چاہیے اور جب کوئی نیچا مقام آئے تو سبحان اللہ کہنا چاہیے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حج یا عمرہ سے لوٹتے وقت بلند جگہ پر چڑھتے تو تین بار اللہ اکبر کہتے اور اس کے بعد یہ دعا پڑھتے۔

لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ
لَهُ - لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ
وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
اَيُّوْنَ تَايِبُوْنَ عَابِدُوْنَ
سَاجِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ -

اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں اسی کی بادشاہی ہے اور وہی لائق ستائش اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہم لوٹنے والے ہیں تو بہ کرنے والے عبادت کرنے والے سجدہ کرنے والے اور اپنے رب کی تعریف کرنے والے ہیں۔ (بخاری شریف)

(۱۰) سفر سے واپسی کی اطلاع دینا بہتر ہے اور کوشش کریں کہ سفر سے واپسی پر ایسے وقت پر نہ آئیں جس سے گھر والوں کو تکلیف ہو۔ خاص طور پر رات کو دیر سے سفر سے واپس آنا اہل خانہ کیلئے بہت ہی تکلیف دہ ہوتا ہے اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو سفر سے واپس آنے سے منع فرمایا ہے۔ اگر مجبوری ہو جائے۔ سواری سے دیر ہو جائے تو اس صورت میں بہر حال آنا ہی ہے۔

حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی زیادہ دیر گھر سے باہر رہے تو رات کے وقت گھر واپس نہ لوٹے۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کوئی شخص (سفر سے) رات کے وقت گھر واپس آئے۔ (مسلم شریف)

(۱۱) سفر سے واپس وطن پہنچنے پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جس کی توفیق اور مدد سے مسافر اپنے اہل خانہ میں دوبارہ واپس آئے۔ شکر کی عملی صورت سجدہ ریزی ہے اس لیے سفر سے واپس آنے پر قریبی مسجد میں جانا چاہیے اور وہی دو رکعت نفل شکرانہ ادا کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بذاب خود بھی ایسا ہی کرتے تھے کہ جب سفر سے واپس آتے تو مسجد میں دو رکعت نفل ادا کرتے۔

۱۱۔ آداب مسرت

اسلام میں ہر چیز کی حد مقرر کی گئی ہے تاکہ بے اعتدالی پیدا نہ ہو۔ خوشی کم و بیش ہر انسان کو زندگی میں کبھی نہ کبھی حاصل ہوتی ہے مگر اس خوشی کے اظہار کی ایک حد ہے تاکہ دوسروں کو اس سے تکلیف نہ پہنچے۔ روزمرہ زندگی میں عموماً دیکھنے میں آتا ہے کہ بعض چیزوں کے حاصل ہونے پر انسان کو خواہ مخواہ خوشی حاصل ہوتی ہے۔ مثلاً مال و دولت، علم و فضل، ملازمت، عہدہ، کسی امتحان میں کامیابی وغیرہ۔ ایسے ہی چند تہوار ایسے ہیں کہ جن پر انسان خوشی محسوس کرتا ہے مثلاً شادی، عید اور دیگر اسلامی تہوار وغیرہ۔ اسی طرح طویل سفر کے بعد اپنے وطن واپس آنے اور عزیز واقارب کو ملنے پر مسرت حاصل ہوتی ہے۔ غرضیکہ ہر انسان کی زندگی میں سینکڑوں مواقع ایسے آتے ہیں کہ جن پر از خود مسرت کا اظہار ہوتا ہے لیکن بعض حضرات اس مسرت میں حد سے بڑھ جاتے ہیں جو دوسروں کیلئے باعث تکلیف اور دل آزادی کا سبب بنتا ہے اور جسے مسرت حاصل

ہوتی ہے وہ غرور و تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ انا ئے نفس بڑھ جاتی ہے۔ ان تمام باتوں کو اعتدال میں رکھنے کیلئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسرت کے آداب مقرر فرمائے ہیں جن کے مطابق خوشی کا اظہار عین نیکی اور ثواب ہے۔ شریعت کے مطابق آداب مسرت مندرجہ ذیل ہیں:

(۱) اظہار مسرت کا سنت طریقہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے کیونکہ خوشی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم ہی سے حاصل ہوتی ہے اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ جب کوئی خوشی کا مقام آئے تو سب سے پہلے دل میں اللہ کا شکر ادا کرے اور اس کے ساتھ اپنے عمل سے بھی اللہ کا شکر ادا کرے اور خوشی میں عمل کا شکر یہ ہے کہ اظہار مسرت کیلئے اتباع شریعت کی جائے۔ اگر کوئی بڑی خوشی حاصل ہو تو سجدہ شکر بجالانا چاہیے تاکہ مسرت کی انتہا میں دنیوی فخر و غرور کی بجائے نیاز مندی کا اظہار ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ کار تھا کہ جب کوئی خوشی کا موقع آتا تو آپ سجدہ شکر بجالاتے۔

(۲) شرعی حدود میں رہتے ہوئے اسلامی تہواروں پر اظہار مسرت جائز ہے۔ عید الفطر اور عید الفصحی دو بڑے اہم اسلامی تہوار ہیں۔ انہیں عیدین کہا جاتا ہے یہ دونوں دن مسلمانوں کیلئے خوشی کے ہیں۔ یہ دن ہر سال لوٹ لوٹ کر آتے ہیں اس لیے انہیں عید کہا جاتا ہے ان تہواروں کے موقع پر اہتمام کے ساتھ خوب کھل کر خوشی منائیے اور طبیعت کو ذرا آزاد چھوڑ دیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے تشریف لائے تو فرمایا ”تم سال میں دو دن خوشیاں منایا کرتے تھے اب خدا نے تم کو ان سے بہتر دو دن عطا فرمائے یعنی عید الفطر اور عید الفصحی۔ لہذا سال کے ان دو اسلامی تہواروں میں خوشی اور مسرت کا پورا پورا مظاہرہ کیجئے اور مل جل کر ذرا کھلی طبیعت سے کچھ تفریحی مشاغل فطری انداز میں اختیار کیجئے مگر شریعت کی حدود سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہؓ کا بیان ہے کہ عید کا دن تھا۔ کچھ لونڈیاں بیٹھی وہ اشعار گارہی تھیں جو جنگ بعاث سے متعلق انصار نے کہے تھے کہ اسی دوران حضرت ابو بکرؓ تشریف لے آئے۔ بولے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں یہ گانا بجانا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکرؓ! رہنے دو۔ ہر قوم کیلئے تہوار کا ایک دن ہوتا ہے اور آج ہماری عید کا دن ہے۔

(۳) خوشی منانے میں اسلامی ذوق و مزاج اور اسلامی ہدایت و آداب کا ضرور لحاظ رکھیے۔ جب آپ کو کوئی خوشی حاصل ہو تو خوشی کے ہيجان میں کوئی ایسا عمل یا رویہ اختیار نہ کیجئے جو اسلامی مزاج سے میل نہ کھائے اور اسلامی آداب و ہدایات کے خلاف ہو۔ مسرت کا اظہار ضرور کیجئے

لیکن اعتدال کا بہر حال خیال رکھئے مسرت کے اظہار میں اس قدر آگے نہ بڑھیے کہ فخر و غرور کا اظہار ہونے لگے۔

(۴) اجتماعی طور پر اظہار مسرت کا عام موقعہ شادی ہے اس موقعہ پر اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کو بلانا سنت ہے اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دف بجانے کی بھی اجازت دی ہے اس سے خوشی کے جذبات کی تسکین اور نکاح کا اعلان ہوتا ہے۔ آتش بازی خواہ شب برات میں ہو یا شادی بیاہ میں ہر جگہ ہر حال میں حرام ہے اور اس میں کئی گناہ ہیں۔ یہ اپنے مال کو فضول برباد کرنا ہے۔ قرآن مجید میں فضول مال خرچ کرنے والے کو شیطان کا بھائی فرمایا گیا ہے ان لوگوں سے اللہ اور رسول بیزار ہیں پھر اس میں ہاتھ پاؤں جلنے کا اندیشہ یا مکان میں آگ لگ جانے کا خوف ہے اور بلا وجہ جان یا مال کو ہلاکت کے خطرے میں ڈالنا شریعت میں ممنوع ہے۔

(۵) سفر سے واپس آنے کے بعد انسان کو اپنے وطن گھر اور عزیز واقارب میں بخیریت پہنچنے کی خوشی ہوتی ہے۔ گھر والوں کو بھی مسرت حاصل ہوتی ہے خاص کر جب کوئی طویل سفر یا حج کے سفر سے واپس اپنے اہل و عیال میں آتا ہے تو بے حد خوشی ہوتی ہے۔ ایسے موقع پر خوشی کا اظہار عزیز واقارب کی دعوت کی صورت میں کیا جاسکتا ہے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے مدینہ طیبہ واپس آئے تو اونٹ ذبح کر کے لوگوں کی دعوت کا اہتمام کیا۔ سفر سے واپسی پر اظہار مسرت کا ایک طریقہ استقبال ہے یعنی آنے والے کا استقبال کیا جائے۔ اس طرح آنے والے کی دلجوئی ہوگی اور خوشی محسوس کرے گا۔

(۶) کسی شخص کا کوئی ایسا کام جو بڑا اہم ہو۔ اس کے ہونے پر انسان کو دلی مسرت ہوتی ہے ایسے موقع پر اسے مبارکباد دینی چاہیے۔ مثلاً امتحان میں کامیابی یا عہدے میں ترقی وغیرہ کے موقع پر بھی خوشی کا اظہار کیا جائے۔ حضرت کعب بن مالک کا بیان ہے کہ جب خدا تعالیٰ نے میری توبہ قبول فرمائی اور مجھے خوشخبری ملی تو میں فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا میں نے جا کر سلام کیا۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے جگمگا رہا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی خوشی حاصل ہوتی تو آپ کا چہرہ اس طرح چمکتا کہ جیسے چاند کا کوئی ٹکڑا ہے اور ہم آپ کے چہرے کی رونق اور چمک سے سمجھ جاتے کہ آپ اس وقت انتہائی مسرور ہیں۔

(۷) خوشی و مسرت کے اظہار کا ایک ذریعہ عزیز واقارب اور دوستوں کو تحائف بھیجنا ہے۔

متفرقات

۱۔ ذکر الہی

ذکر سے مراد اللہ تعالیٰ کو ہر دم یاد کرنا ہے۔ ذکر الہی دو طرح سے ہے ایک دل سے اور دوسرا زبان سے دل ہی میں اللہ کو یاد کرنا عین مسلمانی ہے اور ہر عمل میں استقامت کی کنجی بھی ذکر الہی ہے۔ ذکر الہی سب سے اعلیٰ بندگی ہے۔ ذکر دل کی روشنی اور آنکھوں کا نور ہے۔ ذکر حصول رضائے الہی کا ذریعہ ہے۔ ذکر آئینہ مسلمانی ہے۔ ذکر دل کی فرحت اور سرور ہے۔ ذکر عاشقوں کے دل کا سوز ہے۔ ذکر حلاوت ایمان ہے۔ ذکر حب الہی کا خزانہ ہے۔ ذکر اسلام کی روح ہے۔ ذکر مومن کی معراج ہے۔ ذکر اللہ کے قرب کا زینہ ہے۔ ذکر دکھوں کا مداوا ہے۔ ذکر گناہ اور لغزش کا تریاق ہے۔ ذکر مردہ دلوں کی زندگی ہے۔ ذکر قبر کی روشنی ہے۔ ذکر دل کی بیماریوں کا علاج ہے۔ ذکر رہنمائے جنت ہے۔ ذکر اللہ سے دوستی ہے۔ ذکر ذریعہ نجات ہے۔ ذکر متاع بے بہا ہے۔ ذکر شان بندگی ہے۔ ذکر آتش عشق ہے۔ ذکر کوئے یار کی گدائی ہے۔ ذکر نوائے شوق کا بیتاب ترانہ ہے۔ ذکر زندگی کی مہک ہے۔ ذکر قلب و نظر کی آواز ہے۔ ذکر نغمہ بہار ہے۔ ذکر باغ بہشت کا پروانہ ہے۔ ذکر طالبوں کی فریاد ہے۔ ذکر اسرار فقر ہے۔ ذکر شراب معرفت ہے۔ ذکر لذت آہ سحر گاہی ہے۔ ذکر انسانی ضمیر کی آواز ہے۔ ذکر سوز و مستی جذب و شوق ہے۔ گویا کہ ذکر ایسی دولت ہے جسے پا کر انسان بے نیاز ہو جاتا ہے۔ ذکر کے بارے میں خود ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا
كَثِيرًا وَسَبِّحُوا بِحَمْدِهِ صَبًا (احزاب: ۴۱)

اے ایمان والو! تم اللہ تعالیٰ کا خوب کثرت سے
ذکر کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح
کرو۔ (احزاب: ۴۱)

ذکر الہی کی فضیلت کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مندرجہ ذیل ہیں:

۱۔ حدیث: حضرت عبداللہ بن بسر روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا۔ یا رسول اللہ! اسلام کے مجھ پر بہت سے احکام ہیں آپ مجھے ایسی بات بتادیں جس پر میں تکیہ کروں۔ تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری زبان اللہ تعالیٰ

کی یاد میں ہمیشہ تر رہے۔ (ترمذی)

۲۔ حدیث: حضرت ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی گفتگو ذرا الہی سے خالی نہ رکھو کیونکہ تمہاری زیادہ گفتگو کا ذرا الہی سے خالی ہونا شقاوت قلبی کا سبب ہے اور سخت دلی اندھ سے دوری کا سبب ہوتی ہے۔ (ترمذی)

۳۔ حدیث: حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارا گزر جنت کے باغوں سے ہو تو اس کے میوے چاؤ۔ صحابہ نے عرض کیا جنت کے باغ کون سے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ذکر و شغل کے حلقے۔ (ترمذی)

۴۔ حدیث: حضرت ابوالدرداء روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں تمہارے ان اعمال سے خبردار کروں جو تمہارے بہترین اعمال ہیں اور تمہارے مالک کو پسند ہیں اور درجات کے لحاظ سے بہت بلند ہیں اور زرو مال کے خرچ سے بھی بہتر ہیں اور اس جنگ سے بھی۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہمیں ضرور بتادیں۔ تو آپ نے فرمایا! وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ (ترمذی)

۵۔ حدیث: حضرت ثویان روایت کرتے ہیں کہ جب یہ آیت والذین یکنزون الذهب والفضہ نازل ہوئی تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے اس موقع پر بعض صحابہ نے عرض کیا یہ آیت تو سونے اور چاندی کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اگر ہمیں یہ پتہ چل جاتا کہ کون سا مال بہتر ہے تو ہم اسی کو لیتے۔ اس وقت نبی علیہ السلام نے فرمایا بہترین دولت یاد الہی میں مشغول رہنے والی زبان اور شکر کرنے والا دل ہے اور مسلمان کی بیوی اس کے ایمان پر مدد کرنے والی ہے۔ (احمد ترمذی ابن ماجہ)

۶۔ حدیث: حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ ایک مجلس میں اکٹھے ہوئے اور اس مجلس میں نہ تو اللہ کا ذکر کیا اور نہ نبی علیہ السلام پر درود پڑھا تو یہ نشست ان کے بغیر خسارہ کا سبب ہوگی اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ان کی مغفرت فرمائے گا اور چاہے گا تو جتلائے عذاب فرمائے گا۔ (ترمذی)

۷۔ حدیث: حضرت عبداللہ بن عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ ہر چیز کیلئے صفائی کی کوئی چیز ہوتی ہے اور دلوں کی صفائی خدا کی یاد ہے اور کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کے عذاب سے مکمل نجات دلا دے اور وہ ذکر الہی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ جہاد بھی اس کے مقابل نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جہاں

بھی۔ حتیٰ کہ لڑتے ہوئے تمہاری تلوار بھی ٹوٹ جائے۔ (بیہقی)

۸۔ حدیث: حضرت ابو موسیٰ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اشخاص کی مثال جو اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہیں زندوں کی سی ہے اور جو ذکر الہی نہیں کرتے وہ مزدوں کی طرح ہیں۔ (بخاری شریف)

۹۔ حدیث: حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان ابن آدم کے دل سے چپکا ہوا ہے لیکن جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ الگ ہو جاتا ہے اور جب ابن آدم غافل ہو جاتا ہے تو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے۔ (بخاری شریف)

۱۰۔ حدیث: حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی قوم ایسی نہیں جو ایک جگہ بیٹھیں اور وہاں اللہ کا ذکر نہ کریں تو ان کی حیثیت مردہ گدھے کی سی ہوتی ہے اور ان پر حسرت کی کیفیت ہوتی ہے۔ (احمد ابو داؤد)

۱۱۔ حدیث: حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سے جو شخص رات کو محنت کرنے سے عاجز ہو اور بخل کی وجہ سے مال بھی نہ خرچ کر سکتا ہو اور بزدلی کی وجہ سے جہاد میں بھی شرکت نہ کر سکتا ہو اس کو چاہیے کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرے۔ (بخاری ترمذی)

۱۲۔ حدیث: حضرت ابی موسیٰ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک شخص کے پاس بہت سے روپے ہوں اور وہ ان کو تقسیم کر رہا ہو اور دوسرا شخص اللہ کے ذکر میں مشغول ہو تو ذکر کرنے والا افضل ہے۔ (طبرانی)

۱۳۔ حدیث: حضرت معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جنت میں جانے کے بعد اہل جنت کو دنیا کی کسی چیز کا بھی قلق و افسوس نہیں ہوگا۔ بجز اس گھڑی کے جو دنیا میں اللہ کے ذکر کے بغیر گزری ہو۔ (بیہقی)

۲۔ دُرُودِ شَرِيف

دُرُودِ شَرِيفِ ايك ايسا پاڪيزه اور نيك عمل ہے جو انسان کو آساني سے عظمت اور رفعت عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی اور پیغمبر کو اپنی کسی نہ کسی خصوصی شان اور عظمت سے نوازا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ عظمت اور عزت عطا ہوئی کہ فرشتوں کو ان کے سامنے جھکا دیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی ذمہ داری سے نوازا اور ان کی جائے سکونت کو

حج کا مرکز بنا دیا۔ پھر ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح کے خطاب سے نوازا۔ حضرت اور لیس علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ میرا سچا نبی تھا جن کا میں نے درجہ بلند کیا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کو اصحاب بصیرت میں شمار کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بے مثل حسن سے نوازا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی باکمال معجزات سے تائید کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلامی کا شرف بخشا۔ گویا کہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک خاص نعمت سے سرفراز کیا مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے اعلیٰ یہ اعزاز دیا کہ ان کے ذکر کو اپنا ذکر قرار دیا اور ان کے نام کو اپنے نام کے ساتھ شامل اور ان پر خود ڈرود پاک پڑھنا اپنا شعار بنا لیا۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ:

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى
النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا
عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

بیشک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اپنے نبی مکرم پر
ڈرود بھیجتے ہیں اے ایمان والو! تم بھی آپ پر ڈرود
بھیجا کرو اور اچھی طرح سلام بھیجو۔

(الاحزاب: ۵۶)

یہ آیت کریمہ مدینہ منورہ میں شعبان ۲ھ میں نازل ہوئی اور اس آیت پاک میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو حکم دیا کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈرود و سلام بھیجو جس طرح کہ میں اور میرے فرشتے ان پر ڈرود و سلام بھیجتے ہیں۔ یعنی حضور پر ڈرود بھیجنے والے تین (۱) اللہ تعالیٰ (۲) فرشتے اور (۳) اہل ایمان ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا ڈرود بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تعریف کرتا ہے آپ کا نام بلند کرتا ہے آپ پر اپنی رحمتوں کی بارش فرماتا ہے اور آپ کے درجات میں اضافہ کرتا ہے۔ فرشتوں کی طرف سے آپ پر صلوٰۃ کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے آپ کے حق میں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ آپ کو اعلیٰ سے اعلیٰ مراتب عطا فرمائے۔ آپ کے دن کو دنیا میں غلبہ عطا فرمائے آپ کی شریعت مطہرہ کو فروغ بخشے یعنی فرشتے ہر لحاظ سے آپ کی تعریف و توصیف بیان کرتے رہتے ہیں۔ اہل ایمان کی طرف سے صلوٰۃ کا مطلب بھی اللہ کی بارگاہ میں حضور کی شان بلند و بالا کرنے کی التجا ہے۔ یعنی اہل ایمان پر یہ واضح کیا گیا کہ جب میں اپنے محبوب پر برکات کا نزول کرتا ہوں اور میرے فرشتے ان کی شان میں تعریف کرتے ہیں اور ان کی بلندی مقام کی دعا کرتے ہیں تو ایمان والو تم بھی میرے محبوب کی تعریف کرو۔

لفظ صلوٰۃ کے تین معنی ہیں پہلا یہ کہ محبت کی بنا پر رحمت کرنا یا مہربان رہنا دوسرا تعریف

Marfat.com

Marfat.com

و توصیف کرنا تیسرا دُعا کرنا لہذا جب یہ لفظ اللہ تعالیٰ کی طرف صلوة کے معنوں میں استعمال کیا جائے گا تو اس سے پہلا اور دوسرا مطلب مراد لیے جائیں گے لیکن جب صلوة کا لفظ فرشتوں اور انسانوں کی طرف سے بولا جائے گا تو اس میں اللہ کے حضور دُعا کرنا لیا جائے گا۔

”سلموا تسلیما“ کا مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں سلام پیش کرنا ہے۔ اگرچہ مندرجہ بالا آیت میں ہمیں صلوة و سلام کا حکم دیا گیا ہے لیکن ہم اعتراف عجز کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں کہ ”اللہم صل“ یعنی اے اللہ! تو ہی اپنے محبوب کی شان اور قدر و منزلت کو صحیح طرح جانتا ہے اس لیے تو ہی ہماری طرف سے اپنے محبوب پر صلوة بھیج جو ان کی شان شایان ہو۔

اس آیت کریمہ سے یہ حکم اخذ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر یا کہہ کر دُرود شریف پڑھنا واجب ہے ایسے نماز کے آخری قعدہ میں دُرود شریف کا پڑھنا واجب ہے اس کے ترک کرنے سے نماز نہ ہوگی۔ اگر کسی مجلس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی بار بار آئے تو ایک مرتبہ دُرود پڑھنے سے فریضہ ادا ہو جائے گا لیکن ہر بار نام لینے یا سننے پر دُرود شریف پڑھنا مستحب ہے جس طرح زبان سے ذکر مبارک وقت صلوة و سلام واجب ہے ایسے ہی قلم سے لکھنے کے وقت بھی صلوة و سلام کا قلم سے لکھنا ضروری ہے۔

دُرود پاک ایک انمول نعمت ہے جس کی فضیلت بے پناہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ حسب ذیل ہیں جن میں دُرود پاک کے ان گنت فضائل بیان کیے گئے ہیں:

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ دُرود بھیجے گا اللہ اس پر دس مرتبہ رحمت نازل فرمائے گا۔ (مسلم)

حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ جو شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار دُرود پاک پڑھے اس پر اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے ستر رحمتیں نازل فرمائے گا۔ (احمد)

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے مجھ پر ایک بار دُرود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں بھیجتا ہے اور اس کے دس گناہ معاف کر دیتا ہے اور اس کے دس درجات بلند کر دیتا ہے۔ (نسائی شریف)

حضرت ابن مسعودؓ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے روز وہ شخص میرے سب سے قریب ہوگا جس نے مجھ پر اکثر دُرود پاک پڑھا ہوگا۔ (ترمذی)

حضرت روایفؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ

پر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دُرود پڑھ کر یہ کہا کہ خداوند! انہیں قیامت میں اپنا قرب خاص عطا فرما۔ اس دُرود پڑھنے والے کے لیے میری شفاعت واجب ہوگئی۔ (احمد)

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے کہ میں نے ایک مرتبہ نماز پڑھی حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ اور سیدنا عمر فاروقؓ بھی تشریف فرما تھے جب میں نماز پڑھنے کے بعد بیٹھا تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر دُرود بھیجا۔ پھر اپنے لیے دعا کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کر فرمایا جو مانگو گے دیا جائے گا۔ مانگ دیا جائے گا۔ (ترمذی)

حضرت فضالہ بن عبیدہؓ سے روایت ہے کہ ایک دن جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو ایک شخص آیا اور اس نے نماز پڑھی پھر اس نے دعا مانگنا شروع کی یا اللہ! مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے نمازی! تو نے جلدی کی ہے۔ لہذا جب تو نماز پڑھے تو اس کے بعد پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کیا کر۔ پھر مجھ پر دُرود پاک پڑھا کر پھر دعا مانگا کر پھر ایک نمازی آیا اس نے نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور پھر حضور پر دُرود پاک پڑھا تو اس پر آپ نے فرمایا کہ اے نمازی! تو جو دعا مانگے گا وہ قبول ہوگی۔ (مشکوٰۃ شریف)

حضرت ابی بن کعبؓ نے فرمایا کہ میں دربار نبوت میں حاضر تھا اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ! میں آپ پر کثرت سے دُرود پڑھنا چاہتا ہوں تو میں کتنا دُرود پڑھوں آپ نے فرمایا جتنا چاہے پڑھ لیا کر۔ میں نے عرض کی کہ اپنی فرصت کا چوتھا حصہ پڑھ لیا کروں تو فرمایا کہ جتنا چاہے پڑھ لیا کر اور اس سے بھی زیادہ پڑھے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کی کہ اگر زیادہ میں بہتری ہے تو میں وظائف کا نصف وقت دُرود پاک میں لگا دیا کروں۔ فرمایا تیری مرضی اور اگر تو اس سے بھی زیادہ کرے تو تیرے لیے بہتر ہے عرض کی سرکار وظائف کے وقت میں سے دو تہائی میں دُرود پاک پڑھ لیا کروں؟ فرمایا تیری مرضی اور اس سے بھی اگر تو زیادہ پڑھے تو تیرے لیے بہتر ہے تو عرض کی حضور پھر میں سارے وقت میں دُرود پاک ہی پڑھ لیا کروں گا تو سرکار نے فرمایا کہ اگر تو ایسا کرے تو تیرے سارے کام سنور جائیں گے اور تمہارے سب گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ (ترمذی شریف)

حضرت عمرؓ روایت کرتے ہیں کہ دعا آسمان و زمین کے درمیان معلق رہتی ہے اس میں سے کچھ بھی اوپر نہیں جاتا۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ دُرود

پیش نہ کیا جائے۔ (ترمذی)

حضرت علیؓ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا تذکرہ کیا جائے اور مجھ پر درود شریف نہ پڑھے۔ (ترمذی)

۱۔ **مسئلہ:** عمر میں ایک بار درود شریف پڑھنا فرض ہے اور ہر جلسہ ذکر میں ڈرود شریف پڑھنا واجب خواہ خود نام اقدس لے یا دوسرے سے سنے اور اگر مجلس میں سو بار ذکر آئے تو ہر بار ڈرود شریف پڑھنا چاہیے۔

۲۔ **مسئلہ:** جہاں تک بھی ممکن ہو ڈرود شریف پڑھنا مستحب ہے اور خصوصیت کے ساتھ ان جگہوں میں روز جمعہ، شب جمعہ، صبح و شام، جواب اذان کے بعد دعا کے اول و آخر میں اجتماع و فراق کے وقت وضو کرتے وقت جب کوئی چیز بھول جائے اس وقت۔

۳۔ **مسئلہ:** درود پاک پورے ذوق و شوق اور لگن سے پڑھنا چاہیے۔ دل و دماغ کو پوری طرح حاضر رکھنا ضروری ہے اور دل سے ہر طرح کے خیالات نکال کر اپنی پوری توجہ درود شریف پر رکھنی چاہیے اور اپنے ذہن میں یوں خیال کریں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضری ہے اس لیے ان کی عظمت اور رفعت کا نقشہ اپنی آنکھوں کے سامنے قائم رکھیں۔

۴۔ **مسئلہ:** ڈرود پاک پڑھتے وقت اپنے چہرے کا رخ اس طرف کرنا چاہیے جس طرف نبی اکرمؐ کا روضہ اقدس ہے پھر آنکھیں بند کر کے مراقبہ کی صورت میں ڈرود شریف پڑھنا شرع کرے اور کوشش کرے کہ جتنا عرصہ ڈرود پاک پڑھا جائے مراقبہ رہے۔

۵۔ **مسئلہ:** ڈرود پڑھتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور کرنا چاہیے۔ اگر خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگئی ہے تو وہ صورت دل نشین کر کے اس پر اپنا تصور جمانا چاہئے اگر زیارت نہ ہوئی ہو تو زیارت کا طلبگار رہنا چاہیے۔ جب درود پاک پڑھتے پڑھتے تعداد کی کثرت ہو جائے گی تو پھر ڈرود پڑھنے والے کی روح کا مجلس محمدیؐ میں آنا جانا ہو جائے گا۔ وہ روح کی آنکھ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں گم ہو جائے گا۔ اور جوں جوں ان کی محبت میں زیادہ محو ہوگا اسی نسبت سے اس کی روح پر انوارات الہیہ کا نزول ہوگا اور دن بدن اس پر رحمت خداوندی بڑھتی جائے گی۔ حتیٰ کہ ایک ایسا وقت آجائے گا کہ وہ اپنے گرد نور کا بحر بے کراں محسوس کرے گا۔ اور اس بہر بیکراں میں ڈرود پڑھنے والے کی روح غوطہ زن ہو کر روحانیت سے مالا مال ہو جائے گی۔

۶۔ **مسئلہ:** ڈرود شریف کو حکم الہی کی اجازت تصور کرنا چاہئے اور ڈرود شریف پڑھنے کا

مقصد رضائے الہی رکھنا چاہیے بلکہ یہ نیت پیش نظر رہنی چاہیے کہ دُرود شریف پڑھنا اللہ کا حکم ہے اس لیے اس حکم کی اتباع کر رہا ہوں۔ اگر اس نیت کے علاوہ کوئی اور نیت ذہن میں رکھے گا تو دُرود شریف کا اجر کم ہو جائے گا۔

۷۔ **مسئلہ:** دُرود پاک پڑھنے والے کا جسم اور لباس پاک صاف ہونا چاہیے۔ کیونکہ ہر عبادت کیلئے پاکیزگی اور طہارت ضروری ہے اس لیے دُرود پاک کیلئے بھی پاکیزہ ہونا ضروری ہے۔ لہذا دُرود شریف با وضو پڑھے تو زیادہ بہتر ہے۔ مسواک سے اپنے منہ کو صاف رکھنا چاہیے، خوشبو لگانا بھی بہت بہتر ہے۔ پھر ذہن کو بھی ہر طرح کے خیالات سے پاک کر کے دُرود شریف پڑھنا چاہیے۔

۸۔ **مسئلہ:** دُرود پاک رونوں طرح یعنی بلند آواز یا پست آواز سے پڑھ سکتا ہے۔ اگر اونچی آواز میں پڑھے تو بھی معتدل آواز سے پڑھنا چاہیے۔ دُرود پڑھتے وقت آواز کو دلکش آواز میں نکالنا چاہیے دُرود پست آواز سے پڑھنا زیادہ بہتر ہے کیونکہ اس سے دل جمعی پیدا ہوتی ہے۔

۹۔ **مسئلہ:** دُرود پڑھتے ہوئے شہرت اور ریا کاری سے بچنا چاہیے۔ دنیاوی جاہ و جلال حاصل کرنے کی نیت نہیں رکھنی چاہیے۔ اگر کسی کے مدعو کرنے پر محفل دُرود میں شرکت کرے تو دعوت دینے والے یا کسی اور پر احسان نہیں رکھنا چاہیے بلکہ دُرود شریف کے پڑھنے میں رضائے الہی کا مقصد ہی پیش نظر رکھنا چاہیے۔

۳۔ قرآن مجید کا تقدس

قرآن مجید مسلمانوں کی مذہبی اور الہامی کتاب ہے اس لیے اس کا ادب و احترام کرنا ضروری ہے اگر کوئی مسلمان قرآن کا ادب نہ کرے گا تو وہ گنہگار ہوگا۔ ایسے ہی دینی کتب جن میں قرآن پاک کی آیات اور احادیث ہوں انہیں بھی ادب سے رکھنا چاہیے۔ قرآن مجید اور دینی کتب رکھنے کے چند مسائل مندرجہ ذیل ہیں:

۱۔ **مسئلہ:** قرآن مجید کو ہمیشہ بلند جگہ پر رکھیں اور اس کی طرف پیٹھ کرنے سے گریز کریں جب بھی قرآن پاک تلاوت کیلئے اٹھائے یا تو اسے ہاتھ میں پکڑ کر پڑھیں یا کسی چیز پر رکھ کر پڑھیں۔ زمین پر کبھی نہ رکھیں۔ بعض عبرتی بدو قرآن پاک کو پڑھتے ہوئے زمین پر رکھ لیتے ہیں ایسا کرنا بالکل خلاف ادب ہے۔

۲۔ **مسئلہ:** قرآن پاک پر جزوان یا غلاف چڑھانا آداب قرآن میں سے ہے۔ سبز رنگ کا غلاف چڑھانا زیادہ مناسب ہے اگر کوئی پلاسٹک کو چڑھائے تو وہ بھی درست ہے۔

۳۔ **مسئلہ:** جہاں قرآن مجید چھاپا جائے۔ وہاں بھی قرآن مجید کے احترام کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے کاغذوں کو بڑے ادب سے اٹھانا چاہیے اور جب کاریگرا سے ہاتھ لگائیں تو وضو کر لیں تو زیادہ بہتر ہے۔

۴۔ **مسئلہ:** قرآن پاک کی جہاں جلد بند ہوتی ہے وہاں لوگ احترام نہیں کرتے بلکہ عام کتاب کے اوراق کی طرح اس کی جز بندی کر کے زمین پر رکھ دیتے ہیں اور ساتھ یہ دلیل دیتے ہیں کہ یہ ہماری مجبوری ہے۔ اس کا ادب کرنے میں کوئی مجبوری نہیں۔ قرآن کے اوراق کو زمین پر کسی صورت میں نہ رکھا جائے۔

۵۔ **مسئلہ:** قرآن پاک کے اوراق جب بوسیدہ ہو جائیں تو انہیں چلتے پانی میں بہا دیا جائے اگر چلتا پانی میسر نہ ہو تو کسی پاک جگہ پر یا کسی قبرستان میں گڑھا کھود کر اوراق کو دفن کر دیا جائے۔ دفن کرتے وقت اس پر تختہ لگائیں تاکہ قرآن پاک پر مٹی نہ پڑے۔

۶۔ **مسئلہ:** قرآن پاک کو یا کسی بوسیدہ ورق کو جلانا ادب کے خلاف ہے بلکہ علماء نے ایسا کرنے کو بہت بُرا فعل قرار دیا ہے اور گناہ میں شمار کیا ہے اس لیے قرآن پاک کو جلانے والا سزا کا مستحق ہے۔

۷۔ **مسئلہ:** قرآن مجید بہت چھوٹے سائز کا چھپوانا جیسے کہ لوگ تعویذی قرآن چھپواتے ہیں مکروہ ہے کہ اس سے قرآن مجید کی عظمت عوام کی نظروں میں کم ہوتی ہے۔

۸۔ **مسئلہ:** قرآن مجید پر اگر توہین کے ارادہ سے کسی نے پاؤں رکھ دیا تو کافر ہو جائے گا اور اگر بے اختیار غلطی سے پاؤں پڑ گیا تو قرآن مجید کو ادب سے اٹھا کر بوسہ دے اور توبہ کرے۔

۹۔ **مسئلہ:** کسی نے محض خیر و برکت کیلئے اپنے کان میں قرآن مجید رکھا ہے اور اس میں تلاوت نہیں کرتا تو کچھ گناہ نہیں بلکہ اس کی یہ نیت باعث ثواب ہے۔

۱۰۔ **مسئلہ:** لغت اور صرف و نحو کی کتابوں کو نیچے رکھے اور ان کے اوپر علم کلام کی کتابیں رکھی جائیں۔ ان کے اوپر فقہ کی کتابیں اور حدیث کی کتابیں رکھی جائیں اور ان کے اوپر تفسیر کی کتابوں کو رکھیں اور سب کتابوں سے اوپر قرآن مجید کو رکھیں اور قرآن مجید کے اوپر کوئی چیز نہ رکھیں بلکہ قرآن مجید جس بکس یا الماری میں ہو اس بکس اور الماری کے اوپر بھی کوئی چیز نہ رکھیں۔

۱۱۔ **مسئلہ:** جس گھر میں قرآن مجید ہو اس میں بیوی سے صحبت کرنے کی اجازت ہے جبکہ

قرآن مجید پر پردہ پڑا ہے۔

۴۔ قسم اور کفارہ

اسلام میں قسم کھانا جائز ہے لیکن بلاوجہ بات بات قسمیں کھاتے رہنا اچھا نہیں۔ اسلام نے قسم کھانے کے متعلق چند اصولوں مقرر فرمائے ہیں جن کے متعلق حضور ﷺ کے ارشادات مندرجہ ذیل ہیں :

۱۔ حدیث: حضرت ابن عمرؓ نے فرمایا کہ نبی کریم ﷺ اکثر یوں قسم یاد فرمایا کرتے ”دلوں کو پھیرنے والے کی قسم۔“ (بخاری)

۲۔ حدیث: حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہارے آباؤ اجداد کی قسم کھانے سے منع فرمایا ہے۔ جس نے قسم کھانی ہو تو اللہ کی قسم کھائے یا خاموش رہے۔ (مسلم شریف)

۳۔ حدیث: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی کریمؐ نے فرمایا جس نے قسم کھاتے ہوئے کہ لات وعزی کی قسم تو اسے لا الہ الا اللہ کہہ لینا چاہیے اور جو اپنے ساتھی سے کہے کہ آؤ جو اٹھیلیں تو اسے صدقہ دینا چاہیے۔ (بخاری)

۴۔ حدیث: حضرت عبدالرحمن بن سمرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا نہ بتوں کی قسم کھاؤ اور نہ آباؤ اجداد کی قسم کھاؤ۔ (مسلم)

۵۔ حدیث: حضرت ابو ہریرہؓ نے فرمایا کہ جب حلف اٹھاتے تو رسول اللہ ﷺ کی قسم یہ ہوتی۔ قسم ہے اور میں اللہ سے بخشش چاہتا ہوں۔ (ابوداؤد ابن ماجہ)

۶۔ حدیث: حضرت ابوسعید خدریؓ نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ کو جب قسم میں مبالغہ منظور ہوتا تو فرماتے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں ابوالقاسم کی جان ہے۔ (ابوداؤد)

۷۔ حدیث: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اپنے باپوں کی قسم نہ کھایا کرو اور نہ اپنی ماؤں کی اور نہ بتوں کی اور اللہ کی قسم بھی نہ کھایا کرو مگر جبکہ تم سچے ہو۔ (نسائی)

۸۔ حدیث: حضرت ابن عمرؓ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا ہے جس نے اللہ کے سوا کسی کی قسم کھائی تو یقیناً اس نے شرک کیا۔ (ترمذی)

۹۔ حدیث: حضرت بریدہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس نے امانت کی قسم

کھائی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ (ابوداؤد نسائی)

۱۱۔ حدیث: حضرت بریدہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس نے کہا کہ میں اسلام سے لاتعلق ہوں۔ اگر قسم میں جھوٹا ہے تو کہنے کے مطابق ہو گیا اور اگر قسم میں سچا ہے تب بھی اسلام کی طرف صحیح سالم نہیں لوٹے گا۔ (ابن ماجہ)

حدیث ۱۱:- حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس نے کسی بات پر قسم کھائی اور اس سے بہتر دوسری صورت دیکھی تو اپنی قسم کا کفارہ ادا کرے کے بہتر کو کرے۔ (مسلم)

۱۲۔ حدیث: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم میں سے کسی کا اپنے گھر والوں سے متعلق اپنی قسم پر ازار ہنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے بڑا گناہ ہے کہ اس کا کفارہ ادا کرے جو اللہ تعالیٰ نے اس پر مقرر فرمایا ہے۔ (بخاری)

قسم کی تین قسم ہے۔

(الف) غموس (ب) لغو (ج) منعقدہ

اگر کسی ایسی چیز کے متعلق قسم کھائی جو ہو چکی ہے یا اب ہے یا نہیں ہوئی ہے یا اب نہیں مگر وہ قسم جھوٹی ہے۔ مثلاً قسم کھائی کہ فلاں شخص آیا اور وہ اب تک نہیں آیا ہے یا قسم کھائی کہ نہیں آیا یا قسم کھائی کہ یہ پتھر ہے اور واقع میں وہ پتھر نہیں۔ غرض یہ کہ اس جھوٹی قسم کی دو صورتیں ہیں۔ جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھائی یعنی مثلاً جس کے آنے کی نسبت جھوٹی قسم کھائی تھی وہ خود بھی جانتا ہے کہ نہیں آیا تو ایسی قسم کو غموس کہتے ہیں اور اگر اپنے خیال سے تو اس نے سچی قسم کھائی تھی مگر حقیقت میں وہ جھوٹی ہے مثلاً جانتا تھا کہ نہیں آیا اور قسم کھائی کہ نہیں آیا اور حقیقت میں وہ آ گیا تو ایسی قسم کو لغو کہتے ہیں۔ اور اگر آئندہ کے لیے قسم کھائی مثلاً خدا کی قسم! میں یہ کام کروں گا یا نہ کروں گا تو اس کو منعقدہ کہتے ہیں۔

۱۔ مسئلہ: قسم کھانا جائز ہے مگر جہاں تک ہو سکتی بہتر ہے اور بات بات پر قسم نہیں کھانا چاہیے۔ بعض لوگوں نے قسم کو تکیہء کلام بنا رکھا ہے کہ قصداً و بلا قصد زبان پر جاری رہتی ہے اور اس کا خیال نہیں رکھتے کہ بات سچی ہے یا جھوٹی یہ سخت معیوب بات ہے اور خدا کے سوا کسی اور کی قسم کھانا مکروہ اور بری بات ہے اور یہ شرعاً قسم بھی نہیں یعنی اس کے توڑنے سے کفارہ لازم نہیں۔ (بہار شریعت)

۲۔ مسئلہ: یہ الفاظ قسم نہیں اگرچہ آدمی ان کے بولنے سے گناہگار ہوگا جبکہ اپنی بات میں

جھوٹا ہو" اگر ایسا کروں تو مجھ پر خدا کا غضب ہو اس کی لعنت ہو اس کا عذاب ہو خدا کا قہر ٹوٹے مجھ پر آسمان پھٹ پڑے وغیرہ رسول اللہ ﷺ کی شفاعت نہ ملے۔ خدا کا دیدار مجھے نصیب نہ ہو مرتے وقت کلمہ نصیب نہ ہو بہار شریعت)

۳۔ مسئلہ: جو شخص کسی چیز کو اپنے اوپر حرام کرے مثلاً کہے کہ فلاں چیز مجھ پر حرام ہے تو اس کے کہہ دینے سے وہ چیز حرام نہیں ہوگی کہ اللہ نے جس چیز کو حلال کیا ہے اسے کون حرام کر سکے مگر اس کے برتنے سے کفارہ لازم آئے گا یعنی یہ بھی قسم ہے۔ (بہار شریعت)

۴۔ مسئلہ: جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھائی جسے غموس کہتے ہیں تو یہ سخت گناہ ہے اس پر توبہ و استغفار فرض ہے مگر کفارہ لازم نہیں۔ اور اگر اپنے خیال میں تو اس نے سچی قسم کھائی تھی مگر حقیقت میں جھوٹی ہے مثلاً جانتا تھا کہ فلاں شخص نہیں آیا ہے اور قسم کھائی کہ نہیں آیا اور اگر آئندہ کے لیے قسم کھائی تو اس کی منعقدہ کہتے ہیں ایسی قسم اگر توڑے گا تو اس کے لیے کفارہ دینا پڑے گا اور بعض صورتوں میں گنہگار ہوگا۔ فتاویٰ عالمگیری)

۵۔ مسئلہ: قسم توڑنے کا کفارہ غلام آزاد کرنا یا دس مسکینوں کو کھانا کھلانا یا ان کو کپڑے پہنانا ہے یعنی یہ اختیار ہے کہ ان تینوں باتوں میں سے جو چاہے کرے اور جو ان میں سے کسی بات پر قادر نہ ہو تو پے درپے تین روزے رکھے۔ (دعائے کتب)

۶۔ مسئلہ: عورت کو ان روزوں کے درمیان اگر حیض آ گیا تو پہلے کے روزہ کا اعتبار نہ ہو گا یعنی اب پاک ہونے کے بعد لگاتار تین روزے رکھے۔ (در مختار)

۷۔ مسئلہ: قسم توڑنے سے پہلے کفارہ نہیں اور دیا تو ادا نہ ہوگا۔ یعنی اگر کفارہ دینے کے بعد قسم توڑی تو اب پھر کفارہ دے کہ جو پہلے دیا ہے وہ کفارہ نہیں مگر فقیر کو دیے ہوئے کو واپس نہیں لے سکتی۔ (فتاویٰ عالمگیری)

۸۔ مسئلہ: کفارہ انہی مساکین کو دے سکتی ہے جن کو زکوٰۃ دے سکتی ہے یعنی اپنے یاں باپ اولاد وغیرہ کو جن کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی کفارہ بھی نہیں دے سکتی۔ یونہی کفارہ کی قیمت مسجد میں صرف نہیں کر سکتی نہ مردے کے کفن میں لگا سکتی ہے یعنی جہاں جہاں زکوٰۃ نہیں خرچ کر سکتی وہاں کفارہ کی قیمت بھی نہیں دے سکتی۔ (در مختار)

۹۔ مسئلہ: قسم میں ایک قاعدہ یہ یاد رکھنا چاہیے جس کا قسم میں ہر جگہ لحاظ ضروری ہے کہ قسم کے تمام الفاظ سے وہ معنی لیے جائیں گے جن میں اہل عرف استعمال کرتے ہوں۔ مثلاً کسی نے قسم کھائی کہ کسی مکان میں نہیں جاؤں گی اور مسجد میں یا کعبہ میں گئی تو قسم نہیں ٹوٹی۔

اگرچہ یہ بھی مکان ہیں۔ یونہی لفظوں کے بول چال میں جو معنی ہیں وہ مراد لیے جائیں گے قسم کھانے والے کی نیت اور مقصد کا اعتبار نہ ہوگا۔ مثلاً قسم کھائی کہ دروازہ سے باہر نہ جاؤں گی اور دیوار کو دیکر یا سیڑھی لگا کر باہر چلی گئی تو قسم نہیں ٹوٹی۔ اگرچہ اس سے مراد یہ ہے کہ گھر سے باہر نہ جاؤں گی۔ (فتاویٰ عالمگیری)

۱۰۔ مسئلہ: قسم کھائی کہ فلاں کے گھر نہ جاؤں گی تو جس گھر میں رہتا ہے اس میں جانے سے قسم ٹوٹ گئی اگرچہ وہ مکان اس کا نہ ہو بلکہ کرایہ یا عاریتہ اس میں رہتا ہو۔ یونہی جو مکان اس کی ملک میں ہے اگرچہ اس میں رہتا نہ ہو۔ اس میں جانے سے بھی قسم ٹوٹ جائے گی۔ (فتاویٰ عالمگیری)

۱۱۔ مسئلہ: قسم کھائی کہ نہیں کھاؤں گی اور کوئی ایسی چیز کھالی جسے عرف میں کھانا نہیں کہتے مثلاً دودھ پی لیا یا مٹھائی کھالی تو قسم نہیں ٹوٹی۔ (بہار شریعت)

۱۲۔ مسئلہ: کسی سے کلام نہ کرنے کی قسم کھائی تو خط بھیجنے یا کسی کے ہاتھ کچھ کہلا بھیجنے یا اشارہ کرنے سے قسم ٹوٹے گی۔ (فتاویٰ عالمگیری)

۱۳۔ مسئلہ: قسم کھائی کہ فلاں کا خط نہ پڑھوں گی اور خط کو دیکھا اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اسے سمجھا تو قسم ٹوٹ گئی کہ خط پڑھنے سے یہی مقصود ہوتا ہے۔ زبان سے پڑھنا نہیں جیسا کہ یہاں کا عام محاورہ ہے۔ (رد المحتار)

۱۴۔ مسئلہ: قسم کھائی کہ میں اس کے پاس نہیں پھنکوں گی تو اس کا وہی حکم ہے جیسے یہ کہا کہ میں اس کے کلام نہ کروں گی۔ (فتاویٰ عالمگیری)

۱۵۔ مسئلہ: قسم کھائی کہ تیرے مکان کا کھانا پینا مجھ پر حرام ہے یہ کہا کہ تیرے مٹکے کا پانی پینا حرام ہے تو یہ قسم ہے۔ اگر اس کا گھر کا کھائے گی پیے گی یا دوسری صورت میں اسے کے مٹکی کا پانی پیے گی تو قسم کا کفارہ دینا آئے گا۔ (بہار شریعت)

۱۶۔ مسئلہ: قسم کھائی کہ فلاں کے گھر نہیں جاؤں گی تو جس گھر میں وہ رہتا ہے اس میں جانے سے قسم ٹوٹ گئی۔ اگرچہ وہ مکان اس کا نہ ہو بلکہ کرایہ پر یا عاریتہ اس میں رہتا ہو۔ یونہی جو مکان اس کی ملک میں ہے اگرچہ اس میں رہتا نہ ہو اس میں جانے سے بھی قسم ٹوٹ جائے گی۔

۱۷۔ مسئلہ: قسم کھائی کہ گوشت نہیں کھائے گی تو مچھلی کھانے سے قسم نہیں ٹوٹے گی۔ یونہی کلیجی، تلی، پھیپھڑوں، دل، گروہ، اوجھڑی، تہ کی چکتی بکے کھانے سے بھی نہیں ٹوٹے گی

کہ ان چیزوں کو عرف میں گوشت نہیں کہتے اور اگر کسی جگہ ان چیزوں کا بھی گوشت میں شمار ہو تو وہاں ان کے کھانے سے بھی قسم لوٹ جائے گی۔ (در مختار)

۵۔ تصویر کشی کی مذمت

اسلامی نقطہ نظر سے جانداروں کی تصاویر بنانا جائز نہیں بلکہ شریعت میں جاندار چیزوں کی تصویر بنانا 'بنوانا' اس کا رکھنا اور اس کا بیچنا حرام ہے لہذا کپڑے کاغذ پتھر دیوڑ پر دے درہم دینار اور کسی تختے پر تصویر بنانا خلاف شرع ہے البتہ کسی غیر جاندار جیسے درخت مکان یا کسی مقام کا نظارہ وغیرہ کی تصویر بنانے اور ان کے رکھنے اور خرید و فروخت میں کوئی مرجح نہیں۔ حضور ﷺ کی جن احادیث میں تصویر کشی سے منع فرمایا گیا ہے وہ حسب ذیل ہیں :

۱۔ حدیث: حضرت ابو طلحہ سے روایت ہے کہ نبی کریم نے فرمایا۔ رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر میں کتاب یا تصویر ہو۔ (بخاری)

۲۔ مسئلہ: حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم اپنے کا شانہ اقدس میں کوئی تصویر نہ چھوڑتے مگر اسے توڑ دیتے۔ (بخاری)

۳۔ مسئلہ: حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ انھوں نے الماری کے اوپر پردہ ڈالا جس میں تصویریں تھیں تو نبی کریم نے اسے پھاڑ دیا۔ میں نے اسی کے دو ٹکے بنا لیے جن پر حضور بیٹھا کرتے۔ (بخاری)

۴۔ مسئلہ: حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی کریم نے فرمایا قیامت کے روز سب سے سخت عذاب ان لوگوں کو ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی شان تخلیقی سے مقابلہ کرتے ہیں۔ (بخاری)

۵۔ مسئلہ: حضرت عبد اللہ بن مسعود نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عذاب تصویر بنانے والوں کو ہوگا۔ (مسلم)

۶۔ مسئلہ: حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ ایک غزوہ کے لیے نکلے تو میں نے ایک کپڑا لے کر اس کا دروازہ پر پردہ لٹکا دیا۔ جب آپ تشریف لائے اور آپ نے وہ کپڑا دیکھا تو اسے کھینچا اور پھاڑ دیا پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم نہیں فرمایا کہ ہم پتھروں اور مٹی کو لباس پہنائیں۔ (مسلم)

۷۔ مسئلہ: حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اس طرح چیز بنانے لگے جیسی

میں نے بنائی۔ پہلا ایک ذرہ تو بنائیں ایک دانہ تو بنائیں ایک جو تو بنائیں۔ (بخاری)

۸۔ مسئلہ: حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا ہر تصویر بنانے والا جہنم میں جائے گا۔ ہر تصویر جو اس نے بنائی ہوگی اس کا جاندار بنا یا جائے گا۔ جو جہنم میں سے اسے عذاب دے گا۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ اگر چارہ نہ ہو تو درخت وغیرہ چیزوں کی تصویر بنا لو جن میں روح نہیں ہے۔ (بخاری)

۹۔ مسئلہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قیامت کے روز جہنم سے ایک گردن لکھے گی جس کی دو آنکھیں ہوں گی دیکھنے والی اور دو کان ہوں گی سننے والے اور ایک بولنے والی زبان ہوگی۔ وہ کہے گی کہ مجھے تین مخلصوں پر مقرر فرمایا گیا ہے:

(الف) ہر اس شخص پر جو سرکش اور ظالم ہو۔

(ب) ہر اس شخص پر جو خدا کے ساتھ دوسروں کی عبادت کرے۔

(ج) تصویریں بنانے والے پر۔ (ترمذی)

۱۰۔ مسئلہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا حضرت جبرئیل میرے پاس آئے اور کہا میں گذشتہ رات حاضر ہوا تھا۔ مجھے اندر داخل ہونے میں کوئی رکاوٹ نہ تھی مگر دروازے پر تصویریں تھیں اور گھر کے اندر ایک پارک پر وہ تھا جس میں تصویریں تھیں اور گھر میں ایک کتا تھا۔ دروازے کی تصویروں کا سر کاٹنے کا حکم فرمایا ہے تاکہ وہ درخت کی طرح رہ جائیں۔ پردے کو کاٹنے کا حکم فرمایا ہے کہ اس کے دوسرے ہالے بنا لیے جائیں جو پھٹتے رہیں اور روندے جائیں اور کتے کو نکال دینے کا حکم فرمایا ہے۔ پس رسول اللہ ﷺ نے ایسا ہی کیا (ابوداؤد)

۱۱۔ مسئلہ: حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو ایسے لوگ اب کو دیکھنے کا دعویٰ کرے جو اس نے دیکھا نہ ہو تو اسی جو کہ دو دالوں میں گروہ گالے کی تکلیف دی جائے گا اور وہ نہیں کر سکے گا جو کان لگا کر ایسے لوگوں کی ہاتھیں ملے جو اسے نا پسند کرتے ہوں۔ یا اس سے بھاگتے ہوں تو قیامت کے روز اس کے کانوں میں سب سے والا جائے گا اور چھوٹی تصویر بنائے اسے عذاب دیا جائے گا اور تکلیف دی جائے گی کہ اس میں روح پھوگے اور وہ نہیں ڈال سکے گا۔ (بخاری)

۱۲۔ مسئلہ: حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ ایک روز صبح کے وقت رسول اللہ ﷺ نے اپنے اور لڑائی جبرئیلؑ کے ہاتھوں میں رات ملنے کا وعدہ کیا تھا لیکن

ملنے نہ آئے۔ حالانکہ خدا کی قسم انہوں نے کبھی وعدہ خلافی نہیں کی تھی۔ پھر آپ کے دل میں ایک پلے کا خیال آیا۔ جو آپ کے تخت کے نیچے تھا۔ چنانچہ حکم دیا تو اسے نکال دیا گیا۔ پھر دست مبارک میں پانی لے کر اس جگہ پر چھڑکا۔ جب شام ہوئی تو حضرت جبریل ملاقات کے لیے حاضر ہوئے۔ فرمایا کہ تم نے مجھ سے گذشتہ رات ملنے کا وعدہ کیا تھا۔ غرض بازار ہوئے ہاں! لیکن ہم میں اس گھر میں داخل نہیں ہوتا جس میں کتابا تصویر ہو۔ صبح ہوئی تو اس روز رسول اللہ نے کتوں کو مار دینے کا حکم دیا فرمایا۔ یہاں تک کہ آپ چھوٹے باغ کے کتے کو بھی مار دینے کا حکم فرماتے اور بڑے باغ کا کتا چھوڑ دیا جاتا۔ (مسلم)

۱۳۔ **مسئلہ:** حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک پردہ خریدا جس میں تصویریں تھیں۔ جب رسول اللہ ﷺ نے اسے دیکھا تو دروازے پر کھڑے ہو گئے اور اندر داخل نہ ہوئے۔ پس میں نے چہرہ انور پر ناراضگی کے اثرات پہچان لیے۔ عرض گزار ہوئی کہ یا رسول اللہ! میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف تو یہ کرتی ہوں میں نے کیا گناہ کیا ہے؟ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اس پردے کا کیا حال ہے؟ عرض گزار ہوئیں کہ میں نے یہ اس لیے خریدا کہ آپ اس پر بیٹھیں اور اس کے ساتھ ٹیک لگائیں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ان تصویروں والوں کو قیامت کے روز عذاب دیا جائے گا۔ اور ان سے کہا جائے گا کہ جو تم نے بنائی ہیں ان میں جان ڈالو اور فرمایا کہ جس گھر میں تصویر ہو اس میں رحمت کے فرشتے نازل نہیں ہوتے۔ (بخاری)

۶۔ لہو و لعب

بعض کاموں کو اسلام میں لہو و لعب میں شمار کیا گیا ہے اس لیے ان سے بچنا چاہیے اور کاموں کے لیے شریعت نے حدود فرمائی ہیں اس لیے انہیں شرعی حدود کے مطابق کرنا چاہیے حضور ﷺ کی چند احادیث مندرجہ ذیل ہیں:

۱۔ **حدیث:** حضرت عقبہ بن عامرؓ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ وہ تمام چیزیں باطل ہیں جن سے آدمی لہو کرتا ہے۔ مگر تیر چلانا، گھوڑے کو ادب سکھانا اور بیوی کے ساتھ رغبت رکھنا لہو میں نہیں۔ (ترمذی)

۲۔ **حدیث:** حضرت انس سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ دو آوازیں دنیا اور آخرت میں ملعون ہیں۔ ایک گانے کی آواز اور دوسری مصیبت کے وقت رونے کی آواز۔ (بخاری)

- ۳۔ حدیث: حضرت بریدہؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا۔ جو شطرنج کھیلا گویا اس نے اپنے ہاتھ خنزیر کے گوشت اور خون میں رنگے۔ (مسلم)
- ۴۔ حدیث: حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شطرنج کھیلتے اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ (احمد، ابوداؤد)
- ۵۔ حدیث: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک آدمی کو کہوٹر کا پیچھا کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا شیطان شیطان کا پیچھا کر رہا ہے۔ (ابوداؤد احمد ابن ماجہ)
- ۶۔ حدیث: حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص کتابالے ماسوائے موشیوں، شکار اور کھیتی باڑی کے اس کے ثواب سے روزانہ دو قراط گھٹا دیے جائیں گے۔ (بخاری)

۷۔ حدیث: حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے موشیوں کو آپس میں لڑانے سے منع فرمایا ہے۔ (ترمذی، ابوداؤد)

۸۔ حدیث: حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے شراب، جو اور کوہ حرام فرمایا ہے۔ اور فرمایا کہ نشہ لانے والے والی ہر چیز حرام ہے کہا گیا کہ "الکوہ" طبلے کو کہتے ہیں۔ (بہشتی)

۹۔ حدیث: حضرت ابو ہریرہؓ نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ ایک انصاری کے گھر تشریف لے جایا کرتے۔ ان کے ساتھ ایک گھر تھا تو ان پر یہ گراں گزرتا۔ وہ عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ! آپ فلاں کے گھر تشریف لے جاتے ہیں اور ہمارے غریب خانہ پر جلوہ افروز نہیں ہوتے۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ تمہارے گھر کتا ہے۔ عرض گزار ہوئے کہ ان کے گھر بلی ہے۔ نبی کریم نے فرمایا کہ بلی درندوں سے ہے۔ (دارقطنی)

۱۰۔ حدیث: حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب، جوئے، کوہ اور غمیرہ سے منع فرمایا ہے۔ غمیرہ ایک شراب ہے جس کو حبشی لوگ چنوں سے بناتے ہیں اور اسے سکر کہہ جاتا ہے۔ (ابوداؤد)

۱۔ شرعی مسائل:

۱۔ مسئلہ: گنجفہ چوسر شطرنج، تاش کھیلنا ناجائز ہے۔ جیسا کہ حدیثوں میں شطرنج کھیلنے کی بہت زیادہ ممانعت آئی ہے۔ ان کھیلوں میں آدمی اس قدر محو اور غافل ہو جاتا ہے۔ اور نماز وغیرہ دین کے بہت سے کاموں میں خلل پڑ جاتا ہے۔ تو جو کام ایسا ہو کہ اس کی وجہ سے دینی

کاموں میں خلل پڑتا ہو وہ کیوں نہ بُرا ہوگا۔ یہی حال چنگ اڑانے کا بھی ہے کہ یہی سب خرابیاں اس میں بھی ہیں بلکہ بہت سے لڑکے چنگ بازی کی وجہ سے چھتوں سے گر کر مر گئے۔ اس لیے چنگ اڑانا بھی منع ہے۔ فرض لہو و لعب کی جتنی قسمیں ہیں سب باطل ہیں۔ صرف تین قسم کے لہو کی حدیث میں اجازت ہے۔

(الف)۔ بیوی کے ساتھ کھیلنا۔

(ب)۔ گھوڑے کی سواری کرنے میں مقابلہ۔

(ج)۔ تیر اندازی کا مقابلہ۔ (بہار شریعت)

۲۔ مسئلہ: ناچنا، تالی بجانا، سپتار، ہارمونیم، چنگ، طنبورہ، بھانا، اس طرح دوسرے قسم کے تمام باہر سب ناچائز ہیں۔ اس طرح ہارمونیم، ڈھول، بجا کر گانا سنانا اور سننا بھی ناچائز ہے۔ (نوادری عالمگیری)

۳۔ مسئلہ: کبوتر پالنا اگر آڑانے کے لیے ہو تو ناچائز ورنہ جائز ہے۔ کیونکہ کبوتر بازی یہ بھی ایک قسم کا لہو ہے اور اگر کبوتروں کو آڑانے کے لیے چھٹ پر چڑھتا ہو جس سے لوگوں کی بے پردگی ہوتی ہو تو اس کو بھی منع کیا جائے گا۔ اور اس پر بھی نہ مانے تو اسلامی حکومت کی طرف سے اس کے کبوتر ذبح کر کے اس کو دے دیے جائیں گے تاکہ آڑانے کا سلسلہ ہی ختم ہو جائے۔ (درمقار)

۴۔ مسئلہ: جانوروں کو لڑانا جیسے لوگ مرغ، بیل، تیز، مینڈھوں کو لڑاتے ہیں یہ حرام ہے ان کا تماشہ دیکھنا بھی ناچائز ہے۔ (بہار شریعت)

۵۔ مسئلہ: حضرت رمضان شریف میں سحری کھانے اور افطار کے وقت بعض شہروں میں نکارے پانگھنے بجاتے ہیں یا سیٹیاں بھائی جاتی ہیں۔ جن سے مقصود ہوتا ہے کہ لوگ بیدار ہو کر سحری کھائیں یا انہیں یہ معلوم ہو جائے کہ ابھی سحری کا وقت ہائی ہے اور لوگوں کا معلوم ہو جائے کہ آفتاب غروب ہو گیا اور افطار کا وقت ہو گیا یہ سب جائز ہیں کیونکہ یہ لہو و لعب کے طور پر نہیں ہیں بلکہ ان سے اعلان کرنا مقصود ہے۔ اس طرح طوں اور کارخانوں میں کام شروع ہونے اور کام ختم ہونے کے وقت جو سیٹیاں بھائی جاتی ہیں یہ بھی جائز ہیں کہ ان سے لہو مقصود نہیں بلکہ اطلاع دینے کے لیے یہ سیٹیاں بھائی جاتی ہیں۔ (بہار شریعت)

۶۔ مسئلہ: عید کے دن اور شادیوں میں دل بھانے کے اجازت ہے جہاں دنوں میں بھانج نہ گئے ہوں اور ہسپتال کے قواعد پر نہ بھانے جائیں بلکہ محض لہو و لعب کے لیے

سُری آواز سے فقط نکاح کا اعلان مقصود ہو۔ (رد المحتار، عالمگیری)

۷۔ مسئلہ: اکھاڑوں میں کشتی لڑنا اگر لہو و لہب کے طور پر نہ ہو بلکہ اس سے مقصود اپنی جسمانی طاقت کو بڑھانا ہو تو یہ جائز ہے مگر شرط یہ ہے کہ ستر پوشی کے ساتھ آج کل لنگوٹ اور جاتیکہ پہن کر جو کشتی لڑتے ہیں جس میں ران وغیرہ کھلی رہتی ہیں یہ ناجائز ہے اور ایسی کشتی کا تماشا دیکھنا بھی ناجائز ہے کیونکہ کسی کے ستر کو دیکھنا حرام ہے ہمارے حضور اقدس ﷺ نے رکانہ پہلوان سے کشتی لڑی اور تین مرتبہ اس کو پچھاڑا کیونکہ رکانہ پہلوان نے کہا تھا کہا اگر آپ مجھے پچھاڑ دیں تو میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ چنانچہ رکانہ مسلمان ہو گیا۔ (رد المحتار، رد المحتار)

۸۔ مسئلہ: اگر لوگ اس طرح آپس میں ہنسی مذاق کریں کہ نہ گالی گلوچ ہو نہ کسی کی ایذا رسانی ہو بلکہ محض ہر لطف اور دل خوش کرنے والی باتیں ہوں جن سے اہل عقل کو ہنسی آجائے اور تفریح ہو جائے اس میں کوئی حرج ہلکہ ایسی تفریح اور مزاح رسول اللہ ﷺ اور صحابہ سے ثابت ہے۔ (بہار شریعت)

۷۔ ختنہ

ختنہ کا آغاز طہ ابراہیم علیہ السلام سے ہوا اسلام میں اسے ویسے ہی اپنا لیا گیا ختنہ مسلمان کی طہارت بھی ہے کیونکہ غیر مسلم ختنہ نہیں کراتے۔ اس لیے ختنہ سے انسان یکدم پہچانا جاتا ہے کہ یہ مسلمان ہے۔ اس لیے اس معلوم ہوا کہ یہ مسلمان اور غیر مسلموں میں امتیاز کرنے کی طہارت بھی ہے مرد کے عضو خاص سے لاندہ کھال ہٹانے کا نام ختنہ ہے ختنے کا فائدہ یہ ہے کہ عضو کی کھال پر میل تکمیل جمع نہیں ہوتا اور طہارت کرنے میں آسانی رہتی ہے۔ ختنہ کے متعلق حضور ﷺ کے ارشاد مندرجہ ذیل ہیں:

۱۔ حدیث: حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنا ختنہ کروایا تو اس وقت ان کی عمر ۸۰ سال تھی۔ (بخاری شریف)

حدیث ۲: حضرت ابو ہریرہ سے ایک اور روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا کہ ہماری پانچ سنتیں دائمی ہیں ختنہ کروانا، نال کے پچھے کے بالوں کی صلائی کرنا، مونہ میں پست کروانا، ناخن کاٹنا اور بالوں کے بال اکھاڑنا۔ (مسلم شریف)

۲۔ حدیث: حضرت ام عطیہ انصاریؓ سے روایت ہے کہ ایک عورت مدینہ منورہ میں ختنے کیا کرتی تھی۔ حضور ﷺ نے اسے تاکید فرمائی کہ ختنے کے وقت کھال زیادہ نہ کاٹا کرو۔ کیونکہ یہ حیوانی طاقت کا ذریعہ ہے اور مرد کو پسند ہے۔ (ابوداؤد شریف)

ختنہ کا سنت طریقہ ہے کہ بچہ جب قابل پر داشت ہو جائے تو ختنہ کرنے والے کو بلائیں جو آسان طریقے سے جس سے بچے کو تکلیف کم ہو۔ عضو کی کھال کا اوپر کا حصہ کاٹ دے زخم اچھا ہونے پر بچے کو غسل کرائیں اس کے متعلق مکمل مسائل مندرجہ ذیل ہیں:

۱۔ مسئلہ: ختنہ ہر صورت میں سات سال تک کروادینا چاہیے اس سے زائد تاخیر کرنا اچھا نہیں بعض علماء کا کہنا ہے کہ ولادت کے ساتویں دن سے لے کر چالیس یوم تک ختنہ کروادینا بہتر ہے۔ جوں جوں بچے کی عمر زیادہ ہوگی اس کو زخم ہونے میں تکلیف ہوگی۔

۲۔ مسئلہ: ختنے میں اگر پوری کھال نہ کٹی ہو تو اس صورت میں اگر نصف سے زائد کٹی ہو تو ختنہ درست ہے باقی کو کاٹنا ضروری نہیں اور اگر نصف یا نصف سے زائد باقی رہ گئی ہو تو ختنہ دوبارہ کروانا چاہیے۔

۳۔ مسئلہ: پیدائشی طور پر اگر بچہ ختنہ شدہ ہو اس کے ختنے کی ضرورت نہیں۔

۴۔ مسئلہ: جب کوئی شخص مسلمان ہو جائے اور وہ ختنہ شدہ نہ ہو تو اسے جلد اپنا ختنہ کروانا چاہیے۔ اگر وہ بوڑھا اور کمزور ہو کہ اس میں ختنہ کروانے کی طاقت نہ ہو تو پھر اسے ویسے ہی رہنے دیں۔

۵۔ مسئلہ: اگر ختنے کے بعد اگر عضو خاص کی کھال دوبارہ خود بخود بڑھ جائے جس سے پھر ختنہ کی ضرورت محسوس ہونے لگے تو دوبارہ ختنہ کروانا چاہیے۔

۶۔ مسئلہ: ختنہ کروانا باپ کا کام ہے اگر وہ نہ ہو تو جس کی کفالت میں بچہ ہے اس کا ذمہ ہے کہ وہ بچے کا ختنہ کروائے۔

۷۔ مسئلہ: ختنہ کے موقع پر ناچ گانے وغیرہ کی محفل منعقد کرنا خلاف شرع ہے کیونکہ جو کام عام حالات میں حرام ہے وہ خاص حالات میں بھی منع ہے۔

۸۔ ذبح

اسلام نے حلال جانور کے لیے اس کے جسم سے جان نکالنے کا جو طریقہ مقرر کیا ہے اسے ذبح کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے ذبح کے طریقے کو حلال قرار دیا ہے اس کے علاوہ کسی طریقے

سے جانور سے گوشت حاصل کرنا درست نہیں۔ ذبح کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخَيْزُورِ وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ
 اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْحَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ
 السَّبْحُ إِلَّا مَا ذَكَرْتُمْ وَمَا ذَبَحَ عَلَى النَّصَبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا
 بِالْأَزْوَاجِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ

(تم پر مرا ہوا جانور اور (بہتا) لہو اور سور کا گوشت اور جس چیز پر خدا کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے اور جو جانور گلا گھٹ کر مر جائے اور جو چوٹ لگ کر مر جائے اور جو گر کر مر جائے اور جو سینگ لگ کر مر جائے یہ سب حرام ہیں اور وہ جانور بھی جس کو درندے پھاڑ کھائیں مگر جس کو تم (مرنے سے پہلے) ذبح کر لو اور وہ جانور بھی جو تھان پر ذبح کیا جائے اور یہ حرام ہے کہ تم پانے ڈالو۔ یہ سب کچھ فسق ہے)۔ (مائدہ: ۳)

ذبح صرف وہ جائز ہے جو اللہ کے نام پر کیا جاتا ہے۔ حلال ذبیحہ کے بارے میں حضور کے ارشادات مندرجہ ذیل ہیں:

۱۔ حدیث: حضرت معاذ بن سعد سے روایت ہے کہ حضرت کعب بن مالک کی لونڈی سلح پہاڑی پر بکریاں چرا رہی تھی تو ان میں سے ایک بکری بیمار ہو گئی پس وہ اس کے پاس گئی اور پتھر کے ساتھ اسے ذبح کر دیا۔ جب نبی اکرم ﷺ سے اس کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اسے کھا لو۔ (بخاری)

۲۔ حدیث: حضرت شداد بن اوس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر احسان کرنا ضروری قرار دیا ہے لہذا جب کسی کو قتل کرو تو اچھی طرح قتل کرو اور جب کسی کو ذبح کرو تو اچھی طرح ذبح کرو اور تم اپنی چھری کو اچھی طرح تیز کر لیا کرو اور ذبیحہ کو آرام دیا کرو۔" (مسلم)

۳۔ حدیث: حضرت عدی بن حاتم کا بیان ہے کہ میں عرض گزار ہوا یا رسول اللہ! اہم میں سے کوئی شکار پائے اور اس کے پاس چھری نہ ہو تو کیا پتھر اور لاشی کو پھانس سے ذبح کرے؟ فرمایا "جس چیز سے چاہو خون بہا دیا کرو اور اللہ کا نام لے لیا کرو۔" (ابوداؤد)

۴۔ حدیث: حضرت ابو العشاء سے روایت ہے کہ ان کے والد ماجد عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ! کیا ذبح کرنا صرف طلق اور سینے میں ہی ہوتا ہے۔ فرمایا کہ اگر تم اس کی ران میں نیزہ مارو تب بھی تمہارے لیے کافی ہے۔ (ترمذی)

۵۔ حدیث: حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا۔ پیٹ کے بچے کا ذبح کرنا وہی اس کی ماں کا ذبح کرنا ہے۔ (ابوداؤد، داری)

۶۔ حدیث: حضرت ابن عباسؓ اور حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے شریطہ و شیطان سے منع فرمایا ہے۔ ابن مسیحی نے یہ بھی کہا کہ یہ وہ ذبیحہ ہے کہ کھال کاٹ دی جائے اور رگیں نہ کاٹی جائیں۔ پھر چھوڑ دیا جائے۔ یہاں تک کہ مر جائے۔ (ابوداؤد)

۷۔ حدیث: حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے کہ ہم عرض گزار ہوئے۔ یا رسول اللہ! ہم اونٹنی کو ٹھکر کریں اور گائے بھری کو ذبح کریں تو اس کے پیٹ سے بچہ پائیں کیا اسے پھینک دیں یا کھالیں؟ فرمایا کہ "اگر چاہا ہو تو کھال کو کیونکہ اس کی ماں کا ذبح کرنا ہی اس کا ذبح کرنا ہے۔" (ابوداؤد، ابن ماجہ)

۸۔ حدیث: حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاصؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس نے چڑیا یا کسی دوسرے جانور کو ناحق قتل کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو قتل کرنے کے متعلق اس سے پوچھے گا۔ عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ! اس کا حق کیا ہے؟ فرمایا کہ "ذبح کر کے اس کو کھالے اور اس کے سر کو کاٹ کر پھینک نہ دے۔" (احمد، نسائی، ابوداؤد)

۹۔ حدیث: حضرت ابوداؤد قرظیؓ نے فرمایا کہ نبی کریم ﷺ مدینہ منورہ تشریف لائے تو لوگ اونٹ کے کوہان اور دنبوں کی چکیاں کاٹ لینا پسند کرتے تھے فرمایا کہ زندہ جانور سے جو حصہ کاٹ لیا جائے وہ مرادار ہے اسے نہ کھایا جائے۔ (ترمذی، ابوداؤد)

۱۰۔ حدیث: حضرت عطاء بن یسارؓ نے بنی حارثہ کے ایک شخص سے روایت کی ہے کہ وہ احد کی ایک گھائی میں اونٹنی چرا رہا تھا تو اس پر موسیٰ دیکھیں لیکن کوئی چیز نہ ملی جس سے ٹھکر کرے۔ پس ایک کیل لی اس کے گلے میں بھردی یہاں تک کہ اس کا طون پہ گیا پھر رسول اللہ ﷺ کو یہ بات بتائی تو آپ نے اس کو کھالے کا حکم فرمایا۔ (ترمذی، ابوداؤد)

۱۱۔ حدیث: حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا "سیدر میں کوئی جانور نہیں مگر اس کو اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کے لیے ذبح فرمایا ہے۔" (بخاری، ترمذی)

جانور کو ذبح کرنے کا عام طریقہ یہ ہے کہ جانور کو زمین پر لٹا کر اس کا رخ قبلہ کی طرف کیا جائے اور جھڑدھا والی پھری لے کر گھیر یعنی "بسم اللہ اللہ اکبر" کہہ کر جانور کے گلے پر پھری چلائی جائے جس سے جانور کے گلے کے رگیں کٹ جائیں اور طون پہ جائے۔ سر کوٹن سے اس وقت تک جدا نہ کیا جائے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کا نام لے کر چند رگیں کاٹنے کو ذبح کہا جاتا

ہے۔ ذبح کے متعلق شرعی مسائل درج ذیل ہیں:

۱۔ **مسئلہ:** ذبح کرتے وقت جانور کے گلے سے چار رگیں کاٹی جاتی ہیں۔ حلقوم یعنی سانس لینے والی نالی مری یعنی خوارک والی نالی ان دونوں کے ساتھ دو خون کی نالیاں بھی ہوتی ہیں۔ جن میں خون گردش کرتا ہے۔ ذبح کے وقت ان چاروں رگوں کو کاٹنا سنت ہے۔ (در مختار)

۲۔ **مسئلہ:** ذبح سے جانور کے حلال ہونے کی چند شرائط ہیں اگر وہ پوری نہ ہوں تو جانور کا گوشت حلال نہ ہوگا۔

(الف) **شرط اول:** ذبح کرنے والا عاقل ہو۔ مجنون یا اتنا بچہ جو بے عقل ہو ان کا ذبیحہ جائز نہیں اور اگر چھوٹا بچہ ذبح کو سمجھتا ہو اور اس پر قدرت رکھتا ہو تا اس کا ذبیحہ حلال ہے۔

(ب) **شرط دوم:** ذبح کرنے والا مسلمان ہونا چاہیے۔ غیر مسلم کا ذبح کیا ہو جانور حلال نہ ہوگا۔ مسلمان کے علاوہ اہل کتاب کا ذبیحہ بھی حلال ہے۔ مشرک اور مرتد کا ذبیحہ حرام و مردار ہے کتابی اگر غیر کتاب ہو گیا تو اب اس کا ذبیحہ حرام ہے اور غیر کتابی کتابی ہو گیا تو اس کا ذبیحہ حلال ہے اور معاذ اللہ مسلمان اگر کتابی ہو گیا تو اس کا ذبیحہ حرام ہے کہ یہ مرتد ہے۔ لڑکانا بالغ ایسا ہے کہ اس کے والدین میں ایک کتابی ہے اور ایک غیر کتابی تو اس کو کتابی قرار دیا جائے اور اس کا ذبیحہ حلال سمجھا جائے گا۔ کتابی کا ذبیحہ اس وقت حلال سمجھا جائے گا جب مسلمان کے سامنے ذبح کیا ہو اور یہ معلوم ہو کہ اللہ کے نام لے کر ذبح کیا اور اگر ذبح کے وقت اس نے حضرت مسیح علیہ السلام کا نام لیا اور مسلمان کے علم میں یہ بات ہے تو جانور حرام ہے اور اگر مسلمان کے سامنے اس نے ذبیحہ نہیں کیا اور معلوم نہیں کہ کیا پڑھ کر ذبح کیا جب بھی حلال ہے۔

(ج) **شرط سوم:** ذبح کرتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام لینا ضروری ہے۔ ذبح کرنے کے وقت اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے کوئی نام ذکر کرے جانور حلال ہو جائے گا۔ یہی ضروری نہیں کہ لفظ اللہ ہی زبان سے کہے۔ تمہا نام ہی ذکر کرے یا نام کے ساتھ صفت بھی ذکر کرے۔ دونوں صورتوں میں جانور حلال ہو جاتا ہے۔ مثلاً اللہ اکبر، اللہ اعظم، اللہ جل، اللہ الرحمن، اللہ الرحیم یا صرف اللہ یا الرحمن یا الرحیم کہے اس طرح سبحان اللہ یا الحمد للہ یا لا الہ الا اللہ پڑھنے سے بھی

حلال ہو جائے گا۔ اللہ عزوجل کا نام عربی کے سوا دوسری زبان میں لیا جب بھی حلال ہو جائے گا۔

(ج) **شرط چہارم:** خود بخود ذبح کرنے والا اللہ عزوجل کا نام اپنی زبان سے کہے اگر یہ خود خاموش رہا دوسروں نے نام لیا اور اسے یاد بھی تھا بھولا نہ تھا تو جانور حرام ہے۔

(ح) **شرط پنجم:** اللہ کا نام لینے سے ذبح پر نام لینا مقصود ہو اور اگر کسی دوسرے مقصد کے لیے بسم اللہ پڑھی اور ساتھ ہی ذبح کر دیا اور اس پر بسم اللہ پڑھنا مقصود نہیں تو جانور حلال نہ ہوا۔ مثلاً چھینک آئی اور اس پر الحمد للہ کہا اور جانور ذبح کر دیا اس پر نام الہی ذکر کرنا مقصود نہ تھا بلکہ چھینک پر مقصد تھا جانور حلال نہ ہوا۔

(خ) **شرط ششم:** جس جانور کو ذبح کیا جائے وقت ذبح زندہ ہو اگرچہ اس کی حیات کا تھوڑا ہی حصہ باقی رہ گیا ہو۔ ذبح کے بعد خون نکلنا یا جانور میں حرکت پیدا ہونا یوں ضروری ہے کہ اس سے اس کا زندہ ہونا معلوم ہوتا ہے۔ (فتاویٰ عالمگیری)

۳۔ **مسئلہ:** ذبح کے علاوہ نحر کرنا بھی جائز ہے۔ حلق کے آخری حصہ میں نیزہ بھونک کر رگیں کاٹ دینے کو نحر کہا جاتا ہے۔ اونٹ کو نحر کرنا اور گائے بکری کو ذبح کرنا سنت ہے۔ اگر اس کا برعکس کیا تو جانور اس صورت میں بھی حلال ہو جائے گا۔ مگر ایسا کرنا مکروہ ہے۔ اور خلاف سنت ہے۔ (در مختار)

۴۔ **مسئلہ:** بکری ذبح کی اور خون نکلا مگر اس میں حرکت پیدا نہ ہوئی۔ اگر وہ ایسا خون ہے جیسے زندہ جانور میں ہوتا ہے۔ حلال ہے۔ بیمار بکری ذبح کی۔ صرف اس کے منہ کو حرکت ہوئی۔ اگر وہ حرکت یہ ہے کہ منہ کھول دیا تو حرام ہے اور بند کر لیا تو حلال ہے اور آنکھیں کھول دیں تو حرام ہے اور بند کر لیں تو حلال۔ اور پاؤں پھیلا دے تو حرام اور سمیٹ لیے تو حلال۔ اور بل کھڑے نہ ہوئے تو حرام اور کھڑے ہو گئے تو حلال۔ یعنی اگر صحیح طور پر اس کے زندہ ہونے کا علم نہ ہو تو ان علامتوں سے کام لیا جائے اور اگر زندہ ہونا یقینی معلوم ہے تو ان چیزوں کا خیال نہیں کیا جائے گا بہر حال جانور حلال سمجھا جائے گا۔ (فتاویٰ عالمگیری)

۵۔ **مسئلہ:** ذبح ہر اس چیز سے کر سکتے ہیں جو رگیں کاٹ دے اور خون بہا دے یہ ضروری نہیں کہ چھری ہی سے ذبح کریں بلکہ کچھی اور دھار دار پتھر سے بھی ذبح ہو سکتا ہے۔ صرف ناخن اور دانت سے ذبح نہیں کر سکتے جبکہ یہ اپنی جگہ پر قائم ہوں اور اگر ناخن کاٹ

کر جدا کر لیا ہو یا دانت علیحدہ ہو تو اس سے اگر چہ ذبح ہو جائے گا مگر پھر بھی اس کی ممانعت ہے کہ جانور کو اس سے اذیت ہوگی۔ اس طرح کند چھری سے بھی ذبح کرنا مکروہ ہے۔
(در مختار)

۶۔ **مسئلہ:** اس طرح ذبح کرنا کہ چھری حرام مغز تک پہنچ جائے یا سر کٹ کر جدا ہو جائے مگر وہ ذبح کھایا جائے گا یعنی کراہت اس فعل میں ہے نہ کہ ذبیحہ میں۔ (ہدایہ) عام لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ ذبح کرنے میں اگر سر جدا ہو جائے تو اس کا سر کھانا مکروہ ہے۔ یہ کتب فقہ میں نظر سے نہیں گزری۔ بلکہ فقہاء کا یہ ارشاد کا ذبیحہ کھایا جائے گا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سر بھی کھا جائے گا۔

مستحب یہ ہے کہ جانور کو لٹانے سے پہلے چھری تیز کر لیں اور لٹانے کے بعد چھری تیز کرنا مکروہ ہے۔ یونہی جانور کو پاؤں سے پکڑ کر کھٹیتے ہوئے ذبح کو لے جانا بھی مکروہ ہے۔ (در مختار)

۷۔ **مسئلہ:** ہر وہ فعل جس سے جانور کو بلا فائدہ تکلیف پہنچے مکروہ ہے مثلاً جانور میں ابھی حیات باقی ہے۔ ٹھنڈا ہونے سے پہلے اس کی کھال اتارنا اس کے اعضاء کا کاٹنا یا ذبح سے پہلے اس کے سر کو کھینچنا کہ رگیں ظاہر ہو جائیں یا گردن کو توڑنا، یونہی جانور کو گردن کی طرف سے ذبح کرنا مکروہ ہے بلکہ اس کی بعض صورتوں میں جانور حرام ہو جائے گا۔ سنت یہ ہے کہ ذبح کرتے وقت جانور کا منہ قبلہ کو کیا جائے اور ایسا نہ کرنا مکروہ ہے۔ (در مختار)

۸۔ **مسئلہ:** اگر جانور شکار ہو تو ضروری ہے کہ ذبح کرنے والا حلال ہو۔ یعنی احرام نہ باندھے ہوئے اور ذبح۔ بیرون حرم ہو۔ لہذا محرم کا ذبح کیا ہو احرام ہے اور حرام میں شکار کو ذبح کیا تو ذبح کرنے والا محرم ہو یا حلال دونوں صورتوں میں جانور حرام ہے اور اگر وہ جانور شکار نہ ہو بلکہ پالتو ہو جیسے مرغی بکری وغیرہ اس کو محرم بھی ذبح کر سکتا ہے۔ اور حرم میں بھی ذبح کر سکتے ہیں۔ نصرانی حرم میں جنگلی جانور کو ذبح کیا تو حرام ہے۔ یعنی مسلم ذبح کرے یا کتابی دونوں صورتوں میں حرام ہے۔ (در مختار)

۹۔ **مسئلہ:** مستحب یہ ہے کہ ذبح کے وقت بسم اللہ اکبر ہے یعنی بسم اللہ اور اللہ اکبر کے درمیان واؤ نہ کرے اور اگر بسم اللہ واللہ اکبر واؤ کے ساتھ کہا تو جانور اس صورت میں بھی حلال ہوگا مگر بعض علماء اس طرح کہنے کو مکروہ بتاتے ہیں۔ (در مختار وغیرہ)

۱۰۔ **مسئلہ:** بسم اللہ کی دہرے مقصد سے پڑھی اور جانور کو ذبح کر دیا تو جانور حلال

نہیں اور اگر زبان سے بسم اللہ کہی اور دل میں یہ نیت حاضر نہیں کہ جانور ذبح کرنے کے لیے بسم اللہ کہتا ہوں تو جانور حلال ہے۔ (در مختار)

۱۱۔ مسئلہ: خود ذبح کرنے والے کو بسم اللہ کہنا ضروری ہے دوسرے کا کہنا اس کے کہنے کے قائم مقام نہیں یعنی دوسرے کے بسم اللہ پڑھنے سے جانور حلال نہ ہوگا۔ جبکہ ذابح نے قصد اترک کیا ہوا اور دو شخصوں نے ذبح تو دونوں کا پڑھنا ضروری ہے۔ ایک نے قصد اترک کیا تو جانور حرام ہے۔ (روا المختار) معین ذابح سے یہی مراد ہے کہ ذبح کرنے میں اس کا معین ہو یعنی دونوں نے مل کر ذبح کیا دونوں نے چھری پھیری ہو مثلاً ذابح کمزور ہے کہ اس کی تنہا قوت کام نہیں دے گی۔ دوسرے نے بھی شرکت کی دونوں نے مل چھری چلائی۔ اگر دوسرا شخص جانور کو فقط پکڑے ہوئے ہے تو معین ذابح نہیں اس کے پڑھنے نہ پڑھنے کو کچھ داخل نہیں یہ اگر پڑھتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ ذابح کو بسم اللہ یاد آ جائے اور پڑھ لے۔ (فتاویٰ عالمگیری)

۱۲۔ مسئلہ: ہرن کو پال لیا وہ اتفاق سے جنگل میں چلا گیا کسی نے بسم اللہ کہہ کر اسے تیر مارا اگر تیر ذبح کی جگہ پر لگا ہے حلال ہے ورنہ نہیں۔ ہاں اگر وحشی ہو گیا اور اب بغیر شکار کیے ہاتھ نہ آئے گا تو جہاں بھی لگے حلال ہے۔ (خانہ)

۱۳۔ مسئلہ: گائے یا بکری ذبح کی اور اس کے پیٹ سے بچہ نکلا اگر وہ زندہ ہے ذبح بکر دیا جائے حلال ہو جائے گا۔ اور مرا ہوا ہے تو حرام ہے۔ اس کی ماں کا ذبح کرنا اس کے حلال ہونے کے لیے کافی نہیں۔ (در مختار)

۹۔ حلال و حرام جانور

شریعت کی رو سے بعض جانور کا گوشت حلال ہے اور بعض کا حرام کیونکہ جو جانور اخلاقی نقطہ نظر سے فائدہ مند ہیں اسلام نے انہیں کھانا جائز قرار دیا ہے اور جن جانوروں کا گوشت کھا کر انسان میں مذموم صفات پیدا ہوتی ہیں اسلام نے انہیں حرام قرار دیا ہے کیونکہ خوراک کا انسانی عادت کے ساتھ گہرا تعلق ہے اس لیے شریعت مطہرہ نے حلال و حرام کا ضابطہ مرتب کر کے انسانی پاکیزگی قائم کی ہے۔ شریعت کی رو سے حلال و حرام جانوروں کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے:

۱۔ مسئلہ: جو جانور شکار کرتے ہیں انہیں عموماً کیلے والے جانور کہا جاتا ہے حرام ہیں یا وہ

جانور جو صرف گندگی کھا کر گزرہ کرتے ہیں بھی حرام ہیں۔ اس لیے شیر، گیدڑ، بھیڑیا، کتا، بلی، لومڑی کا گوشت کھانا حرام ہے۔

بچے والا پرندہ جو بچہ سے شکار کرتا ہے حرام ہے، جیسے شکر، باز، بہری، چیل، حشرات الارض حرام ہیں جیسے چوہا، چھپکلی، گرگٹ، گھونس، سانپ، بچھو، بڑ، مچھر، پو، کھٹل، مکھی، کلی، مینڈک وغیرہ۔ (درمختار)

۲۔ مسئلہ: کچھوا خشکی کا ہو یا پانی کا حرام ہے۔ غراب بقیع یعنی کوا جو مردار کھاتا ہے۔ حرام ہے اور مہو کا کہ یہ بھی کوءے سے ملتا جلتا ایک جانور ہے حلال ہے۔ (درمختار)

۳۔ مسئلہ: گھریلو گدھا اور خچر حرام ہے اور جنگلی گدھا جسے گورخر کہتے ہیں حلال ہے گھوڑے کے متعلق روایتیں مختلف ہیں یہ آلب جہاد ہے اس کے کھانے میں تغلیل آلب ہوتی ہے لہذا نہ کھایا جائے۔ (درمختار)

۴۔ مسئلہ: پانی کے جانوروں میں صرف مچھلی حلال ہے جو مچھلی پانی میں مر کر تیر گئی یعنی بغیر مارے اپنے آپ مر کر پانی کی سطح پر الٹ گئی وہ حرام ہے مچھلی کو مارا اور وہ مر کر الٹی تیرنے لگی یہ حرام نہیں (درمختار) نڈی بھی حلال ہے مچھلی اور نڈی دونوں بغیر ذبح حلال ہیں جیسا کہ حدیث میں فرمایا کہ دو مردے حلال ہیں مچھلی اور نڈی۔

۵۔ مسئلہ: پانی کی گرمی یا سردی سے مچھلی مر گئی یا مچھلی کو ڈورے میں باندھ کر پانی میں ڈال دیا اور مر گئی یا جال میں پھنس کر مر گئی یا پانی میں کوئی ایسی چیز ڈال دی جس سے مچھلیاں مر گئیں اور یہ معلوم ہے کہ اس چیز کے ڈالنے سے مریں یا گھڑے یا گڑھے میں مچھلی پکڑ کر ڈال دی اور اس میں پانی تھوڑا تھا۔ اس وجہ سے یا جگہ کی تنگی کی وجہ سے مر گئی۔ ان سب صورتوں میں وہ مری ہوئی مچھلی حلال ہے۔ (درمختار) چھوڑی مچھلیاں بغیر شکم چاک کیے بھون گئیں ان کا کھانا حلال ہے۔ (درمختار)

۶۔ مسئلہ: جھینگے کے متعلق اختلاف ہے کہ یہ مچھلی ہے یہ نہیں اس بنا پر اس کی حلت و حرمت میں بھی اختلاف ہے۔ بظاہر اس کی صورت مچھلی کی سی نہیں معلوم ہوتی بلکہ ایک قسم کا کیزر معلوم ہوتا ہے لہذا اس سے بچنا چاہیے۔ (درمختار)

۷۔ مسئلہ: بکرا جو خسی نہیں ہوتا وہ اکثر پیشاب پینے کا عادی ہوتا ہے اور اس میں ایسی سخت بدبو پیدا ہو جاتی ہے کہ جس راستہ سے گزرتا ہے وہ راستہ کچھ دیر کے لیے بدبودار ہو جاتا ہے اس کا حکم بھی وہی ہے جو جلالہ کا ہے۔ اگر اس کے گوشت سے بدبو دفع ہو گئی تو کھا سکتے

ہیں ورنہ مکروہ وہ ممنوع ہے۔

۸۔ **مسئلہ:** مچھلی کا پیٹ چاک کیا اس میں موتی نکلا اگر یہ سیپ کے اندر ہے تو مچھلی والا اس کا مالک ہے۔ شکاری نے مچھلی بیچ ڈالی تو وہ موتی مشتری کا ہے اور اگر موتی سیپ میں نہیں تو مشتری شکاری کو دے دے اور یہ لقطہ ہے۔ اور مچھلی کے شکم میں انگوٹھی یا روپیہ یا اشرفی یا کوئی زیور ملا تو لقطہ ہے اگر یہ شخص خود محتاج و فقیر ہے تو اپنے صرف میں لاسکتا ہے۔ ورنہ تصدق کر دے۔ (در مختار، رواج مختار) بعض گائیں بکریاں غلاظت کھانے لگتی ہیں ان کو بلالہ کہتے ہیں۔ اس کے بدن میں گوشت وغیرہ میں بد بو پیدا ہو جاتی ہے اس کو کئی دن تک باندھ رکھیں کہ نجاست نہ کھانے پائے جب بد بو جاتی رہے تو ذبح کر کے کھائیں۔ اس طرح جو مرغی غلاظت کھانے کی عادت ہو اسے چند روز بند رکھیں۔ جب اثر جاتا رہے ذبح کر کے کھائیں۔ جو مرغیاں باہر پھرتی ہیں ان کو بند کرنا ضروری نہیں جبکہ غلاظت کھانے کی عادی نہ ہوں۔ اور ان میں بد بو نہ ہو۔ ہاں بہتر یہ ہے کہ ان کو بند رکھ کر ذبح کریں۔ (فتاویٰ عالمگیری، رواج مختار)

۹۔ **مسئلہ:** جانور کو ذبح کیا وہ اٹھ کر بھاگا اور پانی میں گر کر مر گیا یا اونچی جگہ سے گر کر مر گیا اس کے کھانے میں حرج نہیں کہ اس کی موت ذبح ہی سے ہوئی۔ پانی میں گرنے یا لڑھکنے کا اعتبار نہیں۔ (فتاویٰ عالمگیری)

۱۰۔ **مسئلہ:** زندہ جانور سے اگر کوئی ٹکڑا جدا کر لیا۔ مثلاً دنبہ کی چکی کاٹ لی یا اونٹ کا کوہان کاٹ لیا یا کسی جانور کا پیٹ پھاڑ کر اس کی کلیجی نکال لی یہ ٹکڑا حرام ہے۔ جدا کرنے کا یہ مطلب ہے کہ گوشت سے جدا ہو گیا ہے اگرچہ ابھی چمڑا لگا ہوا ہو اور اگر گوشت سے اس کا تعلق باقی ہے تو مردار نہیں یعنی اس کے بعد اگر جانور کو ذبح کر لیا جائے تو یہ ٹکڑا بھی کھایا جاسکتا ہے۔ (در مختار)

۱۰۔ قربانی

قربانی کا لفظ اصطلاح معنوں کے لحاظ سے صرف اس ذبیحہ کے لیے مخصوص ہے۔ جو اسلام سنت ابراہیمی کے پیش نظر عید الضحیٰ کے موقع پر قربان کیا جاتا ہے اور اس لحاظ سے اسلام میں یہ لفظ صرف جانور کے ذبیحہ کے لیے ہے۔ قرآن پاک میں اکثر مقامات پر قربانی کا ذکر ہے۔ اور قربانی کے لیے مختلف الفاظ استعمال ہوئے ہیں لیکن ان تمام الفاظ سے مراد قربانی ہی ہے۔ قربانی

کے بارے میں ارشاد ہے کہ:

(۱) قُلْ إِنَّا صَلَوَاتِي وَنُسُكِي وَمَعْبَادِي
وَمَعَا قِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - لَا
شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا
أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ -

(انعام: ۱۶۲-۱۶۳)

آپ کہہ دیجیے کہ میری نماز اور میری قربانی اور
میری زندگی اور میرا مناسک اللہ ہی کے لیے
ہے جو سارے جہان کا رب ہے اس کا کوئی
شریک نہیں اور مجھے اس کا حکم ملا ہے اور میں
سب سے پہلا مسلمان ہوں۔

(انعام: ۱۶۲-۱۶۳)

پس نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے اور قربانی
کیجئے۔ (الکوثر)

(۲) فَصَلِّ لِتَرْبِكَ وَأَنْتَ حَدِيدٌ
(الکوثر)

اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی اکرم ﷺ کی طرف یہ خطاب ہوا کہ آپ نے جس دین کی
دعوت اہل دنیا کو دی ہے اس کے بارے میں بر ملا وضاحت فرمادیں کہ یہی دین صراطِ مستقیم ہے
اور یہ وہ راستہ ہے جس پر حضرت ابراہیمؑ تھے اور اس دین پر قائم رہتے ہوئے میری ہر قسم کی
عبادت یعنی نماز اور اللہ کی راہ میں ہر طرح کی قربانیاں موت اور حیات اللہ ہی کے لیے ہے۔
در اصل اس زمانے میں مشرکین اللہ کے علاوہ بتوں کی عبادت کرتے تھے اور ان کے لیے قربانی
بھی کرتے تھے۔ اس کی تردید کی گئی کہ رسول اللہ ﷺ کی ہر طرح کی عبادت اور قربانی صرف
ذات الہی کے لیے ہے۔ یہاں قربانی کے لیے نُسک کا لفظ استعمال ہوا ہے اس سے مراد قربانی
ہے۔ بعض فتنہ پرور اور کجرو لوگ اس لفظ سے مراد قربانی نہ لیتے ہوئے صریحاً قربانی سے انکار کر
دیتے ہیں ایسا کرنا صالحیت تقویٰ اور پرہیزگاری کے خلاف ہے اور دین میں سوائے رخنہ اندازی
کے اور کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ لہذا امت مسلمہ کے کسی بھی فرد کو قربانی سے انکار کا کوئی جواز نہیں۔
پھر بعد والی آیت میں بیان ہوا کہ نماز پڑھنے کے بعد قربانی کرو اس کے بارے
میں رسول اکرم ﷺ کا یہی طریقہ کار تھا کہ آپ نماز عید سے فارغ ہونے کے بعد اپنی قربانی ذبح
کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ جو شخص ہماری نماز پڑھے اور ہم جیسی قربانی کرے اس نے شرعی
قربانی کی اور جس نے نماز سے پہلے ذبح کر لیا اس کی قربانی نہ ہوئی۔

۱۔ مسائل قربانی

رسول اکرم ﷺ کی متابعت میں ہر محبت اور اہل دل عاقل اور بالغ صاحب نصاب

مسلمان پر قربانی واجب ہے یعنی جس شخص پر زکوٰۃ عائد ہوتی ہے اس کے لیے قربانی دینا ضروری ہے لیکن صوفیا کا اس کے بارے میں مسلک یہ ہے کہ جو طالب اتنی رقم رکھتا ہو جس سے قربانی کا جانور خریداجا سکے اس صوفی کے لیے قربانی کرنا لازم ہے اللہ کی راہ میں قربانی کا فعل رسول اللہ سے محبت کی دلیل ہے کیونکہ جن لوگوں کو رسول اللہ ﷺ سے حقیقی معنوں میں محبت ہوتی ہے ان کی از حد کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنی حیات میں ہر اس فعل کو گزریں جو رسول اکرم ﷺ نے کیا ہے کیونکہ محبوب کے ہر فعل کو اپنائے بغیر محبت خام رہتی ہے اس لیے اللہ والوں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ ہر حال میں قربانی کریں۔

۱۔ قربانی کے دن: قربانی کے لیے اسلام میں تین دن مقرر ہیں ان دنوں کے علاوہ قربانی نہیں دی جاسکتی۔ قربانی کے دن ذی الحجہ کی دسویں گیارہویں اور بارہویں تاریخیں ہیں اس کے بارے میں حضرت علیؓ اور حضرت نافع سے روایت ہے کہ عید الاضحیٰ کے بعد دو دن تک قربانی کرنا جائز ہے (موطا امام مالک) لیکن نیکی میں جلدی کرنا تاخیر سے بہت ہی افضل ہے اس لیے عید الاضحیٰ کے پہلے دن قربانی کرنا بہت ہی بہتر ہے۔ اور رسول اکرم ﷺ سے محبت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ عید کے روز ہی قربانی کی جائے۔

نماز عید سے قبل قربانی کرنا درست نہیں اگر کوئی نماز عید سے پہلے ہی قربانی کر لے تو اس کی قربانی نہ ہوگی اور اس کے لیے دوبارہ قربانی کرنا ضروری ہے لیکن جہاں نماز عید نہ ہو وہاں نماز عیدہ کا وقت گزر جانے کے بعد قربانی کرنا جائز ہے۔

۲۔ قربانی کا مسنون طریقہ: قربانی کرنے والے کے بارے میں رسول کریم ﷺ کا ارشاد ہے کہ جس شخص نے قربانی کرنا ہو وہ ذوالحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد نہ اپنے بال بنوائے اور نہ ناخن کٹوائے۔ یہاں تک کہ قربانی کرے۔ (مسلم)

اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ قربانی کرنے والے کے لیے عید الاضحیٰ کا چاند دیکھنے سے عید کے روز قربانی کرنے تک حجامت نہیں بنوانی چاہیے کیونکہ ایسا کرنا مسنون ہے۔

۳۔ اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا: قربانی کا جانور اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا بہت ہی افضل ہے لیکن کچھ رواج ایسا ہو گیا ہے کہ لوگ پیشہ ور لوگوں اور مساجد کے مولویوں ہی سے ذبح کرانے کو افضل کرتے ہیں اور خود ذبح کرنے سے مطمئن نہیں ہوتے لیکن اہل علم کا شیوہ ہے کہ اپنے ہاتھ ہی سے ذبح کرتے ہیں لہذا قربانی کرنے والے مسلمانوں بھائیوں کے لیے یہ انتہائی سعادت مندی ہے کہ وہ قربانی کا جانور خود ذبح کریں۔ قربانی کا طریقہ یہ ہے کہ قربانی کی نیت کی

جائے اور پھر قربانی کے جانور کو قبلہ رو لٹا کر اس کے گلے پر تیز دھار والی چھری چلائی چاہئے اگر کسی دوسرے کی طرف سے قربانی اور اپنے ہاتھ سے ذبح نہ کر رہا ہو تو اس کا ذبح کرتے وقت جانور کے پاس کھڑا ہونا چاہئے۔ ایسے ہی اگر عورت کی طرف سے قربانی ہے تو اس ذبح کے وقت جانور کے پاس کھڑا ہونا چاہیے۔

۴۔ **قربانی کی دعا:** ذبح کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھنی چاہیے: **إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَلَى مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ لَكَ وَمِنْكَ۔** (مشکوٰۃ شریف) پھر بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ کہہ کر ذبح کرنا چاہیے اور ذبح کرنے کے بعد یہ دعا پڑھنی چاہیے: **اللَّهُمَّ تَقَبَّلْهُ مِنِّي كَمَا تَقَبَّلْتَ مِنْ حَبِيبِكَ مُحَمَّدٍ وَخَلِيلِكَ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ۔**

۵۔ **قربانی کے گوشت کے استعمال:** گوشت کو استعمال میں لانے کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ قربانی کا گوشت جس علاقہ میں زیادہ ہو اور وہاں کھانے والے کم ہوں تو وہاں جتنا گوشت استعمال میں لانا ہو لائیں۔ باقی گوشت کو کسی طریقے سے محفوظ کر کے بعد میں استعمال میں لایا جائے جیسا کہ حج کے موقع پر ہوتا ہے۔

گوشت کو استعمال میں لانے کی دوسری صورت یہ ہے کہ زیادہ تر علاقے ایسے ہیں جہاں قربانی کرنے والے کم ہوتے ہیں اور گوشت استعمال کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ وہاں قربانی کے گوشت کے تین حصے کیے جائیں ان سے ایک حصہ اپنے لیے ایک حصہ عزیزو اقارب کے لیے اور بقایا تیسرا حصہ حقداروں تقسیم کیا جائے لیکن قربانی کے گوشت کو ہرگز فروخت نہیں کیا جاسکتا۔ بلکہ فروخت کرنا حرام ہے اور ذبح کرنے والے کو اجرت میں گوشت یا کھال دینا جائز نہیں۔ اگر گھر کے افراد بہت زیادہ ہوں تو قربانی کے گوشت کے ایک تہائی سے زیادہ بھی اپنے استعمال میں لایا جاسکتا ہے۔

۶۔ **قربانی کے جرم کا مصرف:** قربانی کی کھال کسی محتاج مسکین، یتیم یا فقیر کو دینی چاہیے لیکن اس چمڑے کی مصلی بنا لینا یا کسی اور ذاتی استعمال میں لانا بھی درست ہے البتہ فروخت کر کے اس کی رقم اپنے خرچہ میں لانا جائز نہیں اور نہ ہی کسی امام مسجد کو جو کھاتا پیتا ہو دینا

جائز ہے البتہ قربانی کی کھال کسی مدرسے کے کسی نادار طالب علم کو دینا بہت ہی بہتر ہے لیکن اس سے ملازمین کی تنخواہیں دینا جائز نہیں۔ اور نہ ہی کسی سیاسی جماعت کو سیاست کے لیے کھال دینا درست ہے چرم کا بہترین مصرف تو کسی اللہ والے کے ذریعہ کسی نیک کام میں استعمال کر دینا ہے۔ لیکن کسی اسلامی فلاحی ادارہ کو بھی قربانی کا چرم دینا نہایت ہی اچھا مصرف ہے۔

۷۔ **کسی کی طرف سے قربانی کرنا:** دنیا سے گزرے ہوئے بزرگوں کی طرف سے بھی قربانی دی جاسکتی ہے یعنی اگر ماں باپ یا کوئی اور رشتہ دار دنیا سے چلے گئے ہوں تو صاحب ثروت کو اس کی طرف سے بھی قربانی کرنی چاہیے لیکن اہل دل کا شیوہ ہے کہ رسول اکرم ﷺ کی طرف سے قربانی کرنے کو زیادہ پسند فرماتے ہیں کیونکہ ایسی نیاز مندی انتہائی خوش نصیبی کی بات ہے۔

۱۲۔ قربانی کے جانوروں کے مسائل

قربانی کے جانوروں کے بارے میں رسول اکرم ﷺ کی بے شمار احادیث ہیں۔ جن کے مطابق اونٹ اونٹنی، گائے، بیل، بھینس، بھیڑ، بکرا، بکری، دنبہ، قربانی کے جانور ہیں ان کے علاوہ کسی اور جانور کی قربانی جائز نہیں۔ یہ جانور جن علاقوں میں زیادہ پائے جاتے ہیں ان کے ہاں اس جانور کی قربانی دینا سہولت کے قریب تر ہے مثلاً پاک و ہند میں بکرا دنبہ عموماً گائے یا اونٹ سے سستا اور آسانی سے مل جاتا ہے لہذا یہاں ایسے جانوروں کی قربانی آسانی سے دی جاسکتی ہے اس جن علاقوں میں اونٹ زیادہ ہوں وہاں اونٹ کی قربانی دینا بہتر ہے۔ بہر کیف مقصد یہ ہے کہ رسول کریم ﷺ نے مختلف اوقات میں عید قربانی کے موقع پر اونٹ، گائے اور بکروں کی قربانی کی۔ قربانی کے جانوروں کے مسائل مندرجہ ذیل ہیں:

۱۔ **بکری اور دنبہ کی قربانی:** دنبہ، بکرا، بکری یا بھیڑ وغیرہ کی قربانی صرف ایک ہی آدمی کی طرف سے ہوگی ایک سے زائد حصہ دار اس میں شامل نہیں ہو سکتے۔

۲۔ **گائے اور اونٹ کی قربانی:** گائے اور اونٹ کی قربانی میں سات آدمی حصہ لے سکتے ہیں جس کا ثبوت رسول اکرم ﷺ کی حدیث سے ملتا ہے جو حضرت جابرؓ سے مروی ہے انھوں نے فرمایا کہ حدیبیہ کے سال ہم نے رسول اکرم ﷺ کے ساتھ اونٹ سات آدمیوں کی طرف سے اور گائے بھی سات آدمیوں کی طرف سے قربان کیے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کسی کا حصہ بھی ساتویں حصہ سے کم ہوگا تو کسی کی قربانی درست نہ ہوگی البتہ ایسے ہو

سکتا ہے کہ کوئی دو یا تین یا چار یا کم و بیش حصے لے مگر اس میں بھی شرط ضرور ہے کہ کسی کا حصہ بھی ماقویں حصہ سے کم نہ ہو ورنہ قربانی نہ ہوگی۔

۳۔ **جانوروں کی عمریں:** قربانی کے جانوروں کی عمریں جو فقہی لحاظ سے ہونی چاہیں وہ یہ ہیں کہ بکرا، بکری، دنبہ، بھیڑ سال بھر کی ہونی چاہیے۔ گائے، بھینس کی عمر دو سال ہونی چاہیے۔ اونٹ کی عمر پانچ سال ہونی چاہیے۔ اس کے کم عمر کے جانوروں کی قربانی درست نہیں۔

۴۔ **سینگوں کا مسئلہ:** جس جانور کے سینگ آدھے سے زیادہ ٹوٹ جائیں۔ اس کی قربانی جائز نہیں البتہ جس جانور کے سینگ پیدائشی طور پر نہ ہوں یا تھوڑا سا ٹوٹ جائے تو اس کی قربانی جائز ہے۔

۵۔ **جانوروں کا جسمانی نقص:** سنن ابن ماجہ میں ہے کہ چار قسم کے جانوروں کی قربانی جائز نہیں۔ آیت کا نا جس کا کا نا پن ظاہر ہو۔ دوسرا بیمار جس کی بیماری ظاہر ہو۔ تیسرا التلذاز جس کا لتلذاز پن ظاہر ہو۔ چوتھا وہ جو اتنا کمزور ہو کہ اس کی ہڈیوں پر گوشت نظر نہ آئے یعنی لاغر ہو۔

۶۔ **کان یا دم کا کٹا ہونا:** وہ جانور جس کا کان آگے یا پیچھے سے کٹا یا پھٹا ہو یا اس کا کوئی عضو کٹا ہو یا سب اعضا کٹے ہوں یا دم ایک تہائی سے زیادہ کٹی ہو تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں۔

۷۔ **خصی بکرے یا دنبے کی قربانی:** خصی بکرے یا دنبے کی قربانی جائز ہے کیونکہ خصی ہونا عیب نہیں بلکہ جانور کو فریبہ کرنے کا ایک سبب ہے۔ نبی کریم ﷺ نے خصی دنبے کی قربانی کی۔

۱۳۔ وراثت

وراثت سے مراد وہ جائیداد ہے جو مرنے والا چھوڑ جاتا ہے اسے ترکہ بھی کہا جاتا ہے ترکہ واصل وہ مال ہوتا ہے جو مرنے والا زندگی میں کھا کر چھوڑا جاتا ہے یا جو مال اسے آباؤ اجداد سے ملا ہو وہ بھی وراثت میں شامل ہو جاتا ہے۔ وارث سے مراد ہر وہ شخص ہے جو میت کی موت سے پہلے زندہ ہو یا حمل میں ہو۔ اسلام میں ترکہ کی صحیح ورثاء میں تقسیم کرنے پر بہت زور دیا گیا ہے۔

علم الفرائض: شریعت میں وراثت تقسیم کرنے کے علم کو علم الفرائض کہا جاتا ہے یعنی علم فرائض یا علم میراث وہ علم ہے جس کے ذریعے کسی میت کی متروکہ جائیداد اس کے ورثاء میں صحیح

طور پر تقسیم کی جاتی ہے اس کے تین ارکان ہیں۔ وارث، مورث، موروث۔ اس علم کو علم الفرائض اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میراث کے حصے کو بذات خود مقرر فرمایا ہے اس لیے وراثت کو فرائض اور اس کے علم کو علم الفرائض کہا گیا ہے۔ وہ ورثا کے حصے قرآن پاک میں ہیں۔ ان کو اصحاب فروض کہتے ہیں چونکہ اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے اس لیے نبی کریم ﷺ نے اس علم کی فضیلت بیان فرمائی اس سلسلے میں حسب ذیل ارشادات نبویہ ملاحظہ ہوں۔

۱- حدیث: ابن ماجہ، دارقطنی اور حاکم نے حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَالْقُرْآنَ وَعَلِمُوا النَّاسَ یعنی فرائض اور قرآن کا علم سیکھو اور لوگوں کو سیکھاؤ۔

۲- حدیث: ابن ماجہ و دارقطنی ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ علم فرائض سیکھو اور لوگوں کو سیکھاؤ کیونکہ علم فرائض نصف علم ہے۔

چنانچہ فضیلت مذکورہ سے واضح ہے کہ علم دین کے مختلف شعبوں میں علم فرائض ایک امتیازی شان رکھتا ہے۔ اس لیے شریعت مطہرہ نے اس کا بڑا اہتمام فرمایا ”رب کائنات نے قرآن کریم میں اس کے اصولی احکام بالصراحت بیان فرمائے“ نبی اکرم ﷺ نے وراثت سے متعلقہ قرآنی اصولوں کی وضاحت فرمائی نیز امت کو اس علم کے سیکھنے اور سیکھانے کا حکم فرمایا۔ چنانچہ صحابہ کرامؓ نے اس علم کو سیکھا اور دوسروں کو بھی سیکھایا۔ ائمہ مجتہدینؒ نے اس علم کے قواعد و ضوابط، اصول و فروع اجمالاً و تفصیلات قرآن و حدیث کے مطابق بیان فرمائے۔

۱۴۔ اصول وراثت

جب کوئی مر جائے تو اس کے مرنے کے بعد میت کے مال میں سے چار حقوق کو ترتیب سے ادا کیا جائے سب سے پہلے اس کے مال میں سے اس کے کفن دفن میں اس کی حیثیت کے مطابق خرچ کیا جائے۔ کفن میں نہ فضول خرچی کی جائے نہ کنجوسی سے کام لیا جائے بلکہ خرچ درمیانہ درجہ کا ہو۔ اس کے بعد اگر وہ قرضدار ہے تو اس کا سارا قرض ادا کیا جائے۔ اس کے بعد اگر اس نے وصیت کی ہے تو اس کی تہائی مال اس کی وصیت کے مطابق وصیت والوں کو دیا جائے۔ تجہیز و تکفین، قرض اور وصیت میں مال خرچ کر دینے کے بعد جو مال باقی بچے گا ان وارثوں کو ملایا جائے گا جن کا حق کتاب و سنت اور اجماع سے ثابت ہے۔ وراثت کو تقسیم کرنے کے مندرجہ ذیل اصولوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔

۱۔ قبل از موت جائیداد میں تصرف کا حق: ہر شخص مرنے سے

پہلے تندرستی کی حالت میں اپنی جائیداد میں اس حد تک تصرف کر سکتا ہے۔ جس سے ورثہ کی ناجائز طور پر حق قلعی نہ ہو۔ اس میں اسے عدل و انصاف کے شرعی تقاضوں کی پیش نظر رکھنا ہوگا۔

مثلاً ایک شخص کے چند بیٹے ہیں۔ ان میں سے ایک کے سوا سب خوشحال اور مالدار ہیں تو اگر وہ اپنے مفلس بیٹے کو جو مداد کا کچھ حصہ زندگی ہی میں بہہ کر دے تو یہ ناپسندیدہ امر نہیں۔ یا ایک شخص کی زرینہ اور زاد میں بعض نر کے فاسق و فاجر بدم کردار اور وادین کے سخت بے ادب و ستاخ ہیں اور ان کے بے میں نہیں۔ جبکہ ایک فرزند نہایت مودب، مطیع و فرمانبردار اور نیک چمن ہے تو شرعی طور پر اس میں کوئی کراہت نہیں کہ مذکور شخص اپنے فرمانبردار بیٹے کو اپنی ملکہ مداد کا کچھ حصہ دیدے۔ یا ایک شخص کو خدشہ ہے کہ اس کے ورثہ اکثر ظالم طبع کے لوگ ہیں اور اس کے مرنے کے بعد ورثہ اس کی بیوی کو اس کا حصہ نہیں دیں گے تو وہ زندگی ہی میں بیوی کے نام کچھ جائیداد منتقل کر سکتا ہے۔ اس کے لیے ایسا کرنا ناجائز نہیں۔

۲۔ لاپتہ کی وراثت: مذہب حنفی کے مطابق جو شخص مفقود الخیر (لاپتہ) ہو جائے

اور اس کی زندگی موت کا صحیح پتہ نہ چلے تو اس کی جائیداد کو تخمیناً اس کی تاریخ پیدائش سے ۹۰ سال کی عمر تک رکھا جائے گا۔ اگر اس عرصے میں اس کی خبر نہ ملے تو اسے مردہ تصور کر لیا جائے اور ورثہ اس کی جائیداد کو تقسیم کر دیا جائے۔ اسی طرح اگر اور کسی مورث کی وراثت میں مفقود الخیر کا حصہ ہو تو اس حصے کو مذکورہ بالا مدت تک اتنا شمار رکھ لیا جائے۔ اگر وہ نہ آئے تو اسے مردہ تصور کر کے اس کچھ حصے کو اس کے ترکہ میں شامل کر کے ورثہ میں تقسیم کر دیا جائے۔

۳۔ حمل شدہ بچے کی وراثت: ورثہ میں سے اگر کوئی بچہ بچی حمل میں تو بہتر

یہ ہے کہ اس کے پیدا ہونے تک ترکہ تقسیم نہ کیا جائے۔ اگر پہلے کرنا بھی ہو تو جنین کو بچہ فرض کرتے ہوئے اس کا ترکہ میں حصہ بطور امانت رکھ دیا جائے۔ اگر بچہ کی بجائے بچی ہو تو اس کا حصہ اسے دے کر باقی حصہ وارثوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔

۴۔ قضا نماز روزہ کا فدیہ: اگر مورث نے وصیت کی ہو کہ اس کے ترکہ میں

سے اس کی قضا شدہ نمازوں اور روزوں کا فدیہ ادا کیا جائے تو وارثوں پر اس کی وصیت کا نفاذ واجب ہوگا۔ بشرطیکہ ترکہ کے ایک تہائی سے زیادہ حصہ اس کی زد میں آجائے۔

۵۔ مضت یا ہیبت کی وراثت: اگر وارثوں میں کوئی بیچارہ ہو تو وراثت

میں اس کا حصہ اس اصول کے تحت مقرر کیا جائے گا کہ اگر اس میں مردانہ صفات پائی جاتی ہیں تو

اس مرد تصور کیا جائے گا اور اگر زنانہ صفات پائی جاتی ہوں تو عورت تصور کیا جائے گا۔ اگر دونوں صفات برابر ہوں جسے خنثی مشکل کہتے ہیں تو جس صورت میں اسے خسارہ رہے۔ تقسیم وراثت میں وہی صورت اختیار کی جائے گی۔

۶۔ تقسیم وراثت میں وارثوں کے درمیان معاہدہ: تقسیم وراثت کے سلسلے میں وراثت ایک دوسرے کے ساتھ باہمی رضامندی سے معاہدہ کر سکتے ہیں مثلاً ایک وراثت نے اس شرط پر اپنا حق چھوڑ دیا کہ اسے وراثت میں سے کوئی مخصوص چیز دے دی جائے۔ ایسا کرنا شرعاً جائز ہے۔

۷۔ موت کی پنشن یا وظیفہ: پنشن یا وظیفہ کی وہ رقم جو متوفی کی موت کے بعد وصول ہوئی اور سرکاری کاغذات میں متوفی کے علاوہ اور کسی کا نام نہ ہو تو اس رقم کی بھی ترکہ ہی شامل کر کے تقسیم کر دیا جائے گا اور اگر کاغذات میں متوفی کی بیوی یا اس کے بچوں یا اور کسی کا نام ہے تو اس رقم کے وہی حقدار ہوں گے۔ ترکہ میں شامل نہیں کی جائے گی۔

۸۔ قاتل مقتول کا وارث نہیں ہو سکتا: قتل کرنا جس سے قصاص یا کفارہ واجب ہو یعنی اگر کسی نے قتل کر دیا ہو تو اگرچہ وہ رشتہ کی وجہ سے وراثت کا حقدار ہو لیکن اس قتل کی وجہ سے وراثت سے محروم ہو جائے گا۔

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ قاتل میراث نہیں پاتا۔ (ابن ماجہ)

۹۔ کافر مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا: کافر مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا اور ایسے ہی مسلمان کافر کا وارث نہیں ہو سکتا۔ اور نہ ہی کوئی مرتد مسلمان مرد یا عورت کے وارث بن سکتے ہیں۔ البتہ کافر دوسرے کافر کا (اگرچہ دوسرے مذہب کا ہو) کا وارث ہو سکتا ہے۔ چنانچہ عیسائی، یہودی، مجوسی ایک دوسرے کے وارث ہو سکتے ہیں۔

حضرت اسام بن زید سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مسلمان کفار کا وارث نہیں ہوتا اور نہ کفار مسلمان کا۔ (بخاری)

۱۰۔ حرامی بچہ محروم وراثت ہے: حرامی بچہ کسی کی جائیداد کا وارث نہیں ہوتا۔ حضرت عمرو بن شعیبؓ کے والد ماجد نے ان کے جد امجد سے روایت کہ ہے کہ نبی کریمؐ نے فرمایا۔ جس نے کسی آزاد عورت یا لونڈی سے بدکاری کی تو وہ بچہ حرامی ہے لہذا یہ بچہ اس کا وارث اور نہ یہ اس بچے کا وارث۔ (ترمذی شریف)

۱۱۔ **قربت وراثت کا موجب ہے:** کسی کا وارث بننے کے لیے قربت کے درجے کو مد نظر رکھا جائے گا۔

حضرت تمیم داریؓ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہؐ سے پوچھا کہ مشرکوں میں سے اس شخص کے بارے میں کیا سنت ہے جس نے کسی مسلمان کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا ہو؟ فرمایا کہ اس کی زندگی اور موت میں وہ لوگوں کی نسبت زیادہ قریب ہے۔ (ترمذی، ابن ماجہ، داری)

۱۵۔ احادیث وراثت

جن احادیث میں حضور ﷺ نے تقسیم کے احکام فرمائے ہیں وہ حسب ذیل ہیں:

۱۔ **حدیث:** حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا کہ وہ دادی جس کو اس کے بیٹے کے ساتھ پہلے پہل رسول اللہ ﷺ نے چھٹا حصہ دلویا، اس کے بیٹے کے ساتھ جبکہ اس کا بیٹا زندہ تھا۔ (ترمذی، داری)

۲۔ **حدیث:** حضرت ضماک بن سفیانؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ان کی طرف لکھا کہ اشم ضیابی کی بیوی کو اس کے خاوند کی میراث دلائی جائے۔ (ترمذی)

۳۔ **حدیث:** حضرت عبداللہ بن عمروؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مختلف دین رکھنے والے ایک درسرے کے وراثت نہیں ہوتے۔ (ابوداؤد، ابن ماجہ)

۴۔ **حدیث:** حضرت عمرو بن شعیبؓ کے والد ماجد نے ان کے جد امجد سے روایت کی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا۔ ولاء کا وارث وہی ہے جو مال کا وارث ہے۔ (ترمذی)

۵۔ **حدیث:** حضرت ابریدہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے وادی اور نانی کا چھٹا حصہ مقرر فرمایا جبکہ میت کی ماں زندہ ہو۔ (ابوداؤد)

۶۔ **حدیث:** حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”مقررہ یہ اث اس کے حصہ داروں کو دو اور جو باقی بچے تو وہ اس سے زیادہ قریب مرد کے لیے ہے۔“ (بخاری)

۷۔ **حدیث:** حضرت بریدہ کا بیان ہے کہ خزاعہ سے ایک آدمی فوت ہو گیا تو اس کی میراث نبی کریم ﷺ کے پاس لائی گئی۔ فرمایا کہ اس کا کوئی وارث یا ذی رحم تلاش کرو۔ چنانچہ اس کا وارث اور ذی رحم کوئی نہ ملا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ خزاعہ کے سردار کو دے دو۔ (ابوداؤد)

۸۔ **حدیث:** حضرت عمر ابن بن حصینؓ کا بیان ہے کہ آدمی رسول اللہ ﷺ کی بارگاہ میں

حاضر ہو کر عرض گزار ہوا کہ میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے اس کی میاں سے میرا کتنا حصہ ہے؟ فرمایا کہ "تمہارا چھٹا حصہ ہے" جب واپس لوٹنے لگا تو اس کو بلا کر فرمایا تمہارے لئے چھٹا حصہ اور ہے۔ جب پینچ پھری تو بلا کر فرمایا۔ دوسرا حصہ عصب کے طور پر ہے (امام ترمذی ابو داؤد)۔

۹- حدیث: حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ ایک شخص فوت ہو گیا اور وارث بونی نہ چھوڑا سوائے ایک غلام کے جس کو اس نے آزاد کر دیا تھا۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ کیا اس کا کوئی ہے؟ لوگ عرض گزار ہوئے کہ نہیں سوائے ایک غلام کے جس کو اس نے آزاد کر دیا تھا۔ پس نبی کریم نے اس کی میراث اس غلام کو دے دی۔ (ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ)

۱۰- حدیث: حضرت مقدمؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہر مسلمان سے اس کی جان کی نسبت زیادہ قریب ہوں۔ پس جو قرض یا مال بچے چھوڑے وہ ہماری ذمہ داری ہے اور جو مال چھوڑے وہ اس کے وارثوں کا ہے اور میں اس کا والی ہوں جس کا کوئی والی نہ ہو۔ اس کے مال کا وارث ہوں گا۔ اور اس کے قیدی کو چھڑاؤں گا اور ماموں کا وارث ہے جس کا کوئی وارث نہ ہو۔ اس کے مال کا وارث ہوگا۔ اور اس کے قیدی چھڑائے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ میں اس کا وارث ہوں جس کا کوئی وارث نہ ہو۔ اس کی طرف سے دیت ادا کروں گا اور اس کی میراث لوں گا۔ ماموں اس کا وارث ہے جس کا کوئی وارث نہ ہو۔ اس کی طرف سے دیت دیگا اور میراث لے گا۔ (ابو داؤد)

۱۱- حدیث: حضرت ہزیر بن شریل کا بیان ہے کہ حضرت ابو موسیٰ سے جینی پوتی اور بہن کے متعلق پوچھا گیا تو فرمایا کہ نصف بیٹی کے لیے اور نصف بہن کے لیے ہے۔ تم حضرت ابن مسعودؓ کے پاس جاؤ۔ وہ میری مطابقت ہی کریں گے حضرت ابن مسعودؓ سے پوچھا اور حضرت ابو موسیٰؓ کا جواب بتایا گیا تو کہا تب تو میں بھٹک جاؤں گا اور راستہ پانے والوں سے نہ رہوں گا۔ میں اس کا وہی فیصلہ کروں گا جو نبی کریم ﷺ نے کیا۔ جینی کا آدھا حصہ اور پوتی کا چھٹا حصہ ہے دو تہائی پورا کرنے کو اور جو باقی بچے وہ بہن کا ہے۔ پس میں حضرت ابو موسیٰؓ کے پاس آیا اور انھیں حضرت ابن مسعودؓ کا فیصلہ بتایا۔ فرمایا کہ جب تک یہ جید عالم تم میں موجود ہیں مجھ سے نہ پوچھا کرو۔ (بخاری)

۱۲- حدیث: حضرت قبیصہ بن ذویب کا بیان ہے کہ ایک داوی یا تانی حضرت ابو بکرؓ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اپنی میراث کا سوال کیا۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارے لیے اللہ کی کتاب میں کچھ نہیں ہے اور رسول اللہ ﷺ کی سنت میں بھی تمہارے لیے کچھ نہیں ہے۔ تم

جاؤ تا کہ میں لوگوں سے مزید دریافت کر لوں۔ پس آپؐ نے پوچھا تو حضرت مغیرہ بن شعبہؓ نے کہا کہ میری موجودگی میں رسول اللہ ﷺ نے اسے چھٹا حصہ دیا۔ حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا۔ کیا آپؐ کے ساتھ دوسرا تھا؟ حضرت محمد بن مسلمہ نے بھی اس طرح کہا جو حضرت مغیرہ نے کہا تھا۔ حضرت ابو بکرؓ نے اس کے لیے حکم صادر فرمایا پھر دوسری دادی یا نانی حضرت عمرؓ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اپنی میراث کا سوال کیا۔ فرمایا کہ وہی چھٹا حصہ ہے اور اگر تم دونوں (دادی اور نانی) جمع ہو جائے تو تم دونوں کا ہے اور ان میں سے جو اکیلی ہو تو اس کا ہے۔ (مالک احمد ترمذی داری)

۱۳- حدیث: حضرت جابرؓ نے فرمایا کہ حضرت سعد بن ربیع کی اہلیہ محترمہ حضرت سعد والی اپنی دونوں بیٹیوں کو لے کر رسول اللہ ﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں اور عرض کی یا رسول اللہ! یہ دونوں حضرت سعد بن ربیع کی بیٹیاں ہیں۔ ان کے والد ماجد حضورؐ کا ساتھ دیتے ہوئے غزوہ احد میں شریک ہو کر شہید ہو گئے تھے۔ ان کے چچا نے ان کا مال لے لیا اور ان کیلئے ذرا مال نہیں چھوڑا۔ اور ان کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ جب تک ان کے پاس مال نہ ہو۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ فرمائے گا۔ چنانچہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ ﷺ نے ان کے چچا کو بلوا کر فرمایا کہ سعد کی دونوں بیٹیوں کو دو تہائی مال دو اور آٹھواں حصہ ان کی والدہ کو۔ جو باقی بچے وہ تمہارا ہے۔ (احمد ترمذی ابوداؤد ابن ماجہ)

۱۴- حدیث: حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا ایک آزاد غلام فوت ہو گیا۔ جس نے کچھ مال چھوڑا۔ لیکن اس کا قرابت دار کوئی نہ تھا اور نہ اولاد تھی۔ چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اس کی میراث اس کے گاؤں والوں میں سے کسی شخص کو دے دو۔ (ترمذی شریف ابوداؤد)

۱۵- حدیث: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا ”میں مسلمانوں سے ان کی جانوں کی نسبت زیادہ قریب ہوں۔ پس جو فوت ہو جائے اور اس پر قرض ہو جس کے برابر وہ مال نہ چھوڑے تو اس کا ادا کرنا میری ذمہ داری ہے اور جو اس نے مال چھوڑا وہ اس کے وارثوں کے لیے ہے۔“

دوسری روایت میں ہے کہ جس نے قرض چھوڑا یا مال بچے تو وہ میرے پاس آئیں کیونکہ ان کا سر پرست میں ہوں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جس نے مال چھوڑا وہ اس کے وارثوں کا ہے اور جس نے بوجھ چھوڑا وہ ہم پر ہے۔ (مشکوٰۃ)

۱۶۔ وراثت کے شرعی حصے

وراثت میں حصہ پانے کے لحاظ سے ورثا تین قسم کے ہیں۔

(۱) اصحاب فروض (۲) عصبات (۳) ذوی الارحام۔

اصحاب فروض وہ ہیں جن کے حصے شریعت مطہرہ نے مقرر کر دیے ہیں۔ عصبات وہ قریبی لوگ ہوتے ہیں جو نسبی قرابت کی وجہ سے میراث سے حصہ پاتے ہیں۔ ذوی الارحام وہ قرابت دار ہیں جن کا نہ کوئی حصہ مقرر ہے اور نہ وہ قرابت نسبی کی بنا پر عصبات میں داخل ہیں خواہ یہ خود عورت ہو یا کسی عورت کے ذریعے سے میت سے تعلق ہو۔

قرآن مجید میں چھ حصے مقرر ہیں جن کو ذوی الفروض کہتے ہیں۔ ان کی دو قسمیں ہیں ایک میں نصف (آدھا) ربع (چوتھائی) ثمن (آٹھواں) ہے۔ دوسرے میں ثلثان (دو تہائی) ثلث (ایک تہائی) سدس (چھٹا) ہے۔

۱۷۔ اصحاب فروض کے حصے

اصحاب فروض بارہ ہیں جن میں چار مرد ہیں۔ باپ، دادا، اخیانی بھائی، خاوند اور آٹھ عورتیں ہیں۔ بیٹی، پوتی، سگی بہن، سوتیلی بہن، اخیانی بہن، ماں، دادی، بیوی۔ ان ورثاء کے حصوں کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے:

۱۔ باپ کا حصہ: اگر میت نے سوائے باپ کے اور کوئی وارث نہ چھوڑا ہو تو باپ کو کل جائداد ملے گی اور اگر اولاد چھوڑی ہو مثلاً بیٹے، بیٹیاں اور پوتے پوتیاں تو باپ کو ملے گا۔ اس لحاظ سے باپ کے حصے کی تین صورتیں ہو گئیں۔

پہلی صورت میں تو باپ کو فرض مطلق ہی ملے گا یعنی میت کے ترکہ کا چھٹا حصہ ہی ملے گا۔ جبکہ اس کے ساتھ میت کا بیٹا یا پوتیا یا پڑپوتا ہو اور اولاد کا اطلاق بیٹے پوتے اور اس سلسلے کی نیچے کڑی پر ہوتا ہے یعنی اگر میت کا بیٹا نہیں ہے تو بیٹے کی جگہ پوتا ہوگا اور اگر پوتا نہیں ہے تو پڑپوتا ہوگا۔ اسی طرح آخر تک۔

دوسری صورت میں چھٹا حصہ بھی ملتا ہے اور ذوی الفروض کو دینے کے بعد جو کچھ بچ جائے وہ بھی اسے مل جاتا ہے جبکہ میت نے نرنیہ اولاد نہ چھوڑی یعنی کسی درجہ میں بھی۔ بلکہ بیٹی یا پوتی یا پڑپوتی چھوڑ کر مرا ہو۔ ایسی حالت میں وہ ذوی الفروض میں بھی ہے اور عصبات میں بھی۔ لہذا اپنا مقررہ چھٹا حصہ بھی پائے گا اور باقی ماندہ مال بھی۔

تیسری صورت میں ذوی الفروض کو دینے کے بعد جو کچھ مال باقی بچے وہ سب باپ کو مل جائے گا اگر مرنے والے نے نہ کوئی بیٹی چھوڑی نہ بیٹا نہ پوتا نہ پڑپوتا۔ اس صورت میں باپ کا کوئی حصہ مقرر نہیں۔ یہ صرف عصبہ ہی عصبہ ہے اور تمام مال کا مستحق۔

۲۔ دادا کا حصہ: میت کے باپ کی موجودگی میں دادا کوئی حصہ اپنے پوتے کے مال متروکہ میں نہیں۔ وہ بالکل محروم رہتا ہے کیونکہ باپ اپنے بیٹے سے بمقابلہ دادا زیادہ قریب ہے اور جب باپ موجود نہ ہو تو دادا کے بعینہ وہی احوال ہیں جو باپ کے ہیں۔ کبھی وہ باپ کا قائم مقام ہو کر چھٹا حصہ پائے گا۔ کبھی وہ ذوی الفروض اور عصبہ دونوں صورتوں میں سامنے آئے گا اور اپنا حق وصول کرے گا۔ اور کبھی صرف عصبہ بن کر مال پر قبضہ کرے گا۔

۳۔ ماں کی طرف سے بھائی کا حصہ: بھائی بہن تین طرح کے ہوتے ہیں۔ یعنی حقیقی یعنی ماں باپ دونوں میں شریک ہیں اور سگے کہلاتے ہیں۔ علاقائی کہ باپ میں شریک ہیں ماںیں جدا۔ اور اخیانی کہ صرف ماں میں شریک ہیں باپ دونوں کے جدا۔ اور ان دونوں کو عرف عوام میں سوتیلے کہا جاتا ہے۔ حقیقی اور علاقائی بھائیوں کا شمار عصبات میں ہے۔ البتہ اخیانی بھائی اور بہن ذوی الفروض میں داخل ہیں۔ عصبات میں اس کا شمار نہیں۔ کیونکہ عصبہ نسبی وہی ہے جو باپ کی طرف سے میت علاقہ رکھتا ہو۔

(الف) اگر ایک بھائی یا ایک بہن ہو تو چھٹا حصہ ملے گا۔

(ب) اور اگر اخیانی بھائی بہن ہوں یا دو سے زیادہ تو ان کا ایک تہائی ہے۔ اس ثلث مال کو یہ لوگ آپس میں برابر برابر تقسیم کر لیں گے اور یہ خصوصیت صرف اخیانی بہن بھائی کی ہے کہ مرد و عورت کا حصہ برابر ہے ورنہ دوسرے مقامات پر وہی قانون نافذ ہے۔ کہ لڑکے کا دہرا لڑکی کا کہرا۔

(ج) میت کا باپ یا دادا اور بیٹا پوتا یا بیٹی پوتی موجود ہو تو اخیانی بھائی محروم ہونگے اس لیے کہ ان کا شمار کلالہ میں ہے اور کلالہ کی میراث میں ولد اور والد کا نہ ہونا شرط ہے۔ لہذا اس صورت میں اخیانی بھائی بہن وارث نہیں ہوں گے۔

۴۔ شوہر کا حصہ: میت اگر شادی شدہ عورت ہو اور اس کا شوہر ابھی زندہ موجود

ہو جس کے نکاح میں یہ بوقت مرگ تھی تو اپنی زوجہ کی میراث میں شوہر کی دو حالتیں ہیں:-

دوسری یہ کہ اگر زوجہ کے کوئی اولاد بیٹا بیٹی یا پوتا پوتی ہو تو شوہر کو کل مال میں سے چوتھائی حصہ ملے گا۔ اور یہ ضروری نہیں کہ مرنے والی کی اولاد اسی شوہر سے ہو۔ اگر اس عورت کی

پہلے شوہر سے بھی اولاد موجود ہے یا دونوں کی اولاد موجود ہے تو شوہر کا حصہ نصف سے کم ہو کر وہی ربح رہ جائے گا۔ یہ بات خوب ذہن نشین رکھیں اور دھوکہ نہ کھائیں۔ لوگ غلط فہمی میں مبتلا وہ کر خواہ مخواہ مغالطہ میں ڈال دیتے ہیں۔

۵۔ بیوی کا حصہ: جس طرح شوہر کبھی میراث سے محروم نہیں ہوتا یونہی زوجہ بھی محروم نہیں رہ سکتی۔ البتہ سہام میں کمی بیشی ضرور فرق ہے اور اس کی بھی دو حالتیں ہیں:

(الف) کل ترکہ کا ایک ربح (ایک چوتھائی) ملے گا اگر شوہر نے اپنی اولاد بیٹا بیٹی یا اپنی زینہ اولاد کی اولاد مثلاً پوتا پوتی وغیرہ نہ چھوڑے ہوں۔

(ب) کل متروکہ کا ثمن یعنی آٹھواں حصہ زوجہ کو ملے گا اگر شوہر نے اولاد مذکورہ بالا چھوڑی ہو یعنی اپنا بیٹا بیٹی یا پسری اولاد کی بیٹا بیٹی وغیرہ اور نواسا نواسی وغیرہ کی موجودگی میں اس کا حصہ کم نہیں ہوتا۔

۶۔ بیٹی کا حصہ: بیٹی بھی کبھی محروم نہیں ہوتی اس کی میراث کے بھی تین احوال ہیں:

(الف) میت کے ترکہ سے اسے نصف حصہ ملتا ہے اگر صرف ایک بیٹی ہو۔

(ب) مال متروکہ میں سے دوثلث دیا جائے گا۔ اگر بیٹیاں دو ہوں یا دو سے زیادہ۔ دوثلث مال ان میں برابر برابر تقسیم کر دیا جائے گا۔

(ج) کوئی حصہ بیٹی کا مقرر نہیں بلکہ جس قدر بیٹے کو ملے گا اس کا نصف بیٹی کو ملے گا جبکہ اس کے ساتھ میت کا بیٹا بھی موجود ہو۔ خواہ یہ یا وہ ایک ہوں یا دو چار۔ خواہ میت (جبکہ عورت ہو تو اس) کے یہ بیٹے بیٹیاں اول شوہر سے ہوں یا دوسرے تیسرے سے یا دونوں تینوں سے۔ اور میت جبکہ مرد ہو تو یہ اولاد ایک بیوی سے ہو یا دو سے زائد سے۔ قانون یہی ملحوظ رہے گا کہ مرد کو دہرا اور عورت کو کبھرا دیا جائے گا۔

۷۔ پوتی کا حصہ: بیٹے کی لڑکی کو پوتی کہا جاتا ہے لیکن قانون میراث میں پوتے

اور پڑ پوتے کی بیٹی بھی پوتی ہی شمار کی جائے گی۔ اگر بیٹے کی بیٹی موجود نہیں تو پوتے کی بیٹی اور پوتے کی بیٹی بھی زندہ نہ ہو تو پڑ پوتے کی بیٹی یا بیٹیاں اپنے دادا پڑ دادا کی میراث کی مستحق ہیں۔ اس کی چھ صورتیں ہیں۔

(الف) اگر میت کے بیٹا بیٹی موجود نہ ہو صرف ایک پوتی ہو تو اس کو ترکہ میں سے نصف ملے

گا جیسے بیٹی کو ملتا تھا گویا اس صورت میں پوتی بیٹی کے قائم مقام ہوگی۔ اگر پوتی نہ ہو تو پڑ پوتی کا بھی یہی حال ہے۔

(ب) اگر میت کے بیٹا بیٹی موجود نہ ہو دو پوتیاں یا دو سے زیادہ موجود ہوں تو ان کو کل مال میں سے تہائی دیا جائے گا اس صورت میں بھی یہ پوتیاں بیٹیوں کے قائم مقام ہیں اور جس طرح بیٹیاں دوثلث کو باہم تقسیم کر لیتی ہیں۔ اسی طرح یہ بھی کر لیں گی خواہ دو پوتیاں ہوں یا زیادہ ہوں۔ اگر پوتی کوئی نہ ہو تو پڑپوتیوں کا بھی یہی حال ہوگا۔

(پ) اگر میت کے بیٹا بیٹی نہ ہو۔ ایک پوتی یا کئی پوتیاں ہوں اور ان کے ساتھ کوئی پوتا ہو تو جو کچھ ذوی الفروض کے بعد باقی رہے اس کو یہ پوتیاں اور پڑپوتیاں تقسیم کر لیں۔ اس قانون کے ماتحت کہ لڑکے کو دوہرا لڑکی کو کھرا۔ پوتی پڑپوتی کی یہ تین حالتیں بعینہ وہی ہیں جو بیٹی کی تھیں۔ یعنی پوتیاں بیٹیوں کے قائم مقام ہو جاتی ہیں۔

(ج) اگر میت کے بیٹا پوتا پڑپوتا سگد پوتا موجود نہ ہو اور پوتی بھی موجود نہ ہو بلکہ صرف ایک بیٹی اور پڑپوتی ہو تو پڑپوتی کو چھٹا حصہ ملے گا خواہ ایک یا چند ہوں۔

(د) اگر میت کے بیٹا پوتا پڑپوتا ہو دو بیٹیاں یا دو سے زیادہ موجود ہوں تو پڑپوتی بالکل محروم رہے گی۔ اس لیے کہ قرآن کریم نے دوسرے ورثا کے ہوتے بیٹیوں کا زیادہ سے زیادہ دوثلث مقرر کیا ہے اور یہ حصہ بیٹیاں وصول کر لیں گی تو اب ان کے لیے کچھ باقی نہ رہے گا۔ لہذا یہ محروم رہیں گی۔ جبکہ بیٹی ایک ہو تو اسے نصف ترکردے کر سدس پوتی پڑپوتی کو دیدیں گے تاکہ دوثلث حصہ وپورا ہو جائے۔

(د) اگر میت کے بیٹا موجود ہے تو پوتیاں پڑپوتیاں سب محروم رہیں گی۔ خواہ یہ ان پوتیوں پڑپوتیوں کا باپ ہو یا میت کا دوسرا بیٹا۔ بہر حال پوتی پڑپوتی ساقط یعنی محروم وراثت رہیں گی۔ برخلاف میت کی بیٹی کے کہ وہ ذوی الفروض میں ہے۔ اس کا مقررہ حصہ کوئی نہیں چھین سکتا۔

۸۔ حقیقی بہن کا حصہ: حقیقی یعنی سگی بہن کی میراث میں پانچ حالتیں ہیں:

(الف) اگر میت کے کوئی بیٹا بیٹی پوتا پوتی پڑپوتا پڑپوتی نہ ہو اور ایک ہمشیرہ ہو تو اس کو میت کے کل ترکہ میں سے نصف ملے گا۔

(ب) اگر میت کے کوئی بیٹا بیٹی پوتا پوتی پڑپوتا پڑپوتی نہ ہو اور دو یا دو سے زیادہ ہمشیرہ چھوڑی ہوں تو ان سب کو ترکہ میں سے دوثلث ملے گا۔ اس کو باہم تقسیم کر لیں۔

(پ) اگر میت کے حقیقی بھائی (خواہ ایک یا زیادہ) موجود ہوں تو حقیقی بہن ان کے ساتھ مل کر عصبہ ہو جائے گی کہونکہ دونوں میت کے ساتھ برابر کی کا علاقہ رکھتے ہیں اس لیے ذوی

الفروض کو دینے کے بعد جو کچھ باقی رہے اسے یہ بہن بھائی باہم تقسیم کر لیں اور قاعدہ یہاں بھی وہی جاری ہے کہ مرد کو دو ہر عورت کو اکہرا۔

(ج) اگر میت کے بیٹی پوتی پڑپوتی موجود ہو (خواہ ایک یا زیادہ) تو اس صورت میں وہ عصبہ قرار پائے گی اور ذوی الفروض کو دینے کے بعد جو کچھ باقی رہے گا اور اس کی ملکیت میں آئے گا۔ بشرطیکہ میت اپنا بیٹا پوتا پڑپوتا یا باپ دادا پڑدادا نہ چھوڑا ہو۔

(د) اگر میت نے باپ دادا یا بیٹا پوتا پڑپوتا وغیرہ چھوڑا تو اس صورت میں حقیقی بہن کا وراثت میں کوئی حق نہیں۔ وہ محروم رہے گی۔

۹۔ علاقہ بہن یعنی سوتیلی بہن کا حصہ: میت کی سوتیلی بہنیں بھی حقیقی بہنوں کی طرح ہیں اور اس کی سات صورتیں ہیں:

(الف) اگر میت کے کوئی بیٹی پوتی پڑپوتی نہ ہو اور ایک علاقہ ہمشیرہ ہو تو اس کو میت کے ترکہ سے نصف ملے گا۔

(ب) اگر میت کے کوئی بیٹی پوتی پڑپوتی موجود نہ ہو اور دو یا زیادہ علاقہ ہمشیرہ ہوں تو ان سب کو ترکہ سے دوثلث یعنی ملے گا۔ اس کو باہم تقسیم کر لیں۔

(پ) اگر میت نے بیٹی پوتی پڑپوتی چھوڑی (خواہ ایک یا زیادہ) تو اس صورت میں یہ بہن عصبہ قرار پائے گی اور ذوی الفروض کو دینے کے بعد جو کچھ مال متروکہ میت سے باقی رہے گا وہ اس ہمشیرہ کو مل جائے گا۔

ہمشیرہ علاقہ کے یہ تین احوال اس وقت ہیں کہ حقیقی ہمشیرہ موجود ہو کہ اب وہ میت کی حقیقی ہمشیرہ کے قائم مقام ہے ورنہ:

(1)۔ اگر میت کی بیٹی پوتی پڑپوتی موجود نہ ہو بلکہ حقیقی ہمشیرہ موجود ہے تو علاقہ بہن کو صرف ایک سدس ملتا ہے۔ تاکہ دوثلث کی تکمیل ہو جائے۔ اگر ایک ہو گی تو تھا اس سدس کی مالک ہوگی۔ دو یا زیادہ ہوں گی تو سب اس میں شریک ہوں گی۔ علاقہ بہن کی یہ چار حالتیں اس وقت ہیں کہ علاقہ کے ساتھ کوئی علاقہ بھائی موجود نہ ہو ورنہ:

(2)۔ اگر میت کی علاقہ بہنوں کے ساتھ علاقہ بھائی بھی موجود ہوں (خواہ ایک یا زیادہ) تو یہ اپنے علاقہ بھائی کے ساتھ مل کر عصبہ ہو جائیں گی اور ذوی الفروض کا حصہ نکالنے کے بعد جو کچھ باقی رہے گا اسے یہ بہن بھائی باہم تقسیم کر لیں گے مرد کو دو ہر عورت کو اکہرا۔ لیکن یہاں شرط یہ ہے کہ اس علاقہ بہن کا بھائی بھی اس کی مانند ہو یعنی

میت کے ساتھ باپ میں شریک۔ اور اگر میت کا حقیقی بھائی ہوگا تو علاقائی بہنیں بالکل محروم رہ جائیں گی اور اخیانی بھائی کی موجودگی میں علاقائی بھائی نہ خود عصب ہوگا نہ کسی کو اپنے ساتھ عصب بنانے کا جگہ میت کی اولاد کے سامنے تو بالکل محروم رہ جائے گا کہ یہ عصبیات میں ہے اور عصبیات ذوی القروض کے سامنے محروم رہتے ہیں۔

(3) میت کے حقیقی بھائی بہن کی موجودگی میں یا صرف حقیقی دو یا زیادہ ہمشیرہ موجود ہوں اس صورت میں یا ایک حقیقی ہمشیرہ کے ساتھ میت کی بیٹی پوتی وغیرہ کی موجودگی میں علاقائی بہنیں محروم رہتی ہیں۔

(4) اگر میت کے بیٹا پوتا پڑ پوتا۔ یا باپ دادا پڑ دادا وغیرہ موجود ہوں تو علاقائی بہن بالکل محروم رہتی ہے بلکہ حقیقی بہن بھائی وغیرہ بھی۔

۱۔ اخیانی بہن کا حصہ: اخیانی بہن بھائی جو صرف ماں میں شریک ہوں اور

باپ دونوں کے جدا ہوں وہ آپس میں اخیانی کہلاتے ہیں اور یہ دونوں ذوی القروض میں شمار ہوتے ہیں۔ اخیانی بہن کے حصے کی تین صورتیں ہیں

(الف) اگر صرف ایک اخیانی بہن ہو بھائی کوئی نہ ہو تو اسے ترکہ کا چھٹا حصہ ملے گا۔

(ب) اگر اس قسم کی دو بہنیں ہوں یا ایک بہن ایک بھائی یا ایک بھائی یا اس سے زیادہ تو ان سب کو میت کے مال میں سے ایک حصہ ملے گا اور اس میں ایک ٹکٹ میں سب اخیانی بھائی بہن باہم شریک رہیں گے اور سب کو مساوی حصہ سے تقسیم کر لیں گے۔ اخیانی بھائی بہنوں میں مرد اور عورت کے حصہ میں کم و بیش کا لحاظ نہیں ہوتا بلکہ سب کو برابر حصہ ملتا ہے۔

(ج) اگر میت کے بیٹا بیٹی پوتا پوتی وغیرہ ہم میں سے ایک بھی موجود ہو تو اخیانی بہن کو کچھ نہیں ملتا بلکہ محروم رہتی ہے۔ یونہی باپ دادا وغیرہ کی موجودگی میں بھی اس کا کوئی حصہ نہیں۔ وراثت سے ماخذ ہے یعنی محروم وراثت۔

۱۱۔ ماں کا حصہ: مادہ و وسعت یعنی چھٹے حصے سے بھی کم نہیں ملتا اور نہ ہی وہ سے

وراثت کی وجہ سے بھی محروم ہوتی ہے۔ وراثت میں اس کے بھی تین احوال ہیں

(الف) ماں کا ایک حصہ ہے اگر میت کی اولاد یعنی بیٹا یا بیٹی یا بیٹی پوتا پوتی یا

پوتے کی اولاد یعنی پوتا پوتی وغیرہ موجود ہوں۔ یا میت کے دو بھائی بہن موجود ہوں۔ تو وہ یہ

بھائی بہن حقیقی ہوں یا علاقائی یا اخیانی یا تعلقہ طاکہ ولی حقیقی ہے اور کوئی علاقائی یا اخیانی تو بھی

ماں کا چھٹا حصہ ہے

(ب) شوہر یا زوجہ کا حصہ نکالنے کے بعد جو مال باقی بچے اس میں سے ایک ثلث مال کا حق ہے۔ اگر مرد کا انتقال ہوا اور اس کی زوجہ اور باپ دونوں موجود ہوں یا عورت کا انتقال ہوا اور اس کا شوہر اور باپ دونوں موجود ہوں۔

(پ) کل مال مترد کا ایک ثلث مال کا حق ہے جبکہ:

(1)۔ میت کا پوتا پوتی بیٹا بیٹائی پڑ پوتا پڑ پوتی کوئی موجود نہ ہو۔

(2)۔ میت کے دو یا دو سے زیادہ بھائی بہن کسی قسم کے موجود نہ ہوں۔

(3)۔ میت کا شوہر اور باپ دونوں ہی موجود نہ ہوں اگر میت زوجہ ہے اور میت کی

زوجہ اور باپ دونوں اکٹھے موجود نہ ہوں اگر میت شوہر ہے۔

یعنی والدہ کو کل ترکہ میں سے مال ملنے کے لیے یہ تین شرطیں ہیں۔

۱۲۔ دادی اور نانی کا حصہ: جدہ کا اطلاق دادی اور نانی دونوں پر ہوتا ہے۔

عربی میں دادی کو بھی جدہ کہتے ہیں اور نانی کو بھی۔ اس لیے شریعت مطہرہ ان دونوں کی میراث کے احوال بھی یکساں ہیں اور دونوں کا حصہ بھی ایک ہی ہے یعنی سدس۔

پھر دادی سے مراد یہاں صرف باپ کی ماں نہیں بلکہ دادا کی ماں اور دادی کی ماں یعنی باپ کی نانی وغیرہ کو بھی شرعاً دادی اور جدہ کہا اور مانا جاتا ہے اور جدات خواہ پدیری ہوں یعنی باپ کی جانب سے یا مادری ہوں یعنی ماں کی جانب سے۔ یہ سب ذوی الفروض میں داخل ہیں۔ البتہ جدات کی میراث میں دو شرطیں ہیں۔

(الف) وہ جدات ثابتات ہوں یعنی جدات صحیحہ۔ اور جد صحیحہ وہ دادی نانی ہے جس سے علاقہ جد فاسد (نانا) کے ذریعہ سے نہ ہو۔ اسی لیے باپ کی ماں یعنی داوی پر دادی وغیرہ اور ماں کی ماں یعنی نانی پر نانی وغیرہ سب جدات صحیحہ میں داخل ہیں اور علمائے کرام نے فرمایا کہ جدات صحیحہ تین قسم پر ہیں۔

(1)۔ جو صرف عورت کے ذریعہ سے علاقہ رکھیں جیسے ماں کی ماں یا ماں کی ماں کی ماں یا

پر نانی کی ماں۔ جو صرف باؤں کی سلسلہ والیاں ہیں۔

(2)۔ جو صرف مردوں کے ذریعہ سے علاقہ رکھیں جیسے باپ کی ماں دادا کی ماں پر دادا

کی ماں کہ یہ صرف مردوں کے ذریعہ علاقہ رکھتی ہیں۔

(3)۔ جو عورتوں کے ذریعہ مردوں کی طرف منسوب ہوتی ہیں جیسے باپ کی ماں کی ماں یا

دادا کی ماں کی ماں یا پردادا کی ماں کی ماں۔

جو عورتیں ان ذریعوں سے علاقہ رکھتی ہیں وہ سب جدات صحیحہ ہیں اور ذوی القروض میں داخل۔ سب کا حصہ متعین و مقرر ہے اور جو عورتیں تیسری قسم کے برخلاف ہیں یعنی جن کے ساتھ جدات صحیحہ نہیں۔ بلکہ جدات فاسدہ کہلاتی ہیں اور ان کو میراث میں حصہ ذوی الارحام میں ہونے کی وجہ سے ملتا ہے یعنی جدات فاسدہ کو جو کچھ ملتا ہے وہ میت کے ساتھ قرابت کی وجہ سے ملتا ہے۔ نہ یہ ذوی القروض میں داخل ہیں نہ عصبات میں شامل۔

(ب) اور دوسری شرط یہ ہے کہ تمام جدات صحیحہ درجہ میں متساوی اور برابر ہوں۔ لہذا قریب درجہ والی کے سامنے بعید درجہ والی محروم الارث رہتی ہے۔ الغرض جدات صحیحہ کی میراث کی دو حالتیں ہیں:

- (1) - میت کے ترکہ کا صرف چھٹا حصہ ملتا ہے خواہ ایک دادی ہو یا دو تین۔ خواہ باپ کی طرف سے ہوں یا ماں کی جانب سے۔ جب ایک ہی درجہ کی ہوں گی تو اس چھٹے حصہ میں شریک رہیں گی اور یہ حصہ ان میں باہم برابر برابر تقسیم کر دیا جائے گا۔
- (2) - اگر میت کی ماں امیت کا باپ زندہ موجود ہو تو تمام نانیاں دادیاں محروم رہتی ہیں اور اگر میت کا دادا موجود ہو تو دادیاں محروم رہتی ہیں لیکن باپ کی ماں اور باپ کی نانی اور باپ کی ماں کی نانی اور باپ کی نانی کی نانی۔ یہ چاروں بھی دادیاں ساقط الارث یعنی میراث سے محروم رہتی ہیں۔

عصبات کے حصے

عصبات عصبہ کی جمع ہے۔ عصبہ میت کے اس وارث کو کہتے ہیں جسے اصحاب فروض کا حصہ نکال کر جو باقی بچے مل جائے اور اگر اصحاب فروض میں کوئی بھی نہ ہو تو سب کا سب ترکہ عصبہ ہی کو مل جائے گا۔ اصل میں عصبہ مرد ہی ہوتا ہے عورت بالتبع ہی عصبہ ہو سکتی ہے۔ عصبہ کی دو بڑی بڑی اقسام ہیں:

(۲) عصبہ سہمی

(۱) عصبہ نسبی

عصبہ نسبی وہ ہے کہ اس میں اور میت میں قرابت اور نسب کا تعلق ہو۔ جیسے بیٹا بیٹی۔ اور عصبہ سہمی وہ ہے کہ جس میں یہ تعلق نہ ہو جیسے غلام اور آقا۔ عصبات نسبیہ تین ہیں:

(۱) عصبہ بنفسہ (۲) عصبہ بغیرہ (۳) عصبہ بغيرہ

۱۔ **عصبہ بنفسہ** وہ مذکر ہے جس کی میت کی طرف منسوب کرنے میں عورت بیچ میں

نہ آئے یعنی جب مرد کو میت کی طرف نسبت کریں تو بیچ میں مونث داخل نہ ہو جیسے میت کا بیٹا پوتا۔ اگر درمیان میں عورت داخل ہو تو وہ عصبہ نہیں ہے جیسے اخیانی بھائی بہن کہ وہ ذوالفروض میں داخل ہیں اور عصبہ بنفسہ میں چار آدمی شامل ہیں:

(الف) میت کے جڑ جیسے بیٹا پوتا۔

(ب) میت کے اصل جیسے باپ دادا۔

(پ) میت کے باپ کے جڑ جیسے بھائی بھتیجا۔

(ج) میت کے دادا کے جڑ جیسے چچا

اس کی اولاد پس میراث تقسیم کرتے وقت ان چاروں میں سے پہلے ان کا حصہ دیا جائے جو میت سے زیادہ قریب کا رشتہ رکھتے ہوں تو پہلے جڑ میت یعنی اس کے بیٹے پوتے پر پوتے مقدم ہوں گے پھر میت کی اصل یعنی اس کا باپ دادا پر دادا۔ پھر میت کے باپ کا جڑ یعنی بھائی بھتیجا۔ پھر میت کے دادا کی اولاد یعنی سگے چچا پھر ان کے بیٹے۔

۲۔ **عصبہ بغیرہ**: عصبہ جو غیر کی وجہ سے عصبہ بن جائے اور ہر وہ عورت ہے جو اپنے مقابل مذکر کی وجہ سے عصبہ ہو جائے۔ اس عصبہ کو با بغیر کہتے ہیں اور یہ چار عورتیں ہیں:

(الف) دختر جو پسر کی وجہ سے عصبہ ہو۔

(ب) پسر کی دختر جو پسر کی وجہ سے عصبہ بن جائے۔

(پ) عینی بہن جو عینی بھائی کی وجہ سے عصبہ ہو۔

(ج) علاقائی بہن جو علاقائی بھائی کی وجہ سے عصبہ ہو۔

باقی عصبات خود میراث لے لیتے ہیں اور بہنوں کو شریک نہیں کرتے اور یہ چار ہیں:

(الف) چچا۔

(ب) چچا کا بیٹا

(ج) بھائی کا بیٹا

(د) آزاد کرنے والے کا بیٹا۔

۳۔ **عصبہ مع غیرہ**: وہ عورت ہے جو دوسری عورت کے ساتھ جمع ہو کر عصبہ بن جاتی مثلاً میت کی بیٹی یا پوتی ہے اور میت کے حقیقی بہن یا سوتیلی بہن بھی ہے تو یہ بہن بیٹے یا پوتی کے ساتھ عصبہ جو جائے گی خواہ بیٹی پوتی ایک ہوں یا زیادہ ہوں۔

۴۔ **ترکہ کی تقسیم میں عصبات کا تقدم و تاخر**: جب

میت کے کئی قسم کے عصبات جمع ہو جائیں مثلاً ذاتی عصب بالغیر 'عصب مع الغیر' تو ان میں تقدم اس عصب کو حاصل ہوگا جو میت سے زیادہ قریب ہوگا اور صرف ذاتی عصب ہونے کی وجہ سے ترجیح ہوگی۔ حتیٰ کہ اگر عصب مع الغیر 'عصب ذاتی' کی نسبت میت سے زیادہ قریب ہو تو اسے عصب ذاتی پر مقدم کیا جائے گا۔ مثلاً ایک شخص مر اس نے ایک دختر ایک بیٹی بہن اور ایک پدری بھائی کا لڑکا چھوڑا تو دختر کو نصف حصہ ملے گا۔ باقی حصہ بہن کو۔ اور پدری بھائی کا لڑکا اگرچہ عصب ذاتی ہے مگر محروم رہے گا۔ اس لیے کہ بہن اس کی نسبت میت سے زیادہ قریب ہے۔

۵۔ عصبہ اقرب کی موجودگی میں عصبہ البعد کی محرومی:

عصبات میں وراثت کی تقسیم کا یہ اصول اس حدیث سے ماخوذ ہے جسے سیدنا امام اعظم نے اپنی مسند میں حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت کیا کہ رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا "یعنی جن ورثا کے حصے شرعاً مقرر و متعین ہیں ان کو ان کے حصے دو اور پھر جو باقی بچے وہ میت کے زیادہ قریبی مرد کے لیے ہے۔"

حدیث میں مذکور زیادہ قریبی مرد اصطلاح فقہ میں عصب کہلاتا ہے تو اس حدیث سے صراحت ثابت ہوتا ہے کہ ذوی الفروض کے بعد عصب اقرب سب سے زیادہ مستحق ہوتا ہے اور اس کی موجودگی میں باقی محروم رہتے ہیں۔ اس اصول کی مزید وضاحت کے لیے مندرجہ ذیل مثالیں پیش کی جاتی ہیں:

(الف) میت کے بیٹے کی موجودگی میں میت کا پوتا پوتی محروم رہیں گے اور پوتے پوتی کی موجودگی میں پڑپوتا اور پڑپوتی محروم رہیں گے۔

(ب) میت کے باپ کی موجودگی میں میت کا دادا محروم رہے گا اور دادا اگر موجود ہو تو پڑدادے و پچھنہ میں ملے گا۔

(پ) میت کے بھائی موجودگی میں میت کا بھتیجا محروم رہے گا۔ اور بھتیجے کی موجودگی میں میت کے بھائی کا پوتا یا پوتی محروم رہیں گے۔

(ت) میت کے چچا کی موجودگی میں میت کے چچے کے نرے و پچھنہ میں ملے گا اور چچے کے نرے کے موجودگی میں چچا کا پوتا محروم رہے گا۔

(ث) میت کا لڑکا یا پوتا موجود ہے تو میت کے بھائی اور بھائی کی اور محروم رہیں گے۔

(ج) میت کا بھائی یا بھائی کا لڑکا یا پوتا اگر موجود ہے تو میت کا چچا اور چچا کی اور محروم رہیں گے۔

(چ) اگر میت کا چچا موجود ہو تو میت کی چھوٹی محروم۔ حالانکہ چھوٹی چچا کی بہن ہے مگر چچا

بہن کی نسبت عصبہ اقرب ہے۔

(د) میت کا چچا یا چچا کا لڑکا یا پوتا موجود ہے تو میت کے باپ کا چچا یا اس کا لڑکا یا پوتا محروم رہیں گے۔

(ڈ) میت کا بھتیجا موجود ہے تو میت کی بھتیجی محروم رہے گی۔

(ر) چچا کے لڑکے کی موجودگی میں چچا کی لڑکی محروم رہے گی۔ حالانکہ وہ بہن بھائی ہیں۔

۶۔ عصبات میں پوتے کی وراثت کی شرعی تشکیل: اس

سلسلہ میں مندرجہ ذیل اصول ذہن میں رکھیے:

(الف) اگر میت کا بیٹا نہ ہو اور پوتا پوتی موجود نہیں تو میت کے ورثاء میں سے اصحاب فرائض کو ان کے شرعی حصے دے کر جو باقی بچے گا وہ پوتا پوتی کو ملے گا۔ اگر میت کے اصحاب فرائض میں کوئی بھی موجود نہیں تو میت کا کل ترکہ پوتے کو مل جائے گا۔

(ب) میت کا پوتا موجود ہے اور بھائی یا بھتیجا یا چچا یا چچا کا لڑکا بھی ہے تو اس صورت میں تمام ترکہ صرف پوتے کو ملے گا اور بھائی، بھتیجا، چچا اور اس کا لڑکا سب محروم رہیں گے۔

(پ) اگر میت کے ورثاء میں سے لڑکا لڑکی نہیں ہے بلکہ پوتی ہے تو پوتی کے لیے شرعی عاقل ترکہ کا نصف حصہ مقرر ہے۔

(ت) اگر میت کے دو یا دو سے زیادہ پوتیاں ہیں اور میت نے لڑکا لڑکی نہیں چھوڑا تو پوتیوں کو کل ترکہ کا دو تہائی حصہ ملے گا۔

(ث) اگر میت کے ورثاء میں سے ایک لڑکی ہے اور پوتی بھی ہے تو لڑکی کو ترکہ کا نصف اور پوتی کو ترکہ کا چھٹا حصہ ملے گا۔

(ج) اگر میت کی دو لڑکیاں اور ایک پوتی ہے تو لڑکیوں کو ترکہ کا دو تہائی حصہ ملے گا اور پوتی محروم رہے گا البتہ اگر پوتا بھی ہو تو یہ دونوں مل کر عصبہ بن جائیں گے اور اصحاب فرائض کے حصے دے کر جو باقی بچے گا وہ یہ لے لیں گے۔

(چ) اگر میت کا لڑکا موجود ہو تو میت کے پوتے پوتیاں سب محروم رہیں گے۔

۱۹ ذوی الارحام کے حصے

زورحم کے معنی رشتہ دار اور قرابت والے کے ہیں مگر اصطلاح شریعت میں زورحم اس شخص کو کہتے ہیں جو قرابت دار ہو مگر صا حب فرض اور عصبہ نہ ہو یعنی وہ رشتہ دار جس کا حصہ نہ تو

کتاب اللہ میں مقرر ہو اور نہ سنت میں اور نہ اجماع امت سے اس کا ثبوت ہو اور نہ عصب ہو ایسے شخص کو ذورحم کہتے ہیں اس کی جمع ذوی الارحام ہے۔

ذوی الارحام عصبات کی مانند ہیں۔ اس میں اقرب خالاقرب کا اعتبار ہے اور قرب کبھی تو درجہ کے اعتبار سے ہوتا ہے اور کبھی قرابت کی وجہ سے۔ پس جس طرح تعصیب میں بیٹا باپ پر مقدم ہے۔ اسی طرح ذوی الارحام میں میت کا جز مقدم ہوگا اس کی اصل پر اور ذوی الارحام میں سے جو قریب تر ہو وہ بعید تر کا حاجب ہو جاتا ہے یعنی بعید کو وارث نہیں ہونے دیتا جیسا کہ عصبارت میں اقرب بعد کا حاجب ہو جاتا ہے اسی طرح نزدیک رشتہ والا دور کے رشتہ دار کو وارث نہیں ہونے دیتا۔ ذوی الارحام کی چار قسمیں ہیں:-

۱۔ **پہلی قسم:** جو میت کی جانب منتسب ہوں۔ مثلاً میت کی دختر کی اولاد یعنی نواسے نواسیاں اوپر تک اور دختر پسر یعنی پوتی۔

۲۔ **دوسری قسم:** جن کی طرف میت خود منتسب ہو اور وہ اجداد و جدات فاسدہ ہیں۔

۳۔ **تیسری قسم:** جو میت کے والدین کی جانب منسوب ہوں جیسے عینی بھائی کی لڑکیاں یا علاتی بھائی کی لڑکیاں یا اخیانی بھائی کی اولاد خواہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں۔ سب بہنوں کی اولاد بہن خواہ علاتی ہو یا اخیانی اور اولاد خواہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں۔

جب میت کے وارثوں میں ذوی القروض اور عصبات نہ ہوں تو ترکہ ذوی الارحام میں تقسیم کیا جائے گا۔ اس طرح کہ قسم اول کو مقدم رکھا جائے گا، پھر قسم دوم پھر قسم سوم پھر چہارم۔ اس اصول کے تحت دختر کی دختر اگرچہ بہت نچلی پشت تک ہو۔ ماں کے باپ یعنی نانا پر مقدم رکھی جائے گی۔

اگر دو ذوی الارحام میں قرب اور درجہ کی مساوات ہو تو وارث کی اولاد والی ہوگی۔ خواہ وارث عصب کی ہونے والی ہو یا وارث فرض کی اولاد۔ مثلاً پسر کی دختر کی دختر، دختر کی دختر کے پسر پر مقدم ہوگی۔

۲۰۔ روحانی عملیات

قرآن پاک کی ہر آیت با اثر ہے اس لیے انہیں پڑھ کر جو جائز چیز اللہ سے مانگی جائے وہ قبول ہو جاتی ہے اس لیے اسلام میں اللہ تعالیٰ کے کسی نام کا وظیفہ کرنا یا کسی دعا کا پڑھنا جائز اور درست ہے۔ کسی قرآنی آیت یا اللہ تعالیٰ کے نام کو اعداد کی صورت میں لکھ دیا جائے تو وہ تعویذ

بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو یا قرآن مجید کی مقدس آیتوں کو مقررہ تعداد میں پڑھ کر دم کیا جائے یا ان کا تعویذ بنا کر استعمال کیا جائے تو مشکل حل ہو جاتا ہے۔ امراض سے شفا یابی ہوتی ہے۔ دشمنوں سے پناہ ملتی ہے۔ غرضیکہ جس مقصد کے لیے ذکر الہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی جائے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور مہربانی فرماتا ہے۔

روحانی عملیات کرتے ہوئے حلال رزق کھانا ضروری ہے۔ اس کے ساتھ سچائی، اخلاص اور تقویٰ سے عمل کرنا بھی لازم ہے اور نہ عمل کا نتیجہ پر اثر نہیں نکلتا۔ جو عمل بھی کیا جائے اس کے اول آخر میں درود شریف ضرور پڑھا جائے۔

عملیات دو طرح کی ہیں یعنی رحمانی اور سفلی رحمانی عمل وہ ہے جو کتاب و سنت کے مطابق انسانی بھلائی اور بہتری کے لیے کیا جائے اور اس میں رضائے الہی مد نظر ہو۔ رحمانی عمل قرآنی آیتوں اور دعاؤں سے کیے جاتے ہیں۔ رحمانی عمل کے برعکس سفلی عمل کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ کیونکہ سفلی اعمال میں شیطانی طاقت کارگر ہوتی ہے اس لئے اسلام نے اسے ناجائز قرار دیا ہے لہذا جادو ٹونے والے علم کے تعویذات کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے اس لیے بحیثیت مسلمان سفلی عملیات کرنے بالکل ناجائز ہیں کیونکہ ان سے ایمان تباہ ہو جاتا ہے۔

رحمانی عملیات بھی دو طرح کے ہیں ایک موکلاتی اور دوسرا غیر موکلاتی۔ کیونکہ ہر قرآنی عمل کے پیچھے ایک مخلوق پابند ہے جسے موکل کہا جاتا ہے جب کسی عمل کو موکل کی نیت سے کیا جاتا ہے تو اس عمل کے موکل حاضر ہو کر قید ہو جاتے ہیں اور غیر موکلاتی عمل میں موکل کو قید کرنے کی نیت نہیں ہوتی۔ موکلاتی عمل میں خطرات لاحق ہوتے ہیں۔ کیونکہ جس موکل کو قید کرنا مقصود ہوتا ہے وہ پورا زور لگاتا ہے کہ اسے قید نہ کیا جائے۔ اس لیے وہ عمل کے دوران ہر طرح سے ڈراتا اور نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے اس لیے موکلاتی عمل سے ہر ممکن بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔

ہر عمل کرتے وقت اللہ تعالیٰ سے توفیق اور مدد مانگنی چاہئے اور دوران عمل عاجزی اور نیاز مندی کا اظہار کرنا چاہیے۔ بعض بزرگوں کا قول ہے کہ عمل کے شروع میں اور اس کی مدت کے اختتام پر صدقہ خیرات کرنا چاہیے۔ جو عمل بھی کریں اس کی زکوٰۃ مقررہ مدت میں ادا کریں۔ اور وقت مقرر کر کے اسی وقت پر روزانہ عمل کریں کیونکہ اس طرح اثرات جلدی مرتب ہوتے ہیں۔ عمل کے لیے خلوت بھی ضروری ہے کیونکہ خلوت میں یکسوئی جلدی پیدا ہوتی ہے۔ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے عمل نہ کیا جائے کیونکہ دوسرے کو نقصان پہنچنے کے بعد خود کو بھی نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے۔

یہاں انسانی بھلائی کے لیے چند عملیات درج کیے جاتے ہیں جنہیں ہر مسلمان بغیر کسی خطرے کے پڑھ سکتا ہے بشرطیکہ وہ ان باتوں کو ذہن میں رکھے جو اوپر درج کی گئی ہیں۔ چند مجرب روحانی عملیات مندرجہ ذیل ہیں:

۱۔ ہر سستی سے بچنے کے لیے دعائے انس: حضرت انسؓ نے

فرمایا کہ اے حجاج! قسم بخدا تو میرے ساتھ کوئی بد عنوانی نہیں کر سکتا۔ میں نے رسول ﷺ سے چند کلمات سنے ہیں۔ جن کی برکت سے میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں رہتا ہوں اور ان کلمات کی بدست کسی ظالم کی سختی اور کسی شیطان کے شر سے ڈرتا ہی نہیں۔ حجاج اس کلام کی ہیبت سے دم بخود ہو گیا اور سر جھونکا لیا۔ تھوڑی دیر کے سر اٹھا کر بولا کہ اے ابو حمزہ (یہ حضرت انسؓ کی کنیت ہے) یہ کلمات مجھے بتا دیجئے۔ حضرت انسؓ نے فرمایا کہ میں برگز تجھے نہ بتاؤں گا اس لیے کہ تو اس کا اہل نہیں ہے۔ راوی کا بیان ہے کہ جب حضرت انسؓ کا آخری وقت آ گیا تو ان کے خادم حضرت ابان ان کے سر ہانے آ کر رونے لگے۔ حضرت انسؓ نے فرمایا کیا چاہتا ہے؟ حضرت ابان نے عرض کی کہ وہ کلمات ہمیں تعلیم فرمائے جن کے بتانے کی حجاج نے درخواست کی تھی اور آپ نے انکا فرمایا تھا۔ حضرت انسؓ نے فرمایا کو سیکھ لو ان کو صبح شام پڑھتا۔ وہ کلمات یہ ہیں:

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ . بِسْمِ اللّٰهِ عَلٰی نَفْسِیْ وَ دِیْنِیْ . بِسْمِ اللّٰهِ
عَلٰی اَهْلِیْ وَ مَالِیْ وَ قَلْبِیْ . بِسْمِ اللّٰهِ عَلٰی مَا اَعْطٰنِی اللّٰهُ . اللّٰهُ رَبِّیْ
لَا اَشْرُکَ بِہٖ شَیْءًا . اللّٰهُ اَکْبَرُ اللّٰهُ اَکْبَرُ اللّٰهُ اَکْبَرُ وَ اَعَزُّ
وَ اَجَلُّ وَ اَعْظَمُ مِمَّا اَخَافُ وَ اَحْذَرُ عَمْرًا جَارِلًا وَ جَلَّ تَنَآذُلًا وَ
لَا اِلٰهَ غَیْرُکَ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَتُوذُبُکَ مِنْ شَرِّ نَفْسِیْ وَ مِنْ شَرِّ کُلِّ
شَیْطٰنٍ مَّرْوِیْدٍ . وَ مِنْ شَرِّ کُلِّ جَبَلٍ عَرِیْدٍ فَاِنْ تَوَلَّوْا نَعَلْ حَسْبِی اللّٰهُ
لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَلَیْہِ تَوَكَّلْتُ وَ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِیْمِ . اِنَّ دِیْنَ اللّٰهِ
الَّذِیْ نَزَّلَ الْکِتٰبَ وَ هُوَ یَتَوَلٰی الصّٰلِحِیْنَ .

اس دعا کو صبح و شام پڑھنا بہت نیکوں کا معمول ہے۔

۲۔ شادی کروانے کا عمل: شادی کے لیے رات کو سونے سے پہلے اول آخر

کیا رو کیا رو مرتبہ اور شریف پڑھنے کے بعد سورہ اخلاص اکتالیس بار پڑھیں صرف شادی کے لیے عام نین نکلنے کی مدت نوے دن ہے اس عرصہ میں منگنی یا شادی ہو جائے تو بھی نوے دن پڑھنے سے نفع و برکت ہے۔ عورتیں پانچ دن شام کے بعد میں پورے کر لیں۔

۲۔ میان بیوں میں محبت کا عمل: میاں بیوی میں محبت پیدا ہونے کے

لیے اس آیت شریفہ سوسات سوسات دفعہ سات دن تک پڑھنا پھر جس کو اپنا کرنا مقصود ہو اسے پانی یا کسی اور چیز پر دم کر کے کھلانا یا پلانا نہایت مجرب اور مفید ہے۔ آیت شریفہ یہ ہے:

وَمِن آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
أَعْيُنًا وَيَجْعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

۳۔ حالات درست کرنے کا عمل: جس شخص کے مالی حالات خراب ہو گئے

ہوں اسے چاہیے کہ تہجد کے وقت اٹھے اور با وضو ہو کر تین سو مرتبہ یہ وظیفہ اکیس یوم تک پڑھے

انشاء اللہ حالات

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

درست ہو جائیں گے۔

یا ایل

یا ایلیاہ

یا اللہ

وظیفہ اکیس یوم پڑھے

یا فتاح

یا فتاح

یا فتاح

انشاء اللہ حالات

یا جبرائیل یا میکائیل یا تمنائیل یا مہلائیل

درست ہو جائیں گے۔

۴۔ غائب کو واپس بلانا: اگر کسی کا لڑکا یا کوئی بھی کہیں چلا گیا اور لاپتہ ہو گیا تو

اس کو واپس بلانے کیلئے نیچے کی آیتوں کو لکھ کر اس تعویذ کو کالے یا نیلے کپڑے میں لپیٹ کر گھر کے

اندرا ندھیری کوٹھری میں دو پتھروں کے درمیان اس طرح رکھ دیا جائے کہ اس پر کسی کا پاؤں نہ

پڑے پتھر نہ ہوں تو چکی کے دو پاؤں کے درمیان اس کو بادینا چاہیے اور لفظ فلاں کی جگہ اس

لاپتہ کا نام لکھیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ اَوْ كَظَلُمْتُ فِي بَحْرِ لَيْعِي يَفْشُهُ

مَوْجٌ مِنْ قُوْبِهِ مَوْجٌ مِنْ قُوْبِهِ سَعَابٌ وَظَلُمْتُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ

اِذَا اَخْرَجَ يَدَاكَ لَمْ يَكَدْ يَرَهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَكَ نُورًا فَمَالَهُ

مِنْ نُورٍ هَ اِنَّا رَاَدُّوْكَ اِلَيْكَ قَرَدَدْنَهٗ اِلَى اِمِّهٖ كَي تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا

تَحْزَنُ وَتَعْلَمَ اَنْ وَعَدَ اللّٰهُ حَقًّا وَّلٰكِنْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ه

يٰ بِنْتِي اِنَّمَا اِنْ تَكِ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنِ فِي صَخْرَةٍ اَوْ

فِي السَّمٰوٰتِ اَوْ فِي الْاَرْضِ يٰ اَبِیْ بِهٖمُ اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ لَطِیْفٌ خَبِیْرٌ ه

حَتّٰی اِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ

اَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوْٓا اَنْ لَا مَلْجَا مِنْ اللّٰهِ اِلَّا اِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ

لِئُوْلٰٓئِكَ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِیْمُ ه اَللّٰهُمَّ يٰ هَادِي الضَّالِّیْنَ

یٰ اِذَا الضَّالَّةَ اَرْجَدْ عَلٰی صَلَاتِنِ صَلِّ عَلٰی

۵۔ **تسخیر خلائق کا وظیفہ:** دوسرے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے مندرجہ ذیل وظیفہ کو روزانہ گیارہ مرتبہ بعد نماز فجر اور گیارہ مرتبہ بعد نماز مغرب پڑھیں انشاء اللہ تسخیر کے بے پناہ اثرات ظاہر ہوں گے۔

يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَالْكُفْرَيْنَ
الغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ۝ أَدَمَنْ كَانَ
مِثَاقًا حَيِّينَهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ
فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُتِنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ ۝ قَلَمًا رَأَيْتَهُ أَكْبَرْتَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ
مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ ۝ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ
يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَهُ يَكُونُ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ وِليٌّ مِّنَ
الدَّلِّ وَكِبْرُهُ تَكْبِيرًا ۝ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ
أَدَّوْا مُوسَىٰ فَبَرَأَ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا

۶۔ **بانولے کتے کا کاٹ لینا:** اگلی سرخی کی لٹھی ہوئی آیت کو روٹی یا بسکٹ کے چالیس ٹکڑوں پر لکھ کر ایک ٹکڑا روزانہ اس شخص کو کھلا دیں انشاء اللہ تعالیٰ اس شخص کو باؤ لاپن اور بڑک نہ ہوگی۔

۷۔ **گھر میں سے سانپ بھگانا:** بوہے کی چار کیلیں لے کر ایک ایک کیل پر پچیس پچیس مرتبہ یہ آیت دم کر کے مکان کے چاروں کونوں پر زمین میں گاڑ دیں۔ انشاء اللہ تعالیٰ سانپ اس گھر میں نہ رہے گا۔ اور آسیب بھی چلا جائے گا۔ آیت یہ ہے:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا

فَمَهْلِكُ الْكَافِرِينَ آمَهُلَهُمْ رَوْدًا

۸۔ **بچھو اور سانپ کے کاٹے کا علاج:** اگر کسی کو بچھو کاٹ جائے یا

سانپ نے ڈس لیا ہو تو فوری طور
پر یہ تعویذ چینی کی پلیٹ میں زردہ
رنگ سے لکھ کر بار بار پلائیں۔ حتی
کہ زہر ختم ہو جائے۔
يَا رَحِيمُ يَا اللَّهُ يَا مُرِيدُ
يَا رَحِيمُ يَا اللَّهُ يَا مُرِيدُ
يَا رَحِيمُ يَا اللَّهُ يَا مُرِيدُ
يَا بَدِيحُ الْعَجَابِ يَا خَيْرُ يَا بَدِيحُ

۹۔ **جادو کا اثر ختم کرنا:** جادو کا اثر ختم کرنے کے لیے یہ آیت لکھ کر مریض کے گلے میں پہنچائیں۔ اور پانی پر پڑھ کر پانی پلائیں اور اسی پڑھے ہوئے پانی سے مریض کو بڑے لگن یا تب میں بٹھا کر نہلائیں اور پانی کسی جگہ ڈال دیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ فَلَمَّا الْقَوَا قَالَ مُوسٰی مَا جِئْتُمْ بِهٖ
السِّحْرِ . اِنَّ اللّٰهَ سَبِطْلٌ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا یُضِلُّعَمَلُ الْمُفْسِدِیْنَ ؕ
وَبِحَقِّ اللّٰهِ الْحَقِّ بِكَلِمَاتِهِ وَتَوْكِرًا الْمُجْرِمُوْنَ ۝ اور قُلْ اَعُوذُ
بِرَبِّ الْقَلْق ۝ اور قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ پوری پوری سورت ایک مرتبہ۔

۱۰۔ **آسیب کا علاج:** آسیب زدہ بچے کے گلے میں تعویذ لکھ کر ڈال دیں۔ انشاء اللہ
آسیب کا مرض ختم ہو جائے گا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

یَا حَقِیْقُ یَا حَقِیْقُ یَا حَقِیْقُ

یَا بَدِیْعُ یَا بَدِیْعُ یَا بَدِیْعُ

یَا بَدِیْعُ الْعَجَابِ بِالْخَیْرِ یَا بَدِیْعُ

۹۹۹ . ۹۹۹ ۹۹۹ ۹۹۹

یَا حَقِیْقُ یَا حَقِیْقُ یَا حَقِیْقُ

۱۱۔ **کمزوری نظر کا علاج:** جو شخص پانچوں نمازوں کے بعد گیارہ مرتبہ

اَلْحٰی الْقَوُّمُ الْحَقُّ النَّوُّوُ

پڑھنے کا معمول بنالے انشاء اللہ اس کی نظر کمزور نہ ہوگی اور نہ اس کی آنکھ میں موتیا اترے گا۔ اگر
پڑھنے کے بعد دونوں ہاتھوں کے پوروں پر دم کر کے آنکھوں پر پھیر لیں تو بھی درست ہے۔

۱۲۔ **آنتوں کے زخم کا علاج:** آنتوں میں السر سے شدید درد ہوتا ہے۔ ڈاکٹری

علاج کروانے کے ساتھ مندرجہ ذیل وظیفہ کو تین پلیٹوں پر لکھ کر روزانہ صبح شام اور رات کو پانی سے

دھو کر چالیس روز پیئیں۔ انشاء اللہ

فائدہ ہوگا۔ اَلسَّلَاسِلُ فِی مَوْجِیْعِ الْبَحْرِیْنِ یَا اَللّٰهُ

۱۳۔ **آنتوں کی ٹی بی کا علاج:** آنتوں کا ٹی بی کے لیے یہ وظیفہ بہت اکیر

ہے لہذا سورج نکلنے سے پہلے گیارہ

مرتبہ پڑھ کر ایک پیالی پانی پر دم کر

کے نہار منہ نوے دن تک پیئیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
اَلرَّیْلُکَ اَیَّتُ الْکِتَابِ الْمُبِیْنِ ۝
اَلرَّحِیْمِ الرَّحِیْمِ الرَّحِیْمِ ۝

۱۳۔ **باری کے بخار کا دم:** باری کا بخار جو عموماً دوائیوں سے کم نہیں ہوتا اس کے لیے بیری کی لکڑی یا کسی مومی کاغذ پر لکھ کر سفید دھجی میں باندھ کر گلے میں ڈال دیں باری چاہے ایک دن کی ہو دو دن کی ہو یا تین دن کی۔ جب اس سے نجات مل جائے گلے سے نکال کر جلا دیں: **قُلْنَا يَا كُوفِي بَرِّدًا وَسَلَامًا عَلَيَّ اَبْرَاهِيْمَ**“

۱۵۔ **موسمی بخار کا تعویذ:** میرا بخار کے لیے اس عمل کو کاغذ پر لکھ کر بغیر موم جامہ کے سفید کپڑے کی دھجی میں باندھ کر گلے میں ڈال دیں۔ بخار اترنے پر تعویذ اور کپڑا دونوں کو پانی میں بہا دیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰی

۱۶۔ **بیماری کی کمزوری:** تین پلیٹوں پر زعفران اور عرق گلاب سے نم ددندہ اسفل لکھ کر ایک پلیٹ صبح ایک تیسرے پہر اور ایک رات کو سوتے وقت پانی سے دھو کر چند روز پلائیں۔ انشاء اللہ کمزوری رفع ہو جائے گی۔

۱۷۔ **بار بار پیشاب آنے کا علاج:** رات کے وقت خلوت میں بیٹھ کر سو مرتبہ **يَا اَيْلٰهَ يٰ اَيْلٰهَ يٰ اَللّٰه** پڑھیں اور پیٹ پر پھونک مار دیں تین ماہ تک یہ عمل برقرار رکھیں۔

۱۸۔ **علاج نمونیا:** نمونیا اور پسلی چلنے کے لیے یہ عمل بہت مجرب ہے:

چینی کی طشتری پر زعفران اور پانی سے لکھ کر ایک یا دو گھونٹ دودھ سے دھو کر تین وقت پلائیں۔ احتیاطاً دو تین روز تک پلاتے رہنا چاہئے تاکہ نمونیا کا اثر پوری طرح زائل ہو جائے۔

۱۹۔ **بچوں کے دانت نکلنا:** بچوں کے دانت آسانی سے نکلنے کے لیے اس وظیفہ کو ایک کاغذ پر لکھ کر تعویذ بنا کر گلے میں ڈال دیں۔ انشاء اللہ **اَلرَّتِيْلَكَ اَيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِيْنِ** بچوں کو جو تکالیف دانت نکلنے کے دوران ہوتی ہیں ان سے بچہ محفوظ رہے گا۔

۲۰۔ **علاج بد نظری:** جو بچے ماشاء اللہ تندرست، منس مکھ یا ذہین ہوتے ان کو اکثر بڑوں کی نظر لگ جاتی ہے۔ گویا بات خوب خیر ہے لیکن مشاہدہ میں آئی ہے کہ ماں باپ اور بہن

بھائی کی بھی نظر لگ جاتی ہے۔

نظر لگنے سے بچہ بے چین ہو جاتا ہے دودھ پینا چھوڑ دیتا ہے۔ روتا ہے بخار بھی ہو جاتا ہے۔ روز بروز چڑچڑ اور کمزور ہوتا چلا جاتا ہے۔

نظر اتارنے کے لیے بسم اللہ شریف کے بعد اِنَّا اَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ (پوری سورۃ) پڑھ کے بچے کے منہ پر پھونک ماریں۔ نظر کا اثر زائل ہو جائے گا۔

۲۱۔ **علاج بد خوابی:** بد خوابی سے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں اس سے بچنے کے لیے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سونے سے پہلے بستر میں

يَا حَفِيْظُ يَا حَفِيْظُ يَا حَفِيْظُ

چپت لیٹ کر گیارہ مرتبہ

يَا وَدُوْدُ يَا وَدُوْدُ يَا وَدُوْدُ

پڑھیں اور سینے پر پھونک

يَا بَدِيْعُ يَا بَدِيْعُ يَا بَدِيْعُ

ماریں۔ یہ عمل اکیس روز

اَلْعَجَابِيْبِ . بِالْخَيْرِ يَا بَدِيْعُ

تک جاری رکھیں۔ گرم اور

ص ص ص ص ص ص

کٹھی چیزوں سے پرہیز

يَا رَحِيْمُ يَا رَحِيْمُ يَا رَحِيْمُ

کریں۔

۲۲۔ **نشہ چھڑانے کا عمل:** نشہ کرنے والا شخص جب رات کو گہری نیند سو جائے تو

اس کے سر ہانے کے قریب کھڑے ہو کر سورۃ المائدہ کی آیت

اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ

فَاَجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُوْنَ ہ ایک مرتبہ اتنی آواز سے پڑھ کر سنائیں کہ سونے

والے کی نیند خراب نہ ہو۔ چالیس روز کے اس عمل سے نشہ کی عادت ختم ہو جائے گی۔

۲۳۔ **نیند کم یا نہ آنے کا علاج:** نیند نہ آنے کی وجوہات میں بڑی وجہ

دماغ میں خشکی، اعصابی کشمکش، دماغی کشاکش یا بالفاظ دیگر دماغی خلفشار، ذہنی دباؤ، فکر و آلام اور

خوف و رنج ہوتے ہیں۔ پہلے ان باتوں سے جہاں تک ممکن ہو دماغ کو خالی کرنا ضروری ہے۔

ایسا کرنا ارتکا، توجہ کے عمل سے بہت آسان ہو جاتا ہے۔

سب کاموں سے فارغ ہونے کے بعد آرام وہ بستر پر لیٹ جائیں۔ جسم کو ڈھیلا چھوڑ

دیں، آنکھیں بند کر لیں اور یہ تصور کریں کہ گردن سے ناف تک جسم پر شیشے کا ایک بڑا جار رکھا ہوا

ہے اور اس میں ہلکی ٹھنڈی اور فرحت آمیز روشنیاں بھری ہوئی ہیں۔ جب یہ تصور قائم ہو جائے تو

سورہ بقرہ کی پہلی آیت اَلَمْ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ الَّذِيْ فِيْهِ

سے یُوَقِّنُوْنَ تک پڑھنا شروع

کردیں۔ چند بار پڑھنے سے نیند کی بیٹھی آغوش نصیب ہو جائیگی۔

۲۴۔ ہیضہ اور وبائی امراض میں: ان دنوں میں ہر کھانے پینے کی چیز

پر سورہ اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ پڑھ کر دم کر لیا کریں انشاء اللہ تعالیٰ حفاظت رہے گی۔ اور جس شخص کو مرض ہو جائے اس کو بھی کسی چیز پر دم کر کے کھلائیں پلائیں۔ انشاء اللہ تعالیٰ شفا حاصل ہوگی۔

۲۵۔ ناف ثل جانا: اس آیت کو لکھ کر ناف کی جگہ پر باندھیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۙ اِنَّ اللّٰهَ یُمْسِكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ اَنْ تَزُوْلَا
مِنْ اَحَدٍ مِّنْهُنَّ بَعْدَ اِنَّهٗ كَانَ حَلِیْمًا عَفُوًّا۔

۲۶۔ تلی بڑھ جانا: اس آیت کو لکھ کر تلی کی جگہ باندھیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۙ ذٰلِكَ تَعْفِیْفٌ مِّنْ رَبِّكَ وَرَحْمَةٌ ۙ

۲۷۔ پھوڑا پھنسی: پاک صاف ڈھیلا پیس کر اس پر یہ دعائیں مرتبہ پڑھ کر تھوک

دے اور اس مٹی پر تھوڑا پانی چھڑک کر وہ مٹی تکلیف کی جگہ پر دن میں دو چار بار مل لیا کرے۔
چاہے پھوڑے پر یہ مٹی لگا کر پٹی باندھ دے۔

بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرٰهًا مَّرْسٰهًا اِنَّ رَبِّیْ لَغَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ ۙ

۲۸۔ چپک کا گندہ: نیلا سات تار کا گندہ لے کر اس پر سورہ الرحمن پڑھیں اور ہر

نِیَآئِی الْاَوَّلِ رَبِّکُمْ اَتَّکَذِبِیْنَ پر پھونک مار کر ایک گرہ لگا دیں۔ پھر یہ گندہ بچے کے گلے میں
ڈال دیں۔ چپک سے حفاظت رہے گی اور اگر چپک نکلنے کے بعد ڈالیں تو انشاء اللہ تعالیٰ چپک کی
زیادہ تکلیف نہ رہے گی۔

۲۹۔ پیدائش کا درد: یہ آیت ایک پرچے پر لکھ کر کپڑے میں لپیٹ کر عورت کی

بائیں ران میں باندھیں۔ یا سات مرتبہ گڑ پانی پر پڑھ کر کھلائیں۔ بچہ آسانی کے ساتھ پیدا ہوگا۔

وہ آیت یہ ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۙ اِذَا السَّمَآءُ اُنشَقَّتْ
وَ اِذْ اَنْتَ لِرَبِّہَا رَاحَتٌ وَاِذَا الْاَرْضُ مُدَّتْ وَاَلْقَتْ مَا فِیْہَا وَتَخَلَّتْ۔

۳۰۔ دودھ کم ہونا: یہ دونوں آیتیں نمک پر سات بار پڑھ کر اڑر کی دال میں کھلائیں

اور بسم اللہ سمیت دونوں آیتوں کو پڑھیں۔ پہلی آیت

وَلَوْ اِلْدَتْ

یُرْضَعْنَ اَوْلَادًا مِّنْ حَوْلِہِیْنَ کَاَمَلِیْنَ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ یَّتِمَّ الرِّضَاعَۃَ اور دوسری

آیت وَاِنَّ لَکُمْ فِی الْاَنْعَامِ لَعِبْرًا ۗ نَسِیْکُمْ مِّمَّا فِیْ بُطُوْنِہِ مِنْ بَیْنِ قَرْوٰتِ
وَدَمٍ لَّبَنًا خَالِیْمًا سَاۡبِغًا لِّلشَّرِبِیْنَ

marfat.com

۳۱۔ **بچہ زندہ رہنا:** اجوائن اور کالی مرچ آدھ آدھ پاؤ لے کر پیر کے دن سورج ڈھلنے کے بعد چالیس بار سورہ دالشمس اس طرح پڑھے کہ ہر دفعہ اس کے ساتھ درود شریف بھی پڑھے اور ہر مرتبہ اجوائن اور کالی مرچ پر دم کرے اور شروع حمل سے دودھ چھڑانے تک روزانہ تھوڑی تھوڑی اجوائن اور کالی مرچ کھالیا کرے۔ انشاء اللہ تعالیٰ اولاد زندہ رہے گی۔

۳۲۔ **بچوں کو نظر لگنا یا رونا یا سوتے میں ڈر کر چونکنا:** قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ۔ اور قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ سمت تین تین بار پڑھ کر بچے پر دم کرے اور یہ تعویذ لکھ کر بچے کے گلے میں پہنائے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التّٰمَّاتِ کُلِّهَا مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ
اَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التّٰمَّاتِ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَیْطٰنٍ وَهَامَةٍ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ
عَیْنٍ لّٰمَةٍ اَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التّٰمَّاتِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَمِنْ شَرِّ
عِبَادِهِ مِنْ هَمَزَاتِ الشّٰیْطٰنِ وَاَنْ یَّحْضُرُوْنَ وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی
خَیْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَاٰلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِیْنَ

۳۳۔ **بستر پر پیشاب کرنے کا علاج:** بعض حالات میں بچے عمر تک بستر پر پیشاب کرتے رہتے ہیں اس کا علاج یہ ہے کہ جب بچہ رات کو گہری نیند سو جائے تو اس کے قریب سر ہانے کی طرف بیٹھ کر اتنی آواز سے کہ بچے کی نیند خراب نہ ہو۔ ایک بار سورہ بقرہ کی پہلی آیت **آلَم** سے یومنون بالغیب تک اکیس روز پڑھیں۔

۳۴۔ **بچوں کی کالی کھانسی:** بچوں کی کالی کھانسی کے لیے یہ وظیفہ چینی کی طشتری پر زردہ رنگ سے لکھ کر صبح و شام گیارہ روز پانی سے دھو کر پلائیں انشاء اللہ فائدہ ہوگا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
یَا حَقِیْقُ یَا حَقِیْقُ یَا حَقِیْقُ
مَنْعَاتُ الْمَآءِ قَضُ قَضُ قَضُ

۳۵۔ **ماہواری میں زیادہ دن ہونا:** اگر کسی عورت کو ایام ماہواری زیادہ آتے ہوں اور اس سے تکلیف ہو تو ان آیتوں کو لکھ کر گلے میں ڈالیں اور ڈورا اتنا بڑا ہو کر تعویذ ناف کے نیچے پڑارے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ وَقِیْلَ
یٰ اَرْضُ اَبْلِیْ مَآءِ لَکِ وَاِسْمَآءُ اَقْلِیْعِی وَغِیْضِ الْمَآءِ وَقِضِ الْاَمْرُ وَاَسْتَوْتُ
عَلٰی الْجُوْدِیِّ وَقِیْلَ بَعْدَ الْقَوْمِ الْقَلِیْمِیْنَ

۳۶۔ **ایام ماہواری کی کمی:** اگر ایام ماہواری میں کمی ہو اور اس سے تکلیف

ہو تو ان آیات کو لکھ کر گلے میں ڈالیں اور ڈورا تباڑا ہو کہ تعویذ ناف کے نیچے پڑا رہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ وَجَعَلْنَا فِيْهَا مِنْ نَّجْوٰی وَاغْنٰی وَاَقْرٰبًا
فَعَبَّرْنَا فِيْهَا مِنَ الْعِیُّوْنِ لِيَاكُلُوْا مِنْ ثَمَرِهَا وَمَا عَمِلْتُمْ اَيْدِيْهِمْ اَقْلٰمًا
يَشْكُرُوْنَ هَ اَوْلٰةٌ يٰۤاَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا
فَفَتَقْنٰهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ هَ اَقْلٰمًا يُؤْمِنُوْنَ هَ

۳۷۔ **اولاد نہ ہونے کا علاج:** چالیس لوٹکیں لے کر ہر ایک پر سات سات بار

اس آیت کو پڑھے اور جس دن عورت حیض سے پاک ہو کر غسل کرے۔ اس دن سے ایک لوٹکے
روزمرہ سوتے وقت کھانا شروع کرے اور اس پر پانی نہ پیئے اور آیت یہ ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اَوْ كَطَلَمْتِ فِیْ بَحْرٍ لِّجَنِّ یَغْشٰهُ
مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِہِ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِہِ سَعَابٌ ظَلَمْتَ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ اِذَا
اَخْرَجَ يَدَاكُمَا يَكْذِبَا هَا وَمَنْ لَمْ یَجْعَلِ اللّٰهُ لَهٗ نُوْرًا فَمَا لَهٗ مِنْ نُّوْرِ۔

انشاء اللہ تعالیٰ ضرور اولاد ہوگی۔

۳۸۔ **بانجہ پن کا خاتمہ:** بانجھ کا ایک اور عمل یہ ہے کہ عورت عشاء کی نماز کے

بعد روزانہ ۱۰۰ مرتبہ یہ وظیفہ پڑھے اور نوے دن تک پانی دم کر کے خود بھی پیئے۔ اور شوہر کو بھی
پلائے اگر کوئی مانع ہو جائے تو بعد میں پڑھ کر مکمل کر لے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اِقْرٰی بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِیْ خَلَقَ هَ خَلَقَ الْاِلٰسَانَ مِنْ
عَلَقٍ هَ حَمَّ هَ اَلْزَيْلٰتُ اٰیٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِیْنِ۔

۳۹۔ **حمل گر جانے کا علاج:** اس آیت کا تعویذ بنا کر کمر میں باندھے اور تعویذ

ناف کے نیچے پیڑو پر رہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ اِلَّا بِاللّٰهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِیْ ضَلٰیْقٍ مِّمَّا
یَمْكُرُوْنَ هَ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِیْنَ اتَّقَوْا الَّذِیْنَ هُمْ مُخْبِتُوْنَ۔

انشاء اللہ تعالیٰ حمل کرنے سے محفوظ رہے گا۔

۴۰۔ **رحم کے ہر مرض کا علاج:** رحم کے امراض (جن میں رسولی بھی شامل

ہے) کے لیے مندرجہ ذیل تعویذ گلے میں پہنائیں۔

هُوَ الْاَمْرُ هِیَ عَمَّا تُوِيْدُ شِدَّتْ كِیْ صَوْرَتِ مِیْنِ اِیْكَ تَعْوِیْذِ رُوْزَانِہِ صَبْحِ نِهَارِہِ

یَحَقُّ یَسَاحِقُ یَا قِیُّوْمُ چالیس روز تک پانی میں دھو کر پینیں یا پانی میں دھو کر پینیں یا پانی میں دھو کر پینیں یا پانی میں دھو کر پینیں

۴۱۔ **ہر کام کی کنجی سورہ فاتحہ:** امام دارمی امام بیہقی وغیرہ کی روایت ہے کہ رسول ﷺ نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ ہر مرض کی دوا ہے۔ اس سورہ کام ایک نام "شافیہ" اور ایک نام "سورۃ الشفاء" ہے اس لیے یہ ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ (بضیاوی)

۴۲۔ **روزی کی فراوانی وغیرہ:** سندورامی میں ہے کہ سو مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر جو دعایا مانگی جائے اس کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔

۴۳۔ **مکان سے جن بھاگ جائے:** اگر کسی گھر میں جن ہو اور پریشان کرتا ہو تو سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی اور سورہ جن کی ابتدائی پانچ آیتیں پڑھ کر اور پانی پر دم کر کے مکان کے اطراف و جوانب میں چھڑک دینے کے بعد جن مکان میں سے چلا جائے گا اور انشاء اللہ تعالیٰ پھر نہ آئے گا۔ (فیوض قرآن)

۴۴۔ **شفاء امراض:** بزرگوں نے فرمایا ہے کہ فجر کی سنت اور فرض کے درمیان میں (۴) بار سورہ فاتحہ پڑھ کر مریض پر دم کرنے سے آرام ہو جاتا ہے اور آنکھ کا درد بہت جلد اچھا ہو جاتا ہے اور اگر اتنا پڑھ کر اپنا تھوک آنکھوں میں لگا دیا جائے تو بہت مفید ہے۔ (فیوض قرآنی)

حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مشکل پیش آ جائے۔ تو سورہ فاتحہ اس طرح چالیس مرتبہ پڑھو کہ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کی میم کو الحمد کے لام میں ملاؤ اور الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کو تین بار پڑھو اور ہر مرتبہ آخر میں تین مرتبہ آمین کہو۔ انشاء اللہ تعالیٰ مقصد حاصل ہوگا۔ (فوائد القوائد۔ ص ۷۳)

۴۵۔ **بیماری اور آفتوں کو دفع کرنے کے لیے:** سات دن تک روزانہ گیارہ ہزار مرتبہ صرف اتنا پڑھے اِنَّكَ تَعْبُدُ وَاَنَّكَ تَسْتَعِينُ اول آخر تین تین بار دورد شریف بھی پڑھے۔ بیماریوں اور بلاؤں کو دور کرنے کے لیے بہت ہی مجرب عمل ہے۔ (فیوض قرآنی)

۴۶۔ **سورہ اخلاص کا فائدہ:** یہ سورہ پاک تہائی قرآن کے برابر ہے۔ جو بیمار اپنی بیماری کے زمانے میں اس کو پڑھتا رہے اگر وہ اسی بیماری میں مر گیا تو حدیث کا بیان ہے کہ وہ قبر کے دبوچنے اور قبر کی تنگی کے عذاب سے محفوظ رہے گا۔ اور قیامت کے دن فرشتے اس کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے کر اور اپنے بازوؤں پر بٹھا کر پل صراط پار کرادیں گے اور جنت میں پہنچادیں گے۔

جو شخص اس سورت کو صبح و شام تین تین مرتبہ نیچے لکھی ہوئی دعا کی صورت میں پڑھے گا

انشاء اللہ تعالیٰ اس کی ہر مراد پوری ہوگی۔ پڑھنے کی ترکیب یہ ہے:

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ۝ وَ الصَّلٰوۃُ وَ
 وَ السَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ اٰلِهِ وَ صَحْبِهِ وَسَلَّمَ - قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ
 کَیْسَ کَمِثْلِهِ اَحَدٌ ۝ وَ لَا تَسْلُطُ عَلٰی اَحَدٍ ۝ وَ لَا تُجِوْجِیْ اِلٰی اَحَدٍ ۝
 وَ اَعْنِیْ یٰ رَبِّ عَنْ کُلِّ اَحَدٍ ۝ بِفَضْلِ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۝ اللّٰهُ الصَّمَدُ
 لَمْ یَلِدْ وَ لَمْ یُولَدْ ۝ وَ لَمْ یَکُنْ لَهٗ کُفُوًا اَحَدٌ - اَلِیٰسَ یٰ مَسَّنْ هُوَ
 قَدِیْمٌ دَاۤیْمٌ یٰ اَحٰی یٰ قَیُّوْمٌ یٰ اَوَّلُ یٰ اٰخِرُ اِقْضِ حَاجَتِیْ یٰ اَفْرَدُ یٰ
 صَمَدُ - وَ صَلِّ اللّٰهُ تَعَالٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ اٰلِهِ وَ صَحْبِهِ وَسَلَّمَ

التجائے اخلاص

تَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ

اے میرے پروردگار تو نے حضور ﷺ کے صدقے جو مجھے یہ کتاب لکھنی کی توفیق
 دی ہے اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور پڑھنے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرما کیونکہ تیری توفیق
 کے بغیر کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ عمل اس وقت بارگاہ رب العزت میں قبول ہوتا ہے جب اسے
 حضور ﷺ کے طریقہ پر آیا جائے اس ضرورت کے پیش نظر روزمرہ زندگی کے تمام مسائل کو
 آسان زبان میں مستند کتابوں سے اخذ کر کے اس کتاب میں نہایت ہی خوبصورت انداز میں
 آراستہ کر دیا گیا ہے تاکہ بڑھا لکھا شخص مسائل سے مستفید ہو کر حضور ﷺ کے سنت طریقہ پر
 عمل پیرا ہو سکے کتاب کی تصحیح چھاپنے کی از حد کوشش کی گئی ہے اس کے باوجود اگر قاری کو کوئی
 کمی نظر آئے تو ہمیں مطلع فرمانے یا کوئی کتابت کی غلطی ہو تو ہمیں آگاہ کرے تاکہ آئندہ
 طباعت میں اس کا ازالہ کر دیا جائے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْأَوْفَى مِنَ الْجَنَّةِ

تم میں سے کوئی اس وقت تک مؤمن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ

حَقَّ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ

اپنی اولاد، والدین خود اپنی جان اور تمام لوگوں سے زیادہ

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِحَقِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِحَقِّ النَّبِيِّينَ

مجھ سے محبت نہ رکھتا ہو (حدیث شریف)

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِحَقِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِحَقِّ النَّبِيِّينَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مَلٰجِکَاتُ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

از عینِ نشرِ ترکی

عفو گناہ کر، کہ غفور و رحیم ہے
 فریاد کو ہماری شرف دے قبول کا
 تیرا ہی قرب فشر بشر کی اساس ہے
 وہ معرفت عطا ہو کہ ایماں کہیں جسے
 ہر ہر قدم پر شکر کی توفیق کر عطا
 اے بے نیاز! لائق صد ناز کر ہمیں
 دل میں ہو تو، زبان پر کلمہ رسول کا
 تیرے خزانے میں ہے طلب سے کہیں زیادہ
 تو ہے طیب روح و جسد رب ذوالمینا
 اپنے سوا کسی کا نہ محتاج کر ہمیں
 دل جس سے مضطرب ہیں، وہ کار زبوں ہو بند
 انداز اعتدال پر یہ رات دن رہیں
 مٹ جائیں تفرقے یہ بعید و قریب کے
 بندوں کو اپنے درد و الم سے نجات دے

حقاً! کہ تو لطیف و حلیم و کریم ہے
 یا غافر الذنوب! تصدق رسول کا
 تو ہے نظر سے دوز مگردل کے پاس ہے
 اتنا قریب آ، کہ رگ جاں کہیں جسے
 یا صاحب الکرم! ہے ہی تجھ سے اتجا
 ذوق عبودیت سے سزا فراز کر ہمیں
 جب سانس ٹوٹنے لگے ہستی کے طول کا
 کر بہرہ مند رزق سے اے دازق العباد
 اور ساتھ رزق کے ہو عطا، صحت بدن
 پہنچا سکے نہ رنج، کوئی اہل شرم ہیں
 جنگ و جدال، ظلم و ستم، کشت و خون ہو بند
 امن و سکون کا دور ہو دل مطمئن رہیں
 ہاں! اے کریم، صدقے میں تیرے حبیب کے
 انسان کو شعور غم کائنات دے

نشر کے ساتھ سب کی دعائیں قبول ہوں
 نعمتیں جو مانگ رہے ہیں، حصول ہوں
 آمین

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ

تمہاں کے پاس تمہارا ایک ایسا نمائندہ آیا ہے جو (بظاہر خود) تم (سب) ہی میں سے ہے۔ وہ (تم سے) ایسی

الْفُصْحَاءِ الْعَرَبِيَّاتِ عَلَىٰ سَبِيلِ

شدید محبت کرنے والا ہے کہ تمہاری ہر پریشانی اس پر بھاری ہے (کہ میرے محبوب کو یہ ہرگز ٹوڑا نہیں کہ میری مخلوق راستے

مِنْ صُلْحِ الْبَنِي إِسْرَائِيلَ

سے بھٹک کر (دو رخ کا ایسا من بنے) تم نومسوں کی بھلائی کیلئے دو بڑے فریقوں میں اور بڑے نرم ہلا درمیان میں

الْمَوَدَّةِ الْبَيْنَةِ لِيَسْتَأْذِنَ فَرِيقٌ

مِنَ الْآخَرِينَ لِيُضِلَّ فَرِيقًا مِّنْ

